


منتخب

# لغات عربی



یعنی منتہی الادب فی لغات العرب کا

... قاموس وغیرہ سے ...

منشی ...

... الیاس ... وکرم بخش

چند قابل ... اور علمائے زبان عربی ...

مطبع نول کشور واقع الہ آباد میں

باہتمام منشی روشن لال کے چھپا



۱۸۸۲ء

A

C



بسم اللہ الرحمن الرحیم

## دیباچہ

بعد حمد و نعت کہ باعث برکت ہے مؤلف اس ذخیرۂ لغات عرب کا کہ فی الواقع منتہی الارب
خدمت مین ناظرین باتمکین کے عرض کرتا ہے کہ اس زمانہ مین اگرچہ بوجہ رواج چھاپہ کے ایسی ایسی
کتابین جنکا دستیاب ہونا دشوار تھا اور جنکی کتابت مین صرف زر اور صرف وقت اسقدر تھا
کہ ہر ایک اوسکا متحمل نہین ہو سکتا تھا ایسی آسانی سے اور ایسی ارزان قیمت پر ملسکتی
ہین کہ [illegible] علم کو بہت مشکل اور دقت اونکے بہم پہنچانے مین نہین رہی مگر پھر
بھی زبان عرب کی لغات ہنوز کمیاب اور گران قیمت ہین اس زمانہ مین بجز صراح کے اور
کوئی کتاب ایسی نہین ہے کہ طالب علمون کو سریع الحصول ہو اور وہ اگرچہ نہایت مفید اور
بحسب ضرورت اکثر کارآمد ہے مگر پھر بھی اول تو ایسی مبسوط نہین ہے جیسیکہ قاموس ہے
دوم ہر طالب علم متوسط استعداد والے کو لغات کے مادہ کے دریافت کرنے مین سخت
مجبوری ہوتی ہے اور اس صورت مین اون کے نکالنے مین عاجز ہوتا ہے اور معنی کے معلوم
ہونے سے محروم رہتا ہے یہ وقت نہ صرف صراح مین ہی بلکہ جتنی کتابین مختصر و مطول اسوقت
لغات عرب کی مروج و مستعمل ہین سب مین پائی جاتی ہے اور جبکہ خود عربی کے طالب علمون
کو الفاظ کے نکالنے مین بوجہ نہ معلوم ہونے مادہ کے دشواری ہو تو محض فارسی اور اردو

مخزن مروت مظہر مکارم اتم و مصدر مواہب اعم مدرس مدرسہ فورٹ ولیم جناب
یوسف افضلی دام رشحہ نے ہدایت فرمائی کہ ایک کتاب حاوی لغات عرب کی کتب معتبرہ
مثل قاموس و صحاح اللغات و شمس العلوم و نہایۃ الجزری و مجمع البحار و دیوان الادب
و حیات الحیوان و تاج الاسامی و تاج المصادر بیہقی و مہذب و مزہر و مغرب وغیرہ
سے مستخرج و مستنبط کرکے اس طور پر جمع کیجاوے کہ ہر استعداد کا طالب علم بلاتردد و
درنگ مطالب کو حاصل کرسکے اور جلد اپنی مراد کے معنی کو پہنچ جاوے ناگزیر بموجب اونکے
ارشاد کے اس بڑے کام پر مینے ہمت باندھی بعد ازین صاحب منتہی الارب کہتے ہین کہ کتاب
قاموس جامعیت لغات اور ایجاز عبارت اور کثرت فوائد مین اور کتابون سے اعلی مرتبہ
کی تھی اسلئے اوسیکی طرز پر ترجمہ سلیس فارسی مین کیا گیا اور جو معنی یا مادہ لغت اوسمین
موجود نہ تھا وہ اون دوسری کتابون سے لیکر بڑھا دیا گیا اس بیان سے ظاہر ہے کہ
جو صفات کتاب منتہی الارب کی اوسکی تالیف مین مقصود تھین وہ کل اس ترجمہ مین
جو اب مرتب ہوا موجود ہین اور جن لغات کی وہ کتاب حاوی ہے وہ سب اس مین بھی
داخل ہین اس سب کے سوا ترتیب لغات کی ایسے طور پر کہ کم استعداد والون کو بھی اونکے
نکالنے مین آسانی ہو اور مادہ ہر لغت کا اوسی لغت کے ساتھ معلوم ہو جاوے اور بیان
معانی کا اس ملک والون کو خود اپنی زبان مین ملجاوے اون فوائد پر مستزاد ہے اور جو کہ
الفاظ کی صحت تلفظ کے لئے حرکات و سکنات کا لکھا جانا بھی کتب لغات مین ضرور ہے
اور انکا بیان کتاب کی طوالت کا موجب ہوتا ہے اسلئے اس کتاب مین حرکات و سکنات یعنی
ضمہ و فتحہ و کسرہ و سکون و تشدید و مد کے واسطے صرف اونکا حرف اول لیا گیا مثلاً جس
لفظ کا حرف اول مضموم و حرف ثانی مفتوح و حرف ثالث ساکن ہے اوسکی حرکات کے
ظاہر کرنے کے لئے ضفس لکھا گیا یعنی بضم اول و فتح ثانی و سکون ثالث۔ سوائے دریافت
معنی و مادہ لغات کے اس کتاب سے ایک بڑا فایدہ مولف کی دانست مین یہہ ہے کہ اس
کی سیر کرنے سے زمانہ قدیم کے اہل عرب کے اوضاع و اطوار اور حالات تمدن اور
بود و باش اور کسیقدر کیفیت علوم و فنون کی اور ذکر نباتات و حیوانات وغیرہ

طالبون کو ترجمہ تلاش الفاظ کا کتاب لغات مین بمنزلہ امر محال کے ہے اسی نقص کے
رفع کرنے کے لئے اس مجموعہ مین مادہ کی ترتیب جو اور لغات مین مقدم رکھی گئی ہے
ترک کی گئی اور لغات کی ترتیب حروف تہجی کے حساب سے ملحوظ رکھی گئی تاکہ ہر لغت
ایک جگہ مین اصلی ہو اور حاشیہ پر ہر لغت کا مادہ لکھدیا گیا ہے تاکہ اوس لغت کے
معلوم ہونے سے اوسکا مادہ بھی معلوم ہو جاسکے اور معنی سلیس زبان اردو مین جامع
صحت کے ساتھ بیان کئے گئے ہین یہ پوشیدہ نہ رہے کہ کسی امر کے متکفل ہونے مین
مولف کتاب کو یہ خیال دامنگیر تھا کہ ایک مجموعہ لغات زبان عربی کی آسان طریقہ پر ایسی ترتیب
پائے جو عربی فارسی اور اردو ان سہ زبانون کے طالب علمون کو عربی لغات کے معنی کے
دریافت کرنے مین مفید ہو اگرچہ جس طرح جیسا کہ اوپر کہا گیا اسقدر ہی محتاج کافی ہے لیکن جو اوسی
طالب علم کو لغت کی کتاب مین کسی لفظ کے معنی نہ نکلنے کے وقت ہوتی ہے وہ اوسکا
جی ہی جانتا ہے اور اوس وقت اوس کتاب سے اوسکے دل کو وہ رنجیدگی پیدا ہوتی ہے
جو بیان کی محتاج نہین اسلئے ضرور ہے کہ جہان تک ہو سکے لغت کی کتاب مبسوط اور
مطول ہو لیس مولف نے کتاب منتہی الارب فی لغات العرب کو موافق اپنی مراد کے پایا اسلئے
اوسیکا ترجمہ اختیار کیا مصنف اوس کتاب کی اوسکے دیباچہ سے ظاہر ہوتی ہے جسکا خلاصہ
یہ ہے کہ لغات عرب اللہ جل شانہ کی نادر دولتون مین سے ہے کیونکہ پہچاننا شوارع جہات
کا جس سے سعادت ابدی متعلق ہے اوسیکی مدد سے ممکن ہے اور جاننا حالات گذرے ہونکا
اور دریافت کرنا اونکے اطوار و اوضاع کا اوسیکی معاونت اور معاضدت سے ظہور پذیر ہو سکتا
اس وجہ سے صرف ماہران زبان ہی موجب اشاعت فیض کے ہوئے ہین لیکن جو
خوب دیکھا گیا تو وہ فیض بعض کا بسبب اختصار اور قلت لغات کے وافی نپایا گیا اور بعض کا
بوجہ ایراد دلائل اور اغلاق عبارات اور دقت اشارات کے ہر شخص کے واسطے مفید نہوا
اسلئے (صاحب منتہی الارب فی لغات العرب کہتے ہین کہ) اس عاجز عبدالرحیم بن عبدالکریم
صفی پوری کی خاطر کسیر مین مدت سے یہ گذرتا تھا کہ لغات قاموس کو زبان فارسی مین ترجمہ
کرے مگر قلت بضاعت اور بی استطاعتی مانع اوسکے اقدام کی تھی در ینولا معدن فتوت و

علامات اعراب ضفکستم یعنے ض ضمہ ف فتحہ ک کسرہ س سکون ت تشدید م مد



اَبَا (کفس) اِبَارَہ (کفسف) (ف ض) ایک چیز سے انکار کرنا اور ناخوش ہو کہنا کسی چیز سے انکار کرانا - اور گردن کشی کرنی یہہ جبکہ علی صلہ ہو - آب (مک) ابی (فکت) ابیان (فسفس) کراہیت اور انکار کرنے والا صیغہ نعت ہے - آبون (مضس) اباۃ (ضفس) ابی (مکت) ابی (کت) ابار (کفسم) ابیون (فکتصس) ابیان (کسفس) جمع

اَبَار (ضفسم) کراہت ناخوشی

اَبَارَہ (کفسف) کسیکو کسی کی طرف رجوع کر دینا جبکہ الی صلہ ہو بدلہ مین مار ڈالنا اور دونون کو برابر کر دینا جبکہ ب صلہ ہو - جگہہ دینی اور کسیکو جگہہ مین اوتارنا جبکہ فی صلہ ہو یا کچھ نہو - اوترنا کسی جگہہ اور وہان مقیم ہونا - اونٹون کو اونکے رہنے کی جگہہ پھیر دینا -

اَبَاب (ففس) پانی اور جو چیز کہ پی جاوے -

اَبَاب (ففس) و (کفس) سامان سفر جیسے ہونی اَبَابَہ -

اَبَاب (ضفس) سیل عظیم موج دریا -

اَبَابَۃ (ففسف) و (کفسف) طریقہ چال چلن -

اِبَاتَہ (کفسف) رات گذارنی -

اَبَاتِر (ضفسک) چھوٹے قد کا بے نسل بے فرزند - اپنو لیسے بگاڑنے والا

اَبَاثَۃ (کفسف) بحث و تفتیش کرنی - کوئین کو پاک کرنا - زمین کا کہنا

اَبَاثِی (ضفسف) جیسے اِبل اِبَاثِی سیر شکم اونٹ -

اَبَاحَۃ (کفسف) حلال کر دینا ایک چیز کا - بھید ظاہر کر دینا -

اَبَاخَۃ (کفسف) آگ بجھانی -

اَبَاخِس (ففسک) اونگلیان اونگلیون کی جڑ - پٹھا -

اَبَادَہ (کفسف) ہلاک کرنا -

اَبَار (فسم) آبار (مفس) الوُر (فسض) آبر (مض) بئار (کفس) جمع بئر (کس) بمعنے کوان -

اَبَار (کسفم) کسی کے لیئے کوان بنانا -

اَبَّار (فتسفس) سوئی بنانے والا

عم
عم اب
عم ابت
عم تر
عم بث
عم اث
عم بج
۵
۵ بخ
۵ بخس
۵ بد
۱۳ بار
۵ ابر

...ل عرب میں معروف و مستعمل تھے دریافت ہوتا ہے پوشیدہ نہ رہے
... ترجمہ اور حرکات و مادہ الفاظ کے اس کتاب کی تیاری و طبع میں حتی الوسع
... کوشش کیا گیا ہے اور گو کہ ذی استعداد مولویان کی اصلاح و نظر
سے ... تاہم ناظرین عیب پوش کی خدمت میں عرض ہے کہ اس کتاب
میں غلطی یا سہو و خطا پائی جاسکے تو اوسکی طوالت و ضخامت پر نظر کر کے بلحاظ
... الانسان مرکب من الخطاء والنسیان کے مترجم کو معذور رکھیں اور اپنے الطاف و کرم
... سے ... تصحیح ... فرماویں ... ہیں یہ کتاب بصورت احسن مطبوع ہو۔ فقط

## قطعہ نام و تاریخ اختتام

نام اسکا ہوا ہے فضل ربی ... ربانی
از روی شمار ہے یہی وہ تاریخ بھی اسکے خاتمہ کی

## قطعہ تاریخ طبع

ہو چکا ختم اور ہوا مطبوع ترجمہ منتہی الارب کا عجب
کہی الف نے طبع کی تاریخ کہ ہے مجمع لغات عرب

واللہ المستعان وعلیہ التکلان



علامات اعراب + ضمہ فتحہ کسرہ سکون تشدید مد

لیلۃ ابتۃ (بکف) ابتۃ (بفک / بفسف) نہایت گرم رات۔
ابتۃ الغضب (بفسف) زور غصہ
ابتۃ (بکف) شرمندہ ہونا۔ شرم کے مارے سکڑ جانا اور سر نیچے کرنا۔ رسوائی۔ ننگ و شرم۔
۲ ابتاہ (بکسفس) عاجز کر دینا قافلہ مین پہنچنے سے۔ کاٹنا۔ الگ کرنا۔ طلاق بائنہ دینی۔ عقد شرعی کرنا۔
۳ ابتار (بکسفس) عطا کرنا۔ نہ عطا کرنا لغات اضداد سے ہے۔ نماز چاشت کی پڑھنی جبکہ دھوپ تمام زمین پر پھیل جاوے۔ بے فرزند کر دینا۔ بے علیفہ کر دینا۔
۴ ابتآر (بکسکم) کوان کھودنا۔ آتشدان بنانا۔ ذخیرہ جمع کرنا۔ نیکی جمع کرنی۔
ابتآس (بکسکم) غمگین ہونا۔ کراہیت رکھنی۔
۵ ابتجاج (بکسفس) موٹا اور چکلا ہونا مواشی کا گھاس کے سبب۔
ابتحاث (بکسفس) بحثہ کھیل کھیلنا اور بحثہ ایک کھیل ہے کہ بچے خاک مین کھیلتے ہین۔

ابتجاح (بکسفس) فراغت و آسودگی عیش و وسعت۔
۸ ابتداء (بکسفس) نیا پیدا کرنا بے نمونہ کے۔ شروع کرنا۔
۹ ابتداد (بکسفس) دونون جانب سے پکڑنا
۱۰ ابتدار (بکسفس) آگے بڑہ جانا۔ کسی چیز کے لے لینے کو سرعت کرنی۔ آنکھون کے آنسو نکا جھٹ نکلنا۔
۱۱ ابتداع (بکسفس) نئی بات کرنا۔ بدعتی ہونا۔
۱۲ ابتداہ (بکسفس) فی البدیہ شعر کہنا۔
۱۳ ابتذاذ (بکسفس) اپنا حق لینا۔
۱۴ ابتذال (بکسفس) بمعنی تبذل گھوڑے کا دوڑنا۔
۱۵ ابتر (بفسف) دُم کٹا سانپ۔ بدذات چھوٹی دُم کا۔ ضرب چوتھی بحر متقارب مثمن کی۔ اور دوسری بحر مدید مسدس کی۔ مفلس جو کہ فرزند اور خلیفہ نہ رکھتا ہو۔ زیانکار۔ توشہ دان۔ بے گوشہ کا ڈول۔ گو ر خراور غلام ان دونون کو ابتران کہتے ہین
۱۶ ابتراء (بکسفسم) تیر تراشنا۔
۱۷ ابتراد (بکسفس) ٹھنڈھے پانی

ماده
۷

سوئی بیچنے والا۔ یا سوئی بیچنے والے کو ابری (کسک) کہتے ہین۔

اَبَّار (ففقس) کوئان کھودنے والا۔

اَبَارَہ (کفسف) ہلاک کردینا۔

اِمْرَاۃٌ اَبَاسٌ (ضفس) بدخو عورت اس لفظ کو عورت کی صفت مین بولتے ہین۔

اِبْتِئَاس (کسم) سختی مین پڑجانا۔

اَبَاشَۃٌ (ضفسف) مختلف اقوام کا گروہ۔

اَبَاض (کفس) ایک رسی جس سے اونٹ کے بند دست کو اوسکے بازو سے باندھتے ہین تاکہ زمین سے بلند رہے۔ اُبُض (ضض) جمع۔ بانولن مین ایک رگ ہے۔

اَبَاط (کفس) بغل کہتے ہین جعلتہ اباطی یعنے مین نے اوسے بغل کے متصل کرلیا۔

اَبَاطِیل (ففکس) جمع باطل کی۔

اَبَاعَۃ (کفسف) ایک چیز کو بیع کے لیے پیش کرنا۔

اَبَّال (ففس) اونٹ چرانے والا۔ مالک شتر۔

اِبَالَۃ (کفسف) سوکھی لکڑی کا بڑا اشتارہ۔

اَبَالَۃ (کفسف) پیشاب کروانا۔

اَبَالَۃ (کتفسف) اِبَالَۃ (کفسف) اِبِّیل (کتکس) اِبَّوْل (کتفس) اِیبَال (کسفس) پرندون اور گھوڑون اور اونٹون کا ایک گروہ۔ پرندہ وغیرہ پے درپے آنے والے۔ اَبَابِیل (ففکس) جمع ابل۔ اَبَابِیل گروہ درگروہ اونٹ۔

اَبَانُ الشَّیٔ (کتفس ضتضس) ایک چیز کا وقت یا اوسکا شروع۔

اَبَانَۃ (ففسف) یار۔ دوست۔ ملاقاتی۔

اِبَانَۃ (کفسف) جدا کرنا۔

اَبَانَ (ففسف) ظاہر کیا۔ ظاہر ہوا لازم متعدی دونون آتا ہے۔

وَاَبَانَ بِنْتَہٗ بیٹی کا بیاہ کردیا۔

اَبَاوَۃ (کفسف) اُبُوَّۃ (ضفس) (ان) کسی کا باپ ہوجانا یعنے کسی کے ساتھ باپون کا سا کام بجالانا اور بولتے ہین مالہٗ ابٌ یا اَبُوٌّ یعنے اوسکا کوئی باپ نہین کہ اوسکی سرپرستی کرے۔

اَبْت (فس) اُبُوْت (ضضس) (س ن ض) دن کا سخت گرم ہونا ابھر جانا۔

یَوْمٌ اَبِتٌ (فک) اَبْت (فس) اَبِتٌ (فکف) نہایت گرم دن۔

[illegible]

ابتغوان [illegible] اچھے [illegible]
ابتغا [illegible]
[illegible] کرنی
[illegible]
ابتہال [illegible] عاجزی کرنا [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ابتلا [illegible]
حضرت [illegible] کرنی [illegible]
[illegible]
[illegible]
ابتزاز [illegible]
ابتلاع [illegible] نگل جانا
[illegible]
ابتلال [illegible]
کا اچھا ہونا - بعد لاغری اور [illegible]
اچھا ہو جانا -
ابتناء [illegible] گھر بنانا - بنی [illegible]
میں لانا -
ابتئاس [illegible] افسوس ہونا -
ابتہاج [illegible] خوش ہونا -

ابتدا [illegible] اچھا دعوی کرنا
[illegible]
[illegible]
اور [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
کسی عورت کے [illegible] جاتا
[illegible] اور اس کی [illegible]
[illegible]
ابتہاش [illegible]
[illegible] کرنا
ابتہال [illegible]
ابتیاث [illegible] کرنی
ابتداع [illegible]
ابتیار [illegible] کرنا -
[illegible]
سو سمجھنا تا کہ معلوم کرے کیا ہے
جا ملے یا نہیں -
ابتیار [illegible]
ظاہر کرنی [illegible]

[illegible]

[illegible] اعراب مستعمل یعنی ض ضمہ ف فتحہ ک کسرہ س سکون شت تشدید م

[illegible] ٹھنڈھا پانی پینا۔
ابتزال (کسکفس) یاروں سے جدا
ہونا [illegible] ٹکڑا ہونا۔
ابتزاض (کسکفس) چشمہ سے پانی برسنا
ابتزاک (کسکفس) خوب دوڑنا
صیقل کرنا صیقلہ کی طرف۔
نازل ہونا۔ بہت برسنا پے درپے برسنا
عیب لگانا۔ گالی دینا۔ زانو پر بیٹھنا
جنگ میں۔ سینہ کے نیچے لینا کسیکو
ابتزاز (کسکفس) اوچک لیجانا
ظلم سے لینا۔
ابتزال (کسکفس) کھل جانا
برتن میں سوراخ کرکے چیز نکالنی۔
ابتزام (کسکفس) سبقت کرنی۔
ابتسار (کسکفس) نر دینا کھجور
کے درخت کو وقت سے پہلے
جفتی کرنی اونٹ کی بدون خواہش
اونٹنی کے پیش از وقت حاجت
چاہنی۔ تازی چیز لینا۔ پانون
سو جانا۔ رنگ متغیر ہو جانا۔
شروع کرنا ایک چیز کا اس معنی
میں مجہولاً مستعمل ہوتا ہے۔
ابتسال (کسکفس) جادو کی اجرت لینی

ابتسام (کسکفس) مسکرانا۔ کھلنا
ابتشاک (کسکفس) گٹھا ہوا ہونا
بیحرمتی کرنی۔ دروغ بندی کرنی۔
ابتصاص (کسکفس) جیسے ابتصصت
نفسی لہ اپنے تئیں قاصر سمجھا میں
اور بندہی چاہی اوس سے۔
ابتضاع (کسکفس) ظاہر ہونا۔
ابتطان (کسکفس) اچھی طرح سے بچہ لینا
ابتع (فسفس) قوی و سخت مفاصل
رسغ ابتع پہونچے طیار۔ ابتعون بفضفس
جمع اور یہہ تاکید کے واسطے بھی آتا
ہے۔ اور بتعاء (فسفس) مونث ہے۔
اَجْمَعُوْنَ اَکْتَعُوْنَ اَلْصَعُوْنَ اَبْتَعُوْنَ جمع
اور یہہ سب کے سب جو اجمعون
کے بعد مذکور ہیں بدون ذکر اجمعون
کے مذکور نہیں ہوتے وجاءت النساء
کُلُّهُنَّ جُمَعُ کُتَعُ بُصَعُ بُتَعُ اور
ایسا ہی جاءت القبیلة کلھا جمعاء
کتعاء بصعاء بتعاء۔
ابتعاث (کسکفس) برانگیختہ کرنا
پہنچانا۔ جگانا۔
ابتعاق (کسکفس) ناگاہ بات
کرنے لگنا۔ بادل کا زور سے مینہ برسانا

کہ لازمی پانا

انجاز (فتح) ... جمع ... بتی

انجار (فتح) ... ایک قسم کا ...

انجار (کسر) پورا کر دینا -

انجاق (کسر) آنکھیں ... نکالنا

آنکھ کے ڈھیلے کا نکل پڑنا

انجال (کسر) ... پانا -

انجبل (فتح) وہ میوہ کہ جس کے

بیچ میں گوشت کا ...

انجبی (فتح) کانا - ایک ...

انجبان (کسر) ہو جانا ...

...

...

انجناد (کسر) ... اور ...

... کا ... کا بالا لڑکے کا -

انجیان (کسر) ... جانا ...

... کے لئے ... چلنا -

ابجد (فتح) ... آباد (فتح)

الوود (فتح) ... جمع - ...

ایک برس کا بچہ - ابجد ...

ابجد (فتح) ... ابد (فتح) ...

ابد (فتح) ... غصہ کرنا اور نفرت کرنی

ابد ... لغت ہے -

ابد (ضم) الوود (فتح) ہمیشہ ... نفرت

کرنی - ہمیشہ رہنے والا ہونا - ...

...

ابدا (فتح) جس کے دونوں ہاتھ آپس میں دور

ہوں - جیسا ہے گھوڑا جس کے دونوں

ہاتھوں کے بیچ میں دوری ہو

اور جس کے اعضا اور دونوں

ہاتھ آپس میں دور ہوں -

... ہمیشہ

... لونڈی اور

لڑکی بہت جننے والی -

... کبھی ... ہوئی

...

...

...

... و ...

دشمن) و ... 

بچے ہیں اور ... کے پاس ...

... کا -

... جمع ...

...

ابداء (کسر) ظاہر کرنا - گفتگو

[illegible]

انجرار (ک س) کھینچ کر ... [illegible]

[illegible]

انجاح (ک س) ... [illegible]

... کا جاری ... [illegible]

... (ک س) ... [illegible]

انجیر (فتحہ) ... [illegible]

... (فتحہ) ... [illegible]

انجال (ک س) ... [illegible]

انجار (ک س) ... [illegible]

[illegible]

کشتی کی ... [illegible]

انجذاب (ک س) ... [illegible]

... [illegible]

بیماری ... [illegible]

... [illegible]

انجماد (ک س) منقطع ہوجانا

انجاح (ک س) چھوڑ کر کسی کا آواز کو جاری کردینا۔

انجمار (ک س) دریا کا جمع کرنا ... ہوجانا

وار اداوہ جیسے ... اس ... [illegible]

بہت ... ناک والا ... [illegible]

بہت ... [illegible]

کنارے ہوجانا پانی کا۔ کسی چیز کو

[illegible]

ابرانا [illegible]

ابرانا (مصدر) [illegible]

ابرانا ( ؟ ) [illegible] اوس کا سا [illegible]

کے [illegible] دہین

ابھرانا ( ؟ ) [illegible]

[illegible] جلدی [illegible]

ابرار ( ؟ ) [illegible]

[illegible]

[illegible]

ابر [illegible] جنگل [illegible]

[illegible]

[illegible]

جنگل میں [illegible]

ابرار ( ؟ ) ابار [illegible]

[illegible] کرنی ۔ [illegible]

[illegible] درخت کو

[illegible] کہ [illegible] درخت

[illegible] کو چیر کر [illegible] درخت [illegible]

[illegible] کہتے ہیں [illegible]

[illegible] ہیں ۔

[illegible] ابار ( ؟ ) [illegible]

[illegible] ابار لینے [illegible]

ابر [illegible] (مصدر) [illegible] کا نک

ابرانا [illegible] قدم کو [illegible] کر دینا ۔

ابرانا ( ؟ ) [illegible] کر دینا [illegible]

[illegible] کر دینا [illegible]

[illegible] ہونا ۔

ابرانا ( ؟ ) [illegible]

[illegible]

ابرانا ( ؟ ) [illegible]

[illegible]

ابران ( ؟ ) [illegible] بن جانا ۔

ابراج ( ؟ ) [illegible]

[illegible] کرنی ۔

ابراد ( ؟ ) [illegible]

[illegible] قاصد بنانا ۔

[illegible] پانی پلانا ۔ [illegible] وقت آنا ۔

[illegible] میں کام کرنا ۔

ابرار ( ؟ ) [illegible] کرنا ۔ [illegible]

جنگل میں [illegible] بہت

ہونا ۔ غالب آنا [illegible]

ابرار ( ؟ ) [illegible]

[illegible]

ابرار ( ؟ ) [illegible]

[illegible]

[illegible]

ابدال [illegible]

[illegible] کا اصل ہو جاتا

[illegible] کہاں نہیں ہونے پائے گے۔

ابرنج ... [illegible] ... پودہ ہے جس
بنایا ابرنج ... سیاہ بیج نیز ادویہ ...
ابرنجشاسن ... غش ... ایک ...
رہا ہوا۔
ابرق ... ایک قسم ... وہ خاک ... ہو
سہ ... سے نکلے ... اس کے ...
ما ... ابارق جمع — دھنک کی ...
ابرکہ ... ایک ... ہے
ابرو ... ایک ... ہو
... ہے گوہ ...
ابرص ... ایک سیاہ ... ایک
[illegible]
ابرنتاز ... [illegible] ... ہونا۔
ابرنداع ... آمادہ ہونا۔
ابرنشاق ... خوش ہونا
شگفتہ ہونا درخت کا کھل جانا پھول کا

ابرنجتی ... تنہائی ...
ابریز ... خالص سونا ابریزی
سنہری چیز
ابریسم ... ابریشم
ابریق ... چھاگل ... ہے ...

ابارید جمع ... بہت ... کمان
ابلہ ... عورت با جمال چمکدار بدن
ابرلال ... مرغ ... کی گردن
کے پروں کو پھلانا وقت لڑائی کے
ابرزہ ... الوذ ... ابرزی
... اس کا ... جوہری ... ہو
سیدہ ... اور بعض کے ... ہو
ابرزی اسم مصغر ... ابرزہ — ابازہ — ابوزہ
... پہنان ... کے ... ہونا
... پھوٹنا — ناگہاں ... اپنے
... سے دعا کرنی۔
ابرنہار ... بکرنا ... کرنا۔
... دودھ دینا۔
ابراق ... دودھ اور تازہ نا
... کا۔
ابرام ... دینا — ... جمیع
ابرنج ... مصغر ...
... وہ ... کے سبب ... سے نکلے
... کے ... گرا پڑا ہو
ابرن ... وہ
... کہ ... غسل کریں ...
... اور کبھی تانبے کا بھی
ہوتا ہے۔

ب ر ج
ب ر ج
ب ر ق
ب ر ح
ب ر ح
ب ر د
ب ر ز
ب ر ز
ب ر ص
15
ب ر ق
ب ر م
ب ر ن
ب ر ن
ب ر ن

[illegible]

ابراہ (سعفنی) دلیل وفی [illegible]
[illegible] غالب ہوا اور [illegible]
ابراہیم (سعفنی) ایک پیغمبر جی ہے
خلیل اللہ علیہ السلام کا - ابرانجم (سعفنی)
ابراہیم (سعفنی) ابراہیم [illegible]
ابرہام (سعفنی) [illegible] ابرہیہ
(سعفنی) [illegible] ابرہیم (سعفنی)
[illegible] ہے -
ابرانجمی (سعفنی) ایک ستارہ کا نام
ابجرہ (صفت) [illegible] - ابراکم
ابارہ (سعفنی) [illegible] کی پیچھے [illegible]
ہاتھ کے [illegible] ایک [illegible] سیاہی [illegible]

[illegible]
ابروان (صفت) [illegible]
اجلا [illegible] کا سا ہے
ابروہ (سعفت) ایک بیماری
صفت با کہ برودت و رطوبت
کے غلبہ سے پیدا ہوتی ہے
ابرشش (صفت) چند برس
ملک بادشاہ کا لقب کہ [illegible]
تھا اگرچہ ابرص کہنے سے [illegible]
ابرشن کہنے لگے - [illegible]
رنگ برنگ کی جگہ [illegible] نقطہ
ابرشاس (سعفنی)
[illegible] کا نقطہ دار ہونا [illegible]
اپنے رنگ کے -
ابرص (صفت) [illegible]

[illegible]

[illegible]

ستے آتا زمین کا - [illegible]

[illegible]

کے پوست کو ادھیڑنا [illegible]

البَاضِعُ [illegible]

[illegible]

عورتیں خوبصورت زیادہ ہے [illegible]

ہوتا ہے -

البَضُّ [illegible]

[illegible]

البَصَرُ (نصر) آنکھ سے دیکھنا -

دل سے دیکھنا - خیال کرنا سمجھ آنا

البَصَاصُ [illegible] آنکھ - [illegible]

[illegible] پہلے آنکھ کھولنا -

البَصَّاصُ [illegible]

البَضُّ (ض) [illegible] حصہ جمع

کو [illegible]

البَاطِنُ [illegible]

آدمی کے زانو کا باطن - اونٹ

[illegible] باطن

البَضُّ (ضرب) رہا کرنا - ادا کرنا

[illegible] اونٹ کے بند دست

[illegible] سے بازو سے باندھ دینا تاکہ

نہ [illegible] (ن س) [illegible]

[illegible] کا منہ بند ہونا -

الضَّاضُ (کسف) [illegible]

البَضَاعُ (کسف) سیاہ کر دینا -

[illegible] عت بنانا - [illegible]

[illegible] شافی دینا - بیان

[illegible] کرنا - واضح کرنا کلام کو -

الضَّخُّ (کسف) گلا - جھیر [illegible]

الغَطْرُ (نص، دن) بچے پیدا ہونا

[illegible] (کس) القود رنگ کا منقطع

[illegible] ہو گیا ہو - بغل اس معنی

میں [illegible] آتا ہے -

[illegible]

البَطْءُ (کسمع) [illegible]

[illegible] آہستہ چلنے والے چوپایوں کا

[illegible]

17

[illegible]

الشمس (ر ۔ ن) [illegible]

[illegible]

[illegible] ۔ کسی کے [illegible]

[illegible] خیر خواہ [illegible]

[illegible] عذر کرنا [illegible]

التشمس (ر ۔ ن) ۔ اصل [illegible]

البناء (ر ۔ ن) ۔ اور سن دینا

پیچھے ۔ دوسرے کو لگانا ۔

البحار (ر ۔ ن) [illegible]

[illegible]

سے پہلے جانا ۔ [illegible]

[illegible] کشتی [illegible]

[illegible] ۔ زمین [illegible]

المجاس (ر ۔ ن) ۔ [illegible]

[illegible] کی طرف بلانا ۔ [illegible]

[illegible]

البناء الحسن [illegible]

[illegible]

اس [illegible] ہوتے ہیں [illegible]

[illegible]

[illegible] ہیں [illegible]

التشتت ۔ التشاکر [illegible]

التعانق (ر ۔ ن) ۔ [illegible]

سے پہلے اور شتی کے بنجوں [illegible]

دورہ اور آنا ۔

الشمال (ر ۔ ن) ۔ [illegible]

کو بکانا اور [illegible] کرنا ۔ [illegible]

پوری کرنا ۔ کسی چیز کا علم کر [illegible]

[illegible] کے لئے سوچنا ۔ [illegible]

دل رکھنا ۔

الشبان (ر ۔ ن) ۔ خوش خوش ہونا

الشش (ر ۔ ن) ۔ [illegible]

[illegible] (ر ۔ ن) ۔ [illegible]

[illegible] کے [illegible]

البائس (ش) [illegible]

[illegible]

البائس [illegible]

البائس [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

البقاء (مص) زندہ رہنا باقی چھوڑنا

رعایت کرنی - رحمت کرنی [illegible]

البقاق (ص) بہت بکواس [illegible]

[illegible]

[illegible]

البقال (ص) [illegible]

[illegible] گھاس کو جمع کرنا -

[illegible]

[illegible] دھوپ میں سکھاوے [illegible]

کام میں سستی کرنے - [illegible]

[illegible]

صبح کے وقت [illegible] آگے بڑھنا -

صبح کے وقت پانی پر [illegible]

ہونا صبح کا وقت -

[illegible]

پانچ چھ برس کا -

[illegible] گونگا

[illegible]

صبح ہونے کا اثر

[illegible]

[illegible]

[illegible] کا -

[illegible]

العاطل (ص) بیکار [illegible]

[illegible] چھوڑ دینا -

العالم (ص) [illegible]

چوپایہ [illegible] - سیکھ جانا [illegible]

بنا لینا - [illegible]

الطرف (ص) [illegible]

الطرش (ص) [illegible]

الطاہر (ص) [illegible]

یعنی باطل -

الطاط (ص) [illegible]

الطلر (ص) [illegible]

[illegible]

بھرنے کے لئے [illegible]

[illegible] کلام [illegible]

کمی باقی نہیں - طاقت [illegible]

گھٹ جانا -

العجلہ (ص) [illegible]

یگانہ - [illegible]

العجزۃ (ص) [illegible]

[illegible]

الغالب (ص) [illegible]

[illegible]

مادہ

ظاہر و کشادہ کرنا۔

اَبْلاح (کسفس) بہکا دینا۔

اَبْلاد (کسفس) کسیکو کسی کے ساتھہ چپٹا دینا اور اُسکے ساتھہ ملازم کر دینا۔ سمجھے جانور کا ہلاک ہونا۔ زمین پر چمٹ جانا۔

اَبْلاس (کسفس) اونٹنی کا آواز نکرنا بسبب نہایت شوق کے۔ نا امید ہونا رحمت خدا سے اِسی سے ہی ابلیس علیہ اللعنت متحیر اور غمگین اور شکستہ خاطر ہونا۔

اَبْلاط (کسفس) کسی شخص کا بعض فلاج ہونا کہ کچھہ پاس ہو رہے زمین کو پہنچ جانا یعنی کا محتاج اور نے مال ہو لیکن یہ لفظ مجہولاً مستعمل ہے صاف چرا کر لیجانا چور کا سارے مال کو۔ کسی پر سوال میں گڑگڑانا یہانتک کہ آزردہ ہو جاوے۔

اَبْلاع (کسفس) نگلوا دینا عرب میں بولتے ہیں ابلعنی ریقی یعنی مجکو اتنی فرصت دے کہ تھوک نگلوں۔

اَبْلاغ (کسفس) پہنچا دینا۔

اَبْلاق (کسفس) ابلق ہونا۔ دروازے کو تمام کھول دینا۔ دروازے کو بند کر دینا۔ لغات اضداد سے ہے۔ ابلق بچہ نکالنا۔

اَبْلال (کسفس) چھٹکا را پانا سیر و سفر کرنا۔ سنگ ہونا۔ عاجز ہونا فساد و بدی سے۔ میوہ لانا درخت کا۔ شفا پانا مریض کا۔ بھاگ جانا اور گم ہونا۔ تر ہونا۔ چپکنا۔ غالب ہونا۔

اَبْلام (کسفس) نر کے شوق میں اونٹنی کی فرج کا سوج جانا۔ چپ ہونا منھہ کا سوج جانا کسی پر کام کرنے کی ہمت نہ ہو۔

اَبْلان (کسفس) اونٹوں سے اگر ہوجیسا کہ غمان نکر کو کھڑے ور یوڑ۔

اَبْلاہ (کسفس) کسی کو احمق بنانا۔

اَبْلَۃ (کگتف) قبیلہ۔

اُبْلَۃ (ضسف) آفت۔

اِبْلَۃ (کسف) دشمنی۔

اَبْلَۃ (زفکف) کثیر الاولاد یعنی برکت اولاد میں۔ حاجت مطلوب۔

اُبُلَّۃ (ضضت) خرما جسے دو پتھر کے درمیان میں رکھکر توڑیں اور دودھ پر چھڑکیں وہ ہوئیں خرما کا ایک ٹکڑا۔

اَبْلَج (فسف) روشن و آشکارا

بلج
بلح
بلد
بلس
بلط
بلع
بلغ
بلق
بلل
بلم
بلن
بلہ
بل
بلج

۲۱

[illegible]

[illegible] ثابت رہنا [illegible]

خشک ہو [illegible]

ابل (ع س) ۱۱ آبار (ع ف) [illegible]

لکڑی کے کام میں ہونا اور باہر ہونا

ابل (ع س) ۱۱ اگول (ع ف) مویشیوں

وغیرہ کا تر گھاس کھانے کے سبب

پانی سے بے پرواہ ہونا ۔ [illegible]

ابال (ع ف) جہ پانی بغیر [illegible]

چراگاہ میں جانوروں کا چھوڑ جانا یا ہرن کا

غائب ہو جانا اور [illegible] وحشت و نفرت

کرنا اور [illegible] سے ہی

[illegible] ہے ۔

ابل (ع س) اکمل (ع ف) [illegible]

چراگاہ پر چھوڑے ہونے کے [illegible]

[illegible]

[illegible] ظاہر کرنا [illegible]

ابلالہ (ع ف) [illegible]

نفرت دینی ۔ [illegible]

آنکے ظاہر کرنا اور [illegible]

اور اسکو قبول کرنا [illegible]

ہونی ۔ قسم کہانی [illegible]

کسی شے کی ۔ التفات [illegible]

اور کسی بات کی [illegible]

ہو جاوے ۔

ابلات (ع ص) قسم [illegible]

ابلاغ (ع ف) [illegible] پہنچانا

ابن البش ہونس و دوست —
ابن آوی گیدڑ —
ابن بجدۃ حقیقت کار کا دانا رہبر — وہ جو اپنی بات سے نہ پھرے —
ابن البراء مہینے کی پہلی رات یا پہلا دن یا مہینے کا پہلا دن یا پچھلی رات —
ابن برح بلا اور سختی تکلیف بنو برح (فقس فقس) جمع —
ابن بریح کوا —
ابن بغنط ایک چیز کا ماہر جاننے والا
ابن بقیع کتا —
ابن بلقصی ایک جانور ہے
ابن بیان مرد کمینہ یا جی —
ابن تربی فاجرہ کا بچہ
ابن احذار مرد ہوشیار و باپرہیز
ابن الحرب جنگی مرد —
ابن دأثاء احمق —
ابن دائیۃ کوا اس لیے کہ جمی پیٹھ کے اونٹ پر بیٹھکر چونچ مارتا ہے —
ابن مدینۃ دانا عقلمند —
ابن زوبکۃ دانا و ماہر — ایک لونڈی بچہ —

ابن السبیل مسافر یا جو کہ بسبب مرجانے یا بیمار ہوجانے یا تھک جانے چوپایہ کے رستے میں رہگیا ہو —
ابن الضلۃ حرامی —
ابن قترۃ ایک بڑا خبیث زہریلا چھوٹا سانپ ہے —
ابن وقوال فصیح مرد خوب بات کرنے والا — مقرر —
ابن الارض ایک قسم کا ساگ ہے —
ابن الکسیب حرام کا جنا —
ابن اللبون دو برس کا اونٹ کا بچہ جو تیسرے سال میں داخل ہو گیا ہو
ابن مخاض اونٹ کا بچہ کہ جسکی ماں نے اور جفتی پائی ہو — یا اونٹ کا بچہ جو دوسرے سال میں لگا ہو یا اونٹ کا بچہ جسکی ماں حاملہ ہو گئی ہو —
ابن مدینۃ وہ شخص جو حقیقت کار کا دانا ہو دلیل و ہادی
ابن نفی جسکو اُسکے باپ نے گھر سے نکال دیا ہو —
ابن نقیلۃ ایک جگہ سے نقل کیے ہوئے یعنی دوسری جگہ مسافر غریب
ابن ھرمۃ

مادہ
ربن
بجد
برء
برح
بغنط
بقع
بقص
بین
ترب
حرب
۲۳
۱۱ عذر
۱۲ حرب
۱۳ داثر
۱۴ دای
۱۵ مدن
۱۶ زبل
۱۷ سبل
۱۸ نقل
۱۹ فقر
۲۰ قول
۲۱ ارض

| ماده | |
|---|---|
| بلج، بلد، بلغ، بلق، بلم، بلس، بلی، بلعم، بلقع | |
| ۲۲ | |
| بجج، بجب، بجد، بجیج، بجس، بجق، بجج، بجن، بجرب | |

اَبلَج عرد کشادہ ابرو
اَبلَج (رفسف) بزرگ غش ـ
اَبلَد (رفسف) احمق بتیاد ـ کشادہ ابرو
اَبلَغ (رفسف) کلام یا مبالغہ بتانا کہ اَبلَغ بولتے ہین ـ
اَبلَق (رفسف) نرداخدار اسی سے ہی مثلت الاَبلَق العَقُوق یعنے طلب محال کیا اس لیے کہ عقوق حاملہ ...
اِبلاق (کسفس) خوب ابلق ـ
اَبلَم (رفسف) مرد جسکا ہونٹھ بڑا ہو ساگ کہ گٹھلیاں اسمین ہوتی ہین باقلا کی مانند ـ
اَبلَم (کسک و منسص و فستع) مقل کا پتا یعنے گوگل کا ـ
اِبلِنداح (کسکسفس) کشادہ ہونا مکان کا منہدم ہوجانا شکستہ ہوجانا حوض کا ویران ہوجانا روئیدگی کا ـ
اِبلِنداک (کسکسفس) وسیع اور فراخ ہونا ـ زمین برابر ہوجانا حوض کا ـ
اِبلِنصاء (کسفسم) جانا ننگا ہوجانا
اِبلِنقاع (کسفس) دور ہونا ـ روشن ہونا
اَبلُوج السُّکَّر قند سپید ـ
اِبلَولاء (کسفنسم) گھاس کا

لینا ہونا کہ اونٹ اُسے چر سکے ـ
اَبلَه (رفسف) مرد نادان سلیم دل ـ نیک بخت نے شرسا احمق بے تمیز ـ خوش خوے یا بیک امورات کو حق سمجھنے والا محض بے شر مرد ـ ابله (رضنف) جمع ـ
اِبلِیجاج (کسکسفس) کھلا ہوا ظاہر ہونا
اِبلِیس (کسکس) شیطان ـ
اِبلِیقاق (کسکسفس) بمعنے اِبلِقاق ـ روشن و ممتاز ہونا ـ
اِبلِیلاج (کسکسفس) اچھی طرح سے ظاہر ہونا ـ
اَبلِیم (کسکس) عنبر ـ شہد ـ
اَبَن (فس) طعام خشک ـ خون کا زخم مین سیاہ ہونا ـ
اَبَن (فک) طعام اور گاڑھی شراب ـ
اَبَن (فض) (ضن) کسی کو کسی چیز کے ساتھ متہم کرنا ـ بدی کے ساتھ یاد کیا جانا مجہولاً مستعمل ہوتا ہے اور صلہ ب ہی منہ پر برا کہنا ـ
اِبن (کس) بیٹا ـ
اِبنُ اللَّبُوح فرزند ـ
اِبنُ الجَلی وہ شخص کہ جسکا نام ظاہر اور کھلا ہو ـ

ابو جُنَیب بکری کا بچہ مُنڈا ہوا۔

ابو حُدَیج ایک جانور ہے جسے فارسی میں لکلک کہتے ہیں۔

ابو حَذَر گرگٹ جو آفتاب کو پوجتا ہے۔

ابو الحارِث شیر۔

ابو الحُصَین و ابو الحُصَین لومڑی۔

ابو اِدرِیس ذکر کی کنیت ہے۔

ابو اِدراس عورت کی فرج کی کنیت ہے۔

ابو اِدراص احمق۔

ابو مُدلِج کچھوا۔

ابو رِعلَۃ بھیڑیا۔

ابو سلمان ایک کیڑے کی کنیت ہے جو گوہ کی گولیاں بناکر لڑھکا لیجاتا ہے۔

ابو سلمیٰ گرگٹ کی کنیت ہے۔

ابو ساسان شاہ کسریٰ کی کنیت ہے۔

ابو صُبَیرہ ایک سرخ پیٹ کالی پیٹھ اور سر اور دُم کا پرند جانور ہے۔

ابو عوف ٹڈا۔

ابو عُمَیرہ ذکر۔

ابو العَیذار اس ذکر کی کنیت ہے۔

ابو عِسلَۃ بھیڑیا۔

ابو فِراس شیر کی کنیت ہے۔

ابو کاسِب بھیڑیا۔

ابو کَلدَۃ نر بجو کی کنیت ہے۔

ابو لَبِد (نک) شیر۔

ابو اللُّبَین ذکر۔

ابو اللُّبَینیٰ شیطان۔

ابو لاحِق باز۔

ابو مُعطِۃ بھیڑیا۔

ابو مُؤنِس شمع۔

ابو الوَرد مرد کا ذکر۔

ابو هُبَیرۃ نر مینڈک۔

ابو هُنبَر نر کفتار یعنی بجو نر۔

اَبوب (نفس) (ن) ہوا کا چلنا۔

ابوبۃ (نسکف) ابواب اور ابوب جمع باب بمعنی دروازہ۔

ابوذ (نفس) (ض) مکان میں اقامت کرنی اور صلہ ب سے شاعر کا مشکل شعر کہنا کہ جسکے معنی سمجھے نجاویں

ابور (نفس) صبر کرنے والا۔

ابواع (نسفس) بکری کا علم ہے یہہ ایک کلمہ ہے جس سے بکری کو دوہنے کے لیئے بلاتے ہیں اور جمع بوع (نفس) کی۔

ابواق (نسفس) جمع بوق از صفحی

مادہ

1 جنب
2 حدج
3 حذر
4 حرث
5 حصن
6 درس
7 درص
8 دلج
9 رعل
10 سلم

25

11 سوس
12 صبر
13 عوف
14 عمر
15 عیذ
16 عسل
17 فرس
18 کسب
19 کلد
20 لبد
21 لبن

| مادہ | | |
|---|---|---|
| ب ن ی<br>ب ن ج<br>ب ن ش<br>ب ن ع<br>ب ن ق<br>ب ن و<br>فصل دوم ۲۲<br>ب و ب<br>ب و ج<br>ب و ر<br>ب و ع<br>ب و ل<br>ب و ص | پوشیدہ لومڑی کا پچھلا بچہ —<br>اَبناء (کسفس) جمع ابن۔ ابینا (ضفسف) الابنین (ضفسفس) تصغیر<br>اَبناء الدّہالیز جو لوگ کہ راستے میں سے اوٹھا دئے گئے ہا دین۔<br>ابناء (کسفسم) بنا کا بخشنا یا ساماں دینا کہ جس سے گھر بنا دین —<br>اَبناج (کسفس) لے ہیئے تئین خاندان بزرگ کیطرف نسبت دینی —<br>ابناش (کسفس) بدی سے بھاگنا<br>اَبناعَیان دو پرندے ہین یا وہ خط جو قیافہ شناس زمین پر کھینچے —<br>اَبناق (کسفس) خشت کا پیوند لگانا<br>۸ اَبنان (کسفس) جگہ مین مقیم ہونا<br>اِبنۃ القعدی و ابنۃ قومی کنایہ ہی لونڈی سے —<br>۱۰ اِبنۃ اللّبون منوث ابن اللّبون<br>۱۱ اِبنۃ الجبل سانپ۔ بلا —<br>۱۲ اِبنۃ مَعیر بلا۔ سختی —<br>۱۳ اِبنۃ (کسف) بیٹی۔ بنات (فض جمع)<br>اُبنۃ (ضفسف) لکڑی کی گرہ۔ مضبوط عقل کا مرد۔ حلقوم شتر کا سرا۔ کینہ و دشمنی۔ عیب۔ ابن (ضفف) جمع اُبَد | ایک بیماری ہی جسسے علت مشائخ بھی کہتے ہین کہ وہ کون مین خارش ہوتی ہی اور جبتک کسی مرد سے امر قبیح نکرائے تسکین نہین ہوتی —<br>اِبنم (کسف) بیٹا۔ اسمین میم زائد ہی<br>اَبُو (ضش) اَبُوۃ (ضفتق) ہوای (کسفسم) باپ پن۔ اسم مصدر ہی<br>اَبُو اَیُّوب اونٹ کی کنیت ہی<br>اَبُو بَراَقِل مرغ کی کنیت ہی<br>اَبُو بَراَقِش ایک جنگلی جانور ہی چھوٹا سا کہ اوپر کے پر اسکے سفید اور نیچے کے پر سیاہ اور بیچ کے سرخ ہوتے ہین جب اوڑتا ہے تو رنگ رنگ کا ظاہر ہوتا ہی —<br>۸ اَبُو البَشر حضرت آدم کی کنیت ہے<br>۹ اَبُو المَثوی مہانداری کرنیوالا —<br>۱۰ اَبُو جَامِع دسترخوان —<br>۱۱ اَبُو جُخَاد ٹڈی —<br>۱۲ اَبُو جُعَادَۃ و اَبُو جَعدَۃ بھیڑیا<br>۱۳ اَبُو جُعرَان سرگین گردان کہ ایک جانور ہی جو گوبر کی گولیان بناکر اسکا لیجاتا ہے —<br>۱۴ اَبُو جُمیل ساگ۔ ہریائی کی کنیت ہی |

انہال بوئے ہوئے کھیت کو پانی دینا -
انہام (کسفعس) گول اور مشتبہ ہونا
کسی کام کا - دور کرنا ہانکنا بیل
گھاس کو اوگانا زمین کا - زمین کا
بہت نمناک ہونا مجہول ہونے قید چھوڑ دینا
کسی چیز کو - دروازے کا بند کرنا -
انگوٹھا - اباہم (فضسک) اباہیم
(فضسکس) جمع -
اُبہتہ (فتقفف) عظمت - بڑائی
بزرگی - تکبر اور نخوت -
ابہر (فسف) پیٹھ - ایک رگ ہے
پیٹھ میں دل سے ملی ہوئی گردن
کی ایک رگ ہے - ایک رگ ہے ہاتھ میں
جانور کے پر جو خوافی (فضسک) اور
کلی (ضف) کے درمیان میں ہیں
کیونکہ ان میں جو اول ہوتے ہیں
اونھیں قوادم (فضسک) کہتے ہیں اور
اسکے بعد مناکب (فضسک) ہیں اور
پھر خوافی (فضسک) ہیں اور پھر اباہر
(فضسک) ہیں اور پھر کلی (ضف)
ہیں - اباہر (فضسک) جمع - کمان کے
ہو مڑے ہوئے گوشون کی پیٹھ
کمان کا پیچ - زمین یا کیڑہ جہان

میں نہ آوے - خشک گھاس
ابہل (فسف) ایک میوہ ہے مانند
بیر کی مانند درخت اسکا چھوٹا ہوتا ہے
اور پتا اسکا جھاؤ کے پتے کی مانند
ہوتا ہے یہ سرو کوہی ہے یعنی پہاڑی بیر -
ابہم (فسف) ہکلا - توتلا یعنی جو
گفتگو صاف نہ کر سکے - گونگا - عورت
کہ جس سے کسی طرح نکاح درست نہیں
جیسے ماں اور بہن - بہم (فس) ضف جمع
ابہیرار (کسفعفس) آدھی رات
ہو جانی - یا دراز ہونا رات کا بہت تاریک
ہو جانا رات کا بہت حصہ رات کا
گذر جانا جیسے ابہار اللیل اور ایسا ہی
دن میں بھی جیسے ابہار النہار -
اور تھوڑا سا رہنا بقدر ثلث کے -
ابی (فکت) دودھ -
ابی (کف) رس) بغیر پیٹ بھرنے
کے کھانے سے ہاتھ کھینچنا -
باز رہنا - اونٹ کے بچے کو دودھ
سے خلل ہونا بدہضمی ہونی -
ابی (فف) اونٹ کے بچے کو دودھ
سے بدہضمی ہو جانی اور دودھ سے
کراہت آنی اس معنے میں معروف ہے

مادہ:
ہ ج م
ہ ر ب
ہ ج ہ
ہ ب ب
ہ ج م
ہ ج ر
ہ ر بی
۲۷
۱۲

مادہ

ابل [illegible]

ابن

ابہ

اب ل

[illegible]

[illegible]

اب ل [illegible]

[illegible]

ابد [illegible]

[illegible]

[illegible]

ابہص

ابہض

ابہل

---

[illegible]

اَلْبَوَالُ الْبَعَالُ سراب کہ دور سے پانی نظر آوے۔

اَبْوَصُ (فعنس) بالنشاط گھوڑا بہت سبقت کرنے والا۔

اَبُوصُ (فنس) تیز رو گھوڑا۔

اَبُولُ (ففنس) (من) اونٹ کا اپنی جا بیگاہ میں تقیم ہونا جیسے اَلْجِیَادُ

اَلْبِیل اُبُوْلاً ہاتھ کی چھڑی سے مارنا جیسے اَبَلَ بالعصا مرد کا اپنی عورت سے جماع ترک رہنا جیسے اَبَلَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِہٖ اور نیز اَبُولُ (ففنس) پارسا ہو جانا۔

اَبَلَ العُشْبُ اُبُوْلاً (ن) گھاس کا لمبا ہونا اور اونٹوں کا اسکے کھانے پر قادر ہونا کیونکہ بہت نیچے گھاس کو اونٹ نہیں کھاسکتا

اَبُوتَۃ (فنسلف) جمع ہیں بوان اور (مفعنس) کی یعنی خیمے کے اگلے ستون۔

اَبْجَرَ اَلشَیْئَ اَبْہَرُ (فعنام لاف س) کسی کو یاد کرنا یا بھول جانا اور پھر یاد کرنا اور صلہ اسکا ب اور لام ہے جیسے

فُلَانٌ لَا یُؤْبَہُ بِہٖ یعنی فلان

---

[illegible]

سیافت حال میں اہتمام نہیں کیا جاتا اس معنی میں مجہولاً مستعمل ہے۔

اَبِہَ (فتس) (ن) متہم کرنا اور اسکا صلہ ب آتا ہے۔

اَبِہَ (ففت) بمعنی اَبْجَ یعنی گلا بیٹھا ہوا

اَبْہَاءُ (کسفسم) گھر خالی کردینا۔

اَبْہَاءُ (کسفسم) خوبصورت ہونا۔

اَبْہَاجُ (کسفس) مسرور ہونا۔

اَبْہَارُ (کسفس) نرم مزاجی بعد بد مزاجی میں متلون ہونا۔ اپنے جی کی بات بیان کرنی۔ فقر کے بعد دولتمند ہونا۔ دوپہر کی دہوپ سے جلنا۔ دوپہر کو آپہنچنا۔ نیک بہرہ سے نکاح کرنا۔

اَبْہَاصُ (کسفس) منع کرنا۔

اَبْہَاضُ (کسفس) کام کا کسی پر بھاری ہونا اور اسکو بوجھل کر دنیا۔

اَبْہَالُ (کسفس) ترک کردینا۔ اونٹنی کو نے مہار چھوڑ دینا کہ جہاں چاہے چرے۔ کسی کو اسکے حسب مراد چھوڑ دینا۔ آزاد کرنا سیا یہ آخیر معنی خاص ہیں اس بات کے ساتھ اور اول فعل یفعل کے ساتھ اور

اسم جمع اپنے لفظ میں سے واحد نہ رکھے
اور غیر ذوی العقول کے لئے ہووے
وہ مونث ہے۔
اُبیلی (فکسکت) ابیلی (فسفکت)
ہیبلی (فسفکت) ابلی (ففکت)
ابیل (فسف) لیبیل (فسفص)
ابیلی (فسفکت) ترساؤں کا
سردار۔ یا ترساؤں کا پارسا یا ان کا
صاحب ناقوس یعنی سنکھ بجانے والا۔
۲ ابعَن (فسعت) فصیح تر۔
۳ ابیضاض (کسکسفکن) نہایت سپید ہونا
۴ اتی (فت) (ن) کسی پر عجب میں
غالب آنا۔ کسی کا سر توڑنا۔
اتاء (کفسم) ہر چیز کا حاصل اور
اناج اور خرما میں کے پھلوں اور گائے
اور اونٹ کے بچوں وغیرہ کا۔ نمائے
سوا شی کا نکلنا یعنی اسکے بچہ یا
دودھ کا زیادہ ہونا۔
۵ اتائی (کسفسم) وعدہ قبول کرنا۔
اتاب (کفسم) کسی حاجتمند کو
ذلیل کر کے محروم پھیر دینا۔
اتاب (کتفسم) رسوا ہونا۔
بدنام ہونا۔ شرمندہ ہونا۔

۶ آتاحتہ (کفسف) مقدر کرنا کسی چیز کا۔
۷ آتاد (کفس) ایک رسی ہے جس سے
گائے کے دودھ دوہنے کے
وقت پاؤں باندھ دیتے ہیں۔
۸ اتاد (تکلفسم) آہستگی کرنی۔
۱۱ اتار (کسفم) بروزن افعال کسی
کے پیچھے دیکھتے رہنا۔ چھڑی
سے مارنا۔ تاڑ کر دیکھنا۔
۱۲ اتارہ (کفسف) ایکبار کے پیچھے
پھر دوبارہ اولٹا پھیر دینا۔ خوف کرنا
کسی کے درپے نگران رہنا۔
۱۳ اتاستہ (کفسف) باطل کر دینا۔
اتاعۃ (کفسف) قی کرنا۔ اتاعۃ
القئ دوبارہ قی کرنا۔
اتاق (کفسم) پانی سے بھرنا حوض
وغیرہ کو۔ پورا کھینچنا کمان کو۔
اتاقۃ (کفسف) زور سے کھینچنا کمان کو
اتاکۃ (کفسف) بال اکھاڑنا اپنے
اتام (کسفم) جوڑا جننا عورت کا
تیمہ بکری کو ذبح کرنا۔ عورت کی فرج
اور دبر کو کثرت جماع سے ایک
کر دینا۔ عورت کا ایک حمل میں جوڑا جننا
اتان (کفس) گدھی اور اس

ماده
ا ب ب
ب ی ن
ب ی ض
ا ت ی
ا ت و
ت و ی
ا ت ب
ت ی ب
ح ت ا
ا ت د
ت ی د
۲۹
۱۳ ثور
۱۴ تیس
۱۵ قیء
۱۶ تاق
۱۷ توق
۱۸ تیک
۱۸ تام
۱۹ اتن
۱۲

لہ ابرو
٢ہ ابی
٣ہ ابر
٤ہ ابقص
٥ہ ابیعق
٦ہ ابقر
٧ہ ابقع

۲۸

اور مجہولاً مستعمل ہوتا ہے بکرے کا
بچارسی بکری کے پیشاب کو سونگھ کر
بیمار ہو جانا - ابی (بکسہ) صیغہ لغت
مذکر اور الواو (بفتحتین) صیغہ لغت مونث
اُبیات (بفتحتین) جمع بیت (بالفتح)
کی بمعنے گھر -
اَبیان (بفتحتین) مرد جو طعام سے
کراہیت کرے یا مرد جو زن فرزند سے
کراہیت کرے - ابیان (بکسر) جمع -
اَبیتر (بضمتین) تکبر و بزرگی -
اَبیتر (بکسر) (ن) دودہ کا
پستان میں بھر آنا -
اَبیتر (بالکسر) عورت کہ باقی کو نا پسند
رکھتی ہو - عورت جو طعام شب کی
خواہش نہ رکھتی ہو - اونٹنی جس سے نر
نے جفتی کی ہو لیکن وہ گابھن نہوئی ہو -
اَبید (بالکسر) پائدار - پائندہ - ایک
اور گہنے کی چیز ہے -
اُبیض (بضمتین) تصغیر اباض
(بالکسر) یعنے رسی جس اونٹ کی کلائی
کو اُسکے بازو سے باندہین کہ زمین
سے اوٹھی رہے -
اُبیض (بفتحتین) سپید تلوار - چاندی

ایک ستارہ ہی کہکشان سے کنارے
مین - مرد پاک ناموس -
موت ابیض یعنے موت ناگہانی -
ابیضاض (بکسر) نہایت سپید ہونا -
ابیضان (بفتحتین) دودھ
ہین اونٹ کے تھنون مین سے دودھ
اور پانی - یا چربی یعنے موٹاپا اور جوانی
یا روٹی اور پانی - یا گیہون اور پانی
دو دن - دو مہینے -
اُبیقر (بضمتین) جو شخص کہ اپنی
خیر و برکت ہونے سے خیر -
اُبیقع (بضمتین) جس کے منہہ پر سیاہی
اُبیل (بالفتح) ہاتھہ کی لکڑی -
اور بعضےکہین بزبان سریانی ترسایونکا
سردار - یا ترسایون کا پارسا یا اُنکا
صاحب ناقوس - گھاس کا مٹھا
ابال (بفتحتین) ابل (بضمتین) جمع -
ابیلہ (بکسر) ابالہ (بکسر)
ابیالہ (بکسر) و بیلہ
(بکسر) گھاس کا مٹھا -
ابیلہ (بضمتین) تصغیر ابل ہے
اور یہہ دلیل ہی اس بات پر کہ ابل
مونث ہے جیسا کہ قول جوہری ہی کہ جو

محبت کا کسی کے دل کو بیمار کر دینا — تباہ کر دینا زمانہ کا کسی کو —

اتبان (کتکفس) تبان پہننا اور تبان وہ ہوتا ہے کہ جسکو اکثر ولایتی کابلی پہنتے ہیں —

۲ اتجاد (کتکفس) پھر اہوا اور پھوس ہونا خرما کا —

۳ اتجار (کتکفس) آپس میں سوداگری کرنی

اتجاہ (کتکفس) وجوہات رائے پیدا کرنا یعنے توجیہ اور وجہ پیدا کرنا —

اتحاد (کتکفس) ایک ہونا —

اتحاف (کتکفس) سوغات دینی —

اتحام (کتکفس) سیاہ ہونا —

اتحم (فسقف) بمعنی اوہم (فسقف) یعنی سیاہ

اتحمی (فسنگلت) ایک قسم کی چادر یمنی یعنے یمن کی بنی ہوئی ہو —

۹ اتخاخ (کسفس) خمیر کو کھٹا کر دینا

۱۰ اتخاد (کتکفس) پکڑنا —

۱۱ اتخاذ (کتکفس) پاؤں کا پھسلنا

اتخام (کسفس) طعام کا تخمہ پیدا کرنا

اتخام (کتکفس) طعام سے تخمہ زدہ ہو جانا

۱۲ اتداء (کتکفس) دیت لینی یعنے خونبہا لینا — اور دیت اسکو کہتے ہیں جو بعوض خون لیتے ہیں —

اتداع (کتکفس) آرام لینا تن آسانی اختیار کرنی — قرار پکڑنا —

اتدان (کتکفس) تر کرنا پانی میں بھگونے کو رکھ دینا — بھگویا جانا —

اتذاء (کتکفس) عیب اور سرزنش قبول کرنی —

اتراء (کسفس) کام پے در پے کرنے اسطرح کہ ہر کام میں مہلت ہووے

۱۳ اتراب (کسفس) کم مال ہونا — بہت مال دار ہونا — لغات اضداد سے ہے — اُس غلام کا مالک ہونا جو تین بار بک چکا ہو — کسی پر خاک ڈالنی —

اتراب (فسنفس) جمع ترب کسر کی ہمزاد اور ہم عمر یعنے ہمجولی —

۱۴ اتراح (کسفس) غمگین کر دینا —

۱۵ اترار (کسفس) کاٹنا — گلی ڈنڈا کھیلنا — کسی کو اسکی جا سے دور ڈالدینا

اتراز (کسفس) آٹے کو گوندھتے میں سخت کر دینا — سخت کر دینا گھوڑے کا گھوڑے کے گوشت کو — مضبوط بٹنا رسی کو —

اتراس (فسفس) جمع ترس یعنی ڈھال

| ماده |
| --- |
| رجب |
| ۲ ع وجب |
| ۳ ع تجر |
| ع وجہ |
| ع وحد |
| ع تحف |
| ع حمم |
| ع خمخ |
| ع اخذ |
| ع وخذ |
| ع وخف |
| ۳۱ |
| ۱۱ ع تخم |
| ۱۲ ع ودی |
| ۱۳ ع ودع |
| ۱۴ ع ترب |
| ۱۵ ع ترح |
| ۱۶ ع ترر |

| مادہ | | |
|---|---|---|
| ا ت و<br>ا ت ع<br>ا ت ب<br>ا ث ث<br>ا ث ل<br>ا ت ي | سے معنے مین آتانتہ یا اتنائہ کم آیا ہی آتن (فمض) اتن (ضفف) اتن (فمنس) یا تونا و (فمنفسم) جمع۔ ہتھار کی سرچاہ پر کھڑے ہونے کی جگہہ۔ بالفتح پشت شتر مین کجاوے کی نشستگاہ۔ اتن (ضفف) جمع۔<br>آتان (الفحل) بڑا پتھر کوئین کے سرے پر کہ جسپر کائی جم جانے سے پھسلن ہوجاوے۔ یا ایک بڑا پتھر کہ تھوڑا سا پانی سکے اندر اور تھوڑا سا پانی کے باہر ہوا ور بعضون نے دہوبی کا پٹرا کہا ہے۔ جوہری کہتا ہے کہ آتان الفحل سے اونٹنی کو تشبیہ دیتے ہین سختی اور صلابت مین۔<br>آتاوہ (کفنسف) محصول رشوت یا خاص وہ رشوت ہے کہ پانی کے لیئے ہووے۔ آتاوی (فمنسک) آتاوی (فمنسف) آتاوات (کفتفس) اتا (ففت) جمع۔ اور لفظ اخیر الطریق ندرت اور شذوذ کے ہے۔<br>آتاوی (فمنسک) الٹی نکت چھوٹی سی نہر کہ لوگ اُسے اپنی زمین کیطرف لاتے ہین سیل غریب کہ اُسکا | مینھ تم تک نہ پہنچا ہو۔ مسافر جسکا وطن معلوم نہووے۔ لستائی اتاویاء جمع مسافر عورتین بعید الوطن<br>آتابیع (کتفنسف) ہوا کا پیچھے کو اور مرا پیچھا۔<br>اتب (کس) چادر جسکے درمیان سے چاک کر کے عورتین مثل کفنی کے پہنتی ہین بغیر گریبان اور آستین کے۔ سینہ بند۔ عورتون کا پیراہن۔ یہ کرتا کہ پنڈلی تک پہنچے یا پاپجامہ بے پائچہ یا پیراہن بے آستین۔ اتاب (فمنفس) آتاب (کفس) اثوب (صفضجع) جمع۔<br>اِتبُ الشعیر جو کا چوکر۔<br>اتباث (کسفس) سست و ضعیف کر دینا۔<br>اتباس (کسفس) خشک ہونا۔<br>اتباع (کسفس) پیچھے چلنا۔ پیروی کرنی۔ کسی کو کسی کے پیچھے بھیجنا۔ جا پہنچنا۔ کلام مین لفظ ایک وزن کے ایک کے بعد ایک لانا۔ کسی پر چھٹی کر دینی۔<br>اتباع (کتکفس) پیروی کرنی۔ پیچھے چلنا۔ جا پہنچنا کسی کے پاس۔ چھٹی لینی۔ رخصت لینی۔<br>اتبال (کسفس) تباہ کر دینا محبت کا |
| ۱۲<br>۳۰ | | |

ج

اِتضان (کتکفس) نزدیک ہوجانا -
اِتطاء (کتکفس) آمادہ ہونا - نرم
اور آسان ہوجانا - راست و درست
ہونا - سیدہا اور اکڑے ہوے کھڑے ہونا
نہایت دوستی پر پہنچنا -
اِتعاب (کسفس) تھکا دینا - رنج
بھر دینا - تھکے ہوئے مواشی کا ہلک
ہونا - جوڑی ہوئی شئی کو پھر توڑ ڈالنا -
اِتعاد (کتکفس) وعدہ قبول کرنا
آپسمین وعدہ بدی کرنا -
اِتعاس (کسفس) ہلاک کردینا -
اِتعاظ (کتکفس) نصیحت ماننی -
اِتغاب (کسفس) ہلاک کرنا - سبد
کرنا - عیب ناک کردینا - چرکین کردینا
بھوکا کردینا - قحط ناک کردینا -
اِتغام (کسفس) بدہضمی کردینی -
اِتفار (کسفس) ناک کے بال
اوپر کے ہونٹھ کے گڑھے تک بڑہ آنے
اِتفار (کتکفس) افزون ہونا -
اِتفاق (کتکفس) آپسمین ایک
ہونا - آپسمین موافقت کرنی -
آپسمین نزدیک ہوجانا -
اِتفال (کسفس) بودار کردینا -

اِتقان (کسفس) محکم واستوار کرنا -
اِتقاء (کتکفسم) پرہیز کرنا -
اِتقاد (کتکفس) آگ کا افروختہ ہونا
اِتقار (کتکفس) آہستگی کرنی -
بردبار ہوجانا - تحمل کرنا -
اِتقاہ (کتکفس) نہایت کوپہنچ جانا
بندگی کرنی اور اُسکی بات سننی
اِتکاء (کتکفسم) تکیہ کرنا - کسی کے
جانب تکیہ گاہ بنانی -
اِتکار (کتکفس) پرندہ کا گھونسلا بنانا
اِتکاع (کتکفس) درشت اور چکنا ہونا -
اِتکال (کتکفس) کسی پر کام چھوڑ
دینا اور اُسپر اعتماد کرنا - تعدیہ سے علی کے
اِتل (رفس) اِتلان (ففس)
اِتلال (ففس) (ص) غصہ کے
وقت قدم پاس پاس رکھنا - طعام
سے سیر شکم ہونا جبکہ من صلہ ہو -
اِتلاء (کسفسم) کسی کو کسی کے
پیچھے کر دینا - پیچھے سے آگے
بھیجنا - حوالہ کر دینا - پناہ اور امن
دینی - کسی کے پاس کوئی چیز
باقی چھوڑنی - کسی کو امان تیر دینا -
کسی کو عہد و پیمان دینا - بچہ وار ہونا

مادہ
ضمن
وطی
وعب
وعد
تعس
وعظ
وغب
وغم
وفر
وفق
وفل
۲۳
اتقن
وقی
وقد
وقر
وقہ
وکی
وکر
وکع
وکل
اتل
تلو
۱۲

رض
رع
رع
رف
رک
رب
رج
رع
رق
رر

۳۳

اتّراض (کسفس) مضبوط کرنا- راست و درست کرنا-
اتّراع (کسفس) پُر کرنا-
اتّراع (کتکفس) پُر ہو جانا-
اتراف (کسفس) نافرمانی میں اصرار کرنا- شیدا کر دینا نعمت میں پالنا-
اتراک (فسفس) جمع ترک اونس کی
اتّراک (کتکفس) چھوڑ دینا-
اَتربہ (فسفف) تراب (ضفس) کی جمع- بمعنے خاک-
اُترُج (ضسفت) اُترجّہ (ضسفتف) ترنج یعنی لیمو-
اَترع (فسف) سیر اترع یعنی سیر سخت-
اَترق (فسف) جسکا اوپر کا ہونٹھ ابھرا ہوا ہو-
اُترور (ضسفس) پیادۂ کوتوال اور شاگرد سلطان کے نے وظیفہ ساتھ رہتے ہیں لڑکا- سپاہی زادہ-
اتّزار (کتکفس) گناہ کرنا-
اتّزاع (کتکفس) لڑکھانا-
اتّزان (کتکفس) قول کر لینا- شعر کا سنجیدہ ہونا-
اتّساخ (کتکفس) میلا ہو جانا-

اتّسار (کتکفس) گوشت کو حصہ کرنا-
اتّساع (کتکفس) فراخ ہونا-
اَتساع (کسفس) نو شخص ہو جانے ایسے اونٹوں کا مالک ہونا کہ نو دن میں ایک بار پانی پویں-
اتّساق (کتکفس) ترتیب دینا تمام ہونا جمع کرنا-
اتّشاح (کتکفس) گردن میں حمائل ڈالنی-
اتّشار (کتکفس) عورت کا دانت کو تیز کرنا تا کہ کم سن معلوم ہووے-
اتّشاق (کتکفس) گوشت کو بھون کر خشک کرنا-
اَتشح (فسف) مرد بزدل خوف کا ہراس ناک- ڈرپوک-
اتّصاف (کتکفس) صفت قبول کرنی- سراہا جانا- ایک چیز کی اُسمیں تعریف کرنی- سراہنا-
اتّصال (کتکفس) پہنچ جانا ملجانا پیوستہ ہو جانا کام کا بغیر جدا ہونیکے-
اتّضاح (کتکفس) ظاہر ہونا-
اتّضاع (کتکفس) فرومایہ اور ناکس اور دون مرتبہ ہونا- سر شتر کو جھکانا تا کہ پانوں کو گردن پر رکھکر چڑھ جاویں-

ج

عورت کے جننے کے دن قریب آپہنچے
استہلال (کسکفس) دراز ہونا
سخت ہونا۔ سیدھا ہونا۔
استمرار (کسکفس) سخت ہونا۔
استملال (کسکسفس) لمبا اور
سیدھا اور سخت ہونا۔
اتن (فس) (ن) عورت کے الٹا
بچہ پیدا ہونا یا الٹا بچہ پیدا ہونا۔
اتن (فس) اتون (ضفس)
(ض) ایک جگہ میں مقیم اور ثابت
ہونا جبکہ صلہ اسکا ب ہو۔
اتن (ضفض) زمین بلند۔
استاخ (کسفس) بدہضمی کردینا
مکھی کا کسی کو۔
استنان (کسفس) دور ہونا۔ بڑا
ہونے دینا بیماری کا بچہ کو۔
استنان (فسفس) جمع تن (کت)
کی ہمزاد ہم عمر ہمجولی۔
اتو (فس) سیر و عت سیر میں استقامت
روش۔ مرگ و سختی۔ بیماری سخت
شخص بزرگ۔ عطیہ۔ مسکہ چنانچہ
جب دودھ بلوتے ہیں اور مسکہ
نکل آتا ہے تو کہتے ہیں جاء اتوہ

یعنے مسکہ نکل آیا۔
اتو (فس) (ن) اونٹ کا سیر عت
کرنا۔ مرد کا عطا و بخشش کرنا۔
اتو (فس) اتاوۃ (فضسف) (ن)
رشوت دینی محصول دینا۔
اتو (فس) اتاء (کفسم) (ن)
نخل اور درخت کا پھل نکل آنا یا اسکی
بہبودی ظاہر ہونی یا اسکے پھل کا
بہت ہوجانا کثرت سے ہونا۔
اتوا (کسفسم) ہلاک کردینا۔
اتوۃ (فسف) (ن) آنا۔
اتوز (فسف) کریم الاصل۔
اتوم (فضس) تنگ کس والی عورت
عورت جسکی فرج اور دبر ایک ہوگئی ہو
لغات اضداد سے ہے۔
اتون (فتضس) تان بزون کا اوس
چونہ بزون کا آتشدان یعنے تنور یا
بھٹی۔ اتن (ضض) اتائین (فضکس) جمع
اتون الحمام حمام کی بھٹی
اتونی (فضسک) بھٹی جھونکنے
والا۔ یا بھاڑ جھونکنے والا۔
استہاب (کسکفس) بخشش قبول کرنی
استہال (کسکفس) ہبہ مانگنا یا اہل ہونا

ہمیہ
سر
شمیں
ارتن
۴۵ بنخم
منین
مع
نور
ع
۳۵
۵ توز
۱ الم
۱ اتن
۱ دبر
۱ ابل
۱۲

اونٹنی کا کہ وہ اسکے پیچھے پیچھے چلے

اَتلاج (کسقفس) داخل کرنا۔

اِتّلاج (کتکفس) داخل ہونا ۔ داخل کرنا

اَتلاد (کسقفس) مال کہنہ اور قدیم کا مالک ہونا۔

اَتلاد (فسقفس) مال کہنہ اقدیمی موروثی یا وہ چوپایہ جو اپنے مالک کے پاس پیدا ہوا ہو ۔ یا حاملہ ہوا ہو

اَتلاع (کسقفس) سر باہر نکالنا بیل ۔ گردن لمبی کرنی۔

اِتّلاع (کتکفس) اَتلَعَ فلاناً و المعنیٰ یعنے مجھپر اسکا کام پوشیدہ ہی پس میں نہیں جانتا کہ زندہ ہی یا مردہ۔

اَتلاف (کسقفس) ہلاک کرنا۔

اَتلال (کسقفس) سیدھا کھڑا ہونا ۔ زمین پہنے والی چیز کا ٹپکانا ۔ باندھکر کھینچنا کسی کو۔

اَتلال (فسقفس) جمع تَل (کت) کی بمعنی بالش ۔ یا اقسام جامہ سے ہی

اِتّلاہ (کتکفس) اندوہمند ہونا فرزند وغیرہ پر سرگشتہ ہوجانا ۔ بیخود کرنا

اَتلاہ (کسقفس) ہلاک کردینا بیماری کا کسی کو۔

اَتلَہ (فکتف) جمع تَلِیل (فکس) بمعنے گردن

اَتلَع (فسقف) دراز گردن۔

اَتلئباب (کسکسقفس) راست درست ہونا کام کا ۔ سیدھا کھڑا ہونا لبنا نکلنا راستے کا۔

اَتَم (فقفق) زیتون بری عُتُم کو اُتُم بھی کہتے ہیں۔

اِتم (کس) (ن) مشک وغیرہ کی دو درز کا پھٹکر ایک ہوجانا قطع کرنا ۔ ایک جگہہ مقیم ہونا۔

اَتم (فف) (س) تاخیر کرنی ۔ بولتے ہیں فی سَیرِہ اَتَمٌ یعنے اسکے چلنے میں ڈھیل ہے۔

اَتامات (کمفس) تھکے ہوئے اونٹ آہستہ چلنے والے۔

اِتمار (کسقفس) تمر کی حد کو پہنچ جانا رطب کا کھجور کا پھل لے آنا ۔ یا اسکے پھل کا حد رطب کو پہنچ جانا ۔ خرما کھلانا ۔ بہت خرما والا ہونا۔

اِتماک (کسقفس) گھاس کا اونٹنی کو موٹا کردینا ۔

اِتمام (کسقفس) پورا کرنا ۔ پورا ہونا تَم (کت) اور تِمّہ (فتتف) دینا۔

[illegible]

صیغہ لغت مذکر ہی دونون میں سون ہے
اور مونث بالتا یعنی اثنۃ (فتح)
واثنیۃ (کسرہ) آتا ہی اور اثنات
(کسرہ) اثنائث (فتح) جمع ہے
مذکر اور مونث دونون کی۔
اثالی (فتح) چوٹھا۔
اثار (ضمہ) علامات اور اسے عوض
پہاڑ ہین اور نشان۔
اثار (کسرہ) قصاص پانا۔
اثارۃ (کسرہ) برانگیختہ کرنا زمین کا
گاہنا اور بونا علم قرآن کی بحث کرنی
اثافی (فتح) چوٹھا چند ستارے
ہین راس القدر کے مقابل اور قدر
چند ستارے ہین بشکل دائرہ۔
الاثافی پتھر کا ٹکڑا پہاڑ مین پیوست
جسکے پہلو مین دو پتھر اور رکھکر
ہانڈی رکھین۔
اثال (ضمہ) بزرگی معروفی
بزرگی ذاتی۔
اثام (کسرہ فتح) (ض) برے
کام کا بدلہ دینا۔
اثام (فتح) جہنم مین ایک جنگل
ہے گناہگار

اثام (کسرہ) گناہ کا بدلہ۔
اثامحت (فتح) پرگوشت عورتین
یا بلے قد کی اور پوری پیدایش کی۔
اثب (فتح) ایک درخت ہی۔
اثبات (کسرہ) اچھی طرح سے
پہچاننا قائم رکھنا۔ ایسا زخمی کرنا
کہ ہل جل نسکے دور نہونا بیماری کا
قرار اور آرام دینا۔ لکھنا۔ ثابت کرنا
دیوان مین نام ثبت کرنا۔
اثبار (کسرہ) ہلاک کرنا۔
اثباط (کسرہ) بیماری کا معدہ مین قائم رہنا
اثباط (فتح) جمع ثبط (فتح)
کی یعنے مرد ضعیف۔
اثبان (کسرہ) اپنے کپڑے مین
ثبان بنانا یعنے جیب یا اور کوئی شی جسمین
کھجورین وغیرہ رکھ لے۔
اثبج (فتح) مرد جسکی پیٹھ چوڑی
یا کوب نکلی ہو۔ مرد بڑے پیٹ کا۔
اثیبج (ضمہ) اسکی تصغیر ہے۔
اثجار (کسرہ) قصد سے ٹھہرا
رہنا۔ سرگشتہ ہوجانا۔ نفرت کرنی
سست و برداشتہ خاطر ہوجانا ایک
کام سے لیکن اُسے چھوڑے نہین

| مادہ | علامات اعراب ض ضمہ ف فتحہ ک کسرہ س سکون ت تشدید م | |
|---|---|---|
| وہم<br>تہم<br>اتی<br>یأس<br>یتم<br>اتش<br>تیہ<br>ثنی<br>اتی<br>اتب<br>اتح<br>اتو<br>اثی<br>اثث<br>ار | اِتِّہَامُ (کتکفس) کسی پر تہمت لگانی تہمت اوٹھانی - بدنام ہونا - متہم ہونا - اَتْہَامُ (کسفس) تہامہ مین آنا اور اُس مین اوترنا - ناپسند رکہنا کسی پر تہمت لگانی - اَتِیُّ (فکت) اَتَاءٌ (کفسم) لکڑی یا پتا کہ ندی مین گر پڑے - اَتَاءٌ (کفسم) اَتِی (فنکت) جمع - اَتِیَ (فتف) بمعنی حتّے کہ حروف جارہ ہے بمعنے یہانتک - اَتِیَ (فس) اِتْیَانٌ (کسفس) اِتْیَانَۃٌ (کسفسف) اَتِیٌّ (فکت) اِتِّیٌّ (کگت) آنا - جماع کرنا - اُتِیَ فُلَانٌ یعنے دشمن اُسکے نزدیک پہنچ گیا - اِتِّئَاسٌ (کتکفس) ناامید ہونا مایوس ہونا - یاس ہونی - اِتِّیَامٌ (کتکفس) تیمہ (کسف) یعنے گہر کی بکریون کو ذبح کرنا - اَتْیَاہٌ (فسفس) اَتَاوِیَۃٌ (فففکسف) جمع تیہ (کس) کی بمعنی بزرگ نشی - اِتْیَسْتَسُ (کسفسف) قوم مین کا ایک شخص کہ فاسد العقل اور ضعیف | ہوئے اور جنگ نکر سکے - اَثْیَعُ (فسف) جو کہ حماقت مین منہہ کے بل گرا ہوا ہو - مکان جسکے آگے سرا ہو - اِثْمَاءٌ (کفسم) مارڈالنا - زخمی کرنا - چمڑے کی درز خراب کردینی - یا موٹی ستاری سے چھید کرکے نیلے دہاگے سے سینا - اَثْمَاءٌ (کفسم) بہت سے پتھر - اَثْأَبُ (فسفف) ایک درخت ہے جسکی لکڑی سے مسواک بناتے ہین - اِتَاوَۃٌ (کفسف) کسکو تیر مارنا - اِتَابَۃٌ (کفسف) پانی سے بھر دینا عوض کو - بدلہ دینا - عود کرنا - بیماری کے دبلے پن کے بعد موٹا ہونا - اعادہ کرنا - اَثَانِیُّ (ففسک) جمع اثنیہ (ضسکت) کی - اَثَاثٌ (فضس) گھر کا اسباب - اُسکی واحد نہین ہے - یا سب مال اور مال بہت ہی اونٹون اور بکریون اور غلامون اور گھر کے اسباب وغیرہ سے - اَثَّثَۃٌ (فکتف) اُثُثٌ (ضض) جمع - اَثَاثَۃٌ (ففسف) اَثَاثٌ (ففس) کی - اُثُوثٌ (ضضس) (ض ن س) گھاس کا گہنا اور آپسمین لپٹا ہوا ہونا - کلان سرین ہونا - اَثٌّ (فت) اثیث فکس |

وَاَثِرَ عَلَی الْاَمْرِ ایک امر پر قصد کیا۔
اَثِرَ کہ سب سے خارج ہو کر اسکی
طرف مشغول ہوا۔
اثر (کس وفس) تلوار کا جوہر۔
اثور (صفقس) جمع اور اثر (کس)
بعد پس۔ روغن خالص
اثر (ضس) نشان زخم کہ صحت کے
بعد باقی رہے۔ چہرہ کی رونق۔
اثر (ضفص) تلوار کا جوہر۔ زخم کا
نشان کے بعد صحت کے باقی
رہے۔ چہرہ کی رونق۔
اَثرای (فسفسم) جمع ثری (فف)
اثرای (کسفسم) بہت مالدار ہونا۔
اثرای (کسفسم) زمین کا نمناک
ہونا۔ مینھ کی تری کا زمین نمناک
تک پہنچ جانا یعنے جہان تک کہ زمین
مین نمی تھی مینھ کی نمی پہنچ گئی۔
اثرات (کسفس) گناہ پر سرزنش
اور ملامت کرنی۔ موٹا ہونا مینڈھے کا
اثراد (کسفس) ترید بنانا۔
اثرارہ (کسفسف) زرشک
ایک دوا ہی معدلات صفرا سے۔
اثرام (کسفس) کسی کے دانت
جڑ سے گرا دینے یا اگلا چوکا پا خاص
ہی اگلے دانتوں سے۔
اثرہ (فسف) (ن) اونٹ کے
باطن سم کو صاف کرنا۔
اثرہ (ضفسف) تنگ سال۔ حال
ناخوش۔ موروثی بزرگواری کہ لوگون
کی زبان زد ہو۔ علم کا بقیہ کہ برگزیدہ ہو
اونٹ کے پانوں کے نیچے کی جانب
مین ایک نشان ہی جو لوہے سے
اسلئے کر دیتے ہین کہ اس سے
اسکا کھوج لیجائین۔
اثرہ (ففف) اثارہ (ففسف)
علم کا بقیہ کہ سلف سے برگزیدہ ہو اور
نقل کیا جاوے۔ چربی کا بقیہ جیسے
سَمِنَتِ الْاِبِلُ عَلٰی اَثَارَۃٍ
اَثرَدان (ضسفس) ترید۔
اثرم (فسف) مرد جسکے دانت جڑ
سے گر پڑے ہون۔ یا اگلے دانت
اوپر نیچے کے چارون گر پڑے ہون
اور فن عروض مین اثرم وہ ہی کہ جسمین
قبض اور خرم دونون زحاف جمع ہون
اثرمان (فسفس) رات اور دن۔
اثرمطاط (کسکسفس) پھول جانا

مادہ

ثبی
ثبج
ثبر
ثأر
ثعر
ثغر
ثغی



ثمد
ثمد
ثمد
ثنی
ثنی
ثجر
ثجم

جلدی پھر جانا۔ سیر میں شک اور تردد
کرنا۔ پانی کا جاری ہونا۔
اثبیہ (فسکقف) جماعت و گروہ
اثابی (فسک) جمع۔
اثبجاج (کسکسفس) پر ہونا۔
دلدار ہونا۔ گردبڑا ہونا۔
اثبیار (کسکسفس) کسی چیز سے
رک رہنا۔ کاہلی کرنی ہے جیسے اثبار
اثتئار (کسکم) قصاص پانا ہرنی
اثتعار (کسکفس) جھوٹی خبریں بافیت
اثتغار (کسکفس) بچے کا دودھ
کے دانت گرا دینا۔ دانت نکالنے
لغات اضداد سے ہے۔
اثتماد (کسکفس) ثمد اور تر نا اور ثمد
اس پانی کو کہتے ہیں کہ جاڑے میں
ظاہر ہوا اور گرمی میں خشک ہو یا
جو پانی زمین ہموار سخت پر ہو۔
اثتناء (کسکفم) اثناء گستکقسم
دوہرا ہونا۔ اکڑ کر چلنا۔ پھر جانا۔
اثتجار (کسفم) چپ کر دینا متاع کو
حرکت دینی اور الٹ پلٹ کرنا۔
اثتجام (کسفس) بہت ہونا ہمیشگی
اور دوام قبول کرنا۔

اثجر (فسف) دلدار چوڑا چھوٹا
تیر چوڑ کا دلدار۔
اثجل (فسف) پیٹل سیاہ جسکی
کو کھیں کھلی ہوئی ہوں۔
اثخان (کسفس) مبالغہ کرنا۔ بہت
خون ریزی کرنی سست کر دینا۔
اثر (فف) (ن) اونٹ کا اونٹنی
سے پے در پے جفتی کھانا جیسے
آثر الفحل م آثرا۔
اثر (فس) اثارۃ (فسف)
اثرۃ (فسف) (ض ن) حدیث
کی نقل کرنی اور روایت کرنی۔ آثر
(مک) صیغہ لغت ہے یعنے راوی۔
اثر (فف) ایک چیز کا بقیہ۔ جو چیز
کہ بعد وفات رہے۔ نشان عمر۔
آثار (مفس) اثور (ضفس) جمع۔
حدیث اور سنت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم۔ آثار (فس) جمع۔
اثرۃ (فف) (س) اچھی چیزوں کو
اپنے لئے چننا اوروں سے اور صلہ عطا
اثرۃ (ففف) اثرۃ (ضسف)
اثری (فسف) اسم مصدر ہے
اثر (فض) (ففک) لغت ہے۔

دار ہونا کسی شئ کا۔
اثفان (کسفس) کام کا کسی کے ہاتھ میں سے کھٹے ڈالدینا۔
اثفیہ (ضسکتف) چولھے کا ایک پایہ اسکا وزن فعلیۃ (ضسکتف) اور بعض کے نزدیک افعولۃ (ضسضسف) ہے اثافی (فضسک) جمع۔ عدد بسیار آدمیوں کا گروہ۔
اثقاف (کسفس) آگ بھڑکانی۔
اثقاف (کسفس) برابر اور مماثل کیا جانا مجہولاً مستعمل ہے۔
اثقال (کسفس) بوجھل کر دینا کسی پر بوجھ لادنا۔ حمل کا گران ظاہر ہونا۔ سست اور بھاری کر دینا۔
اثقوب (ضسضس) جو شخص ہر کام سے دانا اور ماہر ہو۔
اثکال (کسفس) بانجھ ہو جانا عورت کا۔ نئے فرزند کر دینا۔ خوشہ خرما۔
اثکول (ضسضس) خوشہ خرما۔ اثاکیل (فضسکس) جمع۔
اثکون (ضسضس) شاخ و خوشہ خرما۔
اثل (فس) جھاؤ کا درخت۔ اثلہ (فسعف) ایک درخت جھاؤ کا۔ اثلات
(فسفس) اثول (ضضس) جمع۔
آثل المال زکوۃ دی مال کی۔
آثل اہلہ اچھے کپڑے پہنائے اہل کو۔
اثلاب (فسقس) جمع ثلب کسر ال
اثلاث (کسقس) تین ہو جانا۔
اثلاج (کسفس) برف برسنا۔ دل کا یقین کرنا اور مطمئن ہونا۔ خوش کرنا۔ برف زدہ ہونا۔ برف میں پہنچنا۔ فتح پانی مخلصی پانی۔ کوئیں کھودنے والے کا گارے تک پہنچ جانا۔ کوئیں کا پانی رک جانا۔
اثلال (کسفس) بہت ثلّۃ والا ہونا۔ رخنہ دور کرنا اور اسکو درست کرنا۔
اثلب (فس) خاک بہت سے پتھر بہت سی کنکریاں۔
اثلہ (فسعف) گھر کی متاع یعنی کھانا جسے قوت لایموت کہتے ہیں۔ ساز و سامان سب کچھ۔
اثلغی (فسفک) عضو تناسل۔
اثلم (فسعف) بمعنی اثرم (فسعف) کہ عروض کے اصطلاح میں ملے ہیں۔
اثم (فس) اثام (فقس) گناہ گار گننا۔

ثفن ۳۴
ثقف ۳۵
ثقب ۳۶
ثقف ۳۷
ثقل ۳۸
ثقب ۳۹
ثکل ۴۰
ثکن ۴۱

الف ث

۱۵ اثل
۱۶ ثلل
۱۷ ثلب
۱۸ ثلث
۱۹ ثلج
۲۰ ثلل
۲۱ ثلب
۲۲ ثلغ
۲۳ ثلم
۲۴ اثم

ثرن
ثرن
ثرد
ثرو
ثطط
ثعل
ثعب
۴۰
ثعب
ثعج
ثعجر
ثغا
ثغر
ثغم
ثفا
ثفر
ثفل

غصے کے سبب سے سوج جانا۔
اِثْرَنْبَاجْ (کسکسفس) بکری کے
بچے کا پیٹ خوب پھول جانا۔
اِثْرِنْشَاءْ (کسکسفتم) آدمی کے
سینے کا پر گوشت ہو جانا۔
اِثْرِنْدَاءْ (کسکسفسم) بمعنی اِثْرِنْشَاءْ
اَثْرَمِی (فسف) بہت مالدار مرد۔
اَثَطُّ (ففت) جسکے رخساروں کے
بال داڑھی میں سے گر پڑے ہوں
یعنی چگی داڑھی رہگئی ہو سپیل۔
اِثْعَالْ (کسفس) مہمانوں کی
کثرت ہونی جیسے اُثْعِلَ الضِّیفَانُ
مزدوری زیادہ ہوجانی جیسے اُثْعِلَ
الاَجْرُ۔ زمین کا وبا ناک ہوجانا
جیسے اُثْعِلَتِ الاَرْضُ
اِثْعِبَانْ (کسفسفس) بمعنے اِثْعَبِی (کسفکت)
اِثْعِبَانِی (کسفسکت) بمعنے
اِثْعَبِی (فسفکت) وبمعنی اَثْعُوب (فسفس)
اِثْعَبِی (فسفکت) چہرہ بہت سپید خوبصورت
اَثْعَلْ (فسف) سردار بڑا بزرگ و تونگر
اِثْعِنْجَاجْ (کسکسفس) بہت اور
پے در پے برسنا۔
اِثْعِنْجَارْ (کسکسفس) آنسو کا بہنا۔

اِثْغَاءْ (کسفسم) بخشش کرنی۔ بولانا۔
اِثْغَارْ (کسفس) بچہ کا دودھ کے
دانت گرا دینا۔ دانت نکالنے سلغاع
اضداد سے ہے۔ منھ پھٹا ہونا۔
بچہ کا بوڑھا ہو جانا۔ منھ کچلا جانا۔
اس معنی میں مجہولاً مستعمل ہے۔
اِتِّغَارْ (کتکفس) بمعنی اِثْغَارْ (کسفس)
اِثْغَامْ (کسفس) درمنہ کو اوگانا
کہ وہ ایک کڑوی بو کی سپید گھاس ہے
کہ اُسے گھوڑے کھاتے ہیں۔
سپید ہوجانا درمنہ کی مانند۔ پر کردینا
برتن کا۔ غصہ میں جلانا کسی کو ناخوش کرنا
اَثْفٌ (فس) (ض) ہنڈیا کو
چولھے پر رکھنا۔ پیروی کرنی۔ ہانکنا۔
دفع کرنا۔ اَثْف (فک) پیرو وثابت
صیغہ لغت سے ہے۔
اَثْفٌ (فس) (ض ن) طلب کرنا۔
اِثْفَاءْ (کسفس) تین چولھوں میں کرنی
چولھے پر ہنڈیا رکھنی۔
اِثْفَارْ (کسفس) دمچی بنانی پیچھے
سے ہانکنا۔ چلنے سے نزدیک
پہنچنا۔ دُمچی باندھنی۔
اِثْفَالْ (کسفس) گدلی اور تلچھٹ

۱

ج

کام میں سست سست چلنے والا — بزرگوں کی دیوانہ کم تصرف —
اَثُول (مفصن) (من) جڑ پکڑ لینی اور مضبوط ہونا — اثیل (فکس) جڑ کا مضبوط صیغہ لغت ہے —
۲ اَثُولاَل (مسکفس) ثُولاء ہو جانا بکری کا یعنی دیوانہ ہو جانا بکری کا —
۳ اَثُوم (فضس) گناہگار — جھوٹ بولنے والا —
۴ اَثی (فنس) اثایۃ (کفسف) بمعنی اثوت جو گذر گیا ہے —
۵ اَثیل (خ) اثا و لتہ بڑی بڑی دیر میں اٹھنے والی سست چلنے والی —
۶ اَثیۃ (فسکتف) جماعت —
۷ اَثید (فسفسم) بازار عکاظ میں ایک جگہ ہے مکہ کے پاس کہ اسلام سے پہلے وہاں بڑا بازار جمع ہوتا تھا —
۸ اَثیر (فکس) تلوار کا جوہر یار خالص — و شیٔ کثیر اثیر بہت ہے —
اثیرہ (فکسف) چوپایہ کہ سم سے زمین میں بڑا نشان کرے —
۹ اَثیل (فکس) اونٹ جسکا ذکر بڑا ہو —
۱۰ اَثیم (فکس) جھوٹ بولنے والا گناہگار — بہت گناہ کرنا — مبالغہ ہے مصدر میں —
اثیمۃ (فکسف) بہت گناہ کرنا — یعنی مصدر میں مبالغہ کرنا ہے اثم میں
۱۱ اَثین (فکس) مضبوط جڑ کا استوار گٹھا ہوا
۱۲ اَج (فت) (ض ن) ایسا دوڑنا کہ دوڑنے والے کے بازو میں سے آواز آوے — سرعت کرنی —
۱۳ اَجا (فس) (ف) بھاگ جانا —
اجارۃ (کفسف) لانا مضطر اور ناچار کر دینا — جوتی کا تھنی یا اُس میں تسمہ سینا —
۱۴ اَجاب (کفنس) جواب —
اجابۃ (کفسف) جواب دینا و دعا قبول کرنی — جواب —
۱۵ اَجاث (کسم) بوزن اکرام ریحقل کر دینا — کسفس
۱۶ اَجاج (فنفس) کھاری پانی اور کڑوا —
۱۷ اجا اجا (فقس فقس) ایک لفظ ہے جس سے بکریوں کو بلاتے ہیں —
۱۸ اَجاح (نفس ضفقس کفسس و فس) پردہ —
۱۹ اَجاحۃ (فضسف) ہلاک کر دینا —

مادہ
اثب
اثر
اثل
اثم
اثن
اثی
اثی
اج
اجأ
اجب

۱۰ اثم
۱۱ اثن
۱۲ اج
۱۳ اجا
۱۴ اجب
۱۵ اجاث
۱۶ اجج
۱۷ اجا
۱۸ اجح
۱۹ اجح

اثم (کمک) گنہگار۔
اثم (کس) گناہ۔ وہ کام جسکا کرنا جائز نہ ہو
اثم (کس) (س) گناہ کرنا۔
آثمات (کفس) اسی طرح
آثمات جمع تھکے ہوئے اور آہستہ
آہستہ چلنے والی اونٹنیاں۔
اثماد (کسفس) اثمود کر دینا
اثمار (کسفس) میوہ لے آنا بسبب خشک
جمع ہو آنا مسکہ کا۔ بہت مالدار ہونا
مسکہ کے آنا دودھ کا۔
اثمال (کسفس) کچھ چیز باقی
چھوڑ دینی۔ بہت ملائی جمنی دودھ پر۔
اثمان (فسفس) اثمن (فسفض)
اثمنۃ (فسکفت) جمع ثمن (فف) کی
اور فقط اثمان جمع ثمن (ضس)
اور ثمین (فکس) کی۔
اثمان (کسفس) ان اونٹوں کا
مالک ہونا جو آٹھ دن میں ایک دن
پانی پیویں۔ آٹھ ہو جانا گنتی میں
مول کرنا۔ مول دینا۔
اثمد (کسک) سرمہ کا پتھر۔
اثمئداد (کسکفس) موٹا ہو جانا
اثنا (فسفسم) جمع ثنی (کف) کی

[redacted]
اثنا عشر (سفعسم) چھٹے سال میں اونٹ کا
تعریف کرنی۔ دوسرا ہونا۔
اثنان (کسفس) دو۔ مذکر کا
اثانین (فضکسع) پرانا ہو جانا۔
اثنبشہ (فسفت) کیلے کے درخت
کا گھنے اور آپس میں لپٹے ہوئے ہونا
اثن (ضفض) جمع۔
اثنتان (کسفس) دو مؤنث۔
اثنوی (کسفت) جو کہ پیر کے
دن ہمیشہ روزہ رکھے۔
اثناو (کسفضم) دوہرا ہو جانا۔ پھر جانا
اثو (فس)۔ اثاوہ (فضعف)
(ن) بادشاہ کے آگے کسی کی
چغلخوری کرنی یا عام ہے یعنی
ہر ایک کے آگے۔ صلہ ب اور علی
اثوا (فسفسم) دیر تک رہنا مکان
میں۔ اور ترنا۔ کسی کو اقامت کا ملازم
کر دینا۔ مہمانی کرنی۔
اثوار (فسفس) جمع ثور (فس)
کی بمعنے بیل۔
اثوب (فسعض) اثواب (فسفس)
جمع ثوب (فس) کی بمعنی کپڑا۔
اثول (فسعف) دیوانہ احمق بیچیر

درستی سے کے بیچنا چھپا دینا - اوپر
سے جھانکنا تاکنا -
اَجْبَاب (کسفس) اچھا گت آنا
اَجْبَاخ (کسفس) چند مکان میں
کہ جسمیں کھجور کے درخت میں کھٹے
سنگھاتے بہت سے بچھڑے
اَجْبَار (کسفس) کسی سے ازراہ
ظلم ایک کام کرانا - کسی کو مذہب
جبر کی طرف منسوب کرنا -
اَجْبَال (کسفس) پہاڑ پر جانا -
بخیل پانا - بات دشوار ہوجانی شاعر
سخن کا دشوار ہوجانا - سخت زمین پر
پہنچ جانا کوئیں کھودنے والے کا -
نامراد اور سست ہونا قوم کا مجہول
اور مجبور کرنا ایک شی پر -
اَجْبَان (کسفس) بزدل پانا -
کسی کو بزدل گننا -
اَجْبُح (فسف) اَجْبُل (فسفس) جمع
جبح (فس) کی یعنی شہد کی مکھی کا چھتہ -
اَجْبَش (فسف) ضعیف و سست -
اَجْبُل (فسفض) اَجْبَال (فسفس)
جمع جبل (فف) کی یعنے پہاڑ -
اَجْبُوُ (فسفض) جمع جمع جب (ف) کی

کی یعنے چہ بچہ
اَجْبَہ (فسف) شیر مرد کشادہ پیشانی
بڑے ماتھے چوڑے کا -
اَجْتِبَار (ففف) آ جانا دل میں گرمی
کی سختی اور اسکی سوزش اجاج جمع
اِجْتِبَاء (کسکفس) قبول کرنا
چن لینا اور مقبول کر لینا - مال کو
اسکی جگہوں سے لینا -
اِجْتِبَاب (کسکفس) کاٹنا -
اِجْتِبَاذ (کسکفس) کھینچنا -
اِجْتِبَار (کسکفس) ٹوٹے کو باندھنا
کسی کا حال اچھا کر دینا - دولتمند کرنا
درست اور خوشحال اور دولتمند ہو جانا -
اِجْتِبَان (کسکفس) بمعنی اجبان
(کسفس) پنیر بنانا دودھ کا اور بزدل پانا کسی کو
اِجْتِبَاہ (کسکفس) کسی چیز کو
خلاف طبع سمجھنا - ناگوار -
اِجْتِثَاث (کسکفس) جڑ سے
اکھاڑ ڈالنا - کاٹ ڈالنا -
اِجْتِثَاح (کسکفس) جڑ سے اکھاڑ ڈالنا
اِجْتِحَار (کسکفس) سوراخ بنانا -
اِجْتِحَاف (کسکفس) اچک لیجانا
تین انگلیوں سے پکڑنا پرے کو

جنذ
جبب
جبخ
جبر
جبل
جبن
جبح
جبش
جبل
جبو
جبہ
۵ جبر
جبہ
جبن
جبہ
جثث
جثح
جحر
جحف

جھڑنے سے اوکھاڑ ڈالنا۔
اَجَاوِر (کفس) جو چیز کہ چھوٹے طاق کی مانند ہو۔
اَجَادَہ (کفسف) نیا کر دینا اچھی اور کھری بات کہنی بخشنا گھوڑے کا تیز رو ہونا۔ اچھا چلنے والے گھوڑے کا مالک ہونا۔ زور کا مینھ برسانا مینھ کا جواد اور سخی کا بیٹا جننا۔ اچھا کہنا القصد
اَجَّار (کتف) انجار (کسفس) گھر کا کوٹھا اوپر کا۔ اجاجیر (فکسس)
اجاجیرہ (فکسف) اناجیر (فکسم جمع)
اجاحر (فسف) بہت زیادہ دلدار۔
اُجَارَۃ (کفسف و ضقسف و فقسف) اجرت اُجرت دینا۔ مزدوری بھی۔
اَجَارَۃ (کفسف) مخلصی دلانی پناہ دینی۔ راہ سے پھیر دینا۔ برتن میں کرنا چیز کو کسی کا بدرقہ ہو جانا۔
اَجَازَۃ (کفسف) روا رکھنا حکم اور پروانگی دینی سگھائل کو مار ڈالنا مسافت قطع کرنی کسی کو ایک جگہ سے گذار دینا۔ صلہ اور بخشش دینی۔ چوپایہ اور کھیتی کو پانی دینا کسی کی رائے کو روا رکھنا۔

اَجَاص (کتقس) آلو کہ ایک دوا ہے جو تشنگی کو بجھاتی ہے۔
اَجَاعَۃ (کفسف) بھوکا کر دینا بھوکا رکھنا
اَجَافَۃ (کفسف) دروازہ کھولنا اور پھیرنا لغات اضداد سے ہے۔ اندر تک نیزہ اوتار دینا سر جانا مُردار کا۔
اَجَالَۃ (فسف) پھر آنا
آجَام (فضس) بہت سے مینڈک
اِجَّانَۃ (کتفسف) اِنجانۃ (کسفسف) اِیجانۃ (کسفسف) کاسہ اور پیالہ تانبے کا اور گھڑے کا پیمانہ جو پانی میں رہتا ہے۔ اجاجین (فکسس) جمع۔ کتب فقہ میں اجانۃ (کتقسف) بمعنی تھالا درخت کے مستعمل ہوتا ہے۔
اَجَاوِد (کسکفسم) اچھی ہونا گھوڑے کا نیک کمیت۔
اَجِبَاء (فسقسم) جمع جبا (فع) کی یعنی کو من کی مینڈہ۔
اجبا (کسفس) اونٹوں کو مصدق یعنی زکوۃ لینے والے سے چھپانا۔ دانے پکنے سے پہلے کھیتی کو بیچنا کھیتی دار ہو جانا زمین کا کھیتی کو قبل از ظہور

اَلارض گھنی گھاس والی ہوئی زمین

اِجتصاص (کسکفس) چونہ گچ کرنا۔ رلا ملا ہونا۔

اِجتعاف (کسکفس) اوکھاڑنا۔

اِجتعال (کسکفس) کرنا مزدوری لینی

اِجتفاء (کسکفسم) جڑ سے اوکھاڑنا ساگ کا جیسے اجتفاء البقل۔

اِجتقاء (کسکفسم) کسی کو اسکی جگہہ سے دور کر دینا۔

اِجتفات (کسکفس) سبال کو تباہ کر دینا

اِجتفار (کسکفس) باز رہنا ساتھ کا بھی سے

اِجتفاف (کسکفس) سب کھا جانا برتن میں کی چیز کا جیسے اشتفاف لیا جانا

اِجتلاء (کسکفسم) گھر بار سے باہر نکالدینا۔ دولہا دولھن کو جلوہ دینا۔ کسی چیز کیطرف تامل سے دیکھنا۔ عمامہ کو پیشانی سے اونچا کرنا۔

اِجتلاب (کسکفس) ایک جگہہ سے دوسری جگہہ کھینچ لیجانا۔

اِجتلات (کسکفس) مارنا سب کا سب کھا لینا یا پیجانا۔

اِجتلاد (کسکفس) سب کا سب پی لینا تلوار سے ایک دوسرے کو مارنا۔

اِجتلاط (کسکفس) اوچک لیجانا سب کا سب کھا جانا۔

اِجتلاف (کسکفس) اوکھاڑنا اور جڑ سے نکال لینا۔

اِجتلال البعر مینگنی چننی یعنی آگ جلانے کیواسطے چیزین سے اچھی لینی۔

اِجتمار (کسکفس) عود کو مجمر مین جلانا۔

اِجتماع (کسکفس) اکٹھا ہونا۔ جوان اور قوی ہونا مرد کا اور اسکی تمام ڈاڑھی کا نکل آنا۔

اِجتمال (کسکفس) بدن کو چربی ملنی یا چربی پگھلانی۔

اِجتناء (کسکفس) میوہ توڑنا درخت سے پانی پر وارد ہونا اور اسکو پینا۔

اِجتناب (کسکفس) دور ہونا گوشہ مین بیٹھنا۔ پرہیز کرنا جیسے بچنا یا بچانا

اِجتناح (کسکفس) میلان کرنا اور بمعنی تجنح (تفتعل) اور اونٹنی کا تیز چلنا یا پاؤن کا اسکے ہاتھون کے نیچے پڑنا تیز روی کے سبب گھوڑون کا دوڑنے مین ایک پہلو پر میلان کرنا۔

اِجتناج (کسکفس) پوشیدہ ہونا

ماده

جصص
جعف
جعل
جفو
جفا
جفت
جفر
جفف
جلو
۴۷
جلب
جلت
جلد
جلط
جلف
جلل
جمر
جمع
جمل
جنی
جنب

جدو
جدث
جدح
جدر
جذب
جدل
جرء
جرح
جرر
۴۴

کھینچ لینا تمام شی کا۔
۱ اِجتداء (کسکفس) مانگنا۔
۲ اِجتداث (کسکفس) قبر بنانی۔
۳ اِجتداح (کسکفس) گھولنا۔
اِجتداح السویق گھولا ستو۔
۴ اِجتدار (کسکفس) دیوار بنانا۔
۵ اِجتذاب (کسکفس) کھینچنا اور اوچک لے جانا۔
۶ اِجتدال (کسکفس) خوش و خرم ہونا۔
۷ اِجتراء (کسکفسم) دلیر ہونا۔
۸ اِجتراح (کسکفس) کمائی کرنی۔
۹ اِجترار (کسکفس) جوگالی کرنی اونٹ کی کھینچنا۔
۱۰ اِجتراس (کسکفس) جمع کرنا کسب کرنا یعنے کمائی کرنی۔
۱۱ اِجتراش (کسکفس) جمع کرنا مال کمانا۔ اوچک لیجانا۔
۱۲ اِجتراع (کسکفس) لکڑی درخت سے توڑنی۔ پانی میں کسی چیز کو پیچھے لے جانا۔
۱۳ اِجتراف (کسکفس) جڑ سے اوکھاڑنا لیجانا۔ ہلاک کر دینا۔
۱۴ اِجترام (کسکفس) پھل اندازہ کرنا درخت کا۔ کمائی کرنی۔ گناہ کرنا۔ خرما توڑنا درخت پر سے۔
۱۵ اِجتران (کسکفس) جرین بنانا یعنے خرما بنانا۔ یا کھلیان کی جگہ بنانی یا خرما خشک کرنے کی جگہ بنانی۔
۱۶ اِجتزاء (کسکفسم) اکتفا اور قناعت کرنی۔
۱۷ اِجتزاء (کسکفسم) کام کا بدلہ چاہنا۔
۱۸ اِجتزار (کسکفس) اونٹ کو ذبح کرنا۔ اونٹ بکریوں کو ذبح کے لیے لینا۔
۱۹ اِجتزاز (کسکفس) کاٹنا۔
۲۰ اِجتزاع (کسکفس) توڑنا اور کاٹنا۔
۲۱ اِجتزاف (کسکفس) اٹکل سے خریدنا۔
۲۲ اِجتزام (کسکفس) اٹکل اور اندازہ کرنا۔ خریدنا۔ لینا۔
۲۳ اِجتسار (کسکفس) چل نکلنا۔ عبور کرنا۔ گذر جانا۔
۲۴ اِجتساس (کسکفس) اپنے منھ سے چرنا۔ ہاتھ پھیرنا۔
۲۵ اِجتساع (کسکفس) جوگال پیٹ میں سے منھ میں لانا۔
۲۶ اِجتشاء (کسکفسم) موافقت نکرنی ایک چیز کی دوسرے کو۔
۲۷ اِجتشاش (کسکفس) جیسے اجتشت

| مادہ | | |
| --- | --- | --- |
| جحن<br>نحہ<br>جحنش<br>جحش<br>جحو<br>جحرا جح<br>جحف<br>جحسب<br>جحج<br>جحرو<br>۹۴<br>جدر<br>جدع<br>جدق<br>جدل<br>جدم<br>جدن<br>جدد<br>جدث<br>۱۲ | کی۔ دادا۔ اور نانا۔<br>اجداد (کسفس) کٹنے کے وقت کو پہنچ جانا پھل کا۔ بنا کرنا۔ زمین جلد سے میدان برابر سخت پر جانا۔ جلد ہو جانا رستے کا۔ کام میں کوشش کرنی کام میں درستی مد نظر رکھنی<br>اجدار (کسفس) جذر ناک ہونا مکان کا جذر ایک گھاس ہے کہ ریت میں اوگتی ہے چنے کے برابر پھل نکل آنا گھاس کا سر اچھپک کی مانند نمودار ہونا<br>اجداع (کسفس) بدآواز کردینا بچے کا۔ روک ٹوک کرنی۔<br>[11] اجداف (کسفس) شور کرنا۔ نعمت کی ناشکری کرنی اور اسکو کم جاننا۔<br>[12] اجدال (کسفس) ہرنیوں کے ساتھ انکے بچوں کا چلنا۔<br>[13] اجدام (کسفس) گھوڑے کو کلمہ اجدم سے ڈانٹنا۔<br>[14] اجدان (کسفس) بعد محتاجی کے دولتمند ہو جانا۔<br>[15] اجدان (فقفس) رات دن۔<br>[16] اجدث (فسفس) احداث (زر) جمع جدث (فس) کی۔ | اجحان (کسفس) ناگوار کردینا۔ تنگی کرنی بسبب فقر کے یا بخل کے۔<br>اجحنشاش (کسفس) بچے کا بڑا ہو جانا<br>اجحار (کسفس) کوئیں کا سر فراخ کرنا۔ پانی کو کوئیں کے غیر جا سے روان کرنا۔ اچھی طرح سے آبدست نہ لینی۔ عورت گندہ فرج کو نکاح میں لانا۔<br>اجد (کف) ایک کلمہ ہے جس سے اونٹوں کو زجر کرتے ہیں۔<br>اجد (فض) اونٹنی مضبوط پیدائش کی کہ اسکی پیٹھ کے مہرے ایسے پیوستہ ہوں یہہ لفظ خاص ہے مادین کے ساتھ نر پر اسکا اطلاق نہیں آتا<br>اجداء (کسفس) بخشش وعطا کسی پر عطا کرنی۔ جاری ہونا۔<br>اجداب (کسفس) زمین کو خشک اور چٹیل پانا۔ یا محط ہونا خشک سالی سے نباتات ہو جانا۔<br>اجداح (کسفس) ستو گھولنا۔ داغ مجدح کرنا اور داغ مجدح (کسفع) اسکو کہتے ہیں جو اونٹ کی ران پر لگاتے ہیں<br>اجداد (فسفس) جمع جد (فت) |

[illegible]



ج

اَجتِواء (کسکفس) ناپسند رکھنا۔
اِجتِوار (کسکفس) ہمسایگی کرنی
اِجتِہاد (کسکفس) کوشش کرنی
بہت کوشش کرنی اور اسے
اجتہاد بھی کہتے ہیں۔
اِجتِیار (کسکفس) خوب کس لینا شکر کو
اپنے پہرہ رکھنا اور قابل دیدبانا
کوئیں کا سارا پانی کھینچ لینا۔
اُجتِہاف (کسکفس) زور سے
پکڑنا ایک چیز کو۔
اِجتِہام (کسکفس) جیم شب میں
آنا یعنی پچھلی رات میں آنا۔
اِجتِیاب (کسکفس) لباس پہننا
کنواں کھودنا پھاڑنا مسافت قطع کرنی
اِجتِیاح (کسکفس) ہلاک کردینا
جڑ سے اوکھاڑ ڈالنا۔
اِجتِیاز (کسکفس) ایک جگہ سے
گذر جانا۔ مسافت طے کرنی
نجات کو دوست رکھنا۔
اِجتِیاس (کسکفس) اچھی طرح سے
دیکھ ڈھونڈھنا چیز کو گھر میں اور جگہ میں
لوٹنے کے لیے پھرنا اور جو جو کچھ
اسمیں ہو اسکو جا لینا۔

اِجتِیاف (کسکفس) کسی چیز کے
اندر آنا۔ سڑ جانا مردار کا۔
اِجتِیال (کسکفس) گرد پھرنا قصد
ارادہ سے پھر دینا۔ چھانٹ لینا۔
اِجثام (کسفس) زانو پر بیٹھنا۔
اِجثِلال (کسکفس) بہت گاڑھا
سے پھولا لینا۔ اور گہنا ہونا
گھاس کا یا اسقدر ہونا کہ پکڑ سکیں حصہ
آنا اور لڑائی اور شور شر کے لیے آمادہ ہونا
اَجّج (فتح) (ف) دشمن پر حملہ کرنا اور
اجحام الطریق شاذ ہے۔
اِجحاد (کسفس) محتاج ہونا کم خیر
ہونا۔ گھاس کا نہ رہنا۔
اِجحار (کسفس) جمع جحر بمعنی سوراخ
اِجحار (کسفس) سوراخ میں گھسا
دینا کسی کو مضطر کرنا یہاں تک کہ وہ
سوراخ میں گھس جاوے جیسے اجحر
فلان الشتاء یا محتاج ہونا قحط میں
پڑ جانا۔ اجحرت النجوم روشن ہوستارے
اِجحاف (کسفس) لیجانا محتاج
کردینا اور مضرت پہنچانی نزدیک ہونا۔
اِجحام (کسفس) ٹھہر جانا کہ ...
ہلاک سے قریب پہنچا دینا۔

اُجراء (کسفتم) ہانکنا جاری کرنا کسی کو وکیل کرنا۔ وکیل بھیجنا۔

دانہ پڑ جانا گھاس میں۔

اُجراب (کسفس) خارشی اونٹوں والا ہونا۔

اُجراذ (کسفس) باہر نکالنا اور جدا کر دینا۔ ناچار کر دینا۔

اُجرار (کسفس) جوگالی کرتی اونٹنی کی۔ اونٹ کا سبب ہار ہو جانا مہلت دینی ادائے دین کے لئے نیزہ کو زخم میں چھوڑ کر پھر اسے کھینچنا۔ شتر بچہ کی زبان چیر دینی کہ دودھ نہ پی سکے۔ راگ میں کسی کو کسی کے پیچھے لگا دینا۔

اُجراز (کسفس) بمعنی جرز یعنے زمین بے نبات جسیم۔ دبلا ہو جانا۔ زمین کا خشک سالی میں آ پڑنا۔ ناچار کرنا سختی کی طرف۔

اُجراس (کسفس) جانوروں کے پیروں کی آواز بوقت تیز پری۔ حادی کی آواز کرنی حدا میں۔ زیور سے آواز آنی کسی کے پانو کی آواز سننی۔

اُجراص (کسفس) کسی کے گلے میں تھوک اٹکوا دینا۔

اُجراع (کسفس) بچہ دار ہونا دربند کا

اُجراف (کسفس) گھاس لپٹی ہوئی گھنی اونٹ کو چرانی۔ ایک جگہ میں روکا آنا اور بہا لیجانا۔

اُجرال (کسفس) زمین کھودنی یہانتک کہ پتھر تک پہنچ جاویں۔

اُجرام (کسفس) بمعنی جرم زر اور جمع جرم (کس) کی اور جرم ہاے سنگ اوزار اور اسباب بھی گھر کی۔

اِجرام (کسفس) گناہ کرنا کسی کے ذمہ گناہ نکالنا۔ سنگا ور بڑا ہو جانا۔ رنگ صاف ہونا۔ خون چپٹ جانا۔ آواز صاف ہونی۔

اُجران (فقفس) آدمی و پری۔

اُجران (کسفس) کھلیان کی جگہ میں اکٹھا کرنا ایک چیز کو۔

اَجرب (فسفت) خارش والا۔

اجارب (ففسک) جمع۔

اَجربۃ (فسکف) جمع جراب (کفس) اور جمع جریب (فکس)۔

اُجرۃ (ضسف) مزدوری کرایہ۔

اَجرد (فسفت) اونٹ جو بیماری جرد میں مبتلا ہو۔ چوپایہ کا ذکر پیچھے

فائدہ علامات اعراب ضمہ کسرہ فتحہ یعنے ض ضمہ ف فتحہ ک کسرہ س سکون ش تشدید م

اَجدع (فسف) شیطان۔ وہ جسکی ناک یا کان یا ہونٹھ یا ہاتھ کٹا ہو۔
اَجذَم (فسف) ایک کلمہ ہے جس سے گھوڑے کو ڈانٹتے ہیں۔
اَجذا ء (کسفسم) جگہہ پر کھڑا ہوجانا چربی دار ہوجانا کوہان شتربچہ کا نکلنا
اَجذا ر (کسفس) جڑ سے اوکھاڑنا۔
اَجذا ع (کسفس) قید خانہ مین رکھنا جذع ہوجانا چوپائے کا یعنی بکری اور گائے کا دوسرے سال مین اور گھوڑے کا تیسرے سال مین بعد اونٹ کا پانچوین سال مین حامل ہونا۔
اَجذا ل (کسفس) خوش وخرم کرنا۔
اَجذا م (کسفس) ہاتھ کاٹنا۔ تیز چلنا تیز دوڑنا گھوڑے کا رک جانا ایک کام سے قصد کرنا۔
اَجذَم (فسف) ہاتھ کٹا جسکی اونگلیان گرگئی ہون بیماری جذام سے مبتلا
اَجذ مرار (کسکسفس) جھگڑے اور گالی گلوچ کو آمادہ ہونا۔ گھاس کا اوگنا اور دراز ہونا۔
اَجَر (فض) حمل کا بدلہ اجور (ضضس)
اَجار (ضفس) جمع ذکر نیک۔

عورت کا مہر۔
اَجر (فس) (ض ن) بدلہ دینا۔
اَجر (فس) (ن) مزدور ہونا کرایہ کو دینا۔ اُجِرَ فُلَانٌ فِی اَوْلَادِہٖ یعنی اوسکے فرزند مرگئے اور اوسکے لیے اجر ہوگئے مجہولاً مستعمل ہے۔ اَجَرَتْ یَدُہٗ باندہا گیا ٹوٹا ہوا ہاتھ اوسکا مجہولاً مستعمل ہے۔ آرتیہ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ ثواب بے نقصان
اَجر (فس) اجار (کفس) کہ
اَجور (ضضس) ٹوٹی ہوئی ہڈی مین بعد صحت کے کجی رہجانی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو کجی پر باندہنا۔
آجر (مضت) پکی ہوئی اینٹ۔ یونانی لفظ سے معرب ہے اسمین دس لغت اکثر ہین اُجور (مضس) یا جور (فسفس) اَجّور (فضس) آجُر (ضفض) اُجر (فض) آجِر (مک) آجُر (مض) اُجرہ (فلف) آجرون (کفس) آجرون (مفضس)
آجُر (فس) اَجریۃ (فسکف)
اَجرا ء (فسفم) جمع جرو (ن) بمعنی جمع جرو (کی)
اَجرا ء (فسفم) اَجر یا (فسکفسم) جمع جری کی۔

ماده

بیٹی جننی عورت کی - حق ادا کرنا کسی
چیز سے مکافات کرنی - اور تھون کو
ہرا چارہ چرا کر پانی سے بے پروا کرانا -
اَجزار (کسفس) ذبح کروانا - وقت
ذبح کرنے کا آپہنچنا - مرگ کا وقت
قریب آنا - پھل توڑنے کا وقت آجانا -
اَجزاز (کسفس) خشک ہونا
اور پک جانا - کاٹنے کا وقت پہنچ جانا
درخت کے پھل اور کھیتی وغیرہ کا -
کسی کو پشم دینی بکری کی - بال
کترنے کے لائق بکریوں کا اور
کٹی ہوئی کھیتی کا مالک ہونا -
اَجزاع (کسفس) بے صبر کر دینا
بے تاب کر دینا - باقی چھوڑ دینا -
اَجزال (کسفس) گھائل کر دینا
پالان کا کوہان شتر کو - بہت دینا -
اَجزل (فسف) اونٹ جسکا کندھا زخمی ہو
اَجزن (فسفض) جمع جزن (س)
کی یعنے خشک لکڑی -
اَجساد (کسفس) زعفران وغیرہ
میں رنگنا - بدن سے چپٹا ہوا کپڑے کو -
اَجسم (فسف) قد آور اور تیار انسان
اَجسئنان (کسفس) سخت اور کھردرا ہونا

اَجش (فقف) سخت آواز والا آدمی
ہو یا گھوڑا وغیرہ سخت آوازوں میں
ایک آواز جو ناک کے نتھنے سے
نکالیں اور اُس سے الاپیں -
اَجشاش (کسفس) کوٹنا
توڑنا - دلیہ کرنا گیہوں کا -
اَجشام (کسفس) کسی پر ایک
کام کی تکلیف ڈالنی -
اَجط (کس) ایک کلمہ ہے کہ اُس سے
بکریوں کو جھڑکتے ہیں -
اَجطاظ (کسفس) تکبر کرنا سرکشی کرنی
اَجعاظ (کسفس) بھاگ جانا
بہت دوڑنا - ہانک دینا -
اَجعاف (کسفس) زمین پر دے مارنا
اَجعال (کسفس) مزدوری دینی
چولھے پر سے ہنڈیا اوتاری کپڑے سے - کتیا وغیرہ کا نر
کی خواہش کرنا -
اَجعام (کسفس) حریص کے او کھانے ڈالنا
اَجعان (کسفس) بیکار اور سخت
ہو جانا کسی کے گوشت کا -
اَجفاء (کسفسم) جھاگ لے آنا
ہانڈی کا اور نالہ کا - دروازہ بند کرنا

۵۳



ج

بہت سبقت کرنے والا۔ گھوڑا جس مین
پوشیدگی نہو۔ اجارد (فتسکک) جمع
مرد ننگے بالونوالا جرد (ضنسع) جمع چھوٹے
اور پتلے بالون کا گھوڑا۔ پورا دن
اجیرد (کسکت) ایک گھاس ہے
کہ کھیتی کی جڑ مین اوگتی ہے اور اُس
سے کھیتی کا نشان معلوم کر لیتے
ہین یا جریدۃ (کسکتف) ایک روید ہے
اجیردان (فتفعس) دو دن یا دو راتین
اجرعو (فسعف) مرد جو کہ رفتار مین
پانؤن کے بیچے پاس پاس رکھے
اور ایڑیان دور دور۔

۵۲

اجرع (فسعف) بمعنی جرعہ (فقفہ) ہیشا برابر
اجرعباب (کسکفس) زمین پر گر پڑنا
اجرعنان (کسکفس) میلان
کرنا۔ ہلنا۔ یکدم سے گر پڑنا۔
اجرمزاز (کسکفس) بمعنی مجرمزہ
رات آخر ہونی۔ ایک چیز مین کا بعض
بعض کیطرف سمٹ جانا۔
اجرنباء (کسکفسم) نے تکیہ سونا
اجرنثام (کسکفس) اوپر سے
نیچے گر پڑنا جمع ہونا۔ اکٹھا ہونا
جگھہ کو لازم پکڑنا۔

اجرنماز (کسکفس) سمٹ کر
ایک جگھہ مین آنا۔
اجرہداد (کسکفس) دراز ہونا
رات کا۔ ہمیشہ رہنا پیچھہ کاٹنے
گھاس ہو جانا زمین کا۔ سال کا سخت ہونا
اجہری (کسکت) روش اور عادت
وکیل۔ ایلچی۔ سپاہی۔
اجریاء (فسکفسم) جمع جری (فکعت)
کی۔ وکیل۔ ایلچی۔
اجریا (کسکتف) بمعنی اجریۃ (کسکت)
یعنے روش اور عادت۔
اجرنباب (کسکفس) گردن لمبی
کرنی دیکھنے کے لیے۔
اجرنشاش (کسکفس) لاغر ی
کے جسم موٹا ہو جانا۔ اونٹون کا
پیٹ شکم اور موٹا ہونا۔
اجزاء (فسکفسم) جمع جزو (ضس) کی
اجزاء (کسکفسم) نائب سے کام
سر انجام ہو سکنا۔ بے پروا کر دینا۔
چھری مین دستہ لگانا۔ کفایت کر جانا
ایک چیز کا سا انگوٹھی کو انگلی مین داخل
کرنا۔ بے پروا ہونا۔ چھری وغیرہ کا
دستہ بنانا۔ چراگاہ کی گھاس کھیتی ہونی

علامات اعراب ضمہ ـُ فتحہ ـَ کسرہ ـِ یعنے ض ضمہ ف فتحہ ک کسرہ س سکون ت تشدید ـّ

وحشی گایون کا ریوڑ۔ آجال مفرد
جمع۔ ابو شمس کہ کتاب لغت ہی آئینہ
ہی کہ اجل اونٹون اور ہرنون کا گلہ۔
اَجِلَ ـُـ (کس) (س) تکیہ کی ناہمواری
سے گردن کا درد کرنے لگنا۔
اجل (فس) (ض ن) کسی پر بدی
اوٹھانی جیسے اَجَلَ الشَرَّ عَلَیہِم اَجلاَ
اَجلاء (کسفس) گھر بار سے نکل
جانا گھر بار سے نکال دینا۔ دور ہونا
وضع ہونا۔ تیز چلنا۔
اَجلاب (کسفس) اکٹھا ہونا اور غل
و شور کرنا جیسے اَجلَبَ القَومُ اپنے
کھینے کے لیئے کمائی کرنی جیسے اَجلَبَ
لاِہلِہٖ گھوڑے کو اٹھانا جیسے
اَجلَبَ الفَرَسَ گھوڑے پر دوڑانے
کے وقت آواز لگانی کہ آگے نکل
جاوے جیسے اَجلَبَ عَلیٰ فَرَسِہٖ
خون کا خشک ہو جانا جیسے اَجلَبَ الدَّمُ
زخم کا پوست سمٹ آنا اور اچھا ہو جانا
جیسے اَجلَبَ الجُرحُ پالان کچا چمڑا
منڈھنا یہانتک کہ وہ سوکھ گیا ہو۔
جیسے اَجلَبَ القَتَبَ۔ امانت کرنی
چمڑے میں منڈھنا تعویذ کو جیسے

اَجلَبَ العُوذَۃَ و نیز (اجلاب) (کسفس)
ڈرانا اور اکٹھا کرنا۔
اَجلاد (فسفس) جمع جلد (فس) کی بمعنی
چابک اور جلد (کس) کی بمعنی چمڑے اور جلید (فکس) کی
بمعنے چابک۔
اَجلادُ الاِنسَان آدمی کا بدن اور
اُسکا کالبد یعنی جسم۔
اجلاد (کسفس) پتنگی دار ہو جانا زمین کا
کسی کو کسی کی طرف مضطر کرنا۔
اَجلاس (کسفس) بٹھانا۔
اَجلاف (کسفس) زخم کے سرے پر
سے مٹی کہر جیسی چیز صاف کرنی۔
اَجلاک (کسفسف) تیرے واسطے
اِجلال (کسفس) بزرگ مرتبہ کر دینا
قوی ہونا ضعیف ہونا۔ لغات اضداد
سے ہے۔ کسی کو بڑا اونٹ دینا۔
اَجلَۃ (فسکف) دوسرا جہان یعنے
آخرت۔ جو چیز مہلت سے ہو
اَجلَح (فسفف) ننگا ہو وہ چھپّا کہ
چار دیواری اُسپر نہو۔ مرد جسکے سر کے
آگے کے بال کم ہون۔
اِجلِہمام (کسکسفس) جمع ہونا۔
اِجلِخاخ (کسکسفس) کم زور دست

ماده
جلب
جلد
جلس
جلف
جلل
جلح
55
جل
اجل
جلح
جلہم
جلخ

12

ج

جفر
جفل
جفن
جفل
جفا
جکر
جل

۱۲۱۲
۱۲
۵۸

تہکا دینا چوپائے کو اور چرنے نہ دینا ڈالدینا بے خیر و برکت ہو جانا گھوڑے کی پیٹھ پر سے زین اتارنا دور کرنا ۔ دفع کرنا ۔

**اَجفار** (کسفس) ناپید ہوجانا جماع سے رک جانا ۔ ملاقات ترک کردینی ترک کرنا صحبت سے یا رہنا ساتھ کا بد بودار ہوجانا مرد کا ۔

**اِجفال** (کسفس) تیز چلنا ہوا کا اور اڑا لیجانا ہوا کا شترمرغ کا زمین چلنا اور دوڑنا دوڑانا اور ہنکانا ۔ جگہ چھوڑ دینی اور چل دینا ۔

**اَجفان** (فسفس) اجفن (فسفف) جمع جفن (فس) کی ۔ آنکھ کی پلک ۔

**اِجفان** (کسفس) بہت جماع کرنا ۔

**اَجفلہ** (فسفف) جماعت ۔

**اَجفلی** (فسفف) عام مہمانی ۔ ہر چیز کی جماعت ۔ گروہ ۔

**اِجفیظاظ** (کسکسفس) سوج جانا ۔

**اِجکار** (کسفس) جھگڑنا اور گڑگڑانا بیع میں اور بعض دین میں ۔

**اَجل** (فس) (من) گردن کے درد کی دوا کرنی بند کرنا ۔ روکنا ۔

**اَجل** (فس) (من ن) کسی کے ساتھ برا کرنا ۔ یا کسی پر شر کو انگیختہ کرنا ۔ آجل خیانت کرنے والا صیغہ لغت ہے ۔ اپنے گھر کے لوگون کے لیے کچھ کام کرنا ۔ اور مال کو جمع کرنا اور انکے لیے حیلہ کرنا ۔

**آجل** (مک) آجلہ (مکف) وہ جہان یعنی آخرت ۔ جو چیز کہ مہلت کے ساتھ ہو

**اَجل** (فتن وکتف) نر بکری ہی اور بعض کے نزدیک یہی ایل ہے کہ جسے فارسی مین گاؤ کوہی کہتے ہین ۔

**اَجل** (فف) زمان عمر کی نہایت ادائے قرض کی مدت کی نہایت ۔ ہر چیز کی مدت ومہلت ۔ آجال (مفس) جمع اور اَجَل (ففس) بمعنی ہان نعم کی مانند لیکن اجل (فف) جواب تصدیق مین بہتر ہے اور نعم جواب استفہام مین بہتر جواب ہے ۔ اور مذہب مین یعنے قریب ہے کہ جاوے گا تو اجل کہنا چاہیے اور آیا مذہب کے یعنی کیا جاویگا تو جواب مین نعم ۔

**اَجل** (فکس) درد گردن ہا سرہانے کے تکیہ کی ناہمواری سے گردن میں پیچ جانا ۔

ایک کام جو اکیلا ہو [illegible]
سکے [illegible] گر [illegible] نا
گھوڑا [illegible] دینا [illegible]
تیار کرنی [illegible]
[illegible] کر لینا [illegible]
[illegible] چاند کا [illegible]

اجحرت الغلہ [illegible] گھوڑے کو [illegible]
[illegible] جمع کرنا [illegible]
اجماع [illegible] ساتھ [illegible]
[illegible] کا [illegible]
[illegible] کے [illegible] کا [illegible]
کرنا [illegible] کرنا [illegible] کر دینا
[illegible] کر [illegible] کو [illegible] کرنا
[illegible]
اجمال [illegible] جو [illegible] پیدا [illegible] مطلب
[illegible] زیادتی [illegible]
[illegible] جمع کرنا [illegible]
اچھی طرح [illegible] کرنا [illegible]
[illegible]
اجماع [illegible]
[illegible] کے [illegible] کا
[illegible] جمع [illegible]
[illegible] دینا [illegible]

[illegible] کا [illegible]
[illegible] جا کر [illegible]
اجحمہ [illegible] سے [illegible]
[illegible] کے [illegible]
[illegible] کرنا [illegible] کہ [illegible]
[illegible] نشیب [illegible] کی
[illegible] کی جگہ [illegible]
اجحم [illegible] جاہم [illegible]
[illegible] جمع [illegible]
اجحیج [illegible]
[illegible] کے [illegible]
اجحن [illegible] کا [illegible]
کا [illegible] کو [illegible] نا
اجحن [illegible] اجحن [illegible]
اجحن [illegible] پانی کا رنگ [illegible]
[illegible] بدل جانا۔ آجن [illegible]
رنگ [illegible]
اجحنا [illegible]
اجنا [illegible] منہ کے بل گر پڑنا۔
اجنا [illegible] درخت کا میوہ
[illegible] گھاس [illegible]
[illegible]
اجنا [illegible]

ہڈی موالا ہو جانا۔ دونون بازوون کو سجدہ مین کشادہ رکھنا۔

اِجْلِخْبَاب (کسکسفس) گر پڑنا۔

اِجْلِخْمَام (کسکسفس) اکٹھا ہونا لوگون کا۔ سرکشی کرنی بہت ہونا۔

اَجْلَد (فسنف) زمین ہموار برابر۔

اَجَالِد (ففسک) جمع۔

اَجْلَع (فسنف) جسکی شرمگاہ ہمیشہ ننگی رہے۔ جسکے اگلے دانت نیچے کے ہونٹھ کیطرف سے کہلے ہوون۔

اِجْلِعْبَاب (کسکسفس) لمبے پاؤن پھیلا کر سونا۔ تیز چلنا۔ بہت ہونا۔ پراگندہ ہونا۔ تمین تیرہ ہونا۔

اِجْلِعْدَاد (کسکسفس) لمبا گر پڑنا۔

اِجْلِنْخَاء (کسکسفسم) اونٹ کا بیٹھنا۔

اِجْلِنْظَاء (کسکسفسم) غصہ کا بھرا ہوا ہونا۔ چت لیٹ کر پاؤن اونچے اوٹھانے۔ پہلو پر لیٹ کر پاؤن دراز کرنے۔

اُجْلُنْقَاع (کسکسفس) جسیم اور پتیل ہونا۔

اِجْلِوَّاذ (کسکتفس) تیز چلنا۔ مینھ برسنے کو مدت کھنچ جانی۔

اِجْلِوَّاط (کسکتفس) راست اور استمرار کے ساتھ ہونا۔

اَجْلَہ (فسنف) مرد کشادہ پیشانی کا۔ بے سینگ کی۔

اَجْلَی (فسنف) خوبصورت مرد جسکی پیشانی پر کے بال جاتے رہے ہوون۔

اِجْلِیلَاء (کسکسفسم) ایک شہر سے دوسرے شہر کیطرف آنا۔

اَجَمّ (فنش) مربع گھر چھت کا ہموار۔

اَجَمَ (ففف) (ضن) طعام کو ناپسند رکھنا اور اوس سے دلگیر ہونا۔ پانی کا اپنے حال سے بدحال جانا۔ کسی کو اوس چیز پر باعث ہونا کہ اوسے ناپسند کرتا ہے۔

اَجَمّ (فغت) ہڈی جسپر گوشت بہت ہو۔ مرد جسکے پاس لڑائی مین نیزہ نہو۔ بکری بے سینگ کی۔ عورت کی شرمگاہ۔ پیالہ۔ دیوار بے کنگرہ۔

اَجْمَہ (فسنف) شعر جسکی پیشانی کی سپیدی لٹکی ہوئی ہو۔

اِجْمَاء (کسفسم) گھوڑے کی غرہ پیشانی کا نیچے کو لٹکا ہوا ہونا۔

اِجْمَاد (کسفس) حق ثابت کردینا۔ جمادی کے مہینے مین آنا۔ کم خیر ہونا۔

اِجْمَار (کسفس) خوشبودار دھوان کرنا۔

مادہ: [illegible] جلخب، جلخم، جلد، جلع، جلعب، جلعد، جلنظ، جلنقع [illegible]

۵۶

[illegible]

لکھو کہ اوس پر شئی کا۔

اجوال (فسفس) جمع جول (فس) کی بمعنی عقل اور قصد۔

اجوب (فسف) زیادہ قطع کرنیوالا

اجوبۃ (فسکف) جمع جواب (فس)

اجوث (فسف) مرد جسکا پیٹ بڑا اور لٹکا ہوا ہو یعنی پیٹیل۔

اجوج (فضف) یا یجوج (فضفس) یا جوج اور ماجوج۔ ماجوج کو اور مغاذے نے یجوج پڑہا ہی۔

اجوج (فضفس) روشن اور چمکدار۔

اجوج (فضفس) پانی کا کڑوا کر دینا اور کڑوا ہونا سکھاری اور کڑوا کر دینا۔

اجوح (فسف) ہر چیز فراخ۔

اجوز (فضفس) اجوزۃ (فسکف) جمع جائز (فسک) کی مشہور ہی۔

اجوف (فسف) بڑے پیٹ کا شیر کلمہ معتل میں سے جسکے عین کلمہ میں حرف علت ہو۔ کشادہ چیز جسکا اندر خالی ہو معدہ وغیرہ۔

اجوفان (فسفس) پیٹ اور فرج

اجوق (فسف) مرد جسکی گردن موٹی اور ٹیڑہی ہو جسکا چہرہ کج ہو۔

اجول (فسف) بہت گہومنے والا

اجول (فضفس) ہٹ کے چلا جانا اور توقف کرنا ہم ل (رمک) اجیل (فسکس) صیغہ لغت ہی

اجولی (فسفات) تیز رو گھوڑا بہت جولان کرنے والا۔

اجوم (فضفس) جو کہ لوگوں پر اونکی جانیں ناگوار کر دے

اجوی (فسف) کمیت گھوڑا

اجہاء (فسفسم) تجلی کرنی صاف روشن ہو جانا تارے کا بدلیکا حاملہ ہونا۔ آسمان اور زمین کے درمیان کا صاف اور فضا کا ہونا کشادہ ہوا میں پہنچنا۔

اجہاد (فسفس) طاقت سے زیادہ لاد دینا چوپایہ کو اور اوسکو رنج دینا جیسے اَجْہَدَ اللّٰہُ اٰیَۃً سکھانے کا آمادہ ہونا جیسے اَجْہَدَ الطَّعَام پڑہاپے کا جلدی سے آجانا اور بہت ظاہر ہونا جیسے اَجْہَدَ الشَّیْبُ احتیاط کرنی جیسے اَجْہَدَ فِی الْاَمْرِ ایک چیز کا خلط ملط ہو جانا جیسے اَجْہَدَ الشَّیْءُ مال کا نیست و نابود ہو جانا یا پراگندہ کر دینا

اجنابت (سفس) بہکنا اسکی ...

... سے جنب ہو یا نہ ہو اجنبیوں میں نا ...

اجناح (سفس) میلان کرنا

اجاش کرنی ... کر دینا

اجناد (سفس) اجمع جند ... کی ... لشکر

اجناس (سفس) جمع جنس ... رکنین ... مشہور ہے

اجناف (سفس) حق سے پھر ... بہوا ہو جانا

اجنان (سفس) جمع جنین ... وجمع جنان ... یعنی کبیرا

اجنان (سفس) ایک چیز کو ... کا ... لینا کفن میں لپیٹ کر ... کو دفن کرنا ... پوشیدہ ہونا۔ حاملہ عورت کا اپنا بچہ گرا دینا دیوانہ کر دینا ... میں ایک چیز کو پوشیدہ رکھنا۔

اجنبت (سفع) بیگانہ ... اور مسافر نافرمان۔

اجنبی (...) بیگانہ ... اجنب ...

اجنحہ (...) ... جمع جنین ... کی

... سعد ...

٥٨

... کا اکھاڑ ... پھیلاو۔ وجنبہ ... کو اجنبہ (سفع) بھی کہتے ہیں۔

اجنحہ (سفک) اجنحہ (سفع) جمع جناح (سفس) کی یعنی بازو اور ہاتھ۔

اجنک (...) کرنا یہ لفظ مخفف ہے ... میں اجل ... ایک کوزا تھا۔

اجنی (سفع) کبڑا۔

اجنیص (سفکس) ... کا ... سے ... بھی ... لکھا پڑا ہے۔ ... کہ خیر اور شر کی اوس سے کچھ امید ہو۔ کاموں میں ... والا ... جانے والا۔

اجواء (سفسم) اجمع جو ... یعنی میان زمین اور آسمان۔

اجواء (سفسم) ... کو غلاف میں رکھنا

اجواب (سفس) جمع جوب ... کی یعنی ڈھول بڑا۔ ... سوال۔

اجواد (سفس) اجاود ... جمع جواد (سفس) کی مذکر اور مونث دونوں کے واسطے مستعمل ہے جو

اجوار (سفس) جمع جار (سفس) کی یعنی ہمسایہ ... قومی۔

اجواف (سفس) جمع جوف (سفس) کی زمین پست کو ... اور پیٹ اور

علامات اعراب ضمہ فتحہ کسرہ تنوین سکون تشدید

مادہ

أَحِّ (مک) یا أَحِّ (مفت) یا مَیِح (فسف) یہہ کلمہ اُس کے حق مین کہتے ہین جو ایک چیز کو مکروہ رکھے
أَحَاثَة (کفسف) زمین کو اوپر نیچے کر کے اُسمین کی چیز کو ڈھونڈھنا حرکت دینی پراگندہ کرنا۔
أَحَاح (منفس) اُحیح (کفس) اُحیحة (کفسف) پیاس غصہ درد دل کہ غم کے سبب پیدا ہو نالہ
أَحَاحَة (فسقف) کلمہ یا اُحاح کو بہت کہنا
أُحَادَ اُحَادَ (منفس منفس) ایک ایک یہہ دونون عدل اور وصف کے سبب کہ اسباب منع صرف سے ہین غیر منصرف ہین
أَحَارَة (کفسف) بچہ دار ہونا اونٹنی کا جواب دینا عرب مین بولتے ہین
طحنت فما احارت شیئا یعنی پیسا اور کچھ آٹا نہ اوٹھا رکھا جیسا کہ ہندی مثل ہے کہ ساری رات پیسا اور چلنی مین اٹھایا
أَحَارِر (ففسک) جمع حر (فت) کی بمعنے گرمی۔
أَحَاسِنَ الْقَوْمِ اچھے اور نیک لوگ قوم کے۔
أَحَاشَة (کفسف) شکار کو چارون طرف سے گھیر کر جال کی جگہہ لانا
أَحَاطَة (کفسف) گھیر لینا ایک چیز کو اور اُسکو تمامہ جان لینا۔
أَحَاقَة (کفسف) احاطہ کرنا۔
أَحَاکَة (کفسف) تلوار کا کام کر جانا قطع کرنا۔ کاٹنا۔
أَحَالَة (کفسف) سال پورا کر دینا۔ مسلمان ہونا۔ اُن اونٹنیون کا مالک ہونا کہ نر دینے سے حاملہ نہوئین سال پلٹ ہونا ایک چیز کا کسی پر برس گذر جانا جیسے أَحَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ ایک برس تک ایک مکان مین مقیم رہنا جیسے أَحَالَ بِالْمَکَانِ ایک برس کا ہونا جیسے أَحَالَ الْحَوْلَ کسی کو ضعیف جاننا۔ جیسے أَحَالَ عَلَیْهِ گرانا۔ جیسے أَحَالَ عَلَیْهِ الْمَاءَ گھوڑے کی پیٹھہ پر اوچھل کر جا بیٹھنا جیسے أَحَالَ فِی ظَهْرِ دَابَّتِهِ حاملہ نہونا اونٹنی کا بعد نر دینے کے کسی کی آنکھہ کو کج کر دینا محال بات کہنی
أَحَامِر (ففسک) گوشت۔ شراب۔ خلوق کہ ایک خوشبو ہے عرب کے مثل مجموعہ کے
أَحَامِرَة (ففسک) پتھرون کا گڑھا کہ جسمین پانی جمع ہو جاوے۔

ح ح
ی ح
ح و ث
ح و ج
ح و ط
ح و ق
ح و ک
ح و ل
ح س ن
ح و ش
٦١
ح و ط
ح و ق
ح و ک
ح و ل
ح م ر
١٢

[illegible]

اجھ [illegible] کی [illegible] ہوا
کر [illegible] کا [illegible]
[illegible] کا [illegible]
کام کا [illegible]
[illegible] کیا [illegible]
اجھیرا [illegible] کا [illegible]
اجھاڑنا (سنسکرت) [illegible]
بیٹا جننا - یا خود [illegible]
اجھے [illegible] کا [illegible] جننا -
اجھاڑ [illegible] گھاس کو مار [illegible]
اجھاڑ (سنسکرت) [illegible] کی [illegible]
[illegible] ادھم ہونا - دو [illegible]
اجھار (سنسکرت) [illegible]
کا پیٹ میں [illegible] پورا [illegible] ہو
مشتہر کا مال [illegible] یا جو کسی [illegible] رکھا [illegible]
[illegible]
[illegible] کی [illegible]
اجھال (سنسکرت) [illegible]
اجھام (سنسکرت) [illegible] جاتا
ایک انسان کا سامان ہو جاتا ہے
اجھر [illegible]
[illegible]
انسانے [illegible] کی [illegible] کی پیدائش

نے سارے چہرہ کو گھیر لیا ہو جیسی
اجھرہ (سنسکرت) جمع [illegible]
اجھرات (سنسکرت) جمع [illegible]
اجھی (صفت) جیسے [illegible] کی
اجھیال [illegible] ہوئی [illegible]
اجھیم (سنسکرت) [illegible]
[illegible] ا دو ہوتا ہے
اجیال (سنسکرت) جمع جیل کی
[illegible] کی [illegible]
اجیم (سنسکرت) [illegible]
اجیح (سنسکرت) [illegible] آگ کی [illegible]
اجید [illegible]
اجیح [illegible]
اجیر (سنسکرت) [illegible]
اجیر [illegible] خود [illegible]
اجیل [illegible]
تھا [illegible]
[illegible]
اجلال (سنسکرت) [illegible]
اجیم [illegible] کی [illegible]
اجح [illegible]
اجح [illegible]
تھا [illegible] کی آواز کی نقل کر [illegible]

اَحبنطاء (کسکسفسم) پھیل ہو جانا
اور زمین پر پڑے رہنا۔ غصّے کا
بھرا ہوا ہونا۔ غصّہ سے پھولا ہونا
اُحبُوش (ضسفس) ہر قبیلہ کے
لوگوں کی جماعت۔ احابیش (فضفکسس)
جمع۔ حبشیوں میں کا ایک گروہ۔
اُحبوشۃ (ضسفسف) ہر قبیلہ
کے لوگوں کی جماعت۔
اُحبول (ضسفس) جال۔
اُحبولۃ (ضسفسف) جال۔
اَحتاء (کسفسم) مضبوط کرنا ڈول
وغیرہ کا۔ گرہ باندھنی جیسے احتا
العقدۃ۔ چادر کے پلّو سینے سے لپیٹنا
اِحتاء (کسفسم) سینا۔ محکم کرنا۔
مضبوط کرنا۔ بننا۔
اَحتانی (ضسفس) جمع حت (فت)
گھوڑا اسپ رو۔ ٹڈی مردہ۔ شتر
مرغ دوڑنے والا۔
اَحتات (کسفس) درخت کا
خشک ہو جانا۔ سوکھ جانا۔
اِحتار (کسفس) پکّی گرہ لگانی
کھانا کھلانا۔ تھوڑا سا دینا۔
اِحتان (کسفس) مرد کے سب

تیر ایک جگہ گر پڑے۔
اِحتباء (کسکفسم) رانوں کو پیٹ سے
ملا کر اور پنڈلیوں کو رانوں سے ملا کر
ایک رومال چادر وغیرہ سے کمر اور
پنڈلیوں کو باندھنا۔
اِحتباس (کسکفس) رک جانا۔
روکا جانا۔ بند ہو جانا۔ روکنا۔ بند کرنا۔
اِحتباک (کسکفس) اچھی طرح سے
بُننا کپڑے کو۔ ازار باندھنی مضبوط
اور درست کرنا۔ حبوہ باندھنا۔
اِحتبال (کسکفس) شکار کو جال سے
پکڑنا۔ جال پھیلانا شکار کے لئے
اِحتبان (کسکفس) خوب سینا اور پیٹ بڑا ہو جانا
اِحتثاث (کسکفس) برانگیختہ
کرنا۔ برانگیختہ ہونا۔
اِحتجاب (کسکفس) پردہ میں ہونا۔
اِحتجاج (کسکفس) جھگڑنا حجت لانی
اِحتجار (کسکفس) حجرہ بنانا۔ زمین کو
اپنے لئے پسند کر لینا اور وہاں
مینار بنا کر اوروں کو تصرف سے روک کر
بغل میں لینا۔ کسی کی پناہ ڈھونڈھنی
سنگ سے پڑ جانے۔
اِحتجاز (کسکفس) حجاز میں آنا۔ جمع ہونا

ح ب ط
ح ب ش
ح ب ل
ح ت ی
ح ت ت
ح ت ر
ح ت ن
۶۳
ح ب و
ح ب س
ح ب ک
ح ب ل
ح ب ن
ح ث ث
ح ج ب
ح ج ج
ح ج ر
ح ج ز

اَحِبّاء (ضکستم) جمع حبیب (فکس) کی بمعنے دوست۔
اَحَباء (ضکسم) تیر کو نشانے پر پہنچانا۔
اَحْباب (فسفس) جمع حب (کت) و جمع حب (فت) و جمع حبیب (فکس)
اِحْباب (کسفس) اونٹ کا بیٹھ جانا اور تھک جانا یا اونٹ کو کوئی چیز سے پہنچنی یا بیماری عارض ہو جانی کہ جس سے اپنی جگہ پر پڑا رہے یہاں تک کہ اچھا ہو جاوے بیماری سے اچھا ہونا۔ کھیتی میں دانہ پڑ جانا کسی کو دوست رکھنا۔
اِحْباج (کسفس) نزدیک ہونا اور ابھر چڑھ آنا یہاں تک کہ نظر آنے لگے۔ رگوں کا ابھل پڑنا بغیر اسکا پکار اور ورم دار ہو جانا۔ اچانک ظاہر ہونا۔
اِحْبار (کسفس) نشان چھوڑ دینا بہت گھاس دار ہونا زمین کا۔ خوش کرنا۔
اِحْباس (کسفس) راہ خدا میں گھوڑے کو وقف کرنا۔
اِحْباش (کسفس) کالا چنا [illegible]
اِحْباص (کسفس) کسی کے حق کو باطل کرنا اور آپ اوچک کر لیجانا۔

یا لکڑی تاکہ نہ تیر گڑھا میں کچھ باقی قریب ہے تیر کا نشانہ پر نہ لگانا اور خطا کرنی۔ کوشش کرنی۔
اِحْباط (کسفس) باطل کر دینا کسی کا پانی خشک ہو جانا بعد بطور سابق پھر آنا
اِحْباق (کسفس) گردن جھکا دینی اور نرم ہو جانا۔
اَحْبال (فسفس) جمع حبل (فس) کی بمعنی حمل وغیرہ اور حبل (فس) کی جمع۔
اِحْبال (کسفس) حاملہ کر دینا اور اعراض کرنا۔ عصا و درخت کے پھول پریشان ہو جانے اور پژمردہ ہو جانے۔
اِحْبِجار (کسکسفس) غصہ سے پھول جانا۔ پکار والا ہو جانا۔
اَحْبُش (فسضس) حبشیوں میں کا ایک گروہ۔ احابش (فکسک) جمع۔
اَحْبُل (فسضس) احبال (فسفس) جمع حبل (فس) کی بمعنی رسی۔
اَحْبَل (فسفوکسک) لوبیا۔
اَحْبَن (فسف) وہ مردہ جسکو استسقا ہو اور اسکا پیٹ بڑا ہو۔
اِحْبِنجار (کسکسفس) غصے کے مارے پھول جانا۔

حبر
حبو
حبر
حبج
حبر
حبس
حبش
حبص
حبط
۴۳
حبق
حبل
حبج
حبش
حبل
حبن
حبجر

اِحتساب (کسکفس) شمار کرنا۔ جو کچھ کسی کے پاس ہو اُسکو آزمانا۔ خدا سے ثواب اور عوض کی امید رکھنی۔ بُری بات سے منع کرنا۔ باز رہنا۔

٢ اِحتسال (کسکفس) سوسمار کے بچے کو انڈے سے نکلا ہوا شکار کرنا۔

٣ اِحتشاء (کسکفسم) بھر جانا۔ حائض عورت کا گدی یا روئی فرج کے بھیتر رکھنا۔ عورتکا اپنے سُرین یا پستان پر چھوٹا سا تکیہ باندھنا تاکہ بڑا معلوم ہووے۔

٤ اِحتشاب (کسکفس) مجتمع ہونا۔

٥ اُحتشاد (کسکفس) مدد کے واسطے جمع ہو آنا فی الفور آواز دینے کے ساتھ ہی حاضر ہونا۔ ایک کام پر مجتمع ہونا۔

٦ اِحتشار (کسکفس) سر کا بڑا ہو جانا مجہولاً مستعمل ہوتا ہے۔

٧ اِحتشاش (کسکفس) لڑائی جھگڑے میں تند و تیز ہونا۔ گھاس ڈھونڈھنی اور اکٹھی کرنی۔

٨ اُحتشام (کسکفس) شرم کرنی کسی سے۔ غصہ دلانا۔

٩ اِحتصاد (کسکفس) درانتی سے کاٹنا کھیتی کو۔

١٠ اِحتصار (کسکفس) اونٹ پر حصار باندھنا۔

١١ اِحتضاء (کسکفسم) آگ بھڑکانی۔

١٢ اِحتضار (کسکفسم) حاضر ہونا۔ مرگ کا حاضر ہونا اس معنی میں مجہولاً مستعمل ہے۔ گھوڑے کا دوڑنا۔ حاضر کرنا۔ حضری ہونا آدمی کا۔

١٣ اِحتضاض (کسکفس) اپنے آپکو قاصر اور عاجز سمجھنا۔

١٤ اِحتضان (کسکفس) گود میں لینا۔ بچے کو دائی بنا کرنا۔ پرورش کرنا۔ کسی کو اُسکی حاجت سے روکدینا۔

١٥ اِحتطاب (کسکفس) لکڑیاں جمع کرنی۔ لکڑیوں کے ٹکڑے سکھانے۔ ایک کام میں کسی کا شریک ہونا۔ مینھ کا درختوں کی جڑوں کو اوکھاڑ دینا۔

١٦ اِحتطاط (کسکفس) کم کرنا۔ اوپر سے نیچے لانا۔ اوتارنا۔

١٧ اِحتظاء (کسکفسم) بہرہ مند اور قسمتمند ہونا۔

١٨ اِحتظار (کسکفس) اپنے لئے حظیرہ بنانا۔

١٩ اِحتقاء (کسکفسم) بردی گھاس کو جڑ سے اوکھاڑنا۔

٢٠ اِحتفاء (کسکفسم) ننگے پاؤں چلنا۔ ننگے پاؤں کر دینا۔ ساگ کو جڑ سے اوکھاڑنا۔

مادہ

٦٥

حصد، حصر، حضا، حضر، حضض، حضن، حطب، حطط، حظو، حظر، حفا، حقو

علامات اعراب فتحہ ضمہ کسرہ یعنے مں زبر فتحہ کسرہ سکون ت تشدید

مادہ

---

سینہ میں چھپر چھیر اور رس لینی سکر پر
باندھنا کسی شئی کا —
احتجاف (کسکفس) رہائی دلانا —
ادھک لیجانا — جمع کرنا — روکنا —
احتجام (کسکفس) حجامت کرنی
حجامت کرانی — خط بنوانا —
احتجان (کسکفس) اپنی طرف کو
کھینچنا چوگان وغیرہ سے مال کو
جمع اور اکٹھا کرنا —
احتداء (کسکفسم) تابع ہونا —
احتداد (کسکفس) غصہ کرنا — تیز
ہوجانا چھری وغیرہ کا —
احتدام (کسکفس) غصے سے مارے
دانت پیسنے — آگ کی لو نکلنی بہت
گرم ہونا دن کا — بہت سرخ ہونا
خون کا کہ مائل بسیاہی ہوجاوے —
احتذاء (کسکفسم) نمونہ پہ کام کرنا
جوتیاں پانوں میں پہنتی — کسی کا
کھوج نکالنا — پتہ لگانا —
احتذار (کسکفس) پرہیز کرنا —
احتراب (کسکفس) ایک دوسرے سے
لڑائی کرنی — ایک دوسرے
کا مال چھین لینا —

---

احتراث (کسکفس) کھیتی کی نی کمائی کرنی
احتراز (کسکفس) پرہیز کرنا —
اپنے تئین نگاہ رکھنا —
۱۲ احتراس (کسکفس) چوری کرنی —
اپنے تئین کسی سے نگاہ رکھنا —
۱۳ احتراش (کسکفس) سوسمار کو
شکار کرنا — اپنے کنبہ کے لیئے کمائی کرنی
۱۴ احتراص (کسکفس) لالچی ہونا کوشش کرنی
۱۵ احتراف (کسکفس) پیشہ والا ہونا —
۱۶ احتراق (کسکفس) جل جانا — غصے
میں جلدی کرنا گھوڑے کا —
۱۷ احترام (کسکفس) کسی کی حرمت اور
عزت رکھنی — وقار کرنا —
۱۸ احتزاز (کسکفس) کاٹنا —
۱۹ احتزاک (کسکفس) کپڑا پہننا اور
اُسے اپنے اوپر لپیٹنا —
۲۰ احتزال (کسکفس) بمعنے احتزال کسکفسر
۲۱ احتزام (کسکفس) گھوڑے پر
تنگ باندھا جانا — کمر باندھنی —
۲۲ احتزان (کسکفس) غمگین ہونا —
۲۳ احتساء (کسکفسم) تھوڑا تھوڑا کرکے
دریمین شوربا پینا — حسی کھودنا — ریتا
مین سے پانی نکالنا — دل کی بات کو

بیار کا حقنہ لینا - روضہ کی جانبوں کا چمکنا

[1] اَحتکاء (کسکفسم) گرہ باندہنی -

[2] اَحتکاء (کسکفسم) مضبوط ہونا - بات کا دل کو لگنا -

[3] اَحتکار (کسکفس) غلہ جمع کرنا مہنگ میں بیچنے کو -

[4] اَحتکاک (کسکفس) کھجلی اوٹھنی کھجلانے کا محتاج ہونا - اپنے تئین کسی سے ملنا اور رگڑنا - دل مین کھٹکنا -

[5] اَحتکال (کسکفس) دشوار ہونا عربی کے بعد زبان عجم سیکھنی -

[6] اَحتکام (کسکفس) کسی پر ایک کام مین حکم کرنا حاکم ہو جانا حاکم سے ملجانا

[7] اَحتلاب (کسکفس) دوہنا -

[8] اَحتلاج (کسکفس) کسی کا حق لینا -

[9] اَحتلاز (کسکفس) بمعنے اِحتلاج

[10] اَحتلاط (کسکفس) قسم کھانی - جھگڑنا غصہ کرنا - جلدی کرنی - بے قرار ہونا - بے چین ہونا -

[11] اَحتلاق (کسکفس) بال مونڈنے

[12] اَحتلال (کسکفس) اوترنا -

[13] اَحتلام (کسکفس) خواب دیکھنا خواب مین جماع کرنا -

[14] اَحتمم (فسف) سیاہ -

[15] اَحتماء (کسکفسم) بیمار کا مضر چیزون سے پرہیز کرنا - پرہیز -

[16] اَحتماد (کسکفس) آگ بھڑکنی مقلوب

[17] اِحتدام (کسکفس) ہے -

[18] اَحتماس (کسکفس) دو مرغون کا آپسمین لڑنا - بازی کرنا -

[19] اَحتماش (کسکفس) بمعنی احتمار (کسکفس) اور غصہ کے مارے بھڑک اوٹھنا

[20] اَحتمال (کسکفس) بردہ خریدنا کسیکا احسان اپنی گردن پر لینا اور اسکا شکر کرنا - سر اور پیٹھ پر اوٹھانا - کوچ کر جانا - غصہ کرنا اور بھڑک اوٹھنا - اسمعنی مین مجہولاً مستعمل ہے -

اِحتمام (کسکفس) رات کو غمگین ہونا اور غم کے مارے فسونا - آنکھہ کا گرم ہونا یعنی تلکنا - اور بغیر درد کے بے خواب رہنا -

[21] اَحتناج (کسکفس) میلان کرنا - کج ہونا

[22] اَحتناک (کسکفس) گھوڑے کی ڈاڑھی باندہنی - تجربون کا کسی کی عقل کا کردینا جیسے اَحتنکہ السن پکا اور آزمودہ ہونا - کسی پر غالب

مادہ

حکی
حکم
حکر
حکک
حکل
حکم
حلب
حلج
حلز



حلط
حلق
حلل
حلم
حمم
حمی
حمد
حمس
حمش
حمل
حمم
حنج
حنک

| مادہ |
| --- |
| حفد |
| حفر |
| حفز |
| حفظ |
| حفف |
| حفل |
| حفن |
| حقب |
| حقد |
| حقر |
| ٧٢ |
| حقف |
| حقن |

اَحتفاد (کسکفس) جلدی چلنا۔ طاعت اور خدمتمین دوڑنا جلدی کرنی

اَحتفار (کسکفس) زمین کو ٹوہے سے کھودنا۔ ایک چیز کو خوب کھودنا جیسے زمین کو ٹوہے سے۔

اَحتفاز (کسکفس) دونون پانون کے سرے پر بیٹھنا یعنی اگڑو۔ اپنے تئین سمیٹنا یعنی سکڑنا۔ سرین پر سیدھا بیٹھنا۔ کام کے لیئے دامن جھنکر آمادہ ہونا۔ چلنے مین برانگیختہ ہونا اور کوشش کرنی۔

اَحتفاظ (کسکفس) غصہ ہونا۔ اپنے لیئے کسی چیز کو خاص کرنا۔ نگاہ رکھنا۔

اُحتفاف (کسکفس) عورت کا بالون سے چہرہ صاف کرنا زینت کے لیئے جیسے اِحتَفَّت المَرأَۃُ وَجھَہا مِنَ الشَّعرِ یا سر کے پیچھے بال باندہتے۔ سر کی چوٹی بند ہوانی عورت کی یعنی عورت کسیکو کہے کہ میری چوٹی باندہ دے۔ گھاس کاٹنی زمین سے یا کھودنی۔ ایک چیز کا طواف کرنا اور گرداگرد پھرنا۔ جو کچھہ کھانا ہانڈی مین ہو اسکو کھا لینا۔

اَحتفال (کسکفس) سنورنا زینت کرنی۔ پانی وغیرہ کا جمع ہونا۔ نالہ کا بہت پُر ہو جانا سیل سے جیسے اِحتَفَلَ الوادی بالسیل۔ باک و خوف رکھنا۔ گھوڑے کا اپنے تئین سوار پر تیز کا ظاہر کرنا باوجودیکہ اسمین طاقت دوڑنے کی باقی ہو۔ کھلا اور صاف ہونا رستے کا۔ مبالغہ اور وضوح اور خوب قیام کرنا کامون پر۔

اُحتفان (کسکفس) درخت کو جڑ سے اوکھاڑ ڈالنا۔ کسی کو اسکے زانو مین ہاتھ ڈالکر اوٹھا لینا۔

اُحتقاب (کسکفس) ذخیرہ جمع کرنا اور اسکو پالان کے دنبالے مین یا لاٹھی لکڑی مین باندہنا۔ گناہ کرنا۔

اُحتقاد (کسکفس) کینہ کا ٹھہر جانا۔

اُحتقار (کسکفس) کسی کو ذلیل اور خوار سمجہنا۔ اور ہیچ گنتا۔

اُحتقاق (کسکفس) آپسمین جھگڑنا۔ موٹا ہو جانا اونٹون کا۔ مار ڈالنا یا سر سرین مین زخم پہنچنا جہان کی ہڈی ہوتی ہے جیسے اِحتَقَّت بِہِ الطَّعنَۃُ گھوڑے کا پتلی کمر کا ہونا۔ و نیز

اِحتقاق (کسکفس) خصومت کرنا

اُحتقان (کسکفس) روک دینا نگاہ رکھنا

مادہ

۲ اِحْجَاز (کسفس) حجاز میں آنا —
اِحْجَال (فسفس) جمع حَجْل (فس) وحِجْل (کس) کی —
اِحْجَال (کسفس) اونٹ کے بائیں ہاتھ سے بند کھولکر دائیں ہاتھ پہ باندھ دینا —
۲ اِحْجَام (کسفس) رُک جانا ٹھہر جانا منہ کے سامنے سے پیچھے ہٹنا ۔ چھاتی کا نکل آنا اور پھر آنا پہلے بار بچے کو دودھ پلانا عورت کا —
اُحْجَان (کسفس) گھاس کا پتا نکالنا یعنے اسکا پتے دار ہو جانا —
۲ اُحْجُر (ضسفت) پتھر
اُحْجُن (فسفت) ٹیڑھا کبڑا ۔ بال گھونگر والے لٹکے ہوئے
اُحْجُوّہ (ضسفتف) چیستان پہیلی
اَحَاجِی (فضکس) جمع —
اُحْجِیّہ (ضسکتف) چیستان پہیلی
اَحَاجِی (ففکس) جمع —
اَحَد (فف) اکیلا اور اکیلا ایک یکم سالتوار کا دن آحاد (مفس) جمع
اُحْدَان (ضسفس) جمع ۔ یا اَحَد (فف) کی جمع نہیں آتی اور بعض کے نزدیک

لفظ اَحَد خدا تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے سوائے خدا تعالیٰ کی صفات کے اور کسی پر اطلاق نہیں کرتے ۔ اور معنی کوئی کے معنی میں لفظ اَحَد میں واحد اور تثنیہ اور جمع اور مذکر و مونث یکساں ہے ۔ اور خاص کلام منفی میں مستعمل ہوتا ہے — یا اُس معنی میں اَحَدّ (ففت) بتشدید دال ہے جسکا مادہ حدد ہے ۔ اور بولتے ہیں فُلَانٌ اَحَدُ الْاَحَدِیْن اور وَاحِدُ الْاَحَدِیْن اور وَاحِدُ الْآحَاد اور اِحْدَی الْاِحَد یعنی فلان شخص بے ہمتا ہے بیت ہے ہما ۔ مدح میں لاتے ہیں —
اَحْد (فف) (س) پیمان و عہد باندھنا
اُحُد (ضض) مدینہ میں ایک پہاڑ ہے —
ہُوَ اِبْنُ اِحْدَاهَا یعنے وہ باپ اور ماں کی بزرگی رکھتا ہے آدمی ہو یا اونٹ —
اِحْدَاء (کسفم) ایک چیز کا قصد کرنا
اِحْدَاب (کسفس) کبڑا کر دینا مہربان کر دینا —
اَحْدَاث (فسفس) جمع حَدَث (فف) کی ۔ شروع سال کے مینھ ۔ اَحْدَاثُ الدَّہْرِ زمانہ کی سختیاں اور بلائیں
اِحْدَاث (کسفس) زنا کرنا ۔ وضو

حجز
حجل
حجم
حجن
حجر
حجو
حجی
حد
حدی
حدب
۶۹
الاحدث
۱۳۱۲
۱۲

مادہ

ه حوی
ه حوش
ه حوج
ه حوز
ه حوص
ه حوط
ه حوك
ه حول
ه حوم
۶۸

اور ورم ہونا۔ ٹڈی کا زمین کی روئیدگی کو کھا لینا جیسے اِحتَنَکَتِ الجَرادُ الاَرضَ کسی کا مال چھین لینا۔

اَحتِوَاء (کسکفسم) ہر طرف سے گھیر لینا

اَحتِوَاش (کسکفس) شکار کو ایک دوسرے کی طرف سے بھگانا کسی کو بیچ میں سے لینا۔

اَحتِیَاج (کسکفس) حاجتمند ہونا کسی کی طرف رجوع کرنا جیسے اِحتَاجَ اِلَیہِ

اَحتِیَاز (کسکفس) ایک چیز کو گھیر لانا اور اسپر محیط ہونا۔

اَحتِیَاص (کسکفس) اونٹنی کا بچہ دان بند ہو جانا جس سے نر اونٹ جفتی نکر سکے جیسے اِحتَاصَتِ النَّاقَۃُ استواری اور ہوشیاری کام کی آگاہی اور واقفیت۔

اَحتِیَاط (کسکفس) استواری اور ہوشیاری کرنی۔ گھیر لینا۔

اَحتِیَاک (کسکفس) بدن کے کپڑے کو اپنی طرف سمٹینا اور بدن پر لپیٹنا اور سرینوں کو فوطہ سے لگا کر بیٹھنا۔

اَحتِیَال (کسکفس) سال پلٹ ہونا ایک چیز کا۔ کسی پر قرض کا حوالہ کر دینا۔ حیلہ کرنا۔ بیچ میں سے لینا جیسے احتولوہ اپنی اصل پر ہے بغیر تعلیل کے اور نیز احتیال (کسکفس) حیلہ۔

اَحتِیَام (کسکفس) پر وزن افتعال (کسکفس) قطع کرنا۔

اَحَثّ (ففت) بہت برانگیختہ کرنیوالا

اَحثَاء (کسفسم) گھوڑونکا ٹاپوں سے مٹی کھینچنا

اَحثَاث (کسفس) برانگیختہ کرنا۔

اَحثَار (کسفس) شگوفہ خرما کا کھل پھٹ جانا اُسکے دانہ کے سبز ہوجانے سے پہلے

اَحثَال (کسفس) زمانہ کا نا موافق آنا۔ بُری غذا دینی بچہ کو اور بُری طرح سے پالنا پرورش کرنی۔

اَحَجّ (ففت) سخت مضبوط گھوڑا کہ پسینا نہ لاوے۔ یا گھوڑا جو چلنے میں ہاتھ کے سم پانوٗں کے سموں پر رکھے

اَحجَام (ضفسم) جمع حجا (ففت) کی بمعنے کنارہ۔ گوشہ۔

اِحجَاج (کسفس) کسی کو حج کے لیے بھیجنا

اَحجَار (ضفس) جمع حجر (کس) بمعنے گود۔ جمع حجر (ففف) بمعنی پتھر

اِحجَار اِلخَیل سانڈ گھوڑے جنھیں نسل کے واسطے رکھیں۔

أخذی بتاخ طلق بلا سختی سے سانپ۔
أخذیہ (ضسکتق) ایک طرح کا حلوا ہے
اخذیداب (کسکسفس) کبڑا ہو جانا
خم دار ہو جانا ریگ تودہ کا۔
احذیداق (کسکسفس) احاطہ کرنا۔
أحذ (فقت) جسکا ہاتھ ہلکا ہو پھیلا
تیلا۔ بڑا اور سخت کام حذ (ضت) جمع
تیز رو اونٹ کہ پانچویں روز پانی پیوے
بحر کامل میں تصرف حذذ کیا ہو عیوی
اور ہلکی دم کا اونٹ۔
أحذاء (کسفسم) عطا کرنا بخشش یکی
أحذاء (کسفسم) گوشت میں سے حصہ دینا۔
أحذال (کسفس) گریہ کا آنکھ کو
حاذلہ کردینا یعنے نسے پلک۔
أحذیرار (کسکسفس) غصہ میں آنا۔
أحراء (کسفسم) گھٹا دینا۔
أحراب (کسفس) کہجور کے درخت کا
شگوفہ نکال لانا۔ دشمن کے مال لوٹانے
پر رہبری کرنی۔ لڑائی کو برانگیختہ کرنا
أحراث (کسفس) چوپایہ کو دبلا
کردینا کثرت سواری میں۔
أحراج (کسفس) حرام دینا گناہ
میں ڈالدینا کسی کو کسی کیطرف مضطر کرنا

أحراد (کسفس) اکیلا کردینا۔ سو وڑنا
أحرار (کسفس) دن کا گرم ہونا۔
پیاسے اونٹوں والا ہونا۔
أحراز (کسفس) مضبوط کرنا۔ جمع کرنا
اور مزدوری لینی۔ بچانا۔ پناہ دینی
اور حرز میں کرلینا۔
أحراس (فسفس) جمع حارس (فعکسک)
کی حفاظت کرنے والا۔
أحراس (کسفس) ایک زمانہ تک
ایک جگہ میں مقیم رہنا۔
أحراش (کسفس) اکہرا دار کرنا۔
قطران کا اونٹ کو کہ ایک دوا ہے۔
أحراض (کسفس) نالائق فرزند کا
باپ ہونا۔ بیماری کا بدن کو گھلادینا
اور قریب المرگ کردینا۔ فاسد المعدہ
کردینا۔ بیماری کا ڈالدینا۔
أحراف (کسفس) بڑھتے ہوئے
یا عمدہ مال والا ہونا۔ اونٹنی کا دبلا کردینا
کمائی کرنی کنبہ کے لیئے۔ نیکی
یا بدی کا بدلہ دینا۔
أحراق (کسفس) خوب جلانا آگ
میں حرقہ بنانا۔ اذیت پہنچانی۔
أحرام (کسفس) حرم میں آنا۔

مادہ
حذی
حذو
حدب
حدق
حذذ
حذو
حذی
حذل
حذر
حری



حرب
حرث
حرج
حرد
حرر
حرز
حرس
حرش
حرض
حرف
حرق
حرم

ترجمہ [illegible]

أَحداج (ضفس) جمع حدج (کس) کی بمعنی ہودج و محافہ کہ اسمین عورتین سوار ہوتین ہین اور اونٹ پر رکھا جاتا ہے۔

اِحداج (کسفس) جنگل کے درختونکا پھل دار ہو جانا۔ اونٹ پر ہودج باندھنا۔

اِحداد (کسفس) چھری وغیرہ کو پتھر سے یا سوہان سے تیز کرنا۔ گھور کر دیکھنا۔ عدت کیلیے سوگ کے کپڑے پہننا عورت کے۔

اِحدار (کسفس) کپڑے کے چھور کو اندر کو کر کے سینا۔ سوج جانا بدن کا لکڑی کے زخم سے۔ سوجا دینا پہلو سے پیٹنے۔

أَحداق (فسفس) جمع حدقہ (فف) کی گوشہ چشم جسکو آنکھ کا کویا کہتے ہین۔

اِحداق (کسفس) ایک چیز کے گرد آنا۔ احاطہ کرنا اور متعدی بھی آتا ہے۔

اِحدام (کسفس) آگ کا بھڑک جانا۔ گرمی کا تیز ہونا۔

أَحدَب (فسفف) کبڑا۔ ایک رگ ہے بیچ میں۔ ایک پہاڑ ہے مکہ معظمہ میں بنی قراسہ کا۔ شدت۔

اِحداب (کسفس) کبڑا ہو جانا۔

أَحدَر (فسف) جسکا ... وہ مرد جسکی ران پر گوشت ہو اور اوپر کا جسم پتلا ہو۔

أَحدَل (فسف) وہ مرد جسکا ایک کندھا دوسرے سے زیادہ ابھرا ہوا ہو۔ وہ مرد جسکا شانہ اور گردن سینہ کی طرف کو نکلا ہوا ہو۔ مرد جسکی گردن کج ہو۔ حدل (ضفس) جمع۔ ایک پہلو پر راہ چلنے والا۔ ہر حیوان کہ ایک خصیہ رکھتا ہو جو کہ ہمیشہ بائین ہاتھ سے کام کرے۔

أُحدُوثَہ (ضسضسف) کہانی۔ بات۔

اَحادیث (فسکس) جمع۔

أُحدُور (ضسضس) زمین نشیب۔

أُحدُوِیَّہ (ضسضسف) بمعنی احدیہ (فسکتف) ایک قسم کا حدا ہے۔

أُحدِیَّہ (کسف) ایک قسم حدی۔

اِحدَی الکُحدِ امر بزرگ و در نہایہ مین ہے کہ جب عرب کو امر دشوار پیش آتا ہے تو کہتے ہین احدی من سبع یعنی یہ ایک بھی ان سختیون سات شداید مین سے ہے اور لفظ سبع سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کے سات سال قحط کے مراد ہین یا سات راتین عذاب قوم عاد کی مراد ہین۔

حدج
حدد
حدر
حدق
حدم
حدب
حدر
حدل
حدث
حدق
حدم
حدب
حدر
حدل

اَحزِقّۃ (فسفتتف) پٹیل ٹھنگنا کہ
چلنے میں سُرین ہلادے۔
اَحزَئم (فسفف) زمین اونچی اور سخت
گھوڑا سینے اور کولھا کا بڑا۔
اِحزِئزاء (کسکسفسم) مجتمع ہونا
جانوروں کا انڈے سے الگ ہونا
پروں کا سکیڑنا۔
اِحزِئزام (کسکسفس) مجتمع ہونا
سخت ہونا گلھہ کا - بڑ پیٹا ہونا آدمیکا
کہ بڑی کے سبب سے ہو۔
اِحزِئلال (کسکسفس) مجتمع ہونا
احزأل البعیر او السحاب او الجبل یعنی بلند ہوا
اونٹ - اور پہاڑ - اور ابر -
اِحساء (کسفسم) تھوڑا تھوڑا شوربا پلانا
اَحساب (فسفس) جمع حسب کی
اِحساب (کسفس) تکیے پر بیٹھانا
پیٹ بھر کر کھلانا پیٹ بھر کر پلانا -
کفایت کر جانا ایک چیز کا ایسی چیز
کسی کو دینی کہ جس سے وہ خوش ہو -
اِحسار (کسفس) اونٹ کو
تھکا دینا تیز ہانک کر -
اِحساس (کسفس) حس و حرکت
دریافت کرنی - جاننا - آگاہ ہونا دریافت کرنا

اِحساف (کسفس) خراب خرما بیچے
گرے ہوئے کو خرما میں ملانا -
اِحساک (کسفس) چوپایہ کو جو کا دانہ دینا
اِحسان (کسفس) کسی کے
ساتھ نیکی کرنی جیسے اَحسَن
الیہ و بہ اور بچے ٹیلے پر بیٹھنا -
اچھا اور خوب کرنا -
اَحسَب (فسفت) اونٹ جسکا رنگ
سپیدی اور سرخی ملا ہوا ہو - مرد جسکے
سر کے بال بھوری ہوں - مرد مطلق
بدن کہ جلد اسکے برص سے سپید ہوں
اور بال سپید اور سرخ ہوں -
اِحساب (کسفس) اَحسَب ہو جانا
اِحشاء (کسفسم) ناکارہ چھوٹا
اونٹ دینا کسی کو -
اِحشاب (کسفس) غصہ دلانا -
اِحشاد (کسفس) جمع ہونا
اِحشاش (کسفس) ہاتھ کا شل
ہو جانا اور خشک ہو جانا - گھاس کے
کھدوانے اور جمع کرانے میں کسی کی
مدد کرنی - گھاس کا کٹنے کے لائق
ہو جانا - خشک ہو جانا بچہ کا ماں کے
پیٹ میں - چربی کا اونٹنی کی پنڈلی

مادہ
حزق
حزم
حزز
حزل
حسف
حسک
حسن
حسب
حسو
حشب
حشد
حشش

[illegible]

۱۸ احش الکاغہ ۱۲ ۱۹ معہ احشت المرأۃ ۱۲ ۲۰ احش الشحم الناقۃ ۱۲ ۱۲ ۱۲

مادہ

۱ حرد
۲ حرس
۳ حرش
۴ حرق
۵ حرن
۶ حرم
۷ حرب
۸ حرم
۹ حرف
۱۰ حرز

جمع حرش
جمع حرف
جمع حرض
جمع حرد
جمع حرف
جمع حرب
جمع حرف
جمع حرم
جمع حرن

حرام مہینوں میں داخل ہونا ۔ اس حرمت میں کہ جنتک مدت نہیں داخل ہوا حرام کر دینا ۔ حائض ہونا عورت کا ۔ محرم ہونا حاجی کا یعنی احرام باندھنا ۔ جو لئے میں غالب آنا ۔ روک دینا ۔ نصیب کر دینا یہ لغت ضعیف ہے ۔

احرد (فسف) بخیل کنجوس چوپایہ بیماری حرد میں مبتلا ۔ حرد ایک بیماری ہے کہ اونٹ کے ہاتھ پاؤں نہیں چلتی ہے ۔

احراس (فسض) جمع حراس کی یعنی زمانہ

احرس (فسف) قدیم پرانا

۱۲ احرش (فسف) تانگی اور سختی کے سبب دینار سخت سکہ کا ۔ سوسمار

احرض (فسف) جسکی پلکیں گر گئی ہوں

احرف (فسض) جمع حرف (ض) کی ۔

احرماذ (کسکفس) تیز ذہن ہونا ۔

احربنا (کسکفس) غصہ اور بدی کا آمادہ ہونا ۔ شرارت پر مستعد ہونا ۔

احرنجام (کسکفس) اونٹنا پھر نے میں اونٹوں کا ایک دوسرے پر گرنا ۔ بھیڑ کرنی ۔ ایک کام کا ارادہ کر کے اس سے رک جانا ۔

احرنفاز (کسکفس) مجتمع ہونا ۔

احرنفاش (کسکفس) غصے کے مارے سوج جانا اور پھول جانا ۔ بدی کے لئے آمادہ ہونا ۔ محرنفش صیغہ لغت ہے ۔

۱۲ احرياف (کسکفس) پھر جانا ۔

۱۳ احريص (کسکس) کسم کا پھول

مرجھا ماندہ کہ ہل نہ سکے

۱۴ احزاء (کسفس) روڑنا ۔ تنگ گیری اور دشواری کا جاننا ۔ بلند ہونا اوپر سے جھانکنا ۔

۱۵ احزاب (کسفس) جمع حزب (ض) کی یعنی گروہ ۔ کفار کے گروہ کہ متفق ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے لئے آ گئے تھے ۔

۱۶ احزاز (کسفس) شرافت و کرم میں زیادہ ہونا ۔ جاڑے کے مارے دانت بجنے

۱۷ احزاق (کسفس) روک دینا ۔

۱۸ احزام (فسفس) بمعنی احزاب (فسفس)

احزام (کسفس) گھوڑے کے لئے تنگ بنانا ۔

۱۹ احزان (فسفس) جمع حزن (ض) بمعنی غم

احزان (کسفس) غمگین کرنا ۔ سخت زمین میں ہونا ۔ جگہ کا سخت ہونا ۔

| مادہ | | |
|---|---|---|
| ۱ حصص | اَحْطُوطَام (کسفسم) پھول جانا سوج جانا ـ ورم کر آنا ـ | اَحْصَان (فتفس) دو اَحْص یعنی غلام اور گدھا ـ |
| ۲ حصن | اَخْطٌ (فسک) جمع خطی (الف) بمعنی بہرہ ـ | اَحْصَان (فتفس) جمع حصن کی بمعنی قلعہ اور احاطہ ـ |
| ۳ حصف | اَخْطَاء (کسقسم) کسی کو دوسرے پر زیادتی دینی ـ | اَحْصِفَة (فسکف) تیر کی پیکانیں یعنی نیزی |
| ۴ حضب | اَخْطَاط (کسفس) بابہرہ ہونا ـ نصیب آور ہونا نصیبہ ور ہونا ـ | اَحْضَاب (کسفس) آگ بھڑکانی یا اس پر لکڑیاں ڈالنی تاکہ بھڑک اٹھے اور بھی رسی کو چرخی پر سیدھا کرنا تاکہ سے چلنے لگے |
| ۵ حضر | اَحْفَاء (کسفسم) بہو چھوٹی کو خوب کٹوانا ـ بار بار سوال کرنا ـ سوال میں مبالغہ کرنا اور گڑگڑانا ـ بھلائی کرنے پر باعث ہونا ـ کسی پر مہربانی کرنی کسی کے عیب بیان کر دینے ـ | اَحْضَار (کسفس) حاضر ہونا گھوڑے کا دوڑنا |
| ۶ حضن | پانوں کے بیچ یا پاپوش کا مالک ہونا ـ ننگے پانو کر دینا | اُحْضَان (فتفس) جمع حضن کی |
| ۷ حضض | اَحْفَاد (کسفس) دوڑانا ـ اونٹ کو رفتار پر لگانا ـ جیسے کم چلنا ـ | اَحْضَان (کسفس) کسی کا حق لینا ـ کسی کے عیب بیان کرنے |
| ۸ حضف | اَحْفَار (کسفس) آگے کے دانت گرنے والے اوپر کے دو نیچے کے یعنی اگلا چوکا ـ کوئیں کھدوانے میں مدد کرنی | اَحْضِنَة (فکفت) جمع حضین کی |
| ۹ حطط | اَحْفَاش دوڑا دینا ـ اَحْفَاش البیت گھر کا اسباب متاع اثاث | اَحْضَر (فسفت) بہت شرو فساد والا |
| ۷۵ | اَحْفَاش الارض زمین کے سوسمار اور خارپشت ـ | اُحْطَا (فتفسم) نرم بیٹھنے والا ـ |
| ۱۰ حطب | اَحْفَاص (فسفس) جمع حفص کی | اَحْطَاب (کسفس) سوکھی لکڑیوں سے بھرا ہوا ہونا جگہ کا یعنی جہاں لکڑیاں بہت ہوں ـ انگور کا کٹنے کے بعد ٹہنی کا سوکھ جانا |
| ۱۱ حطا | | اَحْطَاط (کسفس) چہرہ کا پھیلاؤ اور پھر پہاہٹ اور موٹاپا لے آنا ـ |
| ۱۲ حطب | | اَحْطَب (فسفت) سوکھا دبلا مرد ـ نامبارک مرد ـ منحوس شوم ـ |
| ۱۳ حظو | | |
| ۱۴ حظی | | |
| ۱۵ حظو | | |
| ۱۶ حظظ | | |
| ۱۷ حفو | | |
| ۱۸ حفد | | |
| ۱۹ حفر | | |
| ۲۰ حفش | | |

۱۲/۱۱/۱۲ ختم حفص

کو چیت کر دینا۔ کسی کو اسکی حاجت
سے جلد ہی کرا دینی جیسے احتثثتہ
عن حاجتہ۔

احتشاف (کسعفس) حشف پھل لانا
کھجور کے درخت کا ردی اور خراب پھل لانا

احتشاک (کسعفس) چوپایہ کو چھوڑ دینے

احتشام (کسعفس) جمع حشم (فف) کی
معنے کنبہ۔ لازم ہمسایہ وغیرہ

احتشام (کسعفس) غصہ ہونا۔
شرمندہ کرنا۔ کسی کو ایسی بات کہنی جسکو سنا چاہتا
ہو وہ اسکے سنانا۔

احتشان (کسعفس) دودہ کی مشک
میں اکثر دودہ بھرنے سے اسکو بودار
کر دینا اور مشکیزہ دودہ کی چکنائی کا
میل لگ جانا۔

احتص (رفعت) وہ دن جسمیں آفتاب
روشن ہو اور آسمان صاف ہو۔ سخت
تلوار۔ نامبارک۔ مرد جسکے سر کے
بال جاتے رہے ہوں۔ طائر احص الجناح
پر ٹوٹے جانور۔

احصاء (کسعفس) شمار کرنا۔ نگاہ رکھنا
دریافت کرنا۔ حفظ کرنا۔ سیراب کر دینا۔

احصاب (کسعفس) گھوڑے کا سموں سے کنکریاں اڑانا۔ چلنے میں اعراض کرنا

احصاد (کسعفس) کاٹنے کے وقت
کو پہنچنا کھیتی کا۔ کھیتی کٹ جانے کے
سخت بٹنا رسی کا۔

احصار (کسعفس) روک دینا بیماری کا
سفر وغیرہ سے۔ محاصرہ کر لینا اور تنگ
گیری کرنی۔ پستان اونٹنی کے سوراخ
تنگ ہونے۔ پیٹ میں قبض ہو جانا
اس معنی میں مجہولاً مستعمل ہے۔

احصاص (کسعفس) حصہ دینا
اور احصہ عن الامر کام سے معزول کرنا

احصاف (کسعفس) کام کو مضبوط
کرنا۔ رسی کو مضبوط بٹنا۔ کپڑے کو
اچھا بننا۔ جلدی سے گذر جانا گھوڑے کا
دور کرنا انتہا کو پہنچا دینا۔ چپت کر
چلنے میں قدم پاس رکھنے۔

احصال (کسعفس) کھجور کے درخت کا
سبز خرما نکال لانا۔

احصان (کسعفس) مضبوط کر دینا
نگاہ رکھنا۔ بیاہ کا پارسا کر دینا۔
عورت کا پارسا ہو جانا۔ عورت کا پوشیدہ
ہونا یا خاوند کر لینا یا حاملہ ہو جانا۔
خاوند کا عورت کو چھپا دینا۔ جیسے کہ

ئے جیسے احصنها البعل

اوس پر اعتماد کرنا

اَحکاک (کسفعس) دلمین کہٹکنا کہٹلانا

اَحکال (کسفعس) کسی چیز کا مشتبہ ہونا شرو فساد کا ٹہیک کرنا

اَحکام (کسفعس) مضبوط کردینا فساد سے روکدینا کسی کو ایک کام سے پہیر دینا کسی کو اسکی خواہش و تمنا سے روکدینا لگام کا دہانہ

اَحکومتہ (ضفسف) حاکمی

اَحَل (فقت) مرد جسکے سرین یا رانوں مین لاغری ہو مرد جسکے پاؤن سست ہو جا یا جسکے پاؤن پیچھے لٹک گئے ہون یا چرسی

اَحلا (کسفعس) شیرین کردینا کسی چیز کو شیرین پانا ستحق شیرین کہنے کا رشیرین کرنا

اَحلا (کسفعس) سرمہ حلو آنکہہ مین لگانا اور حلو اس سرمہ کو کہتے ہین جو آنکہہ کو نافع ہو

اَحلاب (کسفعس) کسی شیر دار بکری اور اونٹنی کا لاکر دینا یا دین پہنچے دینے کسی کی اونٹنیوں کے جیسے احلب الرجل اور آگر بچا ہے جانے

چلی بکے جیسے ہو یعنی احلب الرجل اس کے معنی نر بچے جنے اوسکی اونٹنیون نے مدد کیو اسطے ہر طرف سے جمع ہو آنا دودھ دوہنے کے واسطے مدد کرنی دوہا ہو اور دودھ دینا چراگاہ مین سے دودھ دوہ کر بہیجنا —

احلابہ (کسفعس) چراگاہ مین سے دودھ دوہکر گہر بہیجنا — دودھ جو مشک سے زیادہ ہو اور مشک مین نہماوے

اَحلاس (کسفعس) اونٹ پر جلس ڈالنے عرق گیر ڈالنا ہمیشہ برسنا بہت ہونا گہاس کا اور زمین کو ڈہانک لینا وغیرہ —

اَحلاس احلاس جمع حِلس —

اَحلاط (کسفعس) قسم کہانی جہگڑنا غصہ کرنا — کام مین جلدی کرنی بیابان کے گہر مین اوترنا غصہ دلانا کسی جگہہ مقیم ہونا قسم کہانے مین کوشش کرنی — نر اونٹ کا ذکر اونٹنی کی فرج مین رکہنا جیسے کہتے ہین احلط فلان فی التعبیر

اَحلاف (فسفس) وہ قبیلے جنمین باہم عہد و پیمان ہو جیسے عرب مین اسد اور غطفان وغیرہ

اَحلاف (کسفعس) قسم کہانی لڑکے کا

ماده
۱ حفظ
۲ حقف
۳ حفظ
۴ حقق
۵ حقد
۶ حقف
۷ حقق
۸ حقل
۹ حقن



حقب

اَحْفَاظ (کسفس) غصہ دلانا یا احفاظ نہین ہوتا مگر ساتھ کلام قبیح کے۔

اَحْفَاف (کسفس) سر مین ایک مدت تک تیل نہ ڈالنا۔ ایسا ہانکنا گھوڑے کو کہ اسکی رفتار کی آواز آوے کسی کو بُرائی سے یاد کرنا۔

اَحْفِیظَاظ (کسکسفس) سانپ کا پھنکارنا۔

اَحَقّ (فتت) گھوڑا جو چلنے مین پانوٴن کے سُم ہاتھون کے سمون کی جگہہ مین رکھے اور یہہ عیب ہے۔ گھوڑا جسکو پسینا نہ آوے۔

اَحْقَاب (فسفس) اَحْقُب (فسضس) جمع حقب (ضس و ضض) کی ہے۔

اِحْقَاب (کسفس) کمان مین کچھ بنانا۔ اونٹ پر تنگ باندھنا۔ حقیبہ مین رکھنا۔ شتر سوار کا اپنے پیچھے کسی چیز کو باندھنا۔ اپنے پیچھے اونٹ پر کسیکو سوار کر لینا۔

اِحْقَاد (کسفس) کسی کو کینہ پر آمادہ کرنا۔ کھان مین بعد جستجو کے کچھ پانا۔

اِحْقَاف (فسفس) لنبے ریت کہ شحر کے کنارہ پر تھی اور قوم عاد وہان رہتی تھی۔ اور جمع ہے حقف (کس) کی بمعنے ریگ تودہ ٹیڑھا۔ اور احقاف کو قاف کو کہنا غلط ہے۔

اِحْقَاق (کسفس) پورے تین برس کا ہو کر حقہ ہو جانا حق بات کہنی شکار کو ذبح کرنا مار ڈالنا کسی پر حق سے غلبہ کرنا۔ واجب کر دینا۔ راست و درست کر دینا۔ درست جاننا۔ یقین جاننا۔

اِحْقَال (کسفس) حقل ہو جانا کھیت کا۔

اَحْقَان (فسفس) جمع حقنہ (فسف) کی ایک قسم کا درد شکم ہے۔

اِحْقَان (کسفس) چند قسمون کے دودہ کو جمع کرنا تاکہ خوش مزہ ہووے۔

اَحْقَب (فسف) خر وحشی جسکے پیٹ پر سپیدی ہو یا گھوڑا جسکے تنگ باندھنے کی جگہہ سپید ہووے۔

۱۱ اَحْقَف (فسف) پتلے پیٹ کا اونٹ۔

اِحْقِیقَاف (کسکسفس) پیٹھ کبڑی ہو جانی۔ نئے چاند کا ٹیڑھا ہونا۔ ریگ کا لنبا اور ٹیڑھا ہونا۔

۱۲ اَحَک (ففت) سُم چھیلا جسکی ایڑی گھسی ہوئی ہو۔ ٹوٹے دانتون کا آدمی بڈھا۔

۱۳ اِحْکَاء (کسفسم) گرہ باندھنی۔ گرہ مضبوط باندھنی۔ غالب آنا۔

۱۴ اِحْکَاد (کسفس) کسی کی طرف رجوع کرنا

کسی کے نیچے لکڑیاں بہت سی لگا دینی
ورغلانا ۔ برانگیختہ کرنا ۔
اِحْماض (کسفس) کسی کو کھٹا کر دینا
حمض سے کہ ایک گھاس ہری بھری ہونا
زمین کا ۔ کھاری گھاس کھانا اونٹوں کا
کھاری گھاس چرانی اونٹوں کو ۔
مزاح کرنا ۔ کھاری اور کھٹا ہونا ۔
کسی کو ایک کام سے پھیر دینا ۔
اِحْماق (کسفس) کسی کو احمق پانا
احمق بچے جننے عورت کے ۔
اِحْمال (کسفس) عورت کا دودھ
اوتر آنا بغیر حمل کے ۔ بوجھ اٹھوا دینا ۔
اِحْمام (کسفس) پانی گرم کرنا ۔
خداوند تعالیٰ کا کسی کے لئے کچھ
مقدر میں لکھ دینا ۔ نزدیک ہونا ۔ حاضر
ہونا ۔ کام کا کسی کو غم میں ڈال دینا ۔
گرم پانی اور سرد پانی سے دھونا ۔ کسی
زمین میں تپ کا پھیل جانا ۔ کسی کو
کالا کر دینا ۔ تپ چڑھ آنی ۔ تپ والا
ہونا آدمیوں کا ۔ صاحب بیماری ہونا ۔
اَحْمَر (فسفف) سرخ رنگ ۔ لڑائی
میں سنے لگے ہتھیار ۔ حُمر (ضس) حُمران
(ضسفس) جمع ۔ ایک قسم کا خرما

سپید رنگ ۔ مشقات و لذات سے بری ۔ زرد
یعنی سونا ۔ زعفران ۔ گوشت ۔ شراب
مرد سرخ ۔ احامر (فضسک) جمع ۔ قتل
سخت ۔ موت سخت ۔
اِحْمرار (کسکفس) سرخ ہونا ۔ سخت
ہونا عذاب اور رنج کا ۔
اَحْمَس (فسفف) سخت دیندار ۔
لڑائی میں دلیر ۔ حُمس (ضس) جمع ۔
سخت جگہ ۔ کھردری ۔ مرد والا ور سال
سخت و قحط ناک ۔ احامس (فضسک)
حُمس (ضس) جمع ۔
اَحْمَش (فسفف) مرد جسکی پنڈلی پتلی ہو
اَحْمَص (فسفف) اچرانی ہوئی
بکریوں کا چرانے والا ۔
اَحْمَق (فسفف) نہایت بیوقوف و بے
عقل ۔ حُمق (ضس) حمقی (فسف)
حماقے (فسفف) جمع ۔
اَحْموقت (فضسفف) احمق بالغ
اِحْمِیرار (کسکفس) سرخ ہونا ۔
اِحْمِیمام (کسکفسم) احم ہو جانا
ایک چیز کا ۔ رات یا رنگ کا مانند سیاہ ہونا
اِحْمِئناس (کسکفس) غصہ کرنا ۔
اَحناء الامور (...) یکساں امور متشابہ کام

مادہ
ح م ض
ح م ق
ح م ل
ح م م
ح م ر
ح م س
ح م ش
ح م ص
ح م ق

۴۹

۵ ۱۱ ح م
۵ ۱۱ ح م
۵ ۵ ح م س
۵ ۳ ح ن و

۵/۱ بجائے احمیرار کے احمرار اور احمرار کے احمیرار لکھ دو

ایام نزدیکی بلوغ سے تجاوز کرجانا — درخت گھاس کا الجھانا۔ نیا کا تیز او فصیح ہونا
احلاق (فسفس) جمع حلق گلے کی بمعنی ہنسلی اور حلقوم —
احلاق (کسفس) حوض بھرنا —
احلال (کسفس) مکان میں اتارنا احرام سے باہر آنا۔ حلال کر دینا — واجب کر دینا ایک کام کسی پر سکیں کا وعدہ بعد کم ہو جانے کے سبب ہو جانا ایام ربیع میں گھاس کے کھانے کے سبب۔ حلال مہینوں میں آنا حل میں حرم کے باہر ہی آنا۔ عہد اور پیمان سے باہر آنا۔ سزا کے لائق ہونا —
احلام (فسفس) جمع حلم (ضس) حلم (کس) کی بمعنی خواب احلام میں بیان ہو چکا
احلام (کسفس) حلیم بیٹے جننے عورت کے اور سکینت رکھنے —
احلش (فسفت) سرخ سیاہی مائل اور بکرا جسکی پیٹھ کے بال سیاہ اور سرخ ہوں
احلساس (کسفس) سرخ مائل سیاہی ہونا
احلشام (کسفس) سرخ مائل سیاہی ہونا
احلنقام (کسفس) طعام چھوڑ دینا
احلوقۃ (فسفسف) بات جس میں

کسی کو قسم کھلاوین —
احلیل (کسکس) ذکر کا سوراخ — پستان کا سوراخ — احالیل (فسکس) جمع —
احلیلاء (کسکسفس) شیرین ہونا کسی چیز کو شیرین پانا —
احم (ففت) نہایت ترشا اور سے بھایا لکا تیر ہسا۔ سپید لغات اضداد سے ہے —
احماء (کسفس) جگہ کو حمی بنا لینا کہ اسکے پاس کوئی نہ آسکے جنگلے جگہ کو حمی پانا — لوہے کو آگ میں گرم کرنا۔ خداوند تعالی کا آفتاب کو بہت گرم اور جلتا ہوا کر دینا کہ کوئی میں گا نا فا تنا
احماد (کسفس) کسی کا کام تعریف کے لائق ہو جانا۔ ایسا کام کرنا جس سے اسکی تعریف کریں۔ زمین کو لائق تعریف اور موافق پانا۔ کسی کے فعل اور مذہب سے خوش ہونا اور لوگوں پر اسکا اظہار نکرنا —
احمار (کسفس) سرخ بچہ جننا عورت کا چوپایہ کو ایسا چارہ دینا جس سے اسکے منھ میں تغیر اور بدبو ہو جاوے —
احماس (کسفس) غصہ دلانا —
احماش (کسفس) غصہ دلانا

۷۸

ایک ستارہ ہے بعضے کہتے ہیں کہ وہ مشتری ہے
احورار (کسکفس) آحور ہو جانا اور
سپید ہو جانا نہایت سپید ہونا آنکھ
کا حوراء ہو جانا۔
احوری (فسفکت) سپید نازک۔
احوز (فسف) تیز فہم۔ تیز ذہن
تیز ہمیں۔ کام میں چالاک۔
احوزی (فسفکت) بمعنی احوز سیاہ
خوب دفع کرنے والا۔ ہانکنے والا
چالاک گذار۔ کامی آدمی۔
احوش (فسف) دلاور۔ حوش
(ضس) جمع بھیڑیا۔
احوص (فسف) مرد جسکی آنکھوں کا
یا ایک آنکھ کا دنبالہ تنگ ہو۔
احوق (فسف) وہ کہ جسکا سر ذکر بڑا ہو
احول (فسف) بھینگا جسلیے گر زیادہ۔
احولال (کسکفس) بھینگا ہونا۔
احولصال (کسکسفس) گردنکو
خم کرکر پوٹہ کو باہر نکال لانا پرندونکا
مثل لقا کبوتر کے۔
احوواء (کسکتفسم) جوزن
اجلواذ سبز ہو جانا زمین کا۔
احوی (فسفف) سیاہ مائل سبزی

سرخ مائل بسیاہی۔ حوّاء (فتفسم) مونث
اور بمعنے سیاہ۔ حو (ضت) جمع گھاس
کہ بہت سبزی کے سبب مائل بسیاہی ہو
احویلال (کسکفس) سبز ہونا
زمین کا۔ زمین کی روئیدگی کا بار ہونا
بمعنے احولال (کسکفس)
احوواء (کسکسفسم) بمعنی حوی (فق)
سبز ہو جانا زمین۔
احی (فتف) گنہگار۔ مینہ یا صنی
احیاء (کسفسم) زندہ کردینا۔ زمین کو
فراخ نعمت اور بہت روئیدگی والا پانا۔
مواشی قوم کا جی جانا اور اچھا حال
ہو جانا۔ فراخی عیش اور نعمت میں ہونا
احیناج (کسفس) احاجہ (ملکفسف)
حاج درخت کا اوگانا۔
احیان (فسفس) جمع حین کس
کی بمعنے رقت۔
احیان (کسفس) مقیم ہونا وقت کا
آجانا۔ خبردار کرنا۔
احیف (فسف) شہر جسمیں مینہ نہ ہوا ہو
اخ (فس) اخ (مت) اخو
(فس) اخا (فف) اخو (فس)
نسبتی بھائی۔ دوست۔ ہمنشین۔

اختناء (بکسر) عہد شکنی کا مجبور ہو
اور دق ہونا، اسکے یا پیٹ کے
[illegible] دوسرا جاوے ندی کرنا۔
اختنات (بکسر) ہمانت کرنا
کسی کو باطل سے حق کیطرف اور حق
سے باطل کیطرف مائل کردینا۔
اختلاج (بکسر) کج کرنا، میلا
رکھنا، [illegible] پہنچنا، تنہائی کرنی۔
[illegible] کی طرح سے [illegible] کی
اختناذ (بکسر) [illegible] بہت بانی
ملانا [illegible] الانا [illegible] الفساد [illegible]
اختناش (بکسر) جلدی کروانی
[illegible] کسی سے پھیر دینا۔
اختناط (بکسر) کاٹنے اسکے
[illegible] ہونا کھیتی کا، رست گھاس کا
سفید ہو جانا، اور سوکھ جانا، مردہ ہو جانا
لگائی مر جانا، اس معنی میں مجہول استعمال ہوتا ہے
اختناق (بکسر) غصہ دلانا، گلا
گھونٹنا، کھلیان کا اور اڑانا پیٹ کا
لگ جانا، کثرت جماع سے [illegible] ہو جانا
اختناک (بکسر) تجربوں کا سکھانا
یعنی عاقل کر دینا، پھیر دینا، ہٹا دینا۔
اختنان (بکسر) احسان [illegible] کے

[illegible] کا یعنی خطا کرنا
اخنۃ (بکسر) کینہ، غصہ، [illegible]
اختناء (بکسر) جمع اور جنتہ (کعفا)
[illegible] کے لغت ضعیف ہے جمع [illegible]
اختناع (بکسر) کسی کی [illegible] کرنا
اخنف (بسنف) جسکے پاؤں میں
کجی ہو کہ اسکے پاؤں کے انگوٹھے
ایک دوسرے کی طرف پڑیں
احواب (بکسر) گناہ کی طرف مائل ہونا
احواج (بکسر) حاجتمند ہونا
محتاج ہونا، حاجتمند کر دینا لازم و متعدی
احواذ (بکسر) کام کا ایک چیز
کا بنانا، خوب جمع کرنا، بدن کے
کپڑے کو سمیٹنا۔
احواض (بفتح) جمع حوض کی مشہور ہے
احوال الدہر زمانہ کی گردشیں، کہتے
ہیں [illegible] احوالہ یعنی وہ اسکے گرد ہے
احوذ (بسنف) تیز رو۔
احوذی (بسنف) مرد تیز فہم تیز
ذہن [illegible] کام
اسکو آسان معلوم ہو [illegible] سے آہستگی
سے [illegible] کرنے والا۔
احوص (بسنف) مرد جسکی تمام آنکھ سیاہ ہو

| مادہ | | |
|---|---|---|
| | | اخامتہ (کفسف) گھوڑے کا تین پاؤں اور چوتھے سم کے کنارے سے کھڑا ہونا اور یہ عیب گھوڑوں کی تعریف میں ہے کہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں خیمہ بنانا |
| | | اخباء (کسفسم) آگ بجھا دینی |
| | | اخباء (کسفسم) خیمہ بنانا خیمہ کھڑا کرنا |
| | | اخباج (سفس) کپڑا پارہ پارہ |
| | | اخبانا (لغت) چکنی اتریان ۔ |
| | | اخباب (کسفس) اوپر چڑھانا گھوڑے کو |
| | | اخبات (کسفس) عاجزی و فروتنی کرنی |
| | | اخبات (کسفس) خبیث یا جمع کرنے خبیث چیزے جمع کرنے خبیث سکھانا پلید بات کہنی بیہودہ بکنا ۔ |
| | | اخبار (کسفس) خبر دینی ۔ اونٹنی کو بہت دودھیل پانا ۔ |
| | | اخباط (کسفس) خباط کی بیماری میں مبتلا ہونا ۔ خبط ہونا ۔ |
| | | اخبال (کسفس) کسی کو اسکی حسب طلب اونٹنی عاریت دینی یا عاریت دینی تاکہ اسکا دودھ پیوے اور اسکی پشم سے نفع اٹھاوے یا گھوڑے کو عاریت دینا تاکہ اسپر سوار ہو کر جہاد کرے اور غنیمت کو دو حصہ |
| | کرنا کہ ہر سال ایک حصہ بچے ہوئے | |
| | اخبان (کسفس) کوئی چیز چھپانی | |
| | اخبثان (فسفس) پیشاب اور پاخانہ گندہ دہنی اور بیخوابی ۔ یا نفس خوابی اور بے قراری ۔ | |
| | اخبط (فسف) مرد یا نوین دینے اور نے والا خبط (ضض) جمع ہے ۔ | |
| | اخبعثاث (کسکسفس) شیر کی طرح زمین پر چلنا ۔ | |
| | اخبل (فسف) دیوانہ ۔ | |
| | اخبیداد (کسکسفسم) پوری بدی کا ہونا ۔ اخبت ٹھوس ہونا اونٹ کا | |
| | اخت (ضس) بہن اخوات (فسفس) جمع | |
| | اختباء (کسکفسم) چھپانا چھپنا کچھ مقام میں کہنا بعد پھر اسکو اس سے چھپانا | |
| | اختباب (کسکفس) بمعنی خبب (فت) وخبیب (فکس) کپڑے میں سے ایک دھجی اتارنا یعنی چیٹ اتارنا یعنی | |
| | اختبار (کسکفس) آزمانا ۔ آگاہی ۔ | |
| | اختباز (کسکفس) اپنے لیے روٹی پکانی | |
| | اختباس (کسکفس) زبردستی سے کے لینا اور جلد لیجانا ۔ | |
| | اختباص (کسکفس) خبیصہ پکانا ۔ | |
| ۸۳ | | |
| [illegible] | | |

اخوتن (فتس) آخاء (ضسم) اخوان (کسض) اخوان (ضسک) اخوۃ (کسف) اخوۃ (ضسف) اخو (ضفت) اخیۃ (ضفتت) جمع اور کبھی لفظ اخ مشابہ اور مشارک اور مشاکل کے معنی میں آتا ہے اور اسی سبب سے دو چیزوں میں سے ایک کو دوسری کا اخ کہتے ہیں چنانچہ شر کو اخو الخیر اور خیر کو اخو الشر کہتے ہیں اور محاورہ ہے کہ

لا آخا لک بفلان یعنی فلان شخص تیرا بھائی نہیں

اخ (فت) ناخوشی اور درد نا کی کا کلمہ اور بغیر الف اور لام کے مستعمل ہوتا ہے

اخ (فت وکت) پلیدی —

اخ (کس) ایک لفظ ہے جو اونٹ بٹھانے کے لیے کہتے ہیں یہ اسم فعل ہے

اخ کا مرادف یعنی پھینک دے —

اخاء (کفسم) اخاوۃ (کفسف) کسی کا بھائی اور دوست ہونا اسکی فتح آخا آتی ہے اور واخا بجائے الف واو کہنا لغت ضعیف ہے

اخاخۃ (کفسف) گھاس کا پوشیدہ اور تھوڑا ہونا —

اخافۃ (کفسف) منھ کے پانی کے ابل کر منھ سے گرنے کی جگہ پر آنا اور بہ زمین جسے اپنی ذات کے لیے جوا کرے زمین کہ جسکو امام کسی شخص کو دیوے اور وہ ملک کسی کی نہووے یا اخاذات (کفس) اخاذات (ضفس) جمع یا اخذ (ضفس) جمع الجمع —

اخار (کفس) چوپایہ کو اس راستہ سے کہ جسپر چلتا ہے دوسرے رستہ پر پھیرنا —

اخاسف (فضسک) نرم زمین

اخاشف (فضسک) سخت زمین

اخاضۃ (کفسف) پانی میں چوپایہ کو گھسانا لوگوں کے گھوڑوں کا پانی میں گھسنا

اخاضر (فضسک) زر یعنی سونا — گوشت شراب —

اخافۃ (کفسف) ڈرانا خیف منی میں آنا اور اسمیں اترنا خیف میں اترنا —

اخاقیق (کفسف) زمین پر چلنا —

اخالۃ (کفسف) کسی میں فراست سے نشان خیر دریافت کرنا بہت ماموؤں والا ہونا

اخیال (کسفس) اونٹنی کے تھنوں میں دودھ کا ہو جانا زمین کا زینت دار ہو جانا بوٹیدگی کے باعث مشتبہ ہونا —

[illegible]

جڑ سے اوکھاڑ ڈالنا قطع کرنا کاٹ ڈالنا
اختزاز (کسکفس) انیوہ مین کسی کو
پکڑ لانا تیر اور نیزہ سے سینا-
اختزاع (کسکفس) کسی کو ذات سے علیحدہ کر لینا
اختزاق (کسکفس) تلوار کا ننگا ہونا-
اختزال (کسکفس) اکیلا اور الگ
رہنا توڑ لینا کاٹنا-
اختزان (کسکفس) پاس کے
رستے پر ہو لینا بھید چھپانا مال جمع کرنا
اختشاب (کسکفس) فی البدیہ کہنا
بے تامل بنے فکر کرنا کسی کام کا-
اختشاش (کسکفس) حشرات
الارض اور چڑیا وغیرہ کو کھانا-
اختشاع (کسکفس) فروتنی کرنی
اختصاء (کسکفس) اپنے تئین خصی کرنا
اختصار (کسکفس) کوکھ پکڑنی
کوکھ پر ہاتھ رکھنا مخصرہ کو ہاتھ
مین لینا- بات کو کوتاہ کرنا جیسے اختصر
الکلام سجدہ کی سورت پڑہنا اور آیت
سجدہ چھوڑ دینا تاکہ سجدہ نکرنا پڑے
جیسے اختصر السجدۃ چلنے مین سب
سے پاس کے رستے پر ہو لینا-
جیسے اختصر الطریق ونیز اختصار

کسی چیز مین سے زوائد کو دور کر دینا
اور نماز مین ایک دو آیہ اخیر سورہ کی پڑہنی
اختصاص (کسکفس) خاص
کرنا خاص ہونا-
اختصاف (کسکفس) بدن پر پتے
لگانے تاکہ ستر نظر نہ آوے جیسے
اختصف الورق علی بدنہ-
اختصام (کسکفس) آپس مین لڑائی کرنی
اختضاب (کسکفس) خضاب کرنا-
اختضاد (کسکفس) اونٹ کی ناک
مین مہار ڈالنی اور اسپر سوار ہونا-
اختضار (کسکفس) کٹا ہوا ہونا-
بوجھ اوٹھانا- بکارت زائل کرنی-
یا بلوغ سے پہلے بکارت زائل کرنی
ہری گھاس کو کاٹنا- جوان مر جانا-
تر و تازہ ہو جانا-
اختضاع (کسکفس) فروتنی کرنی
جلدی سے گذر جانا- نر کا اونٹنی کو
جفتی کے لئے بٹھانا-
اختضام (کسکفس) قطع کرنا-
اختطاء (کسکفس) قدم رکھنا
لوگون کی گردنون پر سے پھلانگ کر گذرنا
اختطاب (کسکفس) عورت سے

خزز
خزع
خزق
خزل
خزن
خسأ
خشب
خشش
خشع
خصی
خصر

85

خصص
خصف
خصم
خضب
خضد
خضر
خضع
خضم
خطو
خطب

| مادہ | علامات اعراب: فتحہ ف، کسرہ ک، ضمہ ض، سکون س، تشدید ت | |
| --- | --- | --- |



خبط
خبل
ختأ
ختر
ختل
ختم
ختن
خدر
خدع
خدف
خدم
خذل
خرج
خرش
خرص
خرط
خرع
خرف
خرق
خرم

اختباط (کس ک فس) امیدوار
احسان ہونا کسی پر کام دے لینے بغیر
احسان کئے۔ فعل بلا عوض کرنا جیسے
لکڑی سے درخت کے پتے جھاڑنا
ہاتھ کو دے مارنا اونٹ کا۔
اختبال (کس ک فس) حیلہ کر دینا
اور ناقص العقل کر دینا اور خراب اعضا
کر دینا یا بدن اکھڑ جانا۔
اختتاء (کس ک فس) فریب دینا۔ ڈر
یا شرم سے چھپ جانا۔ ڈرنا۔ اچک
لیجانا۔ رعب سے رنگ متغیر ہو جانا۔
غم یا ڈر یا مرض کے باعث عاجز ہو جانا
اپنے اسباب کو ایک ایک کر کے بیچنا۔
اختتاب (کس ک فس) شرم کرنی
کسی کا حصہ کم کر دینا۔
اختتال (کس ک فس) فریب کے لیئے
اختتام (کس ک فس) اخیر تک پہنچانا
ختم کرنا تمام کرنا۔
اختتان (کس ک فس) ختنہ کرنی
اختدار (کس ک فس) چھپ جانا۔
اختداع (کس ک فس) فریب دینا
پھر جانا کہ کسی کو بے عیب بھی پہنچا دے
اختداف (کس ک فس) اوچک لیجانا
کپڑے کو قطع کرنا۔
اختدام (کس ک فس) اپنی خدمت کے لئے
کسی کو نوکر رکھنا چاہنا۔ کسی سے
خدمت لینی۔ خادم چاہنا۔
اختذال (کس ک فس) چھوڑانا۔
اختراج (کس ک فس) باہر نکال لانا۔
اختراش (کس ک فس) کمانا۔ روزی
تلاش کرنی۔
اختراص (کس ک فس) جھوٹ بات
بنانی۔ جس چیز کو چاہنا جھوٹ موٹ اس کا لینا
اختراط (کس ک فس) اخترط العنقود دانہ
انگور کو منہ سے چوس کر بیج باہر نکالنا
تلوار سونتنا یعنی میان سے کھینچنا۔
اختراع (کس ک فس) چیز نئی پیدا
کرنا۔ نئی بات نکالنی۔ خیانت کرنی
کسی کا مال لے لینا اور اسکو ہلاک کر دینا
کسی کو سواری کے لیئے چوپایہ چند روز
کے لیئے دینا اور پھر اس سے لے
لینا جیسے اخترع اللہ ابہ
اختراف (کس ک فس) میوہ توڑنا۔
اختراق (کس ک فس) گذر جانا اور چلا جانا
جھوٹ گھڑ لینا۔ ہوا کا گذرنا۔
اخترام (کس ک فس) موت کا آ لینا۔

اختما ۱ م رکسکفس گھر میں جھاڑو دینی
کو زمین کو پاک کرنا ۔ قطع کرنا ۔

اختنا ب رکسکفس مشک کے
دہانے کو الٹ کے منہ لگا کر پانی پینا ۔

اختنا ق رکسکفس گلا گھونٹا ہوا ہونا

اختوا ء رکسکفسم شہر میں سے
ایک قطعہ الگ کرنا جیسے اختوی
البلد گھوڑے کے ہاتھ پاؤں
کے درمیان نیزہ مارنا جیسے اختوی
الفرس عقل جاتی رہنی جیسے
اختوی فلان جو کسی کے پاس تھا
سب کا سب لے لینا جیسے اختوی
ما عند فلان درندے کا گائے
کے بچے کو چرا لینا اور کھا لینا جیسے
اختوی السبع ولد البقر ۔

اختیا ث رکسکفس جیسے اختات
الکبار یعنی باز ہوا سے شکار پکڑنے
کو اوترا ۔ واختات الحدیث یعنی
بات کو سمجھا اور یاد رکھا ۔ رستہ لوٹنا
حیلہ سے اوچک لیجانا ۔ ونیز اختات
اوچک لیجانا بھیڑیے کا بکریوں کو
ایک سے بعد ایک کے جیسے الذئب
یختات الشاۃ بعد الشاۃ ۔

اختیا ر رکسکفس اچھا نٹ لینا
پسند کرنا ۔ اپنی خواہش سے کوئی
چیز پر دل رکھنا ۔

اختیا ض رکسکفس گھسنا خوض کرنا

اختیا ط رکسکفس جلدی سے
گذر جانا ۔ یا ایکبار گذر جانا جیسے اختاط
الیہ اور ایسے ہی اختطی الیہ یعنی تعلق

اختیا ف رکسکفس خیف منیٰ
میں آنا اور اسمیں اوترنا ۔

اختیا ن رکسکفس دھوکے بازی
اور خیانت کرنی ۔

اختتا ء رکسفسم گائے یا ہاتھی کو بیچنا

اختثا ر رکسفس جیسے اختثر اللبن
دہی بنا یا دودھ کو ۔ اختثر الزبد بے
پگھلائے مسکہ چھوڑا ۔

اخثم رفسف جسکی ناک چوڑی اور
دلدار ہو ۔ جسکے کان کے سرے
چوڑے ہوں ۔ شیر ۔ چوڑی تلوار ۔
عورت کی شرمگاہ کہ اونچی اور دلدار ہو

احجا ء رکسفسم سوال کرنا گڑگڑانا

احجا ء رکسفسم بہت جماع کرنا ۔

احجا ل رکسفس شرمندہ کرنا ۔
لینا اور گھنا ہونا گھاس کا ۔

ماده: خمم ۔ خنب ۔ خنق ۔ خوی ۔ خوث ۔ خیر ۔ خوض ۔ خیط ۔ خیف ۔ خون

۸۷

ماده: خثی ۔ خثر ۔ خثم ۔ خجی ۔ خجی ۔ خجل

۱۴

| مادہ |
| --- |
| ۱ خطط ۲ خطف ۳ خفی ۴ خصص ۵ خفق ۶ خلی ۷ خلب ۸ خلج ۹ خلس |
| ۸۶ |
| ۱۰ خلط ۱۱ خلع ۱۲ خلف ۱۳ خلق ۱۴ خلل ۱۵ خلم ۱۶ خمر ۱۷ خمل |

منگنی کرنی کسی کو بیاہ میں مانگنا منگنی قبول کرنی سگائی ہونی۔

اِخْتِطَاط (کسکفس) گھر بنانے کے لیئے زمین کے گرد خط کھینچنا اور اسکی حد باندہ دینی خط دار ہونا چہرہ کا سبزہ آغاز ہونا لڑکے کا۔ خطہ کو اپنا کر لینا اور اسپر نشان کر دینا۔

اِخْتِطَاف (کسکفس) کان لگانا تیپ دور سے ہوئی۔ اوچک لیجانا۔

اِخْتِفَاء (کسکفسم) پوشیدہ ہونا۔ باہر نکالنا آشکار اکرنا۔

اِخْتِصَاص (کسکفس) اوتر نا لڑکی کا آپ ختنہ کر لینا۔

اِخْتِفَاق (کسکفس) سر ٹکا ہلنا اور تملانا

اِخْتِلَاء (کسکفسم) گیلی گھاس کا کاٹنا اور اوکھاڑنا تلوار سے کاٹنا۔

اِخْتِلَاب (کسکفس) فریفتہ کر لینا لبھا لینا۔ فریب دینا۔

اِخْتِلَاج (کسکفس) کھینچنا نکال لینا آنکھہ کا اعضا کا پھڑکنا۔

اِخْتِلَاس (کسکفس) اوچک لیجانا۔ جھٹ پٹ اوچک لیجانا۔

اِخْتِلَاط (کسکفس) ملجانا گھوڑے کا رفتار میں کوتاہی کرنا خراب اور پریشان عقل کا ہوجانا۔ موٹا ہوجانا اونٹ کا۔

اِخْتِلَاع (کسکفس) کسی کا مال لے لینا۔ مال دیکر طلاق لینا عورت کا۔

اِخْتِلَاف (کسکفس) ضد اتفاق کسی کا خلیفہ ہونا۔ پیٹ چل پڑنا یعنی دست آجانا۔ ایک شخص کے پیچھے اسکی جورو کا مالک ہوجانا۔

اِخْتِلَاق (کسکفس) جھوٹ گڑھنا۔

اِخْتِلَال (کسکفس) شیرین بیابان میں رہنا اور ٹونکا اختلت الدابۃ کسی چیز کو نیزے سے بیند ہنا جیسے اختلہ بالرمح کسی کیطرف حاجتمند ہونا جیسے اختل الیہ دُبلا ہوجانا جیسے اختل لحمہ سرکہ ہوجانا۔ سرکہ بنانا۔

اِخْتِلَام (کسکفس) چھانٹ لینا چُن لینا پسند کر لینا۔

اِخْتِمَار (کسکفس) خمیر ہونا خمیر کرنا گندہ ہوا آٹا نکل آنا۔ اوڑھنی اوڑھنا جیسے اختمرت الخمار شراب کا تیار ہونا اور جوش مارنا۔

اِخْتِمَال (کسکفس) خمائل میں چرنا اور خمائل زمین نشیب جسمین عمدہ سبزہ ہو

گرفتار کرنا ۔ آخذ (مک) قیدی پکڑنے والا ۔ صیغہ لغت ہی ۔
أخذت علی ید فلان روکا میں نے اسکو اسکی خواہش سے ۔
أخذ البعیر أخذا اونٹ کی بیماری کے خوف سے پہلو میں داغ دیا ۔
أخذ الشارب موچھ کے بال کٹواتے اور کم کروائے ۔
أخذ (کس) ایک داغ ہی کہ بیماری کے خوف سے پہلوے شتر پر کرتے ہیں ۔
أخذ (فس و کس) سیرت و خو و عادت ۔
نجوم الأخذ چاند کی منزلیں ہیں یا شہاب کہ فرشتے اُن جنوں کو مارتے ہیں کہ جو آسمان پر جاکر چوری سے اُن خبروں کو سنتے ہیں کہ جو فرشتوں کی زبان پر ہیں ۔
أخذ (کس) پکڑ و پکڑ اسم مصدر ہے ۔
أخذ (فض) آشوب چشم ۔ کردنیا
أخذای (کسفقسم) فرمانبردار اور خوار ۔
أخذال (کسفس) وحشیہ کا اپنی مان کو اپنے سے متنفر پانا جیسے
أخذل ولدها وحشیة ہرنی کا اپنی بچہ کی تلاش میں ٹھہر جانا جیسے
أخذلت الظبیة ۔
أخذام (کسفس) ذلت و خواری کا اقرار کرنا ۔ آرام پکڑنا شترا کا مستکبر ہونا
أخذة (ضسف) افسون ہی سحر کی مانند یا ایک افسون مہرہ کہ جس سے عرب کی عورتیں مردوں کو اور عورتوں کے پاس جانے سے بند کرتی ہیں ۔
أخذة الشار نماز مغرب کے پیچھے تھوڑا زمانہ عربوں کا زعم ہی کہ بعد نماز مغرب تھوڑا سا وقت ساعت بد ہی اور اسمیں آگ یا آتش زنہ میں سے جلد لگ جاتی ہے ۔
أخر (مک) جو خیر سے دور اور مطرود اور مدفوع ہو ۔
أخر (فض) پیچھے ضد قدم کو کہتے ہیں شققه أخرا یعنے پیچھے کیطرف سے پھاڑا اور بولتے ہیں جاء أخرا یعنے سب کے پیچھے آیا ۔
آخر (مک) أخیر (فکس) پچھلا ضد تخستین یعنے پہلا ۔ آخرة (مکف) مونث پیچھے ۔ بولتے ہیں جاء آخرا و أخیرا یعنی سبکے پیچھے آیا ۔ أواخر (فضسک) جمع ہر چیز کی انتہا ہو جانے

ءخذ
ءخذ
ءخذ
ءخذ
ءخذ
ءخذ
ءخر
۸۹

مادہ | علامات اعراب ضمہ ـُ مکسورہ ـِ مضمومہ ـُ فتحہ ـَ کسرہ ـِ سکون ـْ تشدید ـّ

بافعلی
بافعنی
بافعل
بافعل
فعز
فعل
بافعل
بافعلم
بافعلد
فعل فعز
بافعلع

۸۸

ب خدمس
ب خدر
ب خدع
ب خدن
خدر

احجی (فسف) عورت بہت پانی چھوڑنے والی اور جسکی رانیں دور دور ہوں اور جو چلنے میں پانوؤں کے پنجے پاس پاس رکھے اور ایڑیان دور دور —
احداء (کسفسم) زمین پر آہستہ آہستہ چلنا
اخداج (کسفس) کم باران ہونا جیسے
اخدجت الصیفۃ ناقص بچہ جننا اونٹنی کا اگرچہ پورے ہو گئے ہوں جیسے
اخدجت الناقۃ —
اخدار (کسفس) ابر بوندی ہوا کے دن میں آنا شیر کا اپنے بیشہ سے نہ نکلنا سوتے ہاتھ پانوؤں والا اور سست بدن والا کر دینا لڑکی کا خدر میں اور مرد کا اپنے کنبہ میں اور باز کا اپنے گھونسلے میں مقیم رہنا۔
اخداع (کسفس) کسی چیز سے مضبوط کر دینا فریب پر برانگیختہ کرنا کسی چیز کو چھپانا۔
اخدام (کسکفس) خادم دینا۔
اخدب (فسف) احمق لمبا جلدی کام کرنیوالا لمبا خودسر خودرائے
اخدر (فسف) اندھیری رات —
اخدری (فسفکت) گورخر —

اخدریہ (فسفکت) اخدر کی نسل کا گھوڑا —
اخدع (فسف) بہت زیادہ فریب دینے والا۔ ایک رگ ہے گردن میں جہاں پچھنے لگتے ہیں اور وہ دو ہیں —
اخذم (فسف) گھوڑا جسکی ساق کی سپیدی چھوٹی ہو کر اسکے خردگاہ کے گرداگرد ہو گئی ہو اور خردگاہ گھوڑے وغیرہ کے سُم کے جوڑ کی جگہ کو کہتے ہیں
اخدود (ضسضس) لمبائی میں زمین کا شگاف۔ اخادید (فضکس) جمع —
اخدور (ضسضس) گھر کے کونہ میں لڑکیوں کے لئے پردہ جیسے مانجھا —
آخذ (فف) اونٹ کے بچہ کا دودھ کے سبب بدہضم ہونا۔ اونٹ کا دیوانہ ہونا آشوب و درد چشم میں مبتلا ہونا
اخذ (فک) صیغہ لغت ہے —
آخذ (مک و فک) اونٹ جسکا موٹاپا شروع ہوا ہو یا اسکے دانت نکلنے شروع ہوئے ہوں سدودہ جو ترشی کے سبب سے کیوقت زبانکو جھلا دیو —
اخذ (فس) (ان) پکڑنا جبکہ یہ صلہ ہو کسی کا کسی کو بدی میں ڈالنا جیسے
اخذ فلاں اخذ فلانا مار ڈالنا باندھنا —

اخرار (سفس) کسی چیز کو مار کر گرا دینا
اخراس (سفس) گونگا کر دینا۔
آخراص (سفس) لکڑیان جن سے شہد توڑین۔
آخراط (سفس) خریطے کے منھ کو تسمہ سے باندھنا۔ اونٹ اور بکری کو چرنے کے لئیے چھوڑ دینا۔
اخراف (سفس) کسی کو آخرف اور زائل العقل کر دینا میوہ توڑنیکے وقت کا پہنچ جانا درخت کا۔ بکری کا فصل خریف مین بچہ جننا فصل خریف مین آنا زمین گھاس کا بہت لینا ہونا میوہ توڑنے کی اجازت دینی تاکہ وہ اپنے لئیے میوہ توڑے۔ اونٹنی کا اسی وقت مین بچہ دینا کہ جسمین حاملہ ہوئی تھی۔
اخراق (سفس) حیران و سرگشتہ اور پریشان کر دینا۔
آخرانج (مکعس) اونٹ کی وہ پستانین کہ ران کے متصل ہین۔
اخرش (فسف) کان کے شگاف کی کشادگی کہ جو اخرم (فسف) اور مکفوف (فسفس) ہو۔ کان چرا۔ کان مین سوراخ کیا ہوا عروض کی ایک اصطلاح

اخرۃ (ضفف) اخری (ضسکت) اخری (کسکت) اخری (کلکت) اخری (ملکت) پیچھے۔
اخرۃ (فکف) مہلت اور مہار۔
آخرۃ (مکف) اخری (مسف) وہ جہان یعنے آخرت۔
آخرج (فسف) مرغا کہ ایک جانور ہے۔ احمق بیوک۔
اخرنجاج (کسکفس) احمق ہونا۔
اخرس (فسف) گونگا۔ خرس (ضس) خرسان (ضسفس) جمع۔ جما ہوا دودہ۔ رستے کا منارہ جس سے اولٹ کر آواز یعنی صدا نہ آوے۔
اخرق (فسف) بیوقوف۔ احمق۔ نادان۔ اونٹ جسکا نجابت اور اصالت کے سبب قدم کا سرا قدم سے پہلے زمین پر پڑے
اخرم (فسف) شعر جسمین خرم الصرف جاری کیا ہو یعنے فعول کی ف اور مفاعلن کا میم گرانا جسکے کان مین سوراخ کر دیا ہو جسکی ناک کا بانسہ کاٹا ہوا ہو
اخرماس (کسکتفس) چپ رہنا۔ خوار رہنا۔ فروتنی کرنی۔
اخرماص (کسکتفس) چپ رہنا۔

مادہ: خر — خرس — خرص — خرط — خرف — خرق — خرنج — خرش



اخر — خرج — خرس — خرق — خرم — خرمس — خرمص

۱۲

ا خ ر — ا خ ر ب — ا خ ر ت — ا خ ر ج — ا خ ر د

۱۲

کے پیچھے باقی رہنے والا ہے صفات باری تعالیٰ سے ہے۔ آخِرَہٗ آخَرَ آخِرَ الرَّحْل وآخِرَۃُ الرَّحْل پالان کا دنبالہ کہ جس پر سوار تکیہ کرتا ہے۔ آخِرَۃُ العَین آنکھ کا دنبالہ۔

اُخَر (صفت) جمع اُخْرٰی یہ لفظ اُخَر غیر منصرف آتا ہے اسلیئے افعل التفضیل جو مِن کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے جب تک کہ نکرہ ہے تب تک اسمین تذکیر اور تانیث و تثنیہ و جمع برابر ہے جیسا مَرَرْتُ بِرَجُل اَفْضَل مِنْکَ و بِرَجُلَیْن اَفْضَل مِنْکَ و بِرِجَال اَفْضَل مِنْکَ اور بِامْرَأَۃٍ اَفْضَل مِنْکَ و بِامْرَأَتَیْن اَفْضَل مِنْکَ اور جب اُسپر لام داخل کرین یا اُسکو مضاف کرین تو وہ تذکیر و تانیث اور افراد و تثنیہ و جمع مین اپنے موصوف کے تابع ہوتا ہے جیسے مَرَرْتُ بِالرَّجُل الاَفْضَل و بِالرَّجُلَیْن الاَفْضَلَیْن و بِالْمَرْأَۃِ الفُضْلٰی و بِالْمَرْأَتَیْن الفُضْلَیَیْن و بِالنِّسَاءِ الفُضَل اور ایسا ہی حالت اضافت مین مَرَرْتُ بِاَفْضَلِہِم و اَفْضَلِیْہِم و اَفْضَلِیْہِمْ اور فُضْلَاہُن و لیکن اُخَر مین یہ ضابطہ جاری نہین ہے اسواسطے کہ وہ بغیر مِن اور اضافت اور الف اور لام کے مونث اور جمع آتا ہے چنانچہ کہتے ہین مَرَرْتُ بِرَجُل آخَر و بِرِجَال اُخَر و آخَرِیْن و بِامْرَأَۃٍ اُخْرٰی و نِسْوَۃٍ اُخَر تو اسصورت مین اُخَر اُخَرْ مِن سے یا الآخَر سے معدول ہوگا اور اُسمین وصفیت بھی ہے تو یہ سبب مجتمع ہونے دو سببون غیر منصرف کے کہ عدل اور وصف ہے یہہ لفظ غیر منصرف ہوا۔

اِخْرَاب (مصدر) ویران کرنا۔

اِخْرَات (مصدر) چوپایہ کے نتھنے کے سوراخون کے حلقے نیچے کرے۔

اِخْرَاج (مصدر) نکالنا۔ محصول ادا کرنا۔ شتر مرغ ابلق کو شکار کرنا۔ عورت سرخ رنگ سے نکاح کرنا۔ کہ جسکی سپیدی مائل بسیاہی ہو گئی۔ برس کا گذر جانا جسمین فراخی اور تنگی تھی۔ چرندون کا بعض چراگاہ کو کھا لینا اور بعض چھوڑ دینا۔

اِخْرَاد (مصدر) شرم کرنا۔ ذلت اور خواری کے سبب چپ رہنا نہ حیا کے سبب۔ کھیل کی طرف مائل ہونا۔

| ماده | | |
|---|---|---|
| [illegible] | ہین شہر جسمین ارزانی اور کشایش ہو<br>اخصاب (کسفس) فراخ سال ہونا عضاہ کے درختون مین پانی رواں ہونا یہانتک کہ انکے ریشون مین پہنچ جاوے جیسے اخصب العضاہ<br>اخضاض (کسفس) ذلیل اور خوار رکہنا عیب کرنا<br>اخصاف (کسفس) بدن پر پتے باندہنے تاکہ ستر نظر نہ آوے جلدی کرنی اور تیزی کرنی<br>اخصال (کسفس) نشانہ پر تیر جا لگنا نشانہ کے پاس تیر کا جا پہنچنا<br>اخصام (کسفس) جمع خصم فس<br>اخصام العین جسپر آنکہ کے پپوٹے کے کنارے ہموار ہین<br>اخصف (فسفت) گہوڑا ایکی جسکے کوکہہ سپید ہو شتر مرغ جس مین سیاہی اور سپیدی ہو<br>اخصوم (مسفس) گوین کا کونہ<br>اخضاب (کسفس) گہاس ہو گئی<br>اخضاج (کسفس) توڑنا آ کر<br>اخضاد (کسفس) خوشی مین کر بچہڑا کا حلقہ لگام کو کہینچنا | اخشام (کسفس) سڑ جانا<br>اخشب (فسفس) سخت کہردرا پہاڑ بڑا بزرگ<br>اخشف (فسفت) جو کہ خارش کے سبب سے مین ٹڈہون کیطرح چپے<br>اخشف (فسفس) کی جمع<br>اخشم (فسفت) کشادہ بینی وہ کہ جسکی ناک بیماری کے سبب سڑ گئی ہو جو کہ قوت شامہ نرکہے<br>اخشن (فسفت) کہردرا اخشن (فسفس) جمع مرد بدحال جسکو دیکہہ کر ملامت کرین<br>اخشن الجانب سخت دشوار طاقت سے زیادہ<br>اخشیشاب (کسکسفس) لباس سخت بدن اور تنگی ہڈی کا ہونا رنج و مشقت پر صبر کرنا جیسے اخشوشب فی عیشہ<br>اخشیشان (کسکسفس) بہت آلیسے گہر دیہرا کہردرے اور موٹے کپڑے پہننے کی عادت کرنی بیست کردی سخت باتا کہنی بہت سخت زندگانی مین جینا<br>اخصام (کسفسم) ایک علم سیکہنا<br>اخصاب (فسفس) مشہور کپڑے |

[illegible]

مادہ

خرم
خرنق
خرطم
خرنق
خمس
خرط
خرق
خرنج
خرق
خرط



خزی
خزن
خزع
خزب
خزم
خزی
خسا
خسع
خسر
خسس
خسف

اخرمان (فسقفس) دو سوراخ دار ہڈیاں ایک تو اوپر کے جبڑے میں ہے اور دوسری دو شانوں میں پاس گردن کے
اخرنباق (کسکفس) سر جھکانا چپ ہونا۔ زمین سے چمٹ جانا۔
اخرنطام (کسکفس) ناک کو پھلانا اونچا کرنا تکبر کرنا غصہ کرنا۔
اخرنفاق (کسکفس) بمعنے خرفقہ
اخرنماس (کسکفس) چپ رہنا۔
اخروّاط (کسکفس) تیز چلنا۔ تیز گذر جانا۔ چال کا اولٹ کر شکار کے پاؤں پر بند ہونا۔ قاری کا بغیر عرض کے لمبا ہونا۔ رستہ کا کسی پر دور دراز کھنچ جانا۔
آخری (ضسف) بمعنی آخر تا اور سب سے پچھلا جیسے آخری القوم
اُخرنجاج (کسکفس) ابلق ہونا
اخرورّاق (کسکفس) بمعنی انخراق (کسکفس)
اخرلطار (کسکس) ایک قسم کی کھاری گھاس
اخزاء (کسفسم) رسوا کر دینا۔
اخزان (کسفس) بعد فقر کے غنی ہونا۔ مال جمع کرنا۔

اخزری (فسفکت) صاف اور تیار کی ہوئی ریشم کی پگڑیاں۔
اخزل (فسف) جسکی پیٹھ ٹوٹ گئی ہو۔ اونٹ جسکا سارا کوہان جاتا رہا ہو۔
اَخزم (فسف) نر سانپ۔ نر جسکے پوست کی رگیں چھوٹی ہوں۔ ایک پہاڑ ہے مدینہ منورہ کے پاس۔ ایک سانڈ ہے اصیل و نجیب۔
اخزوا ء (کسکفسم) بلا اور شہرت میں پڑ کر ذلیل و خوار ہونا۔
اخسناء (کسفسم) گولیوں سے طاق اور جفت کھیلنا۔
اخسار (کسفس) کمی۔ کم کرنا۔
اخساس (کسفس) نیچ بنا کرنا۔ کسی کو خسیس اور نیچ پانا۔ کسی کا حصہ کم دینا۔ گھٹا دینا۔
اخساف (کسفس) آنکھ کا اندھا ہونا۔ کوئیں کو خسیف پانا۔
اخسائن (کسفس) عزت کے بعد ذلیل و خوار ہو جانا۔
اخسوص (ضسفس) گوں کا گوشہ۔
اخشاش (کسفس) اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالنی تاکہ اسمیں مہار ڈال دیں۔

نکل آئے ہوں۔ خطباء (ضفسم)
خطبانۃ (ضفسف) سونٹ خطبان
(ضسفس) کا جمع۔
اخطبان (ضسفس) ایک پرندہ ہے
اخطف الحشا مرد باریک شکم
تلے بیٹھا والا مرد۔
اخطل (فسف) چند شاعر ہیں۔
اخطم (فسف) ہلنی ناک والا کالا۔
اخطار (کسفسم) ڈالنا اور بکھیر
کر دینا۔ موٹا ہونا۔ موٹا کر دینا۔
اخفاء (کسفسم) نشان اور پوشیدہ ہونا
نشان اور پوشیدہ کر دینا۔
اخفاج (کسفس) اونٹنی کا اسی طرح
بچہ دینا کہ جسدن اسنے زیادہ اچھا
اخفاد (کسفس) اونٹنی کا ناقص بچہ
ڈالدینا۔ حمل کے جاملہ پن کھلانا۔
اخفار (کسفس) عہد و پیمان کو توڑ
ڈالنا۔ کسی کے ساتھ رہبر کر دینا۔
اخفاش (کسفس) کسی کو بے
اندازہ برا بھلا کہنا۔ شراب میں تھوڑا
پانی ڈالنا۔
اخفاع (کسفس) بھوک کا کسی کو
زمین پر گرا دینا۔

اخفاف (کسفس) سبک حال ہونا
ہلکے چوپایوں کا مالک ہونا۔ کسی کا [illegible]
ہم [illegible]
اخفاق (کسفس) نیند کے سبب
جھوم لینا اور اونگھنا۔ اور [illegible]
مارنے جانور کے ستارہ کا غروب
ہونے کے لئے متوجہ ہونا۔ [illegible] اور
غنیمت نہ پانی شکاری کا نے شکار
پھر آنا۔ [illegible] والے کا نے
مراد پھر آنا۔ زمین پر [illegible] مارنا۔
اخفیۃ النور کلی کی پتیاں۔
اخفیۃ الکری چشمہا۔
اخفاج (کسفسم) کشادہ فرج
عورت سے جماع کرنا۔
اخفاق (کسفس) فراخ ہونا۔
اخقوق (ضسفس) [illegible] الخقیق
اخقیق (کسکس) زمین میں گڑھا
جسمیں کوئی چھپ سکے۔ اخاقیق (فسکس) جمع۔
اخل (فت) محتاج تر۔ درویش
اخلاء (کسفسم) خالی ہونا۔ خالی
کرنا۔ خالی پانا۔ خالی جگہ میں آپڑنا۔
خلوت کرنی جیسے اخلاء [illegible]
اخلاء (کسفسم) چارہ اوگانا۔

مادہ
خطب
خطب
خطف
خطل
خطم
خطر
خفی
خفج
خفد
خفر
خفش
خفع
خفف
خفق



خفس
خفع
خفق
خقق
خقق
خل
خلو
خلو
خلی

اخضار (بکسر) سبز کردینا۔
اخضاع (بکسر) عورت سے زم باتیں کرنی۔ نیچا کرنا کسی کو پست کردینا عاجزی کا کسی کو کسی کی طرف فروتن کردینا تعدیہ خضاع کی ہے۔
اخضال (بکسر) پانی سے تر کرنا۔
اخضد (بفتح) دوہرا ہونے والا اور خرما کھانے والا۔
اخضر (بفتح) سبز سیاہ لغات اضداد سے ہے۔ وہندی رنگ کا مرغ
اخضرار (بکسر) کٹ جانا سبز ہو جانا کھیت کا سیاہ ہونا۔
اخضع (بفتح) جو کہ ذلت وخواری پر راضی ہو۔ جسکی گردن پیدائشی جھکی ہو
اخضف (بفتح) سانپ۔
اخضلال (بکسر) طراوت ناک ہونا پانی سے تر ہونا اندھیری ہونا رات کا۔
اخضیضاب (بکسر) درخت کا سبز ہونا
اخضیضار (بکسر) کھیت کا سبز ہونا
اخضیضاع (بکسر) فروتنی کرنی
اخضیضال (بکسر) پانی سے تر ہونا
اخضیلال جزو دین احمیرارو
اخضیلال بعضوں نے تشعر لرزہ ہونا

اخطاء (بکسر) قدم اٹھانا پر لگینہ کرنا
اخطاء خطا کسی کی خطا کی طرف منسوب کرنا
اخطاب (بکسر) حنظل کا زرد ہونا اور سبز خط اسمیں نکل آنے نزدیک ہونا شکار کا جیسے اخطبک الصید
اخطار (بکسر) بعد فراموشی کے یاد دلانا بلند قدر و مرتبہ کر دینا مال کو گروی رکھنا کسی کے ہم قدر و ہم منزلت ہونا۔
اخطری و اخطرت کہ جیسے آتی ہیں شرط لگائی گئی ہے۔
اخطاط (بکسر) خط دار ہونا چہرہ کا سبزہ نکلنا لڑکے کا رخسار پر خط کو اپنا کر لینا اور اسپر نشان کر دینا۔
اخطاف (بکسر) تیر کا نشانہ سے خطا کر جانا پیٹ کی باریکی۔
اخطال (بکسر) کلام میں فحش بکنا۔
اخطب (بفتح) وہ ہندوانہ کہ جس میں سبزی زردی لیے۔ وہ ہندوانہ کہ جس میں سبزی۔ اخیل جانور کہ سرخ و سبز و سفید نشان رکھے سا ایک ونڈ پرندہ چرغ سبز گدہا گدہا جسکی پیٹھ پر سیاہ خط ہو۔ حنظل جسمیں کالے خط

علامات اعراب ضمہ فتحہ کسرہ سکون تشدید

مگر اس معنی میں مجہولاً مستعمل ہے جیسے
أُخْلِيَ اور چک لیجانا جیسے أَخْلَى الشَّيءَ
اخلاف (فسعت) کہتا بھینگا۔
جو بائیں پانوں پر زور دیکر چلے احمق
سیل۔ سانپ۔ کم عقل۔ اور جو
کنارے کی طرف سیل کرے۔
اخلق (فسعت) چکنا۔ فقیر۔
اخلیج (کسکس) تیز رو گھوڑا۔ اصیل
ایک گھاس ہے۔
اخلیلاء (کسکسفم) دودھ پینے پر
ہمیشگی کرنی۔ روز مرہ پینا۔
اخلیلاق (کسکسفس) اخلولق
السحاب برابر اور برساؤ ہوا ابر۔ اخلولق
الرسم زمین برابر ہو گئی اور نشان
مٹ گئے۔ اخلولق متن الفرس چکنی
ہو گئی پیٹھ گھوڑے کی۔ نیز اخلیلاق
نشان کا محو ہونا اور زمین کے برابر ہونا
گھوڑے کی پیٹھ کا چکنا ہو جانا۔
اخماد (کسفس) بجھنا اور خاموش
ہونا۔ واخماد النار آگ کی لو کو دبانا
اخمار (کسفس) ڈھکنا چھپانا۔
کینہ ور ہونا۔ داخل ہونا چھپ جانا۔
واخمرته الارض عنی وخفی وتخلیٰ چھپا
لیا اسکو زمین نے مجھ سے۔ اخمر
فلاناً الشیءَ دے دیا قلانے کو یا مالک
کر دیا اسکو فلانی شئی کا۔ اخمر الامر
دل میں رکھی بات۔ اخمر العجین
آٹے کو خمیر کیا۔
اخماس (کسفس) پانچ ہونا خمس
اونٹوں کا یعنی جو پانچویں دن پانی
پیوئیں مالک ہونا۔
اخمال (کسفس) گمنام اور بے قدر
کر دینا۔ کپڑے کو روئیں دار کر دینا
یعنی مخمل بنا دینا۔
اخمام (کسفس) متغیر ہو جانا گندہ
ہو جانا جیسے اخم اللبن مشک کی
بدبو سے دودھ متغیر ہو گیا۔ واخم اللحم
گوشت گندہ ہو گیا۔
اخمص (فسعت) تلوے کی باریکی
اخن (ففت) مرد جسکی آواز میں
گنگناہٹ ہو یعنی گنگنا۔ خن جمع
اخناء (کسفسم) ہلاک کر دینا۔
فحش بکنا جیسے اخنی علیہم بہت
اندیشے دار ہو جانا ٹڈی کا جیسے
اخنی الجراد چراگاہ کا بہت گھاس دار
ہو جانا جیسے اخنی المرعی کسی

مادہ
خلف
خلق
خلج
خلی
خلق
خمد
خمر
خمس
خمل
97
خمم
خمص
خن
خنی
١٢



ج

| مادہ |
| --- |
| خلب |
| خلج |
| خلد |
| خلس |
| خلص |
| خلط |
| خلع |
| خلف |
| خلق |
| خلل |



اِخلاب (کسفعس) انگور کا بچے
نکال لانا - پانی کا گدلا ہو جانا -
اِخلاد (کسفعس) کسی جگہ مقیم ہونا
ہمیشہ رکھنا کسی کو کسی
کو [illegible] رکھنا اور اسکو چھوڑتا نہیں -
کسی کیطرف میلان کرنا -
اِخلاس (کسفعس) [illegible] گیلی گھاس [illegible]
آجانا - سیاہ و سپید بالوں کا اکٹھا ہو جانا
اِخلاص (کسفعس) خلاصہ نکالنا
وا خلص للہ خدا کی اطاعت کی [illegible]
سے نہ کسی کے دکھانے سنانے کو -
موٹا ہو جانا اور اسکی ہڈیوں میں گودہ
بھر جانا جیسے اخلص البعیر [illegible]
گھنی سے میل کرنا -
اِخلاط (کسفعس) رفتار میں کوتاہی
کرنی گھوڑے کی جیسے اخلط الفرس
نر کا مادہ کے ساتھ آمیزش کرنا -
نر کا ذکر اونٹنی کی فرج میں رکھنا
اِخلاع (کسفعس) عضاہ کے درخت کا
پتے نکال لانا جیسے اخلع العضاہ
دانہ پڑ جانا خوشہ میں جیسے اخلع
السنبل خوشہ کے دانوں کو
پانا کہ پتے [illegible] جو [illegible] -

ـت جیسے اَخلع القوم -
اِخلاف (کسفعس) بودار ہو جانا منہ [illegible]
روزہ دار کے منہ کا جیسے اخلف فم الصائم
پیاسا پانی کرنا - وعدہ کرنا اور پھر اسکے
خلاف کرنا جیسے اخلف الوعد جاتی
رہی ہوئی چیز کے بدلے میں دوسری
چیز لینی - کھوئے ہوئے کا پھیر لانا پہلے
[illegible] کے پیچھے اور [illegible] نکالنا جانور کا -
خواب دیکھنے لگنا بچہ کا یعنی اس عمر
پہنچ جانا کہ خواب دیکھنے لگے - دوا کا
کسی کو ضعیف کر دینا - دودہ اور کھانے کا
مزہ اور بو بدلجانا - ساتھ تلوار پر ڈالنا
تاکہ [illegible] جفت ہونا نر کا اونٹنی
دوسری بار جبکہ اول جفتی میں حاملہ نہ ہوئی
اَخلاق (کسفعس) پرانا کپڑا پہننا
پرانا ہونا - لازم و متعدی دونوں آتا ہے
اِخلال (کسفعس) خراب پھل لانا
یا خلال پھل لانا کھجور [illegible] سے بھی
جیسے اخلت النخلۃ و اخلوا [illegible]
کھائیں جو [illegible] اور [illegible] -
اَخلّ الابل شیرین چارے میں
[illegible] اونٹوں کو [illegible] اخلال [illegible]
[illegible] جیسے اخلّ بالرجل محتاج [illegible]

اخیال (کسفس) ابر ستے واند - خیال کر کر ابر کیطرف سر اوٹھاکر دیکھنا ابر کا برسنے کے لیئے آمادہ ہونا جیسے اَخیَلَت السّماء ونیز اخالۃ (کفسف) مشتبہ ہونا - اونٹنی کے بچے کے لیئے خیال رکہنا تاکہ بھیڑیا اُس سے ڈرے کسی شئے کو دکر رک جانا -

اُخیۃ (کلتف) آخیۃ (مکتف) آخیۃ (مکف) ایک کج لکڑی یا ایک رسّی یا ایک تسمہ ہوتا ہی کہ دونون سرے اُسکے دیوار مین یا پہاڑ مین یا زمین مین خوب گھسائے جاوین اور اُنکے درمیان مین ایک حلقہ سا باہر رہے اور چارپایہ کو اُس سے باندہتے ہین اخایا (ففسف) اخاخی (ففسنک) جمع آخیۃ (مکتف) خیمہ کی طناب عرب عہد - بولتے ہین لِفُلانٍ اَواخِیّ و اَسبابٌ تُرعیٰ یعنی فلانے کے لیئے وسیلے اور اسباب ہین کہ اُنکی رعایت کیجاتی ہی - اور یہ بھی بولتے ہین کہ عِندِی آخیۃ یعنی اُسکے لیئے میرے پاس وسیلہ ہے - لقبیہ چنانچہ بولتے ہین فلانٌ آخیۃ آباءٍ زیدٍ یعنی فلان شخص آباء زید کا لقبیہ ہی کہ اُسکے آبا مین سے سوائے زید کے اور کوئی زندہ نہین رہا ہے -

اَخِیخۃ (فکسف) ایک آٹا ہی کہ دودہ یا روغن یا تیل ملاکر کھاتے ہین -

اخید (فکس) قیدی - گرفتار - بڈہا مسافر - اخیذۃ (فکسف) مونث -

آخیر (فکس) یعنی پچھلا -

اخیر (فسف) بہتر -

اخیص (فسف) مرد جسکی ایک آنکھ چھوٹی ہو اور دوسری بڑی -

و کبش اخیص لوک بکرا جسکا ایک سینگ چڑہا ہو -

اُخیضر (ضفسنک) ایک مکھی ہے آنکھ کی ایک بیماری ہی -

اخیف (فسف) اونٹ جسکے قضیب کا غلاف کشادہ ہو -

اخیل (فسف) ایک جانور ہی جس سے فال بد لیتے ہین اور وہ صرد ہی یا شقراق - خیل (کس) جمع غرور اور بزرگ منشی مرد جسمین خال بہت ہون

اُد (فت) اِد (کت) اِدّۃ (کتف) تعجب اور اچنبھا - بلا عظیم سخت

خیب

خ ی ر

خ ی خ

خ ی ذ

خ ی ر

خ ی ص

خ ی ض

خ ی ف

خ ی ل

اداد

۱۲

خیال اُسکو کہتے ہین کہ اگر خیال ہو یا جو دادی یا کمی

ا خنث
۲ خنز
۳ خنس
۴ خنع
۵ خنق
۶ خنزر
۷ خنس
۸ اخن
۹ خنض

زمانہ کا الٹنا ہونا جیسے اَخنیٰ عَلَیہِ الدَّھرُ
اَخنَاب (کسفس) لنگڑا ہونا۔ ہلاک ہو جانا۔ قطع کرنا۔ کاٹنا۔ سست کر دینا۔ ہلاک کر دینا۔
اَخنَاثُ الثَّوبِ کپڑے کی شکنیں یعنے تہاوٹ کی شکن۔ اَخنَاثُ الاَدَاوَۃِ ڈول میں سے پانی نکلنے کے رستے
اَخنَاس (کسفس) پیچھے کر دینا۔
اَخنَاع (کسفس) عاجز کرنا۔ سرنگوں کرنا۔ جیسے اَخنَعَہُ الحَاجَۃُ۔
اَخنَان (کسفس) دیوانہ کر دینا۔
اَخنَثُ مِن دَلَالٍ ایک مثل ہے
اَخنَش (فسف) چپٹی ناک والا یعنے چپٹا۔ چیچڑی۔ شیر۔
اَخنِیَۃ (مکت) کپڑا جسمیں خطوط ہوں۔ خراب۔ ناکارہ کتان۔
اَخنِیَۃ (مکتف) کمانیں۔
اَخنِیص (کسکس) کسی چیز سے رک جانے والا اور صواب جنیص (کسکس) ہے جیم معجمہ سے۔
اَخوَاء (کسفسم) بھوکا ہونا۔ شکم کا نہایت موٹا ہو جانا جیسے اَخوَیٰ
اَلزّند چقماق کا آگ نہ دینا جیسے

اَخوَی النَّجمُ بے باران ہونا جیسے
اَخوَتِ النُّجُومُ جو کچھ کسی کے پاس ہو سب کا سب لے لینا اَخوَیٰ مَا عِندَ فُلَانٍ
۱۲ اَخوَاص (کسفس) نکال لانا مادرخت کا
۱۳ اِخوَۃ اَخیَاف وے بھائی کہ جنکی ماں تو ایک ہو اور باپ مختلف۔
۱۴ اَخوَۃ (صفصف) بھائی ہونا اَخَوتُ اور اَخَیتُ دونوں صیغہ ماضی متکلم کے آتے ہیں یعنی برادر ہوا میں۔
۱۵ اَخوَث (فسف) ڈھیلے پیٹ والا۔
اَخوَذَۃ (صفصف) (ک) دودھ کا ترش ہو جانا جیسے اَخذَ اللَّبَنُ اُخُوذَۃً
۱۷ اَخوَص (فسف) جسکی آنکھ اندر کو گڑھے میں گھس گئی ہو۔
۱۸ اَخوَق (فسف) کا نٹرا۔ خارشی اونٹ۔ فراخ۔ کشادہ۔
۱۹ اَخوَل اَخوَل (فسف وفسف) پراگندہ و پریشان کہتے ہیں ذَھَبُوا اَخوَلَ اَخوَلَ یعنی تتر بتر ہو کر چلے گئے
اَخوَی (ففکت) اخ اور اُخت کیطرف منسوب ہے اور کبھی اُخت میں اُختی (صفسکت) بھی کہتے ہیں۔
۲۱ اَخیَاف (فسفس) مختلف۔

[illegible]

اُدَاتہ (کفسف) کمینہ اور ضعیف کردینا۔ کمینہ اور خسیس ہوجانا۔ یقین مجہول
اُدَاتہ قرض دینا و لینا ایک چیز کو مدت پر خریدنی
اُداوۃ (کفسف) آفتابہ۔ چھاگل۔
اداوی (ففف) جمع۔
اَدَب (ضن) اچھا اور تعجب آنا۔ بمعنی عجب
اَدب (فنس) (ضن) کسی کو مہمانی میں بلانا۔ آدب (مک) مہمانی میں بلانے والا صیغہ لغت ہی اور بیہ مفعول جمع
اَدب (ففف) ہوشیاری۔ حد ہر چیز کی نگاہ رکھنی۔ آداب (فضس) جمع۔
علم ادب وہ علم ہی کہ جسکے سبب آدمی اپنے تئیں خلل سے جو کلام میں واقع ہو جاوے بچاتا ہی اور یہ بارہ قسم ہی آٹھ تو اصول ہیں اس تفصیل کی علم لغت علم صرف علم اشتقاق علم نحو علم معانی علم بیان علم عروض علم قافیہ اور چار فروع ہیں علم رسم الخط علم قرض الشعر یہ وہ علم ہی کہ جسکے سبب اشعار کے درمیان بیان کیا جاتا ہی کہ آیا عیوب سے سالم ہیں یا غیر سالم۔ علم انشاء نثر کہ جو نثر خطوں اور رسالوں میں ہی علم محاضرات یعنی علم تواریخ اور بعض لغوی اَدَب کو اُدْب سے مشتق کہتے ہیں کہ جو بمعنی ضیافت میں بلانے کے ہی اسلئے کہ یہہ علم بھی آدمی کو محامد کیطرف بلاتا ہی۔
اَدَب البحر آب دریا کی کثرت۔
اَدب (ففف) مہمانی کا طعام یا بیاہ کا طعام طیار کرنا۔
اَدب (فقف) (ک) اداتہ (فعسف) زیرک اور ہر چیز کی حد کا نگاہ رکھنے والا ہونا۔ ادیب (فکس) زیرک اور ہر چیز کی حد کا نگاہ رکھنے والا صیغہ لغت ہی۔ ادباء (ضفففسم) جمع۔
اَدَب (ففقت) بہت بالوں والا مرد جسکے بدن پر سب سے پہلے کے اور چھوٹے بال نکلے ہوں۔ بہت بالوں والا اونٹ۔
اِدْبَار (کسفسم) عرفج کے پتے اسقدر نکل آنے کہ پڑیوں کی مانند ہو گئے جیسے اَدْبی العرفج
اِدْبَاب (کسفس) بچہ کو آہستہ آہستہ چلانا۔ بسبب عدل کے لوگوں کی آہستہ روی اختیار کرنی۔
اِدْبار (کسفس) پیٹھ پھیرنی۔

101


ج

| مادہ | | |
|---|---|---|
| اید<br>ادد<br>ادی<br>ودد<br>دور<br>ادق<br>دوق<br>دول<br>ادم<br>۱۰۰ ا<br>ورب<br>معہ | اور بڑی بات آمادہ (س) اور کوف جیم<br>آدر (فت) ادرکت ) غلبہ وقوت ۔<br>اِدَّا البعیر جِراً دًا (ن) آواز پھرائی اونٹ نے پیٹ میں ۔<br>آدَّت النَّاقَۃُ (ن) چلائی اونٹنی بچہ کی جدائی سے ۔<br>اَدَا الشئ (ن) ایک شی کو لنبا کھینچا<br>آدَّ فی الارض (ن) سیر کی بیچ زمین کے ۔<br>آد طاقت ۔ قوت ۔<br>اِد (مت) غلبہ وقوت ۔<br>آداہ (فضم) تادیہ کا اسم مصدر ہے اور آدی (مف) تاودیہ (فسکف) سے اسم تفضیل ہے بحذف زوائد خلاف قیاس<br>اداوہ (کفسم) مشک کا سر بند ۔<br>اداوۃ (کفسف) بمعنی اِدَاوہ ۔<br>آدآب (کسمس) کام کرنے سے تھک جانا اور اسمین رنج ومشقت پانی ۔ رنج مین ڈالنا ۔ تھکا دینا ۔<br>اوآبیز (ضفسک) مرد کہ قرابت کو قطع کرے اور بات کو نہ سمجھے<br>اداوۃ (کفسف) کیڑوں کا سر ہو جانا ۔ کھانا نکالنا<br>ادارۃ (کسف ) پھرنا گھومنا ۔ | پھرانا گھومانا ۔ لازم و متعدی دونوں آتا ہے<br>بیماری مغار مین مبتلا ہونا ۔ کلام مین تامل کرنا کیونکہ اسکو سرانجام دینے ۔<br>آداف (ضفس) ذکر ۔ کان ۔ ہمزہ اسکا واو سے بدل گیا ۔<br>اداقۃ (کفسف) گھیر لینا ۔<br>اداکۃ (کفسف) دولت دینی لوٹ دینی ۔ غالب کر دینا ۔<br>آدام (کفسف) ترکاری سالن جس سے روٹی کھائیں مگر گوشت کے اِدام مین داخل ہونے مین اختلاف فقہاء ہے ۔ آدمۃ (مکف) آدام (ضس) جمع ۔ قوم کا پیشوا اور انکا ذی وجاہت ہر موافق و سازگار ۔<br>اِدَّام (کتس) ادیم بیچنے والا ۔<br>اداومۃ (کفسف) ہمیشہ رکھنا ۔ ڈھیل لگانی ۔ ٹھہرنا ۔ پیرو متصل پیسنا ۔ ہانڈی پکے اور اُبال کو سرد پانی سے دبا دینا ۔ تجسس کرنا ۔ کسی چیز کو چھیلنا ۔ تیر کو انگوٹھے پر پھرانا ۔ سیدھا ہے چ ملکنے کو ۔ ہموار کرنا ۔ ہانڈی کو بعد پک جانے کے چولھے پر باقی رکھنا ۔ دوران سر مین مبتلا ہونا ۔ |

اُدَر (فقت) جسکا خایہ لینا ہو۔
اُدرا ع ر (فسفسم) جز الخصیہ بغیر بیماری
فتق کے خصیتہ اُدرا ر بڑے مین۔
آدراء (کتکفسم) شکار کے لئے ٹٹی
بنانی۔ بالون مین کنگھی کرنی۔ فریب دینا۔
ادراء (کسفسم) خبردار کرنا شکار
کو فریب دینا۔ سیدری سے سر کہجانا۔
اِدّراب (کتکفس) بلا درروم سے
دشمنون کی زمین مین آنا۔
اُدراج (کسفس) اونٹنی کا ایک برس
سے آگے گذر جانا اور بچہ نہ دینا۔ خط کو
لپیٹنا تہ کرنا۔ کوئین مین آہستہ پانی
بھرنا۔ سر پستان اونٹنی کو باندھ دینا۔
اُدرار (کسفس) اونٹنی کا بہت
دودھ دینا۔ بہت تیز پیرانا عورت کا
تکلہ کو۔ اونٹنی کا بہت دودھ دار ہونا۔
حرکت دینی۔ دوہنا۔ تیر کو ناخن پر پیرانا
اُدّراس (کسفس) سبق پڑہنا۔
ادراس (کتکفس) بمعنی اِدِّراس۔
اُدراع (کسفس) پانی کے گرد اگرد
گھاس ہونا۔ آدہے مہینے سے
بڑہ جانا۔ ایک چیز کو ایک چیز مین داخل کرنا۔
ادراع (کتکفس) زرہ پہننی۔

یا دَرَعَہ یا دُرعَہ۔ عورت کا زرہ پہننا۔
پھیرتے پھیرتے تاریکی شب مین داخل ہونا۔
اُدراک (کسفس) جا پہنچنا۔ بالغ
ہو جانا لڑکے کا خرما کا پک جانا۔ ایک
چیز کا وقت آپہنچنا اور اسکا تمام ہونا۔
آنکھون سے دیکھنا۔
اُدرام (کسفس) دودھ کے دانت
ہلنے تا کہ انکی جگہہ اور نکلین۔ خدعہ یا نئی
ہونے لگنا اونٹ کے بچے کا اور یہہ
پانچوین یا چھٹے سال مین ہوتا ہی نکالنا۔
اُدران (کسفس) میلا کچیلا ہونا
کپڑے کا۔ میلا کچیلا کر دینا۔ اونٹو نکا
سوکھے ناکارہ چارہ کو چرنا۔
اُدرَۃ (صنمعت) اُدرۃ (ففف) ایک
بیماری ہی کہ ایک پتلے پوست کے
پھٹ جانیکے سبب کہ اُسی پوست کے
نیچے ہوتا ہی کہ جسپر ہوتے زبار ہوتے
ہین آنتڑیان خصیے کیطرف گر پڑتی
ہین اور فارسی مین اس بیماری کو دبہ
کہتے ہین اور یہہ بیماری سوائے جانب
چپ کے دوسری طرف نہین ہوتی یا
یہہ بیماری فتق ہی کہ دو خایون
مین سے ایک مین ہو جاتی ہی۔

مادہ:
ادرء
ادرو
ادری
ادرب
ادرج
ادرر
ادرس
ادرع
ادرک
۱۰۳
ادرم
ادرن
ادر
۱۲

پیچھے ہٹانا۔ مرجانا۔ پیٹھ کا گلجانا۔ پیٹھ سے لگے ہوئے جانور نکالنا کٹ ہونا۔ دبور ہوا میں آنا۔ مدہ سے کہوں سفر کو جانا۔ پیٹھ کا زخمی کر دینا۔

اَدْبَارُ الشَّہر آخر ماہ۔

اُدْبَاس (سفس) زمین کا دیمک کا۔

اُدْبَاق (سفس) چمٹا دینا۔

اُدْبَتہ (مسف) اچنبھا اور تعجب۔ مہمانی کا طعام یا بیاہ کا طعام۔

اُدْبَاس (سکفس) سرخ سیاہ ہو جانا۔

اُدْت (نف) (رس) ٹپکنا۔

اُدْوَۃ (کتف) بمعنی اد (کت) آفت لینا۔

اُدْثَار (کتفس) بہت سے مال کو چھانٹ لینا۔

اُدْثر (سنف) ہلاک۔ متغافل۔

اُدْجَاء (سفسم) ۹ اندھا تاریک ہونا۔

اُدْجَان (سفس) ۱۰ بہت مینھ برسنے میں آنا۔ مینھ کا برابر برسنا۔ تپ کا برابر رہنا۔ تاریک ہونا۔ آسمان کا سانجھا کا ہونا۔ دن کا مکان میں مقیم ہونا۔

اُدْجِیجَاء (سکسفسم) ۱۱ اندھا تاریک ہونا۔

اُدْجِیجَان (سکسفس) ۱۲ تاریک ہونا دن کا۔

اُدْحَاس (سفس) ۱۳ خوشہ کا دانوں سے بھر جانا۔

اُدْحَاض (سفس) ۱۴ حجت باطل کرنی۔ پانوں ڈگا دینا۔

اُدْحَاق (سفس) ہانکنا دفع کرنا۔

اُدْحَال (سفس) ۱۵ سرنگ میں داخل ہونا اور پوشیدہ ہونا۔

اُدْحُوا ء (سفسم) ۱۶ پھیلا ہوا ہو جانا۔

اُدْحِی (ضسکت) ریگستان میں شترمرغ کے انڈے دینے کی جگہ اور بچہ نکالنے کی جگہ۔ چاند کی ایک منزل کا۔

اُدْحِیَۃ (ضسکتق) اُدْحُوۃ (ضسفتق) بمعنی اُدْحِی (ضسکت)

اُدْحَام (سفس) ۱۷ چھوٹا اور ذلیل و خوار کر دینا۔ حقیر کر دینا۔

اُدْخَال (کتفس) ۱۹ داخل ہونا۔

اُدْخَال (سفس) اندر لے آنا۔ داخل کر دینا۔

اُدْخَان (کتفس) ۲۰ آگ میں سے دھواں نکلنا۔

اُدْخَان (سفس) کھیتی کا دانہ سخت ہونا۔ آگ میں سے دھواں نکلنا۔

اُدْر (فف) (رس) ۲۱ مرد کا بیماری فتق میں مبتلا ہونا۔ آدر (مف) صیغہ صفت ہے اور اُدْر (ضس) جمع۔

ماده: ادب۔ دبی۔ دبق۔ ادب۔ دبس۔ ادت۔ ادو۔ دثر۔ دجو۔ دجن۔ ادجب۔ دجن۔ دجب۔ دحض۔ دحض۔ دحق۔ دحل۔ دحو۔ دحی۔ دحر۔ دخل۔ دخن۔ ادر۔

ماده

غمش
غمص
غمل
غمم
دغم
دفأ
دفو
دفی
دفق
۱۰۵
دفن
دفر
دفس
۱۲

اُدغماش (کسفعس) بادام ہیر میں آنا

اُدغاص (کسفعس) کسی کو غصہ میں بھر دینا۔ کشش کرنی۔

اُدغمال (کسفعس) خیانت کرنی اور اچانک ارڈالنا اور عیب بیان کرنے کے بعد مصن میں کرنی جیسے اُدغل بہٖ ایک امر میں ایسی چیز داخل کرنی کہ وہ اسے خراب کرے جیسے ادغل فی الامر

وغیرہ اِدغال گھس کے درختوں میں جا کر چھپ جانا۔ ایک کام میں خرابی ڈالنی

اُدغام (کسفعس) گرمی سردی ہو جانی جیسے اُدغم الحر والبرد کالا منھ کر دینا

جیسے ادغم اللہ گھوڑے کے منھ میں لگام دینا جیسے ادغم الفرس

الادغام ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا۔ لقمہ کو نہ چبائے نگل جانا اس خوف سے کہ اور زیادہ کھا لیویں

ادغام (کسفعس) ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا۔

ادغم (فسعت) خاکستر رنگ کا گھوڑا کالی ناک کا گنگنا۔ سیاہ چہرہ۔ سفید چہرہ نجات اضداد سے ہے وغم ہمس ادغم جمع

ادغام (کسکعس) خاکستری ہی سیاہی مائل رنگ کا ہونا۔

اُدفاء (سفعسم) خیمہ نشین۔

ادفاء (کسکعسم) گرم کپڑا پہننا جیسے اُدفأ بہٖ۔

ادفاء (کسفعسم) گرم کپڑا پہنانا کسی قسم وصوف بہت دینا گرم کر دینا جمع ہو آنا۔ اکٹھا ہونا۔

اُدفاء (کسفعسم) ہرن کے سینگ لمبے ہونے یہاں تک کہ سرین کے نزدیک ہو جاویں جیسے اُدفی الظبی اِدفاء زخمی کو مار ڈالنا

جیسے ادفیت الجریح کپڑا پہنانا۔

اُدفاف (کسفعس) پرند جانور کا زمین کے قریب اوڑانا یا زمین پر بیٹھ کر اپنے دونوں بازوں کو ہلانا۔

اُدفت علیہ الامور اس پر پے در پے آئے کام۔

اُدفاق (کسعس) بکھیر دینا۔ پریشان کرنا

اُدفان (کسکعس) پوشیدہ کرنا۔

اَدفن العبد بھاگ گیا غلام یا بھاگ گیا پہلے پہنچنے اس شہر کے کہ جہاں بھیجا جاوے۔

اُدفر (فسعت) گندہ۔

اَدفاس (کسکفس) بدون بیماری

مادہ

ادرۃ (ضسفت) پوپلا۔

۲ ادرع (ضسفت) سپید گھوڑا کالے سر کا۔

۳ ادرعباب (کسکسفس) اپنے طور پر اونٹوں کا چلنا یا تیز چلنا۔

ادرعشاش (کسکسفس) بیماری سے اچھا ہونا اور شفا پانی۔

ادرعفاف (کسکسفس) جھپٹ سے نکلکر لڑائی میں آگے آنا۔ اپنے طور پر اونٹوں کا چلنا یا تیز چلنا۔

۶ ادرم (ضسفت) برابر و ہموار۔ پوپلا۔

ادرماج (کسکسفس) اجازت لے کے گھس آنا۔ ایک چیز میں پوشیدہ گھس آنا اور مضبوط ہونا۔

ادرنفاق (کسکسفس) آگے آنا رفتار میں تیزی کرنی۔ خوب چلنا۔

ادرنقاع (کسکسفس) تیزی اور جلدی سے بھاگ جانا اور سختی سے۔

۱۰ ادرون (کسفس) اجابے کی جگہ آخیہ اور رسی ایک لکڑی ہے یا رسی ہے جسکے دونوں سر زمین میں گاڑے جاتے ہیں اور اسمیں ایک حلقہ بنا تا ہے کہ اسمیں چوپایہ باندھے جاتے ہیں۔

۱۱ ادرہمام (کسکسفس) کم سوجھ ہوجانا۔ بڑی عمر کا ہونا۔ بڑھاپے سے گر پڑنا۔

۱۲ ادساف (کسفس) کٹنا پن کرنا۔

۱۳ ادساق (کسفس) پھیر دینا۔ تیز کرنا۔

۱۴ ادسام (کسفس) شیشہ پر سر بند باندھنا۔

۱۵ ادسق (ضسفت) کشادہ دہن۔

۱۶ ادعاء (کسکفسم) دعوی کرنا کسی کو ایسا کر دینا کہ غیر باپ کی طرف منسوب کیا جاوے۔ اپنا نام و نسب لڑائی میں حریف کے آگے بیان کرنا۔

۱۷ ادعاث (کسفس) باقی چھوڑ دینا۔ اختیار کرنا۔ چوری کرنی۔ سیر اور سفر وغیرہ چلا جانا۔ سیاحی کرنی۔

۱۸ ادعاص (کسفس) مار ڈالنا۔

۱۹ ادعاق (کسفس) گھوڑے کو ایڑ لگانی۔

۲۰ ادعام (کسکفس) ستون پر سہارا کرنا۔

۲۱ ادعب (ضسفت) احمق۔

۲۲ ادعج (ضسفت) سیاہ و سیاہ آنکھ کا مرد۔

۲۳ زند ادعر چقماق کہ آگ نہ دے۔

۲۴ ادعم (ضسفت) گھوڑا جسکے سینے یا سر سینے میں سپیدی ہو۔

۲۵ ادعکار (کسکسفس) اچانک آگے آ جانا۔

۲۶ ادعوۃ (ضسفضتت) چیستان۔

ادعیۃ (ضسکتفت) چیستان۔

نیچی پشم والا جانور۔
آدلصی (فسکت) نیچی پشم والا۔
آدلعی (کسکت) لینا اور موٹا ذکر
آدلم (مسف) کالا۔ دلم (مس) جمع سیاہ پوست۔
ادلمساس (کسکسفس) نہایت تاریک ہونا رات کا۔
آدلنظاء (کسکفسم) تیز چلنا موٹا ہونا
آدلہام (کسکفس) نہایت گہرا سیاہ ہونا بڑی عمر کا ہونا۔
آدلہنان (کسکفس) ٹھیلا اور بڑی عمر کا ہونا
ادلیشاس (کسکسفس) زمین کی تھوڑی سی گھاس پر لوٹنے کا پہنچنا۔
آدلیلاء (کسکسفس) شتابی اور تیزی کرنی۔ جلدی کرنی۔
آدلیمام (کسکسفس) سخت سیاہ ہونا۔ رات کا اندھیری ہونا۔
ادم (فس) قوم کا پیشوا اور انکا ذی وجاہت کہ جسکے سبب سے پہچانے جاویں۔ لوگون کا پیشوا اور ذی وجاہت ہونا۔
ادم (فس) (من) لوگون کے درمیان ایک صلح اور الفت کرا دینی

روٹی کو سالن کے ساتھ ملانا۔ ادیم (فکس) صیغہ لغت ہے۔
ادم (مس) جو چیز کہ طعام کی صلاح اور درستی کرے جیسے سرکہ اور نمک وغیرہ اور فارسی مین نانخورش اردو مین ترکاری کہتے ہین آدام (عس) جمع
ادم (فف) قبر۔ ایک خرما ہے کہ جسے بڑی بھی کہتے ہین۔
آدم (مف) آدمیون کا باپ اور وہ حضرت ابو البشر علیہ السلام ہین اور اس لفظ آدم بمعنی گندم گون آیا ادم وفتسک جمع
آدماء (کسفسم) خون آلودہ کرنا
آدماج (کسفس) کسی چیز کو کپڑے مین لپیٹ لینا۔
ادماج (کسکفس) بمعنی اندماج (کسکفس) ایک چیز کو گھسنا اور قائم کرنا اور رسد ہونا۔ جانا
آدماع (کسفس) برتن وغیرہ بھرنا۔
آدماغ (کسفس) ایک چیز کو ایک چیز مین ملانا۔ خلط ملط کرنا۔
ادمالخم (کسفس) بڑی بات منہ سے نکالنی۔ بدصورت بچہ جننا۔ برا کام کرنا۔
آدمان (فسفس) ایک درخت ہے کہ گرمی مین اگتا ہے۔ ایک آفت ہے جو

١٠٧
ادم
دیو
دمج
دمع
دمق
دوم
دمن

ـسے کالا چہرہ ہو جانا۔
أُدْفُن (رفنس) ایک سعرو جو بوڑھا ہو اور غم سے کبڑا ہو گیا ہو۔ اونٹ جسکے دانت باہر نکل پڑے ہوں۔ اونٹ جسکی کہنی اسکے دونوں پہلو سے الگ ہو۔ ہلالی برابر سپید جو کسی شیء کو ہو
رجل اُدْفِی کبڑا جسکے بازو کا پر نہو
أَدْفَاق (رسفس) آمادہ کر دینا۔ بکری کی بخشنی۔ کسیکو نرم کرتا آمادہ کر دینا۔
أَدْقَال (رسفس) خراب پھل لانا و درخت کا دبلا اور چھوٹا ہو جانا۔
أُدْقُع (رنسف) خاک سخت۔
أَدْقَم (رنسف) جسکے تین دانت ٹوٹے ہوگئے ہوں۔
أَدْك (رفقت) چھوٹی پیٹھ کا گھوڑا
دُك (رضت) جمع ہے کوہان کا اونٹ یا جسکا کوہان بلند نہو۔
أَدْكَاس (رسفس) زمین کا گھاس اوگانا
أُدْكُل (رنسف) کالا پتھر۔
أَدْكَن (رنسف) کپڑا مائل بسیاہی
أَدِل (رسن) زخم کا پوست خشک ہو کر گر جانا۔ سعدوہ کو دہی بنانے کو ہلانا۔
أَدْل (رفسنک) جمع دلو رسن آگی۔ ۱۰۶

أَدْل (رکس) درد جو گردن میں ہو جائے جو چیز کہ اسکے گراں بار چلیں۔
أَدْلَاء (رکسفسم) جانور کا ذکر نکالنا واسطے پیشاب یا جفتی کرنے۔ برا کہنا۔ وسیلہ امداد قرابت ڈھونڈھنی۔ دلیل لانا۔ کوئیں میں ڈول لٹکانا۔
أَدْلَاث (رکسفس) پوشیدہ کرنا۔
أَدْلَاج (رکسفس) اول شب میں چلنا۔
أَدِّلَاج (رکتکفس) آخر شب میں چلنا۔
أَدْلَاس (رکسفس) اچھی ہوئی روئیدگی سے زمین کا سبز ہونا۔ قوم کا بچی ہوئی روئیدگی میں جا پڑنا۔
أَدْلَاع (رکسفس) زبان باہر نکالنی
اِدِّلَاع (رکتکفس) زبان باہر نکل آنی
أَدْلَاف (رکسفس) کسی کو سخت بات کہنی
أَدْلَاق (رکسفس) حلق کو نکال لینا۔ جاڑے کے مارے دانت بجانے
أَدْلَال (رکسفس) گستاخی کرنی اور جرأت کرنی۔ حد سے گذر جانا۔ باز کا شکار کو اوپر سے داب لینا۔ شکار کرنا اور رستے ڈھونڈھنا۔ کسی پر اعتماد کرنا۔
أَدْلِمَة (رکسفس) خوب جما ہوا دہی گھٹا
أَدْلَص (رنسف) بہت پھسلنے والا

مادہ

قریب پہنچ جانا اور نزدیک ہونا۔ کام کو
نزدیک کر دینا۔ انجام کو پہنچانا۔
اُدْنانْ (کسفس) اقامت کرنی۔
اُدْلِغْفانْ (کسکسفس) چوری کے
لیئے چوری چوری آنا۔
اَدْنیٰ (فسف) نزدیک تر۔ کمینہ
کمتر۔ بہت نیچا۔ سفلہ۔
اَدْوَرَ (ن) فریب دینا۔
مثل ہے الذئب یادو الغزال یعنی بھیڑیا
ہرن کو فریب دیتا ہے کہ کھا جاوے۔
اَدْوَرَ (ن) میوے کا
پختہ اور پکا ہونا۔
اَدْوَاءٌ (کسکفسم) ملائی اقتاد فی ملائی کھانی
اَدْوَاءٌ (کسفسم) بیمار ہو جانا۔ بیمار
کر دینا۔ تہمت لگانی۔
اُدْوَاءٌ (کسفسم) بیمار کر دینا۔
دودھ پر کی ملائی کھا کر بیمار ہونا۔
اُدْوُرٌ (فسفض) بالہمزۃ اَدْوُرٌ
(فسفض) علی الاصل آدُرٌ (فض)
علی القلب اَدْوَارٌ (فسفس)
اَدْوِرَۃٌ (فسکف) جمع دار (س)
کی بمعنے گھر۔
اَدْوَشُ (فسف) جسکی آنکھ خراب ہو

اُدْدَہ (فف) (ن) کا رقوم کا جمع ہونا۔
اِدْہاسٌ (کسفس) نرم جگہ میں آنا۔
اِدْہاشٌ (کسفس) حیرانی میں ڈالدینا۔
اِدْہاصٌ (کسفس) اونٹنی کا پوری
بچہ کو کہ پشم نکال لایا تھا گرا دینا۔
اِدْہاقٌ (کسفس) پیالہ وغیرہ کو
بھرنا۔ زور سے بہانا پانی کا۔
لغات اضداد سے ہے۔ برانگیختہ کرنا
بھگانا۔ جلدی کرانی۔
اِدْہاقٌ (کسکفس) پتھروں کا
ایک دوسرے میں داخل ہونا اور پیوست ہو جانا
اِدْہامٌ (کسفس) غمگین کرنا۔
اِدْہانٌ (کسکفس) چکنا ہونا۔ تیل ملنا
اِدْہانٌ (کسفس) خلاف باطن
ظاہر کرنا۔ کلام وغیرہ میں صنعت کرنی
خیانت کرنی۔ صاف کرنا۔
اِدْہَجْ اِدْہَجْ (فسف فسف) ایک
کلمہ ہے جس سے بکری کو دوہنے
کے لیئے بلاتے ہیں۔
رنگ اَدْہَشُ سرخ رنگ کا سیاہی
مائل۔ اِدْہِسْ (فض) جمع۔
اَدْہَمُ (فسف) سیاہ۔ نئے آثار
پرانے اور بوسیدہ آثار۔ لغات اضداد

۱۰۹

۱۲

ماده | علامات اعراب ضمہ کسرہ فتحہ ... | فتحہ کی کسرہ بس سکون ت تشدید م

ادن
ادم
ادمص
ادہ
ادمس
ادم
ادن
ادنی
۱۴۰
ادنف

کو حذف کر گئی ہے۔

اُدُمان (ضفس) ہو سیگی اور سیاہی کی

اِدمان (کسفس) ایک کام کو ہمیشہ کرنا ہمیشہ شراب پینی۔

اُدمہ (ضفسف) قوم کا پیشوا اور انکا ذی وجاہت کہ جسکے سبب پہچانی جاویں

اُدمہ (ضفسف) قوم کا پیشوا اور انکا ذی وجاہت شخص ستر ایتہ سے جانب کھال کے اندر کی جانب یا باہر کی جانب جسپر بال ہوتے ہیں سر کی کھال۔ باطن زمین۔

اُدمۃ (ضفسف) قرابت و وسیلہ آمیزش موافقت۔ گندمی رنگ۔ اونٹ کے رنگوں میں کا ایک رنگ کہ سیاہی مائل یا سپیدی مائل ہوتا ہی یا وہ سپیدی خالص ہی یا ہرنون کے رنگوں میں کا ایک رنگ ہی سپیدی مائل۔ اور بنا بر میں سچ ہکر اُدمۃ اونٹوں کے بالوں کی سپیدی اور انکی آنکھ کی سیاہی کو کہتے ہیں لہذا آدم وہ اونٹ کہ جسکے بال سپید اور آنکھ سیاہ ہو اور آدماء وہ اونٹنی کہ جسکے بال سپید اور آنکھ سیاہ ہو۔

اُدْم (ضف) ہمسنگ اُدمۃ ہونا آدم

(ضف) لغت ہے ادم (ضفس) الوبان (ضسفس) جمع۔ ادام (ضفسم) لغت ہے اور ادامتہ (ضسفسف) کم آتی ہے۔

اُدُم (ضفس) جمع۔

اُدمطی (ضسفف) جسکی ہونٹ کی بچھا می بارکیا ہو۔

ادہوت (ضسفس) آتشدان یعنی پانی ... کی جگہہ۔

ادموس (ضسفس) نہایت اندھیری رات

ادسیماہ (کسکفس) زیادتی سے قریب ابلنے کے ہوا بیہوش ہو جانا

اُدن (ضفف) کبڑا۔ گھوڑا کہ جسکے چھوٹے ہاتھ ہوں نیچا گھر۔

اُدنا (ضسف) کبڑا۔

اِدناء (کسکفس) نزدیک ہونا۔

اُدناء (کسفس) عیب ... کا

ادناء (کسفس) نزدیک ہونا جیسے لوتی منہ لوتا۔ نزدیک کرنا لازم اور متعدی دونوں آتا ہے اونٹنی کا جننا قریب ہونا جیسے لونت اتناقہ تنکی سے زندگانی کرنی جیسے ...

اُدناف (کسفس) سخت بیمار ہونا سخت بیمار کر دینا بیماری کا۔ آفتاب کا

لوگ اور اسکی طرف چلے گئے
کبھی حال کے لیئے آوے جبکہ بعد
قسم واقع ہووے جیسا اس آیہ مین
وَاللَّیلِ اِذَا یَغشٰی یعنے رات کی قسم
جب کہ ڈہانکلیتی ہے تاریکی عالم کو اور
جیسا اس آیہ مین وَالنَّجمِ اِذَا ھَوٰی یعنے
قسم ہے پروین کی جبکہ غروب کرتا ہے علمائ
کے نزدیک اختلاف ہے اذا شرطیہ کے
عامل مین بعض کہتے ہین کہ عامل اسکا
وہ ہے کہ جو شرط و جزا کا عامل ہے فعل ہو
یا شبہ فعل اور بعض کے نزدیک اسکا
عامل شرط ہوتی ہے ۔
اَذَاب (کسضم) لڑکے کی نفس بیانی
اَذَاتہ (کفسف) گلا دینا ۔ کام کو
خوب کرنا ۔ غارت کرنا لوٹنا ۔
اَذَاۃ (فقس) رنجش ۔
اَذَاختہ (کفسف) گرد پھرنا ۔
اَذَادہ (کفسف) او دشمن کے ہاتھ سے نکلنے
مین اہانت کرنی ۔
آذار (فقس) رومی مہینون مین
چھٹے مہینے کا نام ۔
اَذَار (کسم) غصہ دلانا ۔ ڈرانا حریص
اور دلیر کر دینا ۔ برانگیختہ کرنا کسی کو
کسی کی طرف مضطر کرنا ۔
اِذَارَہ (کفسف) ڈرانا ۔
اُذَاعہ (کفسف) سارا پانی پینا یا کل
متاع کو لیجانا جیسے اذاع بمتاعہ ۔
اِذَاعتہ (کفسف) بھید ظاہر کر دینا
جیسے اذاع بسترہ و اذاع بسرہ لوگون
مین ایک بات کو پکار دینا ۔
اَذَاق (فقس) ذکر ۔
اَذَاقہ (کفسف) سخی ہو جانا چکھانا
کسی چیز کو امتحان کے لیئے دینا ایک
امر کی مکافات کرنی ۔
اِذَالہ (کفسف) ذلیل کرنا ۔ تابعدار کرنا
اِذَام (کسمس) ڈرانا ۔ زبردستی سے
کسی کو ایک کام پر مقرر رکھنا ۔
اَذَان (فقس) آگاہی ۔ نماز کی بانگ
اس معنی مین تاذین کا اسم مصدر ہے
جیسا سلام اور تسلیم ۔ نماز کی تکبیر اقامت
اذان اور اقامت ۔
اذان (فقس) اذن (فکس)
اَذَان کہنی اسم مصدر ہے تاذین سے
آذان الارنب ایک گھاس
ہے اسکا پتا بارتنگ کے مشابہ ہوتا ہے
اور بہت چھوٹا سا ۔

مادہ
سغ ذوب
سغ ذوب
سغ اذی
سغ ذوع
سغ ذوع
سغ ذوق
سغ ذوق
سغ ذول
سغ ذوم
۱۱۳
سلا ذیع
اذق
ذیل
ذأم
اذن
۱۴
نیچے نمبر اردو
مین نمبر قائم
[illegible]

لہ ہلنا اور وفائن کا باہر نکالدینا فلان جہت سے ہے تو چونکہ یہ سب روز قیامت میں ہوگا اسواسطے تو مُنذٍ یہان بمعنی مستقبل ہو۔ وجہ سوم یہہ کہ اِذ معنی تعلیل کا فائدہ دے جیسا اِس آیہ مین لَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذ ظَّلَمْتُمْ یعنی فائدہ نہ دے گا تمکو آج کے دن کہ روز قیامت ہے آرزو اور پشیمانی جب تم نے ظلم کیا اپنے اوپر دنیا مین وجہ چہارم یہہ کہ اِذ بعد بَيْنَا کے واقع ہووے جیسا اِس شعر مین **شعر**

۱۱۳ اِسْتَقْدِرِ اللهَ خَيْراً وَارْضَيَنَّ بِهِ + فَبَيْنَمَا الْعُسْرُ اِذْ دَارَتْ مَيَاسِيرُ + نحما کے درمیان اِس بات مین اختلاف ہے کہ لفظ اِذ جب بَيْنَا اور بَيْنَمَا کے بعد واقع ہووے تو آیا وہ ظرف زمان ہے یا ظرف مکان یا حرف مُفَاجَاۃ یا حرف زائد تاکید کے لیئے لفظ اِذ شرط کے لیئے صرف اُسوقت آتا ہے کہ جب اُسکے آخر حرف مَا ہووے اور اِس صورت مین شرط و جزا کو جزم کریگا جیسا اِذمَا تَفْعَلْ اَفْعَلْ یعنی جب کریگا تو کرونگا مین اِذا الکفش اسم مبنی ہے مُفَاجَاۃ کے

معنی مین آتا ہے اِس صورت مین جملہ اسمیہ کے ساتھہ خاص ہے اور جواب و جزا کا محتاج نہین اور ابتداء کلام مین واقع نہین ہوتا ہے اور زمان حال پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ کہتے ہین خَرَجْتُ فَاِذَا الْاَسَدُ بِالْبَابِ یعنے باہر نکلا مین پس ناگاہ شیر دروازہ پر ہے۔ جبکہ اِذا بمعنی مفاجاۃ ہوتا ہے تو اُس صورت مین علماء کے درمیان اختلاف ہے اخفش کے نزدیک ظرف زمان۔ کبھی بمعنی غیر مفاجاۃ بھی آتا ہے اور اِس صورتمین اکثر ظرف اور معنی شرط کو متضمن ہوتا ہے اور خاص جملہ فعلیہ پر داخل ہووے اور زمان مستقبل پر دلالت کرے جیسا اِس آیہ مین اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً یعنے جبکہ آوے اُنکی اجل تو اُسکو تاخیر نکر سکین ایک ساعت کبھی زمان ماضی پر دلالت کرتا ہے جیسا اِس آیہ مین وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَاً انْفَضُّوا اِلَيْهَا یعنے جب دیکھا اُنھون نے کسی قافلے کو یا سنی اُنھون نے کسی طبل کی آواز کہ قافلہ کے پہنچنے کے وقت بجاتے ہین متفرق ہوگئے

اَذَرِی (فسفکت) اذربائجان کی طرف منسوب ہے۔

اَذْرَع (فسف) بد اصل گھوڑا سوہ کہ جسکا باپ غلام اور ماں بی بی آزاد ہو یا وہ جسکا باپ عرب کا اور ماں لونڈی آزاد ہو خوش تقریر۔

اَذْرُع (فسف) جمع ذراع (کفس)

اِذْرِعفَاف (کسفس) بمعنی ادرعفاف (کسکسفس) بالدال المہملہ۔

آذَرْیُون (ضسفضس) آذرگون کا معرب کہ لفظ فارسی ہے اور یہ ایک درخت ہے آفتاب پرست پھول اسکا زرد اور بڑا اور چھوٹا اور گول ہوتا ہے اور اسکے بیچ میں چھوٹے کالے پتے ہوتے ہیں زمانہ قدیم میں اہل فارس اسکی تعظیم کرتے تھے اور اپنے گھر میں پراگندہ کرتے تھے اسمیں کچھ خوشبو نہیں ہوتی میں کہتا ہوں شاید یہہ سورج مکھی ہے واللہ اعلم

اِذْعَار (کسفس) ڈرانا۔

اِذْعَاف (کسفس) جھٹ پٹ مار ڈالنا۔

اِذْعَان (کسفس) عاجزی کرنی۔ ذلیل اور خوار ہو جانا۔ اقرار کرنا فرمانبرداری میں جلدی کرنی۔ گردن جھکا دینی جیسے اَذْعَنَ لَہٗ اِذْعَانًا۔

اِذْفَاف (کسفس) گھائل کو مار ڈالنا۔

اَذْفَر (فسف) گند بغل۔ مشک اذفر۔ تیز بو مشک۔

اَذْقَن (فسف) مرد جسکی زنخ لمبی ہو کج فرج عورت۔ اونٹنی جسکا بوجھ ٹیڑھا ہو گیا ہو۔ ذقن (ضس) جمع۔

اَذْقَی (فسف) گھوڑا جسکے کان لٹکے ہوئے ہوں اور ناک سست ہو۔

اِذِّکَار (کسفس) یاد دلانا۔ بیٹا جننا۔

اِذْکَار (کسکفس) یاد کرنا۔ یاد دلانا۔

اَذْکَر (فسف) بہت تیز رسا مرد۔

اِذْلَاق (کسفس) چھری کو تیز کرنا جیسے اذلق السکین اِذْلَاقًا روزہ کا کسی کو سست کر دینا جیسے اذلق الصوم فلانًا جانور کا بیٹ کرنا جیسے اذلق الطائر سے آرام کرنا جیسے اذلقہ چراغ کو روشن کرنا جیسے اذلق السراج سوسمار کے سوراخ میں پانی ڈالنا تاکہ نکل آوے جیسے اذلق الضب۔

اَذْلَال (کسفس) جمع ذل (کست) کی۔ روش طریقہ۔ عادت۔

مادہ
ذرع
ذعف
ذعن
ذفر
ذقن
ذقی
ذکر
ذلق
ذلل

۱۲

**مادہ**

ادن
ذنب
ذبح
ذبل
ذحج
ذخر
ذرأ
ذرع
ذرق

آذَانُ الشُّوْر گاؤ زبان - آذانُ الجَدْی بارتنگ آذانُ الدُّبّ ایک گھاس ہی - آذانُ الشاۃ ایک گھاس ہی جسکا نام لصیفی - آذانُ العَبْد ایک روئیدگی ہی اسکا پتا بارتنگ کے پتے کے مشابہ ہوتا ہی - آذانُ الغزال بمعنی آذانُ الشاۃ - آذانُ الفار ایک گھاس ہی - آذانُ الفیل بیل گوش کہ ایک گھاس ہی جو مصر مین اوگتی ہی - آذانُ القسیس ہمیشہ بہار -

آذانی (فعفنسکت) مرد جسکے کان بڑے اور چوڑے ہون -

اذنب (فففت) جنگلی گائے لینا مرد بڑی عمر کی اونٹنی -

اذباح (کتکفنس) قربانی بناتی -

اذبال (کسفس) مرجھا دینا - بلا کر لمبھا

اذحج (فسفم) (ن) شراب بہت پینی

اذحاج (کسفس) کسی جگہہ آرام پکڑنا

اذخار (کتکفس) برگزیدہ کرنا - یا ذخیرہ بنانا یا ذخیرہ جمع کرنا -

اذخر (کسک) ایک خوشبودار گھاس ہی جسے فارسی مین کوم کہتے ہین -

اذاخر (ففنسک) جمع -

رجل اذور اذنبہ نامرد -

کبش اذرا وہ کہ جسکے سر مین سپیدی ہو یا جسکے دونون کان خال دار او سارا بدن سیاہ ہو

اذراء (کسفس) غصہ دلانا - ڈرانا - ایک چیز کیطرف حریص کرنا اور اسکی طرف مضطر کرنا جیسے اذراہ بالشئی کسی کی طرف جاری کرنا جیسے اذراہ پستان مین دودہ کو اوتارلانا جیسے اذرأت الناقۃ اور ہر الیجانا - زمین مین بیج ڈالنا - آنکھہ کا آنسو کو بہانا - گرادینا جیسے کہتے ہین طعنہ فاذراہ عن ظہر دابتہ -

اذراع (کتکفس) جبہ کے نیچے سے دونون بانہین نکالنی جیسے اذرع ذراعیہ من تحت الجبۃ -

اذراع (کسفس) گائے کا بچھڑا جننا جیسے اذرعت البقرۃ بہت بیان کرنا جیسے اذرع فی الکلام وبمعنی اذراع

اذراق (کسفس) بیٹ کرنی زمین کا سپست کو اوگانا اور سپست ایک گھاس ہی نرم اور چکنی جسکو چوپائے کھاکر موٹے ہوجاتے ہین -

اذراق (کتکفس) آنکھہ مین سپست کا یا اسکے عرق کا سرمہ لگانا جیسے اذرقتہ

علامات اعراب ضفکستم یعنے ضمہ فتحہ کسرہ سکون ت تشدید مد

مادہ

اذن (فت) (س) سننا۔ اس حال میں کہ تعجب میں لانے والا ہو یا عام ہو اور صلہ اسکا الی اور لام ہے۔
اذن (ض) (ن) کسی کے کان میں مارنا۔ کان کے درد میں گرفتار ہونا۔ یہ مجہول مستعمل ہے۔
اذن العشب گھاس خشک ہو گئی
اذن (کس) اجازت۔ واقفیت اسکی ہے فعلہ یا ذی ہے
اذن (کس) اذن (فت) اذان (فتس) اذانۃ (فتیعت) (س) جاننا۔ اور صلہ اسکا ب ہے۔ آرزومند طعام ہونا جبکہ صلہ ہو الی جیسے اذن الی الحمۃ الطعام
اذن (کس) اذین (فکس) (س) اجازت اور دستوری دینی جیسے اذن له فی الشئی اذنا و اذینا۔
اذن (ضس) کان۔ مونث ہے۔ آذان (مقس) جمع۔ لیست آذنی یعنی منھ پھیر لیا میں نے یا تغافل کیا۔ تلوار اور کمان کا دستہ۔ ہر چیز کا دستہ اور موٹھہ۔ سعر و سخن شنو اس معنی میں واحد و جمع یکساں ہے۔ اذن الحمار ایک گھاس ہے جڑ اسکی شیرین اور ہری کا جڑوں کی مانند ہوتی ہے اور لوگ کھاتے ہیں
اذن (کف) اب تب کلمہ اس کلمہ کے جواب میں آتا ہے کہ اگر یہ کام ایسا ہی ہے کہ جیسا تو کہتا ہے۔ اور اسکے ہمزہ کو کبھی حذف بھی کر دیتے ہیں اور ذن کہتے ہیں اور حالت وقف میں اسکے نون کو الف سے بدل کر اذا کہتے ہیں
اذناب (کسفس) گناہ گنا اذناب الناس کم مرتبہ لوگ نوکر چاکر پیچھے پیچھے چلنے والے۔
اذنۃ (ضفف) وہ شخص کہ جو کچھ سنے یا مانے اسکی تصدیق کرے۔
اذنۃ (ففف) برگ دانہ کہ جسکو حب الحب کہتے ہیں یا ساونٹ اور بکریاں جسکو چھوٹی خشک گھاس۔ اذن (فف) جمع
اذواء (کسفسم) مرجھا دینا۔
اذواث (کسفس) گلانے کے واسطے مسکہ کو دیگچی میں ڈالنا۔
اذواتۃ (کسفسف) بمعنی اذواب (کسفس)
اذوط (فسف) آدمی وغیرہ جسکی ٹھوڑی ناقص ہو۔ یا جسکا اوپر کا جبڑا لمبا اور نیچے کا چھوٹا ہو۔
اذہاب (کسفس) لیجانا۔ دور کرنا

۱۱۷



ج

علامات اعراب شکستہ فتحہ ضمہ فتح کسرہ سکون تشدید

مادہ

ذل، ذلب، ذلع، ذلغ، ذلف، ذلق، ذلل، ذلو، اذو

۱۱۶

اَذَلّ الناس کم رتبے کے لوگ

اذلال (کسفعس) خوار جاننا خوار رکہنا نرم کرلینا سرکش اونٹ کی چیچڑیان توڑنی تاکہ اسکو مزہ ملے اور مانوس اور مالوف ہو جاوے جیسے اذل البعیر الصعب ذلیل اور خوار یا رون والا ہونا کسی کو خوار پانا۔

اِذْلِعّاب (کسکسفعس) خوب جلدی سے چلنا ایک طرح کی اونٹ کی رفتار۔

اِذْلَعَى (فنعلت) لبنا دلدار ذکر۔

اَذْلَغ (فنسف) ذکر۔

اِذْلَغَى (فنسعلت) بمعنی اذلعی فنعلت

اَذْلَف (فنسف) چھوٹی ناک والا باریک ناک والا۔

انف اذلف چھوٹی ناک یا باریک چھوٹی

اَذْلَق (فنسف) تیز زبان سنان تیز

ذلق (فنس) جمع۔

اَذِلَّة (فکتف) جمع ذلیل کی اور جمع ذلول (فعنس) بمعنی رستہ چلی اور کر لال کے

اذلیلاء (کسکسفعسم) سرعت کرنی تاکہ کام ہاتھ سے نجاتا رہے اور یہ ثلاثی ہی کمرر کیا گیا ہی لیکن اسکا لو زیادہ کی گئی واو واسطے مبالغہ کے۔

اذلیلاء (کسکسفعسم) شکستہ خاطر ہونا ذکر کا سست اور نرم کھڑا ہونا چھپ کر چلا جانا خوار اور ناپدار ہو جانا۔

اِذْمار (کسفعس) جسوقت حروف شرط سے ہی وہ فعل بنایا تا ہی اور انکو جزم کرنا ہی اور مفصل ذکر اذ مین ہو چکا ہی۔

اذمائ (کسفسم) ہیبت زدہ ہونا اور پسیکنا چھپانا

اِذْمام (کسفعس) ملامت شدہ پانا۔ جیسے کہتے ہین آتیتہ فاذممتہ یعنی پایا مین نے انکو ذمیم ذلیل اور خوار کرنا اور جملہ اسکا آب ہی ایسا کام کرنا جس سے ملامت کے لائق ہو جاوے کسی کے لیے کسی کو امان لینی جیسے اذم لہ وعلیہ کسی کو پناہ دینی اور چھوڑ دینا اونٹنیون کا تھک کر اونٹون سے پیچھے رہ جانا جیسے اذمت رکابہم۔

اِذْمِقْرار (کسکسفعس) پھٹ جانا جیسے اذمقر اللبن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا دودھ

آذِن (رمک) مدبان ضامن ایک کام کو اپنے اوپر قبول کرنیوالا۔

آذَن (فعف) بڑے کانون والا

کبش آذن بکرا بڑے کانون والا

نعجہ اذناء بکری بڑے کانون والی

مسیکنے مین دونون ہونٹون کو ہلانا۔ بعض فقہا کے قول کا سیر ہونا۔ جو دیا س کی خوبی بہت ہونی۔ اونٹنی کی ناک کیطرف مڑ جانی۔ حمل کا اثر اونٹنی کے تھنون مین ظاہر ہونا اور اسکا بڑا ہو جانا۔ نیزہ کو زمین میں مارنا۔

اَرْاٰب (کسمس) شگاف کو پیوند کرنا جیسے اَرْاَبَ القدح۔

اَرْاٰبَہ (کفسف) دودہ کو دہی بنانا۔

اَرْاٰبَہ (کفسف) شک مین ڈالنا تہمت کرنی کسی سے ناپسندی دیکھنی صاحب شک وتہمت ہوجانا۔

اَرْاٰث (کغس) آگ۔ وہ چیز کہ جسمین آگ سلگائین جیسا سوختہ وغیرہ۔

اَرْاٰج (قفس) بہت جھوٹ کو بکنے والا۔ ورغلانے والا۔

اَرْاٰحِل (فنک) جمع رحل (فعل) کی۔

اَرْاٰجِیح (فنک) صحرا۔ محوڑے مین اونٹون کی حرکت۔

اَرْاٰجِیل (فنک) شکاری لوگ۔

اَرْاٰحَۃ (کفسف) ہوا مین داخل ہونا کسی سے بھلائی اور احسان کو پہنچانا جیسے اَرَاحَ منک خیرا کسی پر اسکا حق رد کرنا جیسے اَرَاحَ علیہ حقہ راحت اور آسایش پہنچانی جیسے اَرَاحَ اللّٰہ العبد اونٹون کو مراح یعنی جائے آرام کیطرف پھیر لانا جیسے اَرَاحَ الابل پانی وغیرہ کا بودار ہوجانا جیسے اَرَاحَ الماء مرجانا۔ ٹھنڈی سانس بھرنا شادمان وصاحب راحت ہونا جیسے اَرَاحَ زید بو دریافت کرنی جیسے اَرَاحَ الشی واراحہ ورواحا شکار کا آدمی کی بو کو معلوم کرلینا جیسے اَرَاحَ الصید

اَرْاٰخ (کسفس) گاو وحشی۔

اَلْاِرَادَہ (کغسف) چاہنا۔

اَرْاٰر (کغس) اَرّ (فت) درخت خاردار کی ایک شاخ کہ جسے زمین مارکر نرم کرتے مین اور اسے تر کرکر اور نمک اسپر چھڑک اونٹنی کے رحم مین داخل کرتے ہین تا کہ مرض نافع حمل دور ہوجاے

اَرَارِ (فتس) ایک کلمہ ہے کہ جس سے بکریون کو بلاتے ہین۔

اَرْاٰرَۃ (کفسف) رقیق کردینا مغز کا۔

اَرْاٰس (فسف) شبہے سرکا۔

اَرْاٰس (فسفس) جمع رأس (فس) کی

اَرْاٰش (فسف) مکار لیش (فنف)

روح
ریح
ریب
روب
روث
ریث
رجح
رحل
رجح
رجل
روح
رخ
روخ
ارود
ارر
ارر
ارس
ارش


۱۲

علامات اعراب مختصر یہ ہیں ض ضمہ ف فتحہ ک کسرہ س سکون ت تشدید م

**مادہ**

اذن
اذی
اذل
اذب
اذی
اذن
اذر
اذی



کسی پر سونے کا ملمع کرنا۔
اذہان (کسضس) پھلا دینا اور ایک چیز کی طرف سے پھیر دینا وصلہ عن۔
اذی (فف) تکلیف۔ پلیدی بستہ کا کوڑا کرکٹ۔ اور سے پتھر سے بچے کے سر کے نجاست اور بال کہ ساتویں روز ولادت کے مونڈے جاتے ہیں۔
اذی (فکت) بہت تکلیف اوٹھانے والا اور بہت ایذا پہنچانے والا۔ لغات اضداد سے ہے۔
آذی (مکت) دریا کی موج یہہ لفظ اصل میں آذوی (ممضس) تھا فاعول کے وزن پر آذی فرہنگ ہے
اذی (فف) اذاء (فضسم) رنجیدہ اور ستاذی ہونا اور صلہ ب
آذیال الناس سب پیچھے چلنے والے آدمی پس ماندے۔
اذییب (فسف) زیادہ پانی۔ ڈر خوشی اور خرمی۔
اذفیہ (فکف) بخشش۔
آذقیہ (فکف) جھلکی اور مٹی یعنی جو کہ ایک جگہ بند ہوتی ہے۔
آذریون (فمکس) آذرگون کا معرب ہے
اور وہ چار لکڑیاں ہیں کہ بادشاہ کے آنے کے وقت یا کسی امر عظیم کے وقوع کے وقت بازاروں اور میدانوں میں انہیں زمین میں گاڑ کر فرش اور پردوں اور موتے کپڑوں سے زینت دیتے ہیں۔
اذین (فکس) کان۔ دانست آگاہی۔ نماز کی بانگ۔ موذن ضامن ایک کام کو لینے اور قبول کرنے والا۔ وہ جگہ کہ جسمیں اذان کی آواز ہر طرف سے سنی جاوے۔
اذینتہ (فضفت) اذن کا مصغر کہ بمعنی کان ہے
آذر (مس) عار وننگ۔
اذر (فت) (ان) شتر مادہ پر عمل ادا کرنا جو ہاری کے غلبہ کے وقت اشتہار کے ساتھ آواز کرنا۔ ہانکنا۔ جمع کرنا۔ جماع کرنا۔ تیلی پلیدی یعنی تیلا پاخانہ پھرنا تیلے پاخانہ کا گرنا۔ آگ بھڑکانی۔
اذر آمور (کسسم) صاحب رائے اور صاحب دریافت ہوجانا۔ حماقت اور بیوقوفی ظاہر ہوئی۔ لغات اضداد سے ہے۔
آئینہ کو دیکھ کر جن کا آسیب ہوجانا۔
ایسا کام کرنا کہ اسکو نیک جانیں۔
بھیپھڑے کے مرض میں مبتلا ہوجانا

مادہ

دودھ کو پنیر بنا دیتا ہے۔

اَرَانِبَۃ (فتفسکف) ہرکرملہ درخت اور کھاری تزہ کا جسکی ساق لبنی ہو۔

اَرَاہِط (فتفسک) جمع الجمع رہط (فتس وفتف) کی بمعنی گروہ جو دس سے کم ہو یا تین سے دس تک۔ یا سات سے دس تک۔

اَرْتَب (فتس) پہلی اونگلی اور بیچ کی اونگلی کا درمیان۔

اَرْب (فتس) (ض) گرہ کو مضبوط کرنا۔ اِرْب پر مارنا۔

اَرُب (کف) اَرَابَۃ (فتفسف) عاقل ہونا۔ ہوشیار ہونا۔

اَرِب (فک) (ک) خوگر اور دانا۔

اِرْب (کس) عقلمندی اور ہوشیاری۔ مکر۔ قباحت فدشتی۔ شر اور بدی۔ عقل۔ دین سفرج۔ حاجت عضو۔

آرَاب (معنس) اَرَابُ (ضمس جمع)۔

بولتے السجود علی سبعۃ آراب والارآب یعنے سجدہ سات عضو پر ہوتا ہے پیشانی دو ہاتھ اور دو قدم اور دونوں زانو۔

اُرْب (ضس) بکریوں اور گایوں کے بچے جبکہ ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں۔ عقلمندی و ہوشیاری۔

اَرَب (فف) حاجت عقل۔

اَرِبَ (فف) (س) حریص ہونا۔ معدہ کا فاسد ہو جانا۔ زمانہ کا سخت ہونا۔ خوگر اور بینا ہونا ایک چیز کے ساتھ۔ آیا ہیچ ہو جانا اعضا کا ساقط ہو جانا۔ اِرْب کا کٹا ہوا ہونا۔ اور بولتے ہیں اَرِبَتْ یَدُہٗ یعنے کاٹے گئے ہاتھ اُسکے یا وہ تہی دست ہوگیا اور اور دونوں کے مال کیطرف محتاج ہوگیا۔

121

اَرْبَاء (کسفسم) زہتی کر دینا۔ بیاز لینا۔

اَرْبَابٌ (فسفس) جمع رب۔

اِرْبَاب (کسفس) ایک چیز سے پاس کرنا۔ اونٹوں کا ایک جگہ پر اقامت کرنا۔ جنوبی ہوا اور ابر کا برابر اور متصل بنا۔

اِرْبَاج (کسفس) چھوٹے قد کے بیٹے جنانے۔

اِرْبَاح (کسفس) کسی کو اسکے اسباب کا نفع دینا۔ مہمان کے لئے اونٹ کے بچے کو ذبح کرنا۔ صبح اور دوپہر کو اونٹنی دوہتی۔

اِرْبَاخ (کسفس) سختی میں پڑ جانا۔

مادہ
ارض
اروض
ارع
اروع
اریض
ارق
ارکی
ارم
ارن
۱۲۰
ارین
ارون
صلی

جسکے کانون اور چہرہ پر بہت بال ہون
اور سست وکاہل۔
اَرَاضَ (کفس) چوڑا چکلا۔
فراخ۔ ولد اپچھونا بکری کی پشم کا ہو
یا اونٹ کی۔
اَرَاضَۃ (کفسف) معدہ کو معدہ پرگرانا
رود بار کا سیراب ہونا یا تی کا معدہ بانکنز
جمع ہونا جیسے اَرَاضَ الوادی سیراب کرنا
جیسے اَرَاضَ القوم جگہ کی سیرابی سے
پانی کا جمع ہو آنا۔ دوبارہ پانی پینا۔
جگہہ کا مرغزار ناک ہونا۔
اَرَاعَۃ (کفسف) لوگون کا کھانا بہت
اور زیادہ ہونا۔ بہت بچہ دار ہونا اور کھونگا
گیہوںمیں کا پاکیزہ ہونا۔
اَرَاعِیل جمع اِرْتاح ہواؤن کے
اوائل یعنی شروع۔
اَرَاحۃ (کفسف) شکار کو چاہنا اور پیچھا کرنا
اَرَافَۃ (کفسف) اردیاف مستقر
زمین کا با فراخی اور ارزانی ہونا زمین کا
چاپہ والی ہونا۔ چارہ والی زمین میں پہنچنا
اَرَاقَۃ (کفسف) پانی خون وغیرہ کو
بہانا اس لفظ مین بجائے اراقہ کے
ہراقہ اور بجائے اراق کے ہراق

کہتے ہیں۔ بہانا۔
اَرَاک (فقس) زمین کا ایک قطعہ کہ گوکھی
رویگی کھاری مزہ کی۔ درخت پیلو
جسکی مسواک بناتے ہیں اراکۃ (فسف)
ایک۔ تائے وحدت ہے۔ ارک (ضضف)
اور اُرُک (ضسک) جمع۔ اراک (فسس)
آمدن (رکس) اراک (کفس) گھا اراک
متوسطگی کھنکا درخت۔
اراکیۃ (فسف) ابل اراکیۃ جمع ہوئی
ہیں یعنی اراک چرنے والا اونٹ۔
اِرَام (کسم) علومی کو دام پرپانا بنگے
غیر بچہ پر مہربان کرنا۔ زخم کا علاج کرنا
ایسا کہ اچھا ہو جاوے۔ زبردستی
سے غنی مقرر کرنا۔ مضبوط اور
سخت بٹنا رسی کو۔
اِرَان (کفس) مردہ کا تخت یا اسکا
تابوت۔ تلوار۔ وحوش کے رہنے کی
جگہہ۔ ارن (ضقس) جمع۔ بیل۔
اِرَان (کفس) ارس خوش ہونا
ارن (کک) صیغہ لغت۔
اَرَانۃ (کفسف) جیسے اران القوم
یعنی ہلاک ہوگئے مویشی قوم کے۔
اَرَانِی (کفسف) ایک دانہ ہے کہ

| مادہ | | |
|---|---|---|
| ربت<br>ربث<br>ربج<br>ربد<br>ربس<br>ربش<br>ربع<br>ربغ<br>ربک<br>ربو<br>123<br>ص۱۱ ارمد<br>ص۱۱ رمو<br>ص۱۲ رمث<br>ص۱۳ رمد<br>ص۱۴ رمک<br>ص۱۵ اری<br>۱۲. | رنگ کا یا وہ اونٹ جسکے دونوں پہلو اور کان کالے ہوں اور باقی بدن دھندلے رنگ کا۔ ربک دھنس کی جمع<br>اُرْبِیّ (ضفف) سختی۔ بلا۔<br>اَرْبِیان (کسکفس) جھینگا ایک قسم کا ساگ۔ جھینگا مچھلی۔<br>اُرْبِیَّة (ضسکتف) ران کی جڑ یا پیٹ کے اوپر کے سرے اور نیچے کے سرے کے مابین۔ مرد کے گھر کے لوگ۔ چچا کا بیٹا۔ قبیلہ عشیرہ و مرد۔ اسکی اصل ربوة (ضفقف) تھی۔<br>اِرْمِثّاث (کسکسفس) حاجت سے روک جانا ٹھہر جانا۔ کام کا سست ہو جانا۔ ڈھیل لگانی۔<br>اِرْمِداد (کسکسفس) یعنی اربداد (کسکفس) دھندلا ہونا۔ خاکستری ہونا۔<br>اِرْمِکاک (کسکسفس) کام سے رک رہنا۔ عقل کا پریشان ہونا۔<br>اِرَة (کف) آگ یا آتشدان یا آگ کی چمک یا اسکی شدت۔ خشک گوشت۔ گوشت جو دھوپ میں خشک کیا گیا ہو۔ تھوڑا بھونا ہوا گوشت۔ گوشت جیسے سرکہ میں لیکر جوش دیکر سفر میں | اس سے باز رہیں۔<br>اَرِبَّة (فکتف) اہل عہد و پیمان۔<br>اِرْبِثّاث (کسکفس) پراگندہ ہو جانا<br>اُرْبُجان (کسکفس) ایک گھاس<br>اَرْبَد (فسف) ایک موذی خبیث سانپ ہے۔ شیر۔ راکھی رنگ کا شتر مرغ<br>اِرْبِداد (کسکفس) راکھی رنگ یا دھندلے رنگ کا ہونا۔<br>اِرْبِشّاس (کسکفس) زمین میں گھسنا۔ آپس میں غصہ کرنا۔ کاہو تانا یا پیچھے رہ جانا۔ ڈھیل کرنی۔ کام یا رنگ کا سست ہونا۔<br>اَرْبَش (فسف) مختلف رنگ کا مرد۔<br>اَرْبَع (فسف) چار عورت۔<br>اَرْبِعاء (فسکفسم و فسکفسم و فسفسم) چار شنبہ۔ اربعاوان (فسقفسفس) تثنیہ۔ اربعاوات (فسقفسفس) کی جمع سالم<br>اربعاوا (فسقفسم) ایک ستون یا دو ستون تین ستون چار ستون کا گھر۔<br>اربعة (فسقفت) چار مرد۔<br>اربعون (فسفس) چالیس۔<br>اُرْبُغ (فسف) ہر چیز بہت۔<br>اُرْبُک (فسف) کالا اونٹ دھندلے |

ارتباع غنیمت کو خریدنا ۔ ریت کا تہ بتہ
جمنا اور ملائم ہونا ۔
ارباد (بکسرتین) پھندے وار کوڑا
بٹنا ۔ قطع کرنا ۔ کاٹنا ۔
ارباز (بکسرتین) عقلمند اور ہوشیار
کردینا ۔ بکری وغیرہ کو موٹا کرنا ۔
ارباش (بکسرتین) درخت کا پتے
نکال لانا اور پھٹ جانا ۔
ارباض (بکسرتین) آل و عیال کے
نفقہ کی خبر لینی ۔ آفتاب کا بہت گرم
ہونا ۔ گائے گھوڑے کتے وغیرہ
کو بٹھانا لٹانا ۔ بکریوں کو اُنکے
تھان میں لانا اور انکو لٹانا ۔
ارباع (بکسرتین) اونٹنی کا بچہ دان
بند ہوجانا اور نطفہ نہ قبول کرنا جیسے
اربعت الناقۃ کوئیں کا پانی بہت
ہونا جیسے اربع ماء الرکیۃ پانی پینے
کی نوبت جلدی آجانی جیسے اربع
الورد اونٹوں کا چھوڑ دینا تاکہ
جہاں چاہیں پانی پئیں جیسے اربع
الابل نکاح بہت کرنا جیسے اربع
فلان سوال کرنا اور چلا جانا اور
پھر آنا جیسے اربع السائل ۔ بیمار کو

دو دو روز چھوڑ کر تیسرے روز عیادت
کے لئے آنا جیسے اربع المریض
چوبچے سال میں آگنا بکری کا اور
پانچویں میں گائے اور گھوڑے کا
اور ساتویں میں اونٹ کا ۔ موسم بہاری
کے علف میں آنا قوم کا ۔ چار عدد
ہونا ۔ منزل ربیع میں مقیم ہونا چوپایہ
کو علف ربیع میں چھوڑ دینا ۔ سریع
اونٹوں کا مالک ہونا ۔ بڑھاپے میں
کسی کے بیٹا ہونا ۔ موسم بہاری میں
بچہ جننا اونٹنی کا ۔
ارباغ (بکسرتین) اونٹوں کو چھوڑ
دینا تاکہ وقت بےوقت پانی پئیں
ارباک (بکسرتین) زمین کا نیل گھاس
کو اوگانا ۔ زمین میں نیل حنظل بہت ہونا
ارباک (بکسرتین) بیجانہ دینا ۔
اربان (بفتحتین) اربون (بضمتین) بیعانہ
ارتبہ (بکسرتین) عقلمندی حیلہ ۔ بہانا
حاجت ۔ احتیاج ۔ فرج ۔
ارتہ (بضمتین) حاجت گرہ یا ایسی
گرہ جو کھل نسکے جب تک کہ اسے
کھولیں نہیں ۔ حلقہ آخیہ کہ زمین میں
محکم اور مضبوط کریں اور گھوڑے کو

رباط کے لیئے معین کرنا۔ کسی
اَرتِباع (کسفس) موسم بہار میں کسی
جگہہ اقامت کرنی جیسے ارتبع بمکان
کذا بہار کے موسم کا چارہ کھا کر
اونٹ کا موٹا ہونا جیسے ارتبع البعیر
زور آزمانے کے لیئے ہاتھ سے پتھر
اوٹھانا۔ چار زانو بیٹھنا۔ خرما توڑنے
کے وقت کو پہنچ جانا کھجور کے درخت کا
بہت دودھ والا اونٹ کا۔ گول بدن والا ہونا
اَرتِباق (کسکفس) جال میں پھنس
جانا۔ ایک کام میں پڑ جانا۔ قصہ میں آ جانا
اَرتِباک (کسکفس) بات میں عاجز ہونا
جیسے ارتبک فی کلامہ شکاری کا جال
میں مضطرب ہونا اور پھڑکنا۔ جیسے
ارتبک الصید فی الحبالۃ کام کا کسی
غلط ملط اور مشتبہ ہونا۔ الجھانا اور آمیختہ
ہونا۔ تیلے گارے کا گھستا۔ گارے
میں گر پڑنا۔ ایک چیز میں پھنس جانا کہ
اس سے جدا نہ ہووے۔
اَرتِبال (کسکفس) اونٹوں کا بہت ہونا
اَرتِبَۃ (کسف) بال جو گرگٹ کے
سر پر ہوتے ہیں۔
اَرتِتاج (کسکفس) کسی کا گفتگو

میں بند ہو جانا مجہولاً مستعمل ہے۔
اَرتِتاق (کسفس) بکارت کا بستہ ہونا
ہر چیز کا پیوستہ ہو جانا۔
اَرتِتام (کسکفس) رتیمہ کا باندھا جانا
اَرتِثاء (کسکفسم) رائے کو خلط ملط
کرنا۔ خراب عقل ہو جانا جیسے ارتثأ
فی رایہ دودھ کا چھاچھ ہو جانا چھاچھ
کھانی۔ ارتثأ علیہم امرہم یعنی غلط
ملط ہو گیا ان پر کام۔
اَرتِثاث (کسکفس) لاغری کے
سبب اونٹنی کو ذبح کرنا۔ ارتثت الناقۃ
کہنہ جمع کرنا۔ سکتے زخمی کو میدان
جنگ میں سے اوٹھا لانا۔
اَرتِثاد (کسکفس) اوپر تلے اسباب رکھنا
اَرتِجاء (کسکفسم) ڈرنا۔ امید رکھنی
اَرتِجاج (کسکفس) لوہے دور ہٹنے
میں اونٹ کا ہلنا جیسے ارتج البعیر
اور چلنے میں عورت کے سرینوں کا
ہلنا جیسے ارتجت وادفہا۔ جھکنا
اور مائل ہونا۔ میلان کرنا۔
اَرتِجاز (کسکفس) قصیدہ پڑھنا
رعد کا آواز کرنا۔ گرجنا۔
اَرتِجاس (کسکفس) کا نپنا

| مادہ |
| --- |
| رتع |
| رتق |
| رتب |
| رتب |
| رتت |
| رتج |
| رتث |
| رتم |
| ۱۲۵ |
| رثد |
| رثث |
| رثغ |
| رثو |
| رجع |
| رجز |
| رجس |
| ۱۲ |

رتا ر
رتا ز
رتا ب
رتا ت
رتا ج
رتا ی
رتا ع
رتا ک
رتا ج
سہ حرفی
رج ج
رج ب
رج ب
رج ب
رج ج
[illegible]

ہمراہ لیجاتے ہین اصل انگی ارحج تھی سینے کو کتے سے بدل دیا سلیات (کفعس) اردن (کفعس) وآر (فعس) اور (فعت) جمع ـ

اُرَتہ (کتف) آگ ـ

اَرتَای (کسفعس) ہنسنا ـ

ارتابو (کسکمسم) دیکھنا سدبیر جان لینی کام مین تامل کرنا ـ دیکھنا جیسے ارتحابینا فی الامر ـ

اَرتاب (کسفعس) بعد سے پروائی کے سوال کرنا ـ سد نخیتہ اور گھسا ہوا ہونا

اَرتات (کسفعس) کند ذہن اور توتلا کرنا

اُرتاج (کسفعس) دروازے کو بند کرنا جیسے ارتج الکتاب اونٹنی کا اپنا بچہ دان نطفہ پر بند کر لینا جیسے ارتجت الناقۃ مرغی کا پیٹ انڈون سے پُر ہونا جیسے ارتجت الدجاجۃ دریا کا جوش مارنا اور اسکا پانی بہت ہونا اور سب چیز کو ٹہا لیجانا جیسے ارتج البحر تمام سال قحط مین گذرنا جیسے ارتجت السنۃ برف کا برسنا جیسے ارتج الثلج کسی پر بات کا بند ہو جانا مجہول استعمل ہے جیسے اُرتج علیہ سار زانی اعد فرحی کلام

ساری زمین کو گھیر لیتا جیسے ارتج الخصب گدہی کا حاملہ ہونا جیسے ارتجت الاتان ـ

اُرتاس (کسکمس) سردار ہو جانا مشغول کرنا ـ

اَرتاع (کسفعس) اپنے اونٹون کو چرانا ـ سبزہ کا چرنے کے لائق چارہ کو اوگانا

اُرتاک (کسفعس) اونٹ کا پو پیڑانا آہستہ آہستہ ہنسنا ـ

اُرتام (کسفعس) اونگلی پر دھاگا باندہنا واسطے یادداشت کے جیسے ہندوستانی بند مین گرہ دیتے ہین

اَرتباو (کسکفسم) دیدبانی کرتی بلندی پر چڑہنا ـ اوپر سے نیچے دیکھنا ایک چیز پر مطلع ہونا ـ انتظار کرنا

ارتباع (کسکفس) بچے کی پرورش کرتی یہانتک کہ بالغ ہو جاوے ـ

اُرتباث (کسکفس) پراگندہ ہو جانا

اُرتباز (کسکفس) کام کا کامل اور تمام ہو جانا ـ

اُرتباس (کسکفس) ٹھوس اور گٹھا ہوا ہونا گوشت وغیرہ سے ـ

ارتباط (کسکفس) گھوڑے کو

مال کا کم ہونا اور نقصان پانا جیسے
ارتزا مالہ –
ارتزاز (سکفس) بجلی کی طرح چمکنا جیسے
ارتزا الجمیل عند المسئلۃ ارتزانا تیر کا
نشانے پر جا بیٹھنا جیسے ارتز السہم
فی القرطاس و تیز ارتزار (سکفس)
ایک جگہ پر ثابت رہنا بچھان ...
ارتزاق (سکفس) لشکر کا تنخواہ
لینا - روزی پانی –
ارتساس (سکفس) خبر کا ظاہر
ہو جانا جیسے ارتس الخبر فی الناس
ارتساغ (سکفس) فراخ
ہونا فراخ کر دینا کشادہ کر دینا –
ارتساف (سکفس) بلند ہو جانا –
ارتسام (سکفس) حکم ماننا غرور
کرنا - پناہ ڈھونڈھنی - مہر کر دینا –
ایک چیز پر دعا کرنی –
ارتشاف (سکفس) بمعنے ارتشاف
ارتشاء (سکفسم) رشوت لینی
ارتشاف (سکفس) پانی کو چوسنا
ارتصاع (سکفس) کسی کے
ساتھ چمٹنا جیسے ارتصع بہ دانتوں کا
گھس کا ہونا - دانتوں کو دو پتھروں کے بیچ میں کوٹنا

ارتضاق (سکفس) چھپنا تنگ ہو جانا
ارتضا (سکفسم) کسی کو پسندیدہ
اور برگزیدہ کرنا –
ارتضاح (سکفس) عذر کرنا –
ارتضاخ (سکفس) غیر فصیح بات کہنی
ارتضاد (سکفس) اسباب کا
اوپر تلے رکھا جانا –
ارتضاع (سکفس) اپنا دودھ آپ
چوسنا جیسے بکری کرتی ہے –
ارتطام (سکفس) ایک کام میں
پڑ جانا کہ اس سے باہر نکل نہ سکے - ایک
چیز کا ایک پر ازدحام کر آنا - گارے
میں گر پڑنا - پلیدی کو دور کرنا –
ارتعاء (سکفسم) چوپایہ کا چرنا –
ارتعاب (سکفس) ڈرنا –
ارتعاث (سکفس) عورت کا
گوشوارہ دار ہونا –
ارتعاج (سکفس) کانپنا اور بجلی
اور مال اور اولاد کا بہت ہونا ...
ارتعاد (سکفس) سخت ڈرانا
جیسے کام ہو جانا - کانپنا –
ارتعاس (سکفس) کانپنا –
ارتعاش (سکفس) کانپنا –

رزء - رزی - رزح - رزق - رسس - رسغ - رسف - رسم - رشف - رشو - رشف - رصع

١٢٧

رضق - رضی - رضح - رضخ - رضد - رضع - رطم - رعی - رعب - رعث - رعج - رعد - رعس - رعش

اونٹ کا آواز کرنا۔ گرجنا ابر کا۔ سکی
اَرْتِجَاع (کسفس) ارتعش یعنی امداد
قیمت میں کسی ہی دوسری یعنی
اَرْتِجَال (کسکفس) کسی شی کو مثلاً
پانوں کے نیچے رکھنا جیسے ارتجل
الرجل بکری کے دونون پانون کو
باندہنا جیسے ارتجل الشاۃ فی الیجم
یعنی ہاتھ پانون میں سے بات نکال کر
کہنی اپنی راے میں تنہا ہونا جیسے
ارتجل بالامر گھوڑے کا کبھی پوری
اور کبھی قدم چلنا سیا میانہ روش پر
چلنا۔ کسی کا پانون پکڑنا عرب میں
بولتے ہیں ارتجل برجلک یعنی اپنے
حال کو لازم پکڑنا۔ اور بولتے ہیں
امر حکی ما ارتجلت یعنی تیرا کام وہ ہے
کہ جسمیں تو منفرد ہے۔
اَرْتِجَام (کسکفس) چیزوں کی بعض کا
بعض پر خوب جمکر بیٹھنا۔ بولتے ہیں
ارتجم الشئ۔
اَرْتِجَان (کسفس) کسی امر کا خلط
ملط اور پریشان ہونا۔ مسکہ کا جوش
پانا اور صاف ہونا اور خراب ہوجانا۔
ایک چیز کا جمکر بیٹھنا۔ ایک جگہ اقامت کرنی

اَرْتِحَاض (کسکفس) رسوا ہونا۔
اَرْتِحَال (کسکفس) اونٹ پر کجاوہ
رکھنا۔ کوچ کرنا جیسے ارتحل القوم عن
المکان۔ اونٹ کا چلنا وغیرہ ارتحال
(کسکفس) کوچ کرنا۔
اَرْتَحْ (فسفف) خشک چمڑا۔
اَرْتِخَاخ (کسکفس) اٹکا ہوا اور نرم
ہونا۔ راے کا پریشان ہوجانا۔
اَرْتِحَاش (کسکفس) مضطرب
ہونا۔ بیقرار ہونا حرکت کرنی۔
اَرْتِخَاص (کسکفس) ارزان
گننا۔ ارزان خریدنا۔
اَرْتِدَای (کسکفسم) چادر اوڑھنی یعنی تلے
اَرْتِدَاد (کسکفس) دین وغیرہ سے پھر جانا
اَرْتِدَاع (کسکفس) ٹھہر جانا رک جانا
پھر جانا۔ ایک چیز کا ایک چیز میں آلودہ ہونا
اَرْتِدَاغ (کسکفس) تلے کا رے میں جا پڑنا
اَرْتِدَاف (کسکفس) کسی کو پیچھے
سوار کرنا کسی کے پیچھے چوپایہ پر بیٹھنا
دشمن کو پیچھے سے آکر پکڑنا۔
اَرْتِدَان (کسکفس) تکلہ بنانا۔
اَرْتِزَای (کسکفسم) اپنے مال میں سے
کچھ ہاتھ لگنا جیسے ارتزاۃ ما لہ

ارتکاف (کسفس) برف گرنا اور اسکا جم جانا۔
ارتکاک (کسکفس) سست اور ضعیف گننا یا سست و ضعیف پانا۔
ارتکام (کسکفس) جمع ہو آنا۔ اکٹھا ہو جانا۔ تہ بتہ بیٹھنا۔
ارتل (فسف) توتلا۔ ہکلا۔
ارتم (فسف) وہ شخص کہ جو بات اچھی طرح نکر سکے بسبب آفت رسیدہ ہونے زبان یا دانتوں کے۔ شاید ہکلا مراد ہو۔
ارتماء (کسکفسم) گر پڑنا۔ پھینکا جانا۔ ایک دوسرے پر پھینکا۔
ارتماز (کسکفسم) ہلنا۔ اضطراب کرنا۔ قوم کا مجلس میں اٹھنے کے لیے ہلنا یا خصومت کے لیے۔
ارتماس (کسکفس) پانی میں نیچے جانا۔
ارتماض (کسکفس) سخت ہونا اور دل جلا ہوا اور بیقرار کر دینا۔ جیسے ارتمض فلان من کذا کسی کے لئے اندوہگین ہونا۔ جیسے ارتمض لہ گھوڑے کا کودنا جگر کا خراب ہونا اور درد کے مارے بہت جلا ہوا اور غمگین ہونا۔
ارتمال (کسکفس) آلودہ ہونا۔

خوار اور حقیر ہو جانا۔
ارتمام (کسکفس) چوپایہ کا لکڑی کو منہ سے لیکر کھانا۔ کھانا۔
ارتماح (کسکفس) جھکنا خم ہونا۔
ارتواء (کسکفسم) سیراب ہونا بیٹا ہوا اور دور بنیر بیٹے کا ہونا۔ مرد کا ڈھیلے جوڑوں کا ہونا۔
ارتواح (کسکفس) ہاری بری یا سبک کام کرنا۔
ارتہام (کسکفسم) ملا ہوا ہونا۔ اور ہیشہ بنانا۔ شور برپا ہونا۔
ارتہاس (کسکفس) رو و بار کا پر ہونا۔ لوگوں کا بھیڑ کرنا اور جنگ میں پڑنا۔ چوپایہ کا سُم چلنے میں ایک دوسرے پر پڑنا یعنی ٹھوکر لگنا۔ ایک ٹھڈی کا دوسری پر بیٹھنا۔ مضطرب ہونا۔ ہلنا۔
ارتہاش (کسکفس) نرم و سست ہونا کمان کا۔ کانپنا۔ جڑ سے اکھڑنا۔ چوڑان میں ایک طرح سے نیزہ مارنا۔ قوم کا جنگ میں پڑنا۔ چوپایہ کا چلنے میں ایک دوسرے پر سُم مارنا اور اسکا زخمی ہونا۔
ارتہاط (کسکفس) جمع ہو آنا۔
ارتہاک (کسکفس) چلنے میں مفاصل کی سستی اور لڑا پن۔

اَرتِمَاص رکسکفس اچپنا کھلا ہوا ہونا ہلنا کانپنا – زخمی ہونا پیٹ کا لوٹنا اور بل کھانا – نرخ کا گران ہونا – بھیڑ کے بچے کا تماشا میں اچھلنا – بہت لٹکتا ہوا ہونا نیزہ کا –

اَرتِحَاف رکسکفس گھوڑے کا اوس سے آگے نکلنا دوڑنا اور قوی ہونا –

اَرتِحَار رکسکفسم معدہ کے بیمار ہونا اور پھٹنا –

اَرتِحَاب رکسکفس ایک چیز کی خواہش کرنا – رغبت کرنی –

اَرتِغَاث رکسکفس دودھ پینا –

اَرتِفَاد رکسکفس کمائی کرنی –

اَرتِفَاص رکسکفس بہا کا گران ہونا –

اَرتِفَاع رکسکفس اوٹھانا بلند کرنا – بلند ہونا – حاکم کے پاس جانا مدعا علیہ کے ساتھ –

اَرتِفَاق رکسکفس رنگ کا چمکنا اور روشن ہونا –

اَرتِفَاق رکسکفس کہنی پر تکیہ لگانا یا نازبالش پر تکیہ لگانا – عوض کا پر ہوجانا

اَرتِقَاء رکسکفسم سیڑھی پر چڑھنا

اَرتِقَاب رکسکفس اوپر چڑھنا –

دید بانی کرنی – انتظار کرنا –

اَرتِقَاش رکسکفس لڑائی میں گرنا – مر جانا جیسے اِرتقش القوم فی القتال –

اَرتِقَاع رکسکفس دل میں باک و اندیشہ لانا پروا رکھنی یہ لفظ نفی کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے –

اَرتِقَان رکسکفس زعفران کے ساتھ آلودہ ہونا –

اَرتِکَاد رکسکفسم اعتماد کرنا –

اَرتِکَاب رکسکفس سوار ہونا – اختیار کرنا برے کام کا –

اَرتِکَاح رکسکفس سہارا اور تکیہ لگانا

اَرتِکَاز رکسکفس رگ کا اوچھلنا اور پھڑکنا جیسے ارتکز العرق ثابت ہونا – کمان کا گوشہ زمین پر رکھکر اوسپر تکیہ لگانا جیسے ارتکز علی القوس –

اَرتِکَاس رکسکفس اوندھے منہ ہونا گر پڑنا – انبوہ کا جمع ہونا – اوس چیز کیطرف پھرنا کہ جس سے رہائی پائی ہے – اپنی جگہ پر پھرنا – مرکز کے گرد پھرنا –

اَرتِکَاض رکسکفس ایک کام میں اضطراب کرنا – بچہ کا ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا –

۱۲۸

علامات اعراب ض ف ک س ت م — ض ضمہ ف فتحہ ک کسرہ س سکون ت تشدید ع عربی | مادہ

اَرَجَ (رس) ور غلانا۔ برانگیختہ کرنا۔
اَرِجَ (فف) اَرِیج (فکس) اَرِیجَۃ (فکسف) بوے خوش۔
اَرِجَ (فف) اَرِیج (فکس) اَرِیجَۃ (فکسف) (رس) بوے خوش پھیلنا۔
لوگون کا گریہ میں آواز بلند کرنا۔
اَرْجَاء (کسفسم) کام کو مہلت اور تاخیر میں ڈالدینا۔ اونٹنی کے جننے کا وقت قریب پہنچنا۔ شکاری کے شکار ہاتھ نہ لگنا۔ کوئی مرغی کی منیڈہ بنانی ہے
اَرْجَاب (فسفس) انتریان۔ علاوہ اسکا نذار دیا واحد اسکا رجب ہے۔
اَرْجَاب (کسفس) تعظیم کرنی کسی کو بزرگ کہنا۔
اَرْجَاج (کسفس) گھوڑی کا جننے کے قریب پہنچنا۔ گھوڑی کا ہلنا گھوڑی کا سر ین لٹک پڑنا۔
اِرْجَاح (کسفس) مائل اور راجح کردینا
اِرْجَاد (کسفس) کپ کپا دینا۔ کپ کپا یا جانا۔ اسی معنی میں مجہولاً مستعمل ہے
اِرْجَاس (کسفس) مرتجاس سے پانی کو اندازہ کرنا۔
اِرْجَاع (کسفس) پھیر دینا جیسے

ارجعہ الیہ ارجاعاً نفع ملانا جیسے ارجع الیہ بیعتہ لاغری کے بعد فربہ ہونا جیسے ارجعت الابل۔ دبے کا دیوان بیمار ہونا اور ایک مہینے تک جسم اور طاقت اسکی بحال نہ آنی جیسے ارجع الشیخ پاخانہ پھرنا۔ ایک چیز کے لینے کے لیئے پیچھے کو ہاتھ لگنے کے بعد فنغریا چیز کو پھیر دینا مصیبت میں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْن کہنا۔
اِرْجَاف (کسفس) فتنہ و فساد کی خبروں میں خوض کرنا ایک کام میں داخل ہونا اور اسمیں خوض کرنا جیسے ارجف القوم فی الشیٔ وبہ زلزلہ آنا جیسے ارجفت الارض و ارجفت بھونچال۔
اَرْجَاف (فسفس) خبر جلنے گما سے کھنیں۔ اراجیف (ففسکس) جمع
اِرْجَال (کسفس) اونٹنی کو بچے سمیت چھوڑ دینا۔ چھوڑ دینا مہلت دینی۔ پیادہ کر دینا۔
اَرْجَال (فسفس) جمع رجل (فس) بمعنی وہ مرد جسکے بال نہ لٹکے ہوں یا لٹکے اور گھونگریالے کے بیچ میں ہوں
اَرْجَان (فففس) ور غلانے والے

ارج
ارجاء
ارجاب
ارجاج
ارجاح
ارجاد
ارجاس
ارجاع
ارجاف

131

ارجل
ارجال
ارجان
12

ارتہان (کسکفس) گرو رکھ لینا۔
ارتیاب (کسکفس) شک و پیوند کرنا۔ شک کرنا۔
ارتیاب (کسکفس) تہمت لگانی جیسے ارتکاب بہر۔
ارتیاح (کسکفس) شادمان ہونا۔ شادمانی کرنی۔ بلا سے نجات دینی۔
ارتیاد (کسکفس) نعمت کے سبب خوشی و خرمی کرنی۔
ارتیاد (کسکفس) ڈھونڈھنا۔
ارتیاش (کسکفس) کسی کا حال اچھا ہونا۔
ارتیاص (کسکفس) تابعدار ہونا۔
ارتیاع (کسکفس) ڈرنا۔
ارتیاع (کسکفس) چاہنا۔ ڈھونڈھنا۔ سیر ہونا۔
ارث (رمک) بکرا چتکبرا۔
ارث (رمس) (رن) بعض کو بعض پر ورغلانا۔ آگ کو بھڑکانا۔
ارث (کس) میراث۔ اصل۔ امر قدیم موروثی۔ راکھ۔ ایک چیز کا بقیہ۔
ارث (رمس) ایک کانٹا ہے۔
ارث (رفف) پرانا۔
ارثاء (کسفسم) دودھ کا گاڑھا ہونا۔
ارثاء (فسفسم) مونث آرث۔

یعنی بکری چتکبری۔
ارتثاث (کسفس) پرانا اور گھسا ہوا ہونا۔ کپڑے کا پرانا کر دینا۔ گھسا دینا۔
ارتثاد (کسفس) آرام لینا۔ سوہندلا رنگ ہونا۔ زمین کو کھودتے کھودتے نم تک جا پہنچنا۔
ارتناط (کسفس) بیٹھنے میں ثبات اور قرار اختیار کرنا۔
ارثۃ (رمسف) کھیت کی ڈول۔ ارث (رمسف) جمع۔ سرخ پتھر۔ اونچی زمین۔ سہل۔ بکری کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے کہ اسمیں سیاہ نقطے سپید نقطوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔
ارثعنان (کسکسفس) دیر پا اور ثابت رہنا۔ سستی اور ڈھیلا پن۔ بالوں کا لٹکایا جانا۔
ارثم (رمسف) ناک کی پھننگل کا سپید گھوڑا یا اوپر کے سپید ہونٹھ کا گھوڑا۔ توتلا۔ ہکلا۔
ارثمام (کسکفس) گھوڑے کا سپید ہونٹھ والا یا سپید ناک کے پھننگ والا ہونا۔
ارثی (رفسف) مرد جو کام کی مضبوطی اور استواری نکر سکے۔

چوپایہ کو مشقت میں ڈالنا قابو میں کرنا۔
ارحام (سنفس) جمع رحم۔
ارحب (ضنکس) ارحبی (ضسکت) یہ دو کلمہ دو امر ہیں کہ جن سے گھوڑے اور اونٹ کو ڈانٹتے ہیں یعنی کشادہ ہو۔
ارحل (ضسف) سپید پیٹھ کا گھوڑا۔
ارخ (ضس) کتابت کی تاریخ لکھنی۔
ارخ (ضس) کس بیل۔ اروخ (ضفس) جمع۔
ارخاء (کسفسم) سست اور نرم کرنا۔ غلام کو قرار دینا بعد اسکے گرفتہ کیطرف سے بیخوف ہونا جیسے ارخی عمامہ گھوڑے کی لمبی رسی کسنی جیسے ارخی الفرس پر دو لٹکانا جیسے ارخوا الستر چوپایہ کو تیز ہانکنا جیسے ارخی دابتہ۔ تیز ارخاء (کسفسم) ایک طرح کا تیز دوڑنا۔
ارخاخ (کسفس) ایک چیز میں مبالغہ کرنا۔
ارخاس (کسفس) بھاؤ کا سستا کرنا۔
ارخاص (کسفس) ارزان کردینا ارزان گننا۔ ارزان پانا۔ ارزان خریدنا۔
ارخاف (کسفس) خمیر کو تپلا اور ڈھیلا کردینا یعنی اسمیں پانی سوا کردینا جیسے ارخفت العجین ارخافا۔

ارخام (کسفس) مرغی کا انڈوں کو بازو کے نیچے لینا جیسے ارخمت الدجاجۃ علی بیضہا۔
ارخۃ (ضسف) وحشی گائے۔
ارخۃ (ضسف) ارتاخ کا اسم مصدر ہے۔
ارخم (ضسف) کالے بدن سپید سر کا گھوڑا۔
ارخی (ضسکت) جوان بیل۔
ارخیۃ (ضسکتف) نر گوہی کا بچہ پردہ وغیرہ جو چھت کے نیچے ڈالا جاوے۔
ارد (ضفت) بڑا نفع دینے والا۔
ارداء (کسفسم) اعانت کرنا۔ تسویہ زیادہ کرنا جیسے ارداء علی مالہ پردہ کو لٹکانا۔ کسی کا یار ہونا۔ آرام دینا۔ خراب کرنا۔ کھکر اپنے اوپر ایک چیز ثابت کرنی۔ پر قرار رکھنا۔ نکما کام کرنا۔ ناکارہ چیز پر پہنچنا۔ دیوار کے لئے ستون رکھنا۔
ارداء (کسفس) گھوڑے کو ردی رفتار پر ہانکنا۔ کسی کی بکریوں کا بہت ہونا۔ پچاس یا ساٹھ سال سے سوا جیسے اردی علی الستین کسی کو کوئیں میں ڈالدینا جیسے اردا ہ فی البئر ڈبلا کرنا مشقت میں ڈالدینا۔
ارداح (ضسفس) کالا چمڑا۔

مادہ
[illegible]
رحب
رحل
رخ
رخ
رخو
رخخ
رخس
رخص
۱۳۳
رخف
رخم
رخو
ردو
ردء
ردی
ردح

کی سعی اور بلیغ کوشش۔
اَرجان (کسفس) چارہ کے لیے چارپائے کو روکنا۔
اَرجاء (کسفس) کام کو اُسکے وقت سے پیچھے ٹال دینا۔
اَرجحنان (کسکسفس) مائل ہونا جھکنا حرکت کرنی۔ ایکدفعہ ہی گر پڑنا۔ سراب کا بلند اور نمایان ہونا جوہری نے لکھا ہے کہ نون اصل ہے اور تابع ہوا ہے ابو الطاہر جوہری کے اور سوا اُسکے اور ون نے اُسکا مادہ رجح لکھا ہے یعنے نون زائد ہے۔
اَرجز (فسف) اونٹ جو بیماری رجز مین مبتلا ہو۔
اَرجعنان (کسکسفس) لڑکھڑانا جھکنا مائل ہونا۔ ایکبارگی گر پڑنا۔
اَرجُل (فسضض) جمع رِجل (کس) کی بمعنی پانون یا ران کی جڑ سے پانون تک۔
اَرجَل (فسفف) مرد قوی۔ بڑے پانون کا مرد۔ ایک پانون کا سپید گھوڑا۔
اَرجِلۃ (فسکف) اَراجِل (ففسک)
اَراجیل (ففسکس) جمع رَجل (فک) کی بمعنے پیادہ۔

اَرجُوان (فسضفس) سرخ سرخ کپڑے ایک نہایت سرخ رنگ ہے سرخی نشاستہ۔ ایکدرخت سرخ شگوفہ دار اُرغوان کا معرب ہے۔
ارجوانی (فسضفکت) ارجوان کی طرف منسوب ہے۔
اَرجوحۃ (فسضسف) جُھولا ہے۔
اُرجوزۃ (ضسضسف) بحر رجز کا قصیدہ۔ اَراجیز (ففسکس) جمع۔
اُرجیّۃ (ضسکتف) آرزو و تمنا۔ امید
اَرَح (ففت) وہ شخص جسکا سب پانون زمین کو لگتا ہو بیچ مین خالی نہو۔ مذکر جمع۔ پہاڑی بکری جسکی کھری کا شگاف چوڑا ہو۔
اِرحاب (کسفس) فراخ ہو جانا۔ فراخ کر دینا کشادہ کر دینا۔
اَرحاص (کسفس) ... ہونا ...
اِرحاف (کسفس) چھری وغیرہ کو تیز کرنا
اِرحال (کسفس) بہت اونٹون والا ہونا۔ اونٹ کا بعد ضعف کے قوی پشت ہو جانا۔ اونٹون کا بعد لاغری کے توانا ہو جانا اور کوچ پر قادر ہو جانا۔ کسی کو لدو چوپایہ دینا۔

آرذل (رفسف) کمینہ نیچ آدمی — ہر ناکارہ چیز۔ ارذلون (رفسففس) جمع —
ارذل العمر آخر عمر یہ بدتر عمر ہے کہ جسمیں عقل جاتی رہتی ہے اور ایسا آدمی ثمرہ علم سے عاجز رہتا ہے اور ایسا حال پچھتر یا پچاس یا نوّے سال میں ہوتا ہے —
ارز (رفت) ارزن کہ ایک درخت ہے سخت جسکی عصا بناتے ہیں —
ارزۃ (رففف) ایک تا روحدت ہے
ارز (رفت) ارز (رففت) ارزز منیر ارز (رفف) ارز (ضشہ) ... (رفس) آرز (رعن) ارز (رفض) برنج یعنی چاول کہ ایک مشہور اناج ہے —
ارز (رفس) ارزز (رففس) ارض (س ک) بخل کے سبب منقبض ہوجانا مجتمع ہونا۔ ثابت ہوجانا — آرز (رکم) ارزز (رففس) منقبض اور مجتمع اور ثابت صیغہ لغت ہے —
آرزت الحیۃ سانپ نے اپنے سوراخ کی طرف پناہ پکڑی اور اسکی طرف پھرا اور اسمیں ثابت رہا —
و آرزت اللیلۃ رات سرد ہوئی

ارز (رفس عس) درخت صنوبر۔ ارزۃ (رفسف) ایک درخت۔ یا صنوبر تریا درخت عرعر (رفسف)
۳ ارزاء (رکسفسم) کسی سے پیٹھ لگانی اور اس سے سہارا لینا جیسے ارزی الیہ
۴ ارزاز (رکسفس) ٹڈی کا زمین میں دُم گھسا دینا انڈے دینے کے لئے
۵ ارزاغ (رکسفس) مینھ کا زمین کو کیچڑ بھرا کر دینا جیسے ارزغ المطر الارض۔ پانی کا کم ہونا کسی شخص میں طمع کرنی اور اسکو بہت رنجیدہ کرنا یا کسی کو ذلیل اور خوار کرنا اور اس پر عیب و طعن کرنا اور کسی کو ضعیف کرنا جیسے ارزغ فی فلان۔ زمین کا کیچڑ بھرا ہونا جیسے ارزغت الارض کوآں کھودنے والے کا زمین کی کیچڑ تک پہنچ جانا۔ ٹھنڈی ہوا کا نمی لانا —
ارزاف (رکسفس) اونٹ کا بڑبڑانا اونٹنی کا پوریہ دوڑانا کسی کے آگے آنا جیسے ارزف الیہ کسی کو کسی کی طرف مضطر کرنا جیسے ارزفہ الیہ وحشت زدہ ہونا اور ڈر کے مارے جلدی کرنی

مادہ
رذل
مع رزز
رزی
مع رزء
مع رزغ
مع رزف

اَرْواح (کسفس) خیمہ کے پیچھے ایک کھونٹا لگانا۔ یا گھر کے گرداگرد کونٹی سے لپیٹنا۔

اَرْداو (کسفس) بکری وغیرہ کا جننے سے پہلے بالکہ چھوڑ دینا۔

اَرْداغ (کسفس) زمین کا کیچڑ بہرا ہونا۔

اَرْداف (کسفس) پس ہوی کرنی کسی کو کسی کے ساتھ سوار کر دینا۔ ایک کا دوسرے کے پیچھے آنا۔

اَرْدام (کسفس) ٹھہرا رہنا برقرار رہنا۔ سبز ہونا۔ جڑ لگانی۔

اَرْدان (کسفس) کرتے کے لیئے آستین بنانی۔

اَرْدان (بفتحس) جمع رُدن۔

اَرْدَب (کسفت) مصر میں ایک پیمانہ جسمین چوبیس صاع کی گنجایش ہے۔ کُول جو زمین پر جاری ہو۔

اَرْدِیَہ (کسفف) ہر موری کہ اینٹ وغیرہ سے بنائی ہو۔ بڑی اینٹ پکی ہوئی۔

اَرْدخلخ (کسفکک) نازک بدن پر گوشت۔

اَرْدخل (کسفس) گوشت بہرا موٹا۔

اَرْدشیر (کسفکس) بہمن بن اسفندیار کا لقب کہ دارا کا باپ تھا مجوسی کہتے ہیں کہ جب اُسکے وار اگستاسپ نے اسکو بہت دلیر اور شجاع پایا تو اُسکا یہ نام رکھا کیونکہ معنی ترکیبی اسکے شیر خشمناک ہے یعنے غصہ بہرا ہوا شیر۔

اَرْدَع (کسفف) کالے سینہ سپید بدن کی بکری۔ ردع (ضس) کی جمع۔

اَرْدَم (کسفف) ماہر کشتیبان۔ اسکو رسففس) کی جمع۔

اَرْدَن (کسفف) ایک قسم کا ریشم یا وہ خز سرخ رنگ ہے۔

اَرْدن (کسفف) عذاب سے۔

اَرْذاء (کسفس) ہیما لودر مشقت کا۔ کسی کو ناشتی وغیرہ دینی۔ ناشتی کو پیچھے چھوڑنا۔ اور رستہ پر ڈالدینا۔ اور بلاک کر دینا۔ بیمار لوگوں کا ہلاک ہونا۔ ہلاک کرنا۔ مشقت میں ڈالنا۔

اَرْذاذ (کسفس) مینہ کا رذاذ یعنی پھوار برسنا۔ زمین پر پھوار پڑنی۔ شہنم کا پڑنا۔ مشک کی چیز کا بہنا۔

اَرْذال (کسفس) ناکس اور فرومایہ کر دینا۔ کمینوں اور نیچوں کا دوست ہونا۔

اَرْذام (کسفس) پیالہ کے اوپر سے پانی تیر جانا۔ ہر چیز کا زیادہ ہونا۔

مادہ

ارتسوحتہ (سفسفسف) ٹوپی -
ارش (فنس) زخموں کا تاوان
اروش (سفسفس) جمع - طلب تاوان
و دیت - رشوت خراش خصومت
نقصان جو کپڑے میں ظاہر ہووے
وہ چیز کہ مشتری بائع سے مبیع میں
عیب پر مطلع ہونیکے بعد لیتا ہے -
خلق یعنی مخلوق بولتے ہیں ما ادری
ای خلق الارش ہو یعنی میں نہیں جانتا
کہ وہ کون مخلوق ہے -
ارش (فنس) (ن ع) عطا عطا کرنا
ارشاء (کسفسم) ڈول پر رسی باندھنا
شتر بچہ کا دودھ دینا - خون میں شریک
ہونا جیسے ارشی القوم فی دمہ حنظل
کی شاخیں لمبی ہونی - رشوت دینی -
چپڑے کا اونٹ کی گون کو کھاکر
ارشتہ ارشتہ کہنا تاکہ دور ہٹے -
ارشاح (کسفس) پسینا آنا -
ارشاد (کسفس) خدا تعالے کا
کسی کو رستہ دکھلانا -
ارشاش (کسفس) ابر کا ہلکا مینھ
برسانا - زخم کا فراخ ہوکر اسمیں سے
خون پراگندہ ہونا - گھوڑے کو

دوڑانے سے پسینے میں بسینے کر دینا -
اونٹ کے بچے کا اپنی دم ہلا کر گردن
کو اپنی ماں کی دونوں رانوں میں
دودھ پینے کے لئے لمبا کرنا -
ارشاف (کسفس) پانی وغیرہ کو چوسنا
ارشاق (کسفس) نظر کو تیز کرنا
تیر وغیرہ کو ایک طرف پھینکنا - ہرن کا
گردن کو لمبا کرنا -
ارشام (کسفس) لکڑی کی مہر سے
برتن پر مہر کرنی - چوپایہ کا پہلے ہی
پہل کے چارہ کو دیکھنا اور اسکو چرنا
درخت کا پتے نکال لانا - بجلی کا چمکنا -
ارشح (فنسف) تیز خاطر -
ارشد (فنسف) بہت سیدھا اور بہت
قریب رستہ مطلب کیطرف -
ارشم (فنسف) جس چیز پر کہ لکیرین
اور سیاہی اور نقوش ہووین جو کہ
کھانے کی بو سونگھے اور اسپر حریص
ہووے - تھوڑا سا برا مینھ - کتا -
ہر چیز تھوڑی بری -
ارص (فنفت) جسکے دانت یا سر عوان
ارصاد (کسفس) کسی کے لئے
مہیا کرنا - کسی کو خیر یا شر کا بدلہ دینا

۱۳۷

۱۲

علامات اعراب: ضمہ ُ فتحہ َ کسرہ ِ سکون ْ تشدید ّ

| مادہ | | |
|---|---|---|
| ارزن، ارزم، ارزب، ارز، ارزح، ارزن، ارز، ارزی، ارس، ارسث، ارسخ، ارسغ، ارسف، ارسل، ارسم، ارسن، ارسن، ارسح، ارسع، ارر | شکست وغیرہ مین دوڑایا جانا۔ مجہولاً مستعمل ہوتا ہی۔<br>اَرْزاق (فسفس) جمع رزق کی۔<br>اَرْزام (کسفس) گرج کا زور سے آواز کرنا جیسے اَرْزَمَ الرَّعْدُ اونٹنی کا نالہ کرنا اور بچہ کا آرزومند ہونا جیسے اَرْزَمَتِ النَّاقَۃُ ہوا کا نالہ شتر کی سی آواز کرنا جیسے اَرْزَمَتِ الرِّیح<br>اَرْزَب (کسفت) گھنگنا۔ بڑا۔ بزرگ۔ گھر وہرا۔ کھرا۔ سخت۔ دلدار۔ عورت کی کس یا دلدار کس عورتکا پیر<br>اَرْزَبَّۃ (کسفتف) وہ بیلے کوٹنے کا لوہا یا ہر چیز کوٹنے کا۔<br>اَرْزَۃ (کمف) نہایت قوی اونٹ۔ سرو راٹ مضبوط جڑ کا درخت۔<br>اَرْزَع منہ وہ اُس سے زیادہ بددل ہے۔ یعنی نامرد ہی۔<br>اَرْزَن (فسفت) ایک درخت ہے مضبوط لکڑی کا جسکا عصا بناتے ہین۔<br>اَرْزِیز (کسکس) لرزہ۔ نیزہ کا خم۔ برف کا ٹکڑا۔ یعنی آواز کا مردہ<br>اَرْزِمام (کسکسفس) بہت غصہ مین آنا۔<br>اَرْس (کس) اصل پاک۔ | اَرس (کس) (ص) یکسان ہوجانا۔<br>اَرْساء (کسفسم) جگہہ پر کھڑا رہنا اور مضبوط ہونا۔ کشتی کو ایک جگہہ پر کھڑا کرنا اور لنگر کرنا۔<br>اِرساب (کسفس) بھونکھے کے تارے ملکا کرنے مین گھس جانا۔ ایک چیز کو تھاہ مین لیجانا<br>اِرْساخ (کسفس) ایک چیز کو ثابت اور پائدار کر دینا۔<br>اَرْساغ (کسفس) جمع رسغ پہنچے کی<br>اِرْساف الاِبِل اونٹون کو بیڑیون سمیت ہانکنا۔<br>اِرْسال (کسفس) بہت دودھ والا ہونا گلون والا ہونا بھیجنا۔ چھوڑ دینا۔ رہا کرنا پیغام دیکر بھیجنا۔<br>اِرْسام (کسفس) اونٹنی کو نشان سم کا زمین پر چھوڑنے کیلیے ہانکنا۔<br>اِرْسان (فسفس) گھر دہری زمین<br>اِرْسان (کسفس) رسی بنانی اور چوپایہ کو رسی سے باندہنا۔<br>اَرْسَح (فسفت) دبلے سرین والا۔ بھیڑیا کیونکہ اسکے سرین ہلکے ہوتے ہین۔<br>اَرْسَع (فسفت) جسکے آنکھہ کے پپوٹون مین درد ہو۔ |

علامات اعراب جزم ـ پیش زیر ضمہ فتحہ کسرہ سکون تشدید

ارضاک (سفعس) دانت کھولنا بند کرنا اور پھر کھولنا ۔
ارضۃ (سفعسعة) رضۃ (کفف) بہت گھاس ۔
ارضۃ (سفعت) دیمک ۔
ارط (فک) ارطی کی مانند ایک رنگ ہے
ارطاء (سفعسم) لڑکی کا بالغ ہونا اور عدت میں کو پہنچ جانا ۔
ارطاب (سفعس) خرما کا پکنے کے قریب پہنچنا ۔ کھجور کا درخت پر رطب ہونا ۔ لوگوں کے کھجوروں کا پکنے کے قریب پہنچنا جیسے ارطب القوم
کپڑے کو تر کرنا جیسے ارطب الثوب
ارطاس (سفعس) بعض سنگریزوں کا بعض پر موافق ہونا اور ہموار بیٹھنا ۔ جیسے ارطست علیہ الحجارۃ ۔
ارطاط (سفعس) بیوقوف ہو جانا مثل ہے ارطی فان خیرک فی الرطیط یعنی احمق رہ کہ تیرے خیر حماقت میں ہے یہ مثل اس شخص کے حق میں کہتے ہیں کہ حماقت میں کامیاب ہو اور بوقت تعاقل محروم و بے نصیب
ارطال (سفعس) سست اور نرم

اعضا کا ڈھیلا چھوڑنا ۔ جو لوگ کان لٹک پڑنے
ارطام (سفعس) خاموش ہونا ۔ چپکا رہنا ۔ خاموش رہنا ۔
ارطوی (سفعکت) وہ اونٹ ہے جو ہمیشہ ارطی کھائے اور ارطی ایک درخت ہے
ارطی (سفعت) ایک درخت ہے جسکا شگوفہ بید کی مانند اور اسکا پتا چوڑا ہوتا ہے اور پھل اسکا کڑوا عناب کی مانند اسکے تر و تازہ کو اونٹ کھاتا ہے اور جڑیں اسکی سرخ ہوتی ہیں ۔ ارطاۃ (سفعس) ایکدرخت ۔ الف اسکا الحاق کے لیئے
ارطیاۃ (سفعفس) ارطی (سفعت) ارا ط (سفعسک) جمع ۔ ارطاوی (سفعسکت) وہ اونٹ جو ہمیشہ ارطی کھاوے اسکی طرف منسوب ہے ۔
ارعاء (سفعسم) چوپایہ کو چرانا جیسے
ارعی الماشیۃ ارعاءا جگہ کو چراگاہ کر دینا کسی کے لیئے جیسے ارعاہ المکان زمین میں بہت چارہ پیدا ہونا جیسے ارعت الارض مہربانی کرنی یا حق رکھنا جیسے ارعیت علیہ خدا تعالی کا چارے کو اوگانا تاکہ چوپائے چریں جیسے ارعی اللہ الماشیۃ وغیرہ

ماده
رطب
رطس
رطط
رطل
رطم
رطو
رطی
رعی



ارطا
ارعی
١٢

مادہ

رصد
رصع
رصف
رصن
رصو
رض
رضح
رضخ
رضع
۱۴۸
حرف ضاد معجمہ
بعد حے

ایک چیز کے لیے آمادہ ہونا۔ ارصد
اُرْصَاعٌ (کسفعس) مکان مین
ٹھہرے رہنا اور اسکو نچھوڑنا۔
بہت زخمی کرنا نیزہ سے۔ نیزہ کو
ایک چیز مین بٹھانا۔ کھجور کے درخت
کا صاحب بچہ ہونا۔
اُرْصَافٌ (کسفعس) شربت مین
صاف پانی ملانا۔
اُرْصَانٌ (کسفعس) محکم اور استوار کرنا
اُرْصَعُ (کسفعل) جسکے سُرین لاغر اور
لاغر ہون۔ سعہ کوچہ جسکی سنان
مطعون مین گھس جاوے۔
اُرْصُوحَتَہٌ (کسفعسف) خربزہ
کی شکل کی ٹوپی۔
اُرْضٌ (فس) زمین مونث ہی اسم
جنس یا جمع ہی بدون واحد اور اَرْضَۃٌ
(فسف) نہین بولتے۔ ارضات (فسقس)
ارضون (فسعس)، اروض (فعقس)
آراض (مقس)، اراضی (فسکجع)
اخیر وزن غیر قیاس ہی۔ چوپایہ کے
ہاتھہ پانوُن کا اسفل اور جو چیز
کہ نیچے اور پست ہو۔ زکام۔ لرزہ
تپ۔ لرزہ۔ اِبْنُ الْاَرْضِ ایک

گھاس ہی بال کی مانند اسکے کھاتے
ہین۔ اَلْجِنّ۔ اَرْضٌ مسافر ملک فیرنگاتا
اَرِضَ (فس) زمین کا گھاس
والی ہونا۔ زمین گھاس والی ہونا۔
زکام زدہ ہونا جیسے ارض فلان
لکڑی کا دیمک سے کھایا جانا جیسے
اُرِضَتِ الْخَشَبَۃُ۔ ان دونوں معنی اخیر
مین مجہولاً استعمال ہوتا ہی۔
اَرِضَ (فعت) (مق) زخم کا دیکنا
اور فاسد ہوجانا۔
اَرُضَتِ الْاَرْضُ (ک) زمین کا پاکیزہ
ہوئی اور اچھی نظر آنے لگی اور لائق
بھلائی کے ہوئی۔
اَرِضَ (رفعت) مرد یا اونٹ کا بیٹھا
ہوا کہ جگہہ سے نہ ہلے۔
اُرْضَاءٌ (کسفعس) کسی کو ایک ایسی
چیز دینی کہ وہ اسکو خوش کردے۔
اُرْضَاضٌ (کسفعس) ڈھیل کرنی
آہستہ اور بھاری ہونا۔ تیز دوڑنا
چھاچھہ کا گاڑہا ہونا۔ پسینے کا بہانا
دودہ کا پھٹ جانا۔
اُرْضَاعٌ (کسفعس) عورت کا
دودہ پلانا بچے کو۔

کسی کے مال کو تریاور کرنا اور کینہ رکھنی
اَرْمَاق (کسفس) نظر کو تیز کرنا۔
تیز اور جلدی چلنا۔
اَرْغَال (کسفس) زمین کا زغل گھاس
کو لوگانا۔ عورت کا بچہ کو دودھ پلانا۔
خوشون کا دانون سے پر ہونا۔ کسی کی
طرف مائل ہونا جیسے ارغل الیہ خفا
کرنی۔ اونٹون کا چراگاہ مین سے گم
ہونا جیسے ارغلت الابل عن مراتعہا
ایک چیز کو اسکی غیر جگہ مین رکھنا۔
اَرْغَام (کسفس) خدا تعالے کا
کسی پر غصہ کرنا۔ کسی کی ناک کو خاک آلود
کرنا۔ کسی چیز کو خاک مین ڈالنا۔
اَرْغَان (کسفس) کہلانا۔ آسان امر
ہلکا کرنا کام کو۔ کان لگانا۔ بات کو قبول کرنا
اَرْغِدَاد (کسکسفس) خوش اور فراخ
زندگانی ہونا۔ خوشحال ہونا۔
اَرْغَل (فسفس) ختنہ نکیا ہوا خصر یفسا
یعنے لینے خاے والا۔
اَرْغِیدَاد (کسکسفس) دودھ کا پھٹ
جانا اور سارا نہ جمنا۔ ہر چیز کا خلط اور
اور مشتبہ ہونا۔ رل مل جانا۔
اَرْفُف (ضفت) جمع ارفہ (ضسفت) کی
یعنے کھیت کی ڈول۔
اَرْفَاء (کسفسم) میلان کرنا گنگھی
کرنی۔ نزدیک ہونا۔ معاملہ مین تنگ
گیری کرنی۔ مدارات کرنی۔ کسی کی
طرف پناہ پکڑنی جیسے ارفا الیہ
کشتی کو کنارے کے پاس لگانا۔
اَرْفَات (کسفس) ٹوٹا ہوا اور
ریزے ریزے ہونا۔
اَرْفَاث (کسفس) فحش بکنا۔
اَرْفَاد (کسفس) مدد کرنی۔ دینا
بخشنا۔ چوپایہ کے لیئے رفادہ بنانا۔
اَرْفَاش (کسفس) شہر مین اقامت
کرنی اور اسکو لازم پکڑنا۔ رفش اور
تقفش یعنے کھانے اور جماع کرنے مین بچ جانا
اَرْفَاص (کسفس) اونٹون کو چراگاہ
مین چرائی پر چھوڑ دینا۔ تاکہ فارغ ہو
اَرْفَاغ (افسفس) جمع رفغ کی نا کس
آدمی۔ مشک تپلی کھال کی۔
اَرْفَاف (کسفس) مرغی کا انڈون
پر پرون کو پھیلانا۔
اَرْفَاق (کسفس) کسی کو نفع پہنچانا
کسی کے ساتھہ نرمی کرنی۔
اَرْفَال (کسفس) دامن لٹکانا۔

ماده

رغم
رغن
رغد
رغل
رغد
رف
رفأ
رفت
رفث
رفد

الرا

رفش
رفص
رفغ
رفف
رفق
رفل

[illegible]
کی طرف کان لگانا۔
ارعاج (کسفعس) کسی کو بے آرام
و بیقرار کرنا۔ دولتمند ہونا۔ بجلی کا پے
در پے چمکنا۔
ارعاد (کسفعس) ڈرانا۔ یا برا وعدہ
کرنا کسی پر گرج اور بجلی پڑنی جیسے
ارعد زید ارعادا کسی کو لرزہ آجانا۔
جیسے کہتے ہیں اُرعد اس معنی میں مجہول
مستعمل ہوتا ہے۔
ارعاس (کسفعس) کپ کپا دینا۔
ارعاش (کسفعس) بمعنی ارعاس
ارعاص (کسفعس) ہلانا۔
ارعاظ (کسفعس) تیر میں سوراخ
کرنا تاکہ اسمین پیکان رکھیں۔
ارعاف (کسفعس) دوڑانا جلدی
کرنی۔ ٹپکنا۔
ارعال (کسفعس) تیزی اور زور
سے نیزہ مارنا۔
ارعام (کسفعس) بکری کا نہایت
دبلا ہوکر اسکی ناک میں سے پانی بہنے لگنا
ارعاد [illegible] (کسفعسکتف) بادشاہی
چوپائے چرائی پر۔

ارعل (کسفعس) احمق۔ گھاس
کہ بڑھ کر لٹک جائے۔
ارعن (کسفعس) احمق بے سوچے
اور بے تامل بات کرنے والا۔ ڈھیلا
اور لڑ بڑا اور سست۔
جیش ارعن بھاری اور بہت۔
ارعواء (کسفعسم) بدی اور نادانی
سے رک رہنا۔ ایک چیز کے ترک پر پشیمان ہونا
ارعوۃ (کسفعسف) ہل یا گاڑی کا جوا
ارعوثۃ (کسفعسف) بمعنی ارعوثۃ [illegible]
ارعوفۃ البئر بمعنی ارعوفۃ البئر
ارغاء (کسفعسم) جھاگ لے آنا۔
چھوانا۔ آواز سے فریاد کرانی۔ کسی
کو اونٹنی دینی۔
ارغاب (کسفعس) راغب کرنا۔
طلبگار کرنا۔
ارغات (کسفعس) دودھ پلانا۔ مادہ کا
شیر دار ہونا۔ دودھ کی رگوں میں نیزہ
مارنا کسی کو نیزہ پر نیزہ مارنا
ارغاد (کسفعس) فراخ سالی میں پہنچنا
چوپایہ کو اسکی خوشی پر چرائی کیلئے چھوڑنا
ارغاش (کسفعس) جمع رغش (کس)
ارغاس (کسفعس) خدا تعالی کا

کے سبب لرزہ چڑھ آنا۔
اِرْتِفَاق (کسفقس) تیار کرنا کسی نوغلام کرنا۔ بدحال ہوجانا۔ انگور کا خوب پختہ ہوجانا۔ اور یہ خاص ہے سپیدی کے ساتھ۔
اِرْتِقَام (کسفقس) لکھنا۔ یہ معنی مشہور ہین مگر قاموس والے نے نہین لکھا۔
اَرْتِقَانٌ (کسفنس) ایک سرخ درخت ہے۔ حنا۔ زعفران۔ دم الاخوین کہ ایک دوا ہے اور فارسی مین خون سیاوشان کہتے ہین۔ ایک آفت ہے کہ کھیتی اور آدمیون پر پڑتی ہے یعنی یرقان۔ اور کھیتی کا سیاہ ہوجانا۔ اور اس معنی اخیر مین سات لغت اور ہین ارقان (ففقس) ارقان (کلفس) ارقان (فسفس) ارق (فف) اراق (ففس) یرقان (ففقس) لیکن ان سب مین آخر بہت مشہور ہے۔
اِرْتِقَان (کسفنس) ڈاڑھی کو حنا یا زعفران سے رنگنا۔ کھانے کو خوب مرغن کرنا۔ زعفران مین آلودہ ہونا۔
اِرْتِقَب (فسفف) شیر۔ موٹی گردن والا۔
اِرْتِقَاد (کسکفس) دوڑنا۔

اَرْقَشُ (فسفف) چتلا یعنی جسکے بدن پر نقطے سیاہ اور سپید ہون۔
اِرْقِطَاط (کسکفس) ابلق ہوجانا عرفج درخت کا پتے لانے لگنا۔
اَرْقَمُ (فسفف) بدترین سانپ یا ابلق سانپ۔ یا نر سانپ جسکی ماد ین رقشا ہے اراقم (ففنسک) جمع۔
اَرَکٌ (کس) کڑوے اور کھاری مزہ کی روئیدگی۔
اَرِکَت الابل ارکا و ارکت
مجہولاً یعنی درد شکم مین مبتلا ہوے اونٹ ارک کھانے سے۔ ارکۃ (فکف) اونٹ کا اراک کھانے سے درد شکم مین مبتلا ہونا معروفاً مستعمل ہے۔ اوراراکی (ففسسف) صیغہ لغت ہے۔
اَرْک (فس) (من ن) مرد کا اونٹونکو اراک مین چھوڑنا تاکہ اُسے کھاوین جیسے ارک الرجل الابل ارکا جنگ اور خصومت کرلی جیسے ارک الرجل تاخیر اور توقف کرنا جیسے ارک فی الامر اور صلہ اسکا فی ہے۔ ورم زخم کا دب جانا اور اچھے ہونے کے نزدیک پہنچنا۔ ایک کام کو کسی کے

| مادہ |
| --- |
| ع ق ش |
| ع ق م |
| ع ق ف |
| ع ق ن |
| ع ق ب |
| ع ق د |
| ع ق ش |
| ع ق ط |
| ع ق م |
| ۱۳۰۱ |
| ع ا ر ک |
| ۱۲۰۰ |
| ط |
| یرقان لکھدو فرق یہی کہ جیسا اور پتہ کے درمیان جو ایک رگ ہی صفحہ ۱۱۰۲ |

[illegible]

... دامن اٹھائے چلنا۔
ارفاہ (کسکفس) آسودہ اور تن
آسان رکھنا۔ پانی پر لے آنا۔
پانی کے پاس اونٹون کا قیام
کرنا۔ اونٹون کا تن آسان اور پانی
چاہنے سے سیر رہنا۔ ہر روز تیل
ملنا۔ ہر روز بالون مین کنگھی کرنی
آسودہ رہنا ہمیشہ ناز و نعمت مین رہنا
ارفت (فتح) کھیت کی ڈول۔
ارفتات (کسکفس) کٹ جانا۔
ریزے ریزے ہو جانا۔
ارفج (قسنف) چوپایہ جسکے دونون
سینگ اسکے دونون کانون کیطرف
جھکے آئے ہون اور دونون کشادہ ہون
ارفش (دغش) بڑے کان والا
ارفضاض (کسکفس) آنسو کا
بکھرا اور پریشان ہونا۔ بکھرا اور پریشان
ہونا ہر چیز کا چلنا۔ آنسو کا بہنا۔
ارفع (قسنف) جمع رفع (رنس) کی
ارفوع (قسنف) بل کھائی
ہوئی کھینچی کا اونٹ۔
ارفل (قسنف) جو اچھی طرح تیر
نہیں سکے نہ کوئی کام اچھی طرح کر سکے

ارفی (قسنف) جسکے بڑے بڑے
کان لٹکتے ہوے ہون۔
ارقی (مسنکت) ہرنی کا دودھ ...
ارفی (مسنکت) زمین کا پیمایش
کرنیوالا۔ اچھا دودھ ملائی۔
ارقیان (کسکسفس) ... ہو گیا
اور بیقرار اور آرام نکرنا۔ سست
اور ڈھیلا ہونا۔ غصہ کا دب جانا۔
ارق (فقف) رات کی بیداری رات
کو بیخواب اور بیدار رہنا۔
ارق (ذنک) آرق (رمک) ...
صیغہ لغت ہے۔
ارقانح (کسقسم) خشک اور ساکن
کر دینا۔ اوکھانا۔
ارقاب (کسفس) کسی کے ساتھ
... کر دینا۔ کسی کو رقبی یعنی گھر یا ...
ارقاد (کسفس) کسی کو سولا دینا۔
ایک جگہ مین اقامت کرنی۔
ارقاص (کسفس) پویہ دوڑانا
بچے کو کودانا اور کھلانا ریان کرانی
ارقاع (کسفس) حماقت کرنی
کپڑے کا قابل پیوند ہونا۔
ارقاف (کسفس) کسی کو جاڑے

بولتے ہین فلان محترق علیہ الارم
یعنے فلانا اوس پر دانت پیستا ہے
یا انگلیوں کے اطراف بہت
پتھر بہت سے کنکریاں —
ارم ما علی المائدۃ (ض)
یعنے کھا لیا جو کچھ کہ دسترخوان پر
تھا اور کچھ نہ چھوڑا —
وارم فلانا (ض) برم کیا اوسکو
وارمت السنۃ القوم
(ض) کھا گیا قحط نے قوم کو اور
کسی کو نہ چھوڑا —
وارم الشئ باندھا اوس چیز کو
وارم علی الشئ دانتون
سے کاٹا اوس چیز کو —
وارم الحبل مضبوط بٹا رسی کو
آرمۃ (محرکۃ) سال قحط —
آرماو (ض) زمین میں نیچ
درخت رہی ہوئی شاخ — لغوی جمع
ارمی (محرکت) کی —
ارمائ (ض) کسی کے نزدیک
ہو جانا جیسے ارمائ الیہ زیادہ
ہو جانا جیسے ارمی علی الخمسین زیادہ ہو جانا پچاس پر جیسے
ارمی علی الستین — ہاتھ سے
پھینکنا — باہر نکال دینا ہاتھ سے
اور دور ڈال دینا جیسے ارمت
بہ البلاد — نکال دینا —

رماث ارماث پرانی رسی کا
ارمات (ض) اونٹنی کے
تھنون میں دودھ باقی چھوڑنا —
جیسے ارمت فی الضرع ارماثا
زیادہ کرنا دوسرے کے حق سے یا کم
لینا — برم کرنا —
ارماح (ض) جمع رمح (ض) کی
کی یعنے نیزہ —
ارماح (ض) پھل لے آنا
نرم ہونا — تابدار ہو جانا — دانت
نکال لانا یا موٹا ہو جانا —
ارماد (ض) محتاج اور درویش
ہو جانا — قحط اور خشک سالی میں
آ پڑنا اور اون کی مواشی کا ہلاک
ہو جانا جیسے ارمد القوم گائے
بکری وغیرہ کا قریب بیانے کے تھن
چھوڑ دینا — جیسے کہتے ہین ارمدت
الناقۃ آنکھ کا دکھیا کر دینا —

رمی
رمح
رمس
رمن
رمث
رمخ
رمد

۱۴۵

مادہ

ارک ـ ارکب ـ ارکح ـ ارکز ـ ارکس ـ ارکش ـ ارکل ـ ارکب



ذمہ کر دینا جیسے ارک الامر فی عنقہٖ
اور صلہ اسکا فی ہے ایک مکان میں
اقامت کرنی جیسے ارک بالمکان
اور صلہ اسکا ب ہے۔
اَرَکَا ہے (سقسم) کسی کی بنا بگڑنی
جیسے ارکی الیہ صلہ الیٰ کسی کے
لیئے لشکر کو آمادہ کرنا جیسے ارکی
الیہم جنداً کسی کے ذمہ گناہ لگانا اور
برا کہنا جیسے ارکی علیہ ونیز ارکای
کام میں تاخیر اور درنگ کرنی مہلت دینی
اَرْکَابْ (سقس) سواری دینے
کے لائق ہونا بچھیرے کا سواری
کا قابل ہونا دینا۔
اَرْکَاحْ (سنعس) راہبوں کے گھر
اور جمع رکح (صنس) کی۔
اَرْکَاحْ (سقس) سہارا اور تکیہ لگانا
کسی کیطرف سہارا دینا۔ یا کسی کو ایک
کی طرف مضطر کر دینا جیسے ارکحہ الیہ
اَرْکَازْ (سقس) زمین میں رکاز کو
یعنی جو مال کان میں نکلے پانا یا خفیہ
کان کا صاحب رکاز ہونا۔
اَرْکَاسْ (سقس) پیچھے پھیر دینا
رد کر دینا۔ لڑکی کی چھاتیاں نکلنے لگنا

اَرْکَاصْ (سقس) عورت کے پیٹ میں
بچہ کا زندگ ہونا اور اسکا ہلنا اور پاؤں مارنا
جیسے ارکضت المرأۃ۔
اَرْکَاکْ (سقس) پھوار پڑنی جیسے
ارکت السماء زمین پر پھوار پڑنی
مجہولاً مستعمل ہے جیسے ارکت الارض
اَرْکَشْ (سنسق) بڑے زانو والا۔
اونٹ جسکا ایک زانو دوسرے سے بڑا ہو
اَرْکُوبْ (صنسعس) شتر سوار رکب کی جمع ہے
اَرْکُونْ (صنسعس) بڑا کسان
اُرْلَتْ (صنسق) سر ذکر کا غلاف کہ
ختنہ کے وقت کاٹتے ہیں
اَرَمْ (کف) علم و نشان کہ جنگل میں
راہ کے لیئے برپا کرتے ہیں یا خاص
نشان عاد کو کہتے ہیں۔ آرام (صفس)
اروم (صنفس) جمع۔
اَرَمْ (کمک) بمعنی ارم (کف)
اَرَمْ (کفف) کوئی۔ جیسے ما بہ ارم
یعنی نہیں اسمیں کوئی۔
اَرَمْ (رس) مال کا فنا ہونا۔
اَرَمْ واللہِ و ارما واللہ بمعنے
ارم واللہ اور ارما واللہ۔
اَرَمْ (فتسق) دانت بہت سے جیسے

مس
ارس
ارم
ـ
ـ

ارمل (فسفت) رنڈوا یعنے جسکی جورو نہو۔ محتاج مسکین بیچارہ۔ ارامل (فسفسک) ارامیل (ففسکس) اراملہ (ففسکف) جمع۔ سال بے باران یا سال کم نفع اور کم باران۔

ارملۃ (فسفف) بے خاوند عورت بیوہ۔ محتاج بیچاری۔ ارامل (ففسک) ارامیل (ففسکس) جمع۔

ارملوسۃ (فسفسف) محتاج مسکین

ارمولۃ الغرفح شاخ عرفج کا ایک ٹکڑا کہ بعد کاٹنے کے درخت سے رہگیا ہو۔ ارامل (ففسک) ارمل جمع

ارمی (فکفت وکفت وفسکت) یعنی ارم یعنی کوئی۔ بولتے ہین ما بہ ارم

ارم وارمی یعنے اوسمین کوئی نہین اور کوئی اثر و نشان نہین

ارمی (کفکت) اریمی (فسکت) علم اور نشان کہ جنگل مین راہ کے لیے قائم کردیتے ہین یا خاص نشان عاد۔ کوئی۔ بولتے ہین ما بہ ارمی

وما بہ اریمی یعنے اوس مین کوئی نہین اور نہ کوئی نشان ہے۔

ارمیز ارز (کسکفس) پھر جانا اور بدل جانا۔ جگہ سے دور ہونا اور ہٹ رہنا۔ جگہ کو لازم پکڑنا۔ لغات اضداد سے ہے۔ منقبض ہو جانا۔ لشکر کا ہلنا۔ حرکت کرنا۔

ارمیتاق (کسکفس) لاغری کے سبب ہلاک ہو جانا۔ رسی کا ڈھیلا ہونا۔ کام کا سست ہونا۔

ارن (فف) ارین (کفس) ارنان (کفس) شادمان ہونا۔

ارن (فک) اروند (فض) صیغہ

ارن (فس) ارن (دانتون سے کاٹنا)

آرنا (کسفس) بارایت دیکھنے پر معین کر دینا۔ نگہبانی پر مقرر کرنا

آزناف (کسفس) اونٹ کا چلا جانا۔ اونٹ کا سر کو ہلانا اور اوسکے سر کا پوست آگے کو آ جانا دوڑنا۔ جلدی کرنی۔ چوپائے کا کان کو تھکاوٹ سے لٹکا دینا۔

آزناق (کسفس) جھنڈے حملہ کرنے کے لیے ہلانا۔ جھنڈے کا ہلنا۔ پانی کو گدلا کرنا۔ آنکھ سے کنک کا نکالنا۔ ایک امر مین پریشان عقل ہونا اور ترک کرنا

بیجے (ارمدا لیہ عینہ)
ارحماس (کسفس) مرد کے گوز فن کرنا
ارحماس (کسفس) درخت کا
سبز ہونا۔ ہلانا۔ سستی کے ساتھ
بہت دیکھنا۔ آنکھ ارمی تھوڑے
سے آنسوؤں سے رونا۔
ارماص (کسفس) بہم زمین میں جانا
بکریوں کو کسی جگہ روانگی کرنا۔ الورم
چلانا جیسے ارمض الحر القوم گرمی
لوگوں پر سخت ہونا اور انکو ایذا پہنچانا
زمین کا دریت کا پاؤں کو جلانا
جبل ارزاق (رسی پرانی کرنا)
تیر ارماق (بفتحتین) رمق وغیرہ
ارماک (کسفس) دوسرے کو
ایک جگہ مقیم کرنا۔
ارمال (کسفس) روپے کو باریک
بننا۔ سر کو رگ خرما سے بننا۔
لوگوں کا توشہ نبڑ جانا۔ توشہ کو
نبیڑ دینا۔ رسی کو لعاب کرنا۔ تیر کا
خون میں آلودہ ہونا۔ عورت کا رانڈ ہونا
جبل ارمام پرانی گلی رسی
ارمام (کسفس) خرد ہونا
ہڈی کا گھاس میں ہونا۔ کھیل کی طرف

ارکل ہونا جیسے ارم الی الشئ
ہڈی کا گلنا۔
ارمد (فتستف) راکھی رنگ کا۔ وغیرہ
ارمد آنکھوں کا دکھنا۔
ارمدا د (کسفس) آنکھ کا دکھنے
آنا۔ آنکھ کا درد۔ راکھ کے رنگ کا ہونا
ارمش (فتستف) جسکے پپوٹے
سرخ اور انکی نسوجاری ہوں
ارمعلال (کسفس) بچے کے
منہ میں سے رال بہنی۔ کپڑے کا
تر ہونا۔ گرم بھنی ہوئی چیز میں سے
روغن ٹپکنا۔ جلدی کرنی۔ دوڑنا
فریاد وغیرہ مارنا۔ پوست کا اور
خوب تر ہونا۔ آنکھ سے آنسو ٹپکنے
اور انکا متفرق اور پراگندہ ہونا۔
ارمعنان (کسفس) آنسو کا بہنا
ارمعلال (کسفس) آنکھ
سے آنسو برابر ٹپکنے
ارمقاق (کسفس) پوست کا باریک
ہونا۔ سست ہو جانا۔ بکریوں کا مر جانا
ارمکاک (کسفس) نرم و لطیف
اور باریک ہونا۔ اونٹ کا لاغر و نزار
ہونا۔ اونٹ کا خاکی رنگ کا ہونا

اونٹ کے کھانے میں اقامت کرنی -
آرکۃ (ہمکف) صیغہ لغت ہے - اوارک
(فعلک) جمع - درخت کی جڑ -
سینگ کی جڑ -
اُرُوم (فعفس) عماد کی قبرین -
اُرُومُ الرّاس سر کی طرفین -
اَرُومَہ (فعفسف) درخت وغیرہ
کی جڑ - اروم (فعفس) جمع -
اَرُون (فعفس) زہر یا دماغ
قیل کہ یہہ بھی تنہا ہے - اعلان (فعفس) جمع
اُرُونَان (فعفس) آواز سخت
دن - ہر سر دان - لغات اضداد سے ہے -
اَرُونانیہ (فعفسف) سخت رات -
اُرُوِیَّۃ (فسکتف وکسکتف) پہاڑی
بکری - اراوی (فسکت) جمع قلت
یعنی افاعیل - اروی (فسف)
جمع کثرت -
اُرْباء (کسفسں) فراخ فرج کی عورت کو
نکاح میں لانا - کلنگ کھانے پر
ہمیشگی کرنی - جائے فراخ میں پہنچا -
کسی کے لیے طعام اور شراب بہشت
رکھنا جیسے اربی لہم الشراب والطعام
اَرْبَاث (کسفس) اوڑانا - لوٹنا

بیٹھنا - آستین کا لمبا ہونا - اونٹ کو
حوض سے روکنا -
اَرْبَاب (فسفس) پرندجانور
جو شکار نکرے -
اَرْبَاج (کسفس) گرد اوڑانی -
گھر میں حیوان بہت ہونا - غنچہ سے نکلنا
اَرْباص (کسفس) بیل کے تخم کا
گھسانا جیسے ارحص اللہ ارباصا
گارے کی دیوار بنانی - کسی کو
معدن خیر دینا خدا تعالیٰ کا - جکڑنا
ایک چیز کا آمادہ ہونا اور دوسرے کا قائم رہنا
اَرْباف (کسفس) تلوار کو تیلا کرنا
اَرْباق (کسفس) نافرمانی پر
برانگیختہ کرنا - نافرمانی میں پھنسنا
ایک چیز ایک چیز کے متصل اور
نزدیک کر دینا - نافرمانی کرنی -
تکلیف کرنی - طاقت سے سوا
کسی کو تکلیف دینی - نماز کو دوسری
نماز کے وقت تک تاخیر کرنی - نماز
سے جلدی کرانی کسی سے -
دشوار کرنا مشکل کرنا -
اَرْباض (کسفس) تو بہ ابا ندی ہونا
اَرْبان (کسفس) گروی کرنا

مادہ
ع ار
ع ارب
ع اربن
ع ارمن
ع رمک
ع رمح
ع رب
ع ربج
ع ربص
ع ربف
۱۴۹
ربق
ربم
ربن
۱۲

... کا بند ہلانا اور ہوا میں ثابت
... نیند کا آنکھ میں گھل مل جانا
ارجان (کسفس) فریاد کرنی
کان لگانا - کمان کا آواز دینا -
ارنب (فسف) خرگوش نر یا
مادین یا مادین ہی کو کہتے ہیں اور
نر کو خزز کہتے ہیں - اراپ
(فسکسبا) ارانب (فس) جمع چھوٹی
دم کا جنگلی چوہا - ایک قسم کا زیور
ارنباتی (فسفسکت) خز کا
کپڑا ایسا ہی مائل -
ارنبیتر (فسفف) طرف بینی -
یا مادین خرگوش -
ارنۃ (فسف) پنیر تر شراب
ایک دانہ ہے جس سے دودھ پنیر ہو جاتا ہے
ارثۃ المحراب - لکڑی میں
گرگٹ کے رہنے کی جگہہ -
ارندج (فسفف) کالا چمڑا -
ارنی (فسفف) الجنی ارانی (فسف)
ارواء (کسفسم) درخت را ہے
بہرا ہونا جگہہ کا -
ارواء (کسفسم) کسی کو شعر کی
نقل پر معین کرنا سیراب کرنا -

ارواح (کسفس) بو دریافت کرنی
شکار کا آدمی کی بو کو معلوم کر لینا -
ارواد (کسفس) نرم چلنا نرم سمجھنا
ارواع (کسفس) کبری کہ سمجھا کھانا
(فق فتح سے) کھا جانا اور یہہ ایک
کلمہ ہے جس سے بکری کو ڈانٹتے
ہیں مجہولاً مستعمل ہے جیسے اروع بالغنم
اروح (فسف) جو کہ چلنے میں
دونوں پانوؤں کو کشادہ رکھے
ارود (فسف) آہستہ کام کرنیوالا
اروع (فسف) کسی کو اپنے حسن
اور جمال سے تعجب میں ڈالدینے
والا - یا اپنی شجاعت سے - ارواع
(کسفس) روع (ضس) جمع -
اروق (فسف) گھوڑا جسکے
سوار نے نیزہ کو اوسکے دونوں
کانوں کے درمیان میں لینا رکھا ہو
جسکے دو اوپر کے دانت لمبے
ہوں - روق (ضس) جمع -
اروک (ضس) اونٹ کا اراک کو
چرنا اور اوسکو لازم پکڑنا اور اوس
میں اقامت کرنا کھانے کے لئے
یا اونٹ کا ہر درخت پر پہنچنا اور

ارنب
ارض
ارط
ارک
ارم
ارن
ارب
ارو

اراریس (فتحکس) اراریس (فتحکسکسج) جمع اریس
اور ارادیس (کسکس) ارِوس سکتین امیر
اَرِیش (فتسف) مرد جسکے دونون
کانون اور چہرہ پر بال ہون سست
رَحل اَرِیض مرد متواضع خیر
کے لائق - اور عَرِیض اَرِیض یعنی
چوڑا اتباع سے ہی اور اس معنی
مین بدون لفظ عریض کے نہین آتا
یا اَرِیض کے معنی موٹا جیسے جَدی
اَرِیض یعنی بکری کا بچہ موٹا -
اَرِیط (فکس) مرد جسکے فرزند نہوتا ہو
اَرِیکہ (فکسف) تخت کہ بیاہ والے
گھر مین ہووے - ہر چیز کہ جسپر تکیہ
لگاوین اور بعضے تخت ہو یا منقش ہو
یا فراش ہو یا آراستہ تخت کہ گنبد
مین ہو یا گھر مین یعنے اگر گھر یا گنبد مین ایسا تخت نہو
تو اوس گھر اور گنبد کو حجلہ کہتے ہین
اریک (فکس) ارائک (ففسک) جمع
اَرِیکَۃ الجُرح زخم کا گوشت صحیح
سرخ کہ پیپ جاتے رہنے کے
بعد ظاہر ہووے -
اَرِیم (فکس) کوئی - بولتے ہین
مَا بِہا اَرِیم یعنے اوس مین کوئی نہین
یعنی نہ کوئی اثر اور نشان ہی -
اُرین (ضکس) ہدر - مکان -
اِرین (کفس) ایک دانہ ہی کہ
دودہ کو پنیر بنا دیتا ہی -
اُرینیہ (ضفسکف) ایک گھاس ہے
یعنی گھاس کے مشابہ -
اَزّ یو ارفس (فا) بکریون کو پیشاب
بھر کر چرانا - بزدل ہونا اور اپنے
مطلب سے باز رہنا جیسے اَزَّ اَزَّ
عَن الحاجۃ و ملیۃ عن -
اَزّ (فت) رگ کا کودنا - زخم اور دل
وغیرہ کی لپک - جماع - آدمی کو
خوب دوہنا - پانی گرانا - پانی کو
جوش دینا - برانگیختہ کرنا - بھڑکانا
ورغلانا - اور باب نصر ینصر سے آتا ہی
اَزّ (فت) اَزِیز (فکس) اَزاز
(ففس) (ن ص) ہانڈی کا خوب
جوش مین آنا - آگ کو بھڑکانا - ابر کا
دور سے آواز کرنا - ایک چیز کو حرکت
دینی آمیختہ کرنا -
یَوم اَزّ (فک) بہت گرم دن -
اَزّ اَزّ (فکسم) پیٹ کا پر ہونا
اتنا کہ حرکت نکر سکے -

151

۹ ازز
۱۰ ازی
۱۱ ازہی
۱۲

جیسے ارشد الشی ابرا تاتا ثابت اور
دائم رکھنا۔ سست کردینا قیمت
پہلے دیدینی یا اسباب کی قیمت کو
مہنگا کردینا جیسے ارض فی السلعۃ
ارہم (سفت) بہت فراخ
ارسی (نعت) (ربی من) غصہ کرنا
بولتے ہیں ارسی صدرہ علی یعنے
مجھ پر غصہ کیا۔
اری (سنس) گھر میں تہ دیگی
شہد۔ یا شہد کہ اسے زنبور اپنے
پیٹ میں جمع کرے بعد باہر نکالنے
یا شہد جو اطراف خانۂ زنبور میں لگا
رہجاوے۔ شبنم۔ یا نم جو درخت پر
پڑی ہو۔ کھانے کے وقت جو
ہاتھ اور منہ سے گرے اور اسے
سیفاختہ (صفست) بھی کہتے ہیں
اری السحاب بوندا باندی
اری الریح ہوا کا ابر کو ہانکنا۔
اری (رمس) (رمی س) ہانڈی کا
جلنا اور کھرچن لگجانا۔
اری (رمن) (رمی) چوپایونکا
آپس میں اکٹھا ہونا اور الفت کے
ساتھ ایک جگہ چارہ کھانا۔

اری (رملت)، آریۃ (رملتف) کھونٹا
آخیہ (رملت) کہ جس سے چوپایہ کو
باندھ دیتے ہیں اور بمعنی مختلف جو
کتب فقہ میں آیا ہے مجاز ہے۔
آداری (فعسنک) جمع۔
ارتیاء (سنفضم) زمین پر نیزہ مارنا
اریب (فکس) عاقل۔
اریبۃ (ملسف) جیسے قدر اریبۃ
یعنی فراخ شکم کی ہانڈی۔
اریث (فکس) آگ۔
اریحی (فسنکلت) خوش خو۔
اریحیۃ (فسنکلتف) خوش خوی
شادمانی۔ خوشدلی جو احسان کرنے
سے حاصل ہو۔
اریر (فکس) قمار اور غلبہ کے وقت
اشتہار کرنے والے کی آواز یا مطلق آواز
اریز (فکس) شبنم جو اندھیری
راتوں میں زمین پر پڑے۔ قوم کا
سردار۔ یوم اریز ٹھنڈا دن۔
اریس (فکس) الیسی کی (سکت)
اریس (کتنکس) کسان۔
اریسین (فمسنفس) اریسون
(کتنکسفس) ارارستہ (فقسنکف)

ازاُٹی (فسفکت) نیزہ جو یزن کیطرف منسوب ہے کہ ایک ملوی ہے اسلیئے یزاُٹی بھی کہتے ہین —

ازبّ (نفقت) آدمی اور اونٹ بہت بالون والا۔ فراخی اور ابتدائی کا سال باریک سرے کا نیزہ —

ازبّ (کس) ٹھنگنا تیار آدمی عقلمند اور ہوشیار۔ لئیم۔ بدصورت دبلا۔ پتلے جوڑونکا جسکا پیٹ اور اسفل بدن موٹا ہووے اور ہتھیلیان باریک ہون۔ اور ازب میزوزن حسب جاری ہونا —

ازسید (فک) ازیب (کس) طویل آہ

ازب (فس) (ن م) پانی کا جاری ہونا

ازب (فف) اونٹ کا جوگالی نکرنا۔ ایک چیز کا سخت ہوجانا —

آزبا (کسفسم) لادنا —

ازبّاب (کسفس) ڈوب جانیکے قریب ہوجانا آفتاب کا۔ انگور نشتی میں ہوجانا

آزباد (کسفس) جھاگ لے آنا دریا وغیرہ کا۔ درخت کتار کا شگوفہ لے آنا

آزبار (کسفس) بزرگ جثہ ہونا زبر ہونا۔ ولیسد ہونا —

اُزبتہ (فسف) شدت و قحط

اُزبتہ (فکف) دبلا اونٹ —

اُزبّر (فسف) بڑے کندے کا مرد اور موذی کوئی شئی ہو —

اُزبی (فسکت) شتاب زدگی۔ شادمانی۔ تنگی۔ رفتار مختلف۔ شر اور بدی۔ امر عظیم —

اُزبیراء (کسکفس) بدن پر بال کھڑے ہونے۔ کتے کے بال کھڑے کرنے۔ پشم اور رونگٹا کا ہو اور گنا۔ شر و بدی کے لیئے آمادہ ہونا

اُزجّ (فک) ہجرت کرنیوالا —

ازج (فس) (ن) جب کسی سے مدد مانگیں اوسکا کاہلی کرنا جلیے

اُزج عجمی —

اُزجّ (ففت) لمبے قد کا شتر مرغ۔ زج (کت) جمع۔ وہ جسکی بھونون آنکھون پر سپیدی ہو بسیار یک اور لمبی بھون کا مرد —

آزجا (کسفسم) ہانکنا۔ دفع کرنا دور کرنا۔ بسر کردینا —

آزجاج (کسفس) لوہے کو نیزہ کی جڑمین لگانا —

مادہ

ف ز ب

ف ز ب

ف ز ب

ف ز ب

ف ز ب

ف ز ب

ف ز ب

ف ز ب

۱۵۳

ازب

زب

ازج

[illegible]

۱۵۲

اَزْرَاء (کفسم) مقابل ہونا برابر ہونا
[illegible] عیب لگانا [illegible] اور
[illegible] کی زیادتی کا [illegible]
[illegible] کی گردن جیسا ہوا [illegible]
[illegible] اور چھوڑ دینا اور حرام کا ہو رہا
کہ حوض اور جام کی حفاظت کے لئے
ہو وے - یا حوض میں پانی گرنے
کی جگہہ - اقران اور ہمسر -
اَزْرَاء (کفسم) مقابل ہونا برابر ہونا
[illegible] جو کہ جنگ میں [illegible]
ازواج الناس اقسام انسان
اَزَاحۃ (کفسف) [illegible] جانا
اَزَاحۃ (کفسف) کام کو تمام
کرنا - انجام کو پہنچانا
اَزَاحۃ (کفسف) ایک چیز کو اسکی
جگہہ سے دور کرنا - حائل کرنا -
اَزَاحۃ (کفسف) دور کرنا - یکسو کرنا
اَزَادۃ (کفسف) توشہ دینا -
اَزَاد (فضس) ایک قسم کا خرما -
اَزَاس (کسمس) ہر چیز کا [illegible] -
اَزَار (کفس) جامہ - تہبند [illegible]
کبھی مونث بھی آتا ہے جیسے ازارہ
[illegible]

ہر چیز کہ جس کو ڈھانک لیوے [illegible]
کا [illegible] نفس [illegible]
اَزَار (کفسک) اَزَار (کفسک)
ایک کلمہ ہے جس سے بکری کو دوہنے
کو بلاتے ہیں -
اَزَارۃ (کفسف) زیادہ پر انگیختہ کرنا
اَزَاحۃ (کفسف) پچھیڑا -
اَزَاق (کسمس) [illegible] کو ملانا
کسی کو [illegible] کے پیٹ کا [illegible] کرنا
[illegible]
اَزَالۃ (کفسف) دور کرنا جگہہ سے [illegible]
اَزَالۃ (کفسف) ازال (کفس)
جگہہ سے دور کرنا -
اَزَام (فضسک) بفتحتین قحط
قحط کا سال -
اَزَام (فضس) ایک چیز کا لازم [illegible]
اَزَام (کسمس) اپنے مرضی [illegible]
ایک کام پر [illegible] کرنا جیسے ازام [illegible]
[illegible] الامر زخم کی آلایش کو نچوڑ کر
نکالنا تاکہ پوست جھٹ جاوے اور
خون اور [illegible] خشک ہو جاوے یا زخم
کی دعا کرنی تاکہ اچھا ہو جاوے -
اَزَانۃ (کفسف) آراستہ کرنا -

[illegible] ۱۲

ادچک سے لے جانا۔
اِزْدِقام (کسکفس) نگلنا۔
اِزْدِکام (کسکفس) لینا۔
اِزْدِکاک (کسکفس) سیراب ہونا۔
اِزْدِلاب (کسکفس) اوچک لیجانا
اِزْدِلاع (کسکفس) حیلہ اور فریب سے اوچک لیجانا۔ اپنے حق میں کا ایک ٹکڑا جدا کرنا۔
اِزْدِلاخ (کسکفس) پوست کا چلجانا
اِزْدِلاف (کسکفس) پیشی کرنی آگے آنا۔ متفرق ہونا۔ نزدیکی۔ نزدیک ہونا۔ نزدیکی ڈھونڈھنی۔
اِزْدِلام (کسکفس) جڑ سے ناک کاٹ ڈالنی۔ سر کاٹ ڈالنا۔
اِزْدِمال (کسکفس) اوٹھانا یا ایک بار اوٹھانا۔
اِزْدِمام (کسکفس) تکبر کرنا بھیڑئے کے بچے کو اوسکا سر اوٹھائے ہوئے لیجانا۔
اِزْدِواج (کسکفس) آپسمیں جفت ہونا۔ آپسمیں قرین اور ہمنشین ہونا۔
اِزْدِوار (کسکفس) ازدیار (کسکفس) زیارت کرنی۔

اِزْدِہار (کسکفس) کسی کو سہل اور سبک کہنا۔ تکبر کرنا۔
اِزْدِہاب (کسکفس) اوٹھانا۔
اِزْدِہاد (کسکفس) کم گننا۔
اِزْدِہار (کسکفس) چہرہ کا چمکنا اور روشن ہونا۔ ایک چیز کا نگاہ رکھنا۔ ایک چیز سے شادمان ہونا۔ دل سے نگاہداشت کرنی۔ ایک چیز کو دل میں رکھنا۔ اپنے یار کو ایک کام میں کوشش کرنے کے لیئے حکم فرمانا۔
اِزْدِہاف (کسکفس) اوٹھانا۔ پھر جانا۔ خواہش کرنی۔ منہہ پھیرنا۔ سرعت کرنی۔ کسی کو آہستہ لیجانا۔ سرعت کرانی۔ دشواری اور سختی میں گھس جانا۔ جھوٹ بولنا۔ تکلف سے بات میں بڑھنا۔ ایک چیز کو لیجانا۔ ہلاک کرنا۔ بات میں سختی اور درشتی کرنی۔ آواز کا بلند کرنا۔ کلام سے کسی کے کلام کو باطل کرنا۔ دشمنی اختیار کرنی۔ چوپایہ کا سوار کو اگرا دینا۔ موت کے قریب پہنچنا۔
اِزْدِناب (کسکفس) مشک کو اوٹھا کر تیز چلنا۔ اپنی طاقت کے

مادہ

[illegible]

۱۵۸

ازجرار (سنف) اونٹ جسکی کہ رگ کے
تکون مین تنگی اور پریدگی ہو
بیماری کے سبب پیچھے کہ رہ سے
ازجمر (سنف) اونٹ جو آواز نکرے
یا آواز کو بلند نکرے ۔
ازحجی (سنف) ناقد اور سیاتر ۔
ازحاف (کسفس) کسی کے لیئے
حف ہو جانا جیسے ازحف لنا ہو
فلان سے اپنے نہایت مطلب پہنچ جانا
اونٹ کا تھک جانا ۔ کہتے ہین
اور تھکے اونٹ کا مالک ہونا ۔
ازحاک (کسفس) تھکے ہوئے
اونٹ کا مالک ہونا ۔
ازحال (کسفس) کسی کی طرف
مضطر کرنا ۔ دور کرنا ۔
ازحلفاف (کسکفس) دور
ہونا کنارہ قبول کرنا ۔
ازخرش (سنف) بیل ۔
ازخاف (کسفس) ابکر کرنا ۔
ازخام (کسفس) گوشت کا خراب ہو جانا
ازدہاء (کسفس) احسان کرنا ۔
ازدوار (کسفس) پھیر دینا اور ضد کر
انداز بھی کہتے ہین ۔

ازدراف (کسفس) اسکا تاریک ہونا ۔
ازدہام (کسفس) ڈرنا ۔
ازدبار (کسفس) اولاد کے پیچھے سے نکلنا
ازدباب (کسفس) مشک کا بڑا ہونا
ازدحاف (کسکفس) کسیکی طرف جانا
ازدحام (کسکفس) کسی پر ہجوم
کرنا اور جمع ہو آنا ۔
ازدخام (کسکفس) بوجھ کو لوٹھانا
ازدرار (کسکفسم) کسی کو حقیر گننا
اور کم گننا کسی کا عیب بیان کرنا
ازدراع (کسکفس) بیج بونا ۔
ازدلاع (کسکفس) نکلنا ۔
ازدران (کسکفس) دونون کندھا
ازدعاب (کسکفس) قطع کرنا
اونٹون کا بوجھلون کی طرح چلنا
یا اونٹ کا بوجھ کو دفع کرنا اور دور کرنا
ازدعاف (کسکفس) جلکہ سے مارنا
ازدفات (کسکفس) تمام لینا
ازدفار (کسکفس) ایک چیز کو اوٹھا لینا
ازدفاف (کسکفس) بوجھ اوٹھانا
دولھن کو خاوند کے گھر بھیجنا
ازدقاف (کسکفس) ایک چیز کو
ہاتھ مین لینا اوٹھانا ۔ جلدی سے

ٹیڑھی ہوا اور چہرہ ہموار ہونا۔
اَزْعَاج (کسفس) جگہہ سے اوکھا ڈالنا بے آرام کرنا۔
اَزْعَاف (کسفس) کسی کو اوسکی جگہہ پر مار ڈالنا۔ گھائل کو مار ڈالنا۔
اَزْعَاق (کسفس) ہانڈی مین بہت نمک ڈالدینا۔ زمین کھودنی اور نکالنا کھاری پانی پر جا پہنچنا۔ جلدی چلنا جھپٹ کر چلنا۔
اَزْعَال (کسفس) کسی کو نشاط مین لانا۔ کسی کو اوسکی جگہہ سے اوکھاڑ ڈالنا۔
اَزْعَام (کسفس) امیدوار کرنا۔ حریص کرنا۔ فرمان برداری کرنی کلام کا قابو دینا۔ دودہ کا پہلے سے اچھا ہونے لگنا۔ زمین کی اول روئیدگی نکلنا۔
اَزْعَر (فسف) پتلے بالون والا۔ زُعْر (ضس) جمع۔ پریشان اور پتلے بال۔ جگہہ کم چارے کی۔
اِزْعِرَار (کسکفس) کم ہونا اور پراگندہ ہونا بالون کا۔
اَزْعَکِی (فسفکت) کمینہ ٹھگنا۔
اِزْعِیرَار (کسکسفس) بالون کا کم اور پراگندہ ہونا۔

اَزْعَل (کسکس) شادمان۔
اَزْغَاب (کسفس) بعد سیرابی اول پانی جاری ہونیکے انگور کے درخت کا پتے لانا۔
اَزْغَاد (کسفس) اسکو دودہ دینا۔
اَزْغَال (کسفس) بار بار اونٹ کا پیشاب کرنا۔ پانی وغیرہ کا گرانا مرغ بچہ کو دانا دینا زخم کا خون دینا۔
اَزْغَب (فسف) بڑا انجیر چھوٹی ککڑی ابلق گھوڑا۔ پہاڑ جسکی سپیدی سیاہی مین ملی ہوئی ہو راکھی رنگ کا اونٹ۔ زُغْب (ضس جمع)
اِزْغِبَاب (کسکفس) چوزہ کا چھوٹے زرد بال نکال لانا۔
اِزْغِیبَاب (کسکفس) بمعنے اِزْغِبَاب
اَزَف (ففت) تنگی۔
اَزَف (فف) (س) عیش اور زندگانی کا بھاری ہونا۔
اَزِف (فکت) اُزُوف (ضضس) (س) کوچ کا وقت نزدیک ہونا۔ عجلت کرنی۔ دوڑنا۔ آزِف (فکس) صیغہ لغت ہی قلیل ہو جانا۔
اَزَف (ففت) شتر مرغ بہت زرف دار۔

ماده
نف عج
سف زعف
سف زعق
سف زعل
عف زعم
عف زعر
عف زعک
عف زعل
عف زغب

157

زغد
زغل
زغب
ازف
زفف

۱۲

[illegible] بوجھ اوٹھا کر دوڑنا —
ازرنیات (کسکفس) ہیئت نکتا
ازاحوا ور (کسکفس) زیادہ ہونا
ازمعال (کسکفس) جگہہ سے دور [illegible]
ازمیلن (کسکفس) آراستہ ہونا —
ازر (فتس) احاطہ۔ قوت ضعف
نجات امداد سے ہی اعانت۔ پیٹھہ
ازر (فتس) ازار باندہنی کی جگہہ —
ازرکس (ک) اصل وچادر —
ازدرمعا (م) گھوڑا جسکی دونون
رانین سفید ہون اور اوسکے پاؤن
سیاہ یا اور رنگ کے ہون —
ازرای (کسفسم) عضر کرنا عتاب
کرنا۔ کسی کا عیب بیان کرنا کسی کا
عیناک کرنا۔ کسی کو ذلیل اور خوار
رکھنا اور حقیر گنتا —
ازرار (کسفس) ٹڈی کا انڈا
دینے کے لیئے دم زمین میں گھسانا —
ازراع (کسفس) کھیتی کا لینا
ہونا۔ لوگون کا کھیتی پر قدرت پانا —
ازراف (کسفس) زرتافہ خریدنا
سرعت کرنی اونٹنی کی۔ برانگیختہ
کرنا۔ سرعت کرانی۔ آگے آنا —

ازراق (کسفس) آنکھہ کا پھرنا
اور اوسکی سپیدی کا ظاہر ہونا اونٹ
کا اپنے بوجھہ کو پیچھے ڈالدینا —
ازرام (کسفس) کسی شے کے پیشاب
کو قطع کردینا کسی کی بات کو قطع کردینا
ازرباب (کسکفس) گھاس کا زرد
ہونا یا سرخ سبزی آمیز ہونا —
ازرۃ (کسف) ازار پوشی کی ہیات
ازرق (کسف) گربہ چشم نابینا
زرق (ضس) جمع۔ نہایت صاف —
ازرقاق (کسکفس) آنکھہ کا
پھرجانا اور زرد ہوجانا۔ پیکان کا
صاف ہوجانا —
ازرم (کسف) بلی —
ازرنقاف (کسکفس) دوڑنا —
ازریقاق (کسکفس) بمعنے ازرقاق
ازرزمام (کسکفس) پیشاب کا
منقطع ہونا اور رک جانا۔ بچے کا
پیدا ہونا۔ سکڑا ہوا ہونا —
ازرزف (فت) مجلس کی پرپی اوسکی
تنگی۔ مجلس پر کثیر الازدحام مجاتا
کثیر۔ لوند جیسے بولتے ہیں جنکا مہینہ
ازرط (ففت) مرد جسکی ٹھوڑہی

[illegible]

ازل (فف) ہمیشگی زمانہ جسکا
شروع نہیں۔ ازلی ہمیشہ رہنے
والا۔ ازل کیطرف یا اصل میں یہ لفظ
یزلی تھا لم یزل کی طرف منسوب
تے کو ہمزے سے بدل لیا جیسا کہ
ازنی یعنے ذی یزن کیطرف منسوب
ہی کہ سلاطین یمن میں سے تھا۔
ازلاج (کسفس) دروازے کو بند کرنا
ازلاع (کسفس) ایک شخص کو
ایک چیز کے لینے کے لیے طمع میں ڈالنا
ازلاف (کسفس) ایک چیز کو نزدیک کرنا
ازلاق (کسفس) پھسلانا۔
اونٹنی وغیرہ کا بچہ ڈالدینا۔ کسی کو
تیز نظر سے دیکھنا۔ بال مونڈنے
ازلال (کسفس) پھسلانا۔ کسیکو
اوسکے حق میں سے کچھ دینا۔ نعمت
دینی۔ کسی کو گناہ پر برانگیختہ کرنا۔
ازحفاف (کسکسفس) یکسو ہونا
دوری قبول کرنی۔
ازلعباب (کسکسفس) ابکا کا زیادہ
اور دراز ہونا۔ سیل کا بہت ہونا
اور تدافع کرنا۔
ازلغباب (کسکسفس) بعد مونڈنے

سکے کیلوں کا اوگ آنا۔ چوزے
کے پر نکل آنے
ازلیمام (کسکسفس) چاشت کا
بلند اور روشن ہو جانا۔ جلدی پھر جانا
کوچ کرنا۔ ایک چیز کا قائم ہونا۔ بیت
چڑھ آنا دن کا۔
ازم (مس) ایک قسم کی گندہی بو ٹی
ازم (فکس) ازوم (فتفس)
(مش) سارے دہن سے سخت کاٹنا
ازم (رمک) ازوم (فتفس) صیغہ لغت ہے
گھوڑے کا لگام کو دانت سے
پکڑنا۔ کچلی سے کاٹنا۔ چھری سے
کاٹنا۔ ایک چیز سے رک رہنا۔
مسلسل اور سخت کھانا چھوڑ دینا۔
کھائے پر نہ کھانا۔ خاموشی۔ قحط کا
سخت ہونا۔ قوم کو جڑ سے اوکھاڑ
ڈالنا۔ لازم پکڑنا۔
ازم (رمک) کچلی۔
ازم (فتفس) سمجھانا چیز کا غصے ہونا
کسی کی نسبت کسی پر۔
ازماع (کسفس) خرگوش کا دوڑنا
گھاس کا برابر ہونا۔ گرہ انگور کا
پڑا ہونا کہ خوشہ انگور کے نکلنے

مادہ
ل ف ازل
ح ف زلج
ع ف زلع
ف ف زلف
ق ف زلق
ل ف زلل
ف ف زحف
ب ف زعب
ب ف زغب
159
م ف زلم
م ف ازم
ع ف زمع
127

ازرق (فس) اس مرض کی آنکھ کا سفید ہو جانا۔

ازفاحر (کسفسم) ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنا۔

ازقاف (کسفس) سرعت پر برانگیختہ کرنا۔ سرعت سے ہانکنا۔ دفع کرنا۔ دلھن کو خاوند کے گھر بھیجنا۔ شتر مرغ کا تیز چلنا یا دوڑنا شروع کرنا۔

ازفتہ (کفم) قیامت۔

ازفل (فسف) غصہ۔ تیزی۔

ازفلتہ (فسفف) جماعت۔

ازفلتہ (کسفف) تنگی عقل۔

ازفلی (فسف) ہر چیز کی جماعت۔

ازفی (فسف) سرعت نشاط۔

ازق (فف) تنگی۔

ازق (فف وفس) اس مرض سینے کا تنگ ہو جانا یعنی مغموم ہو جانا یا جنگ میں تنگ آ جانا۔

ازقام (کسفس) زقوم کھلانا یا تمام ہے۔

ازقان (کسفس) بوجھ اٹھانے میں کسی کی مدد کرنی۔

ازکاء (کسفسم) بڑھانا پھیلانا یا کثیر کرنا۔

ازکاع (کسفس) مشک کو پر کرنا۔ چھینا۔ کسی کو بات یاد دلانی۔

ازکاک (کسفس) ایک چیز پر اصرار کرنا۔ جھگڑنا۔ کسی پر غالب ہونا۔ پیشاب کو روکنا۔

ازکام (کسفس) زکام میں مبتلا ہونا۔

ازکان (کسفس) جاننا۔ دریافت کرنا۔ آگاہ کرنا۔ ایک چیز کو گمان سے کہنا اور درست نکلنا۔

ازکن (فسف) بڑا ہوشیار دانشمند۔

ازل (ففت) مرد سریع اور شتاب جو کہ پیشانی پر شکستگی کا اثر رکھتا ہو۔ ہلکے سرین کا مرد۔ دبلے سرین کا بھیڑیا جو کفتار اور بھیڑئیے سے پیدا ہو۔

ازل (فس) تنگی۔ قحط سالی۔ روکنا۔ گھوڑے کی رسی کو کوتاہ کرنا اور اوسکو چھوڑنا اونٹوں کو ڈر یا قحط کے سبب چراگاہ کیطرف نہ چھوڑنا۔ قحط سالی میں آ جانا۔

ازل (فک) سخت۔ ازل الحک ازل انح قحط بہت سخت بلفظ مبک کے بولتے ہیں۔

ازل (کس) جھوٹ۔ بلا۔

ازنا د (کسفسم) کسی کیطرف ملتجی اور مضطر کرنا اوپر لیجانا ۔ عکد دینا ۔
ازنا د (کسفس) زیادہ کرنا ۔
ازناق (کسفس) نفقہ مین اپنے عیال پر تنگی کرنی ۔
ازنا م (کسفس) درخت کا شگوفہ نکال لانا
ازنان (کسفس) کسی مین نیکی یا بدی کا گمان لیجانا تہمت لگانی ۔
ازور (مس) (رن) سایہ کا کم ہونا اور سکڑ جانا ۔
ازوا د (کسفسم) آنا در حالیکہ دوسرا اسکے ہمراہ ہو ۔
ازمج (ضفس) (رن س) عشرت کرنی و دوڑنا ۔
ازوح (ضفس) سرکش بیکار سے تخلف کرنے والا ۔
ازوح (ضفس) (رض) منقبض ہونا اور سکڑنا ۔ توقف و تاخیر کرنی ۔ پیچھے رہجانا سیا تون کا پھسلنا رگ کا حرکت کرنا تڑپنا ۔
ازور (سفف) شکستہ مائل کج جسکے سینہ کی ایکجانب ابھری ہوئی ہو اور دوسری اندر کو گھسی ہوئی ہو

زور (ضس) جمع ۔ باریک سینے کا کتا ۔ کن انکھیون سے دیکھنے والا ۔ ایک چھت کا دالان ۔
ازورار (کسکفس) ایک چیز سے پھر جانا ۔ پھر بیٹھنا ۔
ازوبش (فسفت) متکبر شیخی باز ۔
ازوف (ضفس) (رس) نزدیک آجانا وقت کسی کام کا ۔
سنتہ ازول سخت سال ۔
ازل (ضس) جمع ۔
ازولال (کسکفس) جگہہ سے دور ہونا
ازوم (ضفس) کجلی ۔ ازوم (ضفس) جمع ۔ ایک چیز کو لازم پکڑنا ۔
ازویرار (کسکفس) یعنی ازورار
ازہاء (کسفسم) ناز کرنا ۔ کھجور کا لینا ہونا کھجور کے خوشہ کا رنگین ہونا کچے پھل کا رنگین ہونا ۔ رنگین پھل والا ہونا درخت کا ۔
ازہاد (کسفیس) اندازہ کرنا ۔
ازہار (کسفس) آگ روشن کرنی گھاس کا شگوفہ نکال لانا ۔
ازہاف (کسفس) شر و فساد لگوا لینا نیزہ کو کسی کے قریب کرنا جیسے ازہف

مادہ
زرج
زرف
زرن
زعم
زرق
زنخ
زمح
زہج
زہج
زور
زرد
۱۶۱
ازق
ازل
زول
ازم
نور
زہو
زہد
زہر
زہف

ماده

ازل
ازنقل
ازمی
ازنع
ازہا
ازحو
ازنعی
ازدل
ازنی
ازدل
ازنام

کی جگھہ ہی - ایک کام میں ثابت قدم
رہنا - ایک کام کا عزم کرنا
ازمال (کسکفس) کپڑے کو
پہننا اور یعنی لپٹنا -
ازماتن (فسقس) ازمن (فسقس)
جمع زمن (فف) کی -
ازماتن (کسفس) کسی پر زمانہ کا آنا
انکار کرنا - ویران ہونا -
ازمتر (فسقف) بڈھا ہونا - بڑا باوقار
پیٹ بھر کر ایکبار کھانا - سختی قحط -
ازم (فس) ازم (کف) جمع -
ازمتہ (فسقف) ازمتر (فکف)
ازومتہ (فقسقف) قحط ناک سال -
ازمتہ (فکف وفقف) سختی قحط -
ازم (کف) جمع -
ازمتر (فکف) کچلی - اوازم (فقفسک) جمع
ازمجر (کسکفس) شور و فریاد کرنا -
ازمخر (کسکفس) آواز کا بہت کھینچنا
ازمع (فسقف) چھانگا - بلا امر
تفتیح - ازاہع (فقفسک) جمع -
ازمل (فسقف) آواز سیاہ آواز مختلط
یا آواز جو چوپایہ کے ذکر کے خلاف
سے نکلے - ازامل (فقفسک) ازامیل

(فقسکس) جمع سب -
ازملتہ (فسقف) بہت کمانگی آوازہ
ازمنتر (فسکف) جمع زمانہ -
ازمول (فسقس) ہرن گورن
آواز کرنے والا -
ازمول (کسفس) یعنی ازمول (ز فسقس)
ازمولتہ (کسفف) یعنی ازمول -
ازمہرار (کسکفس) ترش رو ہونا
نہایت سرد ہونا دن کا - ستاروں کا
چمکنا - آنکھ کا غصہ سے سرخ ہونا -
ازمہلال (کسکفس) مینھ کا
برسنا - برق کا گلگر ہونا -
ازمتات (کسکسفس) رنگ متغیر ہونا
ازمیرار (کسکفس) بہت غصہ ہونا -
ازمیکاک (کسکفس) بہت غصہ کرنا
ازمیل (کسکس) اپنی لوہے کا
ٹکڑا کانسے کے شکار کے لئے جو
نیزہ میں لگاویں - لوہاروں کا ہتھوڑا
سخت و قوی مرد - سست اور ضعیف
مرد - لغات اضداد سے ہی -
ازمیم (کسکس) چاند کے گھٹنے
کی راتیں خصوصاً ۲۷ سے ۲۹ تک -
آخر مہینے کا چاند -

مادہ

آل بہت پانی۔
اُزَیبٌ (کسفت) زہار بزرگ۔
اُزَیبَّۃ (کسفقف) بخیل عورت۔
اَزَیتۃ (فکتف) اونٹنی کہ سواء
ازاء کے کھین پانی نہ پیوے۔
اَزیز (فکس) سردی سرد۔
شدت سیر۔ بجلی کی کڑک۔ ہنڈیا کی آواز
اَزَیع (فکس) نفرت۔ کینہ۔
اَزِیم (فسف) اونٹ جو آواز نکرے
اَزیَن (کنفتف) ازیَنان
(کسکفس) ازیَنیان جمع سفر
آراستہ ہو جانا۔
اُسّ (مس) ایکدرخت ہی۔
آستہ (مسف) ایک یعنی تاء وحدت
ہی۔ آتشدان مین بقیہ راکھ۔
شہد یا زنبور خانہ مین شہد کا بقیہ۔
قبر۔ ہمراہ صاحب۔ گھر کے آثار۔
ہر نشان خفی۔ اسایا (فقسفس)
اسایون (فسفسس) جمع۔
اُسّ (ضت) آتشدان مین راکھ کا
بقیہ۔ دل انسان اس لیئے کہ رحم
مین یہی اصل عتا ہی۔ نشان۔
خذ اُسّ الطریق اوریہ سب اُس وقت
بولتے ہین کہ نشان قدم یا مینگنی گوبر
لید سے علامت جانے والے
کی پہچانی جاوے اور جب کہ راہ
واضح اور روشن ہووے تو اوس وقت
خذ شَرَکَ الطریق بولتے ہین
ایک کلمہ ہی کہ سانپ کو کہتے ہین اور
وہ اس سے نرم اور تابعدار ہو جاتا ہی
اُسّ (ضت وفت وکت) بنیاد
اصل۔ اساس (کفس) جمع
ہمیشگی۔ اول زمانہ۔
اَسّ (فت) (ن) بکری کو لفظ
اَس اَس سے ڈانٹنا۔ گھر کی نیو
رکھنی۔ غصہ دلانا۔ تباہ وخراب کرنا۔
اُسّاء (کفسم) جمع آسی (مک)
کی ہی بمعنے طبیب
اُسَّار (کسمس) کمان کے لیئے گوشہ بنانے
اُسّاءَۃ (کفسف) تباہ کرنا۔ کسی
کے ساتھ بدی کرنی۔
اُسّاء الدِّماء خون کے رستے
اسباوۃ (کسفسف) ایک رستہ۔
تاء وحدت ہے۔
اُسّاحۃ (کفسف) جاری کرنا گھوڑے
کا اپنی دُم کو نیچے ڈال دینا۔

رفِ زیب
ع ف زی
ع ف ز ز
ع ف زیع
ف ف زیم
ع ف زین
[illegible]
ع ص ح
ع ص م ا
[illegible]



لا سو
ل سی
ل سیح
١٢

۱۲
۱۶۲

البیا لطعنة چھوٹی بات کہنی جیسے
ازہف لہ سعدیتا کسی کو جلدی سے
مار ڈالنا جیسے ازہف علیہ کسی کو
بیہی پر برانگیختہ کرنا جیسے ازہف
بالشر کسی کی حاجت روا کرنی
جیسے ازہف بما علیہ خبر مین
زیادہ کرنا سخن چینی کرنی ذلیل
اور خوار رکھنا خیانت کرنی سد کی
کی طرف دوڑنا ایک چیز کو لیجانا
ہلاک کرنا زخمی کو مار ڈالنا ایک
چیز مین اچنبھا کرنا ناکارہ بات کو
کسی کیطرف منسوب کرنا کسی کو
اچنبھے مین ڈالنا چوپایہ کا گرا دینا
ازہاق (کسفس) ہڈی کا گودا
بھرا ہوا ہونا باطل کو نیست و نابود
کر دینا برتن کا پر کرنا تیر کو نشانہ
سے گذار دینا رفتار مین سرعت
کرنی چوپایہ کا اپنی گردن پر زین
اور کجاوہ کو لے آنا
ازہام (کسفس) ہڈی کا گودے دار ہونا
ازہر (فسفت) سپید نیک شور
کرم کے سبب سفید چہرہ مہینہ
جمعہ کا دن جنگلی گائے سپید

رنگ کا شیر روشن اور چمکتے چہرہ کا
اور شیر جو چلتے مین پانوؤن تلوا ایک
دوسرے سے دور رکھے یعنی پانوؤنکو
چھدرا کر چلے اور درختون کی شاخونکو
کھاتا چلے تازہ دودھ
ازہران (فسففس) آفتاب اور چاند
ازہیرار (کسکسفس) گھاس کا
شگوفہ نکال لانا
ازہی (فس) ازہی (فسکت) ہم
کسی طرف جمع ہو آنا جمع کرنا سایہ کا
کم ہو جانا کسی سے اس طرح سے
پیش آنا کہ آپ تو سلامت رہے اور
اوسے فریب دیوے مشقت مین
ڈالنا بال کو کم کرنا
ازہی (فعے) (س) سایہ کا کم ہو جانا
ازہیاف (فسفس) جمع زہیف
کی بکھو بتا سکر
ازہیب (فسفت) جنوبی ہوا بادام
نکلا ہے جو صبا اور جنوب کے بیچ مین چلے
دشمنی خارپشت شادمانی
شادمان گھنگنا جب چلنے مین قدم
پاس پاس رکھے کمینہ منہ بولا
بیٹا امرد دیو بلا ڈر بہت

ساتھ پیدا ہونا یا اُسکے پیچھے پیدا
ہونا۔ ایک چیز کے ساتھ تمام ہونا
اِسْتَافَۃ (کفسف) مال کا ہلاک
ہونا۔ سوئی ستاری سے چمڑے کو
سینا اور دونوں درزوں کا
خراب کر دینا۔ ماں باپ کے سامنے
بیٹے کا مر جانا سیلی ہوئی وہ رکھ لینا
اِسْتَافِل (ففسک) چھوٹے چھوٹے اونٹ
اِسْتَاقَۃ (کفسف) ہانکنے کے
لیئے اونٹ دینے۔ وطن کی طرف
پہنچانا۔ یا قبل نکاح زیور وغیرہ دینا
جیسے اکثر نکاح سے پہلے ہی دیتے رہتے ہیں
اِسْتِاقِط (کفسف) گر پڑنا۔
اِسْتَاکِل (کسمس) حاجت روا کی
آسَاکِل (مفس) یہ جمع ہے کہ
اسکا واحد مستعمل نہیں بمعنی خو۔ عادت
اسالۃ (ففسف) لمبے رخسار والا
اسالۃ (کفسف) نوک کا ٹیڑھا اور
زیادہ تیز کرنا۔ پانی وغیرہ کا بہانا۔
اِسْتَالِق (ففسک) منہ کے اندر حصہ
کہ تالو سے متصل ہے۔ کچھ
اِسْتَامِم (کسمس) کسیکو عاجز کر دینا
اِسْتَامَۃ (کفسف) قیمت کو گران

کرنا کسی سے قیمت پوچھنی۔ چرانا۔
کوئیں کے سرے پر کھڑا کرنا۔
کسی پر نظر ڈالنی۔
آسَان (مفس) جمع اسن (ضفف)
کی۔ خو۔ عادت۔
اِسْتَاوَۃ (کفسف) علاج کرنا دوا کی
آسَاهِیج (ففسکس) مختلف اقسام
سیر اور رفتار کی۔
اِسْتِب (کس) زانو اور فرج اور
کون کے بال آساب (مفس) جمع
اِسْبَای (کسفسم) فروخت کرنی
اَسْبَاب السَّمٰوٰت آسمان کے نواحی یا در
اِسْبَات (کسفس) جمعہ یعنی کا
ہفتہ کے دن آنا۔ قرار دینا ٹھہرانا
اِسْبَاح (کسفس) تیرانا۔
اِسْبَاخ (کسفس) زمین کا شور ناک
ہو جانا۔ شور زمین پر پہنچنا۔
اِسْبَاد (ففس) کالے کپڑے
نصی گھاس کی پھونگلین کو نئیلیں
جو پہلی ہی نکلیں۔
اِسْبَاد (کسفس) مونڈنا۔
اَسْبَاط (ففس) جمع سبط فرزند
یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے

مادہ

سقف
شنق
سغف
سنفط
سل
سبب
سغب
سقی
سوق
165
اسن
اسو
بج
سد
سبا
سبب
سبت
سبح
سبخ
سبد
سبط

مادہ

اَسَاحِل (فتسک) پانی کے رستے
اَسَاوِر (کسمس) تیز چلنا یا تمام رات
چلنا نے گمان۔ یا ساری رات چلنا
ہی تھوڑے سے دن سکے۔
اَسَاوَدَۃ (فتسفتہ) تکیہ۔
اَسَادَۃ (کفسف) سر دار بچہ جننا۔
یا سیاہ رنگ کا بچہ جننا۔
اَسَار (کسمس) آگ کا اُٹھایا
ہوا چھوٹا چھوڑنا۔
اَسَار (کفس) وہ چیز کہ جس سے
باندھیں۔ اسر (ضس) جمع۔ یعنی چپ
لیسار میں یہ بھی ایک لغت ہے۔
اَسَارَۃ (کسمس) ہانکنا۔
اَشَارُون (فتسفس) ایک گھاس
کی جڑ ہے۔ دوائیں میں مستعمل ہے۔
اَسَارِیر (فتسکس) چہرہ کی خوبی اور
دونوں رخسار کی خوبی۔
اَسَارِیع (فتسکس) چھوٹی شاخیں
جو انگور کی جڑ میں سے اوگتی ہیں۔
دانت کی آبداری اور چمک۔ کمان
کے خطوط سونے اور چاندی
کے ٹکڑے سپید رنگ سرخ سر کے
کیڑے ہیں جو درخت میں [illegible]

نمی میں پائے جاتے ہیں اور ان سے
عورتوں کی انگلیوں کی نزاکت کو
تشبیہ دیتے ہیں۔ واحد اسکا اسروع ہے
اَسَاس (فتس) بنیاد اصل۔
اُسُس (ضفض) جمع۔
اِس اَس (فس ضس) ایک کلمہ ہے
جس سے بکریوں کو ڈانٹتے ہیں۔
اَسَاسَتہ (کفسف) ایک چیز میں کیڑے
پڑ جانے۔ بہت چھچھڑی دار ہونا کسی کا
کسی کے ذمہ سیاست کرنی۔
اَسَاطِیر (فتسکس) پریشان اور
بیہودہ باتیں۔ افسانے۔ واحد اسکا
اِسطار (کسفس) اسطیر (کسکس) اسطور
(ضسفس) سطر کی جمع الجمع۔
اَسَاعَۃ (کفسف) چوپایہ کو مہمل چھوڑ دینا
اور اسکو ضائع کرنا۔ ایک ساعت میں
سے نکلکر دوسری ساعت میں داخل
ہونا یا ایک ساعت پیچھے رہجانا۔
مرد کا بعد انتشار آلت کے منی نکالنا
گدہے کا اپنے آلت کو لٹکانا۔
مالک نے خبر گیری اونٹ کی چھوڑ دینا۔
اَسَاغَۃ (کفسف) شراب کو ہضم کرنا
مہلت دینی۔ ایک بچہ کا دوسرے بچے کے

اَستائے (کسفسم) کپڑا بُننا۔
اَستاج (کسفس) جولاہے کی نلی
اَستاحد صیغہ ماضی تنہا ہوا۔
اَستادب (کسفسف) ادب لیا۔
اَستار (کسفس) عدد میں چار اور وزن میں ساڑھے چار مثقال۔
اساتیر (نفنکس) جمع۔
اَستارۃ (کسفسف) پوشش پردہ
اَستاسۃ (کسکسف) عوض چاہنا بدلا لینا۔ مدد چاہنی۔
اَستاشر صیغہ ماضی اسیر [illegible] ہوا
اَستان (فسفس) درخت کا [illegible] ہو گئے جڑ کے۔
اَستان (کسفس) سال قحط میں آ پڑنا۔
اَستانف (کسفسف) نئے سر سے ایک کام کو کیا۔
اَستباء (کسکفسم) پردہ کرنا۔ دل پہچانا
اَستباءۃ (کسکفسف) رہنے کی جگہہ بنانی۔ عوض میں مار ڈالنا۔
اَستاب (کسکفس) آپس میں گالی گلوچ کرنی۔
اَستباتۃ (کسکفسف) ہر ات کا راترقہ رکھنا۔

اَستباحۃ (کسکفسف) باہر نکالنا
اَستباحۃ (کسکفسف) حلال [illegible] ڈالنا مباح کر دینا مباح پانا۔
اَستبار (کسکفس) زخم میں سلائی ڈالنی تاکہ اوسکا ظہراؤ معلوم ہووے آزمانا۔ اندازنا۔
اَستباع (کسکفس) ایک چیز کو خریدنا
اَستباعۃ (کسکفسف) کسی سے کہنا کہ یہ چیز ہماری ہاتھ بیچ دو۔
اَستباق (کسکفس) ایک دوسرے پر سبقت کرنی۔ چھوڑ دینا۔ ایک دوسرے پر تیر اندازی کرنی۔
اَستبالۃ (کسکفسف) پیشاب لگنا
اَستبانۃ (کسکفسف) ظاہر اور عیان کر دینا۔
اَستبتال (کسکفس) جدا ہو درخت کی جڑ میں سے نکلنا۔
اَستبثاث (کسکفس) ظاہر کرنا چاہنا اور پراگندہ کرنا چاہنا۔
اَستبحاث (کسکفس) کسی امر میں کاوش کرنی تفتیش کرنی۔
اَستبحار (کسکفس) منبسط اور فراخ اور کشادہ ہونا مثل بحر کے

ط ب س
ط ر ن
غ ل ن
ک ر س
ن ب س
ع ب س
ع ن ب
ل م س
ل ب س
۱۶۶
ت س
ت س
ت ب
ع
ع
عنعنہ
ا ب ن
ا ب ن
عن

اسباط بمنزلہ عرب کے قبیلوں کے ہیں۔
اَسْبَاط (کسفس) ورم کے مارے چپ ہونا۔ سر کا جھکانا۔ زمین کو چمٹ جانا۔ مصیبت کے مارے زمین پر بچھ جانا۔ تشدید میں آنکھیں نکال کر بھی کسی کو لٹانا اور بچھوڑانا۔ میں کسی چیز کا پھیلنا اور بچھونا۔ بچھ جانا۔ گر پڑنا ایسا کہ حرکت نہ کر سکے۔
اِسْبَاع (کسفس) ہاونٹ کا ساتویں دن پانی کا باری والا ہونا۔ سات عدد ہونا۔ گلہ اوس پر بھیڑ کا ہونا۔ بھیڑیا گھسا ہو۔ بچے کو دایہ کے حوالہ کرنا۔ بھیڑیے کو بکری دینا۔ غلام کو بیکار چھوڑنا۔
اِسْبَاغ (کسفس) کسی پر نعمت کو پورا کر دینا۔ وضو کو پورا کرنا۔
اِسْبَال (کسفس) کسی پر کلام کو بہت کرنا۔ منھ کا پردہ لٹکانا۔ آنسو نکالنا۔ مینہ برسنا۔ کھیتی کا خوشہ نکالنا۔ مینھ کا برسنا۔ رستے کا زیادہ جاری ہونا۔ ازار وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے تک لٹکانا۔ کمر بند کو ڈھیلا کرنا۔ خوشہ والا ہونا کھیت کا۔

اُسْبَان (فسفس) تیلی تھا بمن۔
اَسْبَان (کسفس) ہمیشہ پر بیٹھا ہونا۔
اِسْبِطْرَار (کسکسفس) گردن یا نون پھیلا کر لیٹنا۔ اونٹوں کا تیز چلنا۔ شہروں کا راست و درست ہونا۔ شعر کا پھیلنا دراز ہونا۔
اِسْبِغْلَال (کسکسفس) کپڑے کا تر ہونا۔ بالوں کا چکنا ہونا۔
اِسْبِکْرَار (کسکسفس) پہلو پر لیٹ کر لیٹا ہونا۔ شیر کا کودنے کے وقت لیٹا ہونا۔ لڑکی کا پورے قد کا ہونا۔
اَسْبَل (فسف) یعنی مونچھوں والا۔
اُسْبُوبَۃ (فسضسف) خاص گلی۔
اُسْبُوع (فسضفس) ہفتہ۔ اسابیع (فسفکس) جمع۔ سات بار۔
اِسْت (کس) کون یعنی دبر۔ عرب میں ملاتے ہیں تا لک است مع اشتک یعنی کوئی یار اور مددگار نہیں۔
اِسْتُ الدَّھْرِ ہمیشہ زمانہ کی ہمیشگی اور اوسکا شروع۔
اِسْتُ الْکَلْبَۃِ ناپسندی سختی اور بلا۔ امر منکر۔
اِسْتُ الْمَتْن صحرا۔

کسی کو مطلوب پر مقرر رکھنا۔

اِستِبقاء (بکسر الف) زندہ اور باقی چھوڑ دینا۔ شرم رکھنی۔

اِستِبکاء (بکسر الف) رلانا۔

اِستِبلال (بکسر الف) بیماری سے اچھا ہونا۔ بعد لاغری اور سختی کے تندرست ہو جانا۔

اِستِبہاج (بکسر الف) خوش ہونا۔

اِستِبہال (بکسر الف) اونٹنی کے پستان بند کر دینا۔ مہمل چھوڑ دینا۔

اِستِبہام (بکسر الف) گونگا ہو جانا بات نہ کر سکنا گول اور مشتبہ ہو جانا کسی کام کا۔

اِستِتباء (بکسر الف) اونٹنی کا بہ نہایت خواہش نر کے مست ہو جانا۔

اِستِتابہ (بکسر الف) توبہ چاہنی۔

اِستِتار (بکسر الف) پوشیدہ ہونا۔ پردہ میں ہونا۔ پرہیز کرنا۔

اِستِتال (بکسر الف) قوم کا ایک دوسرے کے پیچھے نکلنا۔

اِستِتباب (بکسر الف) کام کا پورا اور کامل اور درست ہو جانا۔

اِستِتباع (بکسر الف) کسی کی پیروی کرنے کی خواہش کرنا۔

اِستِتراف (بکسر الف) بدکار اور نافرمان ہو جانا۔

اِستِتلاء (بکسر الف) کسی سے پس روی چاہنی۔

اِستِتمام (بکسر الف) پورا کرنا۔ پورا کر دینے کی خواہش کرنی۔

اِستِتیاس (بکسر الف) بھیڑی کا بوک کی مانند ہو جانا۔ بھیڑ کا بوک ہو۔

اِستِثاَر (بکسر الف) قصاص چاہنا دبا ہوا مال مانگنا۔

اِستِثار (بکسر الف) کسی سے بدلہ چاہنا۔

اِستِثارہ (بکسر الف) برانگیختہ کرنا۔

اِستِثبات (بکسر الف) ڈھیل کرنی۔ ثبوت طلب کرنا۔

اِستِثخان (بکسر الف) غلبہ کرنا۔

اِستِثفار (بکسر الف) دامن دم کو رانوں کے بیچ میں لینا۔ کتے کا دم دونوں رانوں سے نکال کر پیٹ سے ملانا۔

اِستِثماد (بکسر الف) بمعنی اِثماد یعنی عورت کا مرد کو چوس لینا۔ پانی کا کثرت وارد ہونے سے خشک ہونا۔ بھلائی اور احسان چاہنا۔

مادہ

169

استبداد کو ہونا ۔
اَستبداد (ک س ک ف س) بذات خود رہنا ایک کام کے لیے کھڑا ہونا ۔
اِستبداع (ک س ک ف س) نادر سمجھنا ۔
اِستبدال (ک س ک ف س) بدلے میں لینا ۔ کسی چیز کے بدلے میں ایک چیز کو چاہنا ۔
اِستبعاد (ک س ک ف س) بعید سمجھنا استبعاد
اِستبراء (ک س ک ف س) حق کو تحقیق کرنا حیض میں ترک جماع کرنا ۔ پیشاب کے بعد استنجا کرنا جیسا کہ چاہیئے اور قرص وغیرہ سے ۔
اِستبراد (ک س ک ف س) سرد پانا سرد سمجھنا ۔
اِستبراز (ک س ک ف س) باہر نکالنا ۔
اِستبرق (ک س ف س) عقد دیبا ۔ استبرق کا معرب یا دیبا کہ سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ہو سنہری کپڑا اطلس دیبا کی مانند یا لال یا نت کہ کمان کے چلے کے مشابہ ہوتی ہے ۔
اِستبزال (ک س ک ف س) شراب چھان نکالنی کسی خم میں سے ۔
اِستبسال (ک س ک ف س) اپنے

دل رکھنا کہ مارے یا مرے ۔
اِستبشار (ک س ک ف س) خوشخبری دینی خوش ہونا ۔ خبر پر یقین کرنا ۔
اِستبشاع (ک س ک ف س) کسی چیز کو بے مزہ سمجھنا ۔
اِستبصار (ک س ک ف س) بصیرت کا طلب کرنا بینا دل ہونا ۔ ظاہر ہونا ۔
اِستبصال (ک س ک ف س) جڑ سے اکھاڑ ڈالنا
اِستبضاع (ک س ک ف س) پونجی بنانی ۔ ایک قسم کا نکاح زمانہ جاہلیت کا اور وہ یہ کہ عورت مرد سے جماع چاہے واسطے نسل کے ۔
اِستبطاء (ک س ک ف س) کسی کو بطی سمجھنا ۔
اِستبطان (ک س ک ف س) محرم راز ہونا ۔ پوشیدہ رکھنا ۔
اِستبغاء (ک س ک ف س) شکاری کتا اور گھوڑا
اِستبعاد (ک س ک ف س) دور سمجھنا دور ہونا دوری ڈھونڈھنی ۔
اِستبغال (ک س ک ف س) ہکا بکا اتنا بلند ہو جانا کہ اوس سال بھر میں ایک دفعہ پھر سے کھجور کا پانی نہ دینا ۔ خاوند ہو جانا ۔
اِستبغاء (ک س ک ف س) ڈھونڈھنا مدد لینی کسی سے مطلوب چاہنا ۔

یعنے مٹی کا نکالنا۔
استجاج (کسکفس) ایک کا بیل کرنا
استجان (کسکفس) پوشیدہ
ہونا۔ خوشی اور طرب کی طلب کرنی۔
اور مجہول کے معنی دیوانہ ہوجانا آئے ہیں
استجار (کسکفسم) ناپسند کرنا
استجال (کسکفس) نادان جاننا
ذلیل گننا۔ خفت چاہنی۔
استجام (کسکفسم) بال مونڈنے
استحاثة (کسکفسف) استحاث
الارض زمین کو روند کر چیز کو ڈھونڈنا
استحار (کسکفس) مرغ کا سحر
کے وقت بانگ دینا۔
استحارة (کسکفسف) جواب مانگنا
استحارة (کسکفسف) ایک شئی کو
دیکھکر متحیر ہونا جگہ کا پانی سے بھرجانا
خوشگوار ہونا۔
استحاف (کسکفس) ہوا کا ابر کو
اوڑالیجانا چیزوں کو اوٹھانا۔
استحالة (کسکفسف) پہلی حالت
سے پھر جانا مشکل ہونا مشکل جاننا
ایک حال سے دوسرے حال کیطرف پھرنا
استحباب (کسکفس) دوست رکھنا

کسی کو پسند کرنا نیک جاننا اونٹ
کی اوجھہ میں دیر تک پانی کا ٹھہرنا اور
اسلیے اوسکا پیاسا ہونا۔
استحثاء (کسکفس) ایک دوسرے
کے منہ پر خاک ڈالنی
استحثاث (کسکفس) برانگیختہ کرنا۔
استحجام (کسکفسم) بودار ہوجانا۔
استحجاب (کسکفس) دربان بنانا
کسی کو کسی سے دربانی چاہنی۔
استحجار (کسکفس) حجرہ بنانا۔
دلیر ہوجانا پتھر کی مانند ہوجانا مٹی کا۔
استحداث (کسکفس) نئی چیز
لانی بنایا پانا۔
استحداد (کسکفس) تیز کرنا سیاہ
رکھنی بہت غصہ میں بھرا ہونا غصہ کرنا
زیرناف کے بال استرے سے مونڈنے
استحذاء (کسکفس) جوتیاں مانگنی
استحذاء (کسکفس) عطیہ
اور بخشش مانگنی۔
استحراء (کسکفس) گرم ہوجانا
جیسے لڑائی کا گرم ہونا موت کا گرم
ہونا یا زیادہ ہونا سخت ہونا۔
استحرام (کسکفس) ایسی حرمت والا

ع حجج
ع حجن
ع حبو
ع حبس
ع حبط
ع حتت
ع حتم
ع حتن
ع حثث
ع حجب
ع حجر
ع حجل



۱۳ حبب
۱۴ حثی
۱۵ حثث
۱۶ حجم
۱۷ حجب
۱۸ حجر
۱۹ حدث
۲۰ حدد
۲۱ حذو
۲۲ حذی
۲۳ حرر

اِستِثنا (کسکسفم) نکالنا تم
میں الّا استثنا ادا کیا نحویوں کی
اصطلاح میں ایک چیز کو حکم ما قبل
سے نکالنا حرف الّا وغیرہ سے
جیسا ضرب القوم الّا زیدا۔
اِستجابت (کسکفسف) جواب دینا
اور قبول کرنا۔
اِستجادت (کسکفسف) کسی چیز کو
اچھا پانا۔ نیا جاننا کسی چیز سے نئی
خیر چاہنی بخشش چاہنی تیز رو گھوڑا مانگنا
اِستجارت (کسکفسف) پناہ چاہنی
اِستجازت (کسکفسف) اجازت
چاہنی۔ صلہ مانگنا۔
اِستجاشت (کسکفسف) لشکر طلب کرنا
اِستجاعت (کسکفسف) بھوکا
رہنا۔ بھوکا ہونا۔
اِستجافت (کسکفسف) خالی پانا
جگہ کو کشادہ ہونا۔
اِستجبار (کسکفس) درست اور
خوش حال اور دولتمند ہونا۔
اِستجمال (کسکفس) تمام لے لینا
اِستجدا (کسکفسم) مانگنا۔
اِستجداد (کسکفس) نیا کر دینا نیا پانا

اِستجرا (کسکفسم) وکیل بنانا کرنا
اِستجراح (کسکفس) عیب فساد ہونا
اِستجرار (کسکفس) کسی کو اپنے
اوپر قدرت دینی اور اوس کے بس
میں ہو جانا کھینچنا۔
اِستجزاز (کسکفس) کاٹنے
کے وقت کو پہنچنا کھیتی کا۔
اِستجعال (کسکفس) کسی کی خوشی کرنی
اِستجفال (کسکفسم) سخت سمجھنا۔
اِستجفار (کسکفس) چار مہینے کا
ہونا بزغالہ کا اور دودھ چھوڑ دینا۔
اِستجلاب (کسکفس) کسی چیز کو
ایک جگہ سے کھینچوا منگانا۔
اِستجمار (کسکفس) سنگ ریزوں سے
استنجا کرنا۔ دار الحرب میں مقیم ہونا۔
ایک کام پر اکٹھا ہونا۔
اِستجماع (کسکفس) اکٹھا ہونا
سمٹ آنا ہر طرف سے۔
اِستجمال (کسکفس) جمل ہو جانا اونٹ کا
اِستجمام (کسکفس) گھاس وافر
ہونا زمین کا۔ پانی کا بہت ہونا۔ اکٹھا
ہو جانا۔ تھکان دور کرنی کنوئیں کا بھر جانا
اِستجناب (کسکفس) جنبی ہونا

[illegible]

مارے بھڑک اوٹھنا۔

اُستحماض (سکسفس) کسی چیز کو کھٹا پانا

اُستحماق (سکسفس) احمق اور بے وقوف ہونا۔ احمقانہ کام کرنا۔ کسی کو احمق جاننا۔

اُستحمال (سکسفس) کسی سے بوجھ اوٹھوانا چاہنا۔

اُستحمام (سکسفس) پسینا آنا۔ گرم پانی سے غسل کرنا۔ حمام میں جانا

اُستحناذ (سکسفس) ہوپ میں کروٹ کے بل لیٹنا تاکہ پسینا آوے

اُستحناط (سکسفس) مرنے پر دلیری کرنی۔ جان دینی آسان ہونی۔

اُستحناک (سکسفس) کم کھانے کے سبب بہت کھانے لگنا۔ عضاء کا جڑ سے اوکھڑ جانا۔

اُستحنان (سکسفس) ہیجع شی کرنا

اُستحواذ (سکسفس) کسی پر ور ہونا اور غالب ہو جانا۔

اُستحوانس (سکسفس) بند ہو جانا کاہلی کرنی سستی کرنی۔

اُستحواض (سکسفس) پانی جمع ہو آنا اپنے لیئے حوض بنا لینا۔

اُستحیاء (سکسفس) زندہ اور باقی چھوڑنا۔ شرم رکھنی۔

اُستحاذ (سکسفس) لینا۔

اُستحارۃ (سکسفست) مثلاً بجو کے سوراخ میں لکڑی کرنی تاکہ دوسرے جگہہ سے نکل آوے۔ جگہہ کو پاک اور صاف کرنا۔ مہربانی چاہنی۔ شکاری کا ہرنی کے بچے سے آواز کرانا تاکہ اوسکی ماں اوسکے پاس آجاوے اور وہ اوسے شکار کر لیوے۔

اُستخارۃ (سکسفست) دو امر میں سے بہتر کو چاہنا۔ بھلائی ڈہونڈہنی کسی سے۔ کسی پر مہربانی کروانی۔

اُستخالۃ (سکسفست) غرور اور بزرگ منشی کرنی۔

اُستخانۃ (سکسفسق) کسیکو خائن جاننا

اُستخباء (سکسفسم) خیمہ بلند کرنا خیمے میں آنا۔

اُستخبار (سکسفس) خبر پوچھنی

اُستخبال (سکسفس) لغزش عاریت مانگنی

اُستخدام (سکسفس) خدمت احتیاج

اُستخذاء (سکسفسم) فروتنی کرنی اور فرمان بردار ہونا۔

| مادہ |
| --- |
| حمض |
| حمق |
| حمل |
| حمم |
| حنذ |
| حنط |
| حنک |
| حنن |
| حوذ |
| حوس |
| حوض |
| ۱۷۲ |
| حیی |
| اخذ |
| خور |
| خیر |
| خیل |
| خون |
| خبی |
| خبر |
| خبل |
| خدم |
| خذی |

[illegible] سے [illegible] ہونی
استحصال (بکسر سین) [illegible]
استحسان (بکسر سین) نیک اور اچھا
جاننا نیک اور پسند رکھنا
استحشاش (بکسر سین) [illegible] ہو جانا
[illegible] ہو جانا لمبا ہونا [illegible] ہونا
[illegible] گول اور [illegible] ہونا [illegible]
استحقاق (بکسر سین) [illegible]
[illegible] پڑے [illegible]
استحضار (بکسر سین) [illegible]
کا [illegible] قابل ہونا [illegible] ہو جانا
استحصاف (بکسر سین) مضبوط
ہو جانا سخت ہو جانا [illegible] ہو جانا
استحضار (بکسر سین) دوڑانا
آگے میں آنا بلانا
استحطاب (بکسر سین) درخت کی
لکڑیاں [illegible] تراشنی [illegible] کی خواہش کرنی
استحطاط (بکسر سین) کچھ کام [illegible]
کی یا معافی کی خواہش کرنی
استحفاء (بکسر سین) خبر پوچھنی
پوچھنے میں کوشش کرنی
استحفار (بکسر سین) گھوڑے
کے [illegible] ہونا کھودنے کی خواہش کرنی

استحفاظ (بکسر سین) یاد کر لینا
اور کسی کی خواہش [illegible]
استحفاف (بکسر سین) [illegible] لینا
استحقاب (بکسر سین) [illegible] جمع کرنا
استحقار (بکسر سین) حقیر جاننا
حقیر سمجھنا ذلیل کرنا
استحقاق (بکسر سین) لائق ہونا
استحکاک (بکسر سین) کھجلی اٹھنی
کھجانے کی خواہش کرنی
استحکام (بکسر سین) مضبوط ہو جانا
استحلاء (بکسر سین) کسی چیز کو شیریں [illegible]
استحلاب (بکسر سین) [illegible] دوہنا
استحلاس (بکسر سین) [illegible]
[illegible] کوہان کا [illegible] ہونا [illegible]
[illegible] زمین [illegible] لیے [illegible]
لازم پکڑے رہنا اور اس سے جدا
نہ ہونا پانی کو [illegible] اور [illegible]
استحلاف (بکسر سین) قسم کھلانی
استحلاق (بکسر سین) عورت کا
[illegible] کا جماع سے سیر ہونا [illegible]
استحلال (بکسر سین) حلال کر
لینا حلال جاننا حلال کرنا چاہنا
استحماش (بکسر سین) غصے کے

علامات اعراب ضمہ فتحہ کسرہ سکون تشدید

کسی کو تبدریج فریب دینا فریب دینا۔ مضطر کر دینا یہانتک کہ زمین پر لوٹنے لگے۔ اونٹنی کا بچہ کے پیچھے چلنا جننے کے بعد۔ بعد صدور خطا کے بندہ کو خداوند تعالی کا نعمت دینا اور اوس سے استغفار کو بھلا دینا اور اسکو تھوڑا تھوڑا گرفت کرنا اور ایک ہی دفعہ ہلاک نکر دینا۔

اَستدرار کسکسفس دودھ کی نیت سے سہلانا۔ دودھ چاہنا بھیڑ کا نرکی خواہش کرنا۔

اَستدراک کسکسفس ہاتھ سے گئی ہوئی چیز کا ایک چیز کے ساتھ تدارک کرنے کا ارادہ کرنا۔

اَستدعا کسکسفسم بلانا۔

اِستدفاء کسکسفسم گرم کپڑا پہننا۔

اَستدفاع کسکسفس دفع کرنیکے لیے خواہش کرنی۔

اَستدفاق کسکسفس تمام اور مہیا اور راست و درست ہونا کام کا۔ جانور کا زمین کے قریب اڑنا۔ یا زمین پر بیٹھکر اپنے دونوں بازون کو ہلاتا ہوے ترہنا زمین ڈھونڈنے۔

اَستدقاق کسکسفس باریک ہونا۔

اَستدلال کسکسفس دلیل مانگنی۔ دلیل لانی حجت لانی۔

اَستدماء کسکسفسم قرضدار سے اپنا حق نرمی سے مانگنا۔

اَستدناء کسکسفسم کسی سے نزدیک ہونا چاہنا۔

اَستذأب النقد بکری بھیڑیا ہوگئی یہ مثل اوس شخص کے حق مین کہتے ہین جو کہ حقیر اور ذلیل ہو اور اپنے تیئن بزرگ اور برتر ظاہر کرے۔

اَستذراء کسکسفسم بکری کا نر کی خواہش کرنا۔ درخت کا سایہ مین ہونا کسی چیز کی پناہ لینی۔

اَستذراع کسکسفس کسی مین پوشیدہ ہو جانا کسی کو وسیلہ بنانا۔

اَستذفاف کسکسفس تیار اور مہیا کیا ہونا کام کا۔ چیز کا مہیا اور موجود ہونا اور آسانی سے ہاتھ لگنا۔

اَستذکار کسکسفس آگ کی لو کا تیز ہونا۔ یاد کرنا سبق پڑھنا پڑھا ہوا نگاہ رکھنا یاد کر لینا۔

اَستذلال کسکسفس ذلیل جاننا نرم کر لینا۔

ذ ل ب
ذ ر و
ز ر ع
ذ ف ف
ذ ك ر
ذ ل ل

۱۲

[illegible]

استخراب رکسکفنس مصیبت کے مارے شکستہ ہوجانا کسیکا آزردہ ہونا ۔

استخراج رکسکفنس باہر نکال لانا کسیکو نکالنا چاہنا ۔

استخراط رکسکفنس ہونے میں مبالغہ کرنا بہت ہونا ۔

استخساس رکسکفنس کسیکو خسیس جاننا

استحسان رکسکفنس کسی چیز کو بہتر جاننا

استخصاص رکسکفنس کسی کو اپنے خواص میں سے بنالینا ۔

استخفاء رکسکفنس نہان اور پوشیدہ ہونا

استخفار رکسکفنس کسی سے خفارہ طلب کرنی ۔

استخفاف رکسکفنس کسی کو ہلکا سمجھنا کسی کو ذلیل اور خوار رکھنا ۔ کسی کو جہل اور سبکی پر باوجود نیک رکھنا

استخلاء رکسکفنس خالی ہونا کسی کے ساتھ خلوت چاہنی کچھ عرض کرنے کے لیے ۔

استخلاب رکسکفنس قطع کرنا کاٹنا کھیتی کاٹنا ۔

استخلاص رکسکفنس کسی کو اپنے لیے خاص کرنا رہائی ڈھونڈھنی

استخلاط رکسکفنس اونٹ کا خود اونٹنی کی فرج میں ذکر گھسا دینا ۔

استخلاف رکسکفنس نائب کرنا کسی کو اپنی جگہ خلیفہ کرنا ۔

١٥ استخمار رکسکفنس کسی کو زبر دستی سے اپنی غلامی میں لینا ۔

استخنان رکسکفنس کسی کو مخنث جاننا

استخوال رکسکفنس کسی کو اپنا نوکر چاکر بنالینا کسیکو اپنا ماموں بنا لینا

١٨ استدراء رکسکفنس لینا ... کرنا کھیلنا پیسنا لے آنا ۔

١٩ استداد رکسکفنس راست ہونا مضبوط ہوجانا سیون کے سوراخ بند کرنا

استدارہ رکسکفنس پھرنا گھومنا

استدامہ رکسکفنس ہمیشہ رکھنا ڈھیل لگانی ہمیشگی چاہنی کسی کے جوڑ کر اوٹنا نرمی و ملائمت کرنی

استدانہ رکسکفنس قرض لینا ۔

استدبار رکسکفنس ایک چیز کو کہ جسے شروع میں نہ دیکھا تھا اوسے بعد پیچھے سے دیکھنا اختیار کرنا ۔ ضد استقبال ۔

استدراج رکسکفنس ایک چیز کو ...

١ **استرزاع** (ک س ک س ف س) کسی کو ضعیف اور خوار گننا۔

٢ **استرسال** (ک س ک س ف س) بالوں کا لٹکا ہوا ہونا۔ گستاخی کرنی۔ سست ہوا ڈھونڈھنی۔ اُنس کرنا۔

٣ **استرشاء** (ک س ک س ف س م) رشوت چاہنی۔ کسی کی اطاعت کرنی۔ کسی کی رضامندی ڈھونڈھنی۔

٤ **استرشاش** (ک س ک س ف س) اونٹ کے بچہ کا گردن کو اپنی ماں کی رانوں میں دودھ پینے کے لیے لمبا کرنا۔

٥ **استرضاء** (ک س ک س ف س م) خوشنود کرنا چاہنا۔ کسی کی خوشنودی چاہنی۔

٦ **استرضاع** (ک س ک س ف س) دودھ پلانے والی چاہنی۔ کسی سے دودھ پلانیکو کہنا۔

٧ **استرطام** (ک س ک س ف س م) [illegible] ہو جانا۔

٨ **استرطاط** (ک س ک س ف س ف) کسی کو بیوقوف گننا۔

٩ **استرعاء** (ک س ک س ف س م) نگاہبانی کرنی۔ کسی سے ایک چیز کی نگاہبانی چاہنی۔

١٠ **استرعاف** (ک س ک س ف س) آگے نکل جانا۔ دوسرے سے بڑھ جانا۔ نکسیر کا چوپائے کے سم کو خون آلودہ کرنا۔

چھلنی کو پٹکانا اور اوس میں سے گلی ہوئی کو لے لینا۔

١١ **استرعال** (ک س ک س ف س) بکریوں کا آگے پیچھے چلنا۔ ریوڑ کا پیشرو ہونا۔

١٢ **استرعاز** (ک س ک س ف س) کسی کو سست اور نرم پانا۔

١٣ **استرعاس** (ک س ک س ف س) کسی کو نرم پانا یا نرم گننا۔

١٤ **استرفاد** (ک س ک س ف س) مدد چاہنی۔

١٥ **استرفاص** (ک س ک س ف س) فراخ ہونا۔

١٦ **استرفاع** (ک س ک س ف س) اوٹھانا۔ کسی کو اوٹھوانا۔ ایک شی کا نبڑ جانا اور اوس کے اوٹھانیکا وقت پہنچنا۔

١٧ **استرفاہ** (ک س ک س ف س) آرام میں رہنا۔

١٨ **استرقاء** (ک س ک س ف س م) کسی سے منتر چاہنا۔ جھاڑ پھونک کرانا۔

١٩ **استرقاع** (ک س ک س ف س) کپڑے کا پیوند کو چاہنا۔

٢٠ **استرقاق** (ک س ک س ف س) غلام بنانا۔

**استرق** (ا ک م ا) پانی زمین میں گھس گیا مگر تھوڑا سا باقی ہے۔ پتلا ہو جانا۔

٢١ **استرکاک** (ک س ک س ف س) سست اور ضعیف جاننا۔ سست و ضعیف پانا۔

٢٢ **استرماث** (ک س ک س ف س) کسیکو

| مادہ |
| --- |
| ١ع زرع |
| ٢ع رسل |
| ٣ع رشو |
| ٤ع رشش |
| ٥ع رضو |
| ٦ع رضع |
| ٧ع رطم |
| ٨ع رطط |
| ٩ع رعی |
| ١٠ع رعف |
| ١٧٧١ |
| ١١ع رعل |
| ١٢ع رعز |
| ١٣ع رعس |
| ١٤ع رفد |
| ١٥ع رفص |
| ١٦ع رفع |
| ١٧ع رفہ |
| ١٨ع رقی |
| ١٩ع رقع |
| ٢٠ع رقق |
| ٢١ع رکک |

مادہ علامات اعراب ضمہ ـُـ کسرہ ـِـ فتحہ ـَـ جزم ـْـ: ض ضمہ، ف فتحہ، ک کسرہ، س سکون، ت تشدید

ذ ن ی — ذ م — ذ ن — ذ ب — ذ ن — ر د — ر ی — ر ا ی — ر ب — ا ر غ

أستذباء (کسکسفسم) ڈھونڈھ لینا۔
أستذمام (کسکسفس) ایسا کام کرنا جسمیں ملامت کے لائق ہو جاوے۔
أستذناب (کسکسفس) کام کا پورا اور درست ہونا۔ پیچھے چلنا۔
أستذہاب (کسکسفس) جانے کی اجازت چاہنی۔ جانے کی خواہش کرانی۔
أستذہان (کسکسفس) یعنی بھولا دینا ایک کام دوسری سے
أسترآء (کسکسفسم) ایک چیز کو اختیار کرنا۔ پسند کرنا۔
أستراء (کسکسفسم) رات کو چلنا۔
أستر آء (کسکسفسم) دیکھنا چاہنا۔ کسی کو دیکھنا چاہنا۔ مشورہ چاہنا۔
أستراتۃ (کسکسفسف) کسی میں ایک ایسا کام دیکھنا جو شک میں ڈالے۔
أستراثۃ (کسکسفسف) کسی کو سست پانا۔ کسی کو سست گننا۔ درنگ کرنی۔ دیرنگی چاہنی۔
أستراحۃ (کسکسفسف) آسودہ ہونا۔ سو گھنا۔ راحت پانی۔ راحت ڈھونڈھنی۔
أستراضۃ (کسکسفسف) فراخ ہونا اور سیراب ہونا۔ نفس کا خوش ہونا۔ جگہ کا پسند آنا۔ اور اس قدر حوض میں پانی بھرنا کہ زمین کو ڈھانک لیوے۔
أستراط (کسکسفس) لقمہ کو نگل جانا۔
أستراعۃ (کسکسفسف) سرگشتہ ہونا۔
أستراق (کسکسفس) چوری کرنی۔ چھپ کر کسی بات پر کان لگانا۔
أستراک (کسکسفس) پڑھنا۔ سیراب ہونا۔
أستراع (کسکسفس) تہ بتہ جمنا۔ ملتبد ہو جانا۔ سیر و سفر پر قوی ہونا۔
أسترجاع (کسکسفس) اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْن کہنا۔ دی چیز کو پھیر لینا۔
أسترحال (کسکسفس) کسی سے کوچ کی اجازت لینی۔
أستر خاء (کسکسفسم) سست ہونا۔ لٹک پڑنا۔ ڈھلکنا۔ سستی۔ نرمی۔
أستر خاص (کسکسفس) ارزان دیکھنا۔ ارزان گننا۔ ارزان چاہنا۔
أسترداد (کسکسفس) کسی سے ایک چیز کو لوٹانا چاہنا۔
أستر داف (کسکسفس) کسی سے ردیف کر لینا چاہنا۔
أستر ذال (کسکسفس) کسیکو کمینہ ہونا کا پانا

اپنے لئے روغن چاہنا۔
اِسْتِسْنَاج (کسکفس) ایک چیز کی تفتیش کرنی۔
اِسْتِسْنَان (کسکفس) بڑی عمر کا ہونا۔ راہ میں چلنا۔ راستہ کا پامال ہونا اور جاری ہونا۔
اِسْتِسْهَال (کسکفس) سہل عزم جاننا اور آسان سمجھنا۔ آسان کرنا۔
اِسْتِسْهَام (کسکفس) ایک چیز میں قرعہ ڈالنا۔
اِسْتِشَارَة (کسکفنف) شہد توڑنا۔ اونٹ کا موٹا ہونا۔ سانڈ کا اونٹنی کو سونگھنا تاکہ معلوم کرے کہ آیا حاملہ ہے یا نہیں۔ لباس فاخرہ پہننا۔ نیک کام کا ظاہر ہونا۔ کسی سے مشورہ طلب کرنا۔
اِسْتِشَاطَة (کسکفنف) غصے کے مارے بھڑکنا۔ کبوتر وغیرہ کا خوشی اور ڈرنا۔ ایک کام کے لیے آمادہ ہونا اور جلد اوس سے نکل آنا۔ اونٹ کا موٹا ہونا۔ خوب ہنسنا۔
اِسْتِشْزَار (کسکفس) خشمگین ہونا۔ جھگڑنا۔ کام کا تنگ اور دشوار ہونا۔
اِسْتِشْزَاب (کسکفس) کھڑا ہونا۔
اِسْتِشْزَاز (کسکفس) ٹیڑھا ہونا۔ ... کا

بڑے گلہ والا ہونا۔
اِسْتِشْرَاط (کسکفس) بعد درستی کے ایک چیز کا خراب ہونا۔
۱۱ اِسْتِشْرَاف (کسکفس) کسی پر ظلم اور ستم کرنا۔ جھانکنا۔ کسی چیز کے دیکھنے کے لیے آنکھوں پر ہاتھ سے چھجا کرنا۔ کسی کے مال کو پیش نظر کرنا۔ شریف اور کامل چیز کو چاہنا۔
۱۲ اِسْتِشْرَار (کسکفس) دل کا باطل ہونا۔ رسی کا اوٹنا۔ رسی کا بلند ہونا۔ بلند کرنا۔ اونچا کرنا۔
۱۳ اِسْتِشْعَار (کسکفس) شعار پہننا۔ دل میں ڈر کو پوشیدہ رکھنا۔ ماں کے پیٹ میں بچے کا بال نکال لانا۔
۱۴ اِسْتِشْفَاء (کسکفس) شفا چاہنی۔
۱۵ اِسْتِشْفَاع (کسکفس) کسی دوسرے سے شفاعت چاہنی۔
۱۶ اِسْتِشْفَاف (کسکفس) ایک چیز کے پرے کی چیز کو دیکھنا۔
۱۷ اِسْتِشْلَاء (کسکفس) غصہ کرنا۔ کسی کو پکارنا تاکہ اوسکی تنگی اور دشواری یا ہلاکت سے رہائی دیوے اور اوسے نکیسو کرے۔

مادہ
[illegible]
۱۸۱
۱۱ شرف
۱۲ شرر
۱۳ شعر
۱۴ شفی
۱۵ شفع
۱۶ شفف
۱۷ شلو
۱۲

باب علامات تا اعراب صیغہ کستم یعنے ضمہ فتحہ کسرہ سکون تشدید

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | ہل<br>بر<br>زن<br>ذر<br>ذری<br>ذف<br>زل<br>۱۷۸<br>سر<br>سی<br>سعی<br>سعط<br>سعن<br>سمن<br>سعف<br>سقی<br>سلف<br>سمر<br>سمج | اوسکے مال مین باقی چھوڑنا۔<br>استرماک (بکسفس) اپنے حسب مین عیب دار ہونا۔<br>استرمام (بکسفس) دیوار کا مرمت کو چاہنا۔ عمارت بنوانی چاہنی کسی سے<br>استرہاب (بکسفس) ڈرانا<br>استرہان (بکسفعت) کسی سے روعن بہت مانگنا۔<br>استزادہ (بکسفعت) زیادتی چاہنی<br>استزارہ (بکسفعت) زیارت چاہنی<br>استزراء (بکسفسم) اسکو حقیر گننا۔<br>استرفاف (بکسفس) استرفہ السیر اوسکو سیر و سفر نے سبک کردیا<br>استزلال (بکسفس) پھسلانا۔<br>استسخار (بکسفس) ٹھٹھا بازی کرنی۔ قہقہے لگانے<br>استسرار (بکسفس) پوشیدہ ہونا۔ سریہ بنانی۔<br>استسعاء (بکسفس) کام کرانا چاہنا۔ مکاتب[1] کو کام کرنے کا حکم دینا تاکہ وہ کتابت ادا کرے اور آزاد ہو جاوے۔<br>استسعاد (بکسفس) نیک بخت گننا | مبارک جاننا۔ نیک بختی ڈھونڈھنی۔ مدد چاہنی۔<br>استسعاط (بکسفس) اونٹنی کے پیشاب کو سونگھنا اور اوسکے پیشاب کی بو ناک مین داخل ہونی۔<br>استسعال (بکسفس) بھتنی کی مانند عورت کا ہونا یعنی کلے کار اور بدزبان ہو جانا۔<br>استسقاد (بکسفس) سے پیچھے آکر اونٹ پر سوار ہونا۔<br>استسقار (بکسفس) وضاحت چاہنی۔ پوچھنا۔<br>استسقاء (بکسفسم) ایک مرض ہے کہ مریض پانی سے سیر نہین ہوتا۔ پانی اور بارش چاہنا۔ سقاوہ ہونا۔<br>استسلاف (بکسفس) پہلے قیمت دے لینی۔ قرض مانگنا۔<br>استسلام (بکسفس) گردن جھکانی۔ منقاد ہونا۔<br>استسماج (بکسفس) کسی کو برا سمجھنا۔ بھونڈا جاننا۔<br>استسمان (بکسفس) فربہ چاہنا۔ فربہ پانا۔ یا کسی کو فربہ سخت سمجھنا۔ |

اسہ سمج سمن ۱۲ [1] مکاتب اوس غلام کو کہتے ہین کہ مولا اوسکو لکھدے یا کہدے کہ بعد ادا ر…

آرزو کرنی خواہش کرنی — ہنستا ہنسانا

اِستِضحاک (کسکسعفس) ہنسنا — ہنسانا

اِستِقرار (کسکسعفس) قریب ہنسکانا

اِستِضراب (کسکسعفس) کسی شے کا گاڑھا ہو جانا — شکی خواہش کرنی

فریب دینا — دھوکا دینا۔

اِستِضرام (کسکسعفس) آگ بھڑکانی

اُستِضعاف (کسکسعفس) سست جاننا — کسی کو ناتوان گننا — کسیکو ناتوان پانا — کسیکو مقہور و مغلوب کرنا

اِستِضلال (کسکسعفس) گمراہی طلب کرنی — گمراہی میں پڑنا —

اِستِضہاب (کسکسعفس) چیز کی تلاش کرنی تا امکان — ہنسی

اُستِطابَت (کسکسعفسق) پاکی ہونڈ پاک پانا — پانی یا ڈھیلے سے استنجا کرنا — نر مادہ سے میٹھا پانی چاہنا

اِستِطار (کسکسعفس) لکھنا —

اُستِطارَہ (کسکسعفسق) پھیلنا — منتشر ہونا — زیادہ ہونا — شگفتہ ہونا — ایک شے کو جلدی سے کھینچنا — شکی خواہش کرنا — پراگندہ اور متفرق ہونا — اور مجہولاً بمعنی اڑایا جانا —

ڈرایا جانا — بسرعت بھگایا جانا

اِستِطاعَت (کسکسعفسق) قدرت رکھنی و استطاع یسطیع بحذف تا اور استاع یستیع بحذف طا بھی ہے —

اِستِطافَت (کسکسعفسق) ایک چیز کے گرد پھرنا —

اِستِطالَت (کسکسعفسق) دراز ہونا — تکبر کرنا — بلند ہو جانا —

اِستِطبابَت (کسکسعفس) طبیب سے علاج پوچھنا — دوا کرنی —

اِستِطراب (کسکسعفس) طرب چاہنا — اونٹ کو آگ سے حرکت میں لانا —

اِستِطراد (کسکسعفس) پیچھے چلنا — بیل بلاپ کرنا چاہنا —

اِستِطراف (کسکسعفس) طرفہ و نیا سمجھنا — نو پیدا کرنا ایک چیز کو — خواہش کرنا ایک چیز پر تعجب کرنا —

اِستِطراق (کسکسعفس) سانڈ کو عاریت مانگنا — کاہن سے کنکری مار کر فال چاہنی —

اِستِطعام (کسکسعفس) طعام چاہنا — لقمہ چاہنا امام کا قرأت میں —

اِستِطلاع (کسکسعفس) لیجانا —

ضحک
ضرر
ضرب
ضرم
ضعف
ضلل
ضہب
181
طوع
طوف
طول
طبب
طرب
طرد
طرف
طرق
طعم
طلع

علامات اعراب ضمہ پیش ـ فتح زبر ـ کسرہ زیر ـ سکون جزم ـ تشدید

[redacted] پھٹنا پانا

استشباع (ر کسکفس) کسی کے پیٹ بھر کر سمجھنا۔ سیر ہو جانا۔

استشنان (ر کسکفس) دبلا ہونا دودھ کا حریص ہونا۔ شک کا پھٹنا پانا۔

استشہاد (ر کسکفس) گواہی چاہنی۔ راہ خدا میں مارا جانا یعنی جہاد میں یا اور کسی طرح مارا جانا کہ شہید ہو۔

استصابت (ر کسکفس) کسی سے صواب چاہنا۔ کسی کو صواب گننا۔ کسی کے فعل کو راست پانا۔

استصباح (ر کسکفس) چراغ چاہنا۔ چراغ روشن کرنا۔

استصبار (ر کسکفس) گاڑھا ہونا۔ کثیف ہونا۔

استصباغ (ر کسکفس) رنگنا چاہنا۔

استصحاب (ر کسکفس) کسی کو صحبت و معاشرت کی طرف بلانا۔ کسی سے یاری چاہنی اور اسکو لازم پکڑنا۔

استصحاح (ر کسکفس) بیماری سے بیمار کا اچھا ہونا۔

استصراخ (ر کسکفس) فریاد چاہنی۔

استصراف (ر کسکفس) پھیر دینا چاہنا۔

استصعاب (ر کسکفس) کام کا دشوار ہونا۔ ایک چیز کو دشوار پانا۔

۱۵ استصفاء (ر کسکفس) خالص شے کو لینا اور پسند کرنا۔ کسی کو دوست خالص اور برگزیدہ گننا۔ صفایا کر دینا۔

۱۶ استصلاء (ر کسکفس) کھونا چاہنا۔

۱۷ استصلاح (ر کسکفس) نیک کرنا چاہنا۔ ضد استفساد۔

۱۸ استصماغ (ر کسکفس) گوند کا نکلنا یا کسی کے بدن پر زخم ہونا۔ کسی سے گوند چاہنا۔

۱۹ استصواب (ر کسکفس) مشورہ ٹھیک چاہنا۔ صواب سمجھنا۔ راست پانا۔ جیسے استصوبہ یعنی صواب چاہا اوس سے اور صواب گنا اوسکو۔

۲۰ استضاءت (ر کسکفس) روشن کرنا۔

۲۱ استضارة (ر کسکفس) گانے وغیرہ کا ضرر چاہنا۔

۲۲ استضاقة (ر کسکفس) تنگ کرنا۔ تنگ کرنا چاہنا۔

۲۳ استضامة (ر کسکفس) کسی کے حق میں ظلم کرنا۔

۲۴ استضباح (ر کسکفس) ہنکانا

اَستعتام رکسکفس) اونٹنی کا رات کے وقت دودھ بجانا سے دوہنے مین تاخیر کرنی۔

استعجاب رکسکفس) ایک چیز سے تعجب مین آنا۔ انگیخته کرنا

اَستعجال رکسکفس) شتابی پر شتابی کرنے کا حکم دینا کسی سے گذرجانا سبقت کرنا۔

اَستعجام رکسکفس) جواب سائل سے خاموش رہنا جیسے استعجم عن جوابہ کسی پر کلام کا بستہ ہو جانا اور فصیح نہ بولنا جیسے استعجم علیہ الکلام۔

اَستعداء رکسکفسم) مدد چاہنی

اَستعداد رکسکفس) آمادہ ہونا آمادگی کرنی مستعد ہونا۔

اَستعذاء رکسکفسم) خوش اور موافق پانا جگہ کو۔

استعذاب رکسکفس) پاکیزہ اور شیرین پانی پانا چھوڑنا پاکیزہ کہنا پاکیزہ اور شیرین پانا۔

اَستعذار رکسکفس) عذر چاہنا۔

اَستعراء رکسکفسم) ترخرما کھانا۔

اَستعراب رکسکفس) گلے وغیرہ کا زکی خواہش کرنا فحش بکنا بُری بات منہ سے نکالنی۔

اَستعرار رکسکفس) اونٹوں کو خارش کا لگ جانا اور اون مین خارش ظاہر ہونی جیسے استعر الجرب فی الابل

اَستعراز رکسکفس) مشہور ہونا کسی کے گھر دہرا ہونا سخت ہوجانا سکڑ جانا سمٹا ہوا ہونا۔

اَستعراض رکسکفس) کسی کو بے دریافت حال مار ڈالنا عرض کرنے کی خواہش کرنی زمین گیا ہ ناک کو ظاہر کرنا متہم ہونا موٹا ہو جانا اس معنے مین مجہول استعمال کیا جاتا ہے۔

اَستعراف رکسکفس) پہچاننا چاہنا

اَستعراق رکسکفس) پسینے کے لئے حرارت کے آگے آنا درخت کا زمین مین جڑ کو چھوڑ دینا۔

اَستعزاز رکسکفس) مرض کا کسی پر سخت ہونا اور اوسکی عقل پر غالب ہونا خداتعالی کا کسی کو مار ڈالنا اپنی جگہ پر ریت کا ٹھہرنا اور سخت ہونا۔ کسی کے حق پر غلبہ کرنا۔

اَستعساب رکسکفس) ناپسند رکھنا

۱۸۲

۱۲۰

تھنچنا ایک شخص کی تدبیر دیکھنی -
استطلاق رکسکفس) پیٹ کا
چلنا جھوٹے کا پیٹ ملتی کو رات
لیئے پسند کرنا -
استطلال رکسکفس) آگاہ ہونا -
اوپر سے نیچے دیکھنا -
استطعام رکسکفس) پھل اور شیم کے
پکانے کا وقت آپہنچنا -
استطار رکسکفس) کتیا کا نر کا مشتاق ہونا
استطفاف رکسکفس) ہر ہرن کی گردن
استظلال رکسکفس) سایہ کی خواہش
کرنی امداد کسی کی طرف پناہ لیجانی اور
سایہ میں بیٹھنا کسی چیز کا سایہ پکڑنا
خوشے دار انگور کی شاخون کا لپیٹ
لپٹنا آنکھ کا گڑھے میں گھس جانا -
خون کا پیٹ میں جاری ہونا -
استظہار رکسکفس) یاد کرنا کتاب کا
از بر پڑھنا کتاب کو ظاہر پڑھنا مدد کو
پشت ہونا مدد چاہنی اونٹ کو حاجت
کے لیئے آمادہ کرنا -
استعادۃ رکسکفس) ایک چیز کی
عادت پکڑنی پھر اُسے کام کو دوبارہ
کرنی جسے پہلے کیا تھا عود کرنی چاہنی

استعاذہ رکسکفس) پناہ لیجانی
استعار رکسکفس) آگ بھڑکانا یا
جلانا استعار قوم کو ساعر شتر میں
کھجلی ہو جانی چوپایون کا حرکت میں
آنا جنگ اور بدی کا منتشر و فاش
ہو جانا مرگا مرگی کی شدت ہر چیز کی شدت
استعارۃ رکسکفس) ایک چیز کو
عاریۃ چاہنا تنہا ہونا ایک چیز کو
دست بدست پھرانا -
استعاضۃ رکسکفس) عوض دینا
عوض چاہنا بدلا چاہنا -
استعاط رکسکفس) اپنی ناک میں دوا
استعانت رکسکفس) مدد چاہنی
زیر ناف کے بال استرے سے مونڈ کر
اوکھاڑ کر نورے سے -
استعاییہ رکسکفس) کام میں عاجز
ہونا تھک جانا بخوبی انجام نہ سکنا
استعباد رکسکفس) غلامی میں
لینا غلام کی مانند کر لینا -
استعبار رکسکفس) آنسو کا جاری
ہونا تعبیر چاہنی -
استعتاب رکسکفس) ایک چیز
کی آرزو کرنی سبب سے پھرنا -

اَستعلاج (کسکسفس) چمڑے کا سخت ہو جانا
اَستعلاف (کسکسفس) اچھا پیٹ کا بہنا کے چارہ مانگنا۔
اَستعلام (کسکسفس) ایک چیز کی خبر پوچھنی۔
اَستعمار (کسکسفس) کسی کو ایک مکان کا باشندہ کر دینا۔
اَستعماش (کسکسفس) کسی کو احمق جاننا بیوقوف گننا۔
اَستعمال (کسکسفس) کام میں سکتا کام کرنے کی خواہش کرنی عمل چاہنا نشتر وغیرہ کو کام میں لانا۔
اَستعمام (کسکسفس) اچھا بنا لینا عمامہ سر پر باندھنا۔
اَستعناد (کسکسفس) قوم میں زنا کرنا کسی کا قصد کرنا قے کا غالب ہو جانا مہار اور رسی پر اونٹ اور گھوڑے کا غالب ہونا آدمیوں کا عصا سے مارنا سر مشک کو باہر کو لپیٹ کر پانی پلانا۔
اَستعناز (کسکسفس) یکسو ہونا کنارہ قبول کرنا۔
اَستعواء (کسکسفس) کسی سے فریاد

چاہنی امداد اوسکو فتنہ کی طرف بلانا اور کسی شئی چاہنی۔
اَستعهاد (کسکسفس) کسی کے ساتھ پیمان کرنا سوگند نامہ لکھنا پیمانہ لکھنا کسی کو اپنے حوادث نفس سے تاوان لینا
اَستغاثہ (کسکسفس) فریاد چاہنی
اَستغارہ (کسکسفس) لوٹنا۔ کسی پر دوڑ جانا خدا تعالیٰ سے خیر چاہنی تخم کا سوج جانا زمین نشیب میں اترنا قصد کرنا حیلی پکڑ جانا یعنے موٹا ہو جانا۔
اَستغالہ (کسکسفس) عورت کا بچہ کو غیل دودہ پلانا دودہ پلاتی ہوئی عورت کا جماع کو چاہنا کدو کا آپس میں شاخ و برگ کا لپٹا ہوا ہونا۔
اَستغثاث (کسکسفس) زخم میں سے پیپ نکالنی اور اوسکا علاج کرنا
اَستغدار (کسکسفس) جگہ کا آبگیر ناک ہو جانا۔
اَستغداء (کسکسفس) زور سے زمین پر دے مارنا۔
اَستغراب (کسکسفس) ہنسی میں مبالغہ کرنا اس معنے میں معروف

۱۸۵
۱۱ عہد
۱۲ عوث
۱۳ عور
۱۴ غیل
۱۵ غثث
۱۶ غدد
۱۷ غدو
۱۸ غرب
۱۲

عشر
عسر
عسل
عسی
عشو
عشی
عصر
عصم
عصف
عصو
عضد
عطر
عطف
عظم



اسکی خواہش کرنی۔
اِسْتِعْسَار (کسکفض) سخت اور دشوار ہونا۔ کام کا دشوار ہونا۔ ملتوی اور بیگانہ سمجھنا۔ دشواری چاہنی۔
اِسْتِعْسَال (کسکفض) شہد مانگنا۔ شہد ڈھونڈھنا۔
اِسْتِعْسَان (کسکفض) اونٹ کا کم کھانا۔
اِسْتِعْشَاء (کسکفضم) کسی کو سرگشتہ پانا۔ استعشی نارا آگ کی روشنی سے راہ پائی۔
اِسْتِعْصَار (کسکفضم) کسی گناہ پر بلانا۔
اِسْتِعْصَام (کسکفض) ہوا کا اور چیز پر ہاتھ مارنا جو گر پڑنے کے خوف کے لیے بنا دیتے ہیں رک دینا۔
اِسْتِعْضَاد (کسکفض) درخت کا میوہ توڑنا۔
اِسْتِعْضَاۃ (کسکفض) کسی جا ڈھونڈھنا۔
اِسْتِعْطَاء (کسکفضم) بخشش چاہنی۔
اِسْتِعْطَار (کسکفض) عطر ملنا۔ عطر لگانا۔ عطر ملنا چاہنا۔
اِسْتِعْطَاف (کسکفض) مہربان ہونا چاہنا۔
اِسْتِعْظَام (کسکفض) کسی کو بزرگ دیکھنا۔ بزرگ گننا۔ بزرگی

کرنی۔ ایک چیز کی بڑی جگہ پکڑ لی۔
اِسْتِعْفَاء (کسکفضم) تکلیف کو معاف کرنا چاہنا۔ اونٹ کا خشک گھاس کو مونھ سے پکڑ کر صاف کرنا۔
اِسْتِعْفَاف (کسکفض) بچنے اور عفت پارسائی کرنی۔ حرام سے رک جایا چاہنا۔
اِسْتِعْقَاب (کسکفض) عوض لینا۔ کسی کی شرمگاہ اور لغزش ڈھونڈھنی۔
اِسْتِعْقَاد (کسکفض) مادہ خوک کا نر کی خواہش کرنا۔
اِسْتِعْقَار (کسکفض) خوش الحنی کے ساتھ آواز کو بلند کرنا۔
اِسْتِعْکَاد (کسکفض) سوسمار اور اونٹ کا موٹا ہو جانا۔ شکار کا خوف سے شکاری کے کسی چیز میں داخل ہونا اور اس میں چھپا ہوا ہو جانا۔
اِسْتِعْلَاء (کسکفضم) ایک چیز پر چڑھ آنا۔ ذ کا چڑھ آنا۔ اسکو بلندی پر رکھنا۔
اِسْتِعْلَاب (کسکفض) گوشت کے سخت ہو جانے کے پیچھے اس کی بدبو بد لگانی۔ چوپایہ کا ساگ کھانے کو ناپسند رکھنا اور بھاری اور سخت جاننا۔ ایک چیز کو سخت اور ناخوش پانا۔

(کسکفسعت) بیماری کا اچھا ہونے لگنا صحت کا شبہ دکھانا ۔ اوشی کو فراق خواہ کر دو ہنا ۔ شراب سے مدہوش رہنا مست وغیرہ کا ہوش میں آنا

استفاقہ (کسکفس) استفاقۃ (کسکفسعت) کم خوارگی کے بعد بہت کھانے والا اور بہت پینے والا ہو جانا یا پانی پینے سے کسی کی پیاس بجھ جانی

استفتاء (کسکفسم) فتوے کا جواب چاہنا ۔

استفتاح (کسکفس) فتحمندی ڈھونڈھنی کھولنا ۔ یا راہ مدد گار چاہنا ۔ شروع کرنا ۔

استفتار (کسکفس) گھوڑے کا کھنچا ہوا چلنا ۔

استفحال (کسکفس) کام کا بڑا ہونا ۔ ہو جانا ۔ اچھا قوی سانڈ تلاش کرنا ڈھونڈھنا ۔

استفحاذ (کسکفس) سست گوش یعنی لٹکے ہوئے کان والا ہونا ۔ تابعدار ہونا ۔ فرمان بردار ہونا ۔

استفخار (کسکفس) شیٔ فاخر چاہنی شیٔ فاخرہ خریدنی ۔

استفداح (کسکفس) کام بھاری اور دشوار پانا ۔

استفداد (کسکفس) جھگڑنا ۔ اصرار کرنا خودرائی کرنی ۔

استفراخ (کسکفس) بچہ نکالنے کے لئے جگہہ مقرر کرنی ۔ چوزہ کے باہر نکلنے کی راہ رکھنی چوزہ کے لئے بیضہ میں سے باہر نکلنے کے لئے جگہہ معین کرنی ۔

استفراد (کسکفس) ایک چیز کو اسکے ساتھیوں سے اکیلا نکال لانا ایک کام کو اکیلے کرنا اکیلا چھوڑ دینا

استفراع (کسکفس) ایک کام اور ایک کلام کو شروع کرنا ۔ اونٹ اور بکری کے پہلے بچہ کو ذبح کرنا ۔

استفراغ (کسکفس) قے کرنی معدہ کو فضلات سے خالی کرنا ایک کام میں اپنی قوت کو صرف کرنا ۔

استفراک (کسکفس) دانہ کا خوشہ میں موٹا ہو جانا ۔

استفرام (کسکفس) فرج کو دوا سے تنگ کرنا ۔

استفراہ (کسکفس) اصیل اور نجیب

ماده

ف و ق
ف ت و
ف ت ح
ف ت ر
ف ح ل
ف ح ج
ف خ ر
ف د ح
ف د د
ف ر خ



فرد
فرع
فرغ
فرک
فرم
فره

۱۲

[illegible]

استغفر ... مفعول ... استعمال ... کو

استغراد (کسکسفس) بعوض کا کمی کو

نہیں آزادی میں لانا

استغرار (کسکسفس) غفلت میں ہونا۔ کسی کی بیخبری میں آنا

استغراق (کسکسفس) سب گھیر لینا۔ ڈوب جانا یعنی متوجہ ہونا۔ بہت زیادہ مشغول ہونا۔ سبطرح شکم کا گھیر لینا اتنا کہ تنگ ہو جاوے

استغشا (کسکسفسم) کپڑے کو اسطرح اوڑھنا کہ کچھ دیکھ سکو اور نہ کچھ سن سکو

استغشاش (کسکسفس) کسی کو خائن سمجھنا۔ کھوٹ کا گمان کرنا۔ خیانت چاہنی۔ خیانت کرنی

استغفار (کسکسفس) گناہ کی بخشش چاہنی

استغلاط (کسکسفس) خوشہ کا دانہ نکال لانا۔ کپڑے کو سبب گندہ پن اور کھردرے پن کے نہ خریدنا۔ غلیظ ہونا۔ ایک چیز کو دلدار سمجھنا

استغلاق (کسکسفس) کلام میں کسی کا بند ہو جانا۔ سمع کو پورا کرنا کہ پھر نہ واپس ہو سکے

استغلال (کسکسفس) غلہ لانا چاہنا

بمقدمے لینی یعنی اسکی حملہ ور ہونے پر جرح کرنا

استغنا (کسکسفسم) بے نیاز ہونا

استفا (کسکسفسم) حیلہ کرنا

استفادہ (کسکسفسف) رجوع کرنا۔ غنیمت لینی۔ لوٹ کی چیز لینی

استفاجہ (کسکسفسف) کسی کا سبک سمجھا جانا اور اسکا ذلیل اور خوار رکھا جانا۔ اسکا مجہولاً استعمال ہے

استفادہ (کسکسفسف) فائدہ حاصل کرنا۔ فائدہ دینا۔ فائدہ لینا۔ فائدہ چاہنا

استفاضہ (کسکسفسف) پانی بہانا کرنا چاہنا۔ نالہ کا فراخ اور بہت وسعت والا ہونا۔ خبر اور کلام کا ظاہر ہونا

استفاط (کسکسفس) ایک کام میں نہایت کوشش کرنی اور کوزے کا سارا پانی پینا

استفاع (کسکسفس) ڈر وغیرہ سے رنگ بدلجانا۔ مجہولاً مستعمل ہے۔ آسمان کا دھندلا ہونا جو ہوا اور گرد وغیرہ کے اور گھٹنے سے ہو جاوے۔ سوج جانا

استفاف (کسکسفس) سفوف پھانکنا یا سفوف کھانا۔ ایک چیز کو اٹھا لینا

استفاق (کسکسفس) استفاقہ

اَستقدا د رکسکفس ایک مرتبہ ہمیشہ رہنا اور خون کا ایک تیز پیدا ہونا ایک چیز کا بار بار ہوا کرنا
اَستقدار رکسکفس قدر جانچنی اندازہ کرنا چاہنا۔
اَستقدام رکسکفس آگے آنا بہت پیش قدمی اور دلیری کرنی درپیش ہونا چاہنا۔
اَستقذار رکسکفس پلیدیجنا کراہت کرنی۔
اَستقرا ء رکسکفسم مثل کا سب اور چیز کا جمع کرنا پیروی کرنی ڈھونڈھنا تفتیش کرنی۔
اَستقرا ء رکسکفسم ایک جگہہ سے دوسری جگہہ جانا مہمانی چاہنی
اَستقرار رکسکفس آرام لینا ایک جگہہ قرار اور ثبات اختیار کرنا جگہہ پکڑنی۔
اَستقراض رکسکفس اعطا چاہنا
اَستقراع رکسکفس کسی سے ساتھ عاریت مانگنا اور نئی کا کشش خواہ ہونا یا مادہ گاؤ کا
شم سقوط کا سخت ہونا۔ اور چھری کی شکن جاتی رہنی
اَستقران رکسکفس ایک کام کر سکنا۔ توانا ہو جانا۔ رگ میں خون کا زیادہ ہونا۔
اَستقسام رکسکفس قسم کھانی چاہنی تمار کے تیروں کو حصہ کرنا چاہنا اور اپنا حصہ چاہنا۔
اَستقصا ء رکسکفسم کوشش تمام کرنی ایک چیز کی نہایت پہنچ جانا
اَستقصا د رکسکفس میانہ روی کی
اَستقصار رکسکفس کسی کو مقصر گننا کسی کو کتاہی کی طرف نسبت کرنا
اَستقصاص رکسکفس کسی سے قصاص لینا۔
اَستقضا ء رکسکفسم قرض کا ادا کرنا چاہنا تقاضی کرنا اس معنی میں مجہولاً مستعمل ہے۔
اَستقضاض رکسکفس جگہہ کا کنکری بھرا ہو جانا خوابگاہ کو سخت اور کھردرا پانا۔
اَستقضام رکسکفس خشک سال میں قوم کا ایک شہر سے تھوڑا سا طعام لانا۔

سخ قد ر
سخ قد ر
سخ قد ر
سخ قد ر
سخ قد م
سخ قد ر
سخ قر ی
سخ قر ر
سخ قر ض
سخ قر ع
سخ قر ن
سخ قس م

189

۱۰ قرن
۱۱ قسم
۱۲ قصو
۱۳ قصد
۱۴ قصر
۱۵ قصص
۱۶ قضی
۱۷ قضض
۱۸ قضم

۱۳

استفراغ (کسکسفن) قے کرنا

استفراز (کسکسفن) ہلکا سمجھنا۔ ذلیل اور خوار رکھنا۔ جگہ سے اوکھاڑنا گھر سے باہر کر دینا۔ ڈرانا کسی کسے خوف کو ہلکا کر دینا۔

استفساد (کسکسفن) فسادچاہنا

استفسار (کسکسفن) پوچھنا۔ بیان کرانے کی خواہش کرنی۔

استقصاص (کسکسفن) ایک چیز کو باہر نکالنا۔

استفضال (کسکسفن) ایک چیز میں سے کچھ باقی چھوڑ دینا۔ زیادہ لانا۔ فضیلت چاہنی۔ بھلائی کا ہونا۔ اپنی بزرگی اور فضیلت اور بڑائی کی خواہش کرنی۔

استفظاع (کسکسفن) ایک امر کو سخت اور برا پانا۔

استفلاء (کسکسفم) سر میں سے جوئیں ڈھونڈنے کی خواہش کرنی۔

استفلاح (کسکسفن) رستگاری پانی۔ رہائی پانی۔

استفلال (کسکسفن) بہت چیز سے تھوڑا سا لینا۔

ایک چیز کے فنون یاد سکھانا۔

استفہام (کسکسفن) سمجھنا چاہنا

استفیال (کسکسفن) ہاتھی کی مانند ہو جانا۔ چنانچہ استفیل الجمل بولتے ہیں۔

استقاء (کسکسفم) پانی چاہنا کوئیں میں سے پانی کھینچنا

استقاءۃ (کسکسفف) ہنسی تکلف سے قے کرنی۔ گلے سے گرا دینا۔

استقامت (کسکسفف) ٹھہرنا سیدھا ہونا

استقادۃ (کسکسفف) زمام اختیار کسی کے ہاتھ میں دینی۔ حاکم سے قاتل کے مار ڈالنے کا حکم چاہنا۔

استقاع (کسکسفن) رنگ میل جانا۔ تھوڑا مستعمل ہے۔

استقالۃ (کسکسفف) اقالہ چاہنا یعنے بیع کا واپس کرنا۔

استقامۃ (کسکسفف) اسباب کا مول لینا۔ سیدھا کھڑا ہونا۔ درست ہونا

استقباح (کسکسفن) کسی کو بڑا قبیح اور برا سمجھنا۔

استقبال (کسکسفن) آگے آ جانا۔

استنکاف ر ک س ک ف س (بہا) ہو جانا
استنکاد ر ک س ک ف س ایک کام کی کد چاہنی
استنکاء ر ک س ک ف س م کرایہ کو لینا
استنکراش ر ک س ک ف س انفحہ کا کرش ہو جانا اور یہہ جب ہوتا ہی کہ جب تک بکری کا بچہ گھاس چرنے لگے اس لیئے کہ بکری کا بچہ جب تک کہ کھاتا نہین ہی تب تک اوسکی اوجہہ کو انفحہ کہتے ہین اور جب کھانے پینے لگتا ہی تب اوسے کرش کہتے ہین بہت کھانے کے سبب بچہ پیٹ بھرنا۔
استنکرام ر ک س ک ف س بزرگواری حاصل کرنی ایک چیز نفیس بزرگ پیدا کرنی۔ ایک بزرگ چیز چاہنی کسی کو کریم اور گرامی پانا۔ گننا
استنکراہ ر ک س ک ف س ناخوش کراہت رکھنی۔ کسی فعل سے جبرا اور قہرا روکنا۔
استنکشاف ر ک س ک ف س کسی کے ننگا کرنے کی خواہش کرنی ایک مطلب کے انکشاف کی خواہش کرنا
استنکشاء ر ک س ک ف س م ایک سیاہ گو

بچہ چوپایہ کا کسی سے چاہنا۔
استنکفاء ر ک س ک ف س م کفایت چاہنی
استنکفاف ر ک س ک ف س ایک چیز کو گھیر لینا اور اوسکو دیکھنا۔ سایہ کا حلقہ مارکر بیٹھنا۔ بالون کا جمع ہو آنا دور کی چیز کے دیکھنے کے وقت آنکھہ کے اوپر بھون پر ہاتھہ دہر لینا خواہش و سوال مین کسی کے ہاتھہ پسارنا
استنکلاء ر ک س ک ف س م زمین کا بہت گھاس والا ہو جانا۔ ہلاکت و تاخیر چاہنی
استنکلاب ر ک س ک ف س آدمی کا کتے کی مانند بھونکنا تاکہ اوسکی آواز سنکر بھونکین اور اونکی آواز سے راہ آبادی کی معلوم کرلے۔
استنکمال ر ک س ک ف س تمام کرنا اچھا کرنا۔ پورا کرنا چاہنا۔
استنکنان ر ک س ک ف س پوشیدہ اور پردہ مین ہو جانا۔
استنکواہ ر ک س ک ف س داغ کرنا چاہنا
استنکلاء ر ک س ک ف س اسکے سے
استنکلاء ر ک س ک ف س م بکری کا موٹا ہو جانا
استنکلاء ر ک س ک ف س م سلار کو بکری کا باہر ڈالدینا۔

اَستقطار بکسر ہمزہ ٹپکا چاہنا۔
اَستقعار بکسر ہمزہ گہرائی چاہنی۔

چرمی سے مانا۔
اَستقحاف بکسر ہمزہ ابر برسانے کے سبب سڑ جانا اور خشک ہو جانا۔
اَستقحال بکسر ہمزہ خشک ہونا۔
اَستقلال بکسر ہمزہ اٹھانا بلند کرنا۔ بلند چڑھنا۔ گھاس کا اونچا اور لمبا ہونا۔ سجانا۔ قوم کا کوچ کرنا۔ اسباب اور متاع لینا۔ کم کرنا۔ تھوڑا گنتا۔ غصہ پکڑنا۔ کسی کو لائق کا پانا۔

۱۹۰ اَستقلاع بکسر ہمزہ کلری کی تھوڑی کا بلند ہونا۔
اَستقناف بکسر ہمزہ رائے اور تدبیر کا درست کرنا۔
اَستقنان بکسر ہمزہ اپنی بکری اونٹنی میں جگہ پکڑنی۔ اس کا دودھ۔ ایک امر میں مستقل ہونا۔
اَستقواس بکسر ہمزہ بڑھاپے کے سبب کبڑا ہو جانا۔
اَستقواحہ بکسر ہمزہ کسی سے شکار کی تقویت چاہنی یعنی شکار کو للکار کر دام میں لانا۔

اَستقرارۃ بکسر ہمزہ دوڑنا۔ جلدی کرنی۔ سرعت کرنی۔
اَستکاک بکسر ہمزہ انبوہ دار ہونا۔ بہرا ہونا۔ کان کا سوراخ تنگ ہونا۔ گریہ اور زاری کرنا۔
اَستکان بکسر ہمزہ عاجزی کرنی۔ گڑگڑانا۔ خوار ہو جانا۔
اَستکانت بکسر ہمزہ عاجزی اور فروتنی کرنی۔
اَستکبار بکسر ہمزہ کسی کو بزرگ دیکھنا اور بڑا گمان کرنا۔ بزرگی دکھانی۔ گردن کشی کرنی۔ بزرگ منشی کرنی۔ بزرگی جتانی۔
اَستکتاب بکسر ہمزہ لکھنا چاہنا۔ لکھنے کو حکم دینا۔
اَستکتام بکسر ہمزہ پوشیدہ رکھنا چاہنا۔ چھپا رکھنا چاہنا۔
اَستکثار بکسر ہمزہ بہت چاہنا۔ کثرت چاہنی۔ ایک چیز میں سے بہت چاہنا۔ بہت مال والا ہونا۔ کھجور کے درخت کا پھول نکالنا۔ ایک چیز پر بہت آنا۔ کوشش کی خواہش کرنی۔

مادہ

۱۹۳

اِسْتِلْفَاخ (کسکفس) باہر نکال لانا۔ ایک چیز کی نہایت پر پہنچنا۔ خبر کو پوشیدہ کرنا۔ حاجت روا کرنی۔ چوپایہ کا سارا چارہ کھا لینا۔

اِسْتِلْقَاء (کسکفسم) چت سونا۔

اِسْتِلْقَاح (کسکفس) خرما بن کو نر دینے کا وقت آنا۔

اِسْتِلْہَام (کسکفس) الہام چاہنا۔

اِسْتِمَاء (کسکفسم) پانی پینا۔ پانی پینا۔ پایتا یہ کا عاریت مانگنا۔ کسی کے لکھنے کا ارادہ کرنا۔

اِسْتِمَاتَۃ (کسکفسف) ایک چیز کو ہر راہ اور ہر طور ڈھونڈھنا۔ لاغری کے بعد موٹا ہو جانا۔

اِسْتِمَاحَۃ (کسکفسف) بخشش ڈھونڈھنی یا شفاعت چاہنی۔

اِسْتِمَارَۃ (کسکفسف) جدا ہونا۔ یکسو ہونا۔

اِسْتِمَاع (کسکفس) سننا۔ کان لگانے۔

اِسْتِمَاقَۃ (کسکفسف) کسی کو احمق گننا۔ بے وقوف جاننا۔

اِسْتِمَال (کسکفس) کسی کی آنکھ کو اندھا کر دینا۔ نابینا کر دینا۔

اِسْتِمَالَۃ (کسکفسف) بہت مال والا ہونا۔

اِسْتِمَالَۃ (کسکفسف) مائل ہونا۔ دو بالشت یا ذراع سے ماپنا۔ کسی کو اچھی باتوں سے اپنا کر لینا۔

اِسْتِمْتَاع (کسکفس) نفع پانا۔ حج کے ساتھ عمرہ گذارنا۔

اِسْتِمْجَاد (کسکفس) زیادتی بکری یا زیادتی چاہنی۔

اِسْتِمْحَاص (کسکفس) خالص کیا جانا۔

اِسْتِمْخَار (کسکفس) آرام کے لیے ہوا میں کھڑا ہونا۔

اِسْتِمْدَاد (کسکفس) مدد چاہنی۔ دوات میں سے سیاہی لینی۔

اِسْتِمْرَاء (کسکفسم) کھانے کا پچنا۔

اِسْتِمْرَار (کسکفس) گذرنا اور ہمیشہ چلنا۔ ایک روش پر چلنا۔ ہمیشگی کرنی۔ ایک چیز کے کھانے میں قوی ہو جانا۔ محکم اور مضبوط ہونا۔

اِسْتِمْسَاک (کسکفس) چنگل مارنا۔

اِسْتِمْشَاء (کسکفسم) مسہل کی دوا کھانی۔

اِسْتِمْصَال (کسکفس) دوا کا دست لانا۔

اِسْتِمْطَار (کسکفس) مینہ چاہنا۔

اِسْتِمْعَار (کسکفس) کام میں

اِستلاب (کسر فتح) چھین لینا۔
اِستلاخ (کسر فتح) پیالہ کا پانی انگلی سے صاف کرنا۔
اِستلاج (کسر فتح) شراب پینے میں ہمیشگی کرنی لعاد میں اصرار کرنا اور بہت کثرت سے پینا۔
اِستلاحہ (کسر فتح) جان پہچان ہونا خوب پیاسا ہونا۔
اِستلاطہ (کسر فتح) کسی کو بیٹا بنا لینا اپنے اوپر چپٹانا چسپاں کرنا واجب کرنا۔
اِستلال (کسر فتح) تلوار وغیرہ کو سونتنا۔
اِستلام (کسر فتح) پتھر کو ہونٹھ یا ہاتھ سے چھونا کھیتی کا خوشہ نکلنا۔
اِستلام (کسر فتح) لڑکیوں کے ساتھ خوشی اور سعد بیان کرنا کہیں میں سے عورت یعنی سندرہ پہننا۔
اِستلامتہ (کسر فتح) کسی کے ساتھ ایسا کام کرنا کہ دوسرا ملامت کرے۔
اِستلانہ (کسر فتح) نرم گننا نرم پانا۔
اِستلباء (کسر فتح) بچے کا آپ سے پیوسی کھیس میں چوسنی۔
اِستلباث (کسر فتح) کسی کو سستی سے ٹہیل اور دیر کرنے والا گننا۔

اِستلثان (کسر فتح) [illegible] ڈھونڈنا۔
اِستلجاج (کسر فتح) کسی کے اپنا دعویٰ جھگڑنا سوگند میں اصرار کرنا سچ کے گمان سے سبب کفارہ نہ دینا۔
اِستلحاق (کسر فتح) [illegible] کے لئے آمادہ ہونا۔
اِستلحام (کسر فتح) [illegible] یا فراخ اور سیدھی تر راہ کے پیچھے ہونا راہ کا فراخ ہونا جنگ میں شمشیر کا کسی کو گھیر لینا مار ڈالنا۔
اِستلذاذ (کسر فتح) ایک چیز کو مزیدار پانا ایک چیز کو خوش مزہ گننا۔
اِستلسام (کسر فتح) ڈھونڈنا طلب کرنا مانگنا۔
اِستلطاف (کسر فتح) ایک چیز کو اپنے بازو اور پہلو پر چپٹانا ساتھ کا اپنے ذکر کو دھنی کی کسی میں بغیر دوسرے کی مدد کے داخل کرنا۔
اِستلطام (کسر فتح) طمانچہ ملنا۔
اِستلعاب (کسر فتح) خرما کا کاٹ لینے کے بعد خرما بن کا عود کر نکال لانا۔ بازی کرنی چاہنی۔
اِستلغاء (کسر فتح) بات کو کان لگا نکالنا۔

آگے ہو جانا۔ شاخ درخت کا ہلنا۔
اُستنامۃ (کسکفسف) آرام و قرار پکڑنا۔ اپنے تئیں سویا ہوا ظاہر کرنا۔
اُستنان (کسکفس) دانت ملنے اور اوچھلنا۔ ایک شئی کا نمایاں اور ناپدید ہونا۔
اُستناء (کسکفسم) کھوج لگانا۔ خبر کی تفتیش کرنی۔
اُستنباح (کسکفس) کتے کو بھونکوانا چاہنا۔ کتے کو بھونکوانا۔
اُستنباط (کسکفس) کوئیں کھودنے والے کا پانی پر پہنچ جانا۔ پانی نکالنا۔ قوم کا نبطی ہونا۔ ایک چیز کا باہر لانا۔ پنہاں ہونے کے بعد آشکارا ہونا۔ اس معنی میں مجہولاً مستعمل ہے۔
اُستنبال (کسکفس) اچھا برگزیدہ مال لینا۔ تیر چاہنا۔
اُستنباء (کسکفسم) دل کا بہت ہونا۔
اُستنتار (کسکفس) خوب کھینچنا۔ باہر کو لانا۔ نکال لانا۔
اُستنتال (کسکفس) صف سے آگے ہونا۔ کام کے لئے آمادگی کرنی۔
اُستنتاج (کسکفس) دو گون

مین سے ایک کا لٹکا ہوا ہونا۔
اُستنثار (کسکفس) ناک صاف کرنی۔ ناک میں پانی کرنا۔
اُستنجاء (کسکفس) ہائی پانی درخت کو جڑ سے کاٹنا۔ کسی سے اپنی حاجت نکالنی۔ پانی اور ڈھیلے سے استنجا کرنا۔ ترخرما توڑنا۔ رطب پانا سیا اوسکو کھانا۔ پھل کو توڑنا۔ کچھ ہو سو غنیمت کرنی۔ کمان کھینچنی۔
اُستنجاث (کسکفس) باہر لانا۔ ایک چیز کے سامنے آنا اور تعرض کرنا اور اوسکے درپے چلنا۔
اُستنجاح (کسکفس) رواج و رسم چاہنی۔
اُستنجاد (کسکفس) مدد چاہنی۔ سستی کے بعد قوی ہونا۔ خوف کے بعد دلیری کرنی۔
اُستنجاز (کسکفس) علاج چاہنا۔ وعدے کو وفا کرنا چاہنا۔
اُستنجاع (کسکفس) طعام سے ہضم اور موٹا چاہنا۔ مجہولاً مستعمل ہے۔
اُستنجاف (کسکفس) ہوا کا ابر کو ہٹا دینا۔
اُستنجال (کسکفس) زمین کا بہت زہاب والا ہونا۔

نغض
سنن
نمی
نبہ
نفخ
نبح
نبط
نبل
نبو
نتر
نتل
نتج
نثر
195
نجو
نجث
نجح
نجد
نجز
نجع
نجف
نجل

...شش کرنی سعی کرنی۔
استمکات (کسکسفس) اپنے لیے کام ہونا۔
استکمال (کسکسفس) بھرپور ہونا۔
استمکان (کسکسفس) قائم ہونا۔ ایک چیز پر قادر ہونا۔
استملاء (کسکسفسم) سعی کرنی۔ املا پوچھنا۔ املا چاہنا۔
استملاح (کسکسفس) کسی کو ملیح سمجھنا۔
استملال (کسکسفس) آزردہ ہونا۔ رنجیدہ ہونا۔ عاجز ہونا۔
استمناء (کسکسفسم) منی باہر نکالنی چاہنی۔ اونٹنی کو ایام عنیہ میں حامل ہو گئی ہوئی خیال کرنا۔
استمناح (کسکسفس) بخشش چاہنی۔
استمہاک (کسکسفس) صف توڑنی۔
استمہال (کسکسفس) مہلت چاہنی۔
استن (فسفت) سگے ہوئے درخت کی جڑ۔ استنۃ (فسفسف) ایک لغت ہے وحدت ہے۔ یا ایک درخت جسکی جڑ مین پراگندگی ہووے اس طرح پہ کہ دور سے آدمی کے کالبد کی شکل پہ دکھائی دیوے۔

استناء (کسکسفسم) ستارہ کا مغرب میں غروب ہونا اور اوسکے رقیب کا مشرق میں نکلنا۔
استناوۃ (کسکسفسف) یعنی استعطاء بخشش چاہنی۔
استناحۃ (کسکسفسف) نوحہ کرنا۔ بھیڑیے کا آواز کرنا۔ مرد کا رونا۔ دوسرے کو رولانا۔
استناخۃ (کسکسفسف) اونٹنی کا اونٹ کے آگے جفتی کے لئے بیٹھ جانا۔
استناد (کسکسفس) کسی چیز کی طرف کمر لگانی۔
استنارۃ (کسکسفسف) روشن ہونا۔ شعاع سے مدد چاہنی۔ روشنی ہونی۔ عورت کو تہمت سے دور رکھنا۔
استناصۃ (کسکسفسف) پیچھے رہجانا۔ حرکت دینی۔ کسی کو ذلیل سمجھ کے اپنے کام کے لئے لیجانا۔ گھوڑے کا چلنے کے لئے حرکت کرنا۔
استناطۃ (کسکسفسف) استناط فلان بعیر فلان اپنے اونٹ کو کسی کے ہمراہ کیا تاکہ اوس پر اوسکے لئے غلہ لاوے۔
استناعۃ (کسکسفسف) آپ چلنے میں

آپس مین کلام کرنا کلام کرنا چاہنا۔
اُستنظار رکسکسفس) مہلت اور توقف چاہنا۔
اُستنظاف رکسکسفس) ایک چیز کو پورا لینا
اُستنعاء رکسکسفس) اونٹنی کا آگے چلنا یا دوڑتے ہوئے اولٹا پھرنا۔ یا اپنے مالک سمیت دوڑنا یا پراگندہ اور منتشر ہونا۔ مرد کا بھیڑ کو پکارنا اور آگے ہو جانا کہ پیچھے چلی آوے کسی چیز پر ... ... پہنچی۔ کسی چیز کی محبت ور از اور دیر تک رہنی۔ کسی کے ذکر کا فاش ہو جانا۔ اونٹوں وغیرہ کا بھاگ جانا اور متفرق ہونا
اُستنعات رکسکسفس) صفت کرنی چاہنی۔
اُستنفاج رکسکسفس) غصہ کا آشکار کرنا
اُستنفاد رکسکسفس) غنیمت کرنا۔ اپنی کوشش اور طاقت کو نثار دینا۔
اُستنفار رکسکسفس) بھاگ جانا نفرت کرنی۔ بھگانا باہر ہونا چاہنا
اُستنفاض رکسکسفس) جگہ مین جو کچھ ہے اوسکو دیکھنا تاکہ پہچان لیوے پیشاب پانی سے ذکر کو پاک کرنا اور کسیقدر نکالنا۔ دشمن کی تجسس کو ایک جماعت کا بھیجنا۔ پتھر سے استنجا کرنا۔
اُستنفاق رکسکسفس) مالکو خرچ دینا۔
اُستنقاہ رکسکسفس) آرام کرنا۔
اُستنقاذ رکسکسفس) کسی کو کسی سے چھڑوانا
اُستنقاص رکسکسفس) خریدار کا مبیع کی قیمت سے کم کرنا چاہنا۔
اُستنقاع رکسکسفس) تالاب مین اوترنا اور اوس مین غسل کرنا اور خنک ہونے کے لیے اوسمین ٹھہرنا جیسے
اُستنقع فی الغدیر پانی کا تالاب مین جمع ہونا اور اوس مین ٹھہرنا۔ رنگ کا بدل جانا۔ اس معنی مین مجہولاً مستعمل ہے آواز کا فریاد مین بلند ہونا پانی کا جلد متغیر ہو جانا۔ روح کا باہر نکلنا یا اوسکا دہن مین آپہنچنا۔ ایک چیز کو پانی مین بھگونا۔ اس معنی مین مجہولاً مستعمل ہے۔
اُستنکاہ رکسکسفس) کلام کو سمجھنا۔ پوچھنا۔
اُستنکاح رکسکسفس) جماع کرنا

مادہ
نطق
نظر
نظف
نعو
نعت
نفج
نفد
نفر
نفض
نفق
نقہ
197
نقذ
نقص
نقع
نقہ
نکح
12

۱۹۶

اَستحماس (کسفنس) ... کی چیز کا جھوٹا ہونا۔

اَستحجاب (کسفنس) عورت کا جماع کو چاہنا۔ ایک چیز کو چھانٹ لینا۔

اَستخلاج (کسفنس) ... اور ... سیاہ ہونا۔

اَستنداص (کسفنس) کسی سے اپنے حق کو باہر نکالنا۔

اَستنداہ (کسفنس) راستی ... مستقیم ہونا کام کا۔

اَستنزاف (کسفنس) بدکار اور نافرمان ہو جانا۔

اَستنزال (کسفنس) نیچے لانا نیچے بھیجنا اپنے مرتبہ سے نیچے گر پڑنا۔ اور ... سے اوتر نے کی خواہش کرتی۔

اَستنساء (کسفنس) قرض میں مہلت اور مدت چاہنی اور دودھ کھینچنا چاہنا۔

اَستنساب (کسفنس) کسی کا نسب یاد کرنا کسی کی اصل و نسب کو یاد کرنا چاہنا۔

اَستنساخ (کسفنس) نقل کرنا ایک کتاب کا دوسری کتاب سے۔

اَستنسار (کسفنس) قوت میں ...

... نرگس کے مشابہ ہونا۔

اَستنشاء (کسفنس) اخبار کی پیروی ... استنشیع کی بمعنی استنشاء۔

اَستنشاد (کسفنس) شعر کی روایت چاہنی سند چاہنی۔

اَستنشاط (کسفنس) اپنے کام ... جاننا ...

اَستنشاق (کسفنس) پانی وغیرہ ناک میں ڈالنا۔ ایک چیز کو سونگھنا۔

اَستنصات (کسفنس) خاموش سننا چاہنا۔

اَستنصاح (کسفنس) کسی کو ناصح شمار کرنا۔

اَستنصار (کسفنس) مدد چاہنی۔

اَستنصاف (کسفنس) کسی سے اپنا تمام حق لینا۔

اَستنضال (کسفنس) گرمی کا خار خشک ہونی کو اکھوا کر دینا ... کو باہر لانا۔ ہوا گرم کا خار ہی کو گرا دینا۔

اَستنضاح (کسفنس) وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی چھڑکنا۔

اَستنضاض (کسفنس) احسان اور بخشش چاہنی قرض کا ... کو لینا چاہنا یا دین کو تھوڑا تھوڑا اسکا لینا چاہنا۔

اَستنطاق (کسفنس) گویا کرنا ...

ت کے لیئے آپ ہی آپ ایک چیز کی
طرف مشغول ہونا - لپنے لیئے
برگزیدہ کرنا - اثرہ اسکا اسم ہے -
ایک چیز کو بہت چاہنا -
اُستیثاق (کسکسفس) کسی سے تقیہ لینا
اُستیثان (کسکسفس) اونٹوں کا
فربہ ہو جانا - ایک چیز کا باقی رہنا -
ایک چیز کا استوار ہونا - مال کو بہت
کمانا - خرما کے درختوں کا دو فرقہ
ہو جانا یعنی چھوٹے اور بڑے - شتر بچوں کا
اونٹوں سے بیرہ ہونا -
اُستیثج (کسکس) بمعنی استثاج (کسفس)
اُستیجاب (کسکسفس) ایک چیز کا
مستحق اور سزاوار ہونا -
اُستیجار (کسکسفس) مزدوری پر
ایک چیز چاہنی -
اُستیجاز (کسکسفس) تکیئے پر خم
ہونا اور تکیہ نکرنا -
اُستیجاف (کسکسفس) محبت کا
دل کو شیفتہ اور آشفتہ کرنا اور اوسکو بیجا
اُستیجال (کسکسفس) مہلت چاہنی
اُستیجام (کسکسفسم) حرکت دینی
بھیجنے کے لیئے کسی کو بلانا - کفایت

کرنا چاہنا - فریاد چاہنی -
اُستیحاد (کسکسفس) تنہا ہو جانا - جانا
اس معنی مین استعمال اسکا نفی کے
ساتھ ہوتا ہے جیسا ما استاحد بہ
یعنے نہ جانا اوسکو -
اُستیحاش (کسکسفس) اندوہگین ہونا
وحشت پانی -
اُستیحاء (کسکسفسم) خبر چاہنی ...
اُستیخاء (کسکسفس) مرادف تاخی
ت یعنے پیچھے رہجانا اور درنگ کرنی -
اُستیخام (کسکسفس) طعام وغیرہ
کا گران اور ناگوار ہونا -
اُستیداء (کسکسفس) کسی سے مدد
اور نصرت چاہنی کسی پر ڈنڈ کرنا
اُستیداء (کسکسفسم) کسی کے حق کی طرف میل
اُستیداب (کسکسفس) ادب سکھنا
تادب کا مرادف ہے -
اُستیداع (کسکسفس) نگاہ رکھنا
چاہنا - ودیعت چاہنا -
اُستیداف (کسکسفس) آوند کا
سر کھولنا اور اوس سے مطلع ہونا چربی کو
قطرہ قطرہ ٹپکانا - خبر کی تفتیش کرنی
عورت کا آب مرد کو زہدان مین جمع کرنا

مادہ
وثق
وثن
وثج
وجب
وجر
وجز
وجف
وجل
وجم
۲۰۱
وحد
وحش
وحی
وخی
وخم
ودی
ودی
ادب
ودع
ودف
12

ماده

٤٠٠

سپہ دار کو مار ڈالنا یا اوسکو قیدی کرنا

قوم کی عورتوں کی سردار بیاہ لانا۔

استیا ر (کسکفس) قوت ید رکھنا

کسی کی روش پر چلنا۔ جانا۔

استیا ر (کسکسس) ایک دوسرے

کے پیچھے بھاگنا رم کرنا۔

استیا س (کسکفس) ناامید ہونا

استیا ف (کسکفس) سونگھنا۔

استیا غ (کسکفس) تلوار مارنی۔

استیا ق (کسکفس) چوپایہ کو ہانکنا

استیا ک (کسکفس) دانت ملنے

مسواک کرنی۔

استیا ک (کسکسس) انبوہ دار اور

آپسمیں پیچیدہ ہونا پیلو کا۔

استیا ل (کسکسس) اونٹوں کا

جمع ہونا۔ اکٹھا ہونا۔

استیا م (کسکفس) قیمت کرنی

مول کرنا قیمت پوچھنی و بیچنی و بیع۔

استیا ه (کسکفسم) طعام کا بو جھل

اور ناگوار ہونا جگہ کا وبا رسیدہ اور

کثیر الموت پانا۔

استیا ط (کسکفس) گڑھے میں

فراخ شکم گڑھا کھودنا۔

---

استیاق (کسکفس) ہلاک ہونا

ہلاک ہو جانا۔

استیا ل (کسکفس) جگہ کا ناموافق

ہونا کہ ہضم طعام بخوبی ہو اگرچہ

پسند ہو یا ہضم کی خواہش کرنی

استیا ر (کسکفسم) کسی شخص کا

کسی کو مٹھا پانا پس اوس کا پاس آنا

چاہنا۔ لعینی کا کشش خواہ ہونا۔

استیا ن (کسکفس) مرد کا

گدہی کو خریدنا اور اوسکو اپنے لیے

برگزیدہ کرنا اور بولتے ہیں استیاتت

الحمار۔ یعنی گدہی گدھا ہو گیا مثل میں

ہے کان حمارا فاستاتن یعنی گدھا

تھا کہ گدہی ہو گیا یہہ اوس شخص کے

حق میں کہتے ہیں کہ بعد از ارجمندی

و عزت کے خوار و ذلیل ہو جاوے

اونٹوں کا موٹا ہو جانا۔

استیا ح (کسکفس) بعض گھاس کا

بعض میں آویختہ ہونا اور اوسکا پورے

قد کا ہو جانا اونٹوں کا بہت ہونا

بہت مال دار ہونا علیہم

استیا ر (کسکفس) اچھی خبریں

اپنے لیے چھانٹ لینی نہ اپنے یاروں کو

اَشتِیطار رکسکفس گھوڑے
کے سارے قدم کو نکالنا جیسے
اُستُوکشی فرسہ گھوڑی کو ایڑی
سے مارنا جیسے استوشی فلان
بعقبہ وتیز استیشاء پکارنا۔
ہر ایک چیز کو حرکت دینی۔
اَستِیشار رکسکفس بمعنی اَشّار
رکسکفس یعنی عورت کا دانتون کو
تیز اور باریک کرنا چاہنا تاکہ کم
سن معلوم ہووے۔
اَستِیشاء رکسکفس پانی کھینچنا
اَستِیشاع رکسکفس پھٹے
ہوئے ڈول سے پانی کھینچنا۔
اَستِیشام رکسکفس دشنام
کرنا چاہنا یعنی گدانا۔
اَستِیصاء رکسکفسم وصیت قبول کرنی
اَستِیصار رکسکفس پہاڑ
مین خطیرہ بنانا۔
اَستِیصاف رکسکفس طبیب
سے علاج کرنا۔ دوا کرنی۔
اَستِیصال رکسکفس جڑ سے
اوکھاڑ ڈالنا۔ اور استیصال
جسکا مادہ وصل ہے اسکے معنی اور باب

بالون مین گرہ دیکر باندھنے کے لئے کرنے
مگر صاحب قاموس نے یہ مصدر نہین لکھا
البتہ مُستَوصِلہ فاعل کا صیغہ لکھا ہے
کہ حدیث مین آیا ہے شاید اوسکا مستعمل ہو
اَستِیضاح رکسکفس آنکھ کے
اوپر بھون پر ہاتھ رکھکر ایک چیز کو
دیکھنا تاکہ دکھائی دے جاوے
آشکار کرنا چاہنا۔
اَستِیضاع رکسکفس کم کرنا چاہنا
جیسے استوضع منہ
اَستِیضام رکسکفس ستم کرنا
اَستِیطاء رکسکفسم پامال
کیا ہوا اور کوفتہ پانا۔
اَستِیطان رکسکفس رہنے
کی جگہہ بنا لینی یعنی وطن بنالینا۔
اَستِیظاف رکسکفس تمام گھیر لینا
اَستِیعاء رکسکفسم تمہ درخت کو
جڑ سے اوکھاڑنا۔
اَستِیعاب رکسکفس ایک چیز
ساری لے لینی جڑ سے اوکھاڑ ڈالنا
اَستِیعار رکسکفس جگہہ کو دشوار
پانا دشوار سمجھنا۔
اَستِیعال رکسکفس پناہ لینی

۲۰۳

کسی جاس کا دراز ہو جانا۔
اَستِیداق (کسکسفس) مادہ اسپ وغیرہ کا نر کا مشتاق ہونا۔
اَستِیداء (کسکسفس) اونٹوں کا گرد آنا اور اونکا چلنا۔ دشمن کا متفق اور مستعد ہونا۔ کام کا راست ہونا کسی کو تک تک تکنا۔
اَستِیرا (کسکسفس) آتش زنہ سے آگ نکالنی چاہنی۔
اَستِیراک (کسکسفس) قرضدار ہونا۔
اَستِیراخ (کسکسفس) زمین کا تر ہونا۔
اَستِیراد (کسکسفس) پانی وغیرہ کا پیا آنا۔ گھاٹ پر حاضر لانا۔
اَستِیراض (کسکسفس) زخم کا ریم ناک اور فاسد ہونا جیسے استارضت القرحہ
اَستِیراط (کسکسفس) کار دشوار میں پڑنا کہ راہ رہائی اوس سے معدوم ہوے
اَستِیزاء (کسکسفس) پہاڑ پر چڑھنا جیسے استوزی فی الجبل۔
اَستِیزار (کسکسفس) وزیر بنا لینا وزارت چاہنی۔ مزدوری جمع کرنی جمع کرنا لیجانا۔
اَستِیزاق (کسکسفس) مکان کا کسی پر تنگ ہونا مجہولاً مستعمل ہے جیسے استوزق علی فلان
اَستِیساء (کسکسفس) کسی سے مانی زندگانی کہنا معدی یہ امر کا صیغہ ہے اسمیں نون وقایہ اور یاے متکلم ہے یعنے مدد کر میری پس معنی استیسا کے کسی کو یہ کہنا کہ تو میری مدد کر سوئے
اَستِیساخ (کسکسفس) ریسمان کا ہنا ہے
اَستِیساد (کسکسفس) شیر کی مانند ہونا۔ شیری کرنی۔ برانگیختہ ہونا مجہولاً مستعمل ہے جیسے استوسد۔ کسی پر دلیر ہونا جیسے استاسد علیہ۔ روئیدگی کا لنبا ہونا اور کمال کو پہنچ جانا جیسے استاسد النبت۔
اَستِیسار (کسکسفس) قیدی ہونے کے لیے گردن جہکانی
اَستِیسار (کسکسفس) آسان ہونا کام کا آمادہ اور مہیا ہو جانا جیسے استیسر لہ فی الامر
اَستِیساع (کسکسفس) فراخ ہو جانا
اَستِیساق (کسکسفس) اونٹوں کا جمع ہونا
اَستِیسان (کسکسفس) خوابناک ہو جانا۔ اونگھنا۔ پینک زدہ ہونا۔

اُستِکلاع (کسکسفس) طبیعت کا سخت ہونا مشک کا مضبوط اور اوسکی درزون کا سخت ہوجانا۔

اُستِکاف (کسکسفس) ٹپکانا ٹپکا چاہنا

اُستِکال (کسکسفس) کسی سے ایک چیز چاہنی تاکہ اوسکو اکلہ بناوے جیسے صنعفوٰ نکال لینا۔

اُستِکام (کسکسفس) شستہ ہوجانا مجلس کو پامال کرنا۔

اُستِیلاء (کسکسفسم) ایک چیز پر بالکل قدرت پانی ایک چیز کی حدو نہایت کو پہنچنا۔

اُستِیلاح (کسکسفس) زمین کا تر ہونا۔

اُستِیلاع (کسکسفس) آدمی کو نکوہش اور عار سے باک نرکھنا۔

اُستِیلاک (کسکسفس) پیغامبری کرنی یعنی کسی کا پیغام لیجانا۔

اُستِیماء (کسکسفسم) لونڈی بنانی جیسے اِستَامی اَمَتہ۔

اُستِیمار (کسکسفس) مشورہ کرنا۔

اُستِیماع (کسکسفس) جمع ہوجانا۔

اُستِیمام (کسکسفس) امان چاہ لینا

اُستِیمان (کسکسفس) اعتماد کرنا

امانت چاہنا۔ پناہ چاہنی۔ پناہ مین آجانا جیسے اِستَامن الیہ۔

اِستِیمائی (کسکسفس) مبارک ہونا سوگند و قسم دینی۔

اِستِیناء (کسکسفسم) ڈھیل کرنی انتظار کرنا جیسے اِستَانی بِہٖ۔

اِستِیناس (کسکسفس) کسی سے آرام پانا اور اوسکے سبب وحشت جاتی رہنی یعنی مانوس ہوجانا جیسے اِستَانَس بِہٖ۔ اچھی طرح سے دیکھنا اور پہچاننا اور اجازت چاہنی جیسے کہ آدمی کی آہٹ کو معلوم کرلینا۔

اِستِیناف (کسکسفس) بمعنی اِئتِناف

اِستِیوار (کسکسفس) ڈرنا جلدی کرنی اندھیرے مین۔ اونٹون کا بھاگ جانا اور پریشان ہوجانا زمین مین جیسے استاورت الابل اور جب زمین سخت مین بھاگیں تو اِستَوارَت الابل کہتے ہین بہت غصہ ہونا اور شیر کا کودنے کے لیئے آمادہ ہونا

اِستِیہاب (کسکسفس) بخشنا چاہنا

اِستِیہال (کسکسفس) یقینا جاننا

اِستِیہار (کسکسفس) ایک کام مین

| مادہ |
| --- |
| ا م ی |
| ا م ر |
| ا م ع |
| ا م ن |
| ا ن ی |
| ا ن س |
| ا ن ف |
| و ا ر |
| و ہ ب |
| و ہ ل |
| و ہ ر |

۲۰۵

مادہ

[illegible]

جیسے اشتعل الرأس شیبا [illegible]

اَستیغال (بکسعش) شغل ہونی

اَستیفاء (بکسعش) تمام کرنے کی طلب اور تمام لینا

اَستیفاد (بکسعش) زنگیا ہونا

اَستیفاہ (بکسعش) اونٹ کا نشاط کی بعد بوجہ مشقت اور لاغری کے زیر ہو جانا ۔

اَستیفار (بکسعش) حق پورا کرنا جیسے استوفر علیہ حقہ ۔

اَستیفاز (بکسعش) پنجے پر اوکھڑا ہو بیٹھنا جیسے استوفز فی قعدتہ ۔

اَستیفاض (بکسعش) جلدی کرنی سو دوڑنا سرعت کرانی ۔ ہانکنا اور ٹٹوں کا پراگندہ ہونا ۔ شہر بدر کرنا اور نکال دینا ۔

اَستیفاق (بکسعش) خدا تعالیٰ سے توفیق چاہنی ۔ توفیق ڈھونڈنی حجت میں صواب پر ہونا جیسے کہتے ہیں انہ لمستوفق لہ بما یحتجہ ۔

اَستیفاح (بکسعش) شکم کا سخت ہونا اور گلے آنا ۔

اَستیقاد (بکسعش) آگ بھڑکانی آگ بھڑکنی اور روشن ہونی ۔

اَستیقار (بکسعش) کسی کے سر سے بوجھ لینا اور ٹٹوں کا موٹا ہونا ۔

اَستیقاط (بکسعش) جگہ کا بہیڑ کی لینے گرد ہیلی ہونا ۔

اَستیقاظ (بکسعش) بیدار اور ہوشیار ہونا ۔ پازیب وغیرہ زیور کا آواز

اَستیقاع (بکسعش) ایک چیز کے واقع ہونے کا انتظار کرنا ۔ ڈرنا تلوار کو تیز کرنے کا وقت پہنچنا ۔

اَستیقاف (بکسعش) ٹھہر رہنا چاہنا ۔

اَستیقان (بکسعش) بالتحقیق جاننا چاہنا اور صلہ اسکا ب ہے ۔ جیسے استیقنہ وبہ ۔

اَستیقاہ (بکسعش) بندگی اور فرمان برداری کرنی ۔

اَستیکاء (بکسعش) اونٹنی کا چربیلی ہو جانا ۔ مشک کا پُر ہونا ۔ پیٹ میں سے پاخانہ اور پیشاب کا نہ نکلنا ۔

اَستیکاث (بکسعش) ناشتا کرنا ۔

اَستیکاح (بکسعش) چوزے کا دلدار اور تھُڑے گوشت کا ہونا بخشش کرنے میں بخل کرنا کنجوسی کرنا ۔

اَسْحَارَہ (کسففت) یعنی اسحار (سفت)

اَسْحَاف (کسففس) پیٹھہ کی چربی کو پہچنا - ہوا کا ابر کو اوڑا لیجانا -

اَسْحَاق (کسففس) ایک پیغامبر علیہ السلام کا نام مبارک ہی - وعدہ کر نکلنا - کپڑے کا پرانا ہونا اونٹ کا بہم ملصقا ہونا پستان شیر دار کا خشک ہو جانا اور سینہ اور پیٹ پر چمٹ جانا -

اِسْحَال (کسففس) کسیکو اس حال میں پانا کہ لوگ اوسکو گالیاں دیتے ہوں -

اَسْحَام (کسففس) ابر کا مینہہ کو گرا دینا -

اَسْحَت (فسف) برس جس مین روئیدگی کچھہ نہو -

اَسْحِقَان (ضسففس) ایک گہاس ہے جو لوبیے کی مانند نہایت خوشنما اور خدار ہی اور اوسے کہاتے ہین نہ چراتے ہین بلکہ عرق النسا کے علاج مین استعمال کرتے ہین -

اِسْحِل (کسک) مسواک کا درخت -

اِسْحِلَان (ضسففس) لمبے قدکا جوان یا جوان پتلے لٹکے ہوئے بالون کا یعنی جگہہ جگہہ سے سر مونڈا ہوا -

اِسْحِلَانِی اللحیۃ یعنی لمبی ڈاڑہی والا

اَسْحَلَانِیَّۃ (کسکفسکت) لمبے چھاتے

ڈرانے والی عورت لمبے قد کی خوبصورت

اَسْحَم (فسفت) کالا - زلف - ایک بت رات - بکون جسمین قسم کہانے والے قسم کہانے کے وقت ہاتھہ ڈوبوتے ہین - ابر - پستان کا سر - لغنی بہکتی - شراب کی مشک -

اَسْحَمَان (کسکعس) ایک پہاڑ ہے عرب کا یا کسی چیز کا

اَسْحَمَان (ضسففس) ایک درخت ہی -

اِسْحِنْظَار (کسکعس) لمبا کھینچا - جھکنا - چوڑا ہونا - لمبا ہو جانا - منہ کے بل گر پڑنا -

اِسْحِنْفَار (کسکعس) تیز چلنا - گہوڑے کا راست اور درست ہونا - مینہہ کا بہت برسنا - خطیب کے کلام مین فراخی پانی خطبہ کو روان اور جلد پڑہنا -

اِسْحِنْکَاک (کسکعس) رات کا سیاہ اور تاریک ہونا - کلام کا کسی پر دشوار ہونا

اُسْحُوَان (ضسفعس) خوبصورت لمبے قد کا - بہت کہانے والا -

اُسْحُوب (ضسعس) بہت کہانے والا بہت پینے والا -

نَاقَۃٌ اَسْحُوقُ الْاَحَالِیل یعنی وہ اونٹنی جسکے سوراخ پستان فراخ ہوں

باپا ... کے کا مٹنا مرد کا
خیر و حرف عیر ہو جانا ایک امر کا
یا یقین ہو جانا ۔ بدل لینا ۔
اِستِبہال (کسکسفس) شایستہ ہونا
[illegible] اور خریدنا [illegible] اور با [illegible]
جیسی [illegible] ہوا جیسے
کھانا [illegible] جیسے [illegible] بنا [illegible]
اِسْتِبْح (سفس) [illegible] اور بستیان
[illegible] تسبیح [illegible] اوس کے ساتھ
اِسْتِجَاء (کسکسفس) اونٹنی کا [illegible]
[illegible] ہونا ۔
اِسْتِجَاج (کسکسفس) آسان کہنا
عفو کرنا چھوڑ دینا ۔
اِسْتِجَاد (کسکسفس) سر جھکانا [illegible]
ایک جگہ پر برابر خمار [illegible] سے لینا
اِسْتِجَاف (کسکسفس) پردہ لٹکانا
جیسے اَسْجَفَ السِّتر رات کا تاریک ہونا
جیسے اَسْجَفَ اللَّیل گھر پر پردہ لٹکانا
جیسے اَسْجَفَ البَیت ۔
اِسْتِجَال (کسکسفس) ایک ڈول دینا کسیکو
جیسے اَسْجَلہ اِسْجَالا مرد کا بہت خیر والا
ہونا جیسے اَسْجَلَ الرَّجُل آدمیون کو
چھوڑ دینا جیسے اَسْجَلَ النَّاس کام کو

اوس کے لیے رہا کرنا جیسے اَسْجَلَ الاَمر
حوض کو پانی سے پر کرنا جیسے اَسْجَلَ الحوض
اِسْجَام (کسفس) آنسو کو رواں کرنا ۔
اَسْجَح (فسفت) اچھا چہرہ اعتدال جسکے
اَسْجَح [illegible] ہر چیز آسان ۔
اَسْجَد (فسف) پاؤن سوجانا
اَسْجَد (فسف) حوض جسکی مٹی پاکیزہ [illegible]
اَسْجَر (فسف) اونٹ کہ [illegible] نہین
اَسْجُوعَة (فسفسف) مقفی کلام ۔
اَسَاجِع (فسفسک) جمع ۔
اِسْجَار (کسفس) گہاس کا پہولنا
پہیلنا کو رات کا دکھائی دینا اور ناپدید
ہونا ہوا کا آگے آنا ۔
اِسْجَاد (کسفسم) خط پر مہر کرنی
کسی کے پاس کاغذ کی [illegible] نہین ہوتی
اِسْحَات (کسفس) حرام کمائی کرنی
جیسے اَسْحَتَ فی تجارته حرام سے اوکہاڑنا
تجارت کا حرام اور برابر ہو جانا جیسے
اَسْحَتَ تجارته ۔
اِسْحَار (کسفست) ایک ساگ ہے جو
اونٹ کو موٹا کرے ۔
اِسْحَار (کسفس) صبح کے وقت مین سونا
صبح کے وقت کہین جانا ۔

کندے اور گردن دو کنارے ۔
اَسْدَف (فسف) سیاہ ۔
اَسْدَل (فسف) کج اور مائل کرنا
سدل (ضمتین) جمع ۔
اَسْدٰی (فسکت) کپڑے کا تانا
بنا ہوا کپڑا ۔
اُسْدِی (ضسک) ایک گھاس ہے
ایک قسم کا کپڑا سدی (فس)
لغت میں مذکور ہے ۔
اَسْر (فس) رسی تسمہ ۔ اسی سے ہذا
لک بِاَسْرِہٖ یعنی یہ چیز سب تیرے لیے
ہے تسمہ سمیت یعنی تمام ۔ قوت
اَسْر (فس) (مص) اچھا پیدا کرنا
پیدا کرنا ۔ باندھنا قیدی کرنا ۔ اور
اس آیہ میں وَشَدَدْنَا اَسْرَھُمْ اسر
سے مراد پیوند ہیں یعنی ہم نے باندھا
اور قوت دی انکے پیوندونکو ۔
یا اوس سے پیشاب اور پاخانہ کی
انتڑیاں مراد ہیں کہ جب ان میں سے
پیشاب اور پاخانہ نکلتا ہے تو دونوں
منقبض ہو جاتی ہیں یا دونوں
پیشاب اور پاخانہ کے ارادے سے
پہلے مسترخی نہیں ہوتی ہیں

بلکہ منقبض رہتی ہیں ۔
اِسْر (فس) اِسَار (کفس) (مص)
باندھنا ۔ قیدی کرنا ۔ مرد کا احتباس
بول کی بیماری میں مبتلا ہونا ۔ اس معنے
میں مجہولاً مستعمل ہوتا ہے ۔
اُسْر (ضس) احتباس بول کی بیماری
اُسُر (ضمتین) تخت کے پائے ۔
اَسِر (فکت) جو کہ کسی کام میں دخل
دیوے بن بلائے آنے والا ۔ کھوکھلی
چیز ۔ اونٹ جسکے سینے کے اوپر کا
دائرہ زخمی ہو ۔
آسَر (فف) شیشہ یعنی آبگینہ ۔
اِسْرَاء (کسفسم) اندھے دیئے کے
قریب پہنچنا ۔ مدھی لگا ۔
اَسْرَاء (کسفسم) اپنے اوپر سے
ایک چیز ڈالدینی ۔
اِسْرَاء (کسفسم) رات کو چلنا ۔ راتکو
سیر کرانی جیسے اَسْرٰی بِہٖ ۔ سراۃ میں
کہ ایک پہاڑ ہے یمن سے لیکر اطراف شام
تک داخل ہونا ۔ سراۃ کیطرف چلنا ۔
اِسْرَاج (کسفس) گھوڑے پر زین
رکھنا ۔ چراغ روشن کرنا اور اوسکو لٹکانا ۔
اِسْرَاد (کسفس) درخت خرما کا سخت

مادہ
غد
عقل
سدل
سدی
سر
سر
سر
سر
سرا
سرو
سری
۲۹
سرج
سرد
۱۲

فصل الالف مع السین المہملہ

علامات اعراب مستعملہ — فتحہ کسرہ ضمہ سکون تشدید

مادہ

سحف
سحق
سحن
سد
۲۰۸

استحواف (سفعس) ہودہیل اور فطی کا ایسے دو دو دہیے کی آواز سنی جاوے۔
اسحیۃ (سکت) ہر پوست کہ گوشت کی تہ پر ہووے۔
استحاط (سفعس) غصہ دلانا۔
استحال (سفعس) پیچھے چھوڑنا۔
استحان (سفعس) گرم کرنا۔
استحم (سفت) سیاہ۔
استحنۃ (سکعف) ایک قسم کی گرمی کی بیماری۔ ابدہ (سکعف) کا ضد۔
استحیاثات (سکعفس) زخم کی سوجن کا دب جانا۔
اُسد (فف) نر شیر۔ آساد (معفس) اسود (ضفعس) اسد (ضفعس) اسد (ضس) آسد (مفعس) اسدان (ضعفس) ماسدۃ (فسکعف) جمع۔ برج آسمان میں سے ایک برج کا نام۔
اسد (فف) (س) شیر سے ڈرنا۔ مدہوش ہونا۔ شیری کرنی۔ لغات اضداد سے ہے۔ خشمگین ہونا۔ نادان ہو جانا۔
اسد (فض) (ضس) درندہ ہونا۔ قوم سے کینہ میں فساد ڈال دینا۔ لڑا دینا۔
اُسعد (کتعف) بڑی عمر کی بکری۔

اسّد (ففت) درست اور محکم۔
اسداء (کسعفم) کپڑا بُننا۔ اور تانے کو خود سرا چھوڑ دینا۔ بیلچ کرنی۔ کسی پر احسان کرنا۔ جیسے اسدی الیہ۔ خلاف۔ غورہ خرما کا سست ہونا۔
اسداد (کسعفس) صواب اور راستی پر پہنچنا۔ یا صواب کو طلب کرنا۔
اسداس (کسکعفس) ہدس اونٹوں والا ہونا۔ آٹھ برس میں دانت گرا دینے اونٹوں کے۔ قوم کا چھٹا مستحق ہونا۔
اسداف (کسکعفس) سو جانا۔ رات کا تاریک ہونا۔ صبح کا خوب روشن ہونا۔ پردہ اٹھانا۔ بھوک یا بڑھاپے سے دونوں آنکھوں کا تاریک وضعیف ہونا۔ چراغ کو روشن کرنا۔ عورت کا مقنعہ لٹکانا۔ صبح کی سپیدی میں آنا۔ یا اس وقت میں کہیں دروازہ کھولنا۔
اسدال (فسعفس) جمع سدل (ضس)
اسدال (کسعفس) بالوں کا لٹکانا۔
اسدۃ (فکعف) ایک احاطہ لکڑی اور بانس کا بناتے ہیں کیتا یا شکار پر دو دیوالی
اسدۃ (فعفف) سیری۔
اسدران (فسعفس) دور کیت میں آنکھ مٹیا

اُسطم (ضفض) دریا کا بیچ —
اُسطُمَّۃُ القَوم قوم مین کا اشراف اور سردار لوگون کے اکٹھے ہونے کی جگہہ اور اونکا معتمد علیہ —
اُسطوان (ضفض) لمبی گردنکا اونٹ یا بلند قد کا — قوم مین ایک گھاٹا ہی
اسطوانہ (ضفضف) ستون — چوپایے کے ہاتھہ یا نون کیر — ذکر خلیہ —
اَشعاء (کفضم) کسی کو سخن چین کرنا — ڈہونڈھنے والیکو ڈہونڈھی چیز دینی — کسی کو ڈہونڈھنے کا محتاج کر دینا —

لغات اضداد سے ہی —
اَسعاد (کسفس) نیک بخت کرنا — مدد کرنی — ایک عورت کی دوسری کے رونے مین مدد کرنی
اَشعار (کسفس) بھاؤ مقرر کرنا — آگ کو بھڑکانا — جنگ پر انگیختہ کرنی — کسی کو بدی پہنچانی — تکلیف دینی —
اَسعاط (کسفس) ناک مین دوا ڈالنی — ایک علم کے سمجھانے مین مبالغہ کرنا — ناک پر نیزہ مارنا —
اَسعاف (کسفس) حاجت روا کرنی جیسے اسعف بحاجتہ — کسی کے نزدیک ہونا جیسے اسعف منہ شکار پر کسی کو قادر کر دینا جیسے اسعف لہ الصید — لپٹنے کھنچنے مین اوتر آنا —
اَسعال (کسفس) شادمان کرنا — حرکت وغیرہ مین کسی کو سعلاۃ کی مانند کر دینا —
اُسعان (کسفس) بڑا خیمہ یا سایبان بنانا —
اَسعد (فسف) نیک بخت — سعادتمند — چوپایے کے نبد دست کی پھٹن یا ایک بیماری ہی کھیلی کی مانند جو اونٹ کو عارض ہوتی ہی اور وہ اس سے لاغر ہو جاتا ہی —
اَسعر (فسف) کم گوشت مرد جسکا پچھا ظاہر ہو یعنی جسکی ہڈیان نکلی ہوئی ہون — دبلا پتلا جو سوکھکر قاق ہو گیا ہو —
اَسعف (فسف) اونٹ جسکو شیرمینہ بیماری لگ گئی ہو — پیشانی کے سفید بالون والا گھوڑا —
اَسغاب (کسفس) بھوکا کرنا — بھوک مین داخل ہونا —
اَسغام (کسفس) دل کو بہت اذیت پہنچانی — لڑکے کا ناز اور نعمت مین پلا ہوا ہونا اور موٹا ہونا —
اَسغاف (کسفس) خراب و ناکارہ غذا دینی
اَسَف (فف) اندوہ و غم — سخت غصہ
اَسِف (فف) (س) اندوہگین ہو جانا

| مادہ |
| --- |
| سطم |
| سطن |
| سطو |
| سعی |
| سعد |
| سعر |
| سعط |
| سعف |
| سعل |
| سعن |
| سعد |
| ٢١١ |
| سعر |
| سعف |
| سغب |
| سغم |
| سغن |
| اسف |

علامات [illegible] ضمہ [illegible] فتحہ کی کسرہ سکون تشدید

تجھ زرہ والا ہونا ـ

اَسرار (کسفکس) پوشیدہ کرنا ظاہر کرنا خدا خدا سے چھپا بات کو پہنچا دینا کسی سے سنا تو ہلنیا بھید لیے بیٹھنا ـ

اَسراع (کسفعس) سرعت کرتی تیز رو جو یا پیر والا ہونا ـ

اَسراف (کسفعس) بے اندازہ خرچ کرنا بیجا اور بے محل جگہ میں خرچ کرنا ایک چیز کا کھانا کہ حلال نہیں ہے میانہ حد سے گذر جانا ـ

اَسرافیل (کسفکس) ایک فرشتہ کا نام

اَسرافین (کسفکس) ایک فرشتہ کا نام ـ

اَسراق (کسفس) سست و ضعیف ہو جانا سے پیچھے رہجانا جیسے اسرق عنہم پچلے جانیکے لیئے پوشیدہ ہونا ـ

اَسرال (کسفس) اسرائیل (کسفکس) حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام کا نام مبارک ہے اسکے زبان سریانی میں معنی برگزیدہ خدا اور بندہ کے ہین لفظ ایل مین مذکور ہے ـ

اَسرب (مسفق مسفت) بمعنی سرب

اَسرۃ (مسف) تسمہ مضبوط یا زرہ ـ

مرد کی قوم کے نزدیک رشتے کے لوگ ـ

اَسر (مسن) جمع ـ

اَسرف (مسفق) سرب ـ

اَسداء (کسکسفم) کسی پر غالب آنا اور بلند ہونا سقر آنا ـ

اَسروع (مسفعس) شاخ کہ درخت انگور کی جڑ سے اوگے لسابیع (فضس) کی جمع ـ

آسس (ففت) اساس (فضس) کا مقصور ہے یعنی بنیاد آساس (فضس) جمع ـ

آسط (ففت) یعنی پانوں والا مرد ـ

اَسطار (سفعس) اسطر (فسفس) جمع سطر (فس) کی ـ

اَسطار (کسفعس) سطر پر سے گذر جانا جیسے اسطر اسمی اسطار الیعنی چھوڑ گیا اوس سطر کو جسمین میرا نام تھا ـ پڑھنے مین سطر چوک گئی ـ

اَسطام (کسفعس) جس سے آگ کو بھڑکاوین آگ کریدنے کا اوزار لوہے کا

اَسطان (کسفعس) کانسے کا برتن شاید نون عوض لام کے ہے ـ

اَسطبۃ (مسفعتف) کتان میں سے جو کچھ صاف کرتے وقت گر پڑے ـ

اَسطع (مسفت) لمبی گردن کا شتر مرغ

اَسفَل (شف) نہایت پست نیچا ۔
اَسفَلُ السَّافِلِین بہت برا یا تلف و رایگان یا کافرون کی گمراہی جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہی ثُمَّ رَدَدنَاہُ اَسفَلَ سَافِلِین ۔
اَسفَنج (کسفف) ایک درخت کی جڑ اسفنج یعنی یا ابر مردہ جو دریا کے کنارے کے پتھرون پیدا ہوتا ہی متخلخل اور بہت سوراخدار ہوتا ہی ۔
اِسفَنجَہ (کسفف) یعنی اِسفَنج ۔
اِسفِند (کسفف) شراب ۔
اِسفِنط (کسفف) ایک قسم کی خوشبودار انگوری شراب ۔ یا ایک قسم کی شراب یا سب سے اونچی شراب ۔
اَسفٰی (فسف) پیشانی کے کم بالون والا گھوڑا ۔ تیز رو خچر ۔
اِسفِیداج (کسکسف) سپید کی قلعی کی راکھ ۔
اِستِقَاء (کسفسم) پانی دینا ۔ پانی پلانا ۔ یا پانی کیطرف راہ نمائی کرنی یا پانی کی قیمت دینی ۔ غیبت کرنی عیب بیان کرنا ۔ کسی کو سقیاک اللہ کہنا ۔ مشک دینی ۔ یا چمڑا دینا تاکہ مشک بنا دے کسی کے لیے پانی کی نوبت مقرر کرنی ۔ چمڑے کی مشک بنانی ۔
اِشقَاب (کسفس) گھر کا نزدیک ہونا ۔ گھر کو نزدیک کرنا ۔
اِسقَاد (کسفس) موٹے گھوڑے کو دبلا کرنا ۔
اِسقَار (کسفس) پکے ہوئے چھوارے کا شیرہ کو بہانا ۔
اِسقَاط (کسفس) عورت وغیرہ کا ناتمام بچہ ڈالنا ۔ کسی کی خطا اور لغزش ڈھونڈھنی سخن چینی کرنی ۔ کسی کو خطا پر انگیختہ کرنا ۔ کلام مین غلطی کرنی ۔
اِسقَاع (کسفس) رنگ بدلجانا ۔ مجھول کا مستعمل ہی ۔
اِسقَام (کسفس) بیمار کر دینا ۔
اِسقَان (کسفس) باریک اور پتلی کرنا ۔
اِسقَان (کسفس) ہانڈی کی جلاکو تمام کرنا ۔
اَسقَع (فسف) ایک پرند جانور چڑیا کے برابر سبز پر سفید سر کا ۔ اساقع ۔ فرشک جمع ۔ ہر گھوڑا اور پرند جانور سپید سر کا ۔
اَسقَف (فسف) لمبا کجی سمیت لمبے قد کا ۔ یا سخت اور بڑی ہڈی والا ۔ نصرانیوں کے پیشوا ۔ اونٹ ٹیڑھی گردن کا

مادہ
سفل
سفنج
سفنج
سفد
سفنط
سفی
سفنج
سقی
سقب
سقد
سقر
213
۱۱ سقط
۱۲ سقع
۱۳ سقم
۱۴ سقن
۱۵ سقع
۱۶ سقف
۱۲

اسافہ (فتسف) اسم مصدر عقد کرنا جیسے اسف کیہ۔ اسف (فک) صیغہ لغت سے ہے۔
اَسْفَا (کسفسم) کھینکا طرف نحو کو سخت کرنا۔ خاک کو نقل کرنا۔ افرطی کا لاغر ہو جانا۔ کسی کو سبکساری اور خفت پر برانگیختہ کرنا۔ کسی کو بدی پہنچانی جیسے اسفی بہ ہوا کا خاک کو اوڑا لیجانا بہمی گھاس کا کانٹے کو گرا دینا۔ تیز رو نحچر کو پکڑنا اعلا غنیا کرنا۔ سبک اوربے عقل ہو جانا۔
اَسْفَاح (کسفس) گھوڑے کو نحچے شرط دوڑوانا
اَسْفَاد (کسفس) نکا دین پر چھٹی کرانا
اَسْفَار (کسفس) دن کی روشنی مین آنا۔ درخت کا نے پتے ہونا نیچو پت جھڑ۔ لڑائی کا سخت ہونا اونٹ کی ناک کی پیٹھ پر سفار یعنی مہار یا چمڑا یا لوہا رکھنا۔ صبح کا روشن ہونا۔ اونٹون کو چرتے ہوئے سپے چرانے چہرہ کا روشن اور تابان ہونا اونٹونکا اپنی حسب وخواہش چلنا۔
اَسْفَاف (کسفس) برگ خرما کا بوریا بُننا۔ رنگ سا بدل جاتا۔ سینچ کا موانکے در پے ہونا۔ دقی اور ذلیل کام کا جانے اپنے یار سے بھاگنا اور کنارہ کشی کرنی۔ کام کو باریک بنانا۔ اونٹ کو خشک گھاس کا چارہ دینا۔ پرند جانور کا نیچے نیچے اوڑنا۔ گھوڑے کو لگام دینا۔ بادلون کا زمین سے نزدیک ہونا تیز دیکھنا۔ سانڈ کا کاٹنے کے لئے سر جھکانا۔ زخم پر بُرکی پرکانی۔ دانتون کی جڑ پر سرمہ بُرکانا۔ ایک چیز پہ پہنچانا۔
اُشْفَاق (کسفس) دروازے کو کھولنا۔
اَسْفَانَاخ (کسفس) ایک ترکاری ہی فارسی مین اسفناخ کہتے ہین اور ہندی مین پالک۔
اِشْفَاه (کسفس) شراب کو بہت پلانا۔ سیراب نکرنا۔
اسفُتہ (کفک) زمین جو گھاس اوگانے کی صلاحیت اور قابلیت نرکھے۔
اسافہ (فتسف) اسکا اسم ہے۔
اَسْفَع (فسف) جنگلی گائے کالا کپڑا۔ ہر کالا کپڑا کہ اوسکی سیاہی سرخی مائل ہو۔ بکری کا نام اوس وقت کہ جب اوسے دوہنے کو بلاوین۔

اُسکُفَّۃُ الْبَاب دروازے کی چوکھٹ

اِسْکَنْدَر (کسفسف) بن فیلقوس (فسقفس) ایک پادشاہ تھا جس نے دارا کو مارا اور ملکوں کا مالک ہوا۔

اِسْکَنْدَرِیَہ (کسفسکفت) مقولہ مُنعم ہیں جو اسکندر کی طرف منسوب ہیں

اُسْکُوبّ (ضسفضس) اُنڈیلنے والا پانی۔ بڑی بڑی بوندوں کے مینھ کی جھڑی۔ موچی یا لوہار۔ بجلی کی چمک جو کی طرف لیتی اور منتشر ہووے۔ کھجور کے درختوں کی قطار۔

اُسْکُوتَہ (ضسفسف) ٹکڑا جیسے کھجی وغیرہ کے تنگ سر برتن پر لگاویں یا لکڑی کا ٹکڑا جو مشک کی ٹیپی پر لگاویں

اِسْکُوف (ضسفس) موچی۔

اَسَل (فف) نیزہ۔ تیر۔ کھجور کے درخت کا کانٹا۔ جو چیز کہ تیز و باریک ہووے مثل شمشیر اور چھری وغیرہ کے۔ ایک نبات نشاخدار ہے کہ پانی میں اگتی ہے اور اوس سے بوریا بناتے ہیں فارسی میں اوسے دوخ کہتے ہیں اور اردو میں پٹیر۔

اِسْلَاء (کسفسم) فراموش کرادینا۔ بے غم کر دینا جیسے اسلاہ عنہ دردل ا سے قوم کا نے خوف ہونا۔

اِسْلَاب (کسفسس) اونٹنی کا ناتمام بچہ ڈال دینا۔ یا اونٹنی کا بچہ جرجانا۔ درخت کا پھل تھا جھڑ کر گر پڑنا۔

اِسْلَاح (کسفس) گوبر کرانا۔

اِسْلَاس (کسفس) اونٹنی کا ناتمام

اِسْلَاع (کسفس) انگلی کے اوپر کے سرے کا ہونا۔

اِسْلَاع الْفَرَس گھوڑے کی دونوں رگوں پر کہ ایڑی تک ہیں گوشت جو ہوتا ہے بیسے کے وقت ہوتا ہے۔

اِسْلَاف (کسفس) زمین کو ایک تختہ سے ہموار کرنا کہ جس سے بیج ڈالنے والے زمین کو گاؤ کر ہموار کرتے ہیں۔ قیمت پہلے دینی۔ پیتالیس برس کی عمر کو پہنچنا اور یہ خاص عورتوں میں مستعمل ہوتا ہے۔

اِسْلَاق (کسفس) کرگ مادہ کا شکار کرنا۔ کوزہ وغیرہ کے گوشہ میں لکڑی داخل کرنی جیسے اسلق العود فی العروۃ

اِسْلَاک (کسفس) پامال کرانا جیسے اسلک لیاہ وفیہ وعلیہ کریبان میں ہاتھ ڈالنا۔ ایک چیز کو ایک چیز میں

مادہ

سکف
سکندر
سکب
سکف
سکر
سکع
سکب
سلخ
سلس
سلع

۲۱۵

سلف
سلق
سلک

۱۲

اُسْقُف (ضسضت) دین مین
ترساؤن کا پیشوا۔ یا بادشاہ جو
اپنی رفتار و روش مین فروتنی کرے
ترساؤن کا عقلمند یا جو مرتبہ مین مدرس
سے اونچا اور سلطان سے نیچا ہو۔ سُقُف
(ضض) اُسْقُف (ضضت) بمعنی اسقف
(ضسضت) اَسَاقِفَہ (فسکف) جمع
اَسَاقِف (فسک) جمع۔
اِسْقِیل (کسکس) جنگلی پیاز۔
اَسَکّ (ففت) زشتر مرغ یا شتر
مرغ نر جسکا پیٹ چلتا ہو۔ سُکّ (ضت)
جمع۔ کان کٹا ہوا۔ چھوٹے کان کا
آدمی وغیرہ۔ بہرا آدمی۔
اِسْکَاب (کسفس) موچی۔
اِسْکَابَہ (کسفسف) بمعنی اُسکُوبَہ
اُسْکَات (ضسفس) اوباش۔
ہر چیز کا بقیہ۔ گرمی کے بعد معتدل ہونا
اِسْکَات (کسفس) کلام کا منقطع
ہونا۔ خاموش کرنا۔
اِسْکَار (کسفس) مست کرنا۔
اِسْکَاف (کسفس) موچی۔ اَسَاکِفَہ
(فسکف) جمع۔ یا ہر اہل حرفہ سوائے
موچی کے اور موچی کو اُسْکُف (ضسض)
کہتے ہین یا ہر اہل حرفہ جو لوہے
سے کام کرے۔ شراب کی گاگر اور
اوسکا سر اور کام مین زیرک اور ہوشیار
اِسْکَاف (کسفس) موچی ہونا جیسے
اوس شخص کو کہ موچی ہو جاوے
کہتے ہین اَسْکَفَ فلان۔
أَشْكَال (فسفس) جمع ہے شکل کی
یعنی مچھلی سیاہ رنگ سونے۔
اِسْکَان (کسفس) آرام دینا۔
حرف کو نہ حرکت کرنا۔ گھر مین کسی کو
جگہ دینی۔ مسکین ہونا۔ مسکین کرنا۔
اُسْکُفَّةُ البَاب دروازے کا آستانہ
اِسْکَتَان (کسفسن) رحم کے
دو کنارے یا اوسکی دونوں جانبین
کہ دو کنارہ سے متصل ہین یا دو کنارے
فرج کے۔ اِسْکَتْ (کسف) ایک کنارہ
اِسْک (کس) اِسْک (کس) اِسْکَاتْ جمع
اِسْکَتَان (کسکفس) عورت کی
فرج کے دو کنارے۔ اِسْکَت (کسف)
ایک کنارہ۔
اُسْکُف (ضسض) موچی۔
اُسْکُفُ العَیْن پلکوں کے
اوگنے کی جگہہ یا آنکھ کا نیچے کا غلاف

اُسلِہام (کسکسفس) رنگ بدلجانا -
اُسلِیح (کسکس) ایک گھاس کہ چوپایہ اوسکے کھانے سے دودھیل ہو جاتا ہے
اُسلِیخ (کسکس) ایک گھاس ہے -
اُسم (کس) نام -
اُسم (فقت) تنگ سوراخ کی ناک -
اُسم الشئی چیز کی علامت اور نشان
اسما (فسکسم) اسماوات (فسفسفس) جمع سما اسامی (ففکس) اسام جمع الجمع
اسماء اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کی صفات -
اسماء (کسفسم) بلند کرنا نام رکھنا - جیسے اسماہ اباہ وبہ سماوہ کیطرف جانا -
اِسماح (کسفس) جوان مرد ہونا - جوانمردی کرنی - نرم اور تابعدار ہونا سلفرت اور سرکشی کے بعد چوپایہ کا رام ہونا -
ناقہ اسماط نے داغ اور نشان اوسطی - بعض اسماط ایک سخت جوتی - دوسرا ویل اسماط ایکہری ازار -
اسماط (کسفس) خاموش ہونا -
اسماع (کسفس) بات سنوانی اقرار کرنا - گالی دینی - ڈول کا گوشہ بنانا - زنبیل میں تسمع رکھنا - راگ گانا

اشمال (کسفس) صلح کرا دینی - کپڑے کا پرانا ہونا -
اسمان (فسفس) پرانی ازارین -
اسمان (کسفس) بیدالیشی موٹا ہونا موٹے کا مالک ہونا موٹے چوپایہ کا مالک ہونا کسی کو فربہ دینا - موٹے چوپایہ والا ہونا - گھی میں کھانے کو تر کرنا - بہت روغن دار ہونا قوم کا فربہ خریدنا - موٹا تازہ مال لینا -
اسمح (فسف) بہت آسان
اسمدا د (کسکفس) غصہ وغیرہ کے سبب سوج جانا -
اسمدرار (کسکسفس) بینائی کا ضعیف ہونا
اسمر (فسف) گندم گون - ہرنی کا دودھ -
اسمرار (کسکفس) بمعنی اسمیرار (کسکسفس)
اسمران (فسفعس) پانی اور گیہون یا پانی اور نیزہ -
اسمع (فسف) بہت لائق اور موافق
اسمغداد (کسکسفس) غصہ مین بہت پڑ ہونا - نگلیون کے سرے سوج جانے
اسمنداد (کسکسفس) اونٹ کے کوہان کا بڑا ہونا -

۲۱۷

۱۲

| مادہ | |
|---|---|
| ۵ سلل | ۶ سلم |
| سلو | سلی |
| سلت | سلب |
| ۱۶ | |
| سلنطح | سلطح |
| سلطع | سلقی |
| سلقع | سلب |
| سلقف | سلهب |

پرونا جیسے اسلک فیہ —
اِسلال (سکسعس) کسی کا پوشیدہ کرنا چوری — خیانت۔ ٹکڑا ٹکڑا دینا
اِسلام (سکسعس) چھوڑ دینا جیسے
اسلمت علیہ زمین کا درخت سلم کو اوگانا۔ گردن جھکانی — اسلام لانا کسی کو چھوڑ دینا اور مدد نکرنا کسیکو کام سونپنا بیع سلم کرنی۔ مسلمان کرنا
اَسلت (فسف) مرد جسکی پہلے ناک کٹی ہوئی ہو۔
اَسَلَۃ (فعفف) ایک اسل یعنی نیزہ وغیرہ اور ہر گھاس جسمیں کچھ نہ ہو۔
اَسَلَۃُ اللِّسان طرف زبان
اسلات (فعفس) جمع —
اَسَلَۃُ البَعیر اونٹ کا ذکر —
اَسَلَۃُ النَّصل تیر کی بھال کی نوک
اَسَلَۃُ النَّعل جوتی کی نوک
اَسَلَۃُ الذِّراع باریک سرا پہنچے کا کہ کف سے متصل ہے
اِسلحاب (سکسعس) رستے کا سیدھا اور لمبا اور روشن ہونا۔
اَسلَخ (فسف) جسکے سر کے آگے کے بال جاتے رہے ہوں۔ نہایت سرخ

اِسلنخاخ (سکسعس) پہلو پر لیٹنا۔
اَسلَع (فسف) پانوں پھٹا ہوا مرد — برص کا مارا ہوا مرد۔ سلع (ضس جمع)
اَسلَغ (فسف) ان نے پکا ہوا۔ نہایت سرخ — برص کا مارا ہوا۔ کمینہ۔ بیچ — گوشت جو جلد نہ پکے۔ ان نے پکا ہوا گوشت
اِسلغباب (سکسعس) چوزہ کا کالے پڑ جانے کے پہلے پروں کی کلیاں نکالنا
اِسلنطاء (سکسفسم) ایک چیز کی طرف اسکے دیکھنے کے لیے جھک آنا —
۱۱ اِسلنطاح (سکسعس) منھ کے بل گر پڑنا۔ وادی کا فراخ اور وسیع ہو جانا
۱۲ اِسلنطاع (سکسعس) چت لیٹنا —
۱۳ اِسلنقاء (سکسفسم) چت سونا —
۱۴ اِسلنقاع (سکسعس) برق کا منتشر اور پراگندہ ہونا۔ آفتاب کی تاثیر سے کنکریوں کا گرم ہونا —
۱۵ اُسلوب (فسعس) طرز۔ روش
اسالیب (فعفسکس) جمع —
۱۶ اُسلوقر (فسفسف) اہل لغت کی آپس میں قرابت —
۱۷ اِسلهباب (سکسعس) گھوڑے کا سست چلنا اور لمبا ہونا —

اَسْنام (کسفس) ایک پہاڑ می کندست ہی ۔ حُلَّبا گھاس کا پھل ۔ اسنا بتہ (کسفسٹ) ایک درخت یا ایک پھل ۔
اَسْنان (کسفس) بڑی عمر کا ہونا ۔ دانت نکلنے دانتوں کا اوگا دینا ۔
اَسْوَ (فضت) اساو (کسفسم) دوا تکمیہ (کف) جمع ۔
اسو (فس) اسیٰ (ففیٰ) الملا زخم کا علاج کرنا ۔
اسی (فکت) علاج کیا ہوا صیغہ لغت ۔
اَسْوار (فسفس) بڑا پھوٹا بہت بڑا
اَشْوار (کسفسم) پیشوا بنانا جیسے

اسویہ یہ مصدر ملحق برباعی ہے ۔
اَشْوار (کسفسم) برابری کرنی ۔ برابر و ہموار کرنا ۔ زنا کرنا ۔ رسوا ہو جانا بلا میں پڑنا ۔ ایک چیز کو ایک چیز میں سارا لانا ۔ قرآن میں سے ایک حرف کو چھوڑ دینا ۔ ترک کرنا ۔ غفلت کرنی ۔
اَشْواو (کسفس) بمعنی اسادۃ
اَشْوار (فسفس) کنگن ۔ اسوۃ (فسکف) جمع اساور (فسکف) اساوِرۃ (ففسکف) جمع کا جمع
اسوار (فسفس) کسی کا نام سعید کا

سپہ سالار ۔ گھوڑے کا خادم تیر انداز کی میں دانا اور ماہر مرد ۔
اَسْواق (فسفس) جمع سُوق بمعنی بازار
اَسْوان (فسفس) اندوہگین بعد غمگین
اَسْوَۃ (فسف وکسف) پیشوا اقتدا جس سے کہ اندوہگین کی تسلی ہو وے ۔ اسیٰ (فف وکف) جمع ۔
اَسْوَد (فسف) بڑا کالا سانپ چرپا ۔ سردار قوم کا بزرگ ۔ اساود (فسفسک) جمع ۔ سنا کہ تیر جیسے سیاہ شود کی
اسوداد (کسکفس) سیاہ ہو جانا ۔
اسودان (فسفس) پانی اور خرما سانپ اور بچھو ۔
اسودۃ (فسفف) بڑی کالی ناگن
اَسْوَس (فسف) چوپایہ جس کے بدن میں سوس کی بیماری ہو ۔
اَسْوَغ (فسف) شراب جو آسانی حلق سے گذرے ۔ عرب میں بھی کہتے ہیں ہٰذا اسوغ ہٰذا یہ کلمہ ان بچوں کے درمیان بولتے ہیں کہ ان کے درمیان مہینہ پیدا ہوا ہو ۔
اَسْوَف (فسف) سریع الحزن رقیق القلب
اَسْوَق (فسف) لمبی پنڈلی والا

مادہ
سنم
سن
سوق
سوی
سوء
سود
سوق
سعد
سود
سود
سوف
۲۱۹
۱۱ سود
۱۲ سور
۱۳ سوس
۱۴ سوغ
۱۵ اسف
۱۶ سوق
۱۲

سمہر — سمد — سمر — سنت — سند — سنع — سنف — سنق — سنم

اسمہرار (کسفعس) سخت ہونا۔ معتدل ہونا۔ اور سیدہا اور برپا ہونا۔ ثبات اختیار کرنا۔ تاریکی کا خوب گہرا آنا۔ کانٹے کا خشک لغت سخت ہونا
اسمید اد (کسفعس) بمعنی اسمہد
اسمیرار (کسفعس) نہایت گندم گون ہونا۔
اسن و اسون (رفف و صفعس) رض ن س) پانی کا رنگ اور مزہ بدلجانا
آسن (رمک) اسن (رکہ) صیغہ لغت ہے
اسن لہ (رض ن) پانی کے سرے کو ذبرین زور سے گہسانا
صلہ اسکا لام ہے۔
اسن الرجل (رس) کوئین مین اوترکر اوسکی بوی بد سے بیہوش ہوگیا۔ اسن (رکہ) صیغہ لغت ہے۔
اسن (رکس) اچہا پایہ ہین کچھہ بقیہ چربی کا
اسن (رصفت) بمعنی اسن
اسن (رصفص) خو عادت۔ نوادر اور رسی کا ہٹ۔ بقیہ چربی کا جو پلیٹ مین ہو۔ آسان (معنی کی) جمع
اسن (رقفت) بہت بڑی عمر کا۔
اسنام (رکسفعس) بلند کرنا۔ برق کی روشنی مین گہر آنا۔ یا برق کا زمین پر پڑنا۔ یا آسمان مین کوندنا۔ قوم کا ایک سال بہر کسی جگہہ اقامت کرنا۔
اسنات (رکسفعس) قحط مین پڑجانا
اسناد (رکسفعس) پہاڑ پر چڑہنا جیسے
اسند فی الجبل پہاڑ پر ایک چیز کو اوٹھا لیجانا جیسے اسندہ فی الجبل کسی کو ایک چیز پر سہارا دینا جیسے
اسندہ الیہ حدیث کو کسی طرف منسوب کرنا۔ بات کو اوسکے کہنے والے کی طرف نقل کرنا۔
اسناع (رکسفعس) شے کا دفعتاً کھڑا ہوجانا دراز ہونا۔ خوب اور نیک ہوجانا اچھے اور خوبصورت بچے جننے
اسناف (رکسفعس) اونٹ پر سناف باندہنا۔ اونٹنی کا اونٹون کے آگے ہونا۔ اونٹ کا چلنے کے لیئے اپنی گردن کو آگے کرنا۔ ہوا کا سخت چلنا اور غبار کو برانگیختہ کرنا۔ محکم کرنا کام کو ابر اور برق کا آسمین تیز دمک کر بعد ملا جلا دیکھنا۔ اونٹ کے لیئے سناف بنانا
اسناق (رکسفعس) ناز و نعمت کا کسی کو پالنا اور خوش عیش ہونا۔

(فسفعس) صیغہ لغت مذکر آسیہ
(مکف) اور اسیانہ (فسفسف)
صیغہ لغت ہوتی ہی اسیا نوق ر
اسیانات (فسفعس) اسایا (فسعف)
اسایون (فسفعس) اسیات (فسفعس) جمع
اشیاف (فسفس) اسیف
(فسفض) جمع سیف (کس) کی
اسیان (فسفس) اندوہ اور غم
اسیلون (فسفعس) جمع ۔
آسیہ (مکف) ستون ۔ بنا کی اسحکام
او اسی (فضسک) جمع ۔ عورت
خدمت کرنے والی ۔
آسیہ (مکف) و اسیانہ (فسفسف)
عورت غمگین ۔
اسیر (فکس) گرفتار ۔ مقید اور محبوس
اسرا (فنعفسم) اساری (فسسف)
اساری (ضفسف) اسری (فسف)
جمع ۔ آیسین اٹھی ہوئی گھاس ۔
اسیش (فکس) عوض ۔ اصل ۔
اسیع (فسف) عرب مین لوگ
ہرن نر اسیع بناسیہ لفظ اون
بچون کے درمیان ہوتے ہین
کہ انکے درمیان دوسرا نہ پیدا ہوا ہو

اسیف (فکس) قیدی ۔ بہت فانی
خشمگین ۔ اندوہناک ۔ جلد اندوہگین
ہونے والا ۔ رقیق القلب ۔ مزدور
اندوہگین ۔ بندہ جو کبھی موٹا نہیں ہوتا
اسفار (فنعفسم) جمع ۔
اہوصی آسیفتہ و آسافہ زمین
تنگ ۔ یا وہ زمین کہ کچھ نہ اوگاتی
اسیل (فکس) نرم اور ہموار ۔ برابر
رخسارہ دراز جسکا چہرہ لمبا ہو ۔
اسیل الخد دراز رخسار ۔
اسیلم (فنفسک) خنصر اور بنصر کے
درمیان ایک رگ ہی ۔
اسینہ (فکسف) کمان کے چلے کے
بٹون مین ایک بٹ سا اسائن (فنعسک)
جمع ۔ تسمہ جو مضبوط بٹا ہوا ہوتا ہی اور
چوپایون کے تنگ اور لگام مین کام آتا ہی
اش (فت) نان خشک
اش (فت) (ان) البعض کالبعض
چڑھ جانا ۔ بدی و شرارت کی طرف
تحریک کرنی ۔ بکری کو دوہنا جیسے
اش بالشاۃ حلبتہ ہاتھ
اشا (فنفسم) کھجور کے چھوٹے
چھوٹے درخت ۔ اشارہ (فسسف)

مادہ
سیف
سوی
سوی
سوی
سفر
سوف
سیل
سیل
سلم

۲۲۱

باب الہمزہ مع الشین
باب الہمزہ مع الشاء

۱۲



ج

اچھی اور خوبصورت ساق والا۔
اَسْوُق (ف ض) جمع ساق ہے۔
اَشْغَال (ف ف) جیسے ناقہ کے
شیئے پھکا پن ہونا سعل (ف ش) جمع
سنت اور دو شتر
اِسْوِداد (ک ض) سیاہ ہو جانا۔
اِسْہاد (م ض) بہت سے رنگ
اسکی مادہ ہیں۔
اِسْہاء (ک ض) شہوہ بنانا
اِسْہاب (ک ض) کلام کو بہت کرنا
حریص ہونا یا خوب حریص ہونا گھوڑے
نقش یا نذر سے گھوڑے
کا کشادہ قدم چلنا۔ سبقت کرنا۔ سبب
کے کاٹنے سے بیہوش ہو جانا۔
درد یا بیماری یا افراط محبت سے رنگ
بدل جانا۔ کنواں کھودنا پس ریت پر جا
پہنچنا۔ کنواں کھودنا پس پتھر کو نہ
پہنچنا۔ چوپایہ کو چھوڑ دینا بچے کے
بچے کا اپنی ماں کا دودھ پینا بہت
سخی ہونا مرد کا بہت بخشش کرنی۔
اِسْہاد (ک ض) بیمار کی نے بچے کو
گرا دینا عورت کا سبد کرنا۔
اِسْہار (ک ض) بیدار رکھنا

اِسْہال (ک ض) زمین نرم پر پہنچنا
دوا کا پیٹ چلا دینا۔
اِسْہام (ک ض) کلام کو بہت کرنا
آپس میں قرعہ ڈالنا۔
اِسْہان (ک ض) پتلی اور نرم ریت
اُسْہد (ض ف) عقل کا بہت بیدار۔
اُسْہران (ض ف) ناک اور ذکر
پیٹھ میں دو رگیں ہیں جن سے آب
منی ذکر میں آتا ہے۔ چوپایہ کی ناک میں
دو رگیں ہیں۔ آنکھ میں دو رگیں ہیں
دو رگیں کہ انتڑیں کے اوپر جاتی ہیں
اور باطن ذکر کے پاس جمع ہوتی ہیں
اَسْی (ک ف) علاج کیا ہوا۔
صیغہ لغت ہے۔
اَسْی (ف ن) (مں) کسی کے لیے
گوشت چھوڑنا چاہیے۔ اسیت لہ
یہ لفظ گوشت میں خاص ہے۔
اٰسِی (ک ف) یعنی طبیب و معالج
اساۃ (ض ف) اور اساۃ (ک ض) جمع۔
اُسِّی (ک ف) بقیہ گھر کا۔ اور کمی
متاع گھر کی خراب مال۔
اَسی (ف ع) او نے رگوں میں ہوتا ہے جیسے
اسیت مکتبہ ولہ آس اور اسیان

[illegible] پچھلے حصہ بالا ہونا۔

اشتاعتر (کفسف) اونٹوں کو آگور کرکا اور دوڑانا کہ پھر یں جیسے اشتاع

یا لالا بل خبر وغیرہ کو فاش اور آشکار کرنا۔ کسی چیز کو تابع اور بار کرنا کسی کی شتر مادہ کا بار بلا سبب [illegible]

اشتاقہ (کفسف) اطلاع پانی جیسے

اشتاق علیہ دوڑنا جیسے اشتاق [illegible]

اشتاکتہ (کفسف) درخت کا کانٹا نکال ڈالنا کسی کو کانٹے سے زخمی کرانا۔ کسی کو کانٹا لگانا اور اس سے آزردہ کرنا۔

اشتالتہ (کفسف) اونٹنی کا دم اوپھا پھیر کر اوٹھانا۔

اشتامہ (کفسف) جانب چپ۔ سنجھیں یہ معانوا میں کی ضد۔

اشتام (کسس) شام کی طرف جانا۔

اشتامتہ (کفسف) ایک چیز میں داخل ہونا

اشتاہر (کفسک) نرگس کی سپیدی

اشتب (کفف) کچھ [illegible] یاسمین لپٹا ہوا نخلستان۔

اشتعب (کفف) (رس) درختوں کا یاسمین لپٹنا۔ اشتب (کفک) [illegible]

اشتب (مس) [illegible]

اشتب (کفنی) [illegible] عیب کرنا اور ملامت کرنی۔

اشتباہ (کفسم) اوتنا [illegible] کسی کی عقلمند فرزند پیدا ہونا [illegible] میں [illegible] کسی کو [illegible] کو گرامی کرنا اور [illegible] اعتدال اور [illegible] نزاکت [illegible] کسی کی اولاد کا [illegible] ہونا۔

اشتباح (کفسعش) [illegible] جوان [illegible] کا باپ ہونا [illegible] کرنا [illegible] بڑھا اور بڑی عمر کا ہونا [illegible] لفظ میں لانا۔ اندازہ کیا جانا جیسے

اشتبہ کی [illegible]

اشتباج (کفسعش) [illegible]

اشتباخ (کفسک) اونٹ اور بکری وغیرہ سے کنایہ ہے

اشتبار (کفسعش) جمع شبر کسی کی بمعنی بالشت

اشتبار (کفسعش) کسی کو مال بخشش کرنی۔

۲۲۳

۱۲

اشتر (ش) ... جھوٹے چھوٹے

... نشانہ (ضم) ج -

اشتاجوتہ (کفسف) کسی کو کسی کی

... کرنا جیسے اشتاره الیہ اشتاہ

اشتاتہ (کفسف) کسی کے سر کو

... کرنا جیسے اشتاب راسہ ...

... جیسے فلاں ہو گیا -

اشتاتر (تفسف) ہر چیز کسی کے

... لوگ سکا یا ہوا مال حرام ...

ملایا ہوا اشتاشب (فتسکل) ج -

اشتاج (ضم فتس) ... دسویں ...

... یعنی وشاج -

اشتاحتہ (کفسف) زمین کا ...

گھاس ... اگانا ... کرنا

ایک کام میں کوشش کرنی اور ...

ہمیشگی کرنی جیسے اشتاح علیہ -

گھوڑے کا اپنی دم کو لٹکانا جیسے

اشتاح الفرس بذنبہ اعراض کرنا

جیسے اشتاح بوجہہ -

اشتاذہ (کفسف) ایک چیز کو بلند کرنا

آواز کو اونچا کرنا - ایک چیز کا نشان کرنا

- کلام کو کسی کی طرف منسوب کرنا اور

قصد اور شعر کو بلند کرنا جیسے اشتاذ

ذکرہ تعریف کرنی ... ہوئے کو

پہنچانا - ہلاک کرنا -

اشتارتہ (کفسف) شہد توڑنا ... کو

کرنا یا فشت ... سیاہ ...

... ہونا کہ اس کے ...

چال کو معلوم کریں ... وغیرہ سے

کسی کی طرف اشارہ کرنا - کسی کو

حکم دینا جیسے اشار علیہ بکذا آگ کو

بلند کرنا جیسے اشتد النار ... شہد

توڑنے میں کسی کی مدد کرنی جیسے

کہتے ہیں یا شتری عسلا -

اشتارہ (کفسف) ... آرام کر دینا

کسی کو ... -

اشتاش (تفص) اشتاشہ (کفسف)

(ص ن) شاد ہونا نشاط کرنی ...

اشتاش (تفص) اشتاشتہ (کفسف)

(اسم) نشاط شادی -

اشتاشتہ (کفسف) ... کرنا

اشتاصتہ (کفسف) ... کو نہ قبول کرنا

اشتاعتہ (کفسف) ... سواک کرنی -

اشتاطہ (کفسف) جلانا - ہلاک کرنا

کسی کو قتل کے لیے آگے لانا شتر

قمار کو ... کرنا ... میں سے

مادہ

چیز کو ایک چیز کے ساتھ معلق کرنا۔
اشتراف (کسکفس) بالون پر پہونچنا
اشتراق (کسکفس) گوشت کو چیرکر یا لمبا لمبا کاٹکر دہوپ مین رکہنا تاکہ خشک ہو جاوے۔
اشتراک (کسکفس) سا جہا کرنا۔
اشتطاط (کسکفس) کسی پر حکم مین جور و ستم کرنا۔ چوپایہ کا چرنے مین دور چلا جانا۔ دور ہونا۔
اشتعال (کسکفس) آگ کا بہڑکانا سر کا سپید بالون سے بہڑکنا۔
اشتعار (کسکفس) بیابان مین دور چلا جانا۔ ستم کرنا۔ فخر کرنا۔ اونٹون کا بہت ہونا اور مختلف ہوجانا عدد کا بہت ہونا اتنا کہ معلوم نہووے کہ کسقدر ہے حساب کا بہت اور فراخ ہونا۔ کام کا مشتبہ ہونا۔
اشتغال (کسکفس) ایک کام مین مشغول ہونا۔
اشتفاء (کسکفسم) شفا پانی۔ جیسے اشتفیت بکذا
اشتفاف (کسکفس) برتن کا سارا پانی پی لینا کہ کچھ باقی نرہے

ایک چیز کی نہایت اور حد کو پہنچنا اور اوسکو سالم لے لینا۔
اشتقاق (کسکفس) ایک چیز کا آدہا لینا۔ کلام مین داخل ہونا یا کہ خصومت مین آئین بائین شائین لیجانا اور اوس حال مین دائین بائین چلنا ایک کلمہ کو کلمہ سے بنانا۔
اشتکاء (کسکفسم) گلہ کرنا چمڑے کا شکوہ یعنی مشکیزہ بنانا۔
اشتکار (کسکفس) پستان کا پر شیر ہونا جیسے اشتکر الضرع کہجور کا شکیر نکال لانا جیسے اشتکر النخل درخت کا چہوٹے پتے نکال لانا جیسے اشتکر الشجر انگور کے درخت کا شاخ سے اگ آنا جیسے اشتکر الکرم ابر کا خوب برسنا جیسے اشتکرت السماء ہوا کا مینہہ لے آنا جیسے اشتکرت الریاح بالمطر گرمی کا سخت ہونا جیسے اشتکرت الحر خوب دوڑنا اور دوڑنے مین کوشش کرنی جیسے اشتکر فی عدوہ
اشتکال (کسکفس) کام کا مشتبہ ہونا
اشتلاء (کسکفسم) رہائی دینی۔ تلیو کرنا کسیکو بلانا تاکہ چہڑا دے۔

شرف
شرق
شرق
شرک
شطط
شعل
شعر
شعر
شغل
شفی
شفف

۲۲۵

شقق
شکو
شکر
شکل
شلو

اشتمال [illegible] کرنا [illegible]

[illegible] کرنا۔ کپڑے کو گھر [illegible] ڈالنا۔ کپڑا سر پر پہننا۔

اشتمام (ک س ف س) پاس پاس [illegible]

اشتمال (ک س ف س) کسی پر مہربانی کرنی [illegible] اعانت کرنی [illegible] بچے کو ساتھ لانا اور خاوند کرنا۔

اشتمالی (ف س ک) بہت سرخ۔

اشتباہ (ک س ف س) مشتبہ ہونا [illegible] اور ضعیف ہو جانا۔

اشتہر (ف س ف) بھیڑیا۔

اشتور (ف س ف س) ایک مچھلی ہے۔

اشتہار (ک س ف س) چارے میں [illegible] ہونا معاملے میں داخل ہونا۔

اشتمام (ک س ف س) کان او[ر] نیچے [illegible] سبقت کرنی۔

اشتات (ک س ف س) پراگندہ کرنا۔

اشتار (ک س ف س) آنکھ کو اور [illegible] کرنا۔

اشتماز (ک س ف س) وحشت کرنی نفرت کرنی بھاگنا۔

اشتاع (ک س ف س) ہلاک کرنا۔

اشتقاق [illegible] مقصد کرنا۔

اشتغال (ک س ف س) جان پکڑنا۔

اشتمال (ک س ف س) ایک چیز کا آپس میں گتھا ہوا ہونا۔ کاموں کا [illegible] ہونا سیاہی شب کا خوب تاریک ہونا ستاروں کا خوب ظاہر ہونا۔

اشتباہ (ک س ف س) مشتبہ ہونا مشابہ ہونا۔ کام کا مشتبہ ہونا۔

اشتجار (ک س ف س) دو گروہ کا آپس میں منازعت کرنا۔ اندیشہ میں ہاتھ کو ٹھوڑی کے نیچے لگانا کسی کی آنکھ میں سے نیند کا جاتا رہنا کسی کو نظر لگنی چیزوں کا مختلف ہونا اور بعض کا بعض میں آنا۔

اشتداد (ک س ف س) سخت اور قوی اور مضبوط ہونا۔ عدو تا سند کا چرھنا۔

اشتداہ (ک س ف س) سننے [illegible] متحیر ہونا سا [illegible] رہنا۔

اشترخار (ف س ف س) ایک گھاس ہے۔

اشتراء (ک س ف س) خریدنا بیچنا لغات اضداد سے ہے۔ ایک چیز کو ہاتھ سے دینا اور دوسری چیز عوض میں ہاتھ میں آنا۔

اشتراط (ک س ف س) پیمان لینا۔

علامات اعراب پیش کسرہ زبر سکون تشدید مادہ

کی جڑ کا پیوند جو پشت دست کے پیچھے
کے متصل ہو یا پشت دست کا پچھا
بند دست سے ان انگشتان تک
یا انگلیون کی ہڈی پشت دست کے
پیچھے کے نیچے بند دست کے متصل
اشجع (کسف) یعنی اشجع (فسف)
اشاجع (فعیل) جمع
اجمل اشجع اونٹ آسے کے آنیوالے
اشح (ففف) غصہ کرنا۔ اشحان
(فسفعفس) لغت مذکر اور اشحی (فسف)
صیغہ لغت مونث ہی۔
اشحابہ (کسفسم) منہ کو کھولنا۔
اشحاص (کسفس) مشقت مین ڈالدینا
جلا وطن کردینا۔
اشحاط (کسفس) دور کرنا۔
اشحان (کسفس) گھوڑون سے
شہر کو پر کردینا۔ رونے کے لئے بچہ کا
آمادہ ہونا تلوار کو میان مین کرنا۔
تلوار کو میان سے نکالنا۔ لغات اضداد
سے ہی کسی پر پتھر پھینکنے کے لئے آمادہ ہونا
اشحاذ (کسفس) کہتے کو بھڑکانا
اشحاش (کسفس) گفتگو مین جرح
کرنی کسی کی غیبت کرنی۔

اشخاص (کسفس) آرام کرنا۔
جگہہ سے اوکھاڑنا۔ لیجانا سفر کا
وقت آپہنچا۔ کسی کی غیبت کرنی
تیر کا نشانہ سے اوپر ہی اوپر گذر جانا۔
غریم کو ایک جگہہ سے دوسری جگہہ لانا
اشخام (کسفس) دہن کا بدبودار ہونا
اشخر (فسف) درخت عشر
اشخم (فسف) سپید بال۔ سبز گھاس
کی چراگاہ۔ روئے زرد رنگ کا گدہا مرد
دیرینہ چہرہ اور بدن کے گرد آگر خون کا لا ہونا
بسبب بادی بدن کے۔
اشخوب (سفسنس) اشخب ہونے کی آواز
اشخیام (کسفسفس) گھاس کا
خشک گھاس مین آمیختہ ہونا۔
آشد (ففت) یا آشد (مفت)
حضرت یوسف کے بھائی کا نام
اشد (ففت) اشد (فففس) گواہی
دیتا ہون مین اشہد کا مخفف ہی۔
اشد (ففت) قوت اور طاقت
اور قوت و طاقت کے دن اٹھارہ
برس کی عمر سے تیس برس کی عمر
اشداد (کسفسم) گانے کے
فن مین ماہر ہونا اوستاد ہونا۔

شجج
شجع
شجع
شجح
شجن
شحو
شحص
شحط
شحن
شحذ
شحش
شخص
شخم
شخر
شخم
شخب
شخم
شد
شهد
شد
شدو

۲۲۷

۱۲

حسن امام ۱۲

اشتباک (کسکفس) نیزوں کا شبک ہونا

اشتمار (کسکفس) بوک بکرے کا مادہ کے سرین پر پانا تاکہ اوسکو بلند کرے آمادہ ہو اوس سے جفتی کرے

اشتمال (کسکفس) اپنے پر لپیٹنا کپڑے کو جیسے اشتمل بالثوب (اوڑھنا)

جیسے اشتمل الرجل واشتمل علی الشیء کپڑے کے نیچے لیا اوسکو۔

اشتمام (کسکفس) سونگھنا۔

اشتواء (کسکفسم) بھنا ہوا ہونا کباب بنانے بھونتا۔

اشتہاء (کسکفسم) کسی چیز کو چاہنا آرزو کرنی دوست رکھنا۔

اشتہاج (کسکفس) بڑا ہونا۔

اشتہار (کسکفس) آشکارا کرنا۔ ظاہر ہونا آشکارا ہونا۔

اشتیاب (کسکفس) ملا ہوا ہونا۔

اشتیاذ (کسکفس) عمامہ سر پر باندھنا

اشتیار (کسکفس) شہد توڑنا۔ چوپائے کا موٹا ہو جانا۔

اشتیاط (کسکفس) گردن فراز کرنی۔ ایک چیز میں تامل کرنا سعید باتی کرنی زخم کا سخت ہو جانا بجلی کو دور سے دیکھنا

اشتیاق (کسکفس) ایک چیز کا آرزومند ہونا مشتاق ہونا۔

اشتیال (کسکفس) تعرض کرنا گالی دینی۔ اونٹ کا اپنی دم کو اوٹھانا۔

اشتیام (کسکفس) ایک چیز میں فال بد لانا

اشج (فتفت) ایک دوا ہے گوند کی مانند

اشج (ففت) مرد جو اپنی پیشانی پر چوٹ کا اثر رکھے۔

اشجار (کسفسم) غمگین کرنا یا دکھانا لغات اضداد سے ہے کسی کو مقہور کر لینا اور سپرد ہونا کسیکو غم میں ڈالنا

اشجاذ (کسفس) کسی پر ایک چیز کا سخت ہونا اور اوسکو اذیت دینی۔ مینھ کا کھل جانا بہت برسنے کے پیچھے مینھ کا سست اور نرم ہونا۔

اشجار (کسفس) زمین کا درخت کو اوگانا

اشجان (کسفس) ایک کام کا کسی کو اندوہگین کر دینا۔ درخت اگنے کا صاحب سجنہ ہو جانا۔

اشجر (فسفت) بہت درخت والا مکان

اشجع (فسفت) پر دل سردار جنگلی ہر دو سر کا گول شیر۔ زمانہ کے لگنے والا اچھا لینا ایک قسم کا سانپ انگلیوں

| مادہ | | |
|---|---|---|
| شرج<br>شرد<br>شرر<br>شرز<br>شرس<br>شرط<br>شرع<br>شرف<br>شرق<br>شرک<br>۲۲۹ | کی طرف کھولنا ۔ راہ کو ظاہر اور بیان کرنا ۔<br>اشراف (کسفض) دیدبان کی جگہ پر چڑھنا ۔ نزدیک ہونا ۔ اطلاع پانی ۔ اوپر سے نیچے دیکھنا ۔ بیمار کا قریب مرگ کے پہنچنا ۔ کسی پر شفقت اور مہربانی کرنی ۔ بلند ہونا ۔<br>اشرافان تمہارے دونون کان کا ۔<br>اشراق (کسفض) آفتاب کا نکلنا ۔ کھجور کے درخت کا غنچہ نکال لانا ۔ طلوع آفتاب میں آنا یا اوس وقت میں کہین جانا ۔ آفتاب کا روشن اور چمکدار ہونا یا بلند ہونا ۔ کپڑے کو خوب رنگ دینا ۔ دشمن کو غمگین اور غصہ ناک کرنا ۔<br>اشراک (کسفض) کفر کرنا ۔ جمع کرنا اور شریک کرنا ۔ جوتی کے لیے تسمہ بنانا ۔ کسی کو شریک کرنا ۔<br>اشرہ (ضنسف) گرہ جو لکڑی کے دم کے سرے میں ہوتی ہے ۔<br>آشرہ (کمف) چیری ہوئی لکڑی ۔<br>اشرج (فسف) چوپایہ جسکا ایک خصیہ بڑا ہو یا اوسکا ایک ہی خصیہ ہو ۔<br>اشخفاف (کسکفض) جنگ کے لیے آمادہ ہونا ۔ سبکی و شتابی کرنی ۔ | اشراج (کسفض) جامہ دان وغیرہ کے گوشہ میں تسمہ ڈالنا ۔ خریطہ کو بند کرنا ۔<br>اشراد (کسفض) شہر بدر کر دینا ۔<br>اشرار (کسفض) ایک چیز کو آفتاب میں رکھنا تاکہ خشک ہو جاوے ۔ ظاہر کرنا ۔ کسی کو بدی کیطرف منسوب کرنا ۔<br>اشرارہ (کسفسف) گوشت کا خشک کردا ۔ برگ خرما کا زنبیل جسپر گوشت خشک کرین ۔ ہر چیز جسپر گوشت وغیرہ کو خشک کرین ۔ اوٹنون کا بڑا گلہ ۔ اشارر (فوفسکس) جمع ۔<br>اشراز (کسفض) سختی اور ناپسندی مین کسی کو ڈالنا ۔<br>اشراس (کسفض) جھاؤ کے درخت کی ایک قسم ہے اوسکو چرانا ۔<br>اشراط (کسفض) اونٹ بکری وغیرہ بیچنے کے لیے نشان کرنا ۔ ایک چیز کو بیچنے کے لیے آمادہ کرنا ۔ قاصد کو دوڑا دینا ۔ اپنے تئین ایک کام پر آمادہ کرنا اور اوسکے لیے اپنے تئین نشان بندی کرنا ۔<br>اشراع (کسفض) نیزہ کو کسی کی طرف سیدھا کرنا ۔ دروازے کو رستے |

أشتد لعذ (کسفس) سخت چوپایہ والا ہونا کسی کو قوت دینی -

أشتداف (کسفس) آنکھ کا باریک ہونا

أشتدائی (کسفس) ہرنی کا قوی بچہ والا ہونا

أشتداہ (کسفس) بجود کرنا -

أشتدح (فسفت) ہر چیز فراخ -

أشتدخ (فسفت) شیر سپید جو گھوڑا

أشتدف (فسفت) دشوار سخت تنگ روزی - گھوڑا جو مشقت و تعب کے سبب ایک جانب کو مائل ہو - اونٹ جو چلنے میں نشاط کے سبب لینا اور کشیدہ تن ہو - کج رخسار مرد - بزرگ موٹے بدن کا گھوڑا -

أشتدق (فسفت) خوش تقریر اور کشادہ کلام

أشتداو (کسفسم) یکسو کرنا - دور کرنا جیسے اشتداہ عنہ -

أشتذاذ (کسفس) اکیلا اور نادر کرنا نادر بات کہنی - کسی چیز کو ایک طرف کرنا اور نہایت کو پہنچانا -

أشتر (فنعن) خوبی اور تیزی دانتوں کی خلقی ہو - یا بناوٹ کی راہ سے

اشتور (فنغفس) جمع -

أشتر المتحمل وہ اپنی ہے کے دندانے -

اشتر (فغف) (س) تکبر اور تبختر کرنا -

اشتر (مک) اشتر (فغض) اشتر (فغف)

اشتران (فسفس) صیغہ لغت ہے -

اشتروان (فکصنس) اشتروان (فسفس)

اشتری (فسف) اشتاری (فسف) جمع -

اشتر (منس) (ض) دانتوں کا صاف کرنا - لکڑی کو چیرنا آرہ سے -

اشتر (مک) بمعنی اشتور (ضنف) اور وہ خار جو ساق ملخ میں ہوتا ہے -

أشترار (کسفسم) بجلی کا چمکنا - سبز گرمی کو پر کرنا - اونٹ کی پشم کو کشادہ کرنا - ایسمین پر انگیختہ کرنا -

اشتراب (کسفس) کسی پر جھوٹ باندھنا - ہر اونٹ کو اوسکے ساتھ کرنا - گھوڑوں کے گلے میں رسی ڈالنی - کسی کے گلے میں رسی ڈالنی کسی کی محبت کسی کے دل میں ملائی جانی - پانی پلانا - پانی دینا - پانی پینا - پیاسا ہونا - سیراب اونٹوں والا ہونا - پیاسے اونٹوں والا ہونا - لغات اضداد سے ہے - پانی پینے کے نزدیک پہنچنا - کپڑے کو خوب گہرا رنگ پلانا - کپڑے کا خوب گہرا رنگ پینا

ے بچے کو ملا دینا۔ کسی کو ایک امر سے آگاہ کر دینا۔ کسی کو شعار پہنانا۔ عمر وغیرہ کا بجائے شعار کے چمکنا۔ قوم کا شعار اور نشان کے ساتھ ہونا۔ یا اپنے شعار کے ساتھ ندا کرنا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانیں۔ قربانی کے اونٹ کے کوہان کو خون آلودہ کرنا۔ چھری وغیرہ کا دبا بٹانا۔ عشق کا کسی کو بیماری کے ساتھ دبا لینا۔ کسی کو معروف اور مشہور کرنا۔ شعر کہنا۔ بادشاہ کو مار ڈالنا۔

أشعاع (کسعفس) اونٹ کا پیشاب کو پراگندہ ڈالنا۔ کھیت کا خوشہ نکال لانا۔ خوشہ کا دانہ سے پر ہونا۔ آفتاب کا نور پھیلانا۔ خوشہ کا کانٹا نکال لانا۔

اشعال (کسعفس) آگ کو بھڑکانا۔ اپنے اونٹوں میں قطران ملنا۔ غارت میں گھوڑوں کو پراگندہ کرنا۔ اونٹوں کو پریشان کرنا۔ لوٹ وغیرہ کا پریشان ہونا۔ خوب سیراب کرنا۔ مشک وغیرہ میں جگہ جگہ سے پانی ٹپکنا۔ جگہ جگہ نیزہ کے زخم سے خون نکلنا۔ آنسو کا آنکھ سے بہت روان ہونا۔

اشعان (کسعفس) اپنے دشمن کی

پیشانی کے بال پکڑنے۔

اشعب (رفسعف) وہ کہ جسکے دونوں سینگوں کے درمیان بہت بعد ہووے شعب (رمنس) جمع۔

اشعث (رفسعف) مرد جسکے اوبھے ہوئے بال ہوں شعث (رمنس) جمع۔ میخ۔ ہمی گھاس خشک سا۔ اشاعث (رفسنک) اشاعثہ (رفسنکف) جمع۔ گھوڑا جسکی پیٹھ نکہچانی ہو اور کہرا نکیلا ہو۔ شعث (رمنس) جمع۔

اشعر (رفسعف) بہت بالوں والا بدن۔ سم ستور کے گرداگرد بال۔ اشاعر (رفسنک) جمع۔ گرداگرد اونٹنی کی فرج کے بالوں کی لمبائی۔ ایک چیز آبلہ کی مانند جو بکری کے سم میں نکل آتی ہے۔ ایک بیماری ہے۔ گوشت کہ ناخن کے نیچے اگے۔ شعر (رمنس) جمع۔

اشعل (رفسعف) گھوڑا جسکی دم میں سپیدی ہے۔

اشعلال (کسکعفس) گھوڑے کی دم وغیرہ میں سپیدی کا ظاہر ہونا۔ بالوں کا بدن پر کھڑا ہونا۔

اشعیلال (کسکسعفس) بمعنی اشعلال۔

اشعیتان (کسکسعفس) بالوں کا

مادہ
شعع
شعب
شعث
شعر
شعل
شعل
شعن
شعن

اشترص (صفت) ... لڑائی کا تیسر -
اشترط (صفت) نہایت اچھی تیغ -
اشترع (صفت) ناک جسکا سر اٹھا ہو -
اشترف (صفت) چمگیدڑ - ایک اور پرند جانور ہی کہ گھونسلا نہیں بناتا اور پستے نیچے نہیں اوترتا -
اشترم (صفت) ہرو کی ناک بہت ہی ہوئی ہو -
اشتریاب (کسکفس) کسی کی طرف دیکھنے مین گردن کو سیدھا کرنا - یا دیکھنے کے لیے اوپر چڑھنا -
اشتریراء (کسکفسم) سنے آنا ... جگہ سے چلا جانا -
اشتراق (کسکفس) آنکھ کا پُرآب ہونا -
اشتساع (کسفس) جوتی کے لیے تسمہ بنانا -
اشتصاء (کسفسم) آنکھ کو کھولنا اور اوسکو اوٹھانا -
اشتصاب (کسفس) خدا تعالی کا کسی کی زندگانی کو سخت اور دشوار کر دینا -
اشتصاص (کسفس) روکدینا - دور کرنا - لغو سستی اور بکری کا کم شیر ہونا -
اشتطاء (کسفسم) درخت کا شطاء

... نکال لانا - بالغ ہونے والا ہونا یا لپتے جیسے بیٹے والا ہونا یعنی اوسکا بیٹا بالغ اور باپ کے برابر کا ہو گیا ہو -
اشتطاط (کسفس) کسی حکم مین جور اور ستم کرنا - چوپائے کا چرنے مین دور چلا جانا - طلب مین مستعد ہونا اور تھاہ مین جانا - جنگل مین دور چلا جانا -
اشتطان (کسفس) دور کرنا -
اشتظاء (کسفسم) کسی کی شظای پر پہنچنا - کسی کی شظای یعنی پنڈلی کی ہڈی پر مارنا -
اشتظاظ (کسفس) جیسے اشتظ البعیر ای ہذو ذنبہ اونٹ کا اپنی دُم کو لپٹا کرنا -
اشتعاء (کسفسم) اہتمام اور غمخواری کرنی جیسے اشتع بہ اشتعاء، قوم کا غارت کو متفرق و پریشان کرنا -
اشتعاب (کسفس) مرجانا - خوب جدا ہونا اور مفارقت قبول کرنی کہ جس سے بازگشت نہو -
اشتعار (کسفس) بچے کا پیٹ مین بال نکال لانا - معدہ مین بال کا داخل ہونا - اونٹنی کا بال نکالے ہوے

شرص ، شرط ، شرع ، شرف ، شرم ، شرب ، شری ، شرق ، شسع ، شصو ، شصب ، شصص ، شطو
۲۳۰
شطب ، شطط ، شطن ، شظی ، شظظ ، شعو ، شعب ، شعر

یا اون کے دہن کی باچھین ۔
اشتقاح (کسفعس) دور چلا جانا یا دور کرنا ۔ کھجور خرما کا سرخ ہونا اور رنگ لے آنا کھجور کا زرد سرخ وغیرہ والا ہونا ۔
اشتقاذ (کسفعس) ہانکنا دفع کرنا
اشتقاقل (کسفنسک) اشتقاقل مصری
اشتقاع (کسفعس) بال کا کم ہوجانا یا کم کرنا کم دینا ۔
اشتقاہ (کسفعس) رنگ کرنا کھجور خرما کا
اشقح (افنسف) سرخ سپید ۔
اشقر (افنسف) گھوڑا جسکی ایال اور دم ہو سرخ سپید مرد ۔ وہ جسکی سپیدی پر سرخی غالب ہو ۔ جما ہوا خون اونٹ نہایت سرخ بالون والا ۔
اشقرار (کسکعس) سرخ سپید ہونا
اشتکاء (کسفعس) درخت کا شاخ نکال لانا
اشتکاء (کسفعس) کسی کے لیئے ایک چیز لینی کہ اوسکو خورش کرد ے گلہ مند کردینا ۔ گلہ اور اذیت زیادہ کرنی ۔ شکایت کرنی ۔ لغات مندرجہ ذیل
اشتکاد (کسفعس) دینا ۔ مال حقیر کا
اشتکار (کسفعس) پستان کا پر ہونا ۔ بہت دودھ کے اوتھون میں لانا ہونا قوم کا دودھیل اونٹون کا دودھ والا ہونا ۔ کھجور کا شکر نکال لانا ۔ فند کا چھوٹے پتے نکال لانا ۔ انگور کا شاخ سے پھول آنا ۔
اشتکاع (کسفعس) غصہ دلانا یا ملول کرنا کسی کو عاجز کردینا ۔
اشتکال (کسفعس) کام کا مشتبہ ہونا اور مشتبہ ہوجانا ۔ خرما کا رطب ہوجانا اور پختہ ہوجانا آنکھ کا سرخ سپید ہوجانا ۔ کتاب کے حروف کو اعراب اور نقطے دینا ۔
اشتکام (کسفعس) بدلا دینا ۔
اشتکاہ (کسفعس) کام کا مشتبہ اور مشکل ہوجانا ۔
اشکر (افنسف) وہ چیز کہ اودیم سپید کی مانند ہوئے اور اوس سے زین کو مضبوط کرین ۔
اشکل (افنسف) جسمین کہ سرخی اور سپیدی ملی ہوئی ہو ۔ یا وہ کہ جسمین سرخی مائل بہ تیرگی ہو ۔ شکل جنس جمع ۔ پہاڑی بیر ۔ اونٹ جسکی سیاہی سرخی مین ملی جلی ہوئی ہو ۔ خون ملا پانی ۔ لوک جسکی کوکھ سپید ہو ۔

مادہ ۲۴۳ ۱۲

مادہ

شغو
شغر
شغل
شفر
شفق
شفع
شفی
شغف
شغی
شفق

اور الجھا ہوا اور پریشان ہونا۔

اَشْغَاء (کسفسم) کسی کے کام میں لوگوں کے برخلاف کرنا۔ پیشاب کو قطرہ قطرہ ٹپکانا۔

اَشْغَار (کسفس) لگاٹ کا راہ سے دور رہنا۔ سیاران سفر کا راہ سے تنہا اور جدا رہنا۔ کسی پر حساب کا پریشان اور بہت ہونا۔ عورت کے دونوں پاؤں کو جماع کے لیے اوٹھانا۔ لڑائی کا وسیع اور بڑنگ ہونا

اِشْغَال (کسفس) کام میں لگنا۔

اُشْغُولَہ (ضسضسف) کاروبار جو چیز کہ ایک کام سے روکے۔

اَشْغَی (فسف) مرد جسکے دانت ناہموار اور لمبے ہوں۔

اِشْفَاء (کسفسم) ایک چیز کے قریب ہونا اسکا استعمال بجز شر کے اور نہیں ہوتا جیسے اشفی علیہ اشفاء کسی کو وہ چیز دینی کہ جس سے طلب شفا کرے۔ کسی چیز کو ایک کے لیے شفا کرنا۔ کسی کی تندرستی چاہنی تندرستی دینی۔

اِشْفَاف (کسفس) بعض کو بعض پر قبول کرنا۔ تفضیل کم کرنا۔ زیادہ کرنا۔ لغات اضداد سے ہے۔

اِشْفَاق (کسفس) ڈرنا مہربانی کرنی۔ کم کرنا۔

اِشْفِتْرَار (کسکسفس) پراگندہ ہونا پراگندگی۔ گروہ کا ٹوٹا ہوا ہونا چیز کا پریشان ہو جانا تتر بتر ہونا۔ چراغ کی لو کا بڑا ہونا۔

اَشْفَع (فسف) لمبے قد کا مرد۔

اَشْفَی (فسف) موچیونکی ٹانکی جو سوا۔ اَشَافِی (فضسک) جمع۔

اَشْفَی (فسف) مرد جسکے ہونٹھ کم ملیں۔

اِشْفِیَاء (کسکسفسم) ایک ٹیلا ہے۔

اَشْق (فسف) گھوڑا جو دوڑنے میں دائیں بائیں جاوے۔ کشادہ ہاتھ پاؤں کا گھوڑا۔ لمبا گھوڑا۔

شُق (ضسف) جمع فراخ فرج کی عورت۔

اُشُق (ضضف) ایک بوٹی کا گوند ہے کہ وہ لکڑی کی مانند ہوتی ہے اور بعض نے اسکو بمعنی صمغ طرثوث کہا ہے اور یہ غلط ہے۔

اِشْقَاء (کسفسم) کنگھی کرنی۔ بدبخت کرنا۔

اَشْقَاحَ الْکِلَاب کتوں کی

اَشمَط (رسف) ایسا مرد جسکے سیاہ بال ہوں یعنی کھچڑی ہے۔ شمطا (رسن) شمطان (رسفس) اسکی جمع۔
اِشمِعاط (کسکفس) دو رنگ کے سپید سیاہ بالوں والا ہونا۔
اِشمِعطاط (کسکسفس) ایک چیز کی طلب کرنے میں شتابی کرنی اور متفرق ہونا۔ ڈر کر اوٹھنا اور کھڑا ہونا۔ گھوڑوں کو ایک چیز کی طلب میں تیز دوڑنا۔ اونٹوں کا متفرق ہونا۔ تیز تیز ہونا۔ غصہ ناک ہونا۔
اِشمِعلال (کسکسفس) ایک چیز پر مطلع ہونا۔ ایک چیز کی طلب میں دوڑنا۔ اور متفرق ہونا۔ اونٹوں کا شتاب چلنا اور پریشان ہونا۔ دشمن پر ہر طرف سے ٹوٹ آنا۔
اَشمَغ (رسفن) اونٹ کے منہ کا جھاگ خون ملا ہوا۔
اِشمِئزاز (کسکسفس) منقبض اور گرفتہ ہونا یعنی پیچ تیچ پڑنا۔ ایک چیز کو مکروہ اور ناخوش رکھنا۔
اِشمِیطاط (کسکسفس) بعض رنگ کے یعنی سپید سیاہ بالوں والا ہونا مخلوط

اِشناع (کسفس) اونٹنی کی رفتار میں چلبلی کرنی۔
اِشناف (کسفس) لڑکی کے کان میں بالا ڈالنا۔
اِشناق (کسفس) اونٹ کو زور سے مہار کھینچ کر کھڑا کرنا کہ اوسکا سر پالان سے جا لگے یا اونٹ کے سر کو بلند کرنا جبکہ تم اوسپر سوار ہو یا اونٹ کا مہار کھینچنے سے ٹھہرنا جبکہ تم اوسپر سوار ہو۔ لازم اور متعدی دونوں آتا ہے۔ مشک کو اشناق یعنی تسمہ وغیرہ سے باندھنا۔ کسی پر ستم کرنا جیسے اشنق علیہ زخم کی دیت لینی۔ دیت جراحت کا واجب ہونا۔ لغات اضداد سے ہے۔ اونٹ کا سر کو اونچا کرنا۔ مشک کو بلند میخ پر لٹکانا۔
اُشنان (ضسفس) ایک گھاس ہے کہ پتا اوسکا اندر اور سے غاسول بھی کہتے ہیں کیونکہ عرب کے لوگ اوس سے کپڑا دھوتے ہیں۔
اِشنان (کسفس) کسی پر غارت کو ہر طرف سے ڈالنا جیسے اشن الغارۃ علیہم۔ مشک کا پرانا ہو جانا۔
اَشنہ (رسفف) ایک چیز سپید ہو

شمط
شمعط
شمعل
شمغ
شمئز
شمط
شنع
شنف
شنق
شنن

[illegible]

اشکلہ (فتف) التباس مشابہت ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اسپ سپید خاص ہے اشکل سے۔ مشابہت۔

اشکل (فتف) جسکا ہاتھ خراب ہو۔

اشکلا (ر) لگام لگانا گھوڑے کے نشے یا لگام کے نشے کہ باعث درازی و بانس کے اوسکا ہاتھ پیلا ہو گیا ہو۔

اشکلا (کسفسم) چوپایہ کو تو پرہ دکھانا تاکہ آوے اور اونٹنی کا بچہ اونٹنی کو دودھ پینے کے لئے بلانا۔ کتے کو بلانا کہ شکار پیچھے کاوے۔

اشکلال (کسفس) ہاتھ کو خراب کرنا۔

اشکم (فتف، رس) کسی کی طرف سے کسی پر خفا ہونا جیسے اشکم فی نگہی فلان۔ مسئلہ اسکات ہے۔

اشکم (فتف) اونچی ناک والا مرد۔ بڑا سونگھنے والا۔ صاحب نیک سردار۔ کندہا جسکی سر استخوان بلند ہو۔ بلند پیکا۔

اشکم (ضت) جمع۔

اشماخ (کسفس) غصہ میں غصے سے خوش کرنا۔

اشمار (کسفس) اونٹنی کے تھنوں کو باندھنا۔ اونٹنی کو چھوڑنا سرعت

[illegible]

اشماس (کسفس) [illegible] کا اوچھانا۔

اشماط (کسفس) مرد کا دو رنگی بالون والا ہونا یعنی سپید سیاہ بالون والا ہونا۔ ایک چیز کو ایک چیز میں ملانا۔

اشماع (کسفس) چراغ کا روشن کرنا۔

اشمال (کسفس) [illegible] کے شمال یعنی تھیلی کہ اوسکے تھنون پر چڑھاتے ہیں بنانا کسی کو یعنی پہنچانی کسی کو شملہ یعنی چادر یعنی مشتمل چادر والا ہونا جسکے پھل پر خرما ہون اون سبکو توڑنا۔ اونٹ سانڈ کا آدھی اونٹنیوں سے لیکر دو تہائی تک حاملہ کرنا۔ شمالی ہوا کی طرف جانا۔ شمالی ہوا میں جانا۔

اشمام (کسفس) سونگھنا۔ سونگھانا سر اوٹھائے چلنا۔ دائین بائین پھرنا حجام اور ختنہ کرنے والے کا مرد اور عورت کے ختنہ میں کاٹنے کی چیز کو کاٹنا۔

اشمام الحرف حرف کو ضمہ یا کسرہ کی بو دینی اسطرح جسکہ سننے میں آو

اشمخرار (کسفس) لمبا ہونا۔

اشمخرہ (فسفف) تیز اوڑنے والا [illegible]

مادہ

اشہاب (کسلفعنن) گھوڑے کا سپید بالون والا ہونا۔

اشہبان (فسفعس) او دو بکری و بھیڑ کے دو برس کہ سے گے درمیان مین بیٹھ اور سبزہ والا برس ہووے۔

اشہل (فسفل) میش چشم۔ مونٹا اکہا

اشہلال (کسلکفعس) میش چشم ہونا

اشہی (فسفی) مرغوب۔

اشہیاب (کسلکفعس) گھوڑے کا سبز سپیدی مائل بالون والا ہونا۔ کھیت کا جگہ جگہہ سبز رہکر خشک ہونا۔

اشی (فسکت) گھوڑے کی پیشانی کی سپیدی جسے غرہ کہتے ہین۔

اشتی (فنی) رض) سخن چغلی کی دروغ آرائی کرنی۔

اشی (ففتہ) رس) کسی کی طرف مضطر ہونا بیقرار ہونا۔

اشیا (فسفسم) اشیاوات (فسفسفس) اشاوات بقصر جمع شی (فس) اکی۔

اشیاح اتاولتہ بڈہے ویر اور کھینچنے والے سست چلنے والے۔

اشیاخ (فسفس) ستارون کے

اصول کرتا ہین یعنی سبع سیارہ۔

اشیب (فسفت) سپید بالون والا بڈہا۔ شیب (کس) شیب (فسفس) جمع

سرد و بچ جبا ہین ہلکا ابر ہو یعنی منہ کے

اشیم (فسفت) خالدار۔ شیم (کس) جمع

اشیہ (کسفت) الاو عجیب بکنے والا۔

اص (فنت وفت کمت) اصل۔

اصاص (کسس) جمع۔

اص (فتۃ) (ن) تھیٹنا اور نرم کرنا بعض کا بعض پر اینٹہ کر آنا۔

اص (فتۃ) ایک چیز کا چمکنا۔

اص (فتۃ) (ن من) اونٹنی کا گوشت سخت ہوجانا اور اوسکی پسلیون کی ہڈی مضبوط ہونی اور اوسکا بہت دودھیل ہونا۔ صاحب قاموس کہتا ہے کہ بعض کے نزدیک اصبہان جو ایک شہر ہے اسی سے مشتق ہے اصل مین اصت بہان تھا یعنی صاحب ملاحت عورت موٹی ہوگئی یہہ نام اوس شہر کا اوسکی خوبی ہوا اور شیرینی آب یا آدمیون کی کثرت کے سبب ہوا پھر اوس مین سے بعض حرف کو تخفیف کر کر اصبہان کر لیا اور صحیح یہہ ہے کہ لفظ عجمی ہے اور

مادہ

ریسی ہلال کی مانند کہ جیسا کہ پست ٹھیکر
لگا ہوا اور درخت بلوط اور صنوبر وغیرہ
چھیدا ہوتی ہے اور پیپی رستی ہو مانند
میں ایسے دوالہ کہتے ہیں احدودہ
خوشبودار ہوتی ہے۔
اشجع (فسف) زشت تر ا [illegible]
درخت میں ہے۔
اشحم کعفسم کسی گو گوشت دینا
تاکہ بھوسے کسی کو پہنا گوشت
کھلانا گیہوں لگنے کا وقت آپہنچنا اور
اونکا ہونے کے لائق ہو جانا۔ شوی
میں ایک چیز کا پہنچنا جیسے رماہ فاشواہ
اذا اصاب شواہ باقی چھوڑنا چھوٹے
چھوٹے چوپایہ لینے کھجور کی
شاخ کا زرد ہو جانا۔
اشواک (فسف) جمع شوک۔
اشور (فسف) پیدا کیا ہوا۔
اشوز (فسف) متکبر۔ سرکش۔
اشوس (فسف) گوشہ چشم سے
یا پپوٹوں کو بند کر کے اور آنکھ کو تنگ
کر کے دیکھنے والا۔ شوس (جمع) [illegible]
اشوص (فسف) بہت آنکھ چھپکانیوالا
اشوع (فسف) مرد جسکے بال

اٹھے ہوئے اور پریشان ہوں۔
اشوق (فسف) نہایت شائق۔
شوق (فسن) جمع یعنی ہر چیز
اشول (فسف) پیالیں کی
رستان یہ لفظ فعلی ہے۔
اشوہ (فسف) بدصورت جو دوسرے
کے سمجھانا
تکبر سے نظر لگانے والا
اشہا (کسفسم) کسی کو ایک کی شہی
مرغوب یعنی کسیکو نظر لگا دینا
اشہاب (کسفس) جاندار [illegible]
سبز سپیدی مائل یالون والا بھیڑ جانا یا
جانکا سو اختی بعد م کو ویلا کر دینا۔
اشہاد (کسفس) حاضر کرنا شعر کا
ندی سے آنا۔ لڑکی عورت کا بالغ ہونا
راہ خدا میں مارا جانا۔ گواہ کرنا۔
اشتہار (کسفس) مشہور کرنا۔ ایک مہینے
ایک حال میں رہنا۔ حاملہ عورت کا ماہ
ولادت یعنی نویں مہینے میں پہنچنا یعنی پورے
دنوں میں۔
اشہب (فسف) شہر سخت کام
بکری جسپیدی مائل ہو سفال جلا
دیا ہوا تیر۔ قوی لشکر بہت ہتہیار والا
ٹھنڈی ہوا کا دن۔ گھوڑا بھی۔ حنک

اَصَارَۃٌ (کفسف) پھیر دینا۔ مائل کر دینا
اَصَاصَۃٌ (کفسف) خرابن کا ناکارہ
خرمے آنا جیسے اصاصت النخلۃ
اَصَاعَدٌ (تفسفس) چڑھنا۔
اَصَافَۃٌ (کفسف) عورت کے بعد بابے
میں بچہ پیدا ہونا۔ تابستان میں داخل
ہونا قوم کا۔ کسی سے بدی کو دور کرنا
بدی کا یکسو کرنا اور روکنا۔
اَصَالَۃٌ (فسف) رس کا مضبوط ہونا
درخت کا اور اصل ہونا۔ یا دستا ثابت
رائی ہونا۔ نیک رائی ہونا۔ یا اصل
ہونا مثل اصیل کے اچھی رائی والا
اَصْبَاءٌ (کسفسم) لڑکین کی طرف
مشتاق کر دینا۔ لڑکین کیطرف مائل
باد صبا میں داخل ہونا کسی کا دل بچہ کا
عورت کا بچہ ناک ہونا۔ ذی کا باد صبا آنا
اَصْبَابٌ (کسفس) نشیب میں داخل ہونا
اَصْبَاحٌ (کسفس) صبح صبح کو آنا
صبح کو کہیں جانا۔ صبح کرنی۔ صبح ہو جانا
خبردار ہونا۔ کام کا انجام دیکھنا۔
اَصْبَارٌ (کسفس) صبر کرانا۔ شکیبائی
کو حکم دینا۔ روک دینا۔ صبیر ملانا۔
بلا میں جا پڑنا۔ صبر پر بیٹھنا سننے کے

منہ کو بند کرنا۔ نہایت کھٹیا جانا دودھ کا۔
اَصْبَاغٌ (کسفس) نعمت کو تمام
اور کامل کرنا۔ کھجور کا غورہ پکنے لگنا
اونٹنی کا بال نکلے بچہ کو ڈال دینا۔
اَصْبَحُ (فسف) بھورے بالوں والا
مرد۔ شیر اس لیے کہ بھورے بال
والا ہوتا ہی سپید بال سرخی لیے ہوئے
اِصْطِبَارٌ (کسکفس) صبر کرنا۔
اَصْبِرَۃٌ (فسکف) بکریاں اور اونٹ
جو صبح کو چرنے جاویں اور رات کو بھی
آویں اور سفر کو نجاویں واحد ندارد۔
اَصْبَعٌ (فسف وکسف وضسف وفسض و
ضسض وکسض وفسک وکسک وضسک)
اونگلی۔ اصابع (ففسک) اصابیع (ففسفسک)
اَصْبَغُ (فسف) بڑی سیل سرہ تحفہ
کہ جب اوسے ماریں تو کپڑوں میں لگ کے
کالی تیلی کبھی سپید دم کا پرند جانور
سپید پیشانی کا گھوڑا یا گھوڑا جسکے
کان کے کنارے سپید ہوں۔
یا ایال یا دم سپید ہو۔
اِصْبُوحَۃٌ (فسضسف) صبح
اِصْبَہْبُذِیَّۃٌ (فسفسکسف) ایک
قسم کے عراق کے درہم۔

ص ی ر
ص ی ص
ص ع د
ص ی ف
ص ی ل
ص ب ی
ص ب ب
ص ب ح
ص ب ر
ص ب غ
ص ب ح
ص ب ر
ص ب ر
ص ب ع

239

اا صبع
اا صبغ
اا صبح
اا صبہبذ
12

کبھی اس مین ہمزہ کو مکسور بھی کہتے ہین اور کبھی بائے فارسی سے بدل کرتے ہین اصل مین سپاہان تھا بصیغہ جمع اسپاہ کردے لوگ اسمین رہتے تھے اس لیئے کہ جب نمرود نے اوس شہر کے باشندون کو کہ اسپاہ تھے اوس شخص کی جنگ کے لیئے کہ آسمان مین ہے بلایا تو اوسکے جواب مین اون لوگون نے لکھہ بھیجا کہ اسپاہ آن نہ کہ باخدا جنگ کنند یعنی ہم سپاہ وہ نہین جو خدا سے لڑے تو اسپاہ آن کو اسپاہان کیا اور پھر اصفہان کر کر اصبہان کر لیا۔

اَصَاءَ (کسمس) کسی سے آواز کرنی

اَصَائِب (کسمس) سر کا لیکھون بھرا ہونا

اَصَابَہ (کفسف) قصد کرنا۔ چڑھنا۔ خلاف الصواب۔ ایک امر کو راستا درست لانا۔ قصد کو درست کرنا۔ پانا۔ ایک چیز پر پہنچ جانا۔ حاجتمند ہونا۔ دردمند اور مصیبت زدہ کرنا۔ تیر کا نشانے پہ پہنچنا۔

اَصَابِعُ الْفَتَیَات فرنگ مشک

اَصَابِعُ ہرمس گل سورنجان

اَصَابِعُ العذارا سی ایک قسم کا

لنبا انگور بلوط کی مانند۔

اَصَابِعُ صُفْر ایک گھاس ہے ہتھیلی کی شکل کی۔

اَصَابِعُ فرعون مرد کے مثانہ ایک چیز ہی اونگلی کے برابر یعنی۔

اَصَابِعُ زینب ایک قسم کا حلوا۔

اَصَاتَہ (کفسف) آواز کرنی۔ آواز نکالنی۔ پکارنا۔

اَصَاخَہ (کفسف) کان اوسکے طرف رکھنے سے ایک چیز کا انتظار کرنا۔ ڈرنا۔

اَصَاخَہ (کفسف) کان لگا کر سننا

اَصَاد (کفس) پہاڑون مین گڑھا کہ جسمین پانی جمع ہو جاوے۔ ایک چیز طباق کی مانند۔

اَصَادَہ (کفسف) لونڈھ کو رنجہ دینا۔ اونٹ کو علت صاد کی وا اوس کی لغات اضداد سے ہی۔

اَصَار واَصَارَہ (کفس کسف) چھوٹی سی ہی کہ جس سے خیمہ کو میخ سے باندھین میخ طناب خیمہ۔ سنبل گھاس کی کہ جسمین گھاس بھر کر لادین۔ امر منقطع۔ اصار (کفس) ہم

اَصَارَہ (کفسف) ٹیڑھا کرنا۔ موڑنا

ذوفواس (ضسقعفس) اور بعض کے
نزدیک تکسیلینا (ضسقفکسف)
آکلینحا (کسکسف) مرطوس (ضسفنصفر)
بوالس (فضسفض) تا یعوس (فضکفس)
تطلیبوس (فسفض) اشقوقطار (فسقسف)
اور بعض کے نزدیک تکسیلینا (فسقسف)
تملینحا (فسکسف) مرطلس (فسقسف)
بنوتس (فسضیعف) سنار یتو پنیں
(فسکسفس) ذوالفواس (ضسقفسر)
کشفیطار (فسکسف) بونس (فسقعف)

اَصحاح (کسفس) تندرست کنیہ
اور تندرست مواشی والا ہونا تندرستی
عطا کرنی اور مرض کو خدا تعالےٰ کا دور کرنا
اَصحار (کسفس) جنگل میں باہر
نکل جانا۔ جگہہ کا فراخ ہو جانا۔
کا زرد ہو جانا۔
اَصحاف (کسفس) جمع ہونا کتابو نکا
کتابون کا جمع کرنا۔
اَصحب (فسنف) گدہا جسکا رنگ
سرخی مائل ہو۔
اَصحر (فسنف) سرخ سپیدی ملا ہوا شیر
اَصحل (فسنف) بیمعنی صحل زنگ
اَصحم (فسنف) سیاہ زردی مائل

صحم (کسس) جمع۔
اَصحیرار (کسسفس) گھاس کا
خشک ہونے لگنا۔
اَصحیمام (کسکسفس) گھاس کا زیادہ
ہونا۔ گھاس کا خوب سبز ہونا۔
لغات اضداد سے ہے۔ گھاس کی
سبزی زردی مائل ہوتی یا اوسکی
سبزی کے ساتھ سیاہی کا ملا ہونا
زمین کی گھاس کا متغیر ہونا اور جاتا رہنا
اور مینھہ کا اوسپر سے لوٹ جانا۔
کھیتی کا سردی زدہ ہونا اور خشک
ہونے لگنا۔ زرد ہونا۔
اَصحاد (کسفس) گرمی میں آنا
گرگٹ کا اپنے تئین آفتاب مین گرم کرنا
اَصحار (کسفس) سنگ ناک
جگہہ میں داخل ہونا۔
اَصحیتات (کسکسفس) زخم کی
سوجن کا بیٹھ جانا۔ بیمار کا اچھا ہونا
اَصدا (فسقف) خوب سرخ
کمیت گھوڑا مائل بسیاہی سرخ
بکری کا بچہ سیاہی مائل۔
اَصداء (کسفسم) مرنا۔ پہاڑ کا آواز دینا۔
اَصداد (کسفس) کسی چیز کو

مادہ
صحح
صحر
صحف
صحب
صحر
صحل
صحم
صحم
صحر
صحم
صحو
صحت
۲۴۱
صخد
صخر
صخت
صدا
صدی

[illegible]
یا لون والا ہونا۔
أَصْفَتُہ (کفع) زمین پر دے مارنا۔
أَصْفَت (فتن) ارض (زمین) کا
نے روئیدگی ہونا یہ اوس وقت کہتے
ہیں کہ جب اوسمین گھاس وغیرہ نہو۔
أَصْفَقَار (کسکعفن) آگ کا بجھ جانا۔
أَصْفِمَہ (فسفعفن) ایک چیز یا
وہ گھر جہان وہ پڑی اوٹ ہو۔
اصْحَاء (کسفعم) مستی سے ہوشیار
ہونا۔ کشادہ ہونے ابر ہونا آسمان کا
صاف اور کھلے دنمین ہین جانا۔
اصْحَاب (کسعفن) بالغ بیٹے والا ہونا
مرد کا۔ یار اور صاحب والا ہوجانا۔
کسی کو ایک چیز کا مصاحب کر دینا۔ کسی
لگا ہیا تی کرنی۔ کسی کو روکنا۔ اونٹ
کا بعد سختی اور وحشت کے تابعدار ہو جانا
مشک کے بال اور پشم کو اوسپر چھوڑنا
یا نی کا کائی سے آنا۔ پوست پر
بال چھوڑ دینے۔
أَصْحَابُ الْكَهْف غار والے چار
یا پانچ یا سات شخص اور ایک کتا کہ غار
مین ایک بادشاہ ظالم کے خوف سے
جا چھپے تھے اوس پر خدا تعالی نے
خواب کو ایسا غالب کیا کہ چند سال تک
اوسی مین سوتے رہے اور پھر بعد ایک
مدت کے جاگے اور اون کے ساتھ
ایک کتا بھی تھا یہ اہل روم سے تھے
حضرت مسیح علیہ السلام کے دین پر اور
ابن قتیبہ کی روایت مین یہہ ہے کہ وے
حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے تھے
اور بعض کہتے ہین کہ یہ عملہ بھی زمین
روم مین ہے اور اون کے اسامی مین
بہت اختلاف ہے بعض کے نزدیک
مکسلمینا (فسفسکسعف) املیخا (کسکسف)
مرطونس (فسفعف) نوانس (فسفعفن)
سانیوس (فسکعفس) بطنیوس (فسفعفن)
کشفوطط (فسفسف) اور بعض کہتے
ہین ملیخا (کسف) مکسلمینا (فسکسف)
مرطوس (فسفس) نوانس (فسفعفن)
اربطانس (فسفعفس) آدنوس
(فسعفس) کیدسلططیوس (فسفعفس)
اور بعض کے نزدیک مکسلمینا (فسفسکسف)
یملیخا (فسکسعف) مرطونس (فسفعفن)
بینونس (فسفسف) ساربونس
(فسفسعفن) کفشطططیونس (فسفعفن)

اَضْرام (کسکفس) خرماین کا پھل توڑنے کے وقت کو پہنچنا۔ محتاج اور بہت عیال والا ہو جانا۔ اونٹون کے گلہ والا ہونا۔

اَضِرّۃ (ملف) قرابت شکمی۔ قرابت احسان۔ اور اضر (فقسک) جمع ریشی کہ جس سے ضمیمہ منع سے پانو مین۔

اَضْرَع (فسفف) محتاج مرد بہت عیالدار۔ مال بچون والا۔

اَضْرَمان (فسففس) ایک پرندہ درندہ کو۔ رات اور دن۔ بھیڑیا اور کوا۔

اِضْرِئْباب (کسکفس) نرم اور چمکدار ہونا۔

اِضْطِباح (کسکفس) صبوحی کرنی۔ چراغ روشن کرنا۔

اِضْطِبار (کسکفس) شکیبائی کرنی۔ پے جانا۔ قصاص کے درپے ہونا۔ اپنے تئین جبراً باز رکھنا۔

اِضْطِباع (کسکفس) سالن بنانا

اِضْطِبان (کسکفس) بھر جانا۔

اَضْطَبَّۃ (فسفف) جو چیز کہ کتان مین سے گر پڑے۔

اِضْطَبْل (فسففس) چوپایہ کے رہنے کی جگہہ شامی لغت ہے۔

اِضْطِحاب (کسکفس) کسی کی ہمراہی اور حفاظت کرنی۔ آپس مین یار و مصاحب ہونا

اِضْطِحام (کسکفس) سیدھا کھڑا ہونا۔

اِضْطِخاب (کسکفس) آواز و فریاد کرنی۔ پرند جانورون کی آواز اور فریاد اور ان کی آوازون کا اختلاط۔

اِضْطِحاد (کسکفس) آفتاب مین سیدھا کھڑا ہونا۔

اِضْطِحام (کسکفس) پانو پر سیدھا کھڑا ہونا

اِضْطِدام (کسکفس) آپس مین کچھ لڑنا۔ آپس مین مارنا۔ آپس مین ڈٹا ہوا ہونا۔

اِضْطِراب (کسکفس) مشکیزے مین تھوڑا تھوڑا دودھ جمع کرنا اور چھوڑنا تاکہ جم جاوے اور ترش ہو جاوے۔

اِضْطِراخ (کسکفس) آپس مین شور اور فریاد کرنی۔ چلانا

اِضْطِراف (کسکفس) درخت اور کھیتی کا کاٹنا۔

اِضْطِعاد (کسکفس) چڑھنا۔

اِضْطِعاط (کسکفس) اپنے آپ ناک مین دارو ڈالنی۔

اِضْطِفاء (کسکفسم) کسی کو

مادہ: ضرم، ضرر، ضرع، ضرم، ضرب، ضبح، ضبر، ضبع، ضبن، ضبط، ضبل



صحب، صحم، صخب، صحد، صحم، صدم، صرب، صرخ، صرف، صعد، صعط، صفو

مادہ | علامات اعراب ضمہ کسرہ فتحہ صحیح حرف حرف کی کسرہ س سکون ت تشدید م

روک دینا۔ پھیر دینا۔ زخم کا ریشناک ہونا

اَصْدَار (کسفس) پھیر دینا۔

اَصْدَاف (کسفس) پھیر دینا اور میلان دینا۔

اَصْدَاق (کسفس) مہر معین کرنا۔

اُصْمدہ (صنسف) دختر خورد سال کا چھوٹا سا کپڑا یا کرتی چھوٹا سا کپڑا کہ جسکو کپڑوں کے نیچے پہنتی ہیں۔

اَصْدَة (کسف) قوم کے جمع ہونے کی جگہ۔ اصد (کف) جمع۔

اُصْدَة (مکف) ایک چیز طباق کی مانند

اُصْدَح (فسف) شیر۔

اَصْدَر (فسف) بڑے سینہ والا۔

اَصْدَران (فسفس) دونوں کنپٹیوں کے نیچے دو رگیں ہیں اور عرب بولتے ہیں جاء یضرب اصدریہ یعنے آیا درحالیکہ فارغ تھا اور تہیدست۔

اَصْدَغَان (فسفس) دونوں میں سے کنپٹیوں کے نیچے دو رگیں ہیں۔

صَدَق (کسف) زیادہ دکھایا ہوا۔

اَصِر (کسفس) پیمان۔ بار گناہ۔ اوسا بالکسرہ وہ جگہ کسی چیز کی طرف مائل کردے اور قسم جو طلاق کے لیے یا غلام کی آزادی کے لیے یا خدا کی نذر کے لیے کھائی جاوے۔ کان کا سوراخ گوکرد۔ آصار (فنس) اصران (کسفس) جمع۔

اَصر (فس) توڑنا۔ مائل کرنا۔ روکنا۔ گھر کے لیے ایصار بنانا۔ آصار (فس) اصران (کسفس) جمع۔

اصر (کس) بمعنی اَصْر مذکور (کف)

اَصْرَاء (کسفسم) مفتراۃ کو پہنچایا خریدنا۔ نبات اندر سے جس سے

اَصْرَاب (کسفس) بنایا کسیکو کھانا کھلانا نوعم

اَصْرَاح (کسفس) ظاہر و آشکارا کرنا

اَصْرَاخ (کسفس) فریاد کو پہنچنا۔ مددگاری کرنی۔

اَصْرَاد (کسفس) تیر کو نشانہ سے گذار دینا

اَصْرَار (کسفس) خوشہ کا نکلنے کو آمادہ ہونا۔ معمولا جانا۔ سرعت کرنا کام پر مقصد کرنا اور برائی پر دوام اور ثبات قبول کرنا گھوڑے گدھے کا آواز سننے کے لیے کان کھڑے کرنا

اَصْرَاف (کسفس) روی کی حرکت کو مختلف لانا۔

اِصْعاط (کسفس) ہلنا کہ ہیں ڈالنی

اِصْعاق (کسفس) آسمان سے آگ ڈالنی بیہوش کرنا۔

اِصْعان (کسفس) سر کا چھوٹا ہونا عقل کا کوتاہ ہونا۔

اِصْعد (کتقفس) اوپر چڑھنا۔

اِصْعر (سفت) گردن پھیرنے والا اونٹ۔ ہلاک و تباہ ہونے والا

اِصْعرار (کسفس) درد کے سبب گول ہونا اکٹھا جیسا کہتے ہیں

فاصعر یعنی مکان ضرب زدہ سے گول ہو شدید ہو جھک گیا۔

اِصْعل (صفت) مرد جسکا سر گول اور باریک ہو تیلا ہو۔

اِصْعنان (کسفس) باریک و لطیف ہو جانا

اِصْعنرار (کسفس) جمع اصعرار۔

اِصْعنفار (کسفس) دہشت اور خوف سے بھاگنا اور پراگندہ ہونا

گردن کا ٹیڑھا ہونا اصعرت العنق

اِصْغیلال (کسفس) سر اور گردن کا باریک ہونا۔

اِصْغا (کسفس) کسی کی بات پر کان لگانے کسی کی طرف کان کو

خوب مائل کرنا جیسے اصغی الیہ

اصغت الیہ وقت دے تن کو کچھ کرنا چیز کو ناقص اور ناتمام کرنا۔ اور مٹی کا اپنے سر کو بالائی کی طرف مائل کرنا کہ وہ کچھ اوس سے سنتی ہو کسیکا حصہ کم کرنا

اِصْغار (کسفس) چھوٹا کرنا چھوٹا گھاس نکال لانا زمین کا خوار کر دینا مشک کو چھوٹا سینا چھوٹے بچے جنوانے

اَصْغر (صفت) بہت ہی چھوٹا

اصاغر (فصل م) اصاغرہ (فعالف) جمع

اِصْغران (سفس) دل و زبان

اَصْغف (صفت) ایک رو سید گی ہو جسکو کبر بھی سے کہتے ہیں

اِصْفاء (کسفس) مال سے خالی ہو جانا جیسے اصفی من المال عورت کا نطفہ مرد کو تمام کر دینا جیسے احمد نعت الانسا حرمان صابہ کسی کو دوست سے چیز اختیار دینا کسی کے لئے دوستی خالص کرنی شاعر کا شعر کہنا یا اوس کا شعر منقطع ہونا۔ مرغی کے انڈے منقطع ہونے

اِصْفاح (کسفس) سائل کو پھیر دینا چیز کو عریض کرنا پلٹ دینا

اِصْفاد (کسفس) مضبوط کرنا اور قید کرنا

ماده

[illegible]

صہر
صیح
صیح
صیر
صیف
صیم
صون
صعب
صعد
صعر

دوسرے پر اختیار کرنا۔ پسند کرنا۔
اصطفاف (کسفس) صف باندھ کر کھڑا ہونا
اصطفاق (کسکفس) درخت کا
ہوا سے ہلنا۔ عود کے تار کا مضراب سے ہلنا
اصطفلین (کسفسکس) گاجر۔ اصطفلینہ
(کسفسکسف) ایک۔
اصطکاک (کسکفس) سستی سے زانو
پر زانو چلنے میں لگتا جانا۔ آپس میں مقابلہ کرنا
اصطکمۃ (کسفسف) روئی جو
گرم بھوبل میں پکاویں۔
اصطکمہ (فسفسف) روٹی جسے
گرم راکھ میں پکاویں یعنی باٹی۔
اصطلاء (کسکفسم) آگ میں تپنا اور گرم ہونا
جیسے اصطلی بالنار۔
اصطلاب (کسفس) ہڈی سے روغن نکال لینا
اصطلاح (کسکفس) باہم صلح کرنی
اصطلاق (کسکفس) آواز کرنی۔
اصطلام (کسکفس) جڑ سے اوکھاڑنا
اصطلمۃ (فسفستف) کہ جنس میں وہ جگہ
جہاں وہ بڑی ہے۔ یا میانہ جنس کا۔
اصطناع (کسکفس) دعوت
مصنعہ کرنی۔ بھلائی کرنی۔ اپنی طرف
سے ایک کام نکالنا۔ کسی کو ایک

کام کا حکم دینا۔ کسی کو خاص اپنی
ذات کے لیے چھانٹنا اور اختیار
کرنا۔ طعام صنیع بنانا۔
اصطہار (کسکفس) ایک چیز کو گلانا
چربی اور بڑی کا گودا کھانا۔
اصطیاد (کسکفس) شکار کرنا۔
اصطیاف (کسکفس) تابستان
میں کہیں اقامت کرنی
اصطیام (کسکفس) کھانے پینے
بات چیت کرنے جماع کرنے سے
اپنے تئیں روکنا۔
اصطیان (کسکفس) نگاہ رکھنا۔
اصعاب (کسفس) کام کا دشوار ہونا
دشوار پانا۔ اونٹ کو چھوڑ دینا اور
اوس پر سوار ہونا یہاں تک کہ وہ سرکش ہو
سرکش اونٹ والا ہونا۔
اصعاد (کسفس) مکہ میں آنا۔ زمین پر
سیر و سفر کرنا۔ وادی میں اوترنا۔ بچہ
سال گذشتہ پر اونٹنی کا مہربان ہونا۔
بچہ سال اول پر اونٹنی کا مہربان کرنا
اور پچھلے سال کا دودھ پینا۔
اصعار (کسفس) رخسار کو کج کرنا
کبر اور نخوت سے منہ پھرانا۔

اصل (بتعضم) اصل (ص) کی جمع۔
اصلّ (فتس) اللّٰہ اچانک قتل کرنا بولتے ہیں اصلہ عاجلا کسی پر اصلہ کا کودنا
اصلّ (فف) (س) کالی مٹی سے پانی کا رنگ متغیر ہوجانا ۔ گوشت کا متغیر ہوجانا ۔ بدبو ہوجانی ۔
اَصلاء (کسفسم) گھوڑی کا بیا بنکلے قریب فرو بستہ ملا ہونا ۔
اَصلاء (کسفسم) آگ میں جھلسنا ۔ کسی کو آگ میں ملازم مقیم کرنا ۔
اصلات (کسفس) اونٹنی کا سیدھا کھڑا ہونا اور گردن کو آسمان کیطرف لمبا کرنا تاکہ اپنے بچے کو کوشش سے دودھ پلادے ۔
اصلات (کسفس) تلوار سونتنی ۔
اصلاح (کسفس) ضد افساد ۔ نیکی کرنی بھلائی کرنی ۔
اصلاح (کتکفس) آسمین نیکی یا بعد صلح کرنی ۔ قوم کا ایک کام پر جمع ہوجانا اور اکٹھا ہونا ۔
اصلاد (کسفس) زمین کا سخت ہونا ۔
اصلاف (کسفس) دشمن پر کھنا گران جان بعد کم خیر ہونا ۔

اصلاق (کسفس) سخت آواز کرنی ۔
اصلال (کسفس) گوشت کا گندہ اور بدبودار ہونا ۔ رنگ کنوئیں کا پانی کے رنگ اور مزہ کو بدلا ہوا کردینا ۔
اصلّہ (فقفت) چھوٹا سانپ یا بڑا سانپ جو اپنی سانس سے ہلاک کردے اصل (فق) کی جمع ۔
اصلتی (فسفکت) مرد جو امور میں رسیا اور چالاک ہو ۔
اصلّح (فسفت) نہایت چمکدار سیر اہور
اصلّب (فسفت) نہایت ہرا کہ کچھ نشنے خارشی اونٹ ۔
اصلخاخ (کسکفس) پہلو پر سونا ۔
اصلخداد (کسکسفس) پانونیر کھڑا ہونا
اصلخمام (کسکسفس) پانون پر کھڑا ہونا غصہ کرنا ۔
اصلّید (فسفت) مرد بخیل ۔
اصلع (فسفت) مرد جسکے سر کے آگے کے بال نہوں ۔ صلع (فنس) اصلعان (فسفس) کی جمع ۔ سنان زنگ چڑھی ہوئی ۔
اصلم (فسفت) مرد جسکے کان کا کٹا ہوا گویا کہ خلقی مقطوع الاذن ہے ۔ سپو ۔

مادہ
صحب
صلع
صلی
صلب
صلت
صلح
صلخ
صلف
صلق
صلل
۲۱۳
اصل
صلت
صلح
صلخ
صلد
صلخم
صلغ
صلع
صلم
۱۲

[illegible]

اصغاء بکسرتین [illegible] کا مصغر بنانا

اصفاق بکسرتین [illegible] ہونا [illegible]

پھیر لانا کسی کو [illegible] کرنا ایک چیز کو

اتفاق کرنا [illegible] صحیح ہو آنا ایک کا

[illegible] کا رضا اور موافقت کرنا

اور گردن کے پاس اتنا آنا کہ ان کو

[illegible] میں پھر میں ایکبار

[illegible] ہونا [illegible] ایک

[illegible] سے [illegible] تن میں [illegible]

صاف ہو جاوے

اصفال بکسرتین [illegible]

[illegible] گھاس چرائی

اصقع بفتحتین [illegible] پیشانی والا

اصفر بفتحتین زرد و سیاہ [illegible]

[illegible] ہے زرد گھوڑا [illegible]

[illegible] خالی پرندہ جانور بہت آواز

کرنے والے [illegible]

اصفرار بکسرتین زرد ہونا

اصفرات بفتحتین [illegible] زعفران اور

سونا یا زعفران اور ورس [illegible]

اور [illegible] میں ایک گھاس ہے

زرد یا سرخ یمن میں پیدا ہوتی ہے

اصغیر بکسرتین [illegible]

اصفطار بکسرتین [illegible]

اصفرار بکسرتین زرد ہونا

اصقاب بکسرتین نزدیک کرنا

گھروں کا نزدیک ہونا [illegible]

تمہارے پاس اس قدر نزدیک ہوا

کہ [illegible]

اصقار بکسرتین آفتاب کا تپا ہوا ہونا

اصقاع بکسرتین [illegible]

کسی شخص کا [illegible]

[illegible] سے [illegible] ہونا

اصقح بفتحتین جسکے سر کے آگے کے

بال جاتے رہے ہوں

اصقر بفتحتین خرما بہت شیرہ والا

مانند [illegible] بولتے ہیں

اصقرار بکسرتین [illegible]

اصقرار بکسرتین [illegible]

لگنا اندھیرا [illegible] چلا جانا

اصک بفتحتین [illegible]

کے [illegible] والا کہ چلنے میں ان کا

زانو آپس میں لگتا جاوے۔ آدمی [illegible]

قوی [illegible] جسیم سخت [illegible]

اصل بالفتح [illegible] بنیاد جڑ

[illegible]

اصطفاق (ص) دل کی بیقراری اور بیتابی
اضطراب (ص) دل کا دھڑکنا
اصطحاب (ص) ہم صحبت ہونا۔ ساتھ رہنا
اصطکاک (ص) باہم ٹکرانا اور رگڑ کھانا
اصطلاح (ص) لغت کے علاوہ کسی لفظ کے خاص معنی
اصطیاد (ص) شکار کرنا
اصفرار (ص) زرد ہونا
اصطفا (ص) برگزیدہ کرنا

اصعاد (ص) اوپر چڑھنا
اصعاب (ص) دشوار ہونا
اصعر (ص) بہت چھوٹا
اصغا (ص) کان لگا کر سننا
اصطبل گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ
اصفیا (ص) برگزیدہ لوگ جمع صفی
اصرار (ص) کسی بات پر اڑے رہنا
اصرم (ص) بہت کاٹنے والا
اصفار (ص) خالی کرنا
اصفاع (ص) کسی کو تھپڑ مارنا
اصلاح (ص) درست کرنا
اصیل (ص) شام کا وقت
اصم (ص) بہرا

اصیلی عمدہ اور خالص نسل کا
اصول اصل کی جمع
اصفہان ایک شہر کا نام
اصقاع (ص) ملکوں کے کنارے
اصناف (ص) صنف کی جمع
اصناف قسمیں اور طرح طرح کی چیزیں
اصنام (ص) صنم کی جمع بت

اصطلاح اہل فن کی ایک بات پر اتفاق کرنا
اصلاح بگڑی ہوئی چیز کو درست کرنا

اصرار (ص) کسی بات پر بہت تاکید کرنا

اصطلاح (بکسر فتح) ہتھیلی کا فراخ ہونا

اصطلمہ جلنا یا تمام قتل کیا ہوا۔

اصطہاب (بکسر فتح) لمبا اور ممتد ہونا اشیاء کا اپنی جہت پر جانا

اصطہام (بکسر فتح) سخت اور مضبوط

اصلیت (بکسر) تلوار زنگ چھڑائی ہوئی کاٹ والی سونتی ہوئی

اصم (رفعت) ہر ایک بات نہ سننے والا۔ صم (بضم) صمان (بضمتین) جمع سفلہ کمینہ بے عقل سخت پتھر چکنا ماہ رجب اس لیئے کہ ماہہائے حرام میں سے ہے۔

اصماء (بکسر) شکار کو تیر مارنا اور اوسکے لگنا یا گھوڑے کی لگام کو منہ سے مضبوط پکڑنا اور اوسکو کاٹنا جانا۔ پھرنا۔ کودنا۔ سرعت کرنی۔

اصمات (بکسر) زمین پر دو میر گذرنے کو قریب ہونا اور اوسکا بیان نجانا۔ مریض کی زبان بند ہو جاتی۔ خاموش ہونا۔ خاموش کرنا۔ ایک چیز کو خوب چکنا کرنا۔

اصمار (بکسر) تحمل کرنا منع کرنا۔

... دودھ کا خوش ترش ہو جانا آفتاب کے وقت غروب میں آنا

اصماخ (بکسر) گوند درخت میں بہت آب اور ہونا درخت میں سے گوند نکلنا۔ تازہ اور خوب ہونا دنیا کی کا

اصماق (بکسر) دعا نہ پھیرنا کھولنا مضبوط کرنا۔ دودھ کا بگڑ جانا ہوا ہونا اور خراب جانا۔

اصمام (بکسر) بہرا ہونا بہرا کرنا شیشے کے لیئے سر بند بنانا۔ کسی کو بہرا پانا

اصمت (بکسر) بیابان کہ سبزہ و پانی سے خالی ہو۔

اصمح (رفعت) مرد بہادر کہ لطافت اور لڑائی کے سروں کو خوب شمشیر اور نیزہ سے توڑے

اصمحاد (بکسر) بہت غصے کے مارے پھول جانا۔ آگ ہو جانا۔

اصمع (رفعت) چھوٹے کان والا۔ شمشیر بران دیر تک ہر موضع میں آنے والا۔ سبزہ کہ شروع ہوا کی سے چھٹا لطیف خوشہ گھاس کہ اوسکا پھول ابھی غلاف سے نہ نکلا ہو۔ بلند لطیف یا سب سے اچھا۔ صمعان (بضم)

صمع (رفعت) جمع۔ ہوشیار عقل تیز خاطر بیدار۔

[illegible]

مادہ

ص ی ص
ص ی ع
ص ی ف
ص ی ق
ض ی ر
ض ی ع
ض ی ف
ض ی ق
ض ی ل
ض ی م



لاہ میل

تا بیدار ہے جگہ نہ دھوپ ہو نہ روشنی

اصلان (بفتح فسکون) آصال (بمد) اصائل (بفتح) جمع۔ تصغیر اصیلان (بضم فسکون) اصلان (بضم) بھی۔

اَصِیلَۃ (بفتح فکسر) ہلاک و موت۔ اصل اور بولتے ہیں جاؤ ہم اصیلیہم یعنی سب کے سب آ گئے۔ اصیلہ التنبل سارا تحمل یا اسکی تحلستان

اُصَیلع (بضم فتحتین) ذکر۔ ایک سانپ باریک گردن کا سر کا گول۔

اَصِتّ (بکسر) اصل۔

اصن (بفتحتین) زن کسی کو ایک کام کی مشقت میں ڈالنا۔ کسی کو کسی طرف مضطر کر دینا۔ توڑنا شترمرغ مادہ کا اپنے انڈے دینے کی جگہ پیدا کرنا۔

اَضَاء (بکسر) پاللفتح بیدہ بند یکان

اَضَاءَۃ (بکسر) روشن ہونا۔ روشن کرنا۔ پیشاب کرنا۔

اَضَاۃ (بفتحتین) ندی وغیرہ کے پانی کے ٹھہرنے کی جگہ۔ اضوات (بفتحتین) اضاء (بکسر) اضاً (بفتحتین) اضاء (بکسر) آضون (بضم) جمع

اَضَاوَر (بکسر) کسی کو ناکام کا مبتلا کرنا۔

اَضَاحض (بفتح) جا سے ہٹنا۔

اصاصض (بفتح) رحم جننے کے وقت اونٹنی کا آواز کرنا۔

اَضَاعَۃ (بکسر) کا ہر واستقلال ہونا۔ کسی کے بہت زمین اور پانی اور ایسی زمین کہ جسکی پیداوار بہت ہو ہونی۔ مثل ہونا کا ذکر کرنا۔ ہلاک کرنا۔ نے تیار چھوڑ دینا۔

اَضَافَۃ (بکسر) ضم دینا اور ایک چیز کو جوڑنا۔ مہمان کہنا کسی کو کسی کی طرف مضطر کرنا جیسے اضطر الیہ بھاگ جانا۔ پرہیز کرنا۔ ڈرنا جیسے اضفت منہ کسی پر ظلم کرنا آگاہ ہونا جیسے اضفت علیہ کسی امر میں شتابی کرنی جیسے اضفت فیہ جھکنا۔ ایک چیز کی طرف نزدیک ہونا ایک اسم کو ایک اسم کی طرف نسبت کرنی جیسا غلام زید۔

اَضَاقَۃ (بکسر) تنگ کرنا ذلیل ہو جاتا رہنا۔ درویش ہو جانا نیاز مند ہونا

اَضَاک (بکسر) اسکو کام کا مبتلا کرنا

اَضَالَۃ (بکسر) خود سعیر کو گمانا

کسی مشغلی تو تسی چھوڑنا اصمعن صفت جمع
اصطوف رسنف بہت سا ملنا
اصطحل صفت جمع اصل رنس
کسی شئے کی جڑ بنیاد۔
آصطہار (سمعم) ہنسنے کے قبیل لگ
آفتاب میں چھوڑ دینا۔ تمکیب بیماری
کے سبب چہرہ کا سیاہ ہو کر گنے لگنا
اصطہاب (صفت) بہا تا اور سبز کا
سرخ سفیدی ملا بچہ چھونا۔
اصطہار (سمعفل) کسی کا داماد
ہونا کسی کے ساتھ محرمیت یا نسب
سے پیوند ہونا۔
اصہب (صفت) سرخ اونٹ سپیدی
مائل ضہب (صفت) جمع شیر
شیر وہ بال جسکے سپیدی سرخی مائل ہو
اصہب صاحب ایک گھر
جس سے بکری کو ذبح کرنے کے لئے ...
اصہرار (سماعی) دولت کا
آپس میں نزدیک ہونا۔
اصہیاب (سمعفل) سرخ سفید ہونا
اصہیرار (سمعفل) پگھلا ہوا
ہونا۔ گرمی آفتاب سے گر کے
کسی چیز کا پگھلنا

اصمی (صفت) اور اس گنوار کا ... 
اصیان (نقشعن) اصیحان کر
اصیان بھی کہتے ہیں ...
اصلیہ (صفت) ایک طرح کا شربت جو
چاول کا ... میں ...
قراب بھی ... احسان۔
اصید (صفت) گھوڑا کا عرق
اصید (صفت) ... گردن ...
غرور سے گردن ...
اصید اور (سمعفل) کج گردن ہونا
اصیدہ (صفت) ...
اصیر (صفت) بال پاس پاس ...
لپٹے ہوئے ... کہ جس ...
سے اور لمبے بال ہوں۔
اصیص (صفت) ...
برتن ...
بجھتے ہیں ...
کر جس میں پیشاب کرتے ہیں ...
ایک طرح کا برتن کہ جس میں ...
...
اصیصہ ...
اصیل (صفت) ...
یا اصل چیز محکم و استوار - پادشاہ

[redacted] ہی ہیں مثل زہ ضبطہ یہ جملہ تشہیر ہیں
تشبیہ اس لیے کہ وہ اونٹوں کو
پانی پلاتی تھی اور اپنے بھائی کو
ڈول بھرنے کے لیے کوئیں میں
اوتارا تھا اس اثنا میں اونٹوں
کے ازدحام سے ایک جوان اونٹ
کوئیں میں گرا تھا کہ اوس نے اوسکی
دُم پکڑ لی اور اپنے بھائی کو پکاری

الموت تحت ذنب البکرۃ یعنی اے بھائی
موت وُم شتر سے متعلق ہے یعنے اگر
دُم اکھڑ جاوے گی تو تجھ پر گریگا اور
تیری موت آجاویگی لیکن اوس نے
دُم کو اتنا کھینچا کہ اوسے کوئیں سے
نکال لائی - شیر -
اَضبیکاک رکسفتس گھاس کا نکلنا
اَضجاج رکسفس، بانگ و فریاد کرنی
اَضجار رکسفس، غمگین کرنا ملول کرنا
اَضجاع رکسفس، زمین پر کسیکو
پہلو پر لٹانا - گون خالی کرنا - قوافی
شعر میں اکفا کی یا اقوی کی مانند اور
حرکات میں امالہ اور جر - ایک چیز
نیچے اوتار لانا -
اَضجار رکسفس، شتک کا پر ہونا -

ہا شتک کا خوب پر ہونا -
اَضجع رفسفا، مرد جو اپنی عورت
کے مخالف ہو -
اَضجع الثنایا مرد جسکے آگے
کے دانت کج ہوں -
اَضجم رفسقا، ٹیڑھا منہا جسکی
ٹھوڑی بھی ٹیڑھی ہو -
اَضحاء رکسفس، چاشت میں آنا
چیز کا ظاہر کرنا - کام کو چاشت کو تمام کرنا
اَضحاۃ رکسفس، بمعنی اضحیہ رکسفقا
اوسکی جمع اضحی -
اَضحاک رکسفت، ہنسوانا کسی کو
تعجب میں لانا - حوض کو پر کرنا اتنا کہ
بہ نکلے - زمین کا گھاس کو نکال لانا -
اَضحال رفسفس، جمع ضحل رفس،
اُضحوکۃ رضقسق، جس سے
ہنسی آوے - ہنسی کی بات ہے
اَضحیٰ رفسفا، اشہب سپید گھوڑا
قربانی کا دن -
اِضحیان رکسکعت، ایک گھاس ہے
قمر اُضحیان روشن چاند -
یوم اُضحیان ابر سے ابر دن -
لیلۃ اُضحیانۃ روشن رات

مادہ
ضحی
ضجج
ضجر
ضجع
ضجم
ضحی
ضحک
ضحل
ضحک
۲۵۳

اضغان (ن) کسی سے دل کا بہت کینہ رکھنا
اضمار (ر) کسی چیز کو پوشیدہ رکھنا
پوشیدہ کرنا۔ ایک چیز کا پوشیدہ ہونا
یا پیدا ہونا [illegible] آدمی [illegible]
کرنا [illegible] پوشیدہ رکھنا اور [illegible] ظاہر ہونا
اضمار (ر) [illegible] رکھنا۔ [illegible]
[illegible] سے [illegible] ریزہ کرنا۔ ایک
چیز [illegible] دیکھنے
فتحمند ہونا جیسے اضنی [illegible]
کسی کو [illegible] مخالف آنا ہونا چیز
میں [illegible] نفع کی توقع رکھنا
[illegible] جیسے اضنی [illegible] الاعز ہونا
اضناب (ب) [illegible] کا [illegible]
سے [illegible] ہونا۔ آہنگ [illegible]
[illegible] لیجانا۔ کینہ کو پوشیدہ کرنا۔
اونٹوں کا ہتھیار [illegible] پریشان [illegible]
آنا [illegible] کا [illegible] ہونا [illegible]
[illegible] بہت [illegible] کسی کا [illegible]
ہونا [illegible] سے جدا ہونا [illegible] کرنا
اور [illegible] کوشش کرنا جیسے [illegible]
مطلوب [illegible] کے قریب ہونا
جیسے اضنت [illegible] المطلوب [illegible]
[illegible] پانی کا [illegible] ہونا [illegible]

[illegible] ہونا [illegible]
[illegible] کی [illegible] رہنا [illegible]
ظاہر کرنا جیسے [illegible]
[illegible] کسی [illegible]
[illegible] کرنا جیسے [illegible]
[illegible] ہونا۔ ایک چیز کو گھیر لینا
[illegible]
اضعات [illegible]
اضعاف (ف) [illegible] کرنا [illegible]
وغیرہ [illegible]
اضباع (ع) [illegible]
[illegible]
اضبان (ن) [illegible]
[illegible] کے [illegible]
اضبان (ن) [illegible] کسی [illegible]
[illegible] کسی کو [illegible]
کسی کو [illegible] لینا۔
اضبط (ط) [illegible] دونوں ہاتھ
سے [illegible] کام کرنا اور [illegible]
[illegible] یعنی وہ [illegible]
سے [illegible] ہونا [illegible]
[illegible] سے [illegible]
[illegible] نہیں چھوڑتی اور [illegible]

اضطراط (سکنت) ہلکی گدا آہی جانا یا رنگ اُجڑ جانا۔

اضطعاط (سکنس) غصے کے مارے سرخ جانا یا پیٹ کا گوشت بہر زیادہ ہو جانا۔ یا بہت گوشت والا ہونا

اضطراز (سکنس) آہستہ سے پوشیدہ چلا جانا۔

اضطیح (سکنس) ایک قسم کی زرد رنگ کی چادر۔ یا ایک قسم کے زرد رنگ کے کپڑے سرخ گدا۔ اچھا چلنے والا تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ سرخ رنگ

اضطیراہ (سکنس) پیٹ کا طعام کے سبب نکل آنا اور اسکا ہونا۔

اضطرفت) مرد جو غصہ پر اسکے دہن میں گرجے اوپر اور نیچے کے دانت آپسمیں اسقدر نزدیک ہوں کہ کلام کو بیان نہ کرسکے یا وہ کہ جسکا تالو آپسمیں چپکا ہوا ہو اور بات کرنے کے وقت اوسکو کھولتا نسکے یا وہ شخص کہ جسپر مخرج کلام تنگ ہوا اور نا و بولنے میں عجز چاہے سے۔ فراز

(سکنس) جمع۔ موسے زہار کی جگہ پسیجتی اور تنگ ہے۔

اضطرار (سکنس) تنگدل ہونا۔ مصیبت کا الگام کر جانا

اضطباح (سکنس) پوشیدہ ہونا

اضطباغ (سکنس) کھجور سے پکڑنا

اضطباع (سکنس) چادر کو دایاں بغل کے نیچے سے نکالنا بائیں کندھے پر ڈالنا اسی صورت میں کہ دایاں کندھا برہنہ رہتا ہو اور بایاں کندھا پوشیدہ

اضطبان (سکنس) ایک چیز کو بغل کے نیچے لینا۔

اضطجاع (سکنس) پہلو پر سونا سجدہ میں نمازی کا سمٹنا سینے کو زمین سے چسپاں کرنا۔

اضطراب (سکنس) حرکت کرنی نرمی و فروتنگی کے ساتھ لنبا ہونا دو دل اور خراب ہوجانا کسب کرنا آپسمیں جنگ و خصومت کرنی۔

اضطرب حبلہم یعنی ان کی بات مختلف اور پراگندہ ہوئی۔ اضطرب خاتما من ذہب یعنی حکم کیا کہ اوسکے لئے ایک سونے کی انگوٹھی ڈھالی جاوے

اضطرار (سکنس) کسی کو بیچارہ اور حاجتمند کرنا ایک چیز کی طرف

ضمہ
فتحہ
کسرہ
سکون
تشدید


۱۷

أضحیہ (سکن) روشن ہونا [redacted]

أضحیۃ (ضسکت) بکری کی گوشت جو بقرعید اضحی میں ذبح کرتے ہیں

اضاحی ... جمع –

أضخم (سفم) قد آور ہونا ... مرد

أضخومۃ (سفتت) چھوٹا سا تکیہ جسے عورتیں سرین پر باندھتی ہیں تاکہ دیکھنے میں نظر آئیں –

أضداد (سفسم) برتن کو بھر کر پھر خالی کرنا – بھرنا –

أضداد (سفس) غضبناک ہونا –

أضرار (سفسم) حریص کرنا خوگر کرنا – برانگیختہ کرنا جیسے أضراہ وبہ أضراہا تبیند قری کو کھانا –

أضراب (سفس) اقامت کرنی جیسے أضرب نفسہ الارض أضرابا کسی پر مینگنی کا گرنا – گرم ہوا کا پانی کو زمین میں جذب کرنا – روٹی کا پختہ ہونا – ایک جگہ پر مقیم رہنا – سر جھکانا – خاموش رہنا – کسی سے پھر جانا – نر کو مادین پر چھوڑنا – کسی کا جاڑا لگنا – سردی ہونی –

أضراج (سفس) زرد کھو کر دینا

تباہ کرنا کھوٹا کرنا – دور کرنا –

أضرار (سفس) کسی کو نقصان پہنچانا سیل کا دیوار سے قریب ہونا جیسے أضر السیل من الحائط – ایک زمین سے قریب ہونا جیسے أضر السحاب الی الارض گھوڑے کا لگام کو کاٹنا – دوڑنا – ایک جورو پر دوسری جورو کرنی – بشتابی کسی چیز پر کسی کو ایک کام پر مقرر کرنا –

أضراس (سفس) کسی کو سخت آزمانا – بعد پشیمانی میں ڈالنا – کسی کو کلام کے وسیلے سے چپ کر دینا – ترشی کا دانت کو کند کر دینا –

أضراط (سفس) منہ سے گوز کی آواز کی نقل کرنی – امداد سے کسی پر استہزا کرنا – کسی کو گوز لگوانا – کسی کو ہلکا اور خوار گننا

أضراع (سفس) کسی کو ذلیل کرنا کسی کو خوار اور تابعدار کرنا – جننے سے پہلے بکری کا ... تھوڑا سا دودھ اوتار لانا –

أضرام (سفس) آگ کو بھڑکانا –

أضرس (سفت) بچے کا دانت نکالنا

| مادہ | | |
|---|---|---|
| ضحل<br>ضلل<br>ضلع<br>ضلل<br>ضلع<br>ضلل<br>ضمر<br>ضمم<br>ضمحل<br>ضمن<br>۲۵۷<br>فمم<br>ضمخل<br>ضمد<br>ضنا | زمین کا مردہ کو پوشیدہ کر لینا سفر سے یا موت سے جیسے اضمرت الارض الرجل گھوڑے کو تھوڑا سا چارہ دینا ۔ فربہی کے بعد لاغر کرنا ۔ نہایت کو پہنچ جانا ۔ حرف کا ملیں تاء متفاعلن کو ساکن کرنا ۔ دل میں کسی چیز کو پوشیدہ رکھنا<br>اِضمام (کسفس) اضمامۃ (کسفف) ہر جنس کے آدمیوں کا گروہ ۔ کتب وغیرہ کا پشتارہ ۔ اضامیم (فعلس) جمع پتھر کے ٹکڑے ۔ جماعت<br>اِضمحلال (کسکفس) نیست و نابود ہونا ۔ جانا ۔ ابر کا کشادہ اور پریشان ہونا وغیرہ بتقدیم میم و نیز بتقدیم میم و تبدیل اللام بالنون ۔<br>اِضمئکال (کسکسفس) ابر کا برسنے کے لئے آمادہ ہونا ۔ گھاس کا سیراب اور سبز ہونا ۔ زمین کا گھاس نکال لانا اور اوس سے سبز ہونا ۔ غصہ کے مارے سوج جانا ۔<br>اِضناء (کسفس) عورت کا بہت فرزند والا ہونا ۔ بہت مال والا ہونا ۔ قوم کا مواشی والا ہونا ۔ کسی کو بیماری کا بھاری کو درست کر دینا ۔ | اَضحَل (فسف) ننگا ۔<br>اَضَلّ (ففت) بہت گمراہ ۔<br>اِضلاع (کسقس) جھکا دینا ۔ بوجھل ہو جانا ۔ بوجھل کر دینا ۔<br>اِضلال (کسفس) راہ کو گم کرنا دفن کرنا ۔ غائب ضائع کر ہلاک کرنا<br>اَضلَع (فسف) مرد سخت قوی والا یا وہ جسکے دانت بڑے اور کجی میں پہلو کے استخوان کی مانند ہوں ۔<br>اَضلُع (فسض) جمع ۔<br>اُضلولۃ (ضسقف) گمراہی ۔<br>اِضم (کفت) کینہ ۔ حسد خشم غصہ<br>اِضمات (کفس) جمع ۔<br>اَضِمَ (ففف) (س) غصہ کرنا کینہ رکھنا جیسے اضم علیہ اضماً اور صلہ علی ہے بیچ اوٹھانا جیسے اضم بہ ۔ مائل ہونا اونٹ کا اونٹنی کی طرف اور اوسکو بیچنا اور کاٹنا جیسے اضم الفحل بالشول اور صلہ اسکا ب ہے ۔<br>اِضماج (کسفس) زمین سے چمٹنا ۔<br>اِضماد (کسفس) جمع کرنا ۔ شتر مرغ کا کلی نکالنا<br>اِضمار (کسفس) دل میں پوشیدہ رکھنا |

ماده | علامات اعراب ضمہ کی کسرہ ـِ فتحہ ـَ سکون ـْ تشدید ـّ | معنی

اضطباج امد بناو ـ
اضطرام (بسکون) آگ کا بھڑکنا ہوا ہونا ـ بڑھاپے کا آپہنچنا اور بال سپید ہو جانے ـ
اضطغاث (بسکون) ضغث کو جمع کرنا
اضطغاغ (بسکون) زمین کی گھاس کا سبز اور سیراب ہونا ـ
اضطغان (بسکون) دل میں کینہ رکھنا ـ کینہ کو پوشیدہ کرنا ـ اسمیں کینہ کرنا ـ کسی کو بغل کے نیچے پکڑنا ـ
اضطفار (بسکون) ناخوش ہونا کسی سے ـ
اضطفان (بسکون) اپنے پانوں سے اپنے پچھلے دھڑ کو مارنا ـ
اضطماخ (بسکون) لہو سے خوشبو میں آلودہ ہونا بسنا ـ
اضطمار (بسکون) دبلا اور سکیڑ گوشت کا ہونا ـ دبلا پتلا ہونا ـ
اضطمام (بسکون) ایک چیز کو اپنی طرف کھینچنا اور جمع کرنا ـ ایک چیز کو گھیر لینا اور اسپر مشتمل ہونا ـ
اضطناء (بسکون) شرم کرنی شرمندہ ہو جانا منقبض ہو جانا ـ
اضطنان (بسکون) بخیلی کرنی

اضطواک (بسکون) بسخت حضرت کرنی جیسے اضطوک کا عصیر
اضطہاد (بسکون) غلبہ کرنا ـ تمام ہونا کسی پر ظلم کرنا ـ
اضعاف الکتاب کتاب کا بین السطور اور اسکے حواشی ـ اضعاف الجسد بدن کے عضو یا ہڈیاں ـ ضعف (بکسر) واحد ـ
اضعاف (بسکون) ایسا کر دینا ـ سست اور ضعیف کر دینا ـ ایک چیز کو دوچند کر دینا ـ سست ناتوان جو یا بیماری والا ہونا ـ کسی کے لیئے دو چند کیا جانا اس معنی میں مجہولا مستعمل ہے ـ
اضغام (بسکون) ابلی وغیرہ کو آواز پر انگیختہ کرنا ـ
اضغاث (بسکون) جمع ضغث کی
اضغاث الاحلام پریشان خواب ہیں جنکی تعبیر بسبب انکے خلط ملط ہونے کے درست نہ آوے ـ
اضغاغ (بسکون) قوم کا زمانہ فراخی میں داخل ہونا ـ زمین کی گھاس کا سیراب اور سبز ہونا ـ
اضفیداد (بسکون) غصے کے مارے سوج جانا

ضعف

بنا تے ہین یعنی کنگنی –

اَطَارَۃ (بفتح) اور پڑانا سال کا حصہ حصہ کرنا – اور لغت مین چیرنا –

اَطَاشَتہ (بفتح) تیر کو نشانہ سے ایک طرف ڈالدینا اور نشانہ پر نا لگنا –

اَطَاط (بفتح) بہت آواز کرنیوالا –

اَطَاعَت (بفتح) میوہ کا میوہ کو پکا دینا اور اوسکا میوہ کے توڑنے پر قادر کر دینا جیسے اطلع الشجر اطاعت

چراگاہ کا خوب چارہ والا ہونا فرمان برداری کرنی تابعداری کرنی –

اَطَافَتہ (بفتح) کسی پر آ اوترنا اور نزدیک ہونا اور احاطہ کرنا جیسے

اطاف بہ

اَطَاقَتہ (بفتح) طاقت رکھنی – ایک چیز پر قادر ہونا –

اَطَالَتہ (بفتح) دراز کرنا –

اَطَام (بفتح و بضم) پیشاب اور بیٹ کا احتباس بیماری کے سبب –

اِطَاشیم (بفتح) پانون بہت –

اَطَایِب (بفتح) اچھی چیزین اور ناپسندیدہ و مقبول یا اوسکا استعمال فصیح ہے اور متون مین ہوتا ہے جیسے

مطائب کا خرمائے ترین –

اَطَّبَاء (بتشدید بفتح) کسی کو بلانا قوم کا کسی کو دوست بنا لینا اور کسی کو اپنی ذات کے لیے قبول کر لینا اور پسند کرلینا

اَطَّبَاخ (بفتح) پکا ہوا ہونا – اپنے لیے پکانے کی چیز تیار کرنی – بھوننا – ہانڈی چڑھانی –

اَطبَاع (بفتح) جمع طبع کسر کی

اَطبَاق (بفتح) جمع طبق اور ہانک لینا – قوم کا ایک کام پر اجماع کرنا – ستارون کا بہت اونچا ہونا – علی الاتصال مینھ کا برسنا – ایک چیز کا اوپر تلے رکھنا – تہ بتہ چننا – برابر کرنا –

اَطبَال (بفتح) جمع طبل فتح کی

اَطبَخ (بفتح) نہایت احمق –

اِطمِینَان (بکسر) آرام پانا –

اِطْنَاب (بکسر) بہت ہونا –

اَطحَاح (بفتح) پچھاڑ دینا –

اِطْهَار (بکسر) حجام کا غلاف سر ذکر کو ختنہ کے وقت جسم سے الگ کرنا

اِطْحَاف (بکسر) طحیفہ بنانا کہ ایک قسم کی آش ہے –

اَطحَل (بفتح) ذئب اطحل بھیڑیا کہ

259

مادہ
ضوی
ضوی
ضوی
ضوی
ضوذ
ضوز
ضوط
ضهی
ضهی
ضهی
ضهج
ضهد
ضهل



بقیہ ضیق
ط ی ب
طیب
طیح
طیر
ایضاً

اَضوَأ (کسفسم) باریک ہونا۔ سست ہونا۔ کسی کو کسی کی طرف مائل کرنا جیسے اضواہ الیہ۔ محبت کا مبتلا ہی بننا۔ کسی کے حق میں کم کرنا۔ کام کو راست اور درست اور مضبوط نہ کرنا۔

اَضوَاح (کسفس) جمع ضوح (ز) یعنے تنگی کا موڈا اور رحم۔

اَضوَط (فسعت) احمق مرد چھوٹی چھوٹی ڈاڑھی کا آدمی۔ میڑہی چھوٹی ڈاڑھی والا۔

اَضہَاء (فسفسم) جمع ضہوہ (فسعت)

اَضہَاء (کسفسم) ضہیا درخت کو گرانا۔ ضہیا عورت یعنے جسکی چھاتیاں نہ نکلی ہوں نکاح میں لانا۔

اَضہَاج (کسفس) اونٹنی کا پیٹ کے بچے کو ڈال دینا۔

اَضہَاد (کسفس) کسی پر ظلم کرنا۔

اَضہَال (کسفس) خرمابن کا رطب لے آنا۔ رطب ناک ہونا کھجور کے درخت کا۔ غورہ خرما کے درخت کا رطب ہونے لگنا۔

اَضیَع (فسعف) زیادہ ناکارہ۔

اَضیَق (فسعف) تنگ و دشوارتر۔

اَطَّ الرَّجُلُ اَطِیطًا (من) پالان وغیرہ نے آواز دی۔

وَ اَطَّتِ الاِبِلُ اونٹ نے تکان یا بچہ کی جدائی سے ناتوانی و لاغری کے سبب نالہ کیا۔ کسی کے لیے قرابت شکمی کا حرکت میں آنا۔

اَطَابَۃ (کسفسف) کسی کو خوش کرنا۔ خوشبو بنانا۔ حلال و پاکیزہ کرنا۔ طعام کو خورش مزہ بنانا۔ ڈھیلوں سے پاک کرنا۔ استنجا کرنا۔ ایک چیز کو پانا۔ میٹھی اور اچھی بات کہنی۔ مزے دار کھانا لانا۔ اچھے خصلت کے بچے جننے۔ حلال عورت کو نکاح کرنا۔

اَطَاحَۃ (کسفسف) بال گرا دینے۔ ایک چیز کو نیست و نابود کر دینا۔ مال کو ہلاک و تباہ کرنا۔

اَطَار (کفس) وہ شے کہ تیر کے سوفار کے اوپر پیش جسکے گرداگرد کچی ہو۔ آنکھ کی پتلی کا حلقہ۔ انگور کی شاخیں کہ لپیٹ کر ٹہنی پر چڑہی ہیں۔ ایک اوبھار جو ہونٹھ اور مونچھوں کے بال کے درمیان حائل ہے۔ چھلنی کا گھیرا۔ ہر چیز کہ ایک چیز کو محیط ہو۔ ایک یا حلقہ کمربند کی مانند جو گھر کے گرداگرد

نیند کر لینی ـ سر جھکانا ـ ساتھ کسی کے
لیے عاریت دینا ـ کھیل کی طرف مائل
ہونا جیسے اطرق الی الکھیل ـ اونٹوں کا
ایک دوسرے کے پیچھے ہونا ـ بعض
بات کا بعض پر جھک آنا ـ
اَطراق (کسکعس) اونٹوں کا ایک
دوسرے کے پیچھے جانا اور سیتوں میں
پراگندہ ہونا اور راہ راست کو چھوڑ دینا
پرندہ کے پر کا اوپر تلے جمنا ـ
اِطراء (کسکعس) ایسے طعام سے
متغیر اور بدبو ہونا منہ کا ـ دانتوں کا نیلا ہونا
اِطرام (کسکعس) دانتوں کا نیلا ہونا
اَطرہ (رضنعف) ہچها جو سونا لپیٹیں
گرد اگرد چشمہ کے تندی ـ گرد اگرد ناخن
کا گوشت ـ مدرگ ابہر کا کنارہ ـ ناخن میں
ملی ہوئی ـ لکیر کہ جس سے ٹوٹی ہوئی
ہانڈی کو بیچ میں لوہ چپکا دیویں
اَطرحمام (کسکعس) کسی کی بینائی
کم ہو جانی ـ رات کا نہایت تاریک
ہونا ـ تکبر اور بیدرنگ نفسی کرنی ـ
اَطراطِرَاخِلجتین مرد جسکی بھوں
کے بال کم ہوں ـ
اَطرغشاش (کسکعس) بیمار کا

اچها ہونا ـ حرکت کرنا ـ ہے ـ بیمار ہو
آنا ـ تیمہ کا ایک قوم پہنچنا ـ سختی کے
بعد جنبش ـ کا گھونسلے میں حرکت کرنا ـ
اَطرغلات (رضنعف) بہت سی
فاختین اور قمریان اور کالے رنگ
کے پرندے جو آواز کرتے ہیں اور
انکے گلے میں طوق ہیں ـ
اَطرغمام (کسکعس) بزرگی نفسی کرنی
اُطرق (رفسع) سست گھٹنے
والا اونٹ ـ
اَطرمساس (کسکعس) رات کا
تاریک اور اندھیری ہونا ـ
اَطرہمام (کسکعس) جوان کا
اعتدال کے ساتھ پورا ہونا ـ
اَطناب (کسکعس) ہوا کا سخت چلنا
غبار میں ـ اونٹوں کا ایک دوسرے کے
پیچھے چلنا ـ نہر کا دور دراز چلنا ـ شاعر
کا وصف میں مبالغت کرنا اور مبالغہ
کرنا مدح ہو یا مذمت ـ عبارت اور
لفظ کو طول دینا خلاف ایجاز ـ
اُطروان الشباب بعنفوان الشباب
اَطروش (رضنعس) بہرا ـ
اُطتیر (رفسکعف) ایک قسم کا ناخن کا

۲۶۱
الاطرہم
۱۲

[illegible]

نہ ورہنہ بیلا ہو نہ سپید - اور کل پانی کا لی والا - فرس اطحل گھوڑا جسکی سبزی ٹھنڈی ہی زردی مائل ہو -

اطحم (فسنف) کالے سر کا بوک بکرا تیرہ اندام - گھوڑا جو اوسکے کاکل سے جسم تک خط سیاہ ہووے - آدمی اور چوپایہ کی ناک کی نوک خشک گوشت جو سیاہی مائل ہو -

اطحمام (کسکفس) خشک گوشت کا مائل سیاہی ہونا -

اطلح (عفف) شہنیاں درخت خاردار کی کہ وہ درخت عوسج ہی -

اطر (فنس) ابر - کمان کی کجی -

اطر (فنس) (ان من) کسی چیز کو خم دینا - سوفار پہ پہلے پیٹھنی سکر کے لیئے اطار بناتا -

اطراء (کسفسم) خوب سراہنا -

اطراء (کسفسم) خوب سراہنا - شہد وغیرہ میں مادہ کو پرورش کرنا -

اطرات (کسفس) خیار و برگزیدہ یا مین عجلے ہوئے اور برگزیدہ پھول

اطراب (کسفس) راگ گاتا - کسی کو خوشی میں لانا -

اطراح (کسفس) ڈالدینا - دور کرنا -

اطراد (کسفس) دور کرنے کا حکم دینا شہر بدر کرنا - یا اطراف و نواح سے اونٹوں کو جمع کرنا سبقت وغیرہ میں کسی سے شرط لگانی -

اطراد (کلکفس) کاموں کا ایک دوسرے کے پیچھے ہونا اور راست و مستقیم ہونا اور اوسکا جاری اور روان ہونا ندی کا جاری ہونا بہنا -

اطرار (کسفس) ڈالدینا - چھوڑ کے پھولنا یعنے سینہ پھیلنی - با تمہ دراز کرنا برانگیختہ کرنا - قطع کرنا - ذلیل اور خوار کرنا

اطراش (کسفس) جمع طرش

اطراف (کسفس) طریقہ کا بہت ہونا کہ ایک نفی گھاس ہی - چیز چیزوں کا ایک دوسرے پر رکھنا - کسی کا کسیکو ایسی چیز دینی کہ ویسی قبل اوسکے کسی نے نہ دی ہو - نیا لانا - ایک چیز پر اطلاع پانی - آگاہ ہونا -

اطراف (کلکفس) ایک چیز جو متفرق تھی

اطراف (کفعد) ...ی ایک حصہ کا الگ

اطراق (کسفس) خاموش ہو جانا اور کچھ نہ بولنا - آنکھ نیچی کر لینی - سر جھکانا

اطلّ (بکسر) [illegible] پیچیدہ [illegible]

آطال (بفتحتین) [illegible] جمع

اطلل (بضمتین) [illegible] طلیل کی جمع [illegible]

اطلاً یعنی [illegible] چیز [illegible]

اطلاء (بکسر) [illegible] اپنے [illegible]
وغیرہ ملنا - [illegible]
سے دور کرنا یعنی [illegible] کے بال
جھڑنے ہڑتال وغیرہ سے اور [illegible]

اطلاء (بکسر) قطران وغیرہ ملنا
[illegible] نفسانی کی طرف میلان کرنا
[illegible] وغیرہ کا زمین [illegible] جانا -

اطلاب (بکسر) [illegible] ڈھونڈنا

اطلاب (بکسر) کسی کی حاجت
[illegible] چیز کو دے دینا - کسی کو [illegible]
محتاج کر دینا - لغات اضداد سے ہے
پانی کا دور ہونا کہ بغیر طلب حاصل [illegible]

اطلاح (بکسر) اونٹ کو تھکا
دینا لاغر [illegible] کر دینا -

اطلاع (بکسر) [illegible] کسی
کے ساتھ [illegible] شانہ کے اوپر
سے تیر [illegible] کسی [illegible] سرعت
[illegible] چراگاہ [illegible] - [illegible]
شگوفہ نکال لانا - [illegible] چیز [illegible] لانا

اطلاع (بکسر) واقف ہونا اور
[illegible] منتظر ہونا جیسے اطلع علی [illegible]
ایک زمین [illegible]
کسی کے پاس آنا جیسے اطلع [illegible]
ہونا [illegible] جیسے اطلع [illegible] لغات اضداد
سے ہے - آفتاب وغیرہ کا نکلنا [illegible]
کام ہونا واقف ہونا [illegible]
[illegible] ہونا [illegible]

اطلاف (بکسر) [illegible]
[illegible] دشمن کا خون باطل ہونا

اطلاق (بکسر) [illegible] ہونا

اطلاق (بکسر) [illegible]
کھلانا [illegible] کو [illegible] جیسے اطلق
یا [illegible] قوم کا [illegible]
سے رہا ہونا - [illegible] کھولنا
قیدی کو قید سے چھوڑ دینا - عورت
کو طلاق دینی -

اطلال (بفتح) جمع طلل

اطلال (بکسر) خون کا
رائگان جانا - [illegible] رائگاں
کرنا - کسی پر چڑھ آنا جیسے اطل
علیہ [illegible] کا منھ [illegible]
جیسے [illegible] مطلع ہونا -

[illegible]

۲۶۳

اہل شام کا کھانا کھایا ہوا و [illegible] بچا

[illegible] ہیں

اُطحل رکسفس لیٹنا کوہان [illegible]

اُطلحم [illegible] رکسفس غصہ ہو کر [illegible]
دیکھے ہوا پر سی شکر [illegible]
ہوئی سا وشم کا اچھا نا -

اُطسا رکسفس کسی کو کھڑے ہی
حکم کا بد نم کر دینا جیسے اطمسنا طعون

اُطلمہ رالسکن ہر چیز کا بیچ اور
اشرف اور برگزیدہ او بہتر -

اُطشا رکسفس بکا مرض ہو جانا -

اُطشاش رکسفس ابکا مرض ہونا -

اُطط رکسف بہشت کا ارکنیا [illegible]

اُطعام رکسفس کسی کو کھلانا -
درخت کا میوہ کو بکا دینا - درخت کا
پھل پک جانا - ایک شاخ کو دوسری
درخت کی شاخ میں پیوند لگانا -

اُطعام رکسکعفس عورت مرد کا
ہنسی امن سے پر آجانا - کھانا کھلا
ادب قبول کرنا - اصلاح پکڑنی -

اُطعان رکسکعفس ایک دوسرے
کو نیزہ مارنا - آپس میں ایک دوسرے
کو طعن کرنا - طنز کرنا -

اُطغا رکسفس نا فرمانی کرنی
طلم پر انگیختہ کرنا -

اُطفا رکسفس تالاب کو بھرنا -

اُطفا رکسفس آگ کو بجھانا -

اُطفاح رکسفس [illegible] اوپرا لبریز کرنا

اُطفاح رکسکفس [illegible] اٹھی [illegible]
سر سے جھاگ اور کرنا -

اُطفار رکسکفس [illegible] کا لب
[illegible] کو کھور سے کے کھا [illegible]
اسکے نیچے داخل کرنا [illegible]

اُطفاف رکسفس آگاہ ہونا
نزدیک ہونا - جبھی تک پیمانہ کو
[illegible] پینا - کام [illegible]
ایک چیز کو بچھوڑ کر لینا - کسی کے
فریب دینے کا ارادہ کرنا -

اُطفاق رکسفس کسی کو اوسکی
مراد پہنچا دینا -

اُطفال رکسفس جمع طفل [illegible]

اُطفال رکسفس [illegible] کے
وقت داخل ہونا آفتاب کا غروب کے
نزدیک سرخ ہونا -

اُطمئنان رکسکفس نرمی کرنی
آرام پکڑنا - [illegible] نیک ہونا

أطناء (کسفسم) منزل کی طرف میل کرنا۔ حوض کی طرف جانا اور پھر پانی پینا جیسے اطنا الی الحوض فرش کی طرف جانا اور سیری سستی اور کسالت سے سو جانا۔ جیسے اطنا علی البطن

أطناء (کسفسم) کسی کو تقل میں حمنی کرنا۔ ہمت و شک کی طرف میلان کرنا۔ فرش کی طرف میلان کرنا اور سستی کے سبب سو جانا۔ نافرمانی اور تباہی میں حد گذر جانا۔ تلی اور پھیپھڑے کا پاس کے سبب پہلو میں چپک جانا۔ بیچنا۔ خریدنا۔ لغات اضداد سے ہے۔

أطنابة (کسفسف) سائبان۔ تسمہ جسے قبضہ کمان پر باندھیں

أطناخ (کسفس) کسی کو بدہضم کر دینا

أطنان (فسفس) جمع طن (فت)

اطنان (کسفس) قطع کرنا تیشہ وغیرہ سے آواز کرنی۔

أطنث (فسف) لمبا سست نون والا۔ لنبی پیٹھ والا۔

أطواء الناقة اونٹنی کے کوہان تنگے چربی کے سبب بل اور شکن۔

اطواء (کسفسم) کچھ کھانا اور اپنے آپ کو بھوکا رکھنا۔

اطواء (کنکفسم) لپیٹا ہوا ہونا۔

أطواق (فسفس) نارجیل کا دودہ۔ و جمع طوق (فس)

أطوال (کسفس) اطالة (کفسف) دراز کرنا۔ عورت کا لنبے قد کے بچہ جننے یا عورت کا ایک لنبے قد کا فرزند جننا۔

اطول (فسف) بہت لنبا۔ فارسی تر افزون تر۔ اطاول (فغسکسرہ) جمع

اشتر کہ اوپر کا ہونٹھ اوسکا لنبا ہو

أطوم (فضس) کچھوا ولدار کھال کا مچھلی ولدار کھال والی۔ کمان سخت کہ جسکا چلہ قبضہ کے متصل ہو نفار پشت یعنی ایک چوپایا جنگل کا جسپر خار ہوتے ہیں سیہ۔ گائے۔

أطهاء (کسفسم) پیشہ اور کام میں عقلمند اور رسا ہونا۔

أطهار (فسفس) عورت کا حیض سے پاکی کے دن۔ جمع طهر (ضس)

اطهاف (کسفس) صتیان گھاس کا خوب اوگنا۔ کسی کو تھوڑا

مادہ
طنی
طنی
طنب
طنخ
طنن
طنب
طوی
طوق
طول
طم
٢٦٥
طہر
طہر
طہف

جیسے اطلس علیہ —

اَطلاء (کسکفس) لوہے پر چھپ جانا — زنگ کا
اَطلخاخ (کسکفس) جدا ہونا —
آنسو کا جاری ہونا —
اَطلخام (کسکفس) بینائی کا
کند ہو جانا — رات کا سیاہ ہونا —
اَطلس (فسف) پرانا کپڑا — اَطلس
(سس) جمع — سبز رنگ کا — جس میں
سیاہی ملا ہوا ہر چیز کا او سبز رنگ
مروت جیسے ریشمی ہر کے ساتھ چمکیلا
کالا جیسا حبشی وغیرہ — میلا کچیلا
اَطلاط (فسف) بڑا عقلمند — بہادر
اَطلغساء (کسکفسم) ایک جگہ
سے دوسری جگہ جانا — سب بدن
پر پسینے کا جاری ہونا —
اَطلغشاء (کسکفسم) سب بدن
پر پسینے کا جاری ہونا —
اَطلنفاء (کسکفسم) زمین سے چمٹنا
اَطلۃ (فسفف) وادی — ...
طلہ (ضفف) جمع —
اَطلم (فف) غصہ ہونا — غصہ یا بد
منضم ہونا — بیماری — اطلام (فعفس)
میں تھیلا ہونا — معروفاً اور مجہولاً

مستعمل ہے جیسے اطلم علیہ —
اَطلم (کسف) (ض) ہاتھ کا ٹیکنا
پاخانہ پھرنا — کوئیں کا منہ تنگ کرنا
گھر کے پردوں کو لٹکانا —
اطم (سس) عقر یعنی محل قلعہ سنگین
چوکھونٹہ گھر مسطح — آطام (فعس)
اطوم (ضفس) جمع —
اِطماح (کسفس) نگاہ کو بلند کرنا —
اِطمار (کسفس) گھوڑے کا اپنا
سارا زور دین میں داخل کر دینا — کودنا
اِطمار (کسکفس) گھوڑے پیچھے کودنا
اِطماع (کسفس) امیدوار کرنا —
کسی کو حریص کرنا —
اِطمال (کسفس) کوئیں میں جو
کیچڑ ہے اسکو نکالنا جیسے اطمل ما فی الحوض
اِطمال (کسفس) وقت کو محو اور پاک کرنا
اِطمام (کسفس) بال منڈانے کا وقت آنا
اِطمحرار (کسکفس) خوب پینا —
اِطمخرار (کسکفس) خوب پینا —
اَطمر (فسفف) اچھا چلنے والا
اطمرا — گھوڑا کودنے والا —
اِطمینان (کسکفس) آرام و قرار
پکڑنا — چین لینا — ٹھہرنا —

اظفر (سفت) لمبے اور چوڑے ناخن والا
اظفور (تسغفس) ناخن اظافیر (فتسکس) جمع - ریزے جو شاخ درخت انگور پر پیچیدہ ہووین -
اظل (ففت) اونگلی کا پیٹ اونٹ کے سم کا پیٹ ظل (ضت) جمع -
اظلات (کسغس) زمین اظلوفہ میں داخل ہونا -
اظلال (کسغس) دن کا سایہ دار ہونا - درخت وغیرہ کا سایہ ڈالنا - نزدیک آنا کسی کا یعنی سایہ ڈالنا - کسی کی طرف منہ کرنا -
اظلام (کسفس) رات کا تاریک ہونا - تاریکی مین داخل ہونا - دانتون کا چمکنا - ظلم پہنچانا - تاریکی مین کہین جانا
اظلام (کتکفس) ظلم کھینچنا اور برداشت کرنی تحمل کرنا -
اظلوفۃ (ضسفسف) زمین جسمین تیز پتھر ہووین گویا کہ اونکی سرشت پہاڑ کی سرشت ہے اظالیف (فتسکس) جمع
اظماء (کسفسم) پیاسا کرنا - گھوڑے کو دبلا کر دینا -
اظمی (فسنف) مرد جسکے دانت کی جڑ مین خون کم ہو یا گندم گون ہو یعنی ہونٹھ والا اسود - باریک تیز و سیاہ -
اظنان (کسغس) تہمت لگانی -
اظواء (کسغسم) احمق ہو جانا -
اظہار (کسغس) پیٹھ سے پیچھے ایک چیز کو ڈالنا یعنی اوسے بھول جانا - آشکارا کرنا کسی کو مطلع اور صاحب نظر کرنا غالب کرنا - نماز ظہر کے وقت جانا یعنی ظہر کے وقت مین داخل ہونا - دوپہر مین کہین جانا - چھپائے والا ہونا - قرآن کو زبانی پڑھنا -
اظہار (کتکفس) فراموش کرنا -
اظہور (ضسفس) اظاہر (فسکس) جمع ظہر (کس) کی -
اعاء (کفسم) برتن و عاء کو اعاء بھی کہتے ہین -
اعابد (ففسک) عبد (فس) کی جمع
اعاجب (ففسک) انوکھی چیزین گویا کہ اعجوبۃ (تسغسف) کی جمع ہے -
اعادۃ (کففسف) کسی کو اوسکی جگہ پھیر دینا - لوٹانا -
اعافۃ (کففسف) ہرنی وغیرہ کا بیابان جننا - کسی کو بچہ والی کر دینا - کسیکو ...

| مادہ |
|---|
| ظفر |
| ظفر |
| ظلف |
| ظلف |
| ظلل |
| ظلم |
| ظلم |
| ظلف |
| ظمی |
| ظمی |
| ظنن |



| |
|---|
| ظوی |
| ظہر |
| ظہر |
| وعی |
| عبد |
| عجب |
| عود |
| عوف |

بنا اور ماننا جیسے اطیب لہ طعمہ بسن
الاال بات کو سہل اور آسان اور ظاہر
کہنا جیسے اطیب فی کلامہ مشک کا
فرو مشتبہ اور نرم ہو جانا طیف کر بونا۔
اُطہر (کفتفس) پاک ہونا۔ خون حیض
وغیرہ کے بعد عورت کا غسل کرنا۔
گناہ اور ہر فعل قبیح سے پرہیز کرنا۔
اُطیاعت (کنکفس) پاخانہ پھرنا اور
پائخانے میں جانا۔
اطیبان (سفس) کھانا اور جماع
کرنا۔ یا دہن اور فرج یا چربی اور جوانی
اُطیر (کس) گناہ۔ تنگی کلام۔
شر و بدی کہ بعد سے آوے۔
اُطیش (فسف) ایک پرند جانور ہے
اُطیط (کس) بھوک۔ پالان کی آواز
۔ بھاری بوجھ کے سبب اونٹ
کی آواز۔ خالی پیٹ کی آواز بھوک
کے سبب۔
اُطیمہ (فکسف) آگ بھڑکانے
کی جگہ۔ اطائم (فضسک) جمع۔
اُظآر (کسمس) دایہ بنانا عورت کو
اظآر (کسکمس) دایہ بنا کرنا۔
مہربان ہونا مہربانی کرنی۔

اُطراث (ضفس) انواجذ کے پیچھے
کے چار دانت یا اور کسی چیز۔
اطرار (کسفس) پتھر پر چلنا۔
اُطراف (کسفس) زیرک فرزندوں کا
باپ ہونا۔ کسی کے لیے ظرف بنانا۔
اظرور (ضفس) بمعنی ظرر کت کی
اظریراء (کسفسم) پیٹ کا پھول لینا
امتلا زرد ہونا یا دل پر چربی کا غالب ہونا
اُظطار (کسکمس) اپنے بچے کے
لیے دایہ بنانا۔
اُظعان (کسفس) لیجانا۔ ہانکنا کوچ کرنا
اظعان (کسکفس) عورت کا
ہودہ میں سوار ہونا۔
اُظفار (ضفس) ہلے ہوئے ناخن
کی مانند ایک خوشبودار شی یعنی نکہ دلہ
نداردہ۔ اظافیر (فضسک) جمع۔ اور چند
ستارے ہیں نسر سے مقدم۔
اظفار (کسفس) کسی چیز میں ناخن
گھسانا۔ کسی کو فتحمندی دینی۔
اظفار (کسکفس) چنگل مارنا۔ اپنے
ناخن کو کسی میں مارنا۔ چرغ کا پرند
جانور کے سر کو پکڑنا۔ مراد کو پہنچنا
فتحمند ہونا۔

بزنجر
زظرف
زنجر
زجری
زنجی
زعن
زغف

| اعتباط (س ف ن س) بے بیماری اور جوانی مرنا کسی کی موت آپہونچی۔ | ... کرنا زمین کا احاطہ کرنا پھر اوسکا مالک ہونا۔ | مادہ |
| --- | --- | --- |
| اعتبال (س ف ن س) سخت ہونا۔ سپید ہونا درخت کے پتے گرنے سے درخت کے پتے نکلنے اور اوسکا سخت ہونا۔ لغات اضداد سے ہے۔ | اعتبام (س ف ن س) ایک کام سے کسیکو روکدینا کہ اوسمیں وہ داخل ہوا ہو تھوڑی رات گذرنی کسی کی ہمائی میں دیر لگانی اور تہائی رات کیوقت سو جانا۔ ایک کام میں توقف کرنا عشا کیوقت بہیں چلانا عشا کیوقت آنا یا عشا کیوقت اولٹا پھرنا۔ | عبط |
| اعتباق (س ف ن س) اہمنگ جبہ اونٹ کو لینا اور اختیار کرنا۔ | اعتبان (س ف ن س) اپنے قرضدار پر سخت تقاضا کرنا اور اذیت دینی۔ | عبل |
| اعتبد (س ف ن) جمع عبد (س) | اعتقاب (س ف ن س) پھرنا اور آشنا۔ | عبن |
| اعتبل (س ف ن) سپید پتھر کا پہاڑ یا سپید پتھر یا خوب سخت پتھر دلدار سرخ اور سپید اور سیاہ ہوتا ہے سخت ہی ہوتی رسی دلدار۔ | اعتقاد (س ف ن س) ہنگ مکرنا سنگی میں لینا | عبو |
| اعتبقا (س ف ن س) سخت مکار اور بلا اور بدخو ہونا مرد کا۔ | اعتقبار (س ف ن س) فضیحت پکڑنی ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا تعجب کرنا | عتب |
| اعتتاب (س ف ن س) رضامندی دینی کسی کے ناخوش کرنے سے اوسکی رضامندی کی طرف پھرنا خوشنود کرنا۔ | اعتقباط (س ف ن س) ذبیحہ پر گوشت اور جوان کو مار ڈالنا۔ پوشیدہ ہونا ہوا کا زمین کو چھیلدینا۔ بن کھدی جگہہ کو کھودنا سے سبب اور نے بہانہ جھوٹ بولنا صحت اور تندرستی میں جلن مرجانا۔ پوست کا پھٹا ہونا | عتد |
| اعتتاد (س ف ن س) آمادہ کرنا۔ | اعتقاب (س ف ن س) ایک کام سے اوس کام کے غیر طرف پھرنا۔ ایک کام کا قصد کرنا۔ | عتق |
| اعتتاق (س ف ن س) آزاد کرنا گھوڑے کو دوڑانے میں آگے نکال لیجانا۔ انگور ہر نہ بناکے ہوئے کو زمین کو کھودنا اور اوسکو بنا بنانا نہال کو اچھا کرنا اور | | ۲۶۹ |
| | | عقد |
| | | عقب |
| | | ۱۲ |

اَعمارۃ (کفسف) لیجانا گھوڑے کو چارہ پر رکھنا چرائی پر چھوڑنا مرد کی آمد و رفت کرنی اونٹ کا اپنی مادہ سے پھر کر دوسری اونٹنی کا میلان کرنا قصیدہ کا شہروں میں مشہور اور پراگندہ ہونا بیگان

اَعمارِیب (فضلکس) عربی جنگل کے رہنے والے

اَعماستر (کفسف) کھیتی کا خشک ہو جانا

اَعماشۃ (کفسف) زندہ کر دینا

اَعماضۃ (کفسف) عوض دینا

اَعّ اَعّ (منس منس) قے کرنے والے کی آواز کرنی اصل میں عّع عّع تھا ہمزہ سے بدل ہو گئی

اَعمافۃ (کفسف) عیوب اور خطوں والا ہونا

اَعماقۃ (کفسف) نیڑ جانا

اَعمالۃ (کفسف) نیازمند درویش ہو جانا حساب فریضہ میں زیادہ ہونا فرضی حصوں کا نکال لانا نفقہ اور قوت دینا عیال داری کرنی اور انکو کافی ہونا حریص ہو جانا

اَعمالۃ (کفسف) بہت عیال دار ہونا حریص ہونا

اَعمامۃ (کفسف) ہنسنے شیر کر دینا شیر ہونا قوم کا کم شیر ہو جانا

اَعماتۃ (کفسف) مدد کرنی

اَعمانۃ (کفسف) کسی کی اعانت سے اونٹ کے پاس آنا پانی کو چشمہ پر پہنچانا

اَعماہۃ (کفسف) آفت رسیدہ کھیتی اور چارپایہ والا ہونا

اَعمایۃ (کفسف) تھک جانا تھکا دینا لازم و متعدی دونوں آتا ہے بیماری کا طبیب کو عاجز کر دینا اور اسکا اچھا نہ ہونا کسی پر کام کا دشوار ہونا

اَغحَبُ (فقفت) نیازمند مرد سخت ناک والا

اَغحِیاد (کسفس) بندہ بنا لینا مالک کر دینا مجتمع ہونا سواری کے تھک جانے سے راہ میں عاجز رہجانا ہلاک ہونا

اَغحِبار (کسفس) ایک سال تک بکری کو بال نہ کٹے ہوئے رکھنا

اَعیاس (کسفس) چھوہارے کا بو عیش ناک ہونا

اَعیاش (کسفس) لڑکے کا ختنہ کرنا اصلاح کرنی

کسی کی غیبت اور عیب بیان کرنا
کسی کا ایک چیز کے پیچھے ہونا
روک رکھنا [illegible]
ابھرنا ایک چیز میں شگاف کرنا
اعتراض کرنا کسی شخص کا کسی کی [illegible]
عیب سے منسوب کرنا
اعتراف کرنا کسی شخص کا [illegible]
صفت [illegible] اور وصف سے [illegible]
[illegible] کرنا [illegible]
سمجھانا [illegible]
[illegible] ظاہر ہونا
اعتراق کرنا کسی شخص کا [illegible]
[illegible] آنا
اعتزال کرنا کسی شخص کا جنگ کے [illegible]
[illegible] سے اندر کر لینا
اعتصام کرنا کسی شخص کا سخت ہونا
اعتکاف کرنا کسی شخص کا [illegible]
[illegible]
اعتماد کرنا کسی شخص کا [illegible]
[illegible]
کسی شخص کا کسی چیز [illegible]
قبول کرنا [illegible]
اعتبار کرنا کسی شخص کا [illegible]

[illegible]



بتلبتہ بچھونا یا انگھندہ وغیرہ کہ اوس کے لیئے بچھوایا جاتا۔ عطا یعنی بخشش۔ قضائے حاجت کرنی۔ شیرہ بنانا۔ کھانے پر جو گلے میں اٹک رہے تھوڑا تھوڑا پانی گھونٹ گھونٹ پینا تاکہ اوسے نگل جاوے۔ تاوان وغیرہ کے لیئے کسی کے ہاتھ سے مال نکال لانا۔ بخل کرنا۔ نکاح وغیرہ سے باز رکہنا۔ مال کو کسی سے روکنا۔ پناہ پکڑنی۔ سپکڑنا۔

اعتصاف (کسکفس) کسب کرنا۔

اعتصام (کسکفس) اپنا وسے لطف پروردگار کی امید پر بازرہنا۔ کسی کے دامن میں چنگل لینا۔ سوار کا اوس چیز پر ہاتھ مارنا کہ جو زین پر پکڑنے کے لیئے بنا دیتے ہیں۔

اعتضاد (کسکفس) کسی کو بازو پر رکہنا۔ کسی سے مدد چاہنی۔

اعتطاب (کسکفس) پتھر سے آگ پیدا کرنی۔

اعتطاف (کسکفس) چادر پہننی۔

اعتطال (کسکفس) اشتر اور گھوڑیوں وغیرہ کا جفتی کے لیئے

ناودین کے پیچھے ایک ایک لگا پھرنا۔

اعتفاء (کسکفس) اونٹ کا خشک گھاس کو منھ سے پکڑنا اور اوسکا صاف کرنا۔ کسی کے پاس احسان چاہنے کے لیئے آنا۔

اعتفاد (کسکفس) دروازہ بند کرنا اور کسی سے کچھ نہ مانگنا یہاں تک کہ بھوک کے مارے مرجاوے ایسا خشک سالی میں کرتے تھے۔ میں یقین کرنا۔ میلان کرنا۔

اعتفار (کسکفس) کسی کو زمین پر دے مارنا۔ کسی کا سر پکڑنا۔ کسی پر حملہ کرنا۔ خاک آلودہ ملنا۔ خاک آلودہ ہونا۔ شیر کا شکار کو خاک پر پچھاڑنا۔

اعتفاش (کسکفس) کشتی کرنی۔ مضطرب ہونا۔ متغیر ہونا۔

اعتفاص (کسکفس) کسی سے اپنا حق لینا۔

اعتفاف (کسکفس) اونٹ کا خشک گھاس کو خاک کے اوپر سے زبان سے پکڑنا اور خاک سے پاک کرنا۔

اعتفاق (کسکفس) شمشیر کا شکار پر مائل ہونا۔ قوم کا ایک دوسرے کو تلوار مارنا۔ اور مشہور یہی کیا جاتا ہے۔

مادہ
عصف
عصم
عضد
عطب
عطف
عطل
عفا
عفد
عفر
عفس
عفص
عفف
عفق

ج

مادہ
عزل
عزم
عس
عسر
عسف
عسق
عسل
عشو
عشی
عشو
عشق
عشو
عشی
عشن

۲۷۲

عصی
عصب
عصب
عصر

اعتزال زکسکفس الگ ہونا جدا ہونا کنارہ قبول کرنا معتزلہ ہونا یعنی کا لقب ہے لوگون کا جو معتزلہ کہلاتے
لیکن جو ہر ہوکنا اور حمل رہنا بچا ہنا۔
اعتزام زکسکفس قصد کرنا کسی چیز پر دل کہنا کوشش کرنی وسط
پر چلنا میانہ روی اختیار کرنی اور
گھوڑے کا رفتار مین سرکشی کے
ساتھ گذرنا۔ بلا و مصیبت پر صبر کرنا۔
اعتسار زکسکفس اوس اونٹ پر سوار
ہونا کہ جسکی ابتک نہ نکلی ہو لونڈی کا بچہ
ہوا ہو جبراً قہراً فرزند کا مال لینا ستم
کرنا قہر کرنا۔
اعتساس زکسکفس اپنے اہل و عیال کے
لیے رات کو پھرنا کسب کرنا۔ کمائی
کرنی چارپیسے کمانے کا دہندا کرنا
ڈہونڈہنا۔ اونٹنی مین فحل ہونا
اونٹنی کے تھنونکو ملنا تا کہ دودہ دے
اعتساف زکسکفس بے راہ چلنا
راہ سے میلان کرنا کسی سے
خدمت چاہنی۔
اعتسام زکسکفس ایرانا موزہ
اور جوتی خرید کرنی پہنی سمکریکا بچہ دینا
اور جو ملے کا ہر ایک کے بچہ کو

ہر ایک کے آگے ڈالدینا۔
اعتشاء زکسکفس رات کے وقت
آگ کو دور سے دیکھکر اوسکا قصد
کرنا جیسے اعتشی النہار دوپہر
کے وقت سیر کرنا۔
اعتشاش زکسکفس جانور کا گھونسلا
بنانا گھونسلیسی قوت لایموت لانی۔
اعتشان زکسکفس تخمین کے رو
سے کہنا۔ اٹکل سے کہنا اپنی
خواہش سے بات چیت کرنی کہجوریکا
شاخون کی جڑ ونکی تلاش کرنی
یا کسی پر ناحق چڑہ آنا۔
اعتصاء زکسکفس درخت مین
سے عصا کاٹنی۔ عصا پر تکیہ لگانا
تلوار کو عصا بنانی جیسے اعتصی
بالسیف یعنی تلوار کو عصا بنائی۔
اعتصاد زکسکفس کسیکا سخت ہونا
اعتصاب زکسکفس صبر اختیار
کرنا اور کسی سے خوشنود ہونا۔
جیسے اعتصب بالشی اعتصاب قوم
کا عصبہ عصبہ ہوجانا۔ عمامہ
ٹوپی سر پر رکھنی۔
اعتصار زکسکفس انگور وغیرہ کو

حیوانی کا برابر اور دیر تک [illegible]

کوہان کا چربی سے بھرا ہونا۔

اُعْتِکَاس (رکسکفس) بھرا ہوا ہونا اور الٹا ہونا۔ ایک چیز کے اجزا کا ایک دوسرے کی جگہ میں ہونا۔

اُعْتِکَاف (رکسکفس) اپنے نفس کو روکنا۔ گوشہ نشین ہونا۔ ایک چیز کا انتظار کرنا۔

اُعْتِکَال (رکسکفس) گوشہ پکڑنا۔ بیلوں کا آپس میں سینگوں سے [illegible] کسی پر خبر کا اور کسی کام کا خلط ملط اور مشتبہ ہونا۔ رل مل جانا۔

اُعْتِکَام (رکسکفس) گونون کو لادنے کے لئے برابر کرنا۔ ایک چیز کا اوپر تلے جم کے بیٹھنا۔

اُعْتِلَاء (رکسکفس) مدن کا چڑھنا۔ بلندی پر کر دینا۔ بلند ہونا۔ لازم اور متعدی دونوں آتا ہے۔

اُعْتِلَاث (رکسکفس) اپنے پہچانے ہوئے درخت کی لکڑی سے آگ دینا یا نہیں۔ آتش زنہ سے آگ لینی۔

اُعْتِلَاج (رکسکفس) آپس میں کشتی لڑائی شروع کر دی۔ زمین کی گھاس کا لمبا ہونا اور پھولنا پھرنا۔ موج کا طمانچہ مارنا اور حرکت میں آنا۔

اُعْتِلَاص (رکسکفس) ایک چیز میں سے شئے قلیل لینی۔

اُعْتِلَاط (رکسکفس) کسی کے ساتھ لڑائی کرنی۔ فتنہ برانگیختہ کرنا۔ تھامنا۔

اُعْتِلَاف (رکسکفس) چوپایہ کا چارہ [illegible]

اُعْتِلَاق (رکسکفس) مرد کا عورت پر عاشق ہونا۔

اُعْتِلَال (رکسکفس) ایک کام میں مشغول کرنا۔ کسی کو ایک کام سے باز رکھنا۔ بیمار ہو جانا۔ ایک عارض اور ایک نئی چیز کسی کو پیش آنی۔ کسی پر گناہ اور بہانہ ڈھونڈھنا۔

اُعْتِلَام (رکسکفس) جاننا۔ پانی کا رواں جاری ہونا۔

اُعْتِلَان (رکسکفس) آشکارا ہونا۔

اُعْتِمَار (رکسکفس) برگزیدہ کرنا۔ اختیار کرنا۔ قصد کرنا۔

اُعْتِمَاد (رکسکفس) رات کو چلنا شروع کرنا۔ کسی پر تکیہ کرنا۔ کسی شخص پر بھروسا کرنا اور اوس پر اپنے کام سپرد کر دینے۔ سونپنا۔

ماده

عکس

عکف

عکل

عکم

علا

علث

علج

علص

علط

صفحہ ۲۷۵

۱۱ علف

۱۲ علق

۱۳ علل

۱۴ علم

۱۵ علن

۱۶ عمر

عمد

۱۲

مادہ

اسا تصرف سکے۔

احتفار رکسکفس کوان کھودنے والے کا اوسکی ایک جانب سے پانی نکال لانا۔ کوئین کو پانی کے لیے دائین بائین سے کھودنا اور ٹھہر جانا ایسی جگہ مین جو باعث اختیاف کا ہے کلام کے آگا ہی اور پچہاڑی کی جگہہ

احتقام رکسکفسم آنا۔

احتقاب رکسکفس بائع کا مبیع روکدینا یہان تک کہ مشتری قیمت ادا کر دے۔ کسی کو قید خانہ مین بند کرنا۔ ایک کام کے کرنے سے ندامت اور پشیمانی شرمندگی ہونی۔

احتقاد رکسکفس ایمان لانا۔ یقین کرنا۔ ذخیرہ جمع کرنا سینہ مین باتین مال وغیرہ کا کسب کرنا۔ ایک چیز کا سخت اور گاڑھا ہو جانا۔ ثابت ہونا

احتقال رکسکفس نیزہ کو رکاب اور پانؤن کے درمیان رکھنا۔ بکری کے پانؤن کو دھنے کے وقت اپنی ساق اور ران کے بیچ مین لینا۔ ٹانگ کو دوہرا کرکے پانؤن کو زمین پر رکھنا۔ یا وقت سواری کے ٹانگ کو دوہرا کرکے مقدم زین کے آگے رکھنا۔ گلا گھونٹ کے کسی کو پچھاڑ دینا۔ بند کرنا اور باندھ رکھنا۔ کسی پر کلام کا بستہ ہونا اور اوس پر قادر ہونا۔ اونٹ کی ساق و سم کو آپس مین باندھ دینا۔ دیت اور خون بہا لینا۔

احتقام رکسکفس کوان کھودنا اور جب پانی کے پاس پہنچین تو ایک وہان چھوٹا سا گڑھا کرکے اور پانی نکالکر اوسکا مزہ چکھین پس اگر پانی شیرین ہو تو اوسے پورا کرلین اور نہین چھوڑ دین۔

احتکاب رکسکفس ہر دو کو انگیختہ کرنا خاک اوڑانی بکرو کالوٹھنا۔

احتکاد رکسکفس ایک چیز کو لازم پکڑنا

احتکار رکسکفس ایک چیز پر پھیر آنا قوم کا لڑائی مین آپسمین خلط ملط ہو جانا۔ ایک دوسرے پر سپاہیون کا پھر آنا اتنا کہ شمار نہو سکے۔ رات کا خوب تاریک ہونا اور اوسکی سیاہی کا تہ بتہ ہونا۔ تاریکی کا آمیختہ ہونا۔ مینھ کا زور سے برسنا۔ جمع کرنا۔

ماده

بلند آواز نکالنی - ایک چیز کو خم دینا -
اِعْتِوَار (کسفس) ایک چیز کو آپس میں نوبت بنوبت لینا اور دست بدست پھرانا -
اِعْتِوَاک (کسفس) انبوہی کرنی -
اِعْتِوَال (کسفس) رونا گریہ وزاری کرنی - زار زار رونا -
اِعْتِوَان (کسکفس) ایک دوسرے کی مدد کرنی -
اِعْتِوَتہ (ضفف) جس کہ عتاب کریں -
اِعْتِہَاد (کسکفس) غمخواری کرنی کسی سے اس سر نو پیمان کرنا -
اِعْتِیَاد (کسکفس) کسی کا خو گر ہونا ایک چیز کا پے در پے آنا -
اِعْتِیَاص (کسکفس) کسی پر کام کا دشوار ہو جانا - بکری اونٹنی وغیرہ کا حمل نہ قبول کرنا -
اِعْتِیَاض (کسکفس) عوض چاہنے کو آنا - عوض لینا -
اِعْتِیَاط (کسکفس) بغیر بانجھ پن کے عورت اور اونٹنی کا دیر تک حاملہ نہ ہونا اونٹنی کا چند برس تک حاملہ نہ ہونا
اِعْتِیَاف (کسکفس) سفر کے لیے توشہ لینا - زاد راہ لینا -

اِعْتِیَاق (کسکفس) دیری کرنی باز رکھنا - روک دینا -
اِعْتِیَام (کسکفس) اچھا اور برگزیدہ مال لینا - چھانٹا ہوا لینا -
اِعْتِیَان (کسکفس) کسی کی عمارت سے اور شہر کے پاس آنا - دیدبان اور جاسوس ہو جانا - ایک چیز کا اور دام پر خریدنا - اچھا اور برگزیدہ لینا -
اِعْتِثَار (کسکفس) بادشاہ کے نزدیک شکایت کرنی ہے جیسے اعتثر بہ عند السلطان - سر کے بل گرا دینا - خوار و ہلاک کرنا - آگاہ کرنا اور کسی کو اطلاع دینی - خبر کرنی -
اِعْتِثَاق (کسکفس) مال کا فراخ اور ارزان ہونا -
اِعْتِشَام (کسکفس) توشہ دان کو مضبوط باندھنا -
اِعْتِشَان (ضسفس) جمع عشن -
اِعْتِنَک (ضسفف) یعنی اعسر -
اِعْتِی (ضسفف) ایک رگ ہے سیاہی مائل جسکا رنگ سیاہی مائل ہو وہ احمق گران ڈیل مرد - بہت بالوں والا مرد - ترنجو -

عجز
عور
عوک
عول
عون
عتب
عہد
عود
عوص
عوض
عیط

277

عیف
عوق
عیم
عثر
عثق
عشم
عشن
عتک
عتو

اعتجار بکسر کاف و سکون غین پگڑی وغیرہ سر پر رکھنا۔ سر پر پگڑی باندھنا عمرہ لانا۔ زیارت کعبہ کا قصد کرنا۔ ارادہ کرنا۔

اعتماط بکسر کاف و سکون غین کسی کی آبرو بغیر جرم کے غصے میں خفا اور عیب ڈالنا۔

اعتماق بکسر کاف و سکون غین بمعنی اعماق

اعتمال بکسر کاف و سکون غین اپنے تئیں کام میں محنت کرنا عمل میں لانا۔

علی الاتصال ایک کام کے بعد دوسرا کام عمل میں لانا۔ زمین کو آباد کرنا [illegible]

اعتمام بکسر کاف و سکون غین عمامہ باندھنا۔ درخت کا اچھا لگنے آنا۔ گھاس کا دراز ہو کر پہنچ جانا۔ لڑکے کا قد نکالنا۔ بلوغت کو پہنچنا۔

اعتنا بکسر کاف و سکون غین کسی چیز پر ایک جگہ رہنا اور غمخواری کرنی جیسے آمدہ [illegible]

اعتنار کسی بہت سے کام کا اور ترک کرنا جیسے اعتنت بہ [illegible]

اعتناز بکسر کاف و سکون غین یکسو ہونا۔ کنارہ کش ہونا۔ عدول کرنا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف دور ہونا۔

اعتناص بکسر کاف و سکون غین اونٹنی کی قوم کے بال بہت ہونے اور اوسکا

پوشیدہ ہونا اٹھنا ہونا۔

اعتناش بکسر کاف و سکون غین لڑائی میں ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالنا۔ کسی چیز پر سختی ظلم اور تعدی کرنا۔ قہر اور باطل کی راہ سے کسی سے کچھ لینا۔

اعتناف بکسر کاف و سکون غین کراہیت ایک چیز کو مکروہ رکھنا۔ درشتی سے ایک کام کو گھیر لینا۔ شروع کرنا ایک کام کو نجانتا یا کام پر نادانستہ آجانا کھانے کو اور مکان کو ناپسند رکھنا زمین کی آب و ہوا کا ناموافق آنا ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر جانا چارپائے کو کچی گھاس چرانی

اعتناق بکسر کاف و سکون غین جنگ وغیرہ میں ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالنے

اعتناک بکسر کاف و سکون غین البتہ اونٹ ریت میں اونٹ کا گھس جانا اتنا کہ اوسمیں سے اوسکو نکلنا دشوار ہو جاوے

اعتنان بکسر کاف و سکون غین کسی کی چیز ہلنے پر مطلع ہونا۔ آگے لینا ایک چیز سے آگے آنا۔

اعتوار بکسر کاف و سکون غین ہتھیار یا منہ کر کے اسکے کاٹنے کا آواز کرنا یا کھانے کا بری طرح

اِعاجم (فسکس) جمع -
اَعجوبۃ (فسفسق) انوکھا کام -
اَعداء (کسفس) دور ہونے والے
مسافر اور جمع عدو (ضفت) کی
اَعداد (کسفسم) مدد دینی - تیار
کردینا جیسے اعددت زیداً علیہ اعداد
غیر کو کسی کیطرف گذار دینا - گھوڑے
کو دوڑانا - ظلم کرنا - خارش وغیرہ کا
کسی سے دوسرے کی طرف نقل
کرجانا - کلام میں دلیری کرنی -
ایک چیز کا ایک سے دوسرے کیطرف گذر جانا
اَعداد (کسفس) آمادہ کرنا - ذخیرہ کرنا
اِعداق (کسفس) ایک کام کو اچھی طرح
سے کرنا - حوض میں ایک چیز کے
تلاش کی مانند ہاتھ ڈالنا -
اِعدام (کسفس) نیست کرنا - ایک
چیز کا نایاب ہونا - مفلس اور محتاج
ہو جانا - روکدینا -
اِعذاب (کسفس) کائی کو دور کرنا
روکنا - ایک چیز کو چھوڑ دینا -
اِعذار (کسفس) کھانا کہ بعد ختنہ
ادر کے بطور شادی کے طیار کرتے
ہیں اور اقارب کو اوسکے کھلانے کو
بلاتے ہیں ختنہ کا کھانا - نئے گھر بنانے
کا کھانا - بہانہ کرنا - کام میں سستی کرنی
عذر کرنا - عذر کو ظاہر کرنا - کام میں
ڈھیل کرنی - مبالغہ نکرنا - کام
میں مبالغہ کرنا - لغات اضداد سے ہی
بہت گناہگار اور بہت بیباک ہونا -
گھوڑے کو لگام دینا - گھوڑے کے
لیئے باگ مقرر کرنی - گھوڑے پر باگ
مقرر باندھنی - بچہ کی ختنہ کرنی - ختنہ
کی مہمانداری کرنی - انصاف کرنا -
راستی اور درستی کرنی - عورت کا صاحب
عذر ہونا - کسی کو زخمی کرنا - ہلاکت
کے نزدیک ہونا - کسی کی پیٹھ پر اتنا
مارنا کہ اثر ہو جاوے - عکھہ کا پلید ہونا
اِعذاق (کسفس) ایک نشتر علامت
رنگ بکری کا سکے بکری پرستان کے لئے
باندھنا - گرم گھاس وغیرہ کا پھل آنا -
اَعذبان (فسفس) کھانا اور
نکاح یا آب دہن اور شراب -
اَعذق (فسض) جمع عذق (فف)
یعنی پہلی ہوئی کھجورین -
اَعر (ففت) چھوٹے کوہان کا یا
کوہان کا اونٹ -

مادہ: ع ج م - ع ج ب - ع د و - ع د د - ع د ق - ع د م - ع ذ ب - ع ذ ر - ع ذ ق - ع ذ ب - ع ذ ق - ع ر ر

مادہ علامات اعراب ضمہ فتحہ کسرہ سکون تشدید مد

اعجاب (کسکفس) عشق کرنی

اعجاز (کسفسر) مان کا بچے کو دس میں دودہ دینا یا مان کا دودہ پلانا

اعجاب (کسفس) تعجب میں لانا اپنے تئین فضیلت دینی تعجب میں آنا اور خوش ہونا۔ اس معنے میں مجہولاً مستعمل ہے۔

اعجاج (کسفس) ہوا کا خوب چلنا اور اوسکا گھیر لینا۔

اعجاز (کسفس) ایک چیز کا ذرگذر جانا اور وقت کو مر جانا۔ کسی کو عاجز یا ناتوان ہونا۔

اعجاز نخل کھجورون کی جڑین

ایک چیز کی طلب مین کوشش کرنی

اعجازہ (کسفسف) ایک چھوٹا سا تکیہ جسکو عورتین سرین پہ باندہتی ہین تاکہ بڑا معلوم ہووے۔

اعجاف (کسفس) بیمار کی بیمارداری پر اپنے تئین صابر رکہنا چھیلی کو دبلا کرنا۔ دبلے چوپایے والا ہونا۔

اعجال (کسفس) سبقت کرنی کسی سے یدگذر کرنی۔ اونٹنی کا ناتمام بچہ کو ڈالدینا۔ سے مہلت

قرض لینا۔ سرعت پر کسیکو برانگیختہ کرنا

اعجال (قسفس) جمع عجلہ (ققف) کی بمعنے چھکڑا۔

اعجالہ (کسفسف) شیر ناشتا کی ایک بار دوہنے مین لیجانا ثوون کے دوہنے سے پہلے چراگاہ دودہ دوہے

اعجام (کسفس) زبان عجم مین بات کہنی حرفون پر نقطے دینے

اعجان (کسفس) ہولی اونٹنی پر سوار ہونا۔ عجان اونٹنی کا سوج جانا

اعجب (فسفف) انوکھا تعجب میں لانے والا۔

اعجر (فسفف) بڑے پیٹ والا مرد بہری ہوئی ہتھیلی۔ سانڈ اونٹ سخت

اعجس (فسفف) سخت کروالا۔

اعجف (فسفف) دبلا۔ عجاف (کفس) جمع۔ باریک پیکان۔

اعجل (فسفف) کم مدت

اعجم (فسفف) جو کہ صاف اور فصیح بات نکہہ سکے اگرچہ عرب کا ہو۔ گونگا۔ خلاف عرب۔ لہر جو دم نہ مارے اور اوسکی آواز سنی نجاوے۔ اعجمان (فسففس) تثنیہ اعجمون (فسففس)

عجب
عجب
عجب
عجف
عجل
عجم
عدر

اعراض (کسفس) ایک چیز سے منہ پھیرنا — چھوڑ دینا اور لینا چاہنا — عرض کرنا — پھیرنے کے پیچھے گرهی کرنا — عورت کا حرام کا بچہ جننا جیسے کہتے ہیں اعرضت المرأة بولدہا — ایک چیز کا ظاہر ہونا جیسے اعرضت الشی فاعرض یعنی ظاہر کیا میں نے اسکو پس ظاہر ہوا — شکار وغیرہ کا حاصل ہونا شکاری کے تیر پھینکنے کے لیے — ہرن کا سینہ کھڑا ہونا —

عریض اور وسیع لانا —

اعراف (فسفس) ایک قسم کا کھجور کا درخت جنت و دوزخ کے درمیان ایک درجہ ہے سب سے اونچی ہوا

اعراف (کسفس) ایال کا لمبا ہونا

اعراق الدلو ڈول کو ... اعراق عراق میں جانا — موسم گرم میں ... عرق ہونا — درخت کا جڑ پکڑ جانا — ... کا سخت ہونا —

اعراک (کسفس) عورت کا حائض ہونا

اعران (کسفس) گوشت کے کھانے پر ہمیشگی کرنی — کسی کشتی بچوں کی ساقیں ... ہوئی کسی

... کے لوتھڑوں میں خارش پڑ جانی —

اعرب (فسفس) تازی نژاد گھوڑے کا بچہ

اعرج (فسفس) بہت لنگڑا — عرج (ضس) عرجان (ضس جمع) کوا —

اعرف (فسفس) بہت ایال کا گھوڑا ایال والا سانپ — عرف (ضس) جمع ہر چیز کہ جسکے ایال ہو وے —

اعرم (فسفس) ہر چیز جسکے لب پر سپیدی ہو وے جیسے سپیدی کے سیاہی ... — عرم (ضس) جمع — عرامین ... جمع — وقطیع اعرم بھیڑ اور بکری کا ریوڑ ملا ہوا — مرد عقنہ نکلا ہوا — عرمان (ضس) جمع — پانی کے جمع ہونے کی جگہ — شکوار — پرندہ کا انڈا —

عرمان (ضفس) جمع —

اعرنجاج (کسفس) کام میں کوشش کرنی جہد کرنی —

اعرنجام (کسفس) تباہ ہو جانا

اعرنزام (کسفس) سمٹنا اور منقبض ہونا —

اعرنفاز (کسفس) سردی سے قریب ہلاکت کے پہنچنا —

اعرنقاظ (کسفس) ہلاک ...

۲۸۱

۱۲

مادہ | علامات اعراب فتحہ کسرہ ضمہ ض ضمہ ف فتحہ ک کسرہ س سکون ت تشدید م

عرر
عرو
عری
عرب
عرج
عرر
عرز
عرس
عرش
عرص

۲۸۳

رَجُلٌ اَعَرُّ خارش ناک آدمی سے

حمارٌ اَعْرَت رکھے سینے کا گدھا جَمَلٌ

اَعْرَت بیکار گردن کا اونٹ۔

اَعْرَاء رکسقسم چھوڑ دینا۔ عمارت دینی۔ کسی سے دور ہونا۔ کوزہ وغیرہ کا دستہ بنانا۔

اَعْرَاء رکسقسم ننگا کرنا اور کپڑے اوتار لینے جیسے اعْرِلَهُ الثَّوبَ عَنْهُ

اعراء کسی کو ایک سال کے کھجور کے پھل دینے۔ میدان اور کھلی جگہ اونٹ میں جگہ پکڑنی اور سیر کرنی۔

اَعْرَاب رکسفس آشکارا کرنا اصلاح کرنا۔ کلام کو ظاہر کرنا گھوڑے کا دوڑنا۔ گھوڑے کو تیز کرنا آواز سے عربی غیر عربی گھوڑے کو پہچان لینا اور اوسمیں مہارت کرنی تازی گھوڑوں والا ہونا۔ کلام کو درست کرنا۔ مرد کے بیٹا ہونا عرب کے رنگ پر۔ مجہولاً مستعمل ہے۔ برا کہنا۔ برے کہنے سے روکنا لغات اضداد سے ہے۔ نکاح کرنا یا نکاح کی تعریض کرنا۔ عروب یعنی عورت حسین خاوند کی دوست یا عورت نافرمان یا خاوند کی عاشق یا زبردستی خاوند کو دوست رکھنے والی اور اسباب کی آشکارا کرنے والی۔ یا ہنسوڑ سے نکاح کرنا۔ عجمی کلام کو عربی کرنا۔

اعراب رسفس عربی جنگل کے رہنے والے۔

اَعْرَاج رکسفس کسی کو اونٹوں کا گلہ دینا۔ لنگڑے اونٹوں کا مالک ہونا۔ بوقت غروب آنا لنگڑا کر دینا۔

اَعْرَار رکسفس گھر کا پلیدی بھرا یعنی گندہ ہو جانا۔ اونٹ کو چھوٹے کوہان کا کر دینا۔ خارشی کرنا۔

اَعْرَاز رکسفس تباہ کر دینا۔

اَعْرَاس رکسفس عروسی کی مہمانی کرنی جشن کرنا۔ جورو کو گھر میں لانا اور اوس سے خلوت کرنی جیسے اَعْرَسَ بِاَهْلِهٖ۔ آخر شب میں استراحت کے لیے قوم کا اوترنا۔ جماع کرنا۔ ایک چیز کو لازم پکڑ لینا۔

اَعْرَاش رکسفس عریش بنانا۔

اِعْرَاش رکسفس جمع عرش۔

اَعْرَاص رکسفس اونٹوں کا پراگندہ و مضطرب ہونا۔

علامات اعراب ض ضمہ ف فتحہ ک کسرہ س سکون ت تشدید

| مادہ |
| --- |
| عسی |
| عسب |
| عسج |
| عسر |
| عسف |
| عسل |
| عسم |
| عسن |
| عسو |

(ضسفس) معازیل (فسکس جمع)

اعسس ... سہر کیا لائق اور سزاوار

اعساب (کسفس) بھیڑیے کا دوڑنا اور اوسکا بھاگ جانا

اعساج (کسفس) اونٹ کے بڑھاپے کے سبب رفتار میں جھکنا یعنی گردن نکال کر چلنا

اعسار (کسفس) محتاج ہونا تنگ دست ہونا - قرضدار سے اوسکی تنگدستی کے وقت قرض مانگنا - عورت پر بچے کا جننا دشوار ہونا - پہلے سال میں اونٹنی کا حمل نہ قبول کرنا -

اعساف (کسفس) کسی کے اوپر موت کی سانس چلنی - قریب المرگ اونٹوں والا ہونا - غلام کو سخت کام میں رکھنا - بے راہبر ودلیل راہ رات کو چلنا - بڑے پیالہ میں پینا لازم پکڑنا -

اعسال (فسفس) اطوار روش -

اعسام (فسعس) اندام

اعسام (کسفس) ہاتھ یا پاؤں کج خشک کرنا - آنسو بہانا - آنکھ بند کرنی - شہر مطبوع کو دینا -

اعسان (فسعس) نشان آثار - ایک چیز کی جگہ - الواح ...

اونٹ کے اضلاع - اعسان الارض باقی رہی ہوئی خشک لکڑی - درخت کی جڑ لور تنہ شاخ -

اعسان (کسفس) زمین کا تھوڑی سی گھاس اوگانی -

اعسر (فسف) بھیجا چربائیں ہاتھ سے کام کرے - دشوار سخت ہوں یا برا دن - کبوتر جسکے بائیں بازو میں سپیدی ہو -

اعسم (فسف) مرد جسکے خشکی کے سبب ہاتھ پاؤں کج ہوں -



| |
| --- |
| عشی |
| عشب |
| عشر |
| عشر |

۱۲

اعشا (کسفسم) عشا کہلاتی - عشا بخشنی -

اعشاب (کسفس) زمین کا ہرا گھاس کو اوگانا - گیاہ ناک ہونا - قوم کا تر گھاس پر پہنچنا - اونٹ کا تر گھاس کو چرانا اور اوس سے بے پروا ہونا - کسی کو بڑی عمر کا اونٹ دینا -

اعشار (فسفس) پارہ پارہ دل ٹوٹا ہوا - ہانڈی جسکے دس ٹکڑے ہو گئے ہوں - اعشار عشیر (فسکس) کی جمع - یا بڑی ہانڈی جو کم دس آدمیوں سے نہ اوٹھ سکے

ا ودمتفق ہونا۔ لع و پیچ ہونا۔
اَعْزَنکَاس (کسفس) جمع ہونا
ایک چیز کا اوپر تلے بیٹھنا۔ بال کا
سخت سیاہ ہونا۔
اَعْرِواش (کستقس) چوپایہ پر سوار ہونا
اَعْرِیرا (کستفعس) اکیلا جانا۔
برہنہ گھوڑے پر سوار ہونا۔ برے
امر کا مرتکب ہو جانا۔
اَعْرِیراف (کسفعس) بدی کے
لیے آمادہ ہونا۔ دریا کا لہر لینا۔
عمل خرما کا گفتار کی ایال کی مانند
دلدار اور مدہم ہو جانا جیسے کہتے
ہیں اعرورف النخل۔ خون کا جھاگ
لے آنا۔ گھوڑے کی ایال لمبی
اور بلند ہونی۔ خرما پر چڑھنا۔
اَعْزَ (فقت) بزرگ۔ ارجمند۔
کمیاب۔ طویل و استوار۔
اَعْزَاب (کسفس) دور ہونا۔
دور کرنا۔ لازم و متعدی دونوں
آتا ہے۔ معنے گئے ہوئے اونٹوں
والا ہونا۔ دور گھاس پر جا پہنچنا۔
اَعْزَاز (کسفس) ارجمند۔ قوی
کرنا۔ اونٹنی کے تھنوں کی

ہو تی سخت زمین پر پہنچنا۔ کسی کو
دوست رکھنا۔ بکری کا گابھ نمایاں
ہونا۔ اور بکھ کا بھاری ہونا۔ کار و
بار دشواری سے اوٹھانا۔ بزرگ گننا
غم کا کسی پر بزرگ آنا۔
اَعْزَاف (کسفس) رسی جیسے میں
کھجور کے پتوں کی آواز سننی۔
اَعْزَال (فسفس) جمع اعزل (فسف)
و عزل (مس) کی۔
اَعْزَان (کسفس) کسی کو مقام سمیت
میں شریک کرنا پس ہر ایک کا بعد تقسیم
کے اپنا حصہ لینا۔
اَعْزَب (فسف) مجرد آدمی۔
اَعْزَل (فسف) جدا گانہ ریگ تو دہ
یعنی الگ کو پڑا ہوا ریت کا ٹیلہ۔
ٹیڑھی دُم کا چوپایہ۔ عادۃً نہ خلقۃً
اور یہ عیب ہے نہ منہ کا اسر یعنی ایسا
کہ رسائی ہو۔ شخص نمائب کا حصہ
گوشت کا۔ دو سماک ستاروں میں
سے ایک ستارہ جسکے ایک سرین
کی ہڈی ناقص ہو وے۔ نسے ہتھیار
سے نہتھا مرد۔ عزل (منس) اعزال
(فسفس) عزل (فقتف) عزلان

کیا جانا لڑکی کا حائض ہو نیکے وقت
اعتصاف (سغس) کھیت کا پتّا
نکال لانا۔ ہوا کا سخت چلنا۔ ہلاک
کرنا۔ ہلاک ہونا۔ سرعت سے چلنا
گھوڑے کا۔ اونٹوں کا پانی کے
حوض میں کوئیں کے گرد اکٹھا ہونا
اعتصام (سغس) کسی کے ہاتھ
کو مضبوط پکڑنا۔ گھوڑے کی ایال کو پکڑنا
اونٹ کی رسن پر ہاتھ مارنا اور مضبوط
پکڑنا۔ مشک کے لیئے عصام بنانا
گھوڑے پیقرار اور ثبات نہ کرنا۔
مشک کو عصام سے باندھنا۔ کجاوہ
یا زین پر ایک ایسی چیز بنانی کہ سوار
گرنے سے بچنے کیلیئے اوس پر ہاتھ رکھے
اوس چیز پر گر پڑنے کے خوف سے
ہاتھ رکھنا اپنے یار و رفیق کے ملازم رہنا
اعتصان (سغس) کام کا کج
اور دشوار ہونا مشکل ہونا۔
اعتصح (سغس) امرد جسکے سر کے
آگے کے بال نہ اگے ہوں صاف یک
چھڑا ای ہوئی سنان۔
اعتصل (سغس) کج جو صلابت
اور سختی کے ساتھ ہو عصال کی جمع

جسکی پنڈلی کج ہو جسکے دانت کج
ہوں۔ کسی چیز کا ملازم رہنا جبکہ ایک
چیز پر مائل ہو۔ عصل عضو الحج
اعصم (سغسف) ہرن اور بز کوہی
کہ ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ
سفید اور سارا بدن [illegible] یا سرخ ہو
عصامہ (سغسف) ہونٹ سرخ یا زرد
اور سرخ چونچ کا کوّا یا کوّا جسکے پاؤں
میں سپیدی ہوں یا کوا جسکے دونوں
بازوؤں میں کوئی نشان سپید ہوں۔
اعتصیصاب (سغسف) ا[illegible]
بمعنی کوشش کرنا۔ قوم کا جمع
ہونا اور عصائب اور جماعت ہونا
شر و فساد کا سخت ہو جانا۔ [illegible]
اعتصیلال (سغس) ہاتھ [illegible]
اعتضاب (سغس) کسی کے
سینگ توڑنے۔ اونٹنی کے کان چیرنے
اعتضاد (سغس) ہیکلوا تیں میں جانا
اعتضاد الحوض پتھر اور دیوار
جن سے کوئیں کی پنڈلی بنائے
ہیں ایسا ہی اعتضاد الطریق۔
اعتضاض (سغس) ہاتھ سے
کنٹھوا۔ تلوار سے مارنا۔ کاٹنے

285

علامات اعراب ضمه کسره فتحه ص ضمه ف فتحه ک کسره س سکون تّ تشدید م

ماده: عشر، عشس، عشو، عصب، عصر، عصم، عصف، عصو، عصب — ۸۴

اَعشار (الجزور) قربانی کے اونٹ کے حصے

اِعشار (کسفس) اونٹنی کا عشرا ہونا۔ ایک عشرہ پنے والے اونٹ کا مالک ہونا۔ قوم کا دس شخص ہونا۔

اِعشاش (کسفس) زمین خشک میں پہنچ جانا۔ کسی کو اوسکی حاجت سے پھیر دینا یا ابعد کر دینا۔ جیسے

اَعشَس علانا عن حاجتہ۔ برخاستہ کرانا۔ آہو کا مے آرام کرنا۔ سلعد اونکی منزل میں اوترنا تاکہ اون پہ جگہ تنگ ہو جاوے اور وے وہان سے کوچ کرین۔ بدنکوا اغرو نزا کردینا

اِعشاف (کسفس) بیمار ہونا۔ بدہضم ہو جانا۔ پلید و مکروہ جاننا۔

اَعشَم (فسف) احمق۔

اَعشَم (فسق) ہر ایک دو رنگ جو آپس میں ملے ہوئے ہون جیسے بوڑھاپے کے سبب تو ندا آوے۔ درخت جو گرد و غبار کے سبب سے خشک ہو گیا ہو۔

اَعشیٰ (فسف) جسے رتوندا ہو جیسے کہ رات اور دن میں کم دکھائی دیوے۔ یا نابینا۔ اعشوی منسوب ہے اعشیٰ کیطرف۔

اِعشیشاب (کسکسفس) زمین کا گھاس کو اوگانا۔ قوم کا ترگھاس پر

اِعصاء (کسفسم) چوب انگور کا شگوفہ آنا اور پھل نہ لانا۔

اِعصاب (کسفس) سیرین کو سختی سے کرنا

اِعصاد (کسفس) لڑنا۔ جنگ کے لیے اپنا گدھا عاریت دینا۔

اِعصار (کسفس) اسم بگولا وہ ہوا جو ابر اور رعد اور برق کو برانگیختہ کرے یا آتش دار ہوا۔ جیسے مثل ہے کہ اِن کُنتَ رِیحًا فَقَد لاقَیتَ اِعصارًا۔ اوس شخص کے حق میں کہتے ہیں کہ اپنے سے قوی شخص سے ملاقی ہووے یعنی اگر تو ہوا ہے تو تو نے ملاقات کی اعصار سے۔ سخت ہوا گرد ملی ہوئی۔ اعاصیر (فففسکسج)

اِعصار (کسفس) مصدر قوم کا باران رسیدہ ہونا۔ مجہول آ ہو وقت عصر میں آ جانا۔ عورت کا جوانی کو پہنچ جانا۔ لڑکی کا بلوغ کو پہنچنا اور حیض میں داخل ہونا یا بیس برس کی عمر کے قریب پہنچ جانا یا بچہ جننا یا قید

أعظام (بکسر) بزرگ کرنا
بزرگ کہنا - بزرگی کے ساتھ صفت
کرنی کسی کو بزرگ دیکھنا
کو بڑی کہلانی -

أعظامة (بکسر) ایسا تکیہ
جسے عورتیں بڑا دکھانے کے لیے
سرین پر باندھتی ہیں -

أعظم (بفتح) بزرگ یا بڑا
افعل التفضیل کا صیغہ ہے -

أعفاء (بکسر) پاک وبہرا کر دینا
اونٹ کے بالوں کا انبوہ دار کرنا
اچھے مال کا لفظ دینا - خدا تعالی
کا رنج وبلا سے بچانا

أعفاص (بکسر) برتن کے لیے
سر بند بنانا - برتن پر سربند باندھنا -

أعفاق (بکسر) بچے کے پیٹ
بچے بکری کے تھنوں میں دودھ
باقی رہنا - پارسا کر دینا - کسی کو
حرام سے روک دینا -

أعقاق (بکسر) اپنے حاجت
اکثر آمد ورفت کرنی -

أعقان (بکسر) سوراخ دار
چمڑے والا ہوتا -

أعجف (بفتح) الحق بمعنی مرد جو بائیں
ہاتھ سے کام کرے - جو کہ بائیں
ہاتھ سے ... کرے -

أعفت (بفتح) جو کہ اکثر ...
یا وہ کہ جب وہ بیٹھے تو اوسکا سر ...
غائب ہے - بیہودہ بکنے والا مرد -

أعفج (بفتح) بڑی ... کشادہ
... مالا مرد - تندخو -

أعفر (بفتح) سپید جسکی ...
جسکی سپیدی پر سرخی غالب ...
جسکی ...
کچھ سپید ہو ...
سرخ ریت - ...

أعقف (بفتح) ...
مرد جو بائیں ہاتھ سے کام کرے
لمبا آدمی ...
... اور ہر کام کو شروع کرنے
اور اوسکو تمام ...

أعقاس (بکسر) ... دشوار
خوی اور بدخلق ہو جانا -

أعقاد (بکسر) سخت ...
ایک چیز کا - ایک چیز کو اوسکی تلخی کے
سبب تنفر سے ... دینا -

اور جھڑ درخت کا کھلنے والے اور اون کا بالا ہونا۔ کو تین کا گھر اور بہت پانی والا ہونا۔ عین کا فتح اور کثیر المعز ہونا

اَعضال (ض س) کسی پر کام کا سخت ہونا۔ جیسے اعضل الامر بہ۔ چھنا و شمار ہونا۔ ہکا اور عاجز کر دینا۔ بیماری کا طبیب کو عاجز کر دینا۔ کسی سے ناخوش ہونا۔ خوش رکھنا۔ تنگ آنا۔

اَعضاہ (ض س) زمین کا درخت عضا کثیر کانٹے دار درخت کو اوگانا۔ قوم کا عضاہ خار دار شتون والا ہونا۔ چھوٹ گھڑنا۔ بہتان کرنا۔

اَعضب (ض ف) جسکے مددگار کم ہوں۔ سست۔ وہ مرد جسکا بھائی مرگیا ہو۔ مرد جسکے بھائی نہو۔ تنہا کہ کوئی مددگار نہو۔ عروض میں ایک تصرف ہے یعنی مفاعلتن کے میم کو گرا دیتے ہیں تو فاعلتن رہ جاتا ہے پس مفتعلن کیطرف نقل کر لیتے ہیں۔ کان چیرا ہوا۔

اَعضد (ض ف) باریک بازو والا جسکا بازو چھوٹا ہو۔

اَعضئلال (ض س ک ف) بھر جانا۔ درخت کا بہت اور لپٹے ہوئے ہونا۔

اور شاخ کا ہونا۔

اَعط (ف ف) لمبا مرد۔

اَعطاء (ض س) تسلیم۔ لینا دینا۔ عطا کرنی۔ گردن کہنی۔ دعا کو قبول کرنا۔

اَعطاب (ض س) ہلاک کرنا۔ کسی پر نہایت غصہ کرنا۔

اَعطاش (ض س) مرد کا پیاسا پانا۔ پیاسے چوپایہ والا ہونا۔ کسی کو پیاسا کرنا۔ اونٹوں کی مدت پیاس پر زیادہ کر دینا اور اونکو پانی پینے کی جگہ سے روکنا۔

اَعطال (ض س) خالی کرنا۔ کسی چیز کو چھوڑنا۔

اَعطان (ض س) پانی کے پاس اونٹوں کا بند کرنا۔ اور پانی پلا کر اونکو عطن میں بٹھانا۔ یا اونٹوں کو خوراک کی طرف بغیر پانی پئے پھیر لانا اور دوسرے انتظار۔ اونٹوں کا عطن میں چھوڑ دینا۔ عاطنہ اونٹوں والا ہونا۔

اَعطر (ض ف) زیادہ خوشبو والا۔

اَعطار (ض س) امتلاء شراب کا۔ کسی کو دکھ دینا اور اوس سے گران مکرم ہونا۔

اَعطاظ (ض س) صاحب عظاظ کر دینا۔

علامات اعراب ضبط کلمہ کے مقابل ضمہ فتحہ کسرہ سکون تشدید

اِعکام (کسفسم) مرنا اور مضبوط باندھنا
اَعکاب (کسفس) آگ کا بہت
دھوئیں والا ہونا -
اِعکاد (کسفس) کسی کے طرف پناہ لینا
اِعکار (کسفس) بات کا بہت کالا
ہونا اور اسکی سیاہی کا عیب پیدا ہونا -
گدلا کرنا پانی کو شراب وغیرہ کو گاڑھا
بہر لگنا کھوپان کا چرنی بہرا ہونا -
اونٹ کے گلہ والا ہونا -
اِعکاک (کسفس) رنگ رنگ کا
دوسرے رنگ سے بدلجانا -
اِعکال (کسفس) کام لوگ مشتبہ
کسی پر دشوار ہونا - اونٹ کے زانو کو باندھنا
اِعکام (کسفس) بوجھ لادنے
میں مدد دینی -
اَعکب (فسف) مرد جسکے ہونٹھ
اور دانت گدلا اور ٹیڑھا ہون -
اَعکلی (فسف) جسکی دم کی جڑ
سخت ہو جسکے دونوں پہلو ملا
اور سخت بگاڑ ہون -
اِعلاء (کسفسم) ایک چیز سے اونچا
کنارہ کشی کرنی - بلندی پر چڑھنا
بلند کردینا - عالی میں داخل ہونا -

اَعلاج الناس جو چیزکہ لوگوں نے سنبھال
اونٹنے تجارت کمائی جاوے -
اَعلاج الشجر چوب آتش زنہ
لکڑے اور سوکھی گھاس کے
ٹکڑے آپس میں بٹے ہوئے -
اِعلاز (کسفس) کسی کو عاجز و بے
قرار و بے آرام کردینا -
اَعلاط الکواکب روشن ستارے
جن کا کچھ نام نہیں -
اِعلاف (کسفس) چوپایہ کو چارہ
دینا - درخت طلح کا علقہ نکال لانا -
اِعلاق (کسفس) جونک کو بدن پر
چپکانا کہ خون پی کر بوجھ نکلے
... - سبلا اور علق لانا - ڈول کی ...
سے ... اونٹ کو ... لینا - کوڑے
اور کمان وغیرہ کے لیے علاقہ بنانا -
شکار کو پھندے میں ڈالنا - ایک چیز
میں چنگل مار کر چمٹ جانا - عورت کا
بچے کو بیت الخلا میں سے لوٹانا -
اِعلال (کسفس) دوبارہ پانی پیتے
ہوئے اونٹوں کا مالک ہونا - دوبارہ
پانی پینا - بیمار کردینا - اونٹ کو نے
سیراب ہونے پھیر لانا -

مادہ
۲۸۹
علط
علف
علق
علل
۱۲

اعقاب (ر ک س) ایک دوسرے کا
پیچھے باری باری سوار ہونا یا باری سے کسی
کے ساتھ بھیجنا [illegible] اولاد چھوڑ دینی
[illegible] ایک [illegible] چھوڑ جانا عاریت
مانگی ہوئی [illegible] کر کسی کے ساتھ
پھیر دینا، اپنا حق اور ایک چیز کا بدل
کسی سے لینا۔ [illegible]
[illegible] کرنے میں اہل عرب کا
[illegible]
جیسے جوف امر حادث [illegible] کا پھیر آنا
کسی کا جانا اور اپنے پیچھے بیٹا
چھوڑ جانا [illegible] ستارہ کے غروب
کے بعد طلوع کرنا [illegible]
پھیرنا [illegible]
اعقار (ر ک س) کسی چیز کو بخشش
دیکر [illegible] کرنا۔
اعقار (ر ک س) ایک درخت ہے
اعقار (ر ک س) رحم کا بیمار کرنا
- عورت کا [illegible] کرنا جس سے [illegible]
نہ ہو۔ کسی کا پاؤں اور زمین [illegible]
کسی کو [illegible]۔
اعقاق (ر ک س) اونٹنی کا حاملہ
ہونا۔ کھجور کا عقّان (ر ک س)

[illegible] لانا۔ عقوق والدین کرنا [illegible]
کر دینا۔ گھوڑی کا گابھن ہونا۔
اعقال (ر ک س) عقلمند پانا۔
کسی پر عقال کا واجب ہونا آدمی کا
دوپہر کو سایہ میں آ جانا۔
اعقام (ر ک س) بانجھ کر دینا۔
اعقد (ر ف) جسکی زبان کلام کے
وقت گرہ بستہ ہو [illegible] لپٹا ہوا کتا
اور بھیڑیا۔ وہ کہ جسکا سینگ گرہ دار
ہو گیا ہو [illegible] کمینہ لئیم۔
اعقر (ر ف) [illegible]
اعقص (ر ف) وہ کہ جسکا سینگ
پیچھے سے کان کے گرد گھوما ہو
جسکی انگلیاں ایک دوسرے پر لپٹی
ہوں جسکے اگلے دونوں دانت
منہ میں اندر گھس آئے ہوں۔ [illegible]
میں مفاعلتن کا لقب کہ مفعولن کی
طرف رد ہو جاوے۔
اعقف (ر ف) فقیر محتاج [illegible]
[illegible] اعرابی [illegible] ٹیڑھی [illegible]
اعقل (ر ف) اونٹ جسکی ٹانگیں
[illegible] مڑی ہوئی ہوں۔
اعقنفاس (ر ک س) [illegible]

عمر بھر کے لیے دینی جیسے سرا اور زندگی وغیرہ اور وہ اس طرح پر ہوتا ہے کہ کسی سے کہیں کہ یہ گھر تیرا ہے جب تک تو زندہ ہے یا میں زندہ ہوں۔ عمرہ کے ادا پر مدد کرنی۔ مرد کا اہلیہ سے بکارت کرنا عورت کے گھر میں۔

**اعماس** (کسعفس) ناپدید کرنا۔ ایک چیز کو پوشیدہ کرنا۔

**اعماق** (کسعفس) گہرا کر دینا۔

**اعمال** (کسعفس) اپنی رائے اور دانش سے کرنا۔ کام میں لانا۔ کام کا حکم دینا۔

**اعمام** (کسعفس) بہت چچوں والا ہونا۔ چچا ہو جانا۔

**اعمان** (کسعفس) عمان کی طرف جانا۔ عمان میں داخل ہونا۔ ایک جگہ ثابت رہنا۔

**اعمش** (ضسعف) سست بینائی والا جسکی آنکھ بیماری کے سبب پانی بہاوے۔

**اعمشی** (فسفکت) اعمش کی طرف منسوب۔

**اعمی** (فسعف) نابینا اور کور عمیان (ضسفضم) مونث عمیا (ضس) جمع نابینا۔

**اعما** (فسفکم) جمع۔ لنبے قد کا آدمی عرب میں بستے ہیں تصغیر اعمیا۔

لیتے میں سے اوس سے سخت ہو پھر میں ملاقات کی۔

**اعمیا** (کسعفسم) نابینا ہو جانا۔

**اعمیان** (فسفعس) نا لڑکی اور آگ سے جلا ہوا یا نیا ۔ اور اونٹ جو جفتی کے لیے تیز ہو گیا ہو۔

**اعنا** (کسعفسم) اعنا کر دینا (گرا) زمین کا گھاس کو اکھاڑ کرنا۔ رنج دینا۔ سرنامہ لکھنا۔ کتاب میں نشان کرنا۔ قیدی کو قید میں رکھنا۔

**اعنات** (کسعفس) رنج دینا (شدا) کام میں ڈالنا۔ پیوند لگے ہوئے کو پھر توڑ ڈالنا۔

**اعناج** (کسعفس) کام کو مضبوط کرنا۔ وعدہ کا ثبت والا ہونا۔ سوار کا اونٹ کی مہار کو کھینچنا تاکہ پیچھے کو ہٹے۔

**اعناد** (کسعفس) پے در پے قے کرنی۔ پسینے کا اتنا جاری ہونا کہ خشک نہ ہووے۔ کسی کے ساتھ موافقت پر معارضہ کرنا۔ یا مخالفت کہ معارضہ کرنا۔ لغات اضداد سے ہے۔

**اعناز** (کسعفس) مائل کر دینا۔

مادہ

عمر
عمس
عمق
عمل
عمم
عمن
عمش
عمی
عنو
عنت
عنج
عند
عنز

اِحْلَامٌ (سُخَمَسَ) آگاہ کرنا لگائی میں نگین کپڑا۔ تھوڑے رنگ لشکریوں کا نشان اپنے اوپر لگانا دھوبی کا کپڑے میں نشان کرنا۔

اِعْلَانٌ (سُخَمَسَ) آشکارا کرنا۔ آپس میں ظاہر کرنا۔

اَعْلَمُ (سُنَف) بہت جاننے والا زیادہ دانا۔ بہت جانکار۔

اِعْلَنْبَاءٌ (سُکَسَعَم) مرغے کا لڑائی کے لیے آمادہ ہونا اور بالوں کو پھیلانا کتے کا بھی کے لیے آمادہ ہونا۔

اِعْلِنْدَادٌ (سُکَسَعَم) اونٹ کا گولدار اور سخت گوشت اور اوسکا سخت اور مضبوط اور قوی ہونا۔

اِعْلَنْكَاسٌ (سُکَسَعَس) بالوں کا نہایت کالا ہونا مضطر اور متردد ہونا۔

اِعْلَنْكَاكٌ (سُکَسَعَس) بالوں کا بہت ہونا اور جمع ہو آنا۔

اِعْلِوَّادٌ (سُکَسَعَس) سخت ہونا۔ گران مایہ اور باوقار ہونا۔

اِعْلِوَّاطٌ (سُکَسَعَس) اونٹ کی پیٹھ پر گردن کی طرف سے بیٹھنا۔ یا ننگی پیٹھ پر اونٹ کے اوپر سوار ہونا۔

سوار ہونا۔ کسی کے ساتھ چمٹنا۔ سر لگا گرفت کر دینا۔ کسی کا لازم ہونا۔ اپنی گمان سے ایک کام کرنا۔ ایک کام میں بے تامل ورنے اندیشہ داخل ہونا۔ پانی کا اونٹنی پر ضبطی کے لیے چڑھنا۔

اِعْلُوطٌ (سُنَف) نشان۔ علامات

اَعْلٰى (سُنَف) بلند۔ ہر چیز کا قد۔

اِعْلِيطٌ (سُکَس) پیچ کی شاخ۔ مرغ تیغی چوب کی لکڑی کا پھل جو بادام کے پوست کے مشابہ ہو یا اوسکا تیا۔ گردن شتر کی چوڑائی کا نشان۔

اِعْلِيلَاءٌ (سُکَسَعَم) بلند نکلنا بلند مرتبہ ہونا۔ کسی پر چڑھنا۔

اَعَمُّ (سُنَف) بہت سے گروہ۔ ہر چیز سخت گولدار۔ لمبے قد والا۔ عام زیادہ

اِعْمَاءٌ (سُنَعَم) ویران زمین بنانے عمارت اور نئے آدمیوں کے آباد کرنے میں مبالغہ ہے۔

اِعْمَادٌ (سُعَس) ایک چیز کے ستون لگانا۔ کسی کو سست کر دینا۔

اِعْمَارٌ (سُعَس) کسی کو ایک جگہ کا تخفیفہ کر دینا۔ زمین کو آباد کرنا۔ کسی کو بے نیاز و غنی کر دینا۔ کسی کو ایک چیز

دشوار ہو جانی جیسے اعوزہ الشیٔ
نیاز مند کر دینا۔ حاجتمند کر دینا۔

اَعواص (کسفس) کسی پر دشوار
مجتنین لاتی جیسے اعوص علیہ اعواصًا
دشمن پر کام کو پیچیدہ دکھانا۔ کلام
دشوار معنے بولنا۔

اَعوال (کسفس) بہت عیال دار
ہو جانا۔ گریہ میں آواز کو بلند کرنا۔ آواز
کرنی۔ کسی پر ناز کرنا امداد سپرد
رکھدینا۔ حریص ہو جانا۔ بہت گھر والا
ہو جانا۔ کمان کا آواز کرنا۔

اَعواہ (کسفس) بھیڑیا بچہ کرنا

اَعوج (صفت) بد خو شیر یا گھوڑا
جسکے دونوں پاؤں میں کجی ہو۔
عوج (صفت) جمع۔

اِعوجاج (کسکفس) ٹیڑہا ہونا

اَعود (صفس) زیادہ سود مند اور
نفع دینے والا۔

اَعور (صفف) کانا مرد۔ عوراء
عوران (صفس) عیران (کسفس جمع)
کور اس چیز کا رست نبدل
کند خاطر یعنی بجھا بجھا آدمی۔ افسردہ
دل غم سے خیر و برکت رسید ہی ہا

اور توفیق راست روی کی نہ پاوے
بدراہی کا راہنما۔ سمی پہونی کتاب
بغیر کوہان کے کا سوار۔ بر بغیر
کا۔ پھیر دیا ہوا۔ حاجت سے روکا
ہوا۔ مطلوب کو نہ پہنچا ہوا۔ عوران
(صسفس) جمع۔ جیسے سر میں جوان
کے انڈے ہوں لیکھیں۔

اعامد (فسک) جمع۔ رالاعیس میں
علم ونشان کچھ نہو۔ اور یہ شل
بدل اعور عطا۔ اوس شخص کے حق میں
کہتے ہیں جو نیک سیرت ہو اور نیک
سیرت کی جگہ پر قائم ہو۔

اِعوار (کسکفس) کانا ہونا۔

اَعوس (صسف) مرد جس کا منہ
دہن وقت خندہ کے اندر کو گھس
جاوے۔ زنگ کو صاف کرنے والا۔
تلوار چھری وغیرہ کو جلا دینے والا۔

اَعوص (صسف) بہت جسکے معنی
دشوار ہوں۔ عوص (صن) جمع۔

اِعویراء (کسکفسم) کانا ہونا

اِعہاء (کسفسم) آفت رسیدہ
اونٹوں والا ہونا۔

اِعہاد (کسفس) سپرد کرنا ہونا

مادہ: غمس — غمص — غمط — غمف — غمق — عنق — عنک — غمم — غمن — غور — غوز — غوز



اغماس (کسفعس) لڑکی کا گھر مین دیر تک نہ نے جاوند رہنا۔ کلام باطل کا آدمیون کے چہرہ کو متغیر کر دینا۔

اَغماص (کسفعس) سر مین تھوڑے سے بال اور پراگندہ رہجانے۔

اَغماط (کسفعس) اپنے قد کے مٹے جانے۔

اَغماف (کسفعس) سخت کرنا ایک کلام کو سختی کے ساتھ لینا۔

اَغماق (کسفعس) کسیکی گردن مین گردن بند ڈالنا۔ کھیتی کا لینا ہوا اور اسکا خوشہ نکال لانا۔ خرما ستارہ کا نہان ہونا۔ ہوا کا خاک کو اوٹھانا۔ گردن بند بنانا۔ چوپایہ کا عنق رفتار پر چلنا۔ چوپایہ کو عنق پر ہانکنا۔ ایک چیز کو اونچی گردن کر کے

اَعناق الرِّیح غبار جو اونچا اور بلند ہو گیا ہو۔

اَعناک (کسفعس) دروازے کو بند کرنا۔ کپڑے کی سوداگری کرنی بہت ریت مین جا پہنچنا۔

اُغمام (کسفعس) چوپایہ کا عمر …

اُغمان (کسفعس) درخت کی … اطراف مین آسمان کی جوانب و نواحی اور جو چیز اسکی اطراف مین سے نظر آوے

اعنان الشیاطین شیطان کے اخلاق اور طبیعتین ہے

اعنان (کسفعس) کسی پر قاضی کا فتوی نامردی کے لیے کیا جانا۔ یا کسی کا جادو کے سبب عورتون سے رکا جانا۔ یہ لفظ ان دونو معنو مین مجہول مستعمل ہے۔ لگام کی عنان بنانی گھوڑے کو باگ سے روکنا۔ ایک چیز کا پیش آنا۔

اَعنف (فسعف) بڑی ناک والا

اَعنش (فسعف) اچانگا یعنی چھہ اونگلی والا آدمی۔

اَعنق (فسعف) لمبی گردن والا ایک گھوڑا جسکی طرف گھوڑون کو منسوب کرتے ہین سپید گردن کا

اَغوار (کسفعس) کسی کا غار کو دیکھنا۔ آشکار ہو جانا ستاروں۔ وقوع کو دینا۔ کسی کو کچھ نا دیتا دینی سا خوف ہونا

اَغواز (کسفعس) درویش ہو جانا جیسے اعوز الرجل اعوازاً۔ ایک چیز کی طرف محتاج ہونا اور اوسکو وہ چیز

أغماتیر (کفسف) جھنڈ سے کر تھر آ کرنا ۔ سایہ کا جگہہ پر ٹھہرنا ۔

اغماء (کسقسم) تھوڑا سا برسنا ۔

اغبائب (کسفس) تپ کا نوبت سے یعنی دن بیچ کر آنا ۔ ایک دن بیچ دیکر کسی کے پاس آنا ۔ گوشت کا بدبودار ہو جانا ۔ کسی کے پاس رات گذار دینی ۔ ایک دن بیچ دیکر اونٹوں کو پانی پلانا ۔ یکلخت ۔ بیچ دیکر کہیں جانا ۔

اغباب (فسفس) پانی جو دور ہو ۔ خانہ میانہ ۔ اغاب جمع ۔ کہتے ہیں ۔

اغبار (کسفس) کوشش کرنی ۔ تیرہ رنگ ہو جانا ۔ گرد انگیختہ کرنا ۔ یعنی دھول اڑانی ۔ مینہ کا زمین پر زور سے گرنا برسنا ۔

اغباس (کسفس) تاریک ہو جانا ۔ تیرہ رنگ ہو جانا ۔

اغباش (کسفس) شب کا آخر تاریکی کو پہنچ جانا ۔ یا تھوڑا سا تاریکی کا باقی رہنا ۔

اغباط (کسفس) پشت شتر پر ہمیشہ پالان رکھنا ۔ مینہ کا متصل برسنا ۔ تپ کا ہمیشہ رہنا ۔ گھاس کا زمین کو ڈھانک لینا اور زیادہ سا ہو سبز گنجان پیچ در پیچ ہونا اتنا کہ یہ معلوم ہو کہ ایک دانہ سے اوگی ہے ۔

أغبث (فسفف) خاکستری رنگ کا شیر ۔ ابغث قلب کا ۔

اغبثاث (کسکفس) خاکستری رنگ ہونا ۔

أغبر (فسفف) بھیڑیا ۔

عرق أغبر ۔ ناپائدار اور جاتی رہنے والی رگ ۔ وعام اغبر ۔ قحط سال ۔

اغبرار (کسکفس) دن کا خوب غبارناک ہونا ۔ تیرہ رنگ ہونا ۔

أغبش (فسفف) خاکستری رنگ کا بھیڑیا یعنی گھوڑا ۔ اغبس (غ جمع) ۔

اغبساس (کسکفس) تاریک ہونا ۔ تیرہ رنگ ہونا ۔

أغبش (فسفف) تاریک رات ۔

أغبص (فسفف) آسمین یعنی پوئی ۔

اغبساس (کسکفس) یعنی اغباس ۔

اغتباط (کسکفس) تمنا رکھنی ۔ خوش حال ہونا ۔ نیک حال پر شادمانی کرنی ۔

اغتباق (کسکفس) شام کے وقت کی شراب پینی ۔

اغتبان (کسکفس) ایک چیز کو

ماده

غمی
غبی
غبب
غبب
غبر
غبر
غبر
غبش
غبس
حبس



غبس
غبش
غبی
غبس
غبط
غبق
غبن

مادہ

جیسے اَغمَدَ کسی ناقہ اَغمارًا کسی کا ضامن ہونا۔

اِغمیار (سفعس) سہیل کے دونوں قدموں کے گذرگاہ میں چند ستارے ہیں

اَغیال (سفعس) بہت عیال دار ہو جانا۔ عریض ہو جانا۔

اَغمیح (مفعلک) ایک خبیث سانپ ہے جو منتشر نہیں ہوتا اور افعی کی مانند کودتا ہے۔ اَغمیجات (مفعلفس جمع)

اَغمیط (سفت) لمبی گردن والا جسکے سر اور گردن دونوں اٹھے ہوں۔ کراہت کرنے والا مرد۔ انکار کرنے والا۔ اپنے آپ کو ضبط میں رکھنے والا۔ اپنے آپکو لئے ہوئے۔ بلند محل۔ بڑا اور بلند عزت۔

اَغلیش (سفت) فراخ چشم بہمن (کس) جمع۔ جسکی آنکھ کی سیاہی بڑی ہو اور بڑرگ ہو۔ جنگلی بیل۔

اَغلیتیہ (منسکف) کلام اور کام دشوار جو عاجز کرے۔

اَغماتیر (کفسف) عورت کا خاوند غائب ہونا

اَغماشیر (کفسف) اقربا دیکھ پہنچنا

اَغمارہ (کفسف) لوٹا کھسوٹ

لینا جیسے اَغمَدَ علی القوم کسی کے پاس آنا تاکہ اوسکی مدد کریں جیسے اَغمار بنی فلان۔ اور کبھی متعدی کیا جاتا ہے ساتھ الیٰ کے۔ جو بدکو تنگ دلانا یعنی اوسپر اوسیاہ کر لینا۔ گھوڑے وغیرہ کا زور سے دوڑنا۔ سی کو زور سے بیٹنا۔ جہان میں جانا۔ سرعت کرنی۔ رفتار میں شتابی کرنی۔ زمین نشیب میں آنا۔

اَغمارہ (کفسف) عورت پر ایک عورت کرنی یعنی پہلی عورت کو تنگ میں ملانا۔

اَغماضتر (کفسف) پانی کو کم کر دینا ایک چیز کی قیمت کو کم کر دینا۔ زمین میں پانی کو گھسا دینا۔

اَغمافتر (کفسف) شاخ تماف وغیرہ کو خم دینا۔ ٹیڑھا کرنا۔

اَغمالیتر (کفسف) عورت کا اپنے بچے کو غیل یعنی حمل کا دودھ پلانا۔ دودھ پلانے والی عورت سے جماع کرنا۔ جیسے اَغمال فلان ولدہ

اَغمامتر (کفسف) آسمان کا ابرناک ہو جانا

اَغمانتر (کفسف) سب آسمان کو ابر کا گھیر لینا۔

۹۴

وبا مارے اونٹون والا ہونا۔
اَغدار (کسفس) رات کا تاریک ہو جانا
اونٹ اور بکری کو پیچھے چھوڑنا۔
ترک کرنا۔ چھوڑ دینا۔
اَغداف (کسفس) عورت کا اپنے
چہرہ پر پردہ لٹکا لینا۔ نقاب ڈالنا۔
شب کا تاریکی کو چھوڑ دینا۔ شکاری کا
شکار پر دام چھوڑ دینا۔ حجام کا غداف
سر ذکر کو جڑ سے کاٹنا۔ جماع کرنا۔
اَغداق (کسفس) مینہ کا بہت
قطرے والا ہو جانا۔
اَغدیدان (کسکسفس) بال اور
گھاس کا پیدا اور دراز ہو جانا۔
اَغذاذ (کسفس) رفتار میں عجلت
اور شتابی کرنی۔ زخم سے پیپ کا
روان ہونا جاری ہونا۔
اَغذام (کسفس) پستان کے
سارے دودھ کو پی لینا۔
اَغذر (فضت) نیک مرد۔ نمایان گروہ
جسکی ڈاڑھی تھوڑی سی اور اسکے
چہرہ سے گذری ہو۔ شریف قوم
غُرر (ضف) و غُرران (ضسفس) جمع
غُرّہ دار گھوڑا۔ ہر چیز سپید۔ کرم کرنا

اِغراء (کسفسم) حریص کر دینا جیسے
اَغرَی بہ کے سے کتے کو شکار پر برانگیختہ
کرنا۔ دو آدمیون کے درمیان
مین دشمنی کرا دینی۔
اِغراب (کسفس) مرد کا سخت جوان
جیسے اَغرب الرجل اغراب کسی
کے ساتھ برا کام کیا جانا جیسے اُغرِب
علیہ گھوڑے کا سپید لب یا اوسکی
آنکھ کے کنارہ کا سپید ہو جانا جیسے
اَغرَبَ الفرس یہہ لفظ ان تین
معنی مین مجہولا مستعمل ہوتا ہے۔ مغرب
مین داخل ہونا۔ کسی بعید نادر چیز لانی
غریب ہو جانا۔ مشک وغیرہ کو پُر کرنا۔
پانی کا بہت ہو جانا۔ حال کا خوب اور
نیک ہونا۔ گھوڑے کا رفتار مین زیادہ
کرنا۔ سوار کا گھوڑے کو یہان تک
چلانا کہ وہ مر جاوے۔ بہت ہنسنا اور اوسمین
مبالغہ کرنا۔ دور دراز سفر کرنا۔ پیشانی
اسپ کی سپیدی ہویدا ہو جانی سوا
اوسکی جڑ کی سپیدی۔
اِغراد (کسفس) آواز کو بلند اور مٹھا
اور طرب انگیز کرنا اور اوسکو گلے مین پیچ دینا
اِغراز (کسفس) زمین کا غرز گھاس

| مادہ |
| --- |
| ص غمص |
| ل غمل |
| ط غمط |
| م غمم |
| ی غمی |
| ن غمن |
| ب غیب |
| ر غیر |
| ظ غیظ |
| ل غیل |

اغتماص (سکفس) اذ تمصات
آسان ہونا اور کہتے ہین آتا ہی فلاں
علی اغتماص سے جسنے تکلف
اور سنے مشقت ۔
اغتماط (سکفس) دوڑنے مین
کسی سے آگے نکل جانے کے بعد
آگے نکل جانا ۔ کسی کو کلام مین دبا
لینا اور غالب ہو جانا جیسے اغتمط
فلانا بالکلام ۔ شئ کا باہر نکل جانا
اور اوسکا ناپدید ہو جانا ۔
اغتمام (سکفس) غمگین ہونا ۔ گھاس
کا لینا ہونا اور اوسکا زیادہ ہونا ۔
اغتنام (سکفس) غنیمت گننا ۔
اغتہاب (سکفس) تاریکی مین
چلنا ۔ سیر کرنا ۔
اغتیاب (سکفس) غیبت مین
پڑ جانا ۔ کسی کے پیچھے اوسکی بدی کہنی ۔
اغتیار (سکفس) نفع پانا ۔
اغتیار (سکفس) ایک شہر سے
دوسرے شہر مین غلہ کھینچنا ۔ کہین
سے قوت لانی ۔
اغتیاظ (سکفس) غصہ مین ہو جانا ۔
اغتیال (سکفس) ہلاک کر دینا ۔

اچانک مار ڈالنا ۔
اغتیال (سکفس) موٹا ہو جانا
پیڑ کا رامبہ (؟) دار ہو جانا ۔
اغثاثم (سکفسم) سیل کا چراگاہ کو
برہم کر دینا اور اوسکو بدمزہ کر دینا ۔
اغثاث (سکفس) دبلا گوشت
خریدنا ۔ دبلا پتلا ہونا ۔ کلام کا خراب و
فاسد ہو جانا ۔ زخم مین سے پیپ جاری
ہونی ۔ کلام فاسد بولنا ۔
اغثار (سکفس) رست درخت مین
سے مغثور رواں ہونا ۔
اغثر (فسف) نادانی ۔ کھینچ سی
غثر (مس) جمع ۔ وہ ہند بلا جو سبزی
مائل ہو ۔ بہت اون والا کنبل ۔
کائی ۔ ہر چیز بہت سی ۔ ایک آبی پرندہ
یعنی گردن کا رشیر ۔
اغثم (فسف) بال جسکے سپیدی
سیاہی پر غالب ہو ۔
اغثی (فسف) شیر ۔
اغثیار (سکفس) کپڑے کا
بہت رونگین دار ہونا ۔
اغداد (سکفس) غصہ کرنا جیسے
اغد علیہ اونٹون کا طاعون زدہ ہونا

اَغساق (سفس) شب کا خوب تاریک ہو جانا۔ تاریکی میں داخل ہونا۔ مغرب کے وقت مہلت سے اذان کہنی۔

اَغسال (سفس) بہت جفتی کرنی۔

اَغسام (سفس) ابر کا ٹکڑا۔

اِغسام (سفس) رات کا تاریک ہونا۔

اَغشان (سفس) آدمیوں کے اخلاق۔ پرانے کپڑے۔

اِغشاء (سفس) ڈھانک لینا۔ اندھا کر دینا۔ نکال لانا کسی پر ایک کام کو ڈال دینا۔

اِغشاش (سفس) کسی کو اوسکی حاجت سے روک دینا۔

فرسِ اَغشی گھوڑا سر اور چہرہ کا سپید۔

اِغصاص (سفس) غمگین کر دینا۔ زمین کا کسی پر تنگ کر دینا۔ گلے میں کھانا وغیرہ اٹکوا دینا۔

اَغصان (سفس) خوشہ کا بہت دانہ دار ہونا۔

اَغصَم (سفص) بیل کہ جسکی دُم میں سپیدی ہو۔

اِغضاء (سفس) خاموش ہونا اور ظاہر نکرنا جیسے اغضی علی القذی۔ کسی سے اپنی آنکھ بند کر لینی یعنی چشم پوشی کرنی جیسے اغضی عنہ طرفہ آنکھ ڈھانک لینی یعنی پپوٹوں کو نزدیک کرنا۔ شب کا تاریک ہو جانا۔ یا شب کا سبکو ڈھانک لینا۔

اِغضاب (سفس) غصہ دلانا۔

اِغضاف (سفس) رات کا تاریک اور سیاہ ہونا۔ درخت خرما کی شاخ کا زیادہ ہونا اور اوسکے پھل کا خراب ہو جانا یا درخت خرما کا قبل اصلاح پھل سے بوجھل ہو جانا۔ ارکاب کے لیے آمادہ ہونا۔ آنمل کا پانی کے پاس بہت چرپایہ والا ہونا۔ آنمل جنگل اور پہاڑ اور چرپایوں کی بٹھانے کی جگہ کو کہتے ہیں۔

اَغضان (سفس) پیٹھ کا ہمیشہ سے ... ۔

اَغضب (سفس) ذکر سے لیکر ران تک کا درمیان۔

اَغضف (سفص) کتا جسکے کان لٹکے ہوئے ہوں غضف ج جمع۔ کتا جسکے کان پیچھے کی طرف جھکے ہوں۔ سخت تیر۔ سیدوں کا پھرا ہوا غلاف ضع۔ شب تاریک۔

اغسق
اغسل
اغسم
اغشی
اغصی
اغصن
اغضی
اغضب
۳۰۱
اغضی
اغضب
اغضف
اغضن
اغضف
اغضف
۱۲

[illegible] نقصان [illegible]

[illegible] کسی شخص [illegible]

[illegible] کوئی نہ آسکے

اعزال کسی شخص [illegible]

اعراض کسی شخص [illegible]

[illegible]

اعراق کسی شخص [illegible]

[illegible]

اعرابی [illegible]

[illegible]

اعربیۃ المعرب عرب کے [illegible]

[illegible]

اعز [illegible] کسی شخص [illegible]

[illegible] لینا [illegible]

[illegible] کسی شخص [illegible]

[illegible]

[illegible] اعزاز [illegible] کسی [illegible]

[illegible]

اعزاز کسی شخص [illegible] کا [illegible]

[illegible]

اعزل [illegible] کسی شخص [illegible]

[illegible]

اعزل [illegible]

[illegible]

اعجاز [illegible] کسی شخص [illegible]

[illegible]

اعجاف [illegible] کسی شخص [illegible]

[illegible]

علامات اعراب ضمہ کسرہ ہے ضمہ فتحہ کسرہ سکون تشدید

| مادہ | | |
|---|---|---|
| غلط، غلظ، غلف، غلف، غلف، غلق، غلل، غلسم، غلب، غلف، غلف، غلج، غلط، غلی، غلب، غم، غلو | موٹی گردن والا۔ غلب مرد کی جمع ہے۔<br>اغلف (فسفعا) جو چیز کہ غلاف میں ہے۔ دل کہ کسی چیز کو حفظ نہ کرے ... غلفہ مرد۔ زندگانی فراخ۔ فارغ البال۔ غلاف کی ہوئی تلوار۔<br>اغلنساء (کسکسفعم) کسی کو دشنام اور قہر سے مارنا۔ کسی کو غلبہ سے دبا لینا۔ جیسے اغلنسی علیہ اغلنساءً۔<br>اغلنشاء (کسکسفعم) کسی کو گالی گلوچ اور مار پیٹ سے دبا لینا اور تعدی کیا جاتا ہے ساتھ علی کے۔<br>اغلوج (فسفعس) نازک اور نرم درخت کی شاخ۔<br>اغلوطہ (فسفعسفعفعفعس) بمعنی اغلوطہ یعنی غلط بات یا وہ کہ جس میں غلطی ڈالی جاتی۔<br>اغلیلاء (کسکسفعم) گھاس کا آپس میں لپٹا ہوا اور بلند ہونا۔<br>اغلیلاب (کسکسفعس) گھاس کا پھولنا اور آپس میں لپٹنا۔<br>اغم (فسفعت) ایک رخنہ۔<br>اغم الوجہ و القفا جس کی پیشانی اور گردن بالوں کے گھنے ہونے سے تنگ ہو۔ | اشب میں ماصل ہونا۔<br>اغلاط (کسفعس) کسی کو غلطی میں ڈالنا۔<br>اغلاظ (کسفعس) کسی کو سخت بات کہنی۔ سخت زمین پیرچا۔ کپڑے کو سخت اور درشت پانا یا سخت اور ... کرنا۔ کپڑا خریدنا یا مول لینا۔<br>اغلاف (کسفعس) پوشش بنانی۔ ایک چیز کو غلاف میں کرنا۔<br>اغلاق (کسفعس) دروازہ بند کرنا۔ کسی کو ایک کام پر مجبور ... سے بند رکھنا۔ بھاری بوجھ کے سبب اونٹ کی پشت زخمی ہو جانی۔<br>اغلال (کسفعس) پوست کو ... سے گوشت اور چربی سمیت کھینچنا جیسے اغل فی الجلد اغلالًا۔ خیانت کرنی۔ پیاسا رکھنا۔ اونٹ کو ... پیٹ بھر کر نہ پلانا۔ سیر ہوئی بکریاں والا ہو جانا۔ زمین کا غلان گھاس اوگانی۔ قوم کا غلہ کھینچنا۔ تیز پکنا۔ زمین میں پانی کم جمع کرنا۔ کسی کو خیانت کی طرف منسوب کرنا۔ غلہ منگوانا۔<br>اغلام (کسفعس) تیز شہوت کر دینا۔<br>اغلب (فسفعا) شیر۔ غالب مرد۔ |

نازک لوز اچھی زندگانی - شیر جسکے کان چھوٹے ہون یا لٹکے ہوئے ہون یا شیر جسکا اوپر کا ہونٹ غصے یا غرور کے سبب لٹکا ہوا ہو -

اَغضَف (فنف) جسکی آنکھ کے پوست مین پیدایشی یا غصہ اور تہدید کے سبب یا بندگی نشی اور غرور کے سبب شکن ہون -

اِغضِیلال (کسکسفس) درخت کا بہت شاخ اور پتے دار ہو جانا -

اَغطَف (فنف) دولتمند خوشحال

اِغطا (کسفسم) انگور کے درخت مین پانی کا جاری ہونا جیسے اغطی الکرم اغطائا -

اِغطا (کسفسم) درخت کا لمبا گسترده شاخ ہونا - ایک چیز کو ڈھانک لینا دبا لینا - ایک چیز پر چڑھ آنا - بڑھتی اور زیادہ ہونا -

اِغطاش (کسفس) رات کو تاریک کر دینا - رات کا تاریک ہونا -

اِغطال (کسفس) تاریکی ابر کا تہ بتہ ہو جانا -

اَغطَش (فنف) سست بینائی والا

کہ جسکے آنسو اکثر یا ہمیشہ جاری رہیں وہ جسکی آنکھ سے پانی جاری رہے

اِغطیلال (کسکسفس) اوپر تلے بیٹھنا - ایک کا دوسرے کے بعد آنا -

اِغفا (کسفسم) سو جانا - گندم مین کھٹکا دور کرنا - بہت بھوسی والا ہونا کھیت کا - مجلس پر سونا -

اِغفار (کسفس) پوست سا غوبر پر نکل آنا - متاع کو برتن مین داخل کرنا اور اوس مین اچھے سے چھپانا - ہرنی کا بچہ جننا

اِغفال (کسفس) ایک چیز کو چھوڑ جانا اور اوسکو چھوڑ دینا - فراموش کرنا - کسی کو غافل پانا - کسی کو غافل کہنا - ایک چیز کو یادداشت سے رکھنا -

اَغفَر (فنف) میل کچیل اوٹھانے والا

اِغفِرار (کسکسفس) کپڑے کا روان نکال لانا -

اِغلا (کسفسم) نرخ کو مہنگا کر دینا - ایک چیز کو گران خریدنا - پھولنا - گھاس کا آپس مین پیچیده ہونا - گھاس کو اوسکے پتے سے ہلکا کر دینا -

اِغلا (کسفسم) ہانڈی کو جوش دینا

اِغلاس (کسفس) تاریکی آخر

اَغمنیتہ (صنسکتھ کسکف) ایک قسم کا راگ۔ اغانی (فضسک) جمع۔
اِغوا (کسفشم) گمراہ کرنا۔
اَغور (فسنف) مہربان۔ اقارب کے نیکی کرنے والا اور بہت خیر کرنیوالا۔
اَغول (فسنف) ناز و نعمت کے ساتھ زندگانی عیش۔ اغول بولتے ہیں۔
اَغوبہ (صنسکتف) ستمی ہلاک کرنا جیسے درندوں کے شکار کے لیے گڑھا۔
اِغیال (کسفش) درخت کی شاخ و برگ کا لپٹا ہوا ہونا۔ بکریوں کا سال میں دوبار جننا۔
اَغیام (کسفش) جگہ پکڑنی اور اقامت کرنی۔ ابر سید ہونا۔
اِغیاث (کسفش) دل کو شہوت کا گھیر لینا۔ قرض کا پراگندہ خاطر کر دینا۔
اُغنیۃ (مکف) پانی کی نالی جو پانی دینے کے لیے کھیتوں میں لگاتے ہیں اور اغنی (فضسک) جمع۔
اَغیَف (فسنف) نرم و نازک اعضا والا نزاکت کے سبب گردن کچھ کیے ہوئے ناز و نعمت کے سبب فراخ زندگانی۔
اَغیَل (فسنف) سبز سیر ایک چیز لگی

آگُف (ضنت) ناخن ترشا ہوا۔ ناخن کا میل۔ یا ہر ایک چیز حقیر گرد وغیرہ ہے کہ جیسے زمین سے اٹھاتے ہیں اور اسی سے ہی اُمّا کہو دلقا یعنی اس کو پلیدی ہو جیو۔ یا اف (ضنت) کان کا میل اور تف (ضنت) ناخن کا میل ہے۔ اُف بمعنی قلت ہے اور تُف کتابع ہے ہے اور کلمۂ تنفر ہے اور اسمیں چالیس لغت ہیں۔ اُف (ضتعی) اُفّ (ضتعی) اُف (ضتک) اُفّ (ضتعی) اُفًّا (فتعی) اُفِّ (ضتکو) اُف (ضتعی) اُف (ضعی) اُف (ضتکس) اُف (ضتفی) اُفًّا (ضعی) اُفِ (ضتکی) اُف (ضتس) اف (ضت) اُفی (ضتعف) بدون امالہ کے وافی (ضتک) با امالہ محض و با امالہ بین بین اور الف تعیون لغت میں جو لکھے تانیث کے ہیں اور افی (ضتکس) افوہ (ضتفسص) اُفّہ (ضتعس) افیہ (ضتعس) افہ (ر) اف (رکس) اف (رکت) اف (رکک) اف (رکعی) افًّا (رکف) اف (رکب) اُف (رکعی) افًّا (رکتف) اُفّ (رکتک) اف (رکتعی) افی (رکتف) افی (رکتکس) با مالہ اف (رفس) اف (رتک) آف

مادہ
غ ن ی
غ و ی
غ و ر
غ و ل
غ ی ی
غ ی ل
غ ی م
غ ی ث
غ ی ی
۵۰ پیر
ذا ق
انا ط
نا ف ف
ا ف
۱۲

اغماض (کسفعسم) بیہوشی بیہوش کرنا دن کا برابر ابر آلود رہنا ہلال کا پوشیدہ کرنا چیز کا پوشیدہ اور مشتبہ ہونا جیسے اغمی علیہ الخبر ان سب معنون میں مجہول مستعمل ہے۔

اغماد (کسفعس) تلوار کو میان میں کرنا ایک چیز کو دوسری میں داخل کرنا۔

اغمار (کسفعس) سختی گرما پر دلیر ہونا گرمی کا سختی سے گذر جانے کے بعد چلنا۔

اغماز (کسفعس) کسی کا عیب بیان کرنا اور اسکی کم حرمتی کرنی مال ناقص اور ناکارہ لینا کسی کا کسی کو توڑ دینا کسی کا کسی پر دلیر ہونا اور اسکا گرمی میں اسکے سست اور شکستہ کر دینے کے بعد چلنا کوہان اونٹنی کا چربی ناک ہونا۔

اغماص (کسفعس) آنکھ کا کسی کو حقیر اور خوار سمجھنا برابر دوڑنے میں ایک کے آگے نکل جانے کے بعد دوسرے کا آگے نکل جانا خرید و فروخت میں اغماض یعنی تامل کرنا خرید و فروخت میں کسی سے آسانی برتنی آنکھ ڈھانک لینی دم شمشیر

باریک کرنا خواب یعنی نیند چنانچہ کہتے ہیں ما اغتمضت اغماضا

اغماط (کسفعس) پیوستہ اور متصل رہنا چمٹ جانا تپ کا پیوستہ و برابر رہنا۔

اغمام (کسفعس) دن کا بہت گرم ہونا اتنا کہ سانس کو روکے ہوا کا ابر ناک ہونا خبر کا مشتبہ ہونا غمگین کرنا۔

اغمص (رسفت) جسکی آنکھ میں سے سیل یعنی کیچڑ جاری ہو۔

اغن (رفعت) ناک میں بات کہنے والا یعنی گنگنا بہت چارہ والا جنگل کہ جسمیں مکھی اور اسکی بھنبھناہٹ بہت ہے

اغنا (کسفسم) دشمنوں کا اسباب

اغنا (کسفسم) بے نیاز کر دینا۔ جیسے ما اغنی عنہ تا کہ یعنی نہ بے نیاز کیا کافی قائم مقام ہونا جیسے اغنی عنہ غنا فلان۔

اغناظ (کسفعس) سخت سقت اور غم و رنج میں ڈالدینا۔

اغنان (کسفعس) خرما کا پک جانا وادی کا بہت چارے اور درخت والا ہونا مکھی کا بھنبھنانا شاخ درخت کو سبز کرنا مشک کو پر کرنا۔

[illegible]

علامات اعراب ضفکستم یعنے ض ضمہ ف فتحہ ک کسرہ س سکون ت تشدید

| ماده | | |
|---|---|---|

بہنی کی طرف روان ہونا اور متفرق ہونا اور شتابی کرنی اور اوسمین سے دوسری جگہہ نکل آنا - حدیث مین داخل ہونا اور اوسمین چلنا - برتن کو خوب پر کرنا یہانتک کہ بہ نکلے - تیر قمار کو پھینکنا جوئے مین بطور بانسہ کے - اونٹ کا چارے کو جگالی کے لیئے اوجہہ سے نکالنا - آنسو بہانا -

اَفاطہ (کفسف) سوت دینی -

اَفاعی (فضسک) رگین ہین جو کنج ران سے نکلتی ہین -

اَفاقہ (کفسف) سوفار تیر کو چلہ مین رکہنا تاکہ سرکرین - اونٹنی کا فیقہ جمع کرنا - مریض کا صحت کی طرف کو جھکنا جیسے افاق من المرض - صحت کا بیمار کو اپنا منہ دکھانا - گرانی اور خشک سالی کے بعد ارزان ہو جانا دودہ دوہنے کے درمیان آرام اور آسایش یعنی ایک دفعہ تہنی سے بھیجنا اور پھر دوسری مرتبہ لیس ان دونون کے درمیانی مدت کو افاقہ کہتے ہین اور فیقہ بھی کہتے ہین -

اَفاعم (کسمس) پہلے جسقدر تھا اوس سے زیادہ پالان اور ہودج کو فراخ اور چوڑا کرنا -

اَفان (کتفس) وقت -

اُفانی (ضفسف) ایک گھاس ہے -

اَفانیہ (فضسکف) ایک گھاس ہے

افانی (فضسکت) جمع - سنگ انگور جسے عنب الثعلب اور ہندی مین مکوہ کہتے ہین -

اُفامین (ضفضکس) اوشہا سخن -

اُفت (کس) افترا اور بہتان -

اصیل اونٹ اچھی نسل کے -

افت (فس) (ن) کسی کو ایک چیز سے پھیر دینا اور باز رکہنا جیسے الفتہ عنہ - صلہ اوسکا عن ہے -

آفت (فس) اونٹنی کہ اوسکا سا صبر اور قرار اونٹون مین نہو - اونٹنی کہ چلنے مین اونٹون سے بڑھ جائے بلا - غرور - اصیل اونٹ -

آفتہ (فف) آزار رنج و محنت -

اُفتہ (ضتف) نجل مفلس کہ اوسکے پاس کچھہ نہو - مرد آلودہ بہ نجاست -

اُفتا (کسم) اس لفظ کو حرف نفی کے ساتھہ استعمال کرتے ہین اور کہتے ہین ما افتا یفعل کذا یعنے

۲۰۷

۱۲

افق
افک
افن
فوت
فوج
فوح
فوخ
فوز
فوض
فوق
فوہ
فیح
فیخ
فیص
فیض

اُفُکُہ (اُفُکٌ) آفٌ (اُفٌّ)،
اُفٌّ (تُفٌ) (اُفْ مِن) اُف کہنا۔
اُفٌّ (اُفّا) وقت۔
اَفَامَہ (کَسَمَہ) جھلکی پھیلوان زمین میں داخل ہونا۔ کسی کے سر کو شمشیر سے چیرنا۔
اَفَاتَہٗ (کَفَسَتَہٗ) پھرجانا پھیر دینا فضیحت دینی۔ لوٹ کی خبر دینی۔
اَفَاتَہٗ (کَفَسَتَہٗ) چھوڑ دینا۔ فوت کر دینا۔
اَفَاتِحُ الفُقُوع چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن کو کھمبی کے کمان سے توڑتے ہیں بعد جب نکل آتی ہیں یا دیکھتے پہچانتے ہیں۔
اَفَاجَہٗ (کَفَسَتَہٗ) دوڑنا۔ شتاب چلنا۔ پانی اور حوض پر اونٹوں کو جوق جوق بھیجنا۔
اَفَاحَہٗ (کَفَسَتَہٗ) ہانڈی کو جوش میں لانا۔ خون بہانا۔
اَفَاخَہٗ (کَفَسَتَہٗ) گوز مارنا بے آواز گوز مارنا۔
اَفَاخَہٗ (کَفَسَتَہٗ) پشیمان ہونا گوز کرنا روکنا جیسے اَفَاخَ مِن فلان یا پلیدی آواز سے۔
اَفَادَہٗ (کَفَسَتَہٗ) فائدہ لینا فائدہ کسی کو ہلاک کر دینا۔ مروا دینا۔
اَفَادَہٗ (کَفَسَتَہٗ) روٹی کو راکھ سے پاکیزہ اور صاف کرنا۔ فائدہ دینا فائدہ لینا۔ لغات اضداد سے ہے۔
اَفَاوِیق (مَفَاعِیل) پانی جو اس میں اکٹھا ہو اور ساعت بساعت برسے۔
اَفَاوِیقُ اللَیل اَلثُّمرات۔
اَفَارَہٗ (کَفَسَتَہٗ) ہانڈی وغیرہ کا جوش میں لانا۔
اَفَازُ وِفَازُ دوا روی یعنی جلد چلا کر بولتے ہیں۔ انا علی اَفَازٍ و وِفَازٍ یعنی میں چلنے پر ہوں۔
اَفَازَہٗ (کَفَسَتَہٗ) فتحمند کر دینا۔
اَفَاضَہٗ (کَفَسَتَہٗ) نرمی کے ساتھ بات کہنی۔ کلام وغیرہ کا رہائی دینا یعنی کچھ بولنا اس لفظ کو اس معنی میں نفی کے ساتھ بولتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں ما اَفَاصَ بِکَلِمَۃٍ یعنی کچھ نہ بولا۔
اَفَاصَہٗ (کَفَسَتَہٗ) بیان کرنا۔ بیان کرنا۔ ایک چیز کے پکڑنے سے انگلیوں کا کھلا رہ جانا اور بند نہ ہونا۔
اَفَاضَہٗ (کَفَسَتَہٗ) پانی اپنے اوپر بہانا۔ آدمیوں کا لیکبار عرفات سے

افتحال (کسکفس) اونٹنیوں کی جفتی کے لیے اصیل اونٹ برگزیدہ کرنا -
افتحام (کسکفس) شام کو وقت آ پہنچنا -
افتخ (فسف) شیر سست جسکے ہاتھہ پانوں کی ہتھیلیاں چوڑی ہوں اس معنی مین مرد کی صفت بھی واقع ہوتا ہے -
افتخ الطرف سست نگاہ مرد -
افتخاخ (کسکفس) نیند مین خرخر کرنا
افتخار (کسکفس) ناز کرنا - پڑا نے فضائل اور مناقب کو شمار کرنا
افتدا (کسکفسم) جان خریدنی - جان چھوڑا دینی جیسے افتدی آیہ
افترا (کسکفسم) پوستین پہننی
افترا (کسکفسم) جھوٹ کہنا
افترار (کسکفسم) نرم نرم ہنسنا - ہنسی سے لب کھول دینے - بجلی کا چمکنا - ایک چیز کو سونگھنا -
افتراز (کسکفس) حکم کو سوائے اپنے کنبہ کے منقطع کر دینا -
افتراس (کسکفس) شکار کو پچھاڑنا - شکار کو توڑنا - شکار کے استخوان گردن کو کوٹنا -

اس لفظ کو سوائے شیر کے اور کسی درندہ مین استعمال نہین کرتے -
افتراش (کسکفس) کسی کے پیچھے جانا جس چیز چاہنا کہنا - صحبت و جماع کرنا پانوؤں کے نیچے پامال کرنا - زمین پر دونوں بازو پھیلانے - غالب ہونا کسی کو زمین پر پچھاڑنا - کسی کی عزت اور ناموس مین ننگ و عیب گوارا کرنا پھیلا یا جانا - ایک چیز کو ستم سے لینا غضب کرنا - قہر کرنا -
افتراص (کسکفس) فرصت کو
افتراض (کسکفس) فریضہ کرنا - واجب کرنا - عیبت و نابود ہونا قوم کا لشکر کا مرسوم لینا -
افتراط (کسکفس) ایک چیز کا فوت ہو جانا - کسی کا نابالغ فرزند مر جانا -
افتراع (کسکفس) بکارت زائل کرنی
افتراغ (کسکفس) اپنے اوپر خوب پانی بہانا - نہانا -
افتراق (کسکفس) پراگندہ اور جدا ہو جانا
افترام (کسکفس) کس مین فرامہ کرنا
افتراز (کسکفس) غالب ہو جانا -
افتشال (کسکفس) فشل پر چھوڑنا ... چھپانا

مادہ
فحل
فحم
فتخ
فخخ
فخر
فدی
فرو
فری
فرر
فرز
فرس
۹ پیم
۱۱ فرش
۱۲ فرص
۱۳ فرض
۱۴ فرط
۱۵ فرع
۱۶ فرغ
۱۷ فرق
۱۸ فرم
۱۹ فرز
۲۰ فشل
۱۲


ج

مادہ

ہمیشہ کرتا ہے ایسا ۔

افتاء (کسرہ) آشکار کرنا جیسے کسی کے لیے

افتائی الامر افتاء (۱) کسی کے لیے کام کو جدا کرنا ۔ فتویٰ کا جواب لکھنا ۔

افتات (کسرہ) کسی امر باطل کو گھڑنا جیسے افتات علی الباطل ۔ خود رائی سے کام کرنا ۔ اچانک مر جانا جیسے افتات مجہول کا مستعمل ہوتا ہے ۔

افتاح (کسرہ) اونٹنی کے تھن کے سوراخ کا کشادہ ہونا ۔

افتاخ (کسرہ) ماندہ ہو جانا ۔ کسی کو ساتھ میں پسینہ آنا ۔

افتاد (کسرہ) گزشت کو بھونا ۔ آگ بھڑکانی جلانی ۔

افتار (کسرہ) کسی کو بیماری کا سست کر دینا ۔ پلکوں کے تھکنے کے سبب کم سوجھ ہو جانا ۔ شراب خوار کا سست ہو جانا ۔

افتاق (کسرہ) ملیخہ نہ سیکی ہوئی زمین کو پانا اور اس میں داخل ہونا ۔ ہوئے چوپایہ والا ہو جانا ۔ خوشہ خرما کی لکڑی سے مسواک کرنی ایک کا

کھل جانا ۔ بکھرے ہوئے ابر میں سے آفتاب کی شعاع ظاہر ہونی ۔

افتاک (کسرہ) نفس سے جا کے کام پر آنا ۔

افتال (کسرہ) شگون لینا ۔

افتال (کسرہ) دانہ سلم اور طلح کا نکالنا ۔

افتان (کسرہ) ایک چیز کا کسی کو تعجب میں لانا ۔ فتنہ میں ڈالنا ۔ عورت کا دل کھینچنا اور مفتون کر لینا ۔

افتاخ (کسرہ) کھول لینا شروع

افتات (کسرہ) ٹھہرنا ۔

افتجاء (کسرہ) کسی پر اچانک آ جانا

افتجار (کسرہ) ایک بات اپنی طرف سے گھڑنی بغیر کسی سے سنے اور سیکھے ۔

افتجال (کسرہ) ایک کام کو نو پیدا کرنا

افتجاث (کسرہ) ایک چیز کی تفتیش کرنی ڈھونڈنی ۔

افتحار (کسرہ) اپنے ایک کام کرنا اور اسے بیان کرنا اور اس میں کسی کی پیروی نہ کرنی ۔

افتحاص (کسرہ) ایک چیز کی تفتیش کرنی ۔

کہنا۔ اچانک مرجانا مجہولاً مستعمل ہی
جیسے اُفْتُلِتَ فلان
اِفْتِلَاذ (رکسکفس) مال مین سے کچھ کاٹ لینا
اِفْتِلَاص (رکسکفس) ایک چیز کو کسی کے ہاتھ سے لینی۔
اِفْتِلَاط (رکسکفس) ایک کام مین اچانک ہونا مجہولاً مستعمل ہوتا ہی۔
اِفْتِلَاق (رکسکفس) کلام عجیب وغریب لانا۔ وہ شعر کہنا جو نہایت گفتگو کرنی اتنا کہ تیزی سرعت سے آدمیونکو تعجب مین لاوے۔
اِفْتِلَال (رکسکفس) رخنہ ہونا شکستہ ہوجانا۔ لشکر کا ہزیمت پانا۔
اِفْتِلَام (رکسکفس) ناک کاٹنی۔ جیسے افتلم انفہ۔
اِفْتِنَاء (رکسکفسم) سستی لانی تھک جانا۔ آرام وقرار پکڑنا۔ جگہ پکڑنی۔ کسی کو دمہ اور سانس اوبھہ آنا کہ سکتا شکستہ کردینا کنکریون کو گرم کرکے اور اونپر پانی چھڑک کر بیمار کو اوس پر لٹانا تاکہ پسینا لاوے۔
اِفْتِنَاج (رکسکفس) چھوڑنا سانس دمہ کا ہونا کسی کو دمہ اور سانس چڑھ آنا۔

اَفْحَج (رفقت) پانوون کو بہت کشادہ کرنیوالا۔ امر دا اتنا کہ بدصورت ہوجاوے۔
اِفْحَاث (رکسفسم) عیال پر نفقہ کو کشادہ کرنا اور فراخ رکہنا۔
اِفْحَاج (رکسفس) زمین مین ہل چلانا۔ راہ کے بیچ کشادہ رستے پر جو دو پہاڑون کے درمیان ہو جانا۔ دونون پانوون کا بیچ کشادہ کرنا۔ دوڑنا شترمرغ کا سرعت کرنا۔
اِفْحَار (رکسفس) تڑکے تڑکے آنا کسی کو فاجر پانا۔ جھوٹ گڑھنا۔ زناکا معتقد ہونا۔ عرق سے سیل کرنا بہت مال لانا۔ چشمے کے پانی کو باہر نکالنا۔
اِفْحَاش (رکسفس) بال اوڑنا خیر نہ پہنچانا
اَفْحَل (رفسف) جسکے دونون پانوون مین دوری ہو۔
اَفْحَم (رفسف) جسکے منہ کے باچھون مین دراری اندر کاری ہو۔
اَفْحَن (رفسف) جو کہ سدا بھگاکر کو ہمیشہ کھاوے۔
اَفْحَی (رفسف) جسکے دونون ران یا دونون ساق یا دونون زانو مین فاصلہ ہو۔ اونٹ جسکے دونون پانوون سے

فلت
فلج
فلص
فلط
فلق
فلع
فلم
فلس
فلج
فجح

فجہ
فجج ۱۱
فجر ۱۲
فجس ۱۳
فجل
فجم ۱۴
فجن ۱۶
فجو ۱۳

**مادہ**

ق ص د — اِقْتِصَاد (بکسر) فصد کھولنی۔

ق ص ص — اِقْتِصَاص (بکسر) چیز کا ایک چیز سے جدا کرنا اور باہر نکالنا۔

ق ص ع — اِقْتِصَاع (بکسر) اوس کا ازیں کرکے غلاف کو پلٹ دینا۔ کسی سے اپنا سا حق قہرًا اور جبرًا لینا۔

ق ص ل — اِقْتِصَال (بکسر) بچے کو دودھ سے چھوڑانا۔ خرما کے پودے کو اوسکی جگہ سے اور جگہ لیجانا۔

ف ض ح — اِفْتِضَاح (بکسر) رسوا ہونا ظاہر اور ہویدا ہوجانا۔

ف ض خ — اِفْتِضَاخ (بکسر) توڑنا۔ سر توڑنا۔

ف ض ض — اِفْتِضَاض (بکسر) بکارت زائل کرنی۔ پانی کو تھوڑا تھوڑا بہانا۔ آب روان پر پہنچنا یا پانی کے نکلنے کے وقت پر پہنچنا۔ عورت کا عدت سے خوشبو ملکر باہر آنا یا اپنے بدن سے کسی پرندہ یا اور جانور کو ملکر عدت سے باہر نکلنا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کی عورتون کی یہہ عادت تھی کہ وہ ایک جانور کو لیکر اپنی فرج سے ملکر چھوڑ دیتی تھیں اور پرندہ مرجاتا تھا۔

ف ض ظ — اِفْتِظَاظ (بکسر) اوجھہ کا پانی نچوڑنا۔ اونٹ کو پانی دینا اور اوسکا منہہ باندھ دینا تاکہ جوگالی نکرسکے یہانتک کہ اگر مالک شتر پیاسا ہووے تو اوسکے پیٹ کو چیرے اور گوبر کو نچوڑے اور اوس پانی کو پیئے۔

ف ع ل — اِفْتِعَال (بکسر) کسی پر بہتان اور جھوٹ باندھنا۔

ف ق ء — اِفْتِقَاء (بکسر) توشہ دان کو پھیلانا اور اوسکے دو چمڑون کے درمیان داخل کرنا۔

ف ق د — اِفْتِقَاد (بکسر) گم کرنا کھونا گم ہوئے کو ڈھونڈھنا۔

ف ق ر — اِفْتِقَار (بکسر) نیازمند اور محتاج ہونا۔

ف ک ک — اِفْتِکَاک (بکسر) شیٔ مرہون کو گروی سے چھوڑانا۔

ف ک ل — اِفْتِکَال (بکسر) ایک کام کے کرنے میں مبالغہ کرنا اور اوس میں خوب قیام اختیار کرنا۔

ف ل ت — اِفْتِلَات (بکسر) نکلی ہوئی گھیتی اور سخت یا پہلو سے دور۔

ف ل و — اِفْتِلَاء (بکسر) بچے کو دودھ سے چھوڑانا۔ پرورش کرنی نگاہ رکھنی۔

ف ل ت — اِفْتِلَات (بکسر) کلام فی البدیہہ

آفدۃ (فتح) دنگی و تاخیر۔

آفدع (فتح) مرد جسکی ہاتھ کی ہتھیلی اور پاؤن کا تلوا اندر کو گھس گیا ہو۔ جسکے پانوؤنکا تلوا ایسا باریک ہو کہ زمین کو نہ لگے۔ اونٹ جسکا سم باہر کو نکلا ہوا اور ران اور قدم کے پیچھے بیٹھتا ہو۔

آفد (فتح) ہستے ہے کا تیر قمار۔

آفذاذ (کسر) بکری کا ایک بچہ جننا۔

آفر (فتح) آفور (ضم) اچھلنا بہت دوڑنا۔ خدمت مین چالاکی کرنی۔ دفع کرنا۔ گرمی کا سخت ہونا ہانڈی کا بہت جوش مارنا۔

افر (فتح) (ضم) اونٹ کا نشاط کرنا اور بعد مشقت اور لاغری کے موٹا ہو جانا۔

آفرا (کسر) ایک چیز کی اصلاح کرنی۔ یا کسی کو اصلاح کرنے کا حکم دینا۔ ایک چیز کو چیرنا۔ خدمت کرنی۔ قطع کرنا۔ بھیڑئے کا بکری کے پیٹ کو چیرنا۔ پوست کو قطع کرنا۔

آفراث (کسر) جگر اور اوجھ کو چیرنا اور اوس مین کی چیز کو ڈالدینا۔

سخن چینی کرنی۔ بلا مین ڈالنا کسیکو آگے رکھنا تا کہ لوگون کا ہدف ملامت ہو جائے۔

آفراج (کسر) چھوڑ دینا کسیکو ہونا۔

آفراح (کسر) شاد کرنا۔ کسیکو قرض کا گران کر دینا۔

آفراخ (کسر) پرندے کا انڈے مین سے چوزہ باہر نکالنا۔ پرندہ کا انڈا باہر نکالنا۔ خوف اور بیم کا دل سے نکلجانا۔ کام کا آشکارا ہوجانا بھید اور پوشیدگی کو ظاہر کرنا۔

آفراد (کسر) اکیلا ایک کام مین داخل ہونا۔ ایک چیز کو تنہا کرنا۔ یکسو کرنا۔ جدا کرنا۔ بچا بھیجنا ۔ مادین کا ایک بچہ جننا۔ ج شغر و گداز

آفراد النجوم روشن ستارے ستارے جو گوشہ آسمان مین نکلین۔

آفرار (کسر) بھگوانا۔ بھگا دینا۔ چوپایہ کا دودھ کے دانت گرادیتے اور سوا اونکے اور نکالنے۔ کسی کے ہاتھ ایسی چیز کرنی کہ وہ اوس سے بھاگے۔ سر کو تلوار سے چیرنا۔

آفراز (کسر) شکار کا لپٹنا

۳۱۳

فرج

فرد

فرر

فرز

[illegible] (ضف) [illegible]
افحیم (کسکس) فراخ جنگل جنگل
گھنا۔ لغات اضداد سے ہے۔
افحاء (تسفسم) جمع ہے فحا
(ففف) کی۔
افحاج (کسفس) ورد کے مارے
بیس پا ہونا اور بھاگ جانا۔ بکھر جانا
جیسے افحج عنہ۔ جانور کے دونوں
پاؤں کو دوڑنے میں کشادہ رکھنا
جیسے افحج حلوبتہ
افحاش (کسفس) کسی پر فحش کرنا
افحال (کسفس) سانڈ اونٹ
کو [illegible] دینا۔
افحام (کسفس) کسی کو غم کا شعر
گوئی سے روک دینا۔ بچے کا رونا
یہانتک کہ اوسکی آواز منقطع ہو جاوے
مجہولا۔ جیسے افحم الصبی لوگ کا
آواز کرنا۔ حجت و خصومت کے ساتھ
کسی کو خاموش کر دینا۔ کسی کی بات
کو قطع کر دینا۔ شدت تاریکی میں
سیر نکلنی۔ کسی کو مفحم پانا۔ فحم کسی
کی ہجو کرنی اور پھر اوسکو شعر گوئی
اور جواب میں عاجز پانا۔

افحج (فسفف) جو کہ رفتار میں پاؤں کا
پنجے تو پاس پاس رکھے اور پاشنے دور دور
افحوص (تسفس) سنگ خوار کا
گھر۔ افاحیص (فسکس) جمع
افخ (فس) تالو میں مارنا۔
افخاذ (کسفس) فخر میں ایک دوسرے
پر زیادہ رکھنا اچھے فرزند جننے۔
افد (ففف) مدت نہایت
افد (فس) (ازن) جلدی کرنی [illegible]
کرنی۔ لغات اضداد سے ہے۔ نزدیک
ہونا۔ افد (فک) صیغہ لغت ہے۔
افداء (کسفسم) اپنے لڑکے کو
بچانا کو دانا۔ خرما کا ابند بنانا۔ خرما کو
بیچنا۔ بزرگ جسم ہو جانا۔ قیدی کی
طرف سے جان چھڑائی اپنی [illegible] لینا
افداح (کسفس) کام کو بھاری
دشوار اور مشکل پانا۔
افدار (کسفس) سست ہو جانا
اور علیحدہ رہنا سانڈ کا جفتی سے۔
افداس (کسفس) مکڑی کا
[illegible] وغیرہ میں آ رہنا۔
افدام (کسفس) کپڑے کا سرخ
رنگ چھپا ہوا کرنا۔

کفالت کرنی ہر جگہ پھرنا اور وہان
کی خبر جاننی اس کلام کا وہین اسپا کا
خون آلودہ کرنا - ایک کلام اور ایک
کام کو شروع کرنا - دلہن کی بکارت
زائل کرنی - بچہ کا بکریون مین تباہی
ڈالدینا اور انکو خون آلودہ کرنا -
اِفراغ (کسفعس) بہانا - خوب بہانا
اِفراق (کسفعس) صحیح اور تندرست
ہوجانا یا بیماری سے اچھا ہوجانا
جیسے افرق من مرضہ یا افراق
اوس بیماری سے اچھے ہونے
مین بولتے ہین کہ ایکبارگی سوا
نہ آوے جیسے چیچک - گوبر کرانا
عورت کو فرقیہ کہلانا کہ ایک قسم کا
کھانا ہی جو زچہ خانے مین عورت کو
کہلاتے ہین کچھ تھوڑا سا اونٹنی
کے معدہ مین سے پھر اوتر آنا -
قوم کا اپنے حاملہ اور نئے بچے والی
اونٹنیون کو چراگاہ مین چھوڑ دینا
اِفراک (کسفعس) خوشہ کے
ملنے کا وقت آپہنچنا کھیتی مین سے
پہلے جو نکلتا ہی اوسے نجم (رفع)
کہتے ہین اور پھر اوسکے بعد فرخ

(فتح) اور قضیب (فتح) اور پھر عصف
(فتح) پھر سنبل (فتح) پھر حب
(فتح) اور الب (فتح) پھر اسفی
(فتح) پھر افرک (فتح) اور پھر
احصد (فتح)
اِفرام (کسفعس) حوض اور برتن کو پر کرنا
اِفراہ (کسفعس) اونٹنی کا عقلمند بچہ
جننا - عقلمند غلام حاصل کرنا -
اُفرة (ضمفتف) جماعت - سلا - سختی
وحیص بیص - افرة الصیف یعنی شروع
گرمی - افرة الحر گرمی کی شدت اور ابتدا
اَفرج (فتح) جسکے دونون سرین بیچ
اور بزرگی کے سبب سرین جسکی شرمگاہ
کا ہمیشہ کشادہ ہے - افرج الثنایا
مرد جسکے اگلے دانت کشادہ ہون
اَفرَض (فتح) علم فرائض
مین بڑا ماہر آدمی -
اَفرع (فتح) جسکے سارے سر
پر بال ہون گنجا نہ ہو اور نہ گرے ہون
فرعاء (ضمفس) مونث فرع (ضمس)
فرعان (ضمفس) جمع وسوسہ انداز -
اِفراغ (فتح) فارغ -
اَفرق (فتح) گھوڑا جسکی ایک ...

۱۲

کھوا یعنی سیدھی سپاہ دور کر دینا۔ جدا
کرنا اور تمیز دینی۔
اَفراش رکسفنس ٭ مال لینا اور
اوس میں سے کچھ چھوڑنا جیسے افرش
عن بقیۃ مال چھوڑ دے کا غفلت
کرنا یہانتک کہ بھیڑیا ایک بکری
ایک گلہ سے لیجاوے۔ چوپایہ کو
شیر کے آگے چھوڑ دینا تاکہ شیر
اوسکا شکار کرے اور اوس سے
نجات پاوے۔
اَفراتبَس رکسفنس ٭ ایک چیز سے
الگ کر دینا۔ بری بات کہنی۔ غیبت
کرنی۔ عقد دسال لوٹ دینا۔
تلوار کو ہلکا اور باریک کرنا۔ اور اوسے
تیز کرنا۔ کسی کے لئے فرش بچھانا۔
جگہ کا تنگی سے بھرا ہونا۔ دروازے
کو قفل بند کرنا۔
اَفراص رکسفنس ٭ فرصت کا حاصل کرنا
اَفراض رکسفنس ٭ عطا دینی
جیسے افرضہ کسی کے لئے فریضہ
کرنا جیسے افرض لہ چوپایہ کا عدد
میں حد نصاب کو پہنچ جانا۔
اَفراط رکسفنس ٭ کسی کو امر طلاق
یعنی طلاق کا حکم دینا جیسے افرط علیہ افراطًا
تلوار کو میان سے سونتنے میں سبقت
اور مبادرت کرنی جیسے افرط بیدہٖ
الی سیفہ۔ حوض کو پانی سے لبریز کرنا
توشہ دان کو پُر اور لبریز کرنا۔ آگے
بھیجنا۔ ایک کام کو فراموش کرنا۔
ایک کام کو تاخیر پر رکھنا۔ حد سے
گزر جانا۔ ایک کام میں شتابی کرنی۔
جلدی برسنا اور ابر بہار کا عجلت کرنا۔
جلدی کروانی۔ قاصد کو خاص اپنی
حاجتوں کے لئے بھیجنا۔
اَفراع رکسفنس ٭ عورت کا خون
ولادت دیکھنا۔ یا پہلا خون حیض دیکھنا
جیسے افرعت المرأۃ افراعًا گرفتار
کر لینا۔ اس معنی میں مجہولاً مستعمل
ہوتا ہے جیسے افرع بسید بنی فلان
پہاڑ کے اوپر سے نیچے اترنا۔
کسی شخص کا بیگانہ میں اترنا۔ اور متعدی
کیا جاتا ہے ساتھ ب کے۔ فرع کا
ذبح کرنا۔ اونٹنی کا پہلا بچہ جننا فرع
جننے والی اونٹنیوں کا مالک ہونا۔
قوم سے پہلے پانی اور گھاس کی تلاش
میں جانا۔ اپنے لوگوں کی غمخواری اور

افساح (کسفس) کسی کو جگہ دینا اور
اس سے کشادہ یا قبول کرنا۔
افساح (کسفس) جگہ کا فراخ ہونا
افساخ (کسفس) [illegible]
افساخ (کسفس) قرآن کو
فراموش کر دینا۔
افساد (کسفس) تباہ و خراب کر دینا
افسال (کسفس) درخت کا [illegible]
ہونا کا ردی ہونا جیسے [illegible]
[illegible] کے پیچھے کرنا [illegible]
[illegible] کے [illegible] جگہ جانا [illegible]
تا [illegible]
افشاء (کسفس) [illegible] فاش کر دی
[illegible]
افشار (کسفس) پراگندہ [illegible]
زیادہ ہونا پراگندہ کرنا [illegible]
ہونا فاش کرنا ظاہر کرنا۔
افشاغ (کسفس) کم خیر ہو جانا
[illegible] کسی کو [illegible]
افشغ (فسف) [illegible] جس کے [illegible]
[illegible] جس کے [illegible]
[illegible] باہر
[illegible] ہوں
افصاء [illegible]

ہونا کسی جانا رہنا جیسے [illegible]
الحجر جانے کا جانا رہنا جیسے [illegible]
تھا الشتار [illegible] کا رک جانا [illegible]
کا [illegible] میں [illegible] ہونا۔
افصاح (کسفس) بکری کا [illegible]
نکلنا [illegible] فصاحت سے بات
[illegible] کا بغیر جھاگ کے ہو جانا یا [illegible]
کی [illegible] کا [illegible] ہو جانا [illegible] کا
[illegible] ابر [illegible] کا
[illegible] صاف ہونا نصاریٰ کا عید [illegible]
میں حاضر ہونا صبح کا روشن ہو جانا
مرد کا کلام کو خوب بیان کرنا ایک چیز
کا ظاہر اور آشکار ہونا۔
افصاد (کسفس) درخت کے
پتے نکلنے کی جگہ کا پھٹنا۔
افصاص (کسفس) کسی کے
حق میں سے کچھ چیز جدا کر لی
اور باہر نکال لینی۔
افصام (کسفس) عینہ کا رک
رہنا۔ تپ کا رک رہنا۔
افصع (فسف) لڑکا جس کا سر ختنہ سے
باہر نکل آیا ہو۔
افصم (فسف) [illegible] الفصم

مادہ
۱۲

دوسری سے لٹکی ہوئی ہو۔ مرغا جسکا تاج شاخ شاخ ہوگیا ہو۔ مرد جسکی پیشانی کے بال یا داڑھی کے آپس میں جدا ہوں۔ سپید مرغا۔ بکرا جسکے دونوں خصیوں میں [illegible]

فرق (فتحہ) جمع۔ ایک خایہ کا گھوڑا ہو بیٹھہ پھٹا مرد۔

افرم (فتحہ) مرد جسکے دانت ٹوٹ گئے ہوں۔

افرنباج (کسرہ) بکری کے بچے کے پوست کا بھن جانا اور اوسکے اوپر کا خشک ہو جانا۔

افرنجام (کسرہ) گوشت کا باہر سے ملجانا اور اوسکا بیان ہونا۔

افرنجہ (کسرہ) ہر بیانی رنگ۔

افرندر (کسرہ) بمعنی فرندر (کسرہ) گلاب کا پھول۔ دانہ انار۔

افرنساخ (کسرہ) سردی کا دب جانا تپ کا اوتر جانا۔ غم اور اندوہ کا زائل ہونا۔

افرنقاع (کسرہ) انگلیوں میں سے آواز نکلنی۔ دوڑنا۔ پراگندہ ہونا۔ ایک چیز سے دور ہونا [illegible]

افریز (کسرہ) اینٹ اور چونے گچ کا گھر بنایا ہوا۔ منزر بیٹھنے والا یعنی زری

افریز الحائط دیوار کے کنارے یعنی منڈیریں اینٹ سے بنائی ہوئیں

افرنس (فتحہ) کودنا۔ و فرز میں کا ایک لغت ہے۔

افزار (کسرہ) گل سڑ جانا۔ لکڑی کو پرانا کر دینا۔ پرانہ کرنا۔

افزاز (کسرہ) ڈرانا۔ دل کو کسی سے نفرت دلانی۔ بھگانا۔

افزاع (کسرہ) مدد کرنی۔ فریاد کو پہنچنا۔ ڈرانا۔ آگاہ کر دینا۔ نیند سے خوف کرنا

افزر (فتحہ) وہ شخص کہ جسکی پشت یا سینہ پر فزرہ (فتحہ) ہووے۔

افسا (فتحہ) مرد جسکا سینہ نکلا ہو اور پشت اندر کو گھس گئی ہو یا مرد جسکا سینہ اور ناف آگے کو نکل آئی ہو۔ یا وہ شخص کہ گویا رفتار کے وقت اوسکے سرین میں درد ہے یا وہ شخص کہ جب بیٹھے تو اپنے کوشش تمام اوٹھہ نسکے۔ یا وہ جسکی پیٹھہ کی ہڈی ران کی طرف گھس گئی ہو۔

علامات اعراب ضمہ فتحہ کسرہ جزم تشدید — یعنے ض ضمہ ف فتحہ ک کسرہ س سکون ت تشدید

افظاع (کسفس) اکہنا یا امر کا رسوائی تک جا پہنچنا اور اوسکا بھونڈا پن اور برائی مین حد سے گذر جانا۔ ایک کام کو بھونڈا اور زشت پانا کسیکو زشتی اور برائی پہنچانی۔

افعال (کسفس) برتن وغیرہ کو پر کرنا مشک کا گھر کو خوشبو سے بھرا کر دینا غصہ مین لانا۔ کسی کے دماغ کو خوشبو سے پر کرنا۔

افعوان (ضسفقس) اثر دہا۔ ایکقسم کا خبیث سانپ۔

افعی (فسف) خوش بو مین بڑا سانپ۔ ایکقسم کا خبیث سانپ۔

افاعی (فسکس) جمع۔

افغعام (کسکفس) پر ہو جانا۔ روان ہونا جاری ہونا۔

افغام (کسفسم) گھاس کا پھول نکلنا۔ غفا یعنی کالا دانہ وغیرہ کہ گیہون سے نکالیں کھانے پر ہمیشگی کرنی۔ حنا کا شگوفہ نکلنا۔ غمرہ خرما کا خراب ہو جانا۔ دولتمندی کے پیچھے محتاج ہونا۔ خوبی کے بعد زشت ہو جانا۔ غلامی کے پیچھے نافرمانی کرنی۔ غصہ مین لانا۔

افغار (کسفس) ہنسنے کو کھولنا۔

افغام (کسفس) بوی خوش سے مکان کو پر کردینا۔ پانی سے برتن پر کرنا۔

افف (فف) قلق تھوڑی سی چیز۔ دقت مشکل۔

افوج (ضفف) گھوڑا جسکی دونون طرفین مذکر و مونث برابر۔

افق (ضس و ضفس) کنارہ۔ آفاق (مفس) جمع۔ یا جو آسمان کے کنارون مین سے ظاہر ہو یا ہوا جنوب بعد ہوائے شمال اور ہوا مرد بور اور ہوا صبا کے چلنے کی جگہ کے کنارے۔ جو چیز کہ گھر کے پیشگاہ مین دو لکڑی کے درمیان مین ہو۔

افق الطریق راستہ کا سرا۔

آفاق (مفس) جمع۔

افق (فک) چمڑا آدھا سنوارا ہوا۔ یا چمڑا جسے ملا سے اور بیا چیز دباغت مین۔

رجل آفق حقنہ نکیا ہوا۔

افق (فف) (س) نہایت کریم ہونا یا نہایت عالم ہونا۔ یا نہایت فصیح یا صاحب فضائل ہونا۔ افق

مادہ

[illegible]

۳۱۹

فضو
فضح
فضخ
فضل
فضح
فطح
فطر
فطم
فطح
فطس
فطر
فطا



لٹکتے ہیں یعنی پازیب جو عورت کی
ہو اور جلدی ٹوٹی ہو۔
افتفاء (کسفنسم) کھانا کھلانا۔
افضاء (کسفنسم) عورت کی دونو
راہوں یعنی قبل و دبر کو ایک کر دینا۔
عورت سے جماع کرنا جیسے افضی
الی المرأۃ یا عورت سے خلوت کرنی
سجدہ میں اپنے دونوں ہتھیلیوں سے
زمین کو چھونا جیسے افضی الی الارض
فضا کیطرف نکالنا کسی سے بھید کہنا۔
افضاح (کسفنس) صبح کا ظاہر
اور نمایاں ہونا۔ غورہ خرما کا سرخی
پکڑنی یا زرد ہونا۔
افضاخ (کسفنس) خوشہ انگور کا
نچوڑنے کے قابل ہونا۔
افضال (کسفنس) ایک چیز میں سے
باقی چھوڑ دینا۔ زیادہ اور بڑھتی دینا۔
زیادتی اور افزونی کرنی حسب
میں بڑھتی ہونا بھلائی کرنی ایک
چیز سے بڑھتی لانا۔ اور متعدی
کیا جاتا ہے ساتھ من کے۔
افضح (فسفف) سپید جو نہایت
سپید ہو۔ شیر۔ اونٹ جس میں

رنگ کے ہوتے ہوں۔
افطح (فسفت) چوڑی ناک والا۔
افطا (کرفسفت) مرد جسکا سینہ باہر
نکلا ہوا اور پشت اندر کو گھسی ہو۔ فطاء
(ضس) جمع چوڑی ناک والا۔
افطاء (کسفنسم) کھانا کھلانا۔ بہت
جماع کرنا۔ نیک خوئی کے بعد بدخو
ہو جانا۔ فراخ حال ہونا۔
افطار (کسفنس) پوست کو خوب
تہ سنوارنا۔ روزہ کھولنا کسیکا روزہ
کھلوانا۔ روزہ کھولنے کا وقت آپہنچنا
روزہ کھولنے کیوقت آنا۔
افطام (کسفنس) بچے کا دودھ
چھڑانے کے وقت کو پہنچنا۔
افطح (فسفف) گھٹے اسلئے کہ اوس کی
ناک کی پھنگل چپٹی ہوتی ہے چوڑی ناک
والا اور ہاتھ کے جوڑ کا بیٹھا مرد ۔ گرگٹ
افطس (فسفف) چوڑی ناک والا
ناک کی ہڈی بیٹھی ہوئی ہڈی والا
افطوطر (فسفف) جوان کے چہرہ
اور ناک پر ایک پھنسی ہوتی ہے
افاطیر و فطس (...) جمع ۔
افطاء (کسفنسم) زشت ہونا۔

بیھوڑہ مرد ضعف اور سستی کے سبب
کھدیسی نیاک کے سرے کی جب
یا دونوں عضو ہی جمع ہونے کی جگہ
افکاک (کسر) جھوٹ۔
افکار (کسفس) سوچنا اندیشہ کرنا
افکاک (کسفس) دین کا سایہ کا
خواہشمند ہونا شتر ادہ کا جفتی کے لیے
افکاہ (کسفس) اونٹنی کے دودہ
کا گاڑھا اور کلا ہو جانا جفتی سے
پہلے موسم بہار کی گھاس کھانے کے سبب
افکش (کمف) قحط کا سال۔
افکل (وسفت) لینا اس کے مشتقات
یعنی ماضی مضارع وغیرہ مستعمل نہیں
بولتے آفکل جبکہ سردی یا خوف
کے سبب کانپنے لگے گروہ ماور
افکوہتہ (رسفسف) امر عجیب اور
غریب۔ عجب۔ اچھا۔
افل (رفت) عدی بن حاتم کی
تلوار۔ رخنہ دار تلوار۔
افل (رفت) خوش ہونا
افل (رفس) (رس ن) وعود
افلاء (کسفسم) بچے کو دودھ سے
چھوڑانا۔ جنگل میں ہونا جنگل میں

داخل ہونا۔ گھوڑے کے بچے کا دودھ
چھوڑانے کے وقت کو پہنچ جانا۔
افلات (کسفس) ایک چیز کا فوت
ہونا چھوڑ دینا فوت کرنا
افلاج (کسفس) فتحمندی کامیابی
افلاس (کسفس) کسی شخص کا مفلس
ہونا گویا اس کے درم گھٹ گئے
یا فلوس عدد کو پہنچ جانا کہ سب سے
گھٹ کر ایک پیسا نہیں رکھتا۔
افلاطون (کسفس) افلاطون الٰہی
افلاط (کسفس) اچانک پکڑ لینا
ایک چیز کا فوت ہونا چھوٹ جانا
افلاق (کسفس) شاعر کا کلام
عجیب غریب لانا۔ بلا۔ سختی
افلاک (کسفس) لڑکی کی
چھاتیوں کا گول ہونا۔
افلال (کسفس) زمین خشک میں
نباتات میں پہنچنا۔ چوپایہ اور
مال رہ جانا مفلس ہونا۔
افلتہ (کمف) آفل
سختی حاملہ
افلحج (رفسف) جسکے دونوں
یا چھاتیوں میں دوری ہو

افص (فتح [illegible]) بہت [illegible] اور [illegible]
[illegible] الفت [illegible]
الفوص (فتح [illegible]) خود [illegible]
[illegible] پھرنا [illegible]
[illegible] بعض کو بعض [illegible]
سے زیادہ دینا [illegible]
[illegible]
افقار (کسر [illegible]) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
اور [illegible]
افقاح (کسر [illegible]) حال کا [illegible]
اور [illegible] ہو جانا
افقال (کسر [illegible]) [illegible] ہو جانا
زمین کا [illegible]
افقاہ (کسر [illegible]) [illegible]
افقہ (فتح [illegible]) [illegible]
پھر [illegible] زمین [illegible] آنا [illegible]
سے بال [illegible] ہیں
افقہ (فتح [illegible]) [illegible]
[illegible]
افقہ (فتح [illegible]) [illegible]

افقع (فتح [illegible]) نہایت سپید [illegible]
افقع (کسر [illegible]) جمع
افقع (فتح [illegible]) وہ جسکے [illegible] اگلے [illegible]
[illegible] آگے کو نکل کے ہوں [illegible]
[illegible] ٹیڑھا ہونا [illegible]
افقعہ [illegible]
[illegible]
[illegible]
افک (کسر [illegible]) [illegible] جھوٹ
[illegible] جھوٹ ہونا
افاک (تشدید [illegible]) [illegible]
[illegible]
افک (فتح [illegible]) [illegible] پھیر دینا
یا رائی کو پھیر دینا جیسے [illegible]
جھوٹ بولنا اور [illegible]
یا ران [illegible]
[illegible]
[illegible] مستعمل ہے جیسے افک [illegible]
[illegible]
افک (فتح [illegible]) [illegible]
[illegible] آدمی اور پرندوں
اور چوپایوں میں
افک (فتح [illegible]) [illegible] کا کشادہ

اور عقل جاتا۔
اُفْہار (کسفس) منی انزال جماع کرنا اور دوسرے کے ساتھ انزال کرنا
ایک جوان لڑکی کے ساتھ جماع کرنا اور اوسکی حرکات کی آواز دوسری لڑکی کو سنوانی اس طرح کے جماع کو جعبر
کہتے ہین اور یہہ شرع مین منع ہے۔
جہو دون کا عید مین حاضر آنا یا اپنے مدرسہ مین داخل ہونا۔ گوشت کا جمع
ہو آنا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا
اور بہہ ہوتا یا سب سے بدتر ہی بدلہ مین ٹھنک جینا اونٹ کا ہلاک ہونا
ہونا۔ لڑکی کا ختنہ کرنا اس معنی مین مجہول مستعمل ہوتا ہے جیسے اُفْہِرت الجاریۃ
اُفْہاق (کسفس) برتن وغیرہ کو پُر کر دینا۔ فہقہ یعنی گردن کی جڑ کی ہڈی پر داغ کرنا سبق وغیرہ کا فراخ ہونا
اُفْہام (کسفس) سمجھانا۔
اُفْہاہ (کسفس) کلام کا کسی کو عاجز کر دینا فراموش کروانا۔
اُفْقی (فتف) بکریون کا ریوڑ۔ ایسا جو برس کر کھل جاوے۔
اُفْیاق (کسفس) شاعر کا کلام

جیدکینا اور معانی عجیبہ و غریبہ لانا۔
اُفْیَح (فسنف) فراخ اور وسیع دریا۔ بحر افیح بولتے ہین۔
اُفْیدَۃ (فسکف) جمع فؤاد ضمفس کی
اُفِیق (فمس) بڑا اور ول سا آدھا سنوارا ہوا چمڑا۔ یا وہ چمڑا کہ جسکو دباغت مین ڈالنے سے پہلے چربی
اُفُق (ضمض) اُفْق (فف) اسم جمع۔
اُفِیقَۃ (فکسف) بلا ربد۔ چمڑا آدھا سنوارا ہوا۔ یا وہ چمڑا کہ جسکو دباغت سے پہلے شگاف دیئے گیا ہو۔
اُفِیک (فکس) ضعیف عقل۔ وہ جسنے اپنی کم عقلی سے فریب کیا ہو۔
اُفِیکۃ (فکسف) دروغ۔ جھوٹ
اُفائک (فضسک) جمع۔
اُفِیل (فکس) اونٹ کا بچہ جو دو برس مین لگا ہو یا اس سے زیادہ۔ وہ شتر بچہ جو ابھی مان سے جدا ہوا ہو
اُفال (کفس) اُفائل (فضسک) جمع۔
اُفِیلۃ (فکس) اونٹ کا بچہ کہ ابھی مان سے جدا ہوا ہو۔ ضعیف الرای والعقل۔ وہ شخص جو اپنی تعریف مین اوس چیز پر جو اوسمین نہین ہے تکلف کرے

ضمہ فتحہ کسرہ سکون ضمہ ضمہ فتحہ سکون فتحہ کسرہ ۳۲۲
تا افعل
تا فیل
۱۲

یا یہ لفظ عورتون پستان کی تابع مین مستعمل نہین ہوتا۔ اَفلَجُ الاَسنان مرد جسکے دانتون کا بیچ کشادہ ہو۔
اَفلَح (فسف) جسکے نیچے کا ہونٹھ پھٹا ہو۔
اَفلَک (فسف) جو کہ گول زمین سکے بیچ مین سکے گرد پھرے۔
اَفلُوّ (ضفس) بلوغت کو پہنچا ہوا لڑکا بھرے بدن کا خوش و اچھے بدن کا سو ملا تازہ۔
اُفلِیکاۃ (کسکفس) ہو گوشت کے ٹکڑے جو کپڑے کے گرد مین۔
اَفَنّ (فش) کمی ایک گھاس ہے۔
اَفَن (فف) (س) اونٹنی کا کم شیر ہو جانا ضعیف الرائے ہونا۔ اخروٹ کا بکھر جانا۔ طعام کا اچھا معلوم ہونا لیکن خیر اور برکت اوسمین نہ ہونا۔
اِفنَاءُ (کسفسم) آخر اور نیست کر دینا۔
اَفنَاد (کسفس) ایک ایک۔ اَفنَادُ اللَّیل رات کے حصے۔
اَفنَاد (کسفس) جھوٹ بولنا خطا رائے پر منسوب کرنا۔ زیادتی عمر کے سبب بیعقل ہونا۔
اِفنَاق (کسفس) سختی اور رنج کشی کرنے پیچھے یا ناز و نعمت ہونا
اِفنَاک (کسفس) کسی کے پاس ہمیشہ رہنا۔ جھوٹ بولنا اصرار کرنا۔
اُفعُوَان (ضسفس) سانپ نہایت بڑی عورت لنگی ہوئی بدن کی سخت عمر کی عورت بڑہیا جو لنگ قبر مین پانون لٹکائے ہوئے۔ درخت کی شاخ آپسمین لپٹی ہوئی۔ مجمل اور پوشیدہ کلام۔ غلط ملط قدم گھوڑے اونٹنی کا۔ بلا و سختی۔ شروع جوانی پہلا ابر۔ قسم و نوع۔
شعر۔ آفنتی لینے بال اچھے۔
اَفنیک (کسکفس) مرغ کی دم کی جڑ۔ بُرد و آفوآف بالاضافہ پتلا کپڑا۔ جمع فوف (ضس) کی۔
اُفُوغ (فسف) خلا او رپگار شکار۔
اُفُوف (ضفس) تیز خاطر شتاب کرنے۔
اُفُوق (فسف) تیر سوفار ٹوٹا ہوا۔
اُفُوک (ضفس) (ض ان س) ناجائب ہونا پیدا ہونا افل (کمک) صیغہ لفت ہے۔
اُفُوَہ (فسف) فراخ دہن مرد سا ہی نکلے ہوئے دانت کا مرد سے لینے والت کا۔
اُفُہاء (کسفسم) رائے کا خطا کرنا

آتا کہ معلوم ہو کہ اپنی ناک کی طرف دیکھتا ہی کر دینا۔ آگے آنا۔ ہر ایک چیز کی طرف آنا نقیض ادبار۔ نادانی اور بیوقوفی سے پیچھے دانا اور عقلمند ہونا۔ ایک چیز کو چمٹنا اور اوسکو لازم پکڑنا۔ ایک کام کو شروع کرنا کچھ چیز کسی کے آگے رکھنی۔

**اقبال** (کسفس) دشمن سے شکست کھانی۔ ۔۔۔ سے بیم و خوف دوڑنے میں سرعت کرنی۔

**اقبش** (فسف) جسکا سر ذکر ختنہ سے پہلے باہر نکل آیا ہو۔

**اقبص** (فسف) بزرگ اور لمبے سر والا یا گول سر والا ہو کہ پاؤں کے نیچے سے ایڑی کی جگہہ رفتار میں خالی اور مڑا ہووے۔

**اقبل** (فسف) ٹیڑھی آنکھ والا اتنا کہ گویا اپنی ناک کو دیکھتا ہی۔

**اقبلال** (کسکسفس) قریب ہو جانا۔

**اقبیان** (کسکسفس) منقبض ہونا۔

**اقت** (فس) ایک لغت ہی وقت میں

**اقتاب** (کسفس) اونٹ کی پشت پر جو گیر رکھنا سخت قسم کھانی

**اقتار** (کسکسفس) نفقہ کو عیال پر تنگ کرنا۔ شکاری کا گھات میں داخل ہونا۔ ایک چیز کو لازم پکڑنا مرد کا نیازمند اور محتاج ہونا۔ عود کا خوشبودار دھواں کرنا۔

**اقتال** (کسفس) ہلاک ہونے کے لئے خوار کرنا۔ قتل کا میں لیجانا۔

**اقتام** (کسفس) اکل طعام پر غالب طعام ہونا چھچوری کھانا۔ لاغر ہونا۔

**اقتبار** (کسکسفس) سفوف اور آمادہ کرنا قتادہ چننی۔

**اقتباس** (کسکسفس) آگ یا آگ کی لو پکڑنی۔ فائدہ لعنی اقتباس یعنی فائدہ اور دانش چاہنی۔

**اقتباع** (کسکسفس) مشک اور قربہ کے دہان کے منہ کو اندر کو لپیٹ کر مشک سے پانی پینا۔ یا اوسکے گوشہ کو منہ میں کر کے پانی پینا۔

**اقتبال** (کسکسفس) آگے آنا ضد استدبار۔

**اقتحاب** (کسکسفس) قطع کرنا۔

**اقتلاع** (کسکسفس) ایک چیز کو جڑ سے اوکھاڑ ڈالنا۔

۳۲۵

افیون (ک ض س) خشخاش یعنی پوست کا دودھ ... یونانی لفظ ... سے لیا گیا ہے۔

افیون (ک ض س) دودھ خشخاش کا ... جمع اور سے یعنی افیم

اقامہ (ک فتحہ) جس سے کسی چیز کو نکالو

اقاوہ (ک ف) قے کرانا

اقاتہ (ک ف) قوت یعنی غذا دینا

اقاحۃ (ک ف) خواہش سے جماع کرنے کا قصد کرنا۔

اقاحۃ (ک ف) پیپ کا زخم میں جمع ہو آنا پھر آنا۔

اقاحی الامر اول کار۔

اقادہ (ک ف) کھینچنے کے لیے کسی کو چوپایہ حوالہ کرنا۔ مارنے والے کو مار ڈالنا۔ قاتل کے مار ڈالنے کا حکم دینا۔ سینہ کا فراخ ہونا۔ پیش آنا۔ آگے آنا۔

اقارب الناس و اقربو الناس لوگوں کے رشتہ دار اور سچائی ... اور انکا کنبہ جو باپ کی طرف سے نسب میں نزدیک ہوں۔

اقاسم (ک ف س) جمع الجمع قسم

اقاحۃ (ک ف) ہلکا جھڑکو چیرنا۔

اقالہ (ک ف) او غلطی کو درگزر ... میں پانی پلانا۔ شرع میں بیع فسخ کر دینی۔ گناہ ... معاف کرنا۔ لغزش کو درگزر کر دینا۔

اقامۃ (ک ف) ایک جگہ قیام کرنا اور اوسمیں مقام اختیار کرنا جیسے اقامۃ بالمکان۔ اقامۃ ایک چیز کو ہمیشہ اور برابر قائم رکھنا۔ کھڑا کرانا۔ کسی کی کجی کو سیدھا کر دینا اور اوسمیں کی تیزی نکال دینی

اقب (ک ف) پتلی دبلی کمر والا۔

اقباح (ک س ض) برا ڈھونڈھنا ... کرنا۔ برا ڈھونڈھا پانا۔

اقبار (ک س ف) کسی کی گور بنانی۔ مقتول کو اوس قوم کے حوالہ کرنا کہ اوسے گور میں رکھیں۔ دفن کرنے کا حکم دینا۔ اہل دفن سے کر دینا۔

اقباس (ک س ف) ہوشیار اور دانا کر دینا۔ آگاہ کر دینا۔ آگ دینی۔ فائدہ دینا۔ کسی کے لیے آگ ڈھونڈھنی۔

اقباص (ک س ف) تلوار وغیرہ کا قبضہ بنانا

اقبال (ک س ف) جوتی کے لیے تسمہ بنانا۔ رات کا پیش آنا۔ آنکھ کا کج ہو جانا۔ کسی کو اقبل یعنی ٹیڑھا انکھا ...

کر اوسکو کسی سے سنا ہو یا ایک کو
برگزیدہ کرنا اور اختیار کرنا۔ تمکم کی
راہ سے انگھ ہیا ہنی لیے
اونٹ پر سوار ہونا کہ ایک اور سے
سوار ہوسے ہوں ۔ نئے آب جگہ
میں کنوان کھودنا۔ چوپائے کا
پورسے ماندہ ہونا۔
اقعراض رکسکفس آپس میں
نیزوں سے جنگ کرنا۔
اقتراض رکسکفس کسی سے اودھار
لینا جیسے اقترض منہ یعنی غیبت کرنی
اقتراع رکسکفس برگزیدہ کرنا
آگ جو چکماق سے نکلے پھینکنا۔
اقتراف رکسکفس کسب کرنا
اہل و عیال کے واسطے گناہ
کرنا۔ متہم ہونا۔
اقتران رکسکفس دوسرے
کا یار و ہمدم ہونا۔
اقتسار رکسکفس ایک شخص کو
زبردستی سے ایک کام پر مجبور کرنا
اقتساط رکسکفس قسمت
کرنا۔ بانٹنا اپنا حصہ لینا۔
اقتسام رکسکفس تقسیم کرنی

آپس میں سوگند کھانی۔
اقتشاب رکسکفس اپنی نیکنامی
یا بدنامی پیدا کرنی۔
اقتصاص رکسکفس قلم قط کا تراشنا
اقتصاد رکسکفس میانہ روی کرنی
اقتصار رکسکفس کفایت کرنا
ایک چیز سے گذرنا۔
اقتصاص رکسکفس کسی کے
قدم کے نشان پر چلنا قصاص لینا
چاہنا۔ قصاص کے درپے ہونا۔
قصاص لینا بات کو اوسکی اصل سے بیان کرنی۔
اقتصال رکسکفس کاٹنا
قطع کرنا۔ کٹا ہوا ہونا۔
اقتضاء رکسکفس قرضہ کا تقاضا کرنا
اقتضاب رکسکفس قطع کرنا
کاٹنا۔ اونٹنی جو بیل اور سکھانے سدھانے
ہونے کے سوار ہونا۔ اقتضاب
الکلام فی البدیہہ کلام کہنا۔
اقتضاض رکسکفس جوان لڑکی
کی بکارت زائل کرنی۔ کنوارپن توڑنا
اقتطاط رکسکفس کاٹنا
یا چوڑان پر کاٹنا۔ یا سخت چیز کاٹنا
اقتطاع رکسکفس ایک چیز میں

قشب
قشع
قصب
قصد
قصر
قصص
قصل
قضی
قضب
قضض
قطط
قطع
۳۲۷
۱۱ قضب
۱۱ قصد
۱۲ قصر
۱۳ قصص
۱۴ قصل
۱۵ قضی
۱۶ قضب
۱۷ قضض
۱۸ قطط
۱۹ قطع

اقتبال (رکسکفس) مجشوق ہونا
ہونا جھگڑا و تکرار کرنا - اور
انتقال حصہ نسے قبل کو جانا
ولادت کے سبب موت نزدیک ہونا -
اقتیاث (رکسکفس) او کھاڑنا -
اقتیاد (رکسکفس) کھیرا لیے
پھرنا بندوبست کھانا -
اقتیاد (رکسکفس) ایک چیز کو
کمر کا رخت و متاع بنانا -
اقتیاص (رکسکفس) جڑ سے اوکھا
ڑنا بہت مال لینا - سا را مال لیجانا
جمع کرنا - اکٹھا کرنا -
اقتحام (رکسکفس) مال لینا -
اقتحاش (رکسکفس) تفتیش اور
کسی کے حال کی کاوش کرنی کہ آیا
وہ سخی ہے یا نہیں -
اقتحاف (رکسکفس) پیالہ میں کی
سب کی سب چیز کو کھا جانا - لیجانا -
اقتحام (رکسکفس) بے اندیشہ
ایک کام میں داخل ہونا - سختی میں
پڑجانا - کسی کو خورد و حقیر گننا - ستاروں
کا غروب ہونا - سانڈ کا اونٹنی پر
چڑھنا بغیر اس بات کے کہ اوسے

بیٹھا کریں - ناگاہ ایک جگہ داخل ہونا -
اقتداء (رکسکفس) کسی کے پیچھے چلنا -
اقتداح (رکسکفس) چمچہ یا کفگیر سے
شوربا لینا - کسی کام میں سوچنا -
آتش زنہ کو چقماق سے مارنا تاکہ آگ نکلے
اقتداد (رکسکفس) جڑ سے کاٹنا
طول میں چیرنا - کام کو خوب سوچنا
اعضاء کو جدا اور ممتاز کرنا -
اقتدار (رکسکفس) قادر ہونا - ایک
چیز کو ہانڈی میں پکانا -
اقتذاء (رکسکفس) دیکھنا - پرند
کا آنکھ کو بند کر لینا -
اقتراء (رکسکفس) قرآن کو پڑھنا
اقتراء (رکسکفس) کسی کی پیروی کرنی
اقتراء (رکسکفس) جہان کی
مہمانی کرنی اور اوسکے ساتھ بھلائی
کرنی - شہروں کی تلاش میں جانا اور
ایک شہر سے دوسرے شہر کی
طرف جانا - مہمانی چاہنی -
اقتراب (رکسکفس) نزدیک ہونا
اقتراح (رکسکفس) وقت بے
اور بے اندیشہ بولنا - اپنی طرف
سے ایک نئی چیز نکالنی بغیر اس بات کے

اقتماع (رکسکفس) مشک مین سے
پانی پینا۔ یا سوراخ مشک مین منہ
لگاکر پانی پینا۔ ایک چیز کا برگزیدہ
اور بہتر لے لینا۔
اقتمام (رکسکفس) سیاہ رنگ ہونا
قتمہ یعنی خاکستری یا کاہی رنگ ہونا۔
اقتمام (رکسکفس) بکری کا گھاس
کو لب سے کھانا۔ خواہ بکری ہر ایک
چیز کو کھانا۔ بیماری کے سبب اوسکی
خبر گیری مین محنت اور مشقت کرنی۔
ایک چیز کی ہمیشگی کرنی۔ ایک چیز پر اعتماد
کرنا اور پھر اوس سے خطا کرنا۔
گورن کو زمین پر پہنچنے سے پکڑ لینا
اور سہارا لینا۔
اقتناء (رکسکفسم) کمائی کرنی۔
جمع کرنا۔ ایک چیز کو لازم پکڑنا۔
ذخیرہ جمع کرنا۔
اقتناص (رکسکفس) شکار کرنا۔
اقتنان (رکسکفس) سیدھا کھڑا
ہونا۔ قِن غلام لینا۔ خاموش ہو جانا۔
بز کوہی کا کوہ خودی سر کوہ پر چڑھنا۔
اقتواء (رکسکفسم) کسی کو چاکر کہنا
چاہنا۔ کسی سے خدمت چاہنی۔

قوی ہو جانا۔ لینے لیئے ایک چیز کو
برگزیدہ کرنا۔ سرزنش کرنا۔ ایک چیز
کی قیمت مین زیادہ کرنا۔
اقتیاب (رکسکفس) برگزیدہ کرنا
چن لینا۔
اقتیات (رکسکفس) قوت کھانی
خورش پانی۔
اقتیاد (رکسکفس) چوپایہ کھینچنا۔
چوپایہ کا کھینچنا یعنی لازم و متعدی
اقتیار (رکسکفس) ایک چیز کو گول
قطع کرنا۔ محتاج ہو جانا۔
اقتیار (رکسکفس) بالکو کھودنا۔ تفتیش کرنی
اقتیاز (رکسکفس) جتنے کا کسی کو کھا لینا
اقتیاس (رکسکفس) کسی سے کسے
قیاس مین برابری کرنی۔ اوس کے نقش
پر چلنا کہ اوسپر کوئی دوسرا چلا ہو۔ ایک
چیز کو ایک چیز پر اندازہ کرنا۔
اقتیاص (رکسکفس) جڑ سے اوکھاڑ ڈالنا
اقتیاع (رکسکفس) سانڈ کا جوش میں آنا
اقتیاف (رکسکفس) پیروی کرنی
کسی کے پیچھے جانا۔
اقتیال (رکسکفس) کسی پر حکم کرنا
ایک چیز کو برگزیدہ کرنا۔

مادہ
۳۲۵
۱۲

سے ٹکڑا جدا کرنا۔ کسی کے مال میں سے ایک ٹکڑا لینا۔

اَقْطَع (رسف) ذلیل اور خوار تر۔

اِقْعَاس (رکسکفس) سانڈ کا مادہ پہ چڑھنا جفتی کرے یا نہیں۔

اِقْعَاش (رکسکفس) کوئیں کھودنے والے کا کوئیں میں سے بہت کیچڑ نکالنا۔

اِقْعَاد (رکسکفس) اپاہج و مقعد ہو جانا۔

اِقْعَاط (رکسکفس) بغیر ٹھوڑی کے نیچے پیچ لائے عمامہ باندھنا۔

اِقْعَاف (رکسکفس) اقتعاف (رکسکفس) خواہش سے ایک چیز لینا۔

اِقْعَاش (رکسکفس) انگور کے پھل کو جمع کرنا اور اوسکو بکھیر دینا۔

اِقْتِفَاش (رکسکفس) توشہ دان بھر سینا اور ایک چمڑے کو اوسکے عوض چمڑوں میں لانا۔

اِقْتِفَاء (رکسکفس) کسی کو ایک چیز کے ساتھ خاص کرنا جیسے اقتفی بہ اقتفاء مہمان کے لیے حصہ رکھنا اور آپ نکھانا۔ ایک چیز کو برگزیدہ کرنا کسی کے پیچھے چلنا۔

اِقْتِفَاز (رکسکفس) پیچھے چلنا

پیروی کرنی۔ گزشت ہڈی سے اَلگ کرنا اور کھانا۔

اِقْتِفَاط (رکسکفس) بوک بکرے کا اپنے بدن کو تیج مادہ سے چھپا دینا۔

اِقْتِفَال (رکسکفس) دروازہ کا قفل سے بستہ ہونا۔

اِقْتِفَال (رکسکفس) بکری کے سر کو گلا کاٹنے کے وقت جدا کر دینا۔

اِقْلَاد (رکسکفس) غرق ہونا۔

اِقْلَاز (رکسکفس) کھانا۔

اِقْلَاع (رکسکفس) جڑ سے اکھاڑ ڈالنا۔ اوکھڑ جانا۔ لو چلا جانا۔

اِقْلَاف (رکسکفس) کسی چیز میں سے نئے وزن قلفہ لینا۔ اَقْلَفَت ترشہ اربع قلفات یعنی نے فندق کے میں سے اس سے چار ترشی ناخن کا جڑ سے اوکھڑ جانا۔

اَقْمَشُ (رسف) سیاہ رنگ کا یا کالی رنگ کا۔ نا اَقْمَشُ الرِّیشِ یا زنگ

اِقْمَاح (رکسکفس) سفوف کرنا خشک ستو کھانا۔ گیہوں کا خوشہ میں پک آنا اور خشک ہو جانا۔ نبیذ یعنے انگوری شراب پینا۔

ہمعار ترشا ہوا تیر نیز فی حرم - قدر
رضت ای جمع قذاذ کفس ای جمع الجمع
کچھ تھوڑی سی چیز یا مال - قوم
اقذاء کسقسم آنکھ میں خس خاشاک
گر پڑنا یا اوسکو آنکھ میں سے نکالنا -
لغات اضداد سے ہے -
اقذاذ کسفس تیر پر پر چھیلنا
اقذار کسفس بہت بولنا -
اقذاع کسفس گالی دینی یا بکنا
اقذان کسفس عیبناک ہوجانا -
اقذعرار کسکفس کسی کو
گالی کے بعد گالی دینی یعنے گالی
پہ گالی دینی -
اقذعلال کسکفس متفرق ہونا
اقر کسفس مادی فراخ چراگاہ
اور کھاری گھاس اور پانی سے سیر ہونا
اقراء الشعر شعر کے انواع تمام
اقراء کسقسم پڑھانا کسی پر
سلام پہنچانا - حیض سے آنا حیض
سے پاک ہونا - ستی کا اونٹنی کے
بچہ دان میں قرار پکڑنا - ہوا کا وقت
پر چلنا سکھ جانا - حاجت کا نزدیک
آنا - پیچھے رہ جانا - [illegible]

پوشیدہ ہوجانا - بدلجانا - پوچھنا -
عورت کو استبراء کے لیے بند کرنا
اقراء کسفس گھوڑے پر ہمیشہ جھول رہنی
پشت کا درد گین ہونا - مہمانی
[illegible] نہی - گانو کو لازم پکڑنا
اقراء کسفس گانو کو لازم پکڑنا [illegible]
اقراب کسفس تلوار میان
کرنی - اونٹ کو رات کے وقت
چلانا تاکہ صبح ہوتے پانی پر پہنچیں
اور دن کا [illegible] کے نزدیک پہنچنا -
چھٹے سال کے نزدیک پہنچنا گھوڑی
کے بچے اور اونٹ کے بچے کا
برتن کو [illegible] نزدیک پہنچانا - قوم کا
قوارب اور نفوق کا مالک ہونا -
اقراح کسفس آبلہ زدہ اونٹوں
والا ہونا - کسی کو آبلہ زدہ کردینا -
اقراد کسقس کلام میں عاجز
رہنا اور چپ رہنا آرام وقرار پکڑنا
ذلیل اور [illegible] ہوجانا - اپنے تئیں
پاؤں کی مانند دکھلانا - اپنے تئیں
[illegible] مردہ کر دینا -
اقرار کسفس ایک چیز کو ثابت
کرنا - آنکھ کا خنک کردینا یعنی آنسو

اقتداء (کسکفس) ایک چیز ایک چیز کے بدلے چاہنی یا لینی۔
اقتثام (کسکفس) ناک کا مٹنی۔
اقتثاء (کسفس) جگہ کا گلا ہوا ہونا بہت خیار والا ہو جانا۔ مال وغیرہ کو جمع کرنا اکٹھا کرنا۔
اقتحار (کسفس) گوہان کرنا۔ کوہان نکال لانا۔
اقتحاص (کسفس) کسی سے ایک چیز کو دور کرنا۔
اقتحاط (کسفس) قحط زدہ ہو جانا۔ اس معنی میں مجہولاً مستعمل ہوتا ہے انزال جماع کرنا قوم کا خشک سالی میں پہنچ جانا۔ زمین میں قحط پہنچانا۔ قحط ناک کر دینا۔
اقتحاف (کسفس) سنگریزہ گھر میں جمع کرکے اون پر گھر کا اسباب رکھنا۔
اقتحال (کسفس) پوست کا استخوان پر خشک کر دینا۔ بلا اور خشک بدن کر دینا۔
اقتحام (کسفس) اہل بادیہ کا قحط زدہ ہو کر کھیت اور علف والی زمین میں داخل ہونا کسی کو ناگاہ سامنے اندیشہ ایک کام میں ڈال دینا کسی کو سختی میں ڈالنا

اقحم (فسفف) سخت جاہلا۔
اقحوان (ضسفس) بابونہ اقاحی (فسفک) اقاح (فسکپ) جمع۔
اقیحی (ضفسک) تصغیر۔
اقذاء (کسفس) طعام کو خوشبودار مزیدار کر دینا سفر سے پھر آنا۔
اقدار (کسفس) قادر کر دینا۔
اقداع (کسفس) روکنا۔
اقدام (کسفس) آگے آنا جرأت کرنی چنانچہ کہتے ہیں اقدم یعنی آگے آ اور جرأت کر اور یہ کلمہ گھوڑے کے زجر کے لیے ہے دلیری کرنی کسی کو دلیر کرنا آگے بھیجنا۔ سوگند کھلانی بہت پیشی کرنی۔
اقدح (فسنف) مکھی۔
اقدحرار (کسکسفس) بدی و فساد جنگ اور گالی دینے کے لیے آمادہ ہونا
اقدر (فسنف) کوتاہ گردن پست قد گھوڑا جسکا پانوں نشان میں بجائے ہاتھ کے پڑے یا گھوڑا جو اچھی جگہ پر پانوں کو ڈالے یا اسکے پانوں ہاتھ کی جگہ سے گذر جاویں۔
اقدد (فسفت) بے دار تیر۔ بے پرکا تیر

دوسرے مین سرایت کر جانا-

اقرام (کفعش) سردار کر دینا اونٹ کو قرم بنانا-

اقران (کفعش) ایک کام کو کر سکنا اور اوس پر قادر ہو جانا-ایک کام سے شکستہ ہونا اور اوس سے نکر سکنا- لغات اضداد سے ہے- راہ سے پھر جانا- خون کا رگ مین زیادہ ہونا- حج اور عمرہ کو اکٹھا کرنا- دو تیر اکٹھے پھینکنے- خوش رفتار اونٹنی پر سوار ہونا- قرون اونٹنی کو دوہنا- چاشت کے وقت بوکل بکرے کو ذبح کرنا- اپنے پانی اور امور زمین سے عاجز آنا- اپنے پانی اور زمین کے امور پر قادر ہونا- لغات اضداد سے ہی دو معنے مین- دو سر پستان کو جمع کرنا سر نیزہ کو اوٹھا لینا تاکہ کسی کو نہ لگے- تیردان اور رسی کو پہنا- دو قیدیون کو ایک رسی مین باندہنا- ہر شب ایک سلائی سرمہ کی آنکھہ مین لگانی- میعہ کا ہمیشہ سینا- ثریا کا بلند ہو جانا- دمل کا منہ کرنے کے نزدیک آنا- توانائی اور قوت دینی

اقرب (رفسف) نزدیک تر- اقربون (رفعس) اقارب (فعنک) جمع-

اقرط (رفسف) بوکل جسکے کٹے ہوے کان کا ٹکڑا لٹکا ہو-

اقرع (رفسف) کامل و تمام خیالیہ ألف قرع بولتے ہین سخت او درشت جگہہ- سخت او درشت ڈہال- قرع (رفسف) جمع- پوست اوتاری لکڑی

محدود- اقرع بولتے ہین کنکریون سے سنجا ہوا پیالہ کہ جسکے نقش و نگار رمچک گئے ہون چنانچہ قدح اقرع بولتے ہین- اچھے لوہے کی تلوار- ایک قسم کا سانپ جسکے بال جھڑ گئے ہون- گنجا مرد کہ جسکے سر کے بال بیماری کے سبب گر گئے ہون- قرعاء (رفسعم) مونث- قرع (رفس) قرعان (رفسفس) جمع-

اقرعباب (کسعفس) سردی وغیرہ سے سکڑ جانا-

اقرعفاف (کسعفس) سکڑ جانا

اقرف (رفسف) نہایت سرخ-

اقرفہ کیا اچھا اور کیا لائق ہو وہ-

اقرم (رفسف) عزیز و گرامی اونٹ

ماده

قرم

قرن

قرب

قرط

قرع

قرعب

قرعف

قرف

قرم

٢٢٣

١٢

قرس
قرش
قرص
قرض
قرع
قرف

نمک کرنا کہ اشک خشک دلیل شادی ہے اور اشک گرم دلیل غم ہے سردی پہنچانی خشک کردینا سرما میں خلل ہونا۔ اقراس سے لپٹے اوپر ایک چیز لازم کرلینی۔ آرام وقرار پکڑنا قائم رکھنا۔ کام کو قرار میں لانا اونٹنی کا حمل ثابت ہونا۔ آب گشن کا مادہ کی زہدان میں قرار پکڑنا۔ آرام کرنا بطن وادی میں باقی رہے ہوے چانے سے کو ڈھونڈنا۔ سیر ہونا۔ موٹا ہو جانا چوپایہ کا موٹاپے کا نہایت کو پہنچ جانا۔ ہڈی کے ساتھ قرارہ سالن بنانا۔ ہانڈی کے پیندے میں سے قرارہ لینا۔ آب خنک سے غسل کرنا۔

اقراش (کسفس) خشک کرنا پانی کو ٹھہرانا۔

اقراش (کسفس) غیبت کرنی چغلخوری کرنی۔ زخم استخوان کو بغیر ریزہ کرنے کے چیرنا۔

اقراص (کسفس) اونگلی کے سرے سے پکڑنا۔ ایک چیز کو اونگلی کے سرے سے دھونا۔ ۳۳۲

اقراض (کسفس) ادہار دینا زمین چیز میں سے کچھ حصہ کسی کے پاداش میں جدا کرنا نیکی اور بدی کو آگے بھیجنا۔

اقراع (کسفس) کسی کو ایک کام سے روکنا۔ کئی شخصوں کے درمیان قرعہ پھینکنا۔ مسافر کا قریب منزل کے پہنچ جانا۔ چوپایہ کو لگام سے مارنا تاکہ ٹھہر جائے۔ لپنے گھر میں خشت پختہ کا فرش کرنا۔ شرو بدی کا دائم اور پائدار ہو جانا غوطہ خور کا زمین پہ پہنچ جانا۔ گدہوں کا آپس میں ایک دوسرے کو لات ملرنا کسی کو برگزیدہ کر دینا۔ یا اصیل اور نجیب سانڈ کو جفتی کے لئے کسیکو دینا حق کی طرف پھر جانا۔ نرم اور ذلیل اور خوار ہونا۔ عزت دار بلند مرتبہ ہو جانا لغات اضداد سے ہے۔ ایک کام سے تنگ رہنا۔ قادر ہونا۔ مشورت نہ قبول کرنی

اقراف (کسفس) کسی کے نزدیک جانا ملجانا آمیختہ ہو جانا۔ کسی پر تہمت لگانی عیب کرنا کسی کا بدی کے ساتھ ذکر کرنا کسی کی بیماری کا

| مادہ |
|---|
| [illegible] |
| ٣٣٥ |
| قصو |
| قصب |
| قصد |
| قصر |

اِفتیان [illegible] [illegible]

افتتان (کسکسفس) آزمائی
عموماً اور دوسری بہ ضمیر کا ہو جانا —
ایک کام کا گذر جانا جیسے افتتان
فی العمل بات کا خوب تاریک ہونا —
اقتنا (کسفسم) دولتمندی کے
پیچھے دردمند ہو جانا —
اقتناش (کسفس) چمک سے
اچھا ہو جانا۔ شہر کی خشکی زیادہ
ہونی — گروہ کا چلا جانا —
اقتناع (کسفس) پراگندہ ہونا
دل کا غم سے کھل جانا — بھلا
ابر کو پراگندہ کرنا اور کھول دینا —
ابر کا پریشان اور کھل جانا — پانی
سے پھر جانا —
اقتشر (فسق) پوست اُکھڑا ہوا
جنگجو مرد جسکی ناک کا پوست گرمی
کے سبب جاتا رہا ہو — نہایت سرخ
جسکا پوست رنگین ہو —
اقتشع (فسق) خندگی اور گرانی سبب
اقتشعرار (کسکسفس) بدن پر
بال کھڑے ہو جانے — سال کا
خشک اور تنگ ہو جانا —

[illegible] اقتضّ [illegible] سال تنگ
ہر چیز کا نقصان [illegible]
اقتصار (کسفسم) دور کر دینا —
چھانٹنا برگزیدہ کرنا — تقسیم اور نبی کو
مہیا رکھنا — اطراف لشکر کو نگاہ رکھنا
اقتصاب (کسفس) زمین کا بانس
سے بھرا ہونا — یعنی زمین بانسوں کا
بہت پیدا ہونا اور بانس زمین بہت
آگے کھڑے ہوں — چرنے کے
پانی کو مکروہ جاننے والے اونٹوں
اقتصاد (نسفس) اٹھا ہوا نیزہ —
اقتصاد (کسفس) تیر کا منہ پر جا لگنا
اور وہیں مار ڈالنا کسی کو نیزہ مارنا
اور خطا نہ کرنا کسی کو سانپ کا کاٹنا
اور اوسے ہلاک کر ڈالنا —
اقتصار (کسفس) ایک کام سے
رک رہنا شام کے وقت آنا —
گھنگنے قد کا بچہ جننا — بکری بہت
برسوں والی ہونا — کلان سالی کے
سبب بکری اور بھیڑ کے دانت گھس
جانے — مدرکنا — اختیار سے ایک
چیز میں سے باہر کھینچ لانا — نماز کم
کوتاہ کرنا — علیحدہ پڑھنا —

کہ جسکو عربی میں [illegible] لایں۔
اقرل (رفسف) [illegible]
اقرنباع (رکسفس) جاڑے کے مارے سکڑ جانا۔
اقرنداح (رکسفس) کسی بچہ کا ڈھونڈھنے
اقرنداح (رکسفس) کسی چیز کا [illegible] اکنا بکنا۔
اقرنشاع (رکسفس) ہانفی ہونا [illegible] سر ہلانا [illegible]
اقرنصاع (رکسفس) کپڑے میں پیچیدہ ہونا۔
اقرنقاط (رکسفس) سمٹ جانا جمع ہونا۔ جمع کر لانا مادہ [illegible] اپنی کیس کے کنارہ کو جنتی کے وقت
اقرنقاع (رکسفس) [illegible] ہوش میں آجانا معمولا مستعمل ہے
اقرنماط (رکسفس) غصہ [illegible] چہرے کا سکڑ جانا۔
اقرنفۃ (رفسف) زرد اندام [illegible] میلا کچیلا۔ گھنچلی۔
اقرا (رکسفسم) سستی اور [illegible] کے پیچھے عیبناک ہونا۔

اقتعار (رکسفس) [illegible]
[illegible] جسکے گزر جانا
اقزال (رکسمفس) کسی کی ساق وغیرہ کو توڑنا۔
اقزل (رسف) جو کہ لنگڑا اور بایک ساق کا ہو اکھٹا۔ بعض نے لنگڑا یا یکساق والا ایک قسم کا سانپ۔ اقزلان دو سیر عقاب کے درمیان دو دیر میں [illegible] جمع
اقساح (رکسفس) [illegible] دل کو سخت کر دینا سکوت سامن سکونت اختیار کرنی [illegible] دیر تک رہنی اور بہت ہونی۔
اقساط (رکسفس) عدل وداد کرنا
اقسام (رکسفس) سوگند کھانی۔
اقسان (رکسفس) ہاتھ سخت ہو جانا العادہ میں پانی بھرنے اور کھیتی کے کام سے گٹے پڑ جانے۔
اقسط (رفسف) گھوڑا جسکی ساق کی سیدھی ہو۔ اونٹ جسکے پانوں کے پیچھے خلقی خشک ہوں۔
اقشوتہ (رفسفسف) [illegible]
اقاسیم (رفسکس) جمع۔

[illegible]

اقضم (فسف) مرد جسکے دانتوں کی آفت قضم پہنچی ہو۔
اقط (ضش وفش کس) اقط (فض وفک وفت) اقط (رگ) جمی ہوئی دہی کہ اوسمین سے مٹیت ہرگز نرہی ہو۔ فارسی مین پنیر اور ترکی مین قرقوت اور ہندی مین پنیر کہتے ہین
اقطان (ضفس) جمع۔
اقطاط (ض) (رض) کھانے مین پنیر ملانا۔ پنیر کھلانا۔ زمین پر پچھاڑ دینا۔ دفنا دینا۔ ملا دینا۔
اقطاب (کسفس) شراب کو ملانا۔ قوم کا مجتمع ہونا۔
اقطار (کسفس) ٹپکانا۔ ایک چیز کے ٹپکنے کا وقت آنا۔ ایک چیز کو اوسکے قطر پر ڈالنا۔ اونٹ وغیرہ کی قطار باندھنی۔
اقطاع (کسفس) کٹا ہوا کپڑا قطع کیا ہوا۔ ثوب اقطاع بولتے ہین
اقطاع (کسفس) سرزنش اور ملامت کرنی کسی پر حجت مین غلبہ کرنا۔ کوئین کے پانی کا منقطع ہو جانا۔ کپڑے کا کافی ہونا کسی کو زمین فراخ مین سے ایک ٹکڑا بخشنا درخت کی شاخون کو کاٹنے کے لیئے حکم دینا۔ مرغی کا کڑک ہو جانا یعنی انڈا دینے سے رک رہنا۔ خرما کے کاٹنے کا وقت آپہنچنا۔ منقطع اور آخر اور بند ہو جانا۔ مینھہ کا قوم سے رک رہنا کسی کی طرف نہر گذرانی کسیکی حجت اور جواب آخر اور منقطع ہو جانی اور اوسکا خاموش اور ملزم ہو جانا
اقطاف (کسفس) قطوف یعنی پھل کا مالک ہونا۔ انگور کا پھل کاٹنے کے وقت کو پہنچ جانا۔ قوم کے انگور کاٹنے کا وقت نزدیک ہونا۔
اقطعہ (ففف) ہزار خانہ کے پاس اوجھہ کے متصل ایک چیز ہے۔
اقطار (کسکفس) گھاس کا خشک ہو جانے پر آمادہ ہونا۔ لوٹ لینا۔ اونٹنی کا حاملہ ہونا اور اوسکا اپنی دم اور سر کو اوٹھانا
اقطع (فسف) ہاتھ کٹا چور۔ ریزہ
اقطعرار (کسکسفس) سانس کا ہانپنے اور دمہ کے سبب منقطع ہو جانا۔
اقطعنان (کسکسفس) ہیچی
اقطعرار (کسکسفس)

مادہ
قطع
قطع
قطع
قطع
قطع
قطع
قطع
قطع
قطع
قطع
قطع
قطع
قطع
۲۲۴
قطع
قطعن
۱۲

| مادہ | | |
|---|---|---|
| قعص، قعطل، قعف، قعم، قعو، قعی | اقعاص (کسفعص) اونٹ کا لاغری کے سبب اوٹھ نہ سکنا۔ سلطان وقت کا کسی کے درپے قصاص ہونا اور اوسکو مظلوم کے قریب کردینا تاکہ زخم کی مانند اوسکی زخم کرے یا اوسکو مقتول کے عوض مار ڈالنا۔ قاتل سے آپ قصاص لینے پر آمادہ ہونا۔ مادین کو خواہش نر کی جاتی رہنی اور اوسکا حاملہ ہوجانا اور حمل کا ظاہر اور پیدا ہونا۔ زمین کا قصیعہ اوگانا۔ عرفے کے نزدیک آنا۔ عرفے کے نزدیک لانا۔<br>اقعاف (کسفعس) ارطی کا تنک اور باریک ہونا۔<br>اقعص (فسف) کوتاہ۔ اقاصر۔ تنگ جمع تنگ گردن والا۔<br>اقعنلال (کسکسفس) آفتاب کا اوسے آسمان پر پہنچنا۔<br>اقعف (فسف) جسکا اگلا دانت آدھا ٹوٹا ہو۔<br>اقعم (فسف) جسکا اگلے دانت کا آدھا ٹوٹ گیا ہو۔<br>اقعی (فسف) اونٹ جسکے | کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو۔ جمع اقعلی لیے کہتے ہین۔ مکان مکان جمع اقعو ہوئے ہین۔<br>اقعنلال (کسکسفس) کسی کو پکڑنا۔ جیسے اقعال لہ ایک جگہہ مین اقامت کرنی جیسے اقعال بہ<br>اقعام (کسفسم) اوٹھانا۔<br>اقعاث (کسفعس) زمین کا کھانے کے لائق گھاس اوگانا زمین کا سبزہ ناک ہونا۔<br>اقعاط (کسفعس) ستو خشک چیز قند وشکر وغیرہ ملانی۔ جگہہ کا کنکری بھرا ہونا۔ گوشت پارہ کا خاک آلودہ ہونا۔ باریک اور دقیق کاموں کے درپے ہونا۔ سونے کی جگہہ کا سخت اور خاک آلودہ ہوجانا۔ خوابگاہ کو سخت اور خاک آلودہ کردینا۔ ایک چیز کو خاک بھری اور سنگریزہ آلودہ چھوڑ دینا<br>اقعام (کسفعس) الندہ مین ڈالنا اونٹ کا اپنی ٹھوڑی کو حرکت دینی۔ خشک سال مین قوم کا ایک شہر سے تھوڑا سا طعام لانا۔ چوپایہ کو تعنیم کھلانا۔ |

اقعاع (کسفس) کڑوے پانی کا ڈھیر پر کوان کھودتے وقت قوم کا پہنچ جانا۔ قوم کا کڑوے پانی پر آ اوترنا۔
اقعال (کسفس) انگور کا گل لے آنا
اقعام (کسفس) بیمار ہو جانا۔ مجہول مستعمل ہوتا ہے۔ آفتاب کا اونچا چڑھ آنا۔ سانپ کا کاٹ کھانا اور اوسکا ہلاک کر دینا۔
اقعس (فسف) مرد جسکا سینہ باہر کو اور پشت اندر کو ہو گئی ہو۔ گھوڑا جسکی پشت پست اور پچھا اونچا ہو۔ اونٹ جسکی گردن اور سر پشت کی طرف مائل ہو۔ شب دراز۔ سرفراز اور بیدرنگ قدو باعزت پائدار مرد۔
اقعطرار (کسکسفس) ہانپنے اور دمہ کے سبب دم کا آخر ہو جانا۔
اقعنداد (کسکسفس) جائے مین اقامت کرنی جیسے اقعندد بالمکان
اقعنساس (کسکسفس) پیچھے ہٹ جانا۔ پیچھے رہنا۔
اقعنصار (کسکسفس) کھیتی کے کام مین کوتاہی کرنی۔

اقعنفاز (کسکسفس) اپنے تئین سمیٹ کر بیٹھنا۔ یا پاؤن کے پنجے پر اور پھر اٹھنا۔
اقعی (فسف) جسکی ناک کا سر بلند اور ہڈی جیسان ہو۔
اقعیلال (کسکسفس) انگور کا گل لے آنا۔ سواری مین سیدہا ہونا۔
اقفاء (کسفسم) ایک کام پر تفضیل دینا جیسے اقفاہ علیہ اقفاء کسی کو ایک چیز کے ساتھ خاص کرنا جیسے اقفاہ بہ۔ کسی کو ایک کام کے لیئے ہرگز دہ کرنا۔ قفی کہنا۔ مہمان کے لیئے نوالہ اور حصہ رکھنا اور مہمان کو لینے اور تفضیل دینی۔
اقفاح (کسفس) کاسے یا دین کا یا مادہ گرگ کا نر کا خواہشمند ہونا۔
اقفار (کسفس) جگہہ کا خالی ہونا۔ جگہہ کا بغیر گھاس اور پانی کے ہونا۔ مرد کا اپنے لوگون سے صحرا مین وحد جا پڑنا اور بے طعام ہونا۔ بغیر سالن کے ہو جانا۔ بھوکھا ہو جانا۔ جگہہ کو خالی اور بغیر گھاس اور پانی کے پانا۔
اقفاص (کسفس) پنجرہ کا مالک ہوتا

مادہ
قعع
قعل
قعم
قعس
قعطر
قعدد
قعس
قعصر
قعفز
قعو
قعل
قفو

۳۳۹

۱ قفو
۱ قفل
۲ قفو
۳ قفح
۳ قفر
۵ قفص

۱۲

اودنا یعنی (رفضم) جب کا منہ ڈالا ۔

آقطنی (رفسف) پشت خم و خمیدگی

ظہرہ اقطن جمع بولتے ہین ۔

آقطوعہ (رمنسف) الگ ہو جانے اور آپس مین ٹوٹ جانے کا نشان کہ وہ دوست ایک دوسرے کو آپس مین چھوڑیں ۔

اقطیرار (رکسکسفس) گھاس کا خشک ہونے لگنا اور اوسکا لپٹنا اور خمیدہ ہونا غصہ کرنا ۔ اونٹنی کا بھاگ جانا

اقطیطاء (رکسکسفسم) زقنا مین قدم پاس پاس رکہنا ۔

آقعاء (رکسفسم) ایک چیز پر تکیہ لگانا جو پیٹھہ کے پیچھے ہو ۔ جیسے اقعونی علاوہ اقعاء گھوڑے کو پیچھے ہٹانا ۔ کتے کا کون پر بیٹھنا مفسرون کے نزدیک نماز مین اقعاء یہ ہے کہ دونون سجدون کے درمیان مین اپنے دونون سرینون کو اپنے دونون ایڑیون کے اوپر رکہنا اور یہ ممنوع ہے اور اہل لغت کے نزدیک یہ ہے کہ سرینون کو زمین سے لگا دے اور ساقین کو کھڑا کر لیوے اور پیٹھہ پر سہارا لگا لیوے ۔ سرینی کا پلید

اوسکی پر چسپان ہونا ۔

اقعاث (رکسفس) اسراف کرنا ۔ کسی کو بخشش بہت دینی ۔

اقعاد (رکسفس) ایک بیماری ہے جو اونٹ کی ران مین عارض ہوتی ہے اور اوسے اوسکی جگہہ پر تہکا رکہتی ہے ۔

اقعاد (رکسفس) یعنی اقعاد کسی کی خدمت کرنی کسی کو اوسکے کسب کا کفایت کر جانا بیٹھانا ۔ لنگڑا ہونا ۔ کسی کو اوسکی جگہہ پر تہکا دینا ۔ کوئین بقدر قعدہ اور بیٹھنے کی جگہہ کے کھودنا یا کوئین کو پانی تک نہ پہنچا کر چھوڑ دینا

اقعار (رکسفس) کوئین کو تھاہ تک پہنچانا ۔ وہ تھاہ اکا کہڑا ن بنانا ۔

اقعاس (رکسفس) دولتمند اور بہت چیز اور بہت مال والا ہونا ۔

اقعاص (رکسفس) کسی کو اوسکی جگہہ پر مار ڈالنا ۔

اقعاط (رکسفس) قوم کا کسی سے جدا ہو جانا آواز و فریاد کرنی کلام مین سختی کرنی فحش کہنا ۔ کسی کو ذلیل و خوار لو پکا رکہنا ۔

اقعاظ (رکسفس) کسی پر دشوار کرنا

نقطن ہ ہ نفعل ہ ہ فعلی ہ ہ تفعلی ہ ہ فعنن ہ ہ فعسوس ۳۳۸ بعتس ہ ہ افقص ہ ہ فعط ہ ہ فعظ

اونٹنی کا گابھی ہونے کے موسم میں موٹا ہونا یا اوسکا فراخ سال میں آپہنچنا اور اونکے دودھ کا زیادہ ہونا۔

**اقلاع** (بکسرہ) ایک کام سے رک رہنا۔ اونٹ کا مشق سالگی سے ہفت سالگی میں داخل ہونا۔ کسی کو تپ کا چھوڑنا اور جگہ دینا۔ دنیا کا کشتی کو اوٹھانا اور بلند کرنا۔ خیمہ بنانا۔

**اقلاق** (بکسرہ) ہنسے آرام کرنا۔ اپنی جگہ سے بے چین ہونا۔ حرکت دینی۔

**اقلال** (بکسرہ) کم کرنا۔ ایک چیز کو تھوڑا پانا۔ تھوڑا لانا۔ ہلکا سا اوٹھانا۔ اوٹھانے کی طاقت رکھنی کسی چیز اور سعید شی ہونا۔ کسی کو چھوڑ کر اور لرزہ کا پکڑ لینا۔ دولت کی کمی۔

**اقلف** (بفتحہ) ختنہ کا پیرا ہونا۔

**اقلحہ** (بفتحہ) ایک چھوٹا سا جانور جوگوہ کی گولیاں بنا کر ڈھکا کے لیجاتا ہی یعنی گبریلا۔ زرد دانتوں والا آدمی۔

**اقلحام** (بکسرہ) بڑی عمر کا ہو جانا۔

**اقلط** (بفتحہ) بہت نا امید۔

**اقلعتات** (بکسرہ) بہالتان کا بہت پشوان اور گھونگر والے ہونا۔

**اقلعداد** (بکسرہ) بمعنی اقلعتات۔

**اقلحاد** (بکسرہ) جلد بڑھا ہونا جھوروں میں منہ اوٹھا کر پڑے سے پھرنا۔

**اقلعطاط** (بکسرہ) بالون کا پشوان ہونا اور اونکا سخت ہونا۔

**اقلعفاف** (بکسرہ) اوسکا کھنچا ہوا ہونا سردی یا ڈر سے۔ سپہ کی کھیون کا سکڑ جانا۔ لوچ کا اونٹنی کی طرف ضعف کے وقت متوجہ ہونا اور منضم ہو جانا اور اونٹنی پر اوس حال میں سوار ہونا۔ اکڑ کر اپنی دونوں پاؤں کے بل کھڑا ہونا۔

**اقلف** (بفتحہ) ختنہ نکیا ہوا لڑکا۔ قلف (بضمہ) جمع۔ زندگانی فراخ اور خوش۔ تلوار جو ایک دیار کی ہو اور اوسکی باڑ میں تنگی ہو۔ ارزانی اور فراخ سال۔

**اقلواد** (بکسرہ) کسی کو نیند کا دبا لینا اور اوسپر غالب ہونا۔

**اقلمیدد** (بکسرہ) اونٹنی کا حلقہ بینی کھینچنی۔ برگ خرما کی رسی کا کہ بنی کے سر سے کو اوس سے باندھتے ہیں دونوں سے کی مانند ایک کا انسی کا تانا۔

علامات اعراب ضمہ کسرہ فتحہ سکون تشدید

اندہ کا مالک ہونا۔
[redacted]
ہوجانا۔ اندرون کا سمیٹ لانا۔ آنکھ
سے اشک کا جاری ہونا۔ آنکھ کی
سیاہی کا اونچا چڑھ آنا۔
اقفال (کسفس) کسی پر نگاہ ڈالنی
کسی کو ایک کام پر جیح کرلانا۔ قافلہ کرنا
دروازے کو قفل لگانا۔ خشک کرنا۔
لشکر کو چلنے سے روک دینا۔
اقفان (کسفس) بکری کو گردن
کی طرف سے ذبح کرنا۔
اقفد (فسف) لٹکی ہوئی سست شانہ والا
گردن والا۔ یا ذرا لنگر دن والا۔
جو کہ پنجوں کے بل چلے اور ایڑی
زمین سے نہ لگے۔ موٹے ہاتھ موٹی
چھوٹی انگلیوں والا۔ چارپایہ جسکے
چلنے میں اسکے سم پر خمیدگی ہو
اور یہہ عیب ہے۔
اقفز (فسف) گھوڑا جسکا ہاتھ
کھینی تک سپید ہو۔
اقفش (فسف) جسکا باپ غیر عربی
اور ماں عربی ہو۔ جو چیز کہ چھوٹے
اور بڑے اور پھر جھک جاوے۔

اور خم ہوجاوے۔
اقتسف (فسف) مرد جسکے پاؤں کی
انگلیاں ٹیڑھی ہوئی ہوں۔ مرد جسکا
سر نگون ہے۔ قفع (ضس) جمع۔
اقفعلال (کسفس) ہاتھ کا کھنچا
ہوا اور تنا ہوا۔
اقفیطاط (کسفس) بھیڑ اور
بکری کا نر کو ذبح دینا۔
اقفل (فسف) درویش مرد محتاج
کہ اوسکو تھوڑی سی غنا اور تونگری ہو
اقلاب (کسفس) انگور کا دست اور
اوسکا باہر خشک ہونا۔ مٹی کے پلٹ
سے رنے کا وقت آپہنچا۔ خدا تعالیٰ کا
کسی کو مروا ڈالنا۔ قلاب مارے ہوئے
والا ہونا۔ پھیر دینا۔
اقلات (کسفس) بیٹے مرجانے
کی عادت ہونی عورت کی۔ ہلاک یا
جائے ہلاک میں ڈالنا۔
اقلاد (کسفس) دریا کا کسیکو غرق کردینا
اقلاز (کسفس) مڈی کا اپنی دم
کو زمین میں گڑوانا تاکہ انڈا دے۔
اقلاص (کسفس) اونٹ کا تھوڑا
سا کوہان پیدا ہونا اور اوسکا نکلنے لگنا

مادہ

اقحام (ک س ض) سانڈ کا ماندہ کر دینا سانڈ کا اونٹوں کو یہاں تک مارنا کہ خشک ہو جاوے۔

اقحمد (ف س ف ت) دلدار گردن والا۔

اقحمر (ف س ف ت) سپید [illegible] سیہری مائل سپید کہ تیرگی مائل [illegible]

[illegible] ہوتے ہیں اور سیاہی [illegible]

اقمر [illegible] ہیں۔ چاند سا چہرہ۔

[illegible] ہیں۔

اقمطر (ک س ک س) دن سخت ہونا۔ بچھو کا اپنے تئیں جمع کرنا اور اپنی دم کو سٹ دینا۔

اقمع (ف س ف ت) جسکی پلک کی جڑ میں چھوٹا سا آبلہ پھول آیا ہو۔ قمع رسن [illegible] گھوڑا جسکا کوئی سا زانو سوج گیا ہو جسکے گلے کے زخرے کی ہڈی بزرگ ہو۔ [illegible] ناک [illegible] یا [illegible] کی ہڈی بھی بزرگ ہو۔

اقمطاط (ک س ک س) پیٹ کے اوپر کے سرے کا بزرگ اور موٹا ہونا اور نیچے کے سرے کا لاغر باریک ہونا۔ یا [illegible] اور اسکے بعض کا بعض پر حائل ہونا۔

اقمہد اد (ک س ک س) سر اونچا اٹھانا اور داڑھی [illegible] اونچا رکھنا۔ ایک جگہ میں اقامت کرنی۔

اقتناء (ک س ک س) کسی کو قتل [illegible] کرنا۔ مار ڈالنا۔ پوست کو ہٹانا اور کاسد کر دینا کسی کو توڑنا اور فاسد کرنا

اقتناص (ک س ک س) ایک چیز کو لازم پکڑنا۔ [illegible] ذخیرہ جمع کرنا

اقتناع (ک س ک س) خوشنود کرنا کسیکو ایک چیز دینی کہ جس سے [illegible] شکار کا شکاری کو قابو دینا اور اسکو اسکے اوپر قادر کر دینا۔

اقتناءة (ک س ک س) دیوار کی جانب کہ جسکی طرف پانی بہتا ہے۔

اقتناب (ک س ک س) گھوڑوں کی [illegible] میں چالیس کو پہنچ جانا۔ قوم کا [illegible] متقلب ہونا۔ قرض خواہ یا سلطان کے خوف سے پوشیدہ ہونا۔

اقتناع (ک س ک س) دشمن پر بد دعا کرنی۔ نماز میں دیر تک کھڑا رہنا۔ ہمیشہ حج کرنا۔ کفار کے ساتھ [illegible] جنگ کرنی۔ خدا کے واسطے فروتنی اور عاجزی کرنی۔

٣٤٢

١٢

سے گزشتہ ادوار کے ... شہر کے
طرز پر بیٹھا ہے ہیں۔ گویا
اقلاد (رکسفس) جمع۔
اقلال (رکسفس) کم کرنا۔
... آرام ہونا۔ ایک جگہ پر قرار نہ پکڑنا
شتاب اور جلد کرنا۔ پہاڑ پر چڑھنا ...
اقلولی (ع) الجبل پرندہ کا درخت کی
چوٹی پر بیٹھنا۔ پرندہ کا آسمان پر ...
اقلیلی (رکسفس) اسباب۔
اقلیم (رکسفس) ربع مسکون کا ساتواں
حصہ۔ اقالیم (رفسکس) جمع۔
اقلیمیا (رکسفس) چاندی کا ...
سونے کا دھواں کہ گلانے کے وقت
اوٹھتا ہے یا ایک دھواں ہے۔ حضرت
آدم علیہ السلام کے صاحبزادی کا نام
اقما (رکسفس) چوپائے کا موٹا
ہونا۔ کسی کو ذلیل اور خوار و حقیر کرنا
تعجب میں لانا۔ چراگاہ کا اونٹوں
کو موافق آنا۔
اقماح (رکسفس) حلق کا تنگی کے
سبب ... کے سر کو اوپر اٹھا رکھنے
... خوشہ کا دانہ پکڑ لینا۔
... خوشہ میں دانہ پڑ جانا۔ سر اونچا

اور گھانا آنکھ بند کر لینی ... کی
اقماح (رکسفس) بزرگ شخص کرنا
... اونٹوں کی طرح سے بیٹھانا
... آنا تھا
اقماد (رکسفس) گردن بلند کرنی
... کرنا ... کو ...
اقمار (رکسفس) ... سے ...
آنکھ ... آنا کہ جاڑا آتا ہے اور ...
شیر یعنی خراب کر دے ... کا
بہت گھاس میں ... ہونا۔
چاندنی میں داخل ہونا۔ چاند کے
نکلنے کا منتظر رہنا۔
اقماز (رکسفس) ذخیرہ ملک رکھنا۔
اقماش (رکسفس) پانی میں غوطہ دینا
اقماع (رکسفس) کسی کو خوار اور
حقیر کر دینا ... کا گلے میں ...
... کے اوتر جانا ... کے نیچے
کا کوہان نکال لانا ... کا
... کوہان والا ہونا ...
اقمال (رکسفس) درخت گھاس کا
شگافتہ ہونا اور اوسکا پتے نکالنے
درخت کے چھوٹے چھوٹے ...
ظاہر ہونے۔

علامات اعراب مختلف مستعملہ ض ضمہ ف فتحہ ک کسرہ س سکون ت تشدید م

اور تابعدار یعنی گردن والا سخت
اور مضبوط گردن والا۔ جو کہ توشہ
اور زاد پر بخیل ہو۔ بننا پہاڑ۔ جو کہ
ایک چیز کے آگے آوے اور
اوس سے باز رہے۔ گھوڑا یعنی
پشت اور گردن کا۔
اقورار (کسکفس) دبلا ہونا۔ بدلگا
تشنج زدہ ہونا۔ بدلجانا۔ موٹا ہونا۔
زمین کی گھاس کا جاتا رہنا۔
اقوریات (فسفکفس) اقورون
(فسففس) بلائیں اور سختیاں۔
اقوش (فسف) کبڑا اور نجار رنگ
دشوار زمانہ۔ بلا و دور۔
اقوف (فسف) خوب طرح پہچاننے والا
اقہہ (فسف) فرمانبرداری۔ اطاعت۔
اقہاء (کسفسم) طعام کی خواہش
نکرنی۔ طعام کو ناپسند اور ناخوش
رکھنا۔ ہمیشہ شراب پینی۔ سلطان
کی فرمان برداری کرنی۔
اقہاب (کسفس) کھانے سے ہاتھ
کھینچنا اور رغبت نکرنا۔
اقہار (کسفس) مقہور یا رونے
والا ہونا۔ کسی کو ناکام اور مقہور

پاتا۔ ذلیل اور خوار ہو جانا اس معنی
میں مجہولاً مستعمل ہے۔
اقہال (کسفس) نامناسب امر میں
مشغول ہونا اور اپنے نفس کو آلودہ کرنا۔
اقہام (کسفس) حقیر گننا۔ ایک چیز
سے چشم پوشی کرنی۔ ایک چیز کی
خواہش کرنی اور اوسکو ناپسند رکھنا
کھانے کی رغبت نکرنی۔ ایک چیز کو
چاہنا۔ آسمان کا کھلجانا۔
اقہب (فسف) تیرہ رنگ سپید۔
اقہبان (فسففس) ہاتھی اور بھینس
اقہی (فف) (ض) بیماری کے
سبب کھانا پینا برا لگنا۔
اقیر (فسف) تلخ تر۔
اقیط (کفس) ثقیل گرانبار۔
اکّ (فت) (ن) گرم اور بے
ہوا ہونا دن کا۔ رد کرنا۔ تنگی
کرنی۔ تنگ سینہ ہونا۔
اکاء (فس) (ف) قرضدار سے
گواہی گواہان وثیقہ لینا۔
اکباد (کسفسم) کسی کو ناپسند
اور مکروہ رکھنا۔
اکاد (کفسم) ایک کام کا ارادہ

مادہ
قہع
قہعب
قہف
قہد
قہع
قہب
قہع
قہعل
قہعم
قہب
۳۴۵
۱۱ اقی
۱۲ قر
۱۳ اقط
۱۴ اکل
۱۵ اکاد
۱۶ اکای
۱۷ اکیا
۱۲

[illegible]

اقلاع (رکسغس) دروازہ کھولنا
ہی گھر ہی کہ اکھاڑ کر نا
[illegible]
[illegible]
اقلاع (رکسغس) سر کو اوپر اٹھانا
اور ... کرنا کسی جانب التفات
نہ کرنا اور ... کو مقابل رکھنا
درمیان زمین ... داخل ہونا
سر اونچا کرنا ... آنکھ اونچا
اور ... کا حوض میں ... بنا کر
تاکہ پانی ... کی طرف
چوپایہ کو پھیرنا ...
اور ... کرنا لغات اضداد سے
ہی باوجود ... نہ کری
کی پستان کا بلند ہونا
اقناف (رکسغس) کان کا ...
ہوا ہونا ... ہونا ...
والا ہونا کسی کی رائے و تدبیر کا
مجتمع ہونا ... کسی کے کام کا ...
اقنعہ (رضعف) خانہ ...
... (جمع)
اقنع (رضعف) ... جسکے سر میں
بلندی ہو ... گردن

... جیسی ہو
اقنف (رضعف) ... سپید کردن والا
... کے کان کا ...
... کا ... آدمی ہے
اقنوم (رکسغس) ہر ایک چیز کی اصل
اقانیم (رکسس) جمع ... لغت ہے
اقنی (رضعف) ... ناک والا مرد
اقنیہ (رکسس) ... مؤنث
اقنیاتن (رکسغس) ...
ہونا ... کا اچھا ہونا ...
نہایت ... تنگی ...
اقواء (رکسغم) ...
ہونا ... روش ہو جانا
لغات اضداد سے ہی ... کو جانا
... کا اقرار کرنا ... شعر کو مختلف
الحرکت کرنا ... رفع و جر و نصب
... خشکی میں اترنا ...
کا ... گھر کا خالی ہو جانا ...
چوپایہ کا مالک ہونا ... قوم کا قوار
میں داخل ہونا
اقوال (رکسغس) کسی ... بات
... نہیں ...
اقوہ (رضعف) ...

مادہ

او منہ کے بل گر پڑنا۔
اکبلاح (کسفس) چوپایہ کا لگام کھینچنا تاکہ چلنے سے رک رہے بلند کر دینا۔ اونچا کر دینا۔
اکبادر (فسفس) جمع کبد کی یعنی جگر
اکبار (کسفس) بزرگ دیکھنا بزرگ جاننا۔ بچے کا پاخانہ پھرنا۔ عورت کا سن نمازی ہونا۔ مرد کا مذی یا منی سے لے آنا۔
اکبان (کسفس) کسی سے زبان روکنی
اکبح (فسفس) سخت اور قوی اونٹ
اکبد (فسفس) جس کے جگر کی جگہ نکلی ہوئی اور اٹھی ہوئی ہو۔ ایک پرندہ جانور ہے۔
اکبر (فسفہ) بزرگ تر ساکار فرسک جمع سالک شیرین چیز ہی خبیص خشک کی مانند کہ شہد اور گھی سے بنائی جاتی ہے خبیص ایک قسم کا حلوا ہے
اکبر (کسک) ایک چیز شیرین حلوا سے خبیص کی مانند۔
اکبران (فسفس) حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔
اکبش (فسفہ) بلند اور اونچی اور اٹھی ہوئی

اکس (۔۔۔)
پیشانی اندر کو گھس گئی ہو۔
اکبنان (کسکفس) منقبض اور سکڑا ہوا ہونا۔
اکبہ (فسف) سختی زمانہ سختی گرما بدخلقی۔ کینہ۔ موت۔
اکبت (فسف) ان غصے کے ساتھ پیش آنا۔ پھیر لینی ہوا کا ٹھہرنا
اکتاح (کسفسم) اوس پر غالب ہونا
اکتاب (کسکس) غمگین ہو جانا اندوہ کے سبب بدحال ہونا۔
اکتاب (کسفس) لکھنا سیکھنا املا کرنا۔ کسی کے سر کو باندھنا۔
اکتاب (کسفس) کسی کے کہنے میں بات کہنی کسی سے بھید کہنا
اکتاد (کسفس) اگر دمیں یا اپنی مشابہ یا جلدی چلنے والے ایک دوسرے کے پیچھے چلنے میں ہم
اکتاد جمع اسکا واحد نہیں ہے۔
اکتار (کسفس) اونٹنی کا بلند کوہان والا ہو جانا۔
اکتان (کسفس) اچھا دینا۔
اکتبا (کسفسم) انگیٹھی پر جھکے

۱۲

اکرنا اور انکے میں ایک شخص کا آپہنچنا
اور لوٹنا اوس سے ڈر کر اور کام
سے الگ رہنا اور بزدلی کرنی -
اکاعۃ (بفتح) اچانک ایک کام
کے وقت کہ جسکا ارادہ ہو اوسپر آجانا
اور پھر جانا اور اوسے چھوڑ دینا -
اکاب (بکسر) غمناک ہو جانا غمگینی
اور ہلاک ہو جانا غمناک کرنا -
اکاحۃ (بفتح) کارزار اور جنگ
میں کسی پر غالب ہونا - دبانا
ہلاک کرنا -
اکاذ (بفتح) تسمہ کہ جس سے زین
کے ہر تہ کو دونوں پہلوؤں سے
باندہیں - اکائذ (بفتح) جمع ہے جس سے
گلے دوستے وقت باندہیں -
اکاوید (بفتح) الف - فرقہ فرقہ
گروہ گروہ -
اکائر (بفتح) کسان اکرۃ (بفتح) جمع
اکارۃ (بفتح) کسی کو ذلیل
اور خوار گمان کرنا کسی کو سست
اور ناتوان گننا -
اکارع الارض زمین کے بعید
کنارے منتہائے زمین -

اکاشۃ (بفتح) اچھی پائے کا تیز
پاؤن پر چلنا اونٹ کو لوٹانا اور
زمین پر پچھاڑ دینا -
اکاشۃ (بفتح) فرزند جنگ کا پیدا ہونا
اکاشم (بفتح) بہت گھوڑے -
اکاف (بکسر) پشماگند - خوگیر -
اکف (بضم) جمع -
اکاف (بفتح) خوگیر بنانیوالا -
اکالۃ (بفتح) زمانہ کی سختی -
اکال الجند لشکر کی تنخواہیں -
اکال الملوک پادشاہوں سے جو کھانا
اکال (بفتح) کھانا جو کھاوین -
اکال (بضم) خارش -
اکال (بکسر) ساتھ کھانا -
اکام (بضم) ایک پہاڑ ہے -
اکامۃ (بفتح) عروض اور عاجز
کر دینا - خوار اور بدحال کر دینا -
اکبار (بکسر) چقماق کا دبوا دینا
اور آگ نہ دینا پھیر دینا - متغیر کر دینا -
اکباب (بکسر) کسی کے سر کے
آنا اور توجہ کرنی اور لازم پکڑنا -
کسی طرف جھکنا اور میلان کرنا
منہ کے بل ڈالدینا - اوندھے

انگلیوں کی جڑ کے پیوند ظاہر ہوں
الکتعون (فسفعفس) جمع ہیہ لفظ اور
اوسکی جمع اجمع (فسعت) کا اور اوسکی
جمع کا بیعنی اجمعون (فسفعفس) کا تابع
ہے بغیر اوسکے اور اوس سے مقدم
ہوکر مستعمل نہیں ہوتا اور تاکید
کے معنے دیتا ہے -
الکتف (فسنف) درد شانہ کے
سبب چوپایہ لنگڑا - کتعفس جمع
کشادہ فراخ شانے والا - گھوڑا
جسکے شانہ میں چوڑائی اور کشادگی ہو
الکتفاء (کسکفسم) پھیر دینا پلٹ
دینا - برتن کو پلٹ دینا اوندھا
کر دینا - ایک چیز پر کفایت کرنی -
الکتفاء (کسکفسم) کفایت کرنی -
الکتفات (کسکفس) سارا مال لینا
الکتفار (کسکفس) کافر کو لازم پکڑنا
الکتفال (کسکفس) اونٹ کے
لیے کفل بنانا کسی کی گردن میں
ڈالنے کسی کے ذمہ ایک کام کر دینا -
الکتفان (کسکفس) کفن کرنا
الکتنع (فسنف) مشقت و محنت
بلا - مصیبت - تکلیف -

الکتلاء (کسکفسم) اپنے تئیں کسی
سے نگاہ رکھنا آنکھ نہ لگنی اور بیدار
رہنا - پرہیز کرنا - بیعانہ قبول کرنا -
الکتلاد (کسکفسم) چوٹ سے گرفہ
کا درگھن ہونا - گردہ پر چوٹ لگنی -
الکتلات (کسکفس) پینا -
الکتلال (کسکفس) ابر کا برق
کے سبب چمکنا -
الکتمم (فسنف) بڑے پیٹ والا
یا سیر شکم آدمی -
الکتماع (کسکفس) دہانہ مشک
سے پانی پینا -
الکتمان (کسکفس) پوشیدہ ہو جانا
الکتناء (کسکفسم) ایک چیز کے ساتھ
اپنی کنیت کرنی جیسے اکتنی فلان بکذا
ایسے کے ساتھ ایسے کنایہ کرنا
جیسے اکتنی بکذا عن کذا -
الکتنات (کسکفس) فروتنی کرنی
خوشنود رہنا - راضی رہنا -
الکتناز (کسکفس) جمع ہو جانا
مال کا - پُر ہونا ہر ایک چیز کا -
الکتناع (کسکفس) قوم کا اکٹھا
ہو جانا - حاصل ہونا - رات کا نزدیک

ماده

[illegible]



[illegible]

| ماده | | |
|---|---|---|
| [illegible] | ہوے کہڑا ہونا تاکہ چرواہان کو خوشبو دار دو ہوئیں سے بسا دے کر پہیکا بجہڑنا کہلا ہوتا ـ | الکتراث (کسکفس) سخت غمگین ہو جانا ـ |
| | الکتاب (کسکفس) لکھنا یا لکھنا | الکتراث (کسکفس) پرواہ کرنی ـ باک اور خوف رکھنا ـ |
| | معنی کتب کے ہیں اور لکھنا چاہنا | الکتراص (کسکفس) جمع کرانا ـ |
| | معنی اکتتاب کے ـ ورند مشک کو دو | الکتراز (کسکفس) سکڑا ہوا ہونا ـ |
| | تسمون سے سینا ـ اپنا نام دفتر | الکتساء (کسکفس) لباس پہننا ـ |
| | شاہی اور دیوان سلطانی میں لکھنا | الکتساب (کسکفس) کمانا ـ روزی |
| | پیٹ کا بند ہو جانا ـ | ڈہونڈہنی ـ کوشش کرنی ـ جمع کرانا |
| | الکتتات (کسکفس) کسی سے | الکتساح (کسکفس) سارا مال لوٹکر لیجانا |
| | بہید کہنا اور سننا ـ | الکتسار (کسکفس) توڑنا ـ |
| ۸ ہم [illegible] | الکتتام (کسکفس) پوشیدہ رکہنا | الکتساع (کسکفس) اسانڈ کا اپنی دم |
| | چہپانا ـ پوشیدہ ہونا ـ | کو اپنی دونوں رانوں پر مارنا ـ کتے گھوڑے وغیرہ کا دم پانون کے درمیان لانا |
| | الکتحال (کسکفس) شدت اور سختی | الکتشاف (کسکفس) عورت کا جماع |
| | میں پڑجانا ـ سرمہ لگانا ـ زمین کا | کے وقت خاوند کے لئے خوب برہنہ |
| | گہاس نکالے لگنا ـ | ہونا ـ بوڑہا کا مادین پر چڑہنا ـ |
| | الکتد (فسعت) بلند کندہے والا | الکتشام (کسکفس) ناک کو جڑ سے کاٹ ڈالنا |
| | الکتداح (کسکفس) کمائی کرنی ـ | الکتشاص (کسکفس) جمع ہونا ـ |
| | الکتداد (کسکفس) ایک کام | الکتظاظ (کسکفس) امتلاء طعام |
| | کی کرچاہنی ـ رک رہنا ـ | کے سبب نخور رہونا شکم کا پر ہونا ـ |
| | الکتداش (کسکفس) کسی سے | وادی کا سیل سے پر ہونا ـ |
| | عطا پانی ـ بخشش پانی ـ | الکتع (فسعت) مرد جسکی انگلیاں |
| | الکتراء (کسکفس) کرایہ کو لینا ـ | ہتہیلی کیطرف پہری ہوئی ہون اور |

شکار کا شکاری کی طرف پہلو کرنا اور اسکو اپنے اوپر قادر کر دینا ۔

**اکثاث** (کسفعس) بہت اور گھنی اور چھوٹی اور لیٹوان ڈاڑھی والا ہونا ۔

**اکثار** (کسفعس) زیادہ کرنا بہت کرنا ۔ بات وغیرہ کو بہت لانا کھجور کے درخت کا پھول نکالنا بہت مال والا ہونا ۔ مالدار ہونا ۔

**اکثاف** (کسفعس) نزدیک اور پاس ہونا اپنے اوپر قادر کر لینا ۔

**اکثام** (کسفعس) شکار کا اپنے اوپر قادر کر دینا اور نزدیک ہونا ۔ شک کو پر کرنا ۔ گھر میں چھپ جانا ۔

**اکثع** (فسعف) سرخ یا زرد ہونا ہونٹ کا ۔

**اکثم** (فسعف) فراخ اور کشادہ شکم والا ۔ آسودہ و سیر شکم ۔ فراخ رستہ ۔ موٹا اور پر گوشت زیر ناف ۔

**اکحال** (کسفعس) زمین کا گھاس نکالنے لگنا قحط کی سختی ۔

**اکحث** (فسعف) ٹھگنے قد کا ۔

**اکحل** (فسعف) سرمگین آنکھ والا مرد ۔ ہاتھ کے بیچ کی رگ ہے جیسے ہفت اندام اور میرزاب البدن کہتے ہیں اور اس رگ کو عرق الاکحل بالاضافۃ نہیں کہنا چاہیئے ۔ یا وہ رگ حیات ہے ۔

**اکحیلال** (کسکسفس) زمین کا گھاس نکالنے لگنا ۔

**اکدر** (فسعف) رض گیہوں کو گاہنا

**اکداء** (کسفعس) کہاں کا گوبر نہ پیدا کرنا ۔ کسی کو ایک چیز سے پھیر دینا جیسے اکدیت الرجل عن الشیئ ۔ کھودنے والے کا کھودنے میں زمین سخت پر پہنچ جانا ۔ مطلوب نہ پا لینا یا مطلوب کے مثل کم پالینا ۔ بخیلی کرنی ۔ کم خیر ہونا یا سخاوت کو کم کر دینا

**اکداد** (کسفعس) فرقہ فرقہ ۔ سرعت اور شتابی کرنے والی قوم ۔

**اکداد** (کسفعس) قید کرنا ۔ ایک کام سے روکنا باز رکھنا ۔

**اکداش** (کسفعس) کسی کی عطا اور بخشش پہنچنا ۔

**اکداف** (کسفعس) چوپایے کے سموں کے سر کی آواز سنی جاتی ۔

**اکدام** (کسفعس) قیدی سے وثیقہ لیا جانا معمولاً استعمال ہوتا ہے ۔

ک ش ث
ک ش ح
ک ش ر
ک ش ف
ک ش م
ک ش ع
ک ظ م
ک ح ل
ک ح ث
ک ح ل
ک د ا
ک د ر



ک د ر
ک د ش
ک د ف
ک د م

[illegible] نکلان کرنا صرف پانی گرمی

[illegible] سے سمت جانا سکڑ جانا۔

اکتناف رکسکفس) اونٹ کا

[illegible] ستانا جا کر کرنا۔

اکتنان رکسکفس) ڈھانکلینا

پوشیدہ ہونا سپید ہو جانا۔

اکتناہ رکسکفس) ایک چیز کے

اکتنہ یعنی بھید کو پہنچ جانا۔

اکتہاء رکسکفس) مانگنے کے

لیے کسی کے رو برو ہونا۔

اکتہاف رکسکفس) غار میں داخل ہو

اکتہال رکسکفس) کہل ہو جانا

دو مو یعنی سپید اور سیاہ بالوں والا ہونا

گھاس کا پورے پن کو پہنچ جانا

اور اوسکا قوی ہونا اور شگوفہ نکال

لانا۔ مرغزار کا پھول کر آنا یعنے

پھول نکال لانا۔

اکتیاء رکسکفس) اپنے تئیں داغ

کرنا۔ اپنے تئیں اوس چیز کے ساتھ

سراہنا کہ جو اپنے میں نہیں رکھتا۔

اکتیاب رکسکفس) کوب یعنے

دستہ دار نے شیشہ کے کوزے سے

[illegible] پانی پینا۔

اکتیاد رکسکفس) فریب کھانا۔

اکتیار رکسکفس) زمین پر گر پڑنا

سر پر پگڑی باندھنی گھوڑے کا

دم اوٹھانا سانڈنی کا

جفتی کے وقت دم اوٹھانا۔ مرد کا

گالیاں دینے کو آمادہ ہونا۔

اکتیاز رکسکفس) کوزے سے پانی پینا

اکتیاش رکسکفس) کسی کو

اوسکی حاجت سے روک دینا جیسے

اکتاشہ عن حاجتہ۔

اکتیال رکسکفس) دوسرے

کے لیے اناج ماپنا۔ ماپنا۔ اپنے

لیے اناج ماپنا۔

اکتیام رکسکفس) انگلیوں

کے سروں پر بیٹھنا۔

اکتیان رکسکفس) ہونا مست

ہونا۔ ضامن ہونا جیسے اکتان بہ

اکتیان رکسکفس) خوار و بدحال ہونا

اکتیاہ رکسکفس) پر خشم ہو جانا

بے آرام اور بیقرار ہونا۔ اپنے

تئیں خوب سراہنا۔

اکتیاب رکسکفس) کسی کو غصہ

دلانا کسی کے نزدیک پہنچنا۔

اکراج (کسفس) روٹی کا خراب ہو جانا اور اوس مین کیڑین پڑ جائین —

اکراش (کسفس) چوپایہ کا بڑا پیٹ ہونا اور کراس بھیڑ کے بچون کا گھر کہ کبوترون کے ڈربہ کی مانند بلکہ اوس مین بھیڑ کے بچون کو رکہین میں داخل کرنا گھر کا سرگین سے پر ہونا —

اکراع (کسفس) سنگار کا سنگار کو لے نیچے اوپر قادر کر دینا — ٹھہرے ہوئے پانی پر قوم کا پہونچ جانا چوپائے کو پانی پلانا —

اکراف (کسفس) گدہے کا مادین کے پیشاب کو سونگھنا اور سر اونچا کرنا اور اوس حال مین ہونٹھون کو پھرانا — پرندہ کا انڈا تباہ و خراب ہونا —

اکرام (کسفس) بزرگ کرنا تعظیم کرنی — کریم بیٹے جنانے —

اکراہ (کسفس) زبردستی خواہ مخواہ کسی کو ایک کام پر رکہنا —

اکرۃ (ضمسف) گڑہ یعنی گولا گڑہا کہ جسمین پانی جمع ہو جاوے اور اوس سے صاف پانی چلو چلو لیا جائے ۔

سے لیوین —

اکرع (ضسف) جسکا پیش ساق باریک ہو — اکرع الجوزاء جوزا کے اواخر —

اکرومۃ (ضمضسف) بزرگی — جوانمردی — مردمی —

اکزاز (کسفس) کزازدہ کر دینا —

اکزام (کسفس) منقبض ہو جانا — بہت سیر ہو کر کہانا —

اکزم (فسف) گھوڑا جسکا منہ چھوٹا اور دندار ہو — چھوٹی ناک — اکزم

الکنان بخیل —

اکس (فعت) کوتاہ دانت والا —

اکساء (فسفسم) جمع ہے کسو کی بمعنے دنبالہ —

اکساء (کسفسم) پیٹھ دینی یعنی پیٹھ پھیرنی — پیچھے چلنا —

اکساب (کسفس) کموانا کمانا —

اکساد (کسفس) بازار کا کھوٹا ہونا — ناکارہ بازار والا ہونا —

اکسار (فسفس) بڑا پیالہ بہت تھوڑا مال والا جمع ہے اکسار کی —

اکسال (کسفس) سے انزال

اکدر (فتحتین) چراگاہ کا بقیہ جسکی گھاس چرائی ہو - گرد و گرد -
اکدر (فتحتین) جو کہ تیرگی سے کھے -
اکادر (فتحتین) جمع - سیل جو دور ہوئے کو صاف کردے -
اکدرار (کسرتین) دھندلا ہونا -
اکدریّہ (فتحتین) علم فرائض میں ایک مسئلہ ہے کہ ایک عورت مرجاے اور خاوند اور ماں اور دادا اور حقیقی بہن باقی چھوڑے تو اوسکا مال ان وارثوں میں کیونکر تقسیم ہو اور اس مسئلہ کا یہ لقب اسواسطے ہوا کہ عبدالملک ابن مروان نے یہ مسئلہ ایک شخص سے کہ جسکا نام اکدر تھا پوچھا اور وہ نہ بتا سکا پس اسکی طرف منسوب ہوگیا یا اس سبب سے کہ ایک عورت مرگئی تھی اور اوسکا نام اکدریہ تھا اور اوس نے ورثہ کو باقی چھوڑے یا اس لیے کہ اس مسئلہ نے زید کے قضیہ کو مکدر کردیا -
اکذاب (کسرتین) کسی کو دروغ گو پانا - دروغ پر برانگیختہ کرنا - کسی کے کذب کو آشکار کرنا اور

جبکہ کسی کی خبر دین کہ اوس نے جھوٹ بولا اور جھوٹی بات کی کہنے کذب (فتحتین) اور بعض کہتے ہیں کہ اکذوبہ (ضمتین) اور کذبہ (فتحتین) کے ایک معنی ہیں - اور جس شخص کو پکارین اور وہ چپ رہے اور ظاہر کرے کہ سوتا ہی تو اوس شخص کے حق مین کہتے ہیں قد اکذب الرجل اور یہ یعنی اکذب اکذاب سے مشتق ہے جسکو ہندی مین سوتا بنا کہتے ہیں -
اکذار (کسرتین) نرم پتھروں کے سنگستان میں داخل ہونا -
اکذوبہ (ضمتین) جھوٹ -
اکرث (ن) اکرث اکھودنا -
اکرام (کسرتین) زیادہ اور کم ہوجانا نعمات اور تلف سے بچ - بندگی خدا عزوجل مین پیدا رہنا - ایک لغت مین تاخیر کرنی - گھوڑے کو ڈھول دینا لینا کھینچنا - چوپائے اور گھر کو کرایہ دینا -
اکراث (کسرتین) ڈول میں کرب باندھنا - سرعت کرنی -
اکراث (کسرتین) غم اور اندوہ کا سخت اور دشوار ہوجانا -

ختم کرنا تاکہ جو کچھ اوسمین ہے کچھ
ہو جاوے - ہیلان کرنا سائل کو منع
کسی کو اوسکے ارادے سے پھیر دینا -
کان کو خم دینا - اونٹوں کا بہت بچے
جننا - کسی کو اپنے اونٹوں کا منافع
دینا - خیمہ کے لیے گھاس لانا - عیوب
قافیہ میں سے ایک عیب یعنی بعض
بیت کا اور حروف روی لانا اور بعض کا
اور - یا حرکات حروف روی کی نصب
اور جر میں مخالف لانی یا آخر بیت کو
کسی فساد اور خرابی سے فاسد اور
خراب کر دینا - اونٹوں کو ضعف کرنا -
اکفاح (کسعفس) چوپایہ کا لگام
کھینچنا - پھیر دینا -
اکفار (کسعفس) گاؤں سے جدا ہونا
اور اوسکو لازم پکڑنا - کسی کو کفر کی
طرف منسوب کرنا -
اکفال (کسعفس) کسیکو ضامن کر دینا
اکفح (فسعت) سیاہ -
اکفش (فسعت) جو کہ چھوٹی
اونگلی کی طرف سے پشت پا کے بل
چلے - کم سینہ والا -
اکفہرار (کسعفس) منہ چڑھانا

آکل بعضی کی چہرہ کا تیر رنگ ہونا
اشکار ہو جانا - ستارہ اور اوسکی
روشنی کا نہایت تاریکی میں پایا ہونا
اکل (فعت) (س) بعض عضو کا
بعض کو کھا لینا - اکال (فعس)
اسکا اسم مصدر ہے شتر بچہ کے اونٹنی
کے پیٹ میں پشم نکال لانے کے
سبب اونٹنی کا خارش زدہ ہونے
تکلیف پانا - دانتوں کا گھس کے گر پڑنا
اکل (فسن) (ن) کھا لینا - مصدر
کرنا - فتح کرنا اور غالب آنا - آکل ملک
اکیل (فکس) صیغہ نعت اکلہ (فعفعا) جمع
اکل (فنس) پھل - فندی نصیبہ
آکال (فسعفس) جمع - بستے ہیں الفقہ
اکلہ جسے یعنی مرگیا - رائے و عقل قوت
فہم - کپڑے کی سخت بناوٹ -
آکل (رمک) پادشاہ - کھانیوالا -
اکلا العمر آخر عمر اور درازی عمر
اکلا (کسعفس) زمین کا گھاس
ہرا ہونا - قیمت پہلے دینی اور بیع
سلم کرنی - عمر کو انجام اور پایان
کو پہنچانا - چوپایہ کا چارہ کو کھانا
ایک چیز میں باربار دیکھنا -

۳۵۵

جماع کرنا - یا آب منی کو پیچھے وان سے
باہر چھوڑنا اور فرزند کی خواہش نکرنی
سست کردینا کسیکو اپنی مرضی لوٹانا
اکسّلخ (فسف) اشل جس سے
اپنی جگہ سے ہلا نجاوے سلکو
اکسمان (فسفس) جمع
اکشد (فسف) نارنج باز اجس
میں کچھ بکری نہو سکوتا -
اکشع (فسف) کبوتر جسکی دم
کے نیچے کا پر سفید ہو -
اکشوم (فسفس) نر اور نمانا
عرانا گھمن کی مدت بہر جی گھاس
اکشی (فسف) لباس پہننے
میں دوسرے سے زیادہ مسعود سر
سے لباس بخشنے میں زیادہ -
اکسیر (کسکس) کیمیا -
اکشاء (کسفس) گوشت کراتنا
بھونا کہ خشک ہوجاوے -
اکشاد (کسفس) مسکہ کو خالص
اور نے آمیختہ بنانا -
اکشاف (کسفس) حاملہ اور سیوں
والا ہونا ہنسنا اتنا کہ ہونٹھ کھل جائیں
اور دانت ظاہر ہوجائیں - لوپیٹ لکے

دور کچھ نہ نیچے اور جلی سکے -
اکشف (فسف) جسکی پیشانی کے
بال پیر کر دائرہ کی مانند ہو گئے ہوں
گھوڑے کے گھٹنو میں پیچید گی ہو
مرد جو جنگ میں بستہ ڈھال ہو شکست
کھایا ہوا بھاگا ہوا جسکے سر پر خود آہنی ہو
اکشم (فسف) ایک جانور جیسے
کی کل جسا بیدایش ناقص ہو
اکشوث (فسفس) بہنی کشوث -
اکضاض (فسفس) بھاگ جانا
شکست کھانی -
اکعار (فسفسم) نامرد لوگ اور ضعیف
اکعاب (کسفس) عرعت کرنی
اکعات (کسفس) دو دوستی
ہو کے سریع چلنا - بیٹھنا - دغا دینا ضلالت
سے ہو - غصے سے سوج جانا -
اکعاع (کسفس) بہول کرنا
ڈرانا - بند کرنا اور کسی کو اوسکے
ارادے سے روکنا -
اکعان (کسفس) شادمانی کی سستی
شادمانی کا سست ہونا -
اکفر (فسف) بہت بیٹ بھرا موٹا -
اکفام (کسفسم) بدتن کو نیر کا عم

اکالیل ز فضکسس جمع ہے چاند کی ایک
منزل ہی اور وہ چار ستارے ہیں عالم
باندھے ہوئے شاخ کے گرد گرد
گوشت۔ ابر کہ پردے کے مشابہ نمایاں
ہوئے۔ اکلیل الملک ایک گیاہ
ہی اور وہ دو طرح پر ہوتی ہی ایک تو ایسی
کہ اوسکا پتا سے کے پتے کے مشابہ
ہوتا ہی اور اوسکی بو برگ انجیر کی سی ہو
اور پھول اوسکا زرد آدھے دائرہ
کی مانند گویا ہر شاخ پر ایک تاج رکھا
ہوا ہی اور اوسکا بیج تخم شنبلید کی شکل
اور زرد رنگ کا ہوتا ہی۔ اور دوسری
ایسی ہوتی ہی کہ اوسکا پتا برگ کاہو کے
مشابہ ہو افقاخین اوسکی بہت اور زمین پر
پھیلی ہوئی ہوتی ہی اور پھول اوسکا زرد
اور سپید گول گویا ایک چھوٹا تاج ہی
ہر سر شاخ پر۔ اکلیل الجبل ایک
گھاس ہے بقدر ایک گز کے اور پتا
اوسکا لنبا باریک انبوہ دار سیاہی مائل
اور لکڑی اوسکی سخت اور پھول اوسکا
سپیدی اور نیلاہٹ کے درمیان
اور پھل اوسکا سخت اور جب خشک
ہو جاوے تو ٹوٹ جاوے اور بیج

اوسکا رائی سے بہت چھوٹا اور پتلا
اور مزہ اوسکا کڑوا اور زبان کو جلانے
والا اور خوشبودار۔
اکمر ز فضس زمین میں جو کچھ ہو
او سب کا کھا جانا۔
اکحال ز فکسم آنکھ کا کھینچنا یا سرمہ لگانا
اور سرمہ کو کھینچنی کھلانا۔ تیز کر دینا
اکحار ز کسفسم گواہی کو پوشیدہ رکھنا
ملک کے دلیر کو مار ڈالنا۔ منزل کو
آدمیوں سے پوشیدہ رکھنا۔ اکمام
بہ قصد کرنا جیسے اکمی علی الاسلام
اکماث ز کسفس ہاتھ سے کھینچنا
اکملخ ز کسفس چھپانے کا لگام
کھینچنا تاکہ ٹھہر جاوے۔ اکمد کا
پتے کا لانے لگے تر ہمیشہ ہونا بلند
اور رنگ متغیر کر دینا معمولا مستعمل ہی
اکماخ ز کسفس بزرگی منشی کرنی
متکبرانہ بیٹھنا۔
اکماد ز کسفس غمناک اور دل
درد مند کر دینا۔ سڑانا اور نرم اور چکنا
ہو جانا کپڑے کا۔ کپڑے کو
خوب پاکیزہ نہ کرنا۔
اکماش ز کسفس لاغری کی سبب

٣٥٢

| مادہ | | |
|---|---|---|
| ک ل ب<br>ک ل ج<br>ک ل ح<br>ک ل ع<br>ک ل ف<br>ک ل ع<br>ک ل س<br>ک ل ط<br>ک ل ف<br>ک ل ن د ر<br>۳۵۶ | اکلاب (کسفس) دیوانہ چوپایہ پانا<br>اکلاج (کسفس) ترش ہوئی مین<br>دانت سپید کر دینے کسی کو ترش<br>روے کر دینا —<br>اکلاع (کسفس) میل کچیل کا کسی کو<br>میلا کچیلا کر دینا پیپ کا تہ بتہ جمنا —<br>اکلاف (کسفس) حریص کر دینا —<br>اکلاع (کسفس) کند کر دینا —<br>تنگ کھونٹوں والا ہونا — اونٹ وغیرہ<br>کو تھکا دینا — محتاج اہل عیال اور<br>اقارب والا ہونا —<br>اکلۃ (ضسف) لقمہ — روٹی کا<br>گروہ — طعام کھانا —<br>اکلۃ (ضفف) بہت کھانے والا<br>مذکر و مونث یکساں ہے —<br>اکلۃ (کسف) خارش — آکال (س)<br>جمع — کھانے کا طور — غیبت —<br>اکلۃ (کف) چوپایہ جرندہ — اکلۃ<br>الکلم — چھڑی — ہاتھ کی چھڑی جس میں<br>لوہا ہو — کوڑا تازیانہ — آگ —<br>اکلۃ (کف) خارش سا ایک مرض<br>کہ جو عضو کھا لیوے —<br>اکلۃ (کسف) آکال (فنفس) | کھجلی اور کھنی بولتے ہیں اکلنی راسی<br>کیا یا مجھ کو میرے سر نے یعنی کھجلی ہو گئی<br>اکلۃ الراس عرب امین کو<br>کہتے ہیں اکلۃ الراس یعنی وے کھڑے<br>ہیں کہ انکو ایک بکری سیر کر دیتی ہے —<br>اکلس (فسف) بھیڑیا کالے<br>داغ کا ذئب اکلس بولتے ہیں —<br>اکلط (فسف) اڑ کا دوڑنیوالا —<br>اکلف (فسف) جسکا چہرہ سرخ<br>سیاہی ملا ہوا ہو کلف (فس) جمع اکلفی<br>اکلندار (کسکسفس) سخت کلدار ہو جانا<br>اکلنداد (کسکسفس) اپنے تئیں<br>کسی پر ڈالنا — درشت اور سخت ہو جانا<br>اکڑا ہوا ہونا — ٹھہر جانا — رک جانا<br>جیسے اکلند علیہ —<br>اکلنزاز (کسکسفس) اکڑا ہوا<br>اور منقبض ہو جانا — سوار کا زین پر مضبوط<br>اور قادر اور پکڑنے والا ہونا —<br>باز کا شکار کا ارادہ کرنا —<br>اکلیفاف (کسکسفس) ابر کا گھنا<br>تیرہ ہو جانا —<br>اکلیل (کسکس) تاج سا ایک چیز عصابہ<br>کی مانند ہے جو ابر سے جڑا ہو — |
| سعہ<br>سعہ<br>سعف<br>سعل<br>سعہ<br>سعر | | |

الکولُ (فسف) اونچی زمین پہاڑ کے مشابہ۔

الکولۃ (فسف) ہند ب چلنے والی بھیڑ جسے کھانے کے لئے موٹا کریں۔

اکولۃ (ضفسف) بھیڑ جسے بھیڑئے وغیرہ کے شکار کے لئے کھڑا کریں۔

اکوم (فسف) بلند چیز جو کچھ ہو۔ مرد کی پستان۔ فعل اور وہ جو مستفاد ہو۔

اکوہ اد (کسکسفس) سر اونچا رکھنا۔ آنکھ کا مان اس کے بلند ہانا تاکہ

بھنچا دیوے۔ کسی کو رنج و تکلیف پہنچانا۔

اکوہیدا د (کسکسفس) بڑھاپے کے سبب لرزہ کا ہونا۔ بڑا ہو جانا۔ لرزہ زدہ ہونا۔

اکوکلال (کسکسفس) گونگا ہو جانا۔ لولا ہونا۔

اکہبا (فسفسم) آگاہ اور دانا آدمی۔

اکہبا (کسفسم) جاڑے سے ٹھٹھری ہوئی انگلیوں کو سانس سے گرم کرنا۔ طعام سے رک رہنا۔

اکہی عن الطعام۔

اکہیاد (کسفس) ماندہ ہو جانا۔ ماندہ کر دینا۔

اکہب (فسس) انتہائی سست اور ضعیف و کند ہونا۔

الکہبُ (فسف) سپید تیرگی مائل یا سیاہ۔ خاکستری۔ سیاہی مائل۔ جمع الکہب اور کہباء جو ہوتے ہیں۔

کہب (فس) جمع۔

الکہلی (فسف) مرد جس کے چہرہ پر کلف (جھائیں) ہو۔ گندہ دہن۔ سڑا ہوا۔ نشان۔ نفر۔

اکہی (فس) (فس) سپہ تر سند آ سے کرنا ہوں کی گواہی سے تعلیمنا۔

اکیاس (کسفس) ہوا کا سہ کر فسف

اکیاش (کسفس) گون کپڑا تھو۔ ایک قسم کا کپڑا کہ اس کے دھاگے کو دوبارہ کاٹتے ہیں خز اور ریشم کی مانند یا اکارہ کا کپڑا۔

اکیسانُ (ضیح) سخت اور دلاور۔

اکیبد (فس) مضبوط۔

اکیس (فس) ہوشیار عقلمند۔

اکیل (فس) بعضوا کول (فس) وبعض الکولۃ (ضفسف) چارپایہ جسے درندہ نے کھا لیا ہو۔ کھانے والا ساتھ کھانے والا۔

جانا تھوڑی کو باندھنا۔
اکمال (کسفس) تمام کر دینا پورا کرنا
اکمام (کسفس) پیراہن کی آستین
بنانی۔ درخت کا غلاف غنچہ اور
غلاف شگوفہ نکال لانا۔
اکمان (کسفس) پوشیدہ رکھنا۔
اکمتہ (ضفف) پشتہ یا بیغتہ بلند ایک
پتھر کا بہت اونچی جلسے کہ خاک
اوسکی سخت تو ہوسکی لیکن پتھر نہیں آیا ہو
اکم (فف) اکمہ ایک، جمع۔
اکمتات (کسکفس) گھوڑے سے
کا کمیت ہو جانا۔
اکمہ (ضسف) مرد جو دیکھ نہ سکے
اکمش (ضسف) مرد جو دیکھ نہ
سکے چھوٹے پاؤن والا۔
اکمشہ (ضسف) اندھا مادر زاد۔
بہت گھاس کثرت سے۔
اکمہداد (کسکفس) بہرا اور بچھا ہونا
چنانچہ کہتے ہیں اکمہد الفرخ جبکہ
چوزہ چوسنے کی ہلاکت کے لیے ...
اکمہلال (کسکفس) منقبض ہونا
سکڑا ہوا ہونا۔ جا بجا سے سکڑ جانا
اکتناء (کسفس) کسی کی کنیت رکھنی

اکتناب (کسفس) ہاتھ کا سخت
ہو جانا۔ زبان کا عاجز اور بند ہو جانا۔
ہاتھ کا سخت و ا ہو جانا کام کے سبب
اکتناش (کسفس) کسی کام کے
کام سے جلدی کرانی کرنے کے ...
اکتناع (کسفس) نرمی اور فروتنی
کرنی۔ خواری اور ذلت کے نزدیک
ہونا سکتنا سوال کرنا۔ نزدیک کر دینا
اکتناف (کسفس) بمعنی ...
اکتنان (کسفس) ڈھانک لینا
تاب آفتاب سے بچانا۔ نگاہ رکھنا
پنہان کرنا چھپانا۔
اکتناہ (کسفس) ایک چیز کے
بھید کو پہنچ جانا۔
اکنہ (ضسف) جانوروں کا گھونسلا
وکنہ کو اکنتہ بھی کہتے ہیں۔
اکنع (ضسف) مرد جس کا ہاتھ خراب
اور تباہ اور فاسد ہو۔ ناقص اور خراب کام

اکوار (کسفس) دائرۂ اکوار
کے پاس چند پہاڑ ہیں۔
اکوع (ضسف) بڑے کاع والا
جس کی ساق دست ٹیڑھی ہو۔
اکوال (کسفس) بمعنی اکلہ (ضسف)

مادہ

اور تصغیر اسکی اویل (نفس الاعلی الاہل) رنفس) دو قوت آتی ہی۔ آل اللہ اولیا خدا۔ آل الرسول اولیا رسول

الا (فف) جان لے اور آگاہ رہ یہہ حرف استفتاح ہی اور پانچ طرح پر آتا ہی

(۱) تنبیہ یعنی آگاہ کرنے کے لئے جیسا الا انہم ہم السفہاء یہہ اپنے مابعد کے تحقیق کا فائدہ دیتا ہی اس لئے کہ یہہ ہمزہ استفہام اور لا حرف نفی سے مرکب ہی اور جب ہمزہ استفہام حرف نفی پر آتا ہی تو معنی تحقیق کے حاصل ہوتے ہین جیسا اس آیہ مین الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی یعنی بالتحقیق وہ قادر ہی موتی کے زندہ کرنے پر (۲) توبیخ اور انکار کے لئے جیسا اس شعر مین شعر الا ارعواء لمن ولت شبیبتہ + وآذنت بمشیب بعدہ ہرم + یعنی بطور توبیخ کے کہتا ہی کہ خبردار اور آگاہ رہ کہ نادانی اور بدی سے رکتا ہی اوس شخص کو کہ جسکی جوانی جاتی رہی اور بڑہاپا آ گیا یعنی ضرور اوسکو بدی اور نادانی سے الگ رہنا ہوگا۔

(۳) استفہام انکاری کے لئے جیسا شعر الا اصطبار لسلمی ام لہا جلد + اذا الاقی الذی لاقاہ امثالی +

(۴) تمنی کے لئے جیسا اس شعر مین شعر الا عمر ولی مستطاع رجوعہ + فیرأب ما اثأت ید الغفلات + ترجمہ اسکا یہہ ہی کاشکے عمر جو جاتی رہی ہی ممکن ہوتا رجوع اوسکا پس اصلاح اور درست کرتی وہ اوس چیز کو کہ جسکو غفلتون کے ہاتھون نے خراب اور فاسد اور تباہ کیا ہی پس یہان الا بمعنی کاشکے کے ہی بعض لوگ کہتے ہین کہ یہہ تینون قسمین یعنی (۲) سے (۴) تک جملون اسمیون پر داخل ہونے کے لئے خاص ہین اور لا کا عمل کرتے ہین (۵) عرض اور تحضیض کے لئے آتا ہی اور معنی ان دونون کے یعنی عرض اور تحضیض کے طلب شی کے ہین لیکن فرق ان دونون مین یہہ ہی کہ عرض تو طلب ہی لیکن نرمی کے ساتھ جیسا اس آیہ مین الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ترجمہ اسکا یہہ ہی کہ کیا نہین چاہتے ہو تم کہ اللہ تمھاری

۲۶۱

الکلیہ (مکشف) یعنی اگر الف لام صفت پر آوے جیسے کہ ماسے کے لیے ہوتا ہے یا جیسے وصف کیا ہوا ہو۔

ال (ح ش) تین طرح پر آتا ہے ایک اسم موصول بمعنی الذی و مانند این۔ دوسرا حرف تعریف اور وہ چار طرح پر ہے (۱) ال عہد خارجی جیسا لیس الذکر کالانثیٰ (۲) عہد ذہنی جیسا اذ ہما فی الغار اس آیہ میں ال عہد کا ہے (۳) جنس جیسا الرجل خیر من المرأۃ (۴) استغراق جیسا ان الانسان لفی خسر۔ تیسرا زائدہ جیسا الذی والتی اور الحارث اور العباس۔

ال (فت) نالہ وعا زاری کے ساتھ

ال (فت، ن ض) دوڑنا۔ رنگ کا صاف ہونا اور روشن ہونا۔ دوڑنے میں شانے کا گوشت ہلنا۔ حربہ سے زخمی کرنا۔ دفع کرنا۔ نگندہ کرنا کپڑے پر۔ جامہ نگندہ کرنا۔

ال (فت، ض) کان کھڑے کرنا گھوڑے کا۔ مصیبت کے سبب نالہ و فغان کرنا۔ جمع کا بمعنی ...

ال (فت، ض) الل (فت) الیل (ض) مصیبت کے سبب نالہ کرنا۔

ال (کت) بیان۔ سوگند۔ ہمسایہ۔ سگا رشتہ۔ اصل نیک۔ کہان۔ کینہ۔ دشمنی۔ پروردگاری۔ نام خدا تعالیٰ۔ ہر اسم جس کے آخر میں لفظ ال یا ایل ہو جیسا اسرائیل اور جبرئیل اور میکائیل تو وہ اسم خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔

ال (کت) پہلا۔

آل (مس) کالبد ہر چیز کا۔ لکڑی ستون خیمہ کا۔ اطراف کوہ اور اسکی فراخی۔ دور سے لومڑی سراب کی نمایش۔ خاص وہ کو سراب جو صبح کو نمایان ہو اور اس معنی میں مونث بھی آتا ہے۔ آوال (معنی) جمع۔ مرد کے اہل وعیال اور اسکے پیرو کار اور اسکے اولیا یعنی دوست اور اس معنی میں فقط ذی شرافت کے لیے مستعمل ہوتا ہے اس لیے آل الاسکاف یعنی موچی کے دوست نہیں بولتے۔ بلکہ اہل الاسکاف کہتے ہیں اور آل کی اصل اہل ہے ہا کو ہمزہ سے بدل کیا پس ہمزہ ثانی اجتماع ہمزتین کے سبب سے الف کیا

لیے حرکت دینی اور زخم دینا۔ چاہنا
جیسے العقشہ عن کذا کذا۔
الاتمہ (کفسف) بھلنی کے زنگ کو لانا
الاق (کفرس) جھوٹی بجلی بدون مینھہ کے
الاقہ (کفسف) دوات مین لیقہ
ڈالنا اور اوسکی سیاہی کو درست کرنا۔
الاکہ (کفسف) پیغام پہنچانا اور
قاصد ہونا۔ نامہ پہنچانا جیسے الکنی
الی فلان یا ریت کا پہاڑ۔ بادل۔
الالتہ (کفسف) راہ کو داخل ہونا۔
الاام (کسمس) کمینے بچے عفنی جنا
ایسا کام کرنا کہ جس سے کمینہ کہین
اور ملامت کرین۔ یا صاحب ملامت
ہونا۔ یا ملامت ناک کام والا ہونا
ملامت کے لائق ہوجانا۔
الالتہ (کفسف) نرم کردینا۔
الث (رفس) کھال بھیڑ کے بچہ
کی۔ زہر۔ شدت تپ۔ گرمی کی شدت
سناء گمانزونبل کے اچھے ہونے کا
نشاط ساقی۔ میلان نفس کا خواہش
نفسانی کی طرف۔ پیاس شکست
دشمن کے لیے تدبیر سوچنی اسطرحپر
کہ اوسے معلوم ہو۔ تیر کا لگنا۔ ز

سے آنا۔ جلدی کرنی۔ رجوع کرنا پے
در پے پرسا قوم کا اونٹون کا جمع
ہو آنا اور روان ہونا۔ لشکر کو جمع کرنا۔
الب (رفس) (ن ض) اونٹون کو
جمع کرنا اور ہانکنا۔
الب (کس) ایک مقدار معین ہے کہ
بیچ کی اونگلی کے سرے سے لیکر انگوٹھے
کے سرے تک۔ ایک درخت ترنج
کے درخت کی مانند کندہ ہرا کا ہوتا ہے
الباء (کسفسم) قوم کو پیوسی کھلائی
پیوسی کو جوش دینا۔ مادین کا پیوسی کو
تھنون مین اوتار لانا۔ مان کا بچے کو
پہلے ہی پہل دودہ دینا۔ کسی کو پیوسی
کا توشہ دینا۔ بچے کو تھن کے سر
کے پاس باندہ دینا تا کہ پہلے پہل کا
دودہ پیوے۔ قوم کا بہت پیوسی والا ہونا
الباث (کسقس) مقیم ہونا اور
ایک جگہہ کو لازم پکڑنا اور یہین سے
ہے یہہ قول عرب کا لبیک یعنی مین
تیری طاعت پر مقیم ہون۔ پالان کا
پیش بند چوپایہ پر باندہنا۔ آ ٹھکا رہنا
ایک چیز کا پیش آنا۔ کھیتی مین پیہ بار
جمع ہونا یعنی کھیتی مین دانہ کھانے

مادہ

ا ل ا
ا ل م
ا ل و
ا ل ی
ا ل ب
ا ل ر
ا ل ن
ا ل ی
ا ل د
ا ل ز

۳۶۳

ح ص

ر ج ب

مغفرت کرے جہاں محبت مغفرت کی
طلب کرانی منظور ہو لیکن نرمی اور
ملایمت کے ساتھ اور تحضیض کہتے
ہیں طلب شی کو لیکن برانگیختگی کے ساتھ
یعنی گویا اسمین برانگیختہ کرنا بھی ہوتا ہی
جیسا اس آیہ مین الا تقاتلون قوما
نکثوا ایمانہم یعنے کیا نہین قتال
کرتے ہو تم اوس قوم سے کہ جنہون
نے اپنے قسمون کو توڑ ڈالا تو یہان
قتل کی طلب کرانی منظور ہے لیکن
گویا برانگیختہ کرتا ہی +
الا (فتف) حرف تحضیض یعنے برانگیختہ
کرنے کا ہی خاص جملہ فعلیہ خبریہ پر
آتا ہی ڈھونڈھنے والا —
الا (کتف) مگر اور سوا حرف استثنا
ہی اسکا بیان لغت الّل مین گذرا —
حرف استثنا بمعنی مگر — غیر — وبمعنی واو
عاطفہ — اور کبھی زائد بھی آتا ہی (بالفتح)
حرف تحضیض خاص ہی جملہ فعلیہ کے
ساتھ حروف لینہ مین آویگا —
اُلاء (ففسم) ایک درخت ہی کڑوے
پھل کا صورت کا اچھا —
آلاء (ففسم) ایک درخت ہے ہمیشہ سبز کڑوے
پھل کا صورت کا اچھا سوا اسکے اوسکا
الاءۃ (کفسف) اور آلاء بھی ہے —
آلاء (کسمسم) سختی اور بلا مین پڑنا —
آلاتہ (کفسف) پیاسے اونٹ کا الا ہونا
آلاتہ (کفسف) کسی کو اوسکے
ارادے سے پھیر دینا — کم کر دینا —
آلاحۃ (کفسف) تلوار کو چمکانا
جیسے الاح بسیفہ الاحۃ کسی کے حق کو
اوچاپ لیجانا جیسے الاح بحقہ شکار کا
ہو جانا — بجلی کا بغیر پراگندگی کے چمکنا —
چمکنا — سہیل کا طلوع ہونا — ڈرنا — پرہیز
کرنا — کسی کو ہلاک کرنا —
آلادۃ (کفسف) جننا —
آلاذۃ (کفسف) گھیر لینا — احاطہ کرنا
آلاز لمم اَلجَذَعُ زمانہ — شیر — بزرگوی
سختی — تکلیف — بری بلا —
آلاز لمم المجذع زمانہ یا سخت زمانہ
سختی — زخمدار اونٹ —
آلاصۃ (کفسف) ایک چیز جسپر کہ
چاہتے ہین اوسپر پھیر لانا جیسے الاص
علی الشی لرزہ زدہ ہونا اس معنی
مین مجہولا مستعمل ہوتا ہی —
آلاصۃ (کفسف) اکھاڑنے کی

| التباس | التقاء | مادہ |
|---|---|---|
| کسی پر لازم اور واجب کر دینا۔ | التقاء (ر کسکعفسم) درخت پر سے شاخ توڑنا۔ | [illegible] |
| التباء (ر کسکعفسم) بچے کا پہلی بینا پیوسی دودھی۔ | التقاع (ر کسکعفس) ... ہونا | [illegible] |
| التباب (ر کسکعفس) ایک کام کا کسی پر لازم اور واجب کر دینا ... ساتھ ملانے۔ | التقام (ر کسکعفس) دہان بند کرنا یا بنا | [illegible] |
| التباد (ر کسکعفس) ایک چیز سے میں ... ہونا ... کا آپس میں چپکنا درخت کا ... ہونا۔ | التجاء (ر کسکعفسم) ... پکڑنا ... بالی۔ | [illegible] |
| التباس (ر کسکعفس) کام کا مشکل پیچیدہ اور مشتبہ ہونا۔ | التجاج (ر کسکعفس) آوازوں کا خلط ملط ہونا ... خلط ملط ہونا۔ | [illegible] |
| التباط (ر کسکعفس) اونٹ کا دوڑتا میں زمین پر ہاتھ پاؤں سے مارنا ... کرنا ... ہونا اضطراب کرنا ... دوسرے کا ہاتھ پاؤں کو جمع کرنا سمیٹنا اور گول ہونا ... | التجاح (ر کسکعفس) ایک کی طرف مضطر کرنا ... کسی کام کا مشتبہ ہو جانا | ۳۶۳ |
| التباک (ر کسکعفس) کام کا درہم اور آمیختہ اور خلط ملط ہونا۔ | التحم (ر مسنف) شعر میں معانی ... زیادہ ... والا۔ | [illegible] |
| التبان (ر کسکعفس) اپنے دودھ کو ... میں سے پینا۔ | التحاء (ر کسکعفسم) پوست کو درخت سے اتارنا ... گوشت کو ہڈی وغیرہ سے الگ کرنا ... لڑکے کا ڈاڑھی نکل آنا | [illegible] |
| اللبتہ (ر مسنف) عطیہ قلیل ... قسم | التحاب (ر کسکعفس) فراخ میں چلنا | [illegible] |
| التباد (ر کسکعفس) کپڑا پہننا۔ | التحاد (ر کسکعفس) قبر کھانا ... میلان کرنا ... دین سے پھر جانا۔ | [illegible] |
| | التحاس (ر کسکعفس) کسی سے ... لینا | [illegible] |
| | التحاص (ر کسکعفس) کسی کو ایک کی طرف مضطر کرنا ... کسی ایک کام سے بند اور ... کر دینا ... اندر سے ... ہوا ... کو تھوڑا تھوڑا | [illegible] |

[illegible] ۱۳۱۲

الباث (کسفنس) مہلت کا حکم دینا۔ مہلت کرانی۔

الباح (کسفنس) بڑی عمر کا ہونا۔

البادر (کسفنس) جگہہ پکڑنی۔ اقامت کرنی۔ زمین پر چمٹ جانا۔ کپڑے کو پیوند لگانا۔ زین کا خوگیر بنانا۔ چوپایہ کو خوگیر باندھنا۔ مشک کو جوال میں داخل کرنا۔ گھوڑوں کا حمل ہونے وقت سر جھکانا۔ ایک چیز کو ایک چیز سے چھپانا۔ اونٹوں کا بال نکال لانا۔ موٹاپے کے لیئے اونٹوں کا آمادہ ہونا۔ چوپایہ کے سرین پر پیشاب اور گوبر کا خشک ہونا۔ نمازی کا نماز میں لگاؤ کو بجا سجدہ کہنا۔

الباس (کسفنس) ڈھنکوا دینا۔

الباط (کسفنس) پوست بہت سے

الباک (کسفنس) گفتار میں خطا کرنی۔ فحش بکنا۔

الباب (کسفنس) قوم کا باشیر یا بہت دودہ والا ہونا۔ اونٹنی کے تھنوں میں دودہ اوتر آنا۔ تلبینہ بنانا کہ ایک قسم کا آش ہے۔

البتہ (نفت) چمڑے کا جوش ...

... جو کہ

البوب (کسفنس) بیر کی گٹھلی۔

الکت (فس) بہتان۔

الت (فس) زمین ... کم کر دینا روکنا۔ پھیر دینا۔ قسم دینی یا قسم چاہنی گواہی طلب کرنی تاکہ اوس سے قوت حاصل ہووے۔

الکہ (فتف) چھوٹا نیزہ کہ جسکی پیکان چھوٹی ہو۔ ال (فت) الال (فس) جمع۔ بکری۔ سلاح اور تمام آلات جنگ۔ لکڑی کہ جس کے سر پر ... ہوں۔ آب جاری کی آواز۔ ایک بار نیزہ چھوٹا مارنا۔

الکہ (کتف) رونے کی ہیأت۔ قرابت۔ الل (فت) جمع۔

الکہ (فتف) چوپایہ کہ جسکا چراگاہ دور ہو۔ الل (فت) جمع۔

آلکہ (فت) چوب خیمہ۔ آل۔ آلات (فس) جمع۔ شدت۔ حالات۔ جنازہ اور اس معنی میں واحد و جمع اسکی یکساں ہے یا جمع ہے بدون واحد کے یا واحد ہے اور جمع اوسکی آلات ہے۔

الباب (کسفنس) ایک کام کا

چین کا گھاس کے سبب سبز ہونا۔ رنگ کا بدل جانا۔

اَلتفاف رکسکفس اپنے کپڑے میں لپٹنا۔ گھاس کا زیادہ ہونا اور شکار کا آپس میں لپٹنا۔

اِلتقام رکسکفس لقمہ نگل جانا۔

اِلتقاء رکسکفس ملاقات کرنی۔ جمع ہو آنا۔ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا۔ آپس میں پہنچنا اور ملنا۔

اِلتقاص رکسکفس ایک چیز کو پکڑنا۔

اَلتقاط رکسکفس ایک چیز کا بے جستجو کے پانا اور بیچ میں سے غلہ وغیرہ کا دانہ چننا۔ ایک چیز کو زمین سے اٹھا لینا۔ اچانک ایک چیز کو پانا۔

اَلتقاع رکسکفس رنگ بدل جانا۔

اَلتقام رکسکفس لقمہ کو نگل جانا۔

اَلتکاک رکسکفس گھاٹ وغیرہ پر بھیڑ لگانی۔ آپس میں لشکر کا پیوست ہونا۔ ملا ہوا ہونا۔ کلام میں خطا کرنی۔ صحبت میں توقف کرنا۔

اَلتماع رکسکفس اپنے لیے ایک چیز برگزیدہ کرنی۔ رنگ بدل جانا۔ مجہولاً مستعمل ہوتا ہے۔

الالتماح رکسکفس آنکھوں میں روشنی ... [illegible]

اِلتماس رکسکفس ایک چیز کا ڈھونڈنا۔

اَلتماط رکسکفس ... چیز

اِلتماظ رکسکفس ایک چیز کو منہ میں ڈالنا۔ کسی کا حق لے جانا۔ ایک چیز کا لینا۔

اِلتماع رکسکفس بجلی کا چمکنا۔

اِلتماق رکسکفس ... کرنی ...

اَلتواء رکسکفس رسی کا بٹا ہوا ہونا۔ کلام میں سستی اور کاہلی کرنی۔ ... کا ... اٹھانا اور خم کھانا۔ منہ پھیرنا۔ سانپ کا اپنے اوپر لپٹنا۔

اِلتہاء رکسکفس کھیلنا۔

اَلتہاب رکسکفس آگ کا بھڑکنا۔

اَلتہاث رکسکفس پیاس کی شدت اور ماندگی کے سبب زبان باہر نکال دینی۔ ہانپنا۔

[illegible]

[illegible] سے پینا ۔ [illegible]
سوئی وغیرہ کا ناکا [illegible]
کا بیکری کی آنکھ کا نکلنا [illegible]
اور سے [illegible] جائے نکل آنا
اَلتَّجَاطُ (کسکفس) [illegible] کرنا ۔
اَلتَّجَافُ (کسکفس) [illegible]
اَلتَّجَامُ (کسکفس) [illegible] ہونا
اور [illegible]
کا سخت ہو جانا ۔
اَلتَّجَاوُ (کسکفس) [illegible]
[illegible] ۔ لڑکے کا [illegible]
اَلتَّجَاحُ (کسکفس) کلام [illegible]
آمیختہ ہونا [illegible]
اَلتَّجَامُ (کسکفس) [illegible]
اَلتَّحَاوُ (کسکفس) دارو کے گلے
سے نکل جانا ۔
اَلتَّدَامُ (کسکفس) پریشان اور
مضطر ہونا ۔ [illegible]
اَلتَّذَاذُ (کسکفس) خوش ہو پانا ۔
اَلتَّذَاعُ (کسکفس) [illegible]
کا درد و سوزش میں [illegible]
اَلتَّزَاقُ (کسکفس) چمٹنا ۔
اَلتِزَامُ (کسکفس) گردن [illegible] ہاتھ

[illegible] ۔ بغل میں لینا ۔ ایک چیز کا لازم ہونا
اَلتِصَاقُ (کسکفس) چمٹنا ۔
اَلتِصَاصُ (کسکفس) چمٹنا ۔
اَلتِصَاقُ (کسکفس) چمٹنا ۔
اَلتِقَاطُ (کسکفس) [illegible]
ہونا ۔ عورت کا پوشیدہ ہونا ۔ [illegible]
[illegible] کرنا ۔
اَلتِطَاعُ (کسکفس) [illegible]
[illegible]
اَلتِطَامُ (کسکفس) [illegible]
اَلتِطَاءُ (کسکفس) [illegible]
اَلتِعَاجُ (کسکفس) [illegible]
کے سبب بیقرار [illegible] ہو جانا
اَلتِعَاقُ (کسکفس) رنگ [illegible]
اور متغیر ہونا ۔ مجہولاً مستعمل ہے ۔
اَلتِغَائُ (کسکفس) [illegible]
میں اضافہ کرنا ۔ ایک [illegible]
اَلتِفَادُ (کسکفس) کسی کا [illegible]
سے روکنا ۔ کسی کا [illegible]
اَلتِفَاءُ (کسکفس) [illegible]
[illegible] ننگا اور برہنہ کرنا ۔
اَلتِفَاتُ (کسکفس) [illegible]
اَلتِقَاعُ (کسکفس) [illegible]

[illegible]

الشاجر ر — درخت کا شگوفہ نکال لانا — شجی کھانا سا اطراف جسد سے پانی ٹپکنا —

الشانث ر س ف س — اصرار کرنا جگہ پکڑنی ایک جگہ مقیم ہونا جیسے بیٹھ رہنا —

الشباع ر س ف س — کرنا غنا کرنا —

الشحع ر صفت — جسکی زبان نا اور حلق کی طرف مائل ہو —

الشجع ر صفت — جسکی زبان میں تغیر اور شکستگی ہو —

الشجار ر س ف س — کسی کو ایک کام کیطرف مضطر کرنا — خداوند تعالی کے ایک کام کو حوالہ کر دینا — نگاہ رکھنا —

السجاج ر س ف س — اونٹ کا آواز کرنا —

الشجام ر س ف س — مدینہ کے پاس ایک شہر ہے یا وہ جو حجام ہو — نالہ —

السجام ر س ف س — چوپایہ کو لگام پہنانا اسکا منہ سے واغ کرنا — زہین تک پانی کا پہنچ جانا —

الشجار ر س ف س — ایک ایسی چیز نمائی کرانا جس علامت کرین سلیست او کھانے کے قریب پہنچنا لکڑی کا —

السحاج ر س ف س — کسی کو ایک کام کی طرف مضطر کرنا —

السحاح ر س ف س — سوال اور درخواست اور ایک چیز کی طلب میں اصرار کرنا بیٹھ کا متصل رہنا بیٹھ کا ایک جگہ پر رہنا — اونٹ اور اونٹنی کا سرکش ہو جانا — بغیر کسی علت کے اونٹنی کا بیٹھنا — سوار یکا ماندہ ہو جانا اور آہستہ چلنا — پالان کا پشت ستور کو زخمی کر دینا — اونٹ وغیرہ کا جگہ سے نہ ٹلنا —

السحاذ ر س ف س — حرم میں حلال سے گذر جانا اور قربانی کا پاس نہ کرنا یا خدا کا شریک کرنا یا ظلم کرنا یا غلہ کو مہنگا بیچنے کے لیے نگاہ رکھنا کسی بچہ چھوڑ ٹکڑ نا اور سرعت کرنا — گور میں جانبی سے مائل کرنا پھر جانا خصومت و جدال کرنا — دین سے پھر جانا —

السحاس ر س ف س — زمین کا پہلی بار گھاس اوگانا یا چوپایہ کا زمین کی گھاس کو چرنا — چوپایہ کو کم چرانا —

السحاف ر س ف س — اصرار کرنا — ناخن کو جڑ سے اوکھاڑنا — بن کوہ میں جانا نقصان اور زیان پہنچانا — ناز سے دامن کشان چلنا —

شحی
شحت
شحق
شحع
شحخ
سحج
سحج
سحم
سحی

369

12

[illegible]

... (بکسر) ... آنکھ کا ... آنا
الالتہام (بکسر) ... سب کچھ کھا جانا
... پی لینا - ...
... کھا لینا -
التشیخ (بفتحتین) ...
... کا ...
کے ...
... [illegible] ...
... اللاتی ...
اور ... [illegible] ...
اور اسکا تثنیہ اللتان (بفتحتین) ہے اور
اللتان (بفتحتین) اور اللتا (بفتحتین)
اور اسکی جمع اللاتی (بفتحتین) ہے اور
اللات (بفتحتین) ہے اور اللائی (بفتحتین)
اور اللواتی (بفتحتین) اور اللای
(بفتحتین) اور اللائی (بفتحتین) اور
اللا (بفتحتین) اور اللوا (بفتحتین) اور
اللات (بفتحتین) ہے اور اسکی تصغیر
اللتیا (بفتحتین) اور اسکا تثنیہ و
جمع اللتیان (بفتحتین) اور اللتیات
(بفتحتین) ہے -
التیار (بکسرتین) ... جز ... ہو جانا - آہستگی اور توقف کرنا +

التیاث (بکسرتین) ... [illegible]
ہونا - اپنے میں کپڑا لپیٹنا ...
کرنا - سستی و توقف کرنا ...
... [illegible] ...
التیاح (بکسرتین) ... ظاہر ہونا
بجلی کا چمکنا ...
التیاخ (بکسرتین) ... [illegible]
گدلا ... ہونا -
التیاذ (بکسرتین) کسی کی پناہ
اپنے لیے کسی کو ... میں ...
اور لپٹنا
التیاط (بکسرتین) ... ہو جانا
جیسے التاط ...
التیاع (بکسرتین) دل کا عشق سے جلنا
التیاک (بکسرتین) کسی کے ساتھ
... [illegible] ...
... اور اسکے ساتھ ...
... [illegible] ...
التیام (بکسرتین) ملامت کیا جانا
ملامت قبول کرنا
التیام (بکسرتین) زخم کا جڑ جانا
زخم کا اچھا ہو جانا - ...
درمیان ... [illegible] -

الّلذین (فتح فتح سکون) اور الّلتان (فتح فتح سکون فتح) اور اللّذین (فتح فتح کسرہ) اور یا الّذی اور الّلتین بعد ذان واحد جمع ہی اور تینوں صورتوں میں یعنی حالت رفع اور نصب اور جر میں اللّذین (فتح فتح کسرہ) ہی آتی ہے اور بعض کے نزدیک حالت رفع میں اللّذون (فتح فتح ضمہ) آتا ہے اور تصغیر اللّذیا (فتح فتح کسرہ) و اللّتیا (فتح فتح کسرہ) اور اللّذیان (فتح فتح کسرہ فتح سکون) اور اللّذیون (فتح فتح کسرہ ضمہ) آتی ہے۔

الّلزوم (ضمہ) ۱ لازم ہونا۔

الّلزوق (ضمہ) چسپ کے لازم ہو جانا۔

الّلزاحم (کسرہ فتح ضمہ) پر کرنا بکرین کو پیٹ بھر چرانا۔

الّلزاز (کسرہ فتح) چپٹانا۔

الّلزاق (کسرہ فتح) چپٹانا۔

الّلزام (کسرہ فتح) کسی کی گردن پر یعنی ذمہ پر ایک کام کو لگانا لازم اور واجب کرنا۔

الّلزن (فتح سکون) سخت زمانہ آدمیوں وغیرہ کو آزار دینے والا۔

اللّس (فتح سکون) (ضمہ) اصل میں بد لیشان عقل خبطی۔

اللّس (فتح سکون) الّلان ہ بدلیشان عقل ہونا۔ مجہولاً مستعمل ہے۔ دیوانگی خیانت جھوٹ چوری خطائے تدبیر۔ شک خود بکار نی۔

اللّساس (کسرہ فتح) زمین کا گھاس کو نکال لانا۔ زمین کی نئی گھاس اوگنی۔

اللّساع (کسرہ فتح) لوگوں کے درمیان دشمنی اور فساد ڈالنا اور اونکو کھڑکا دینا۔

اللّساق (کسرہ فتح) چپٹا دینا۔

اللّسام (کسرہ فتح) سمجھانا۔ سکھلانا ڈھونڈھنا طلب کرنا۔ لازم کرنا۔ چکھانا۔

اللّسان (کسرہ فتح) کسی کو اپنے اونٹ کا بچہ یعنے پوتہ عاریت دینا تاکہ اوسکے سبب وہ اونٹنی کو دودھ لیوے گویا کہ اوس نے اونٹ کے بچے کی یعنی پوتے کی زبان کو عاریت دیا۔ کسی کی بات پہنچانی۔ نامہ پہنچانا۔

اللّسن (فتح سکون) زبان اور خوش تقریر لسن (ضمہ سکون) جمع۔

اللّص (کسرہ فتح) مرد جسکے دانت اور کندھے کے سرے آپسمیں شریک ہوں

اللّص الالیتین جڑ ملی ہو کہتے ہیں

اللّصاق (کسرہ فتح) چپٹانا۔ اونٹ

اَلْحَاق (کسفعس) پہنچنا پہونچا ملانا
چھکا دینا زخم کردینا۔
اَلْحَام (کسفعس) جمع پا پیدا کرنا ... ہونا کہ اوسے اوس شے کی احتیاج ہو
جنگ کا کسی کو گھیر لینا گرفت کا
بنانا آدمی کا بہت گوشت والا
ہونا خوشہ کا دانہ بھرا اور شاسا ہونا
گوشت کھلانا سخت جنگ میں ... کشتی
کرنی کسیکو کسیکی شتام ... کردینا۔
اَلْحَان (کسفعس) کسیکو کلام سمجھانا۔
اَلْحَضَاج (کسفعس) ... کے
بھڑک اوٹھنا اور پھول جانا پیٹ
فراخ ہونا اور پھٹ جانا۔
اَلْحَن (کسنف) آگاہ و دانا تر۔
اَلْحَاص (کسفعس) آنکھ سے
چشم ... کی چربی کا آشکارا ہوجانا
... مستعمل ہوتا ہی۔
اَلْحَص (کسنف) مرد جسکی پاجشم
گوشت دار ہو گئی ہو مرد جسکی
اطراف چشم سوج گئی ہو۔
اَلْحَش (کسنف) ... ہو مرد۔
اَلْحَی (کسنف) ابت ... و ... ہنے
والا مرد۔ اونٹ جسکا ... انو

... سے ...
اَلْدَد (کسفعس) ... بنانا ... جھوٹا
مستعمل ہوتا ہی ...
اَلْدَادَت ... کردن ... ہونا
سخت خصومت کرنے والا مرد کہ
حق کی طرف میل نکرے ... رت
لداور (کسنف) مجع۔
اَلْدَاد (کسفعس) بہت ... ہونا
اَلْدَاد (کسفعس) ... ہونا
کسی کی جانب ... الی
اَلْدَس (کسفعس) ... گھاس ... نا
اَلْدَام (کسفعس) ... کا کسی کو
ہمیشگی کرنی۔
اَلْدَہ (کسنف) فرزندان۔
اَلْذَام (کسفعس) لازم کردینا ...
کرنا کسیکو ترغیب دینا تحریص کرنی
اَلْذَہ (کفلیف) جو کہ اپنی لذت ...
اَلَّذِی (قتفک) جو کہ جو کہ
یہ اسم موصول مبہم ہی مذکر کیلئے
مبنی ہی معرفہ ذوی العقول کیلئے
مستعمل ہوتا ہی اسمین چند لغت ہین
الذ (قتفک)، اللذی (قتفعمتفک)
لذی (ذفک)، اور تثنیہ اللذان قتفقک ا

مشتبہ کر کے چلنے والے پر دشوار ہو جائیں
جنگلی چوہے کے سوراخ کے مشابہ
ہوتا ہی۔ تشبیہ کا سبب یہ ہے اصل
اسکی یہہ ہی کہ جنگلی چوہا اپنے بل کو
کھودتا ہی تو ایک دروازہ کو تو کھلا رکھتا
ہی اور دوسرے کو دور نیچے تک کھودتا
چلا جاتا ہی اور پھر دائیں بائیں کھودتا
ہی پس اس سبب اوسکا مکان مخفی رہتا ہے
اَلْغَازٌ (کسفس) چیستان کہنی۔
سربستہ اور مبہم بات کہنی
اَلْغَاطٌ (کسفس) آواز کرنا خرخر کرنا
دودہ میں جلتا پتھر ڈال لینے سے دودہ کا
آواز جوش نکالنی۔
اَلْغَافٌ (کسفس) شیر کا زبان سے
خون چاٹ لینا۔ شیر کا کسی کے سر پر حملہ
کے لیئے آمادہ ہونا۔ سرعت کرنی
بدمعاملگی کرنی۔ ظلم کرنا۔ لقمہ کھلانا
چوپایوں کا نحیف ہو جانا۔
اَلْغُوزَۃُ (ضسضسف) چیستان۔
اَلْغِیْنَانٌ (کسکفس) گھاس کا
لمبا اور آپسمین لپٹا ہوا ہونا۔
اَلِفٌ (زفک) مرد نے عورت سے حروف
تہجی میں سے ایک حرف کا نام۔ مذکر

بازو۔ ایک رگ ہی بازو میں سے نیچے تک۔
ایک ہر چیز میں سے۔
اَلْفٌ (فسف) ہزار۔ مذکر ہی الوف
(ضفس) آلاف (مفس) جمع۔
اَلْفٌ (فس) (ض) ہزار دینا۔
آلَفٌ (زمک) صیغہ لغت۔
اَلْفٌ (کس) ہر دوستی یار دوست آلاف
(ضفس) جمع عورت کہ جس نے تیری
خواہ دوستی پکڑی ہو اور تو نے اوسکی۔
اَلْفٌ (کس) (س) ہی کسی کے ساتھ
خو پکڑنی کسی کو دوست بنانا آلف
(زمک) صیغہ لغت مذکر سالاف (فتفسں جمع)
آلِفَۃٌ (زمکف) صیغہ لغت مونث الفات
(زکفس) اوالف (فضسک) جمع مکان
سے الفت پکڑ لی۔
اَلْفٌ (فقت) بھاری بوجھل مرد جسکا
کلام اور کام میں درماندہ۔ بھاری زبان
والا جب گفتگو میں آوے تو اوسکا منہ
زبان سے پر ہو جاوے۔ وہ شخص کہ
اوسکی دونوں بھویں آپسمین نزدیک ہوں
جگہہ جسمین آدمی اور انبوہ ہو خود کا
دست ستور میں ایک رگ ہی الف جمع
اَلْفَا (کسفم) باقی چھوڑ دینا۔


ج
ا

ماده

کی کو بیچ کاٹنی ۔

اَلْعَطُّ (ضف) دانت ٹوٹا ہوا ہونا گھس کر گھسے ہوئے دانت کا۔

اللِّعَاط (کسفف) بہ شدت کرنا کسی کے حق میں منکر ہونا۔ کمزور زمین چسپاں کرنا قرضخواہ کا حق سے باز رہنا اسکا یہ مدعی انکار نہ کر سکنا بسبب ضرورت ہونا۔

اللِّعَاف (کسفف) نرمی سے پینا۔ کسی ساتھ اونٹ کا ذکر کو اونٹنی کی کس میں داخل کرنا جب کہ ناتواں سے ہو نہ سکے۔ ایک چیز کو اپنے پہلو اور پسلی پر چپٹانا۔

اَلْعَطَع (ضف) مرد جسکے دانت گر کر جڑ تک گھس گئیں ہوں۔

اللِّعَاظ (کسفف) ایک چیز کو لازم پکڑنا ہمیشگی کرنی۔ ایک جگہ مقیم رہنا۔ مینھ کا ہمیشہ برسنا اصرار کرنا۔

اللِّعَام (کسفف) انگلیوں کی ہڈیاں۔

اللِّعَاثید (کسفف) کھیل پر برانگیختہ کرنا یا ایسی چیز لانی کہ اوس سے بازی کریں۔ منہ سے لعاب جاری ہونا دہن کا لعاب بہا ہوا ہونا۔

اَلْعَلَاج (کسفف) سوکھی لکڑیوں میں آگ بھڑکانی۔

اَلْعَلْع (کسفف) میں آگ لگانی ۔

اللِّعَاق (کسفف) شیر اور اونٹ کا زبان سے خون چاٹنا شیر اور اونٹ کا بہ جلدی لعلع سے چلنا اور ... یا شیر اور اونٹ کا کسی کے سر کھجانے کے لئے آمادہ ہونا یا غصہ کرنا یا دیکھنا اور آنکھ ڈبا لینا یعنی آنکھ بند کرلے۔

اَلْعَبَان (ضفضن) آہستہ چلنے والا

اَلْعَث (ضف) آہستہ چلنے والا بھاری وزن کا۔

اَلْعَس (ضف) مرد جسکا رنگ سیاہی مائل ہو لعس لعس جمع لعاس کہ کثرت اور بہوئی کے سبب سیاہی مائل ہو ... العس بولتے ہیں۔

اللِّعَاز (کسفف) نا امید اور زبان کا رد کر دینا یا باطل کر دینا شمار سے گرانا۔

اللِّعَاث (کسفف) نہایت تھکا دینا خراب و ناکارہ کرنا تیر پر چپکانا کسی کو رنج پہنچانا ایذا دینی۔

اللِّعَاز (کسفف) کج رستے اور پیچیدہ

لعط
لعق
لعع
لعف
لعی
لعظ
لعن

٣٧٢

لعس
لعث
لعس
لعظ
لعغ
لعذ
//

الکع (ضسف) لئیم ـ کمینہ ـ بخیل

الکن (ضسف) الکنہ زبان میں لکنت عاجز

الل (فف) ایکطرف کا ایسا چیز نکلا چھوٹا اور بڑا دانت کا منہ کے اندر کو ہو ـ تیز ادھر کیل

الل (فف ادس) دانتون کا خراب ہو جانا ـ مشک کا بودار ہو جانا ـ اور دانت کی کوتاہی اور اسکے منہ کے اندر کی طرف کی یا اسیطرف اور اسکی ناہمواری خمیدگی ـ

اللان (فضس) چھری کے دونوں رخ ـ مفصل جانب شانہ میں کہ جمع ہوئے کہ اونکے درمیان ... ہی اور جب انہیں سے گوشت کا ٹین تو دونوں کے درمیان پانی جاری ہو جاتا ہے ـ

الکم (ضفت) الم کی مانند معنی ہے ـ

الم (ضف) درد ـ آلام (فضس) جمع ـ

الم (فف ادس) درد کرنا ـ آلم دردناک کا صیغہ صفت ـ

الما (کسفضم) ایک چیز کو پوشیدہ لیجانا جیسے الما علیہ المال کسی کے حق میں کا منکر ہونا جیسے الما فلان حقہ

علیہ الحال چھپا لینا جیسے المات

العتاب المکان ایک چیز کو دبا لینا جیسے الما علیہ لیجانا جبکہ بے کے ساتھ متعدی کیا جاوے جیسے الما مشتمل ہونا جبکہ اسکے صلہ میں علی آوے ـ ایک چیز کو اپنے لئے برگزیدہ کرنا

الثما (کسفضم) چمکانا تلوار کا شمشیر کا

الماح (کسفضس) دیکھنا ـ چوری چوری نگاہ کرنی کسی کو چوری چوری دیکھنے پر برانگیختہ کرنا ـ عورت کا اپنے تئیں چوری چوری نگاہ کرانے پر قادر کرنا

الماس (فضس) ایک جوہر ہے بھاری قیمت کا سب جوہرون کو پارہ کر ڈالتا ہی اور اسکو سوا سیسہ قلع اور آگ کے کوئی نہیں توڑ سکتا اور لوہے کے آلات اوسمین اثر نہیں کرتے اور اوسمین کا سب سے بڑا اچار مغز کی مانند ہوتا ہی اور رنگ کئی قسم کا ہوتا ہی اور بغیر شکل شلث کے نہیں ہوتا اور اگر اوسے منہ میں رکھ لین تو دانت گر جاوین اور اوس سے موتی وغیرہ کو سوراخ کرتے ہین اور اسکو الماس بالتنوین کہنا غلط ہے ـ

ل ک ع
ل ک ن
ل ل ع
ل ل
ل م م
ل م ا
ل م ح
ل م ی
ل م ص

۳۷۵

ل م س

۱۲

علامات اعراب فتح ـ کسرہ ـ ضمہ ـ جمع ـ فتحہ کی کسرہ ـ سکون ـ تشدید

الالقاء (سغسم) ڈالنا ایک چیز کو پہنچانا
الالفاج (سغسم) مفلس ہونا ـ بھیج جانا ـ کسیکو مضطر کرنا ـ
الالفاف (سغس) آستین لپیٹے ہوئے ـ لفیف واحد اسکا الف رفت یا الف (رکت) یا ہیر جمع الجمع ہے یعنے لف رفت کی ـ لفار (سقسم) جمع ہا اور لفار (سغسم) کی الالفاف (سغس)
الالقاف (سغس) پرندہ کا لپنے نکمہ میں سر کر لینا ـ کسی کو لپٹے جبے کے نیچے داخل کرنا ـ
الالقام (سغس) مضبوط باندھنا ـ
الالفة (سغسف) خو گر ہونا ـ دوستی اجتماع ـ موافقت دو چیز کے درمیان
الالفت (سغسف) آستین لپیٹے ہوئے سینگ کا بکرا یا ایک سینگ کا مرا ہوا بزک ـ مرد جو بائیں ہاتھ سے کام کرے ـ احمق بیوقوف ـ توتلا ـ
الالفش (سغسف) احمق ـ
الالکش (سغسف) مرد جو بائیں ہاتھ سے کام کرے ـ احمق ـ
الالق (سغسف) بجلی کا چمکنا ـ اسی معنے ـ بھیڑ کا نہ ہنسنا ـ دیوانہ ہونا ـ

میں مجہول استعمال ہے
الالق (کسس) بھیڑیا
الالق (سغسف) چمکنے والا ـ
الالقاء (سغسم) ڈالنا ـ والقیت علیہ من کل ـ والق بمعنی دیکر ـ والقیت علیہ المودۃ ـ وبالمودۃ والقیت علیہ القیۃ
الالقاح (سغس) نر ماہ کنکر دینا ـ حاملہ کر دینا ـ ہوا کا درخت کو حاملہ کر دینا
الالقاط (سغس) آبادی آدمی تھوڑے لوگ پراگندہ ـ
الالقام (سغس) گھوڑے کا رفتار میں حوصلہ ـ کسی کو لقمہ نگلوانا ـ
الالقان (سغس) جھٹ پٹ یاد کر لینے گمان جاننا صلہ اوسکا باہم ـ
الالقة (سغسف) دلیر عورت بھیڑ یے کی مادہ ـ بندریہ ـ الق کے نر کو قرد کہتے ہیں ـ الق سالق رکف جمع ـ
الالقی (سغف) چالاک عورت بھیڑ نیلی ـ
الالقیتہ (سغسکف) الجبیئۃ دشنام دہی یعنے چیستان ـ شدت سختی ـ الاقی جمع
الالک (سغس) لت گھوڑے کا لگام چبانا
الالکد (سغسف) ناکس اور کمینہ اپنی قوم سے چسپیدہ ـ

عنت منگر آیت (کف) عنت مونث
اور الّی (ضس) ج
الّوۃ (ضس) ایک لکڑی جسے جلا کر
خوشبو دار دھواں کرتے ہیں۔
الاوبیۃ (ضسکت) ج۔
الوہ (فتت) (ان) ہلکیر کرنا تعفیر کرنا
کرنا چھوڑنا۔
الوف (فس) خدامنان ... جمع ہے
واحد جس کا اسکے لفظ سے نہیں ہو اور
بعض کہتے ہیں کہ اسم جمع ہے واحد اسکا
ذو ہے اولات (ضس) جمع مونث
ذات ہے یعنی ... واحد اسکا ال
... مستعمل نہیں ہوتا ہے۔
الوا الامر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم اور انکے تابع جو اہل علم
و اہل امارت ہیں۔
الوا (کسضم) کیر جیسے انتہا کرنا
جیسے الوی الرجل بنجو یہ الوا کسی
کے حق کا منکر ہونا جیسے الوی بحقہ
لیجانا جیسے الوی بہ عقاب کا کسیکو
اوڑا لیجانا جیسے الوت بہ العقاب
ایک چیز کو لینے کیلئے برگزیدہ کرنا۔
جیسے الوی بما فی الاناء دوسرو ...

غالب ہونا زمانہ کا کسی کو ہلاک کردینا
جیسے الوی بہم الدہر اونٹنی کا دم کو
ہلانا۔ سرکشی کرنی۔ اعراض کرنا سر
پھیرنا۔ ریت سے حد و پایان اور
اور زمین کی باریک اور کچھ ہوئی جگہ میں
پہنچنا سے لگے کھیت والا ہونا۔ بہت
آرزو کرنی۔ لویۃ کھانا۔ ساگ اور
گھاس کا مرجھا جانا۔ جھنڈا بلند کرنا۔
اللوائ اللوادی نالہ کے کنارے
اللوائر البلاد شہروں کے کنارے
الوات (کسفس) زمین کا خشک
گھاس میں تر گھاس اوگانی۔
الواح السلاح جو ہتھیار کہ
چمکتے ہیں جیسے تلوار اور نیزہ وغیرہ۔
الوثب (فضس) ٹھنڈی ہوا جو
خاک اوڑاوے۔ کوئیں سے جلد
ڈول کھینچنے والا۔ فتناطر کرنے والا۔
الوۃ (ضسف وکسف وفسف) سوگند
الوۃ (فقتف) مسافت ایک تیر
پرتاب۔ عود کی لکڑی شیرنی۔
رفاہیت۔ بفتح ہمزہ عود کی لکڑی۔
الوث (رفسف) سست مرد اڑیل
قوی بعد آمد مرد۔ لغات اضداد سے ہے

ماده
لی لوی
سے لوی
سے لوث
سے لوح
سے لوب
سے لوث
سے لوت

| مادہ | | |
|---|---|---|
| لمس<br>لمظ<br>لمظ<br>لمع<br>لمق<br>لمم<br>لمظ<br>لمع<br>لمی<br>باب اللام مع النون<br>لنج<br>لند<br>باب اللام مع الواو<br>لوذ<br>لود | اللماص (کسفس) سخت کا شرکت<br>سے کپڑے کے قابل ہو جانا۔<br>اللماظ (کسفس) کسی کے ہونٹھ پر<br>پانی لگنا غصہ ہر اکرنا سپیدی کرنی<br>اسے کپڑے کو خوب تکا ہوا اور<br>گڑنا جیسے الفاظ التمع ای حقیقی۔<br>اللماع (کسفس) ایک چیز کو اوچک<br>لیجانا۔ رنگ بدلجانا مجہولا مستعمل<br>ہے۔ حمل ظاہر کرنا مادیان اور گدہی<br>اور شیرنی اور گھوڑی کا پستان کو<br>پھیلانا۔ حمل میں پستان کے سرے<br>سیاہ ہوتے۔ بکری کا دم کو اوٹھانا<br>تا کہ اوسکی باربرداری اور حمل دریافت ہو<br>۔ بچہ کا شکم مادہ میں حرکت کرنا۔ زمین<br>کا سبزہ نکال لانا۔<br>اللمام (کسفس) صغائر کا مباشر و<br>مرتکب ہونا کسی پر اوترنا۔ لڑکے کا<br>بلوغ کے نزدیک پہنچنا۔ خرما بن کا<br>رطب ہونے کے نزدیک پہنچنا کام<br>کا نزدیک آنا کہ واقع ہو جاوے۔<br>الملحی (رفسفکت) جو کہ بہت چوری<br>چوری نگاہ کرے۔<br>الملمظ (رفسف) گھوڑا جسکے لب | در زیرین میں سپیدی ہو اگر لب بالین میں<br>ہو تو اسکو ارثم کہتے ہیں۔<br>الملتماظ (کسکفس) گھوڑے کے<br>لب زیرین کا سپید ہونا۔<br>الملمع (رفسف) ہوشیار و تیز ذہن۔<br>الملمعی (رفسفکت) بمعنی الملمع (رفسف)<br>جھوٹ بولنے والا۔<br>الملمی (رفسف) مرد جسکا لب سیاہ یا<br>گندم گون ہو۔ رمح المی نہایت گندم<br>گون پوست والا نیزہ سخت لکڑی<br>والا۔ صلیب المی ملدار گاڑھا ہڈی کا<br>گودا۔ ظل المی کثیف سیاہ سایہ۔<br>و تیز المی آب دہان سرد۔<br>الملنجوج (رفسف) ایک خوشبودار لکڑی<br>کہ جس سے بخور کرین۔<br>الملنجوج (رفسفس) بمعنی الملنجوج (رفسف)<br>الالندد (رفسف) سخت خصومت والا<br>مرد کہ حق کی طرف میل نکرے۔<br>اللوذ (ش) علیہ بکری کی ہتھیلی کا گوشت<br>اللوذ (ن) ایک کام کی طاقت<br>رکھنی۔ چھوڑنا۔<br>اللوذ (ن) الوذ الی (رفسکت) (ن) الام<br>تکبر کرنا تقصیر کرنی۔ تاخیر کرنی۔ اک |

علامات اعراب مفتوح مکسور مضموم حرف ساکن مشدد — تشدید

الہاج (کسفس) [redacted] شیی (ر) عورت کے بچہ جننے کے دو دو مہینے پر۔
الہاد (کسفس) ستم و جور کرنا خوار
اور حقیر کرنا جیسے الہد بہ گرانی کے
سبب زمین پر جھکانا جیسے الہدالی
الارض ایک شخص کو پکڑ لینا اور
دوسرے شخص کو چھوڑ دینا کہ
اوس سے مقابلہ کرے جیسے
الہدیقلان
الہاطا (کسفس) عورت کا اپنی
فرج پر پانی مارنا۔
الہاف (کسفس) حریص و طامع ہونا
الہام (کسفس) نیکی کا دل میں
ڈالدینا سکھانا۔ جو چیز کہ خداوند
تعالے دل میں ڈالدے۔
الہان (کسفس) سفر سے آنے
والے کو ہدیہ و تحفہ دینا۔
الہوش (ضفس) ایک قسم کی گھوڑی
کی دوڑ کہ کوشش تمام سے دوڑے
اتنا کہ چالاکی ستم سے اوپھا وسے نا
وہ دوڑنے کا شروع ہو۔
الہوۃ (رضسفتع) کھلونا۔
الہیۃ (رضسکت) کھلونا۔

الہیاج (کسکسفس) کام کا آمیختہ
ہونا اور غلط ملط ہوجانا۔ آنکھ کا خواب
ہوجانا۔ شیر کا نیم خفتہ ہونا۔
الیٰ (رفکت) بہت سوگند کھانیوالا۔
الی (رفس) الی (کس) الی
(رفف) الی (رکف) نعمت۔ آلاء جمع
الیٰ (رفف) (رس) بزرگ سرین ہونا
الیان (رفضس) الی (رفکت) آلی
آلی (رمف) صیغہ لغت مذکر۔ الیانۃ
(رفسفسف) الیاء (رفضم) صیغہ لغت مونث
الی (رضف) وسے لوگ۔ یہہ لفظ جمع
ہے واحد اسکا اسکے لفظ سے نہین
آتا واحد اسکا الذی ہی لیکن یہہ قول
عرب ذہبت الالی تو یہہ اول کا
مقلوب ہی کہ جمع اولی سے ہے جو مونث
اول (رفتف) ہے۔
الی (رکف) حرف جر ہی بطرف۔
الیا (رفکتف) سوگند۔ قسم۔
الایا (رفضسف) جمع۔
الیا (رکسفسم) توقف کرنا پیچھے ہوجانا
الیاس (کسفس) نام ایک پیغمبر
علیہ السلام کا یہہ لفظ عجمی ہے۔
الیال (رکسفس) آنکھ داخل ہونا۔

مادہ
ہیج
ہج
ہک
ہف
ہج
ہن
ہب
ہع
377
ہوج
لہ الہ
لہ لیا
الس
لیل
12

| مادہ | علامات اعراب (ف فتحہ ک کسرہ ض ضمہ س سکون ت تشدید م) | |
|---|---|---|
| ءلط<br>ءلس<br>ءلص<br>ءلط<br>ءلع<br>ءلف<br>ءلق<br>ءلق<br>ءلک<br>ءلم<br>ءلن<br>ءلہ<br>۳۷۸<br>ء ل الہ<br>ء ل ان<br>ء ل الہ<br>ء ل الی<br>ء ل الہ<br>ء ل الہ<br>ء ل الہ | آہستہ چلنے والا۔ بھاری زبان والا۔<br>اَلُوط (فسف) جو کہ عدل کی طرف<br>میلان نہ کرے۔ جو کہ کسی امر کا استفادہ<br>نہ ہووے۔ اَلواد (فسفس) کی جمع۔<br>سرکش نافرمان بردار۔ ولدار گردن۔<br>اَلوص (فسفس) بھر جیز جیسے تا<br>وقت آلوسا بغیریں سے کچھ نہ چکھا۔<br>اَلُوط (فسف) چسپاں تر۔<br>اَلُوف (فسفس) بہت الفت کرنے<br>والا۔ الف (ضفض) کی جمع۔<br>اَلُوق (فسف) احمق۔<br>اَلُوقہ (ففسف) ایک طعام ہے نفیس<br>اور لذیذ یا وہ مسکہ ہے کھجور کے ساتھ۔<br>اَلُوقہ (ففسف) روغن خرما رتر<br>کے ساتھ ملا ہوا یا مسکہ اور خرما ملا ہو۔<br>اَلُوک (فسفس) پیغام۔ پیغامبر۔<br>اَلُوکہ (ففسف) پیغام۔<br>اَلُوّتہ (ففسف) جمل خست کمینہ پن<br>اَلُوان (فسکفس) طرح طرح کا ہونا۔<br>اَلُوہِیَّہ (فففسف) الوہیت<br>(ضفسکتف) پرستش۔ معبودیت۔<br>اَلُوہَتہ (ففسف) الوہیت<br>(ضفسکتف) (ف) پوجنا۔ اسی سے | یہ نام پاک جناب احدیت کا اللہ لیکن<br>قول صحیح یہی ہے کہ یہ غیر مشتق ہے۔<br>اَلُوی (فسف) اکیلا۔ جمع ہونے والا<br>بیچار۔ لی (ضست) کی جمع۔ ودان۔ ماہ<br>تیر بیچا ماہوا سخت جنگ ویکا۔ لگز یلا<br>تنہا گوشہ نشین۔ ایک قسم کا درخت۔<br>اَلَہ (کفس) پوجا گیا۔ سو جیسے<br>والے کے نزدیک ہر پوجا گیا الہ ہے۔<br>اَلِہَ (کفک) عشق کے سبب سرگشتہ<br>اَلِہَ (ف) (س) پریشان ہونا۔ بیت<br>نے مضطر ہونا جیسے الہ علیٰ فلان کہ فلانا<br>امیدوار ہوکر پڑوسی کسی کی طرف جیسا الیہ<br>اَلٰہَتہ (کفسف) پرستش۔ معبودیت<br>اَلٰہَتہ (کفسف) (ف) پوجنا۔ سانپ<br>بت۔ سنیا چاند۔ آفتاب۔<br>اَلُہَتہ (ضفسف) معبودیت۔ مثل<br>الہانیتہ (ضسفسکتف)<br>اَلہا (کسفسم) کھلوانا مشغول کرنا<br>ایک کام کو بچہ کے سبب چھوڑ دینا۔<br>سماع سرود میں مشغول ہونا۔ جلتی میں گھی ڈالنا۔<br>اَلہاب (کسفس) آگ کا بھڑکنا۔<br>گھوڑے کا خوب دوڑنا۔ برق کا<br>پے در پے چمکنا۔ |

وہ چیز کہ جسکی طرف اشیا منسوب ہون
عمر گذری ہوئی - امات ف ق ف س
امہات ف ق ف س ج جمع - اور امات
ذا مین کہتے ہین یا امت ف ق ف
اُمّ اَدراص سختی جنگلی چوہا -
اُمّ البیض شتر مرغ -
اُمّ التنائف بیابان دست -
اُمّ الجابر حریسہ کا ایک قسم کا
طعام ہے علیم -
اُمّ جندب ظلم دشمنے الضافی -
ام الجیش علم لشکر -
ام حفصہ مرغی -
ام حلس گدی
ام الخبائث شراب -
ام حشاف سختی -
ام خنور کفتار یعنی بجو -
ام دردرۃ جہان -
ام دفر دنیا سختی سبلا -
ام الدماغ پوست دماغ -
ام الراس دماغ -
ام الراشد چوہا -
ام الرئیس بڑا سانپ -
ام الربیق سختی وبلا -

ام الرمح جھنڈا -
ام سوید کون -
ام صبار نبا - جنگ سخت ام صبور شلہ
ام الصبیان رنج بچگان یعنی وہ
چیز کہ جس سے بچون کو ڈرادین -
ایک ہوا ہی جو بچون کو عارض ہوتی ہے
کہ جسکے سبب اونکو غشی آجاتی ہے -
اور دو طبیبون کے نزدیک صرع ہے
ام الطعام معدہ اور گیہون -
ام القری مکہ معظمہ -
ام القرآن سورہ فاتحہ -
ام القوم سردار قوم -
ام الکتاب لوح محفوظ یا سورہ
فاتحہ یا تمام قرآن شریف -
ام المثوی جورو -
ام النجوم کہکشان -
ام حبین ایک قسم کی چھپکلی -
امات حبین جمع -
ام وفار دنیا -
ام طبق سختی وبلا سانپ -
ام الطریق کفتار یعنی بجو -
ام طلحۃ جون -
ام تمام کفتار یعنی بجو -

ام
۱۳/۱۳/۱۳
۱۳

۳۸۱

الیَانُ (کسفس) نرم کردینا۔
اَلْیَتہ (فسف) سوگند۔ اَلایَا (ضفض) جمع۔
اَلْیَتہ (فسف) قوم۔ سرین۔ بھاری سرین کی چوڑی اور گوشت۔ الیان (فسفس) جمع۔ الیات (فسفس)۔ الایا (فسفس) جمع۔ انگوٹھے کی جڑ کا حصہ۔ پنڈلی کا گودا جسکو فارسی میں ہو شنگ کہتے ہیں کیونکہ چوہے کی شکل ہوتا ہے۔ ٹھوک۔ چربی کا ٹکڑا۔
اَلْیَتہ الحافر چارپایہ کے سم کا دنبالہ۔
اَلْیَتہ (کسف) جانب۔
اَلیْث (فسف) دلیر۔ لیث (کس) جمع۔
اَلیَس (فسف) دلیر۔ لیس (کس) جمع۔ اونٹ جسپر کتنا ہی لادیں اوٹھالیوے۔ ہمیشہ خانہ نشین مرد۔ شیر۔ قرم۔ ساق مردے غیرت۔ وہ کہ جس سے مسخراپن کریں۔ نیک خوسے آدمی۔
اَلیَع (فسف) جو کہ بات اچھی طرح سے بیان نکرسکے یا اوسکا کلام پاہر کی طرف پھرے یعنی اوسکے کلام میں سیلے بہت ہوں۔
اَلیْف (فکس) یار دوست ہمخو۔

الالف (فسک) جمع۔
الیل (فکس) تپ کی تپش اور آہ زاری۔ گھگھرون کی آواز۔ پتھر کی آواز۔ پانی کی آواز۔
الیل (فکس) الیلہ (فکسف) رنج سے فرزند ہو جانا۔
الیلتہ (فکسف) فرزند کہ جسکی چراگاہ دور۔
الیم (فکس) دردمند۔ عذاب الیم عذاب جسکی دردرسانی نہایت کو پہنچ گئی ہو لفظ مبالغہ کے ہے۔
الیہتہ (فکسف) آفتاب۔
اَم (فس) حرف عطف ہے آتی ہے بل کے معنے میں۔
آم (فک) بولتے ہیں آم و لکم یعنی اوسکی بیوی اور عورتیں مرگئی ہیں۔
اَم (فت) (ان) قصد کرنا۔ آمر (س) صیغہ لغت۔ امام (کس) جمع۔ وضاع میں ماننا۔ اموم (فسفس)۔ امیم (فکس) صیغہ لغت ہے۔ امام و پیشوا ہونا۔
اُم (ضت) ہر قسم کے لوگوں کے گروہ۔ ہر جنس کے حیوانات کے گروہ۔ مادر یعنی ماں۔ مرد کی بڑی بیا جدہ۔ مسکین۔ خادم قوم۔ ہر چیز کی اصل۔

اُم اللُّہَیم سختی سیلا —
اُم الرُّقُوب سختی سیلا —
اُم الرَّحِم مکہ معظمہ —
اُم جِرزم شمالی ہوا۔ ہوا —
اُم صَبّار پتھر بھری زمین کہ چلی نہ جا سکے ہو سیلا سخت لڑائی —
اُم عَتاب بجو —
اُم عوف ٹڈی مادین —
اُم عامر بجو —
اُم عَنکل بجو —
اُم العوج بکری کی اوجھ —
اُم قسطل بلا سختی —
اُم کلواذ بلا و سختی —
اُم کیسان زانو کا لقب اور قدرب کا لقب کہ پشت پا سے آدمی کے سرین پر مارتے ہین —
اُم کُنکُلی کالے رنگ کی شراب —
اُم اللُّہَیم سختی۔ بلا۔ مرگ۔ تپ —
اُم مَجیع المُکَبَّد ایک ساگ ہے درد جگر کے لیئے مفید ہے —
اُم وافرہ دنیا —
اُم الولید مرغی —
اُم ہبیرۃ مینڈکی —

اُم الشبیر گدہی —
اُم الشیر آدمی کی تپ —
اُم ہبیر مادہ کفتار۔ گدہی
اَما (فف) جان لے سو آگاہ رہ کے معنی مین آتا ہے اور معنی استفتاح —
آمام (کسمہ) قوم کا سو آدمی ہونا قوم کا سو آدمی کر دینا —
آمام (ضمہ) بلی کا آواز کرنا —
آماتہ (کفسف) موٹے ہوئے فرزند والا ہونا مرگ رسیدہ اور ضعف والا ہونا مقرر الانا گوشت پکانے اور گلانے میں مبالغہ کرنا —
آمار (کسمہ) سیرابی کا تمام فریاد کرنا
آمار (کفس) حکم —
آمار (فس) علامت —
آمارۃ (فسف) وعدہ کی جگہ وقت۔ علامت پہچان —
آمارۃ (کفسف) ولایت۔ حکم چلانا —
آمارۃ (کفسف) خون کو زمین پر روان کرنا۔ ہوا کا غبار کو بلند کرنا —
آمارۃ (کفسف) قوت لا یموت عیال کے لیئے لانا سگریان کی رنگین گا ہتی ایک چیز کو گھلانا۔ زعفران مین تاپی


۱۲

ام
۱۲/۱۲
۱۲

ام شخیر نیظ پ [redacted]
ام عجزم کون -
ام غیلان ایک درخت ہو خاردار
ام قردہ بکری -
ام القرنج ایک طعام ہی جو گوشت
اور چاول اور شکر سے مہیا کرتے
ہین اور شارح مقامات حریری کے نزدیک
ایک روٹی ہی کہ اوسمین پرندہ کا گوشت
یا بھیڑ کے بچہ کا گوشت بھر کر تنور مین پکاتے ہین
ام القرذان چوپایہ کے سم
اور پنڈی کی لو ہار کا درمیان -
ام القری ایک پینے کی چیز ہی -
ام کلب ایک پہاڑی درخت ہی
اوسکا پتا بید کے پتے کی مانند ہی
ام قشعم سختی جنگ - موت - مکڑی
- کفتار - بیتے بجو -
ام کلبہ تپ -
ام ملدم تپ -
لا ام لک مذمت کا کلمہ ہی یعنی
تو لقیط یعنی پڑا پایا ہوا ہی کہ تیری ماں
مشہور نہین اور کبھی اس لفظ کو مدح
مین بھی لاتے ہین -
ام کجیح کوا - سختی -

[redacted]
ام تولب گدھی
ام توائمہ سیپی -
ام ثرمل بجو -
ام الکشوی کی عورت بھاجی کہنی والی
ام الجخدع مصیبت اور بلا -
ام جرذان ایک قسم کا خرما -
ام الجحران ڈول - مشعل
ام جعران جانور مردار خوار -
ام جعور بجو -
ام جندب بلا اور غدر و ستم -
ام جناب دنیا -
ام جنوب سانپ -
ام حباحب ایک چھوٹا سا
جانور ٹڈی کی مانند -
ام حنوکر سختی - بلا -
ام حنوکران ایک جانور ہی جسکی
ام حنوکری سختی - سب بلاؤن
سے سخت تر بلا -
ام خذرف بجو -
ام دحکل بجو -
ام دزان دنیا -
ام درین زمین جسمین قحط پڑا ہو

اور اس چیز کی طرف کہ جو مجلس میں قول
و فعل ہو اوسکا اعادہ نہیں چاہیے۔
اَمَانَتُہ (ف ن ت) (رگ) معتمد علیہ اور
امین ہو جانا ہے۔
اَمَاۃٌ (رکفت) کوئیں کھودنے
والے کا پانی پر پہنچ جانا۔ چوپایہ کا
آدمی پیاسے اور چہری کو پانی پلانا
پانی کا حوض میں جمع ہو کرنا۔ ایک
چیز کو ملانا۔ ابر کا بہت پانی جاری
کرنا۔ رحم مادہ میں کشش کا منی ڈالنا
زمین میں سے پانی کا رسنا۔ معاً
اور جارو میں پانی ڈالنا۔
اَمْسِیرْ بارئیس (ف ن ف ک س) ہندسک
لغت رومی ہے اور اوسکو انبر بارئیس اور
بربار بیس بھی کہتے ہیں
اَمْشَتْ (ر م ش) جاے بلند چھوٹے
چھوٹے ٹیلے نشیب و فراز۔ امات
(رکعص) امعوت منفس کی جمع
میں ضعف و سستی طریقہ نیک۔ کجی
عیب جو منہ یا کپڑے یا پتھر میں ہو۔
ایک مکان کا اختلاف کہ کچھ تو نرم اور
تنگ ہو اور کچھ سخت و درشت ہو۔ شک
اَمْتْ (رش) (ر م ق) اندازہ کرنا قصد کرنا

آمَۃٌ (ر م ف) سر کی چوٹ جو دماغ
تک پہنچ گئی ہو۔
آمَتَہ (ر م ف) فراخ حالی۔ سال کی
وہ جو بچے کی ناف سے کاٹتے ہیں
یا وہ خرقہ کہ جسمیں مرے سے لپیٹے ہیں
وہ جو بچے کے ساتھ وقت ولادت
کے نکلتا ہے عیب و نقصان و ذلت
اَمَۃٌ (رفف) لونڈی۔ اصل میں
یہ لفظا موہ (رفعف) تھا۔
اُمَّۃٌ (ر ف ت ف) شریعت کا رستہ سدمین
طریقہ مذہبی۔ مرد جامع خیر۔ پیشوائے
۳۸۵ مردم۔ جماعت جسکی طرف پیغامبر آیا ہو
۔ گروہ ہر قسم کے لوگوں کا۔ ہر جنس
کے جانوروں کا گروہ۔ وہ جو راہ حق
کا ہو اور دینوں سے مخالف ہو۔ قد و قامت
۔ مدت۔ ہنر۔ طاعت۔ نشاط۔ دانشمند
معلم راہ۔ ماں امات رفتعنس کی جمع۔
اُمَّۃُ الرَّجُلِ قوم مرد۔
اُمَّۃُ اللّٰہِ خلق خدا۔
اِمَّۃٌ (رکتف) حالت۔ راہ و مسلک
دین۔ نعمت۔ حیات۔ شان۔ فراخی
عیش۔ سنت نبی۔ طریقہ۔ امامت
امام کی پیروی۔

مادہ
امم
امم
امت
امم
امم
امم
امم
ع م

امر امض امط امغ امق امل امم امن

امن

پڑالنا اور اوسکو گھسنا۔
اِمَّازَۃ (کفسف) جدا کرنا۔
اِمَّاطہ (کفسف) دور کرنا۔ عدم ہونا۔
اِمَّاعہ (کفسف) روان کر دینا۔
اِمَّاق (کسمس) ہاتھہ مین داخل ہونا۔ آدمی کا آنکھہ بندہ نپنے ہچکی کا مارا ہوا ہونا یعنی اوسکو ہچکیان آتی ہی۔
اِمَّالہ (کفسف) مال دینا۔
اِمَّالہ (کفسف) پھیر دینا۔ خم دینا۔
میٹھی گھاس اونٹ کو چرانی۔
اِمَّالیت (فسکس) تیز رو اونٹ۔
اَمَام (فضس) پیش۔ اسم ظرف ہی مذکر اور کبھی مونث بھی آتا ہی۔
اِمَام (کفس) پیش نماز۔ پیشوا اور رئیس ہو یا غیر رئیس سا امام (کفس) جمع اور ائمۃ (کفکتف) بھی جمع ہی ہمزہ کو یا سے بدل لیا اور ائمۃ (کفکتف) بالہمزہ بھی لیکن اوسمین ہمزہ کو نہین بدلا اور یہہ شاذ ہی اور اُوَیمّۃ (ضفسکتف) تصغیر ہمزہ کو واو سے بدل لیا اور بعض اُیَیْمَّۃ (ضفسکتف) بھی کہتے ہین ثبت ہی اور معمار کا دوڑا۔ ساہ۔ زمین کا کتا۔ ایک چیز کا سنوارنے والا اور اوسکا قائم رکھنے والا۔ قرآن شریف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ۔ امیر لشکر۔ وہ لڑکے جسکو روز سیکھین سبق وغیرہ معصوم کا گروہ۔ دلیل۔ راہنما۔ جانب قبلہ۔ لونڈون کا مدعی ہے کہنے والا۔ کمان کا چلہ۔ لکڑی کا مسطر جو عمارت مین کام آتا ہے۔
اِمَامَۃ (کفسف) پیش ہونی یعنی پیش نمازی۔ امام اور پیش رو ہونا۔ جماعۃ کا۔
اَمَان (فضس) پناہ۔ نہ ہے خوفی۔
اَمَان (فضس) اَمَانۃ (فضسف) امنۃ (فضف) اَمِن (فکس) بےخوف و بیم ہونا۔ پناہ دینی کسی کے ساتھہ راستی کرنی۔ کسی کو راست جاننا اور امین خیال کرنا۔
اَمّان (فتفس) ملن یا پیا من لوہار۔
اَمّان (فتفس) امانت دار۔ معتمد علیہ۔ کسان۔ بعضی امی (فکت) جو لکھنا نجانے۔
اَمَانت (فضسف) راستی ضد خیانت زینہاری۔ بیخوفی۔ مرد کے گھر کے لوگ اور اوسکا مال۔ وے لوگ جو اونکو چھوڑکر سفر کو جاوے اور کہتے ہین المجالس بالامانۃ یہہ اشارہ ہی

اَمتداح (کسکفس) تعریف کرنی - زمین کا فراخ ہو جانا -
اَمتداخ (کسکفس) نافرمانی کرنی -
اَمتداد (کسکفس) لمبا اور کھنچا ہوا ہونا -
اَمتدار (کسکفس) کیسیلا لینا -
اَمتداش (کسکفس) لینا یا اوچک لے جانا -
اَمتذاق (کسکفس) دودھ میں پانی ملا ہوا ہونا -
اَمتزاج (کسکفس) ایک چیز کا ایک چیز کے ساتھ شکل میں ہونا - بکھرنا - عدد کا دوہنا -
اَمتزار (کسکفس) ایک چیز پر جاری رہنا - اور ہمیشگی کرنی -
اَمتزاز (کسکفس) اپنا مال اپنے شریک سے جدا کرنا - کسی کے مال میں سے ایک حصہ ایک ٹکڑا لینا - پچھاڑنا - کسی کی عزت کا عیب کرنا -
اَمتراس (کسکفس) گھسا ہوا ہونا - خصومت کے وقت زبان کا عاجز رہنا -
اَمتراش (کسکفس) اکھاڑنا - ایک چیز کو کسی سے کھینچنا - اوچک لیجانا - کسب اور کمائی کرنی -

اَمتراط (کسکفس) اوچک لیجانا یا جمع کرنا اکٹھا کرنا -
اَمتراق (کسکفس) تیر کا نشانہ سے جلد گذر جانا -
اَمتزاج (کسکفس) آمیختہ ہونا -
اَمتساء (کسکفس) جو کچھ کسی کے پاس ہو سب لے لینا - سیلا ہونا -
اَمتساح (کسکفس) تلوار سونتنی -
اَمتساخ (کسکفس) تلوار کھینچنی -
اَمتساغ (کسکفس) یکسو ہو جانا -
اَمتساک (کسکفس) چنگل مارنا -
اَمتسال (کسکفس) تلوار سونتنی -
اَمتش (کفس) جو کہ دشواری سے دیکھے جسکو سوجھائی نہ دے -
اَمتشاء (کسکفس) بہت چلنے والی مواشی والا ہونا -
اَمتشاش (کسکفس) پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کرنا - پستان کا سارا دودھ پینا - عورت کا اپنی گردن سے زیور کو اتارنا - ایک چیز سے بہرہ پانا -
اَمتشاط (کسکفس) کنگھی کرنی - عورت کا اپنے بالوں کو نیچے لٹکانا -
اَمتشاع (کسکفس) پستان کا

امتہار رکسفسم ۱ بڑی جہونگی سے تیز چلنا۔ روزی کا زیادہ ہونا اور حد تک اوسکا پہنچنا۔

امتداج رکسفس ۱ الذ لذیذ ہونے کے لیئے دم کرنے میں گڑ یا کسی کا۔

امتیاز رکسفس ۱ نکرہ کا اختیار کرنی

امتار رکسفس ۱ ... مستعد ہونا

امتاع رکسفس ۱ نفع دینا۔ نفع پانا۔ باقی رکھنا اور کمال کو پہنچانا۔ کسی سے بے نیاز ہو جانا۔

امتنان رکسفس ۱ کسی کی پشت پر مارنا

امتتاح رکسکفس ۱ کھینچ لینا۔ فائدہ اوٹھانا۔ سیر ہونا۔ اونٹ کا آسودہ ہونا۔ ہاتھ سے ہوا کرنا۔

امتتاخ رکسکفس ۱ جگہ سے اکھاڑنا

امتنار رکسکفس ۱ ... مستعد ہونا

امتثال رکسکفس ۱ داستان کہنی۔ تصور کرنا اور ایک چیز کی اپنی صورت باندھنی۔ کسی کے طریقہ کی پیروی کرنی اور اوس سے تجاوز نکرنا۔ فرمانبرداری کرنی۔ کسی سے قصاص لینا۔ مثل لانی۔ قصہ کہنا۔

امتحار رکسکفسم ۱ مٹ جانا۔

۳۸۶

استحاش رکسکفس ۱ جلا ہوا ہونا۔

استحاص رکسکفس ۱ ... معدوم ہونا۔

استحاط رکسکفس ۱ اونٹ کا دوڑنا۔ تلوار سونتنی۔ تیر کا سیدھا کرنا

استحاق رکسکفس ۱ ناپید ہونا۔ جل جانا ایک چیز کا گرمی سے جلا ہوا ہونا

استحاک رکسکفس ۱ غصیلا ہونا۔ اصرار کرنا

امتحان رکسکفس ۱ آزمانا۔ ایک قول میں غور سے دیکھنا۔ روشن اور کشادہ کرنا۔

استحاخ رکسکفس ۱ ہڈی میں سے گودا باہر نکالنا۔

استحار رکسکفس ۱ ہر ایک چیز میں سے اوسکے بہتے کو برگزیدہ کر لینا۔ گودے کا ہڈی میں سے نکالنا۔ جگہ سے اور اونٹ کا ہوا کے مقابل کھڑا ہونا تاکہ آرام پاوے۔

استحاص رکسکفس ۱ معدہ کا گوشت میں حرکت کرنا۔ بچے کا ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا۔

استحاط رکسکفس ۱ ناک سنکنی۔ ہاتھ سے اوچک لیجانا۔ ایک چیز کو باہر کھینچنا۔ تلوار سونتنی۔

رنگت کل یا بال کا سفید ہونا —
اَشتِکاک (بکسر نفس) گھوڑے کے سینے کا پستانوں کا سا ابھار [illegible]
اَشتِلاج (بکسر نفس) بے جوڑ ہونا
اِشتِلاح (بکسر نفس) ادور بلانا
اِشتِلاح (بکسر نفس) گھوڑے کو [illegible] کے ساتھ ملانا —
اِشتِلاخ (بکسر نفس) کھینچ لینا [illegible]
[illegible] کے [illegible] کھینچنا
اِشتِلاف (بکسر نفس) عصیر نچوڑنا
اِشتِلاذ (بکسر نفس) کھینچ لینا
اِشتِلاس (بکسر نفس) ربائی اور تھوڑا چھیا [illegible] —
اِشتِلاط (بکسر نفس) اُچک لیجانا —
اِشتِلاع (بکسر نفس) اکھیڑنا قلع
[illegible] کے پوست کو گردن کی طرف سے کھینچنا — اور اُچک لیجانا —
اِشتِلاق (بکسر نفس) [illegible] لانا —
اِشتِلال (بکسر نفس) مذہب و طریقت میں داخل ہونا شتاب چلنا — روٹی کو پانی میں بسانا —
اِشتِناہ (بکسر نفس) بہنا میں آنا [illegible] میں اترنا — اور [illegible] داخل ہونا

اِشتِماخ (بکسر نفس) بخشش لینی [illegible]
[illegible]
اِشتِماع (بکسر نفس) [illegible] قوی ہوجانا
اِشتِمال (بکسر نفس) [illegible]
اِشتِمال (بکسر نفس) [illegible] لایا جانا
کھینچ لیا جانا [illegible]
اِشتِمار (بکسر نفس) [illegible]
اور پھیلا ہوا ہونا [illegible]
اِشتِمال (بکسر نفس) [illegible] ہونا
عورت کا چہرہ کو استر سے [illegible]
اِشتِمان (بکسر نفس) [illegible]
کام میں آنا [illegible] میں کھا جانا
ایک چیز کا [illegible] ضعیف ہوجانا
اِشتِیاق (بکسر نفس) [illegible]
پانی میں گھسنا [illegible]
میں پہنچنا — [illegible]
اِشتِیاخ (بکسر نفس) دینا اور [illegible]
[illegible] ٹپکانا —
اِشتِیار (بکسر نفس) دشمنی کرنی —
[illegible] تلوار سونتی [illegible]
اِشتِیاز (بکسر نفس) جدا ہونا —
اِشتِیاق (بکسر نفس) [illegible]
[illegible] غصہ کا [illegible] ہوجانا —

ماده
[illegible]

سارا دودہ دوہنا - لوچک لیجانا -
جلدی سے تلوار میان سے سونتی
ایک چیز کو پکڑنا - قطع کرنا -
امتشاق (بکسکفس) تلوار سونتی
امتشان (بکسکفس) قطع کرنا
اوچک لیجانا - تلوار سونتی - پستان کا
سارا دودہ دوہنا - لینا - حاصل
کرنا - کمانا کسب کرنا -
امتصاخ (بکسکفس) زہر کے سبب
امعشلاخ کو کھینچنا - ہر ایک چیز کا
کھینچنا اور اوسکا لینا -
امتصار (بکسکفس) تین انگلیوں
کے سرے سے یا پہلے انگلی اور
اوسکے سے دوہنا - صورت کا
بدل جانا مسخ ہوجانا -
امتصاص (بکسکفس) چوسنا -
امتضلاع (بکسکفس) گھوڑے کا
چلنا اور گذرنا - ملک میں پھرنا -
امتطاء (بکسکفس) چوپایہ پر سوار ہونا
امتطلاح (بکسکفس) وادی
کے پانی کا بلند اور بہت ہونا -
امتطال (بکسکفس) قرض کو
دیر تک رکھنا اور تاخیر میں ڈالنا -

گھاس کا آپس میں لپٹنا -
امتعاد (بکسکفس) اوچک لیجانا -
جلدی سے کھینچنا -
امتعاس (بکسکفس) زمین پر سر ملن
کو گھسنا جس طرح کہ پوست گھسیٹتے ہیں
امتعاط (بکسکفس) تلوار کا سونتنا
بالوں کا کثرت کے سبب گر پڑنا -
رنگ اور چہرہ آنا - پشم کا پے در پے گرنا
امتعال (بکسکفس) سرعت
سے اوچک لیجانا -
امتعار (بکسکفس) کھینچا ہوا ہونا
تلوار سونتی سونتا بلند ہونا چہرہ آنا -
امتقار (بکسکفس) کوئیں کو پھر
کھودنا جبکہ اوسکا پانی خشک ہوجاوے
امتقاط (بکسکفس) باہر لانا -
امتقاع (بکسکفس) پستان کا
سارا دودہ چوس لینا - چہرہ کا رنگ
خوف یا غم کے سبب بدل جانا -
مجہولاً مستعمل ہوتا ہے -
امتشاق (بکسکفس) گھوڑے
کے بچے کا سارا دودہ پینا -
امتقال (بکسکفس) بار بار غوطہ لگانا
امتکار (بکسکفس) گل سرخ سے

امحال (سفس) غصیلا ہونا۔ غصہ ہونا
امحان (سفس) ارض (زخم کا درد کرنا
امحش (سفس) پوست کو سفوا ... ہ
ماہر و ہوشیار و عقلمند۔
امحاش (سفس) عذر سننا اور
عاد ق کی طرف سے یا کاذب کی طرف سے
امحا (سفس) شکایت کرنی
گلہ کرنا۔ عذر چاہنا۔
امحاخ (سفس) ہڈی کا گودے سے
بھرنا۔ ہڈی کا موٹا ہو جانا۔ لکڑی کا
دھونا۔ لکڑی میں پانی کا ... جانا
کھیت کے دانہ کا پر مغز ہونا۔
امحاض (سفس) ہو دو ... جننے
کے قریب پہنچ جانا۔ ... لگی ہوئی
اونٹنیوں کا جننے کے قریب پہنچی
ہوئی اونٹنیوں کا مالک ہونا۔ ... 
کا ری میں حرکت کرنا۔
امحاط (سفس) تیر کو کمان میں کھینچنا
تیر کو گذار دینا۔
آمد (فف) نہایت و منتہی۔
امد (فف) (س) غصہ کرنا اور اسی سے
ہے یہ قول کم امدک یعنی کتنی ہے عمر تیری
آمد (مک) خیر یا شر سے بھرا ہوا۔

کشتی کا بوجھ سے لدی ہوئی۔
امداد (سفس) بڑی عمر کا ہونا۔ بہت
مدد دینا کسی کے لیے ... کرنا۔
امداح (سفس) اچھی استطاع (سفس)
امداد (سفس) مہلت اور مدد دینا
دینا۔ مدت مقررہ تک توقف کرنا۔
اپنے غیر سے لشکر کو مدد دینی۔ مدد دینی
کسی کی فریاد کو پہنچنا عمل میں ہونا جیسے
مین ... میں ... استعمال ... اور شر
میں مدد بخشنا۔ دوات میں سیاہی
ڈالنی۔ کاتب کو قلم میں سیاہی ... 
زخم میں پیپ جمع ہونی۔ ... کی
میں پانی ... ہونا۔
اونٹ کو ... کھلانی۔
امدائش (سفس) ... دینا۔ پانی جو زمین
پر ہے بغیر گہرا کے۔ نہایت ... پانی
پانی جو زمین سے ...
امدہ (سفس) کسی چیز کا بقیہ۔
امدۃ (سفق) ... آگے ...
امدیش (سفس) ہلکا مرد ... ، 
خوبی رفتار سمیت۔ ... اور ... عقل ...
امدوحہ (سفس) تعریف جس
سے کہ تعریف کریں۔

ہے
... 
... 
... 
... 
... 

اَمتیاہ (کسکفس) آدمیوں اور چھیری کو پانی پلانا۔

امتثال (کسکفس) مثلہ کرنا مقتول کے کان ناک کاٹنی۔

امثل (رفسعت) افضل بہتر

اماثل (فنساک) جمع۔

امثال (فنعس) اور امثلہ (کسکف) جمع ہے مثل کی۔

امثن (رفسعت) مرد جسکا پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکے۔

امثولہ (رسفسف) ہجت بیت جو ایک بیت کے پیچھے پڑھی جاوے۔

اَمجر (رفف) گرمی پیاس سخت گرم

امجر رفف (رس) پیاسا ہونا۔

امج (رفس، رفس) سیر شدید کرنا تیز چلنا

امجاج (کسفس) دوڑ میں پہلے گھوڑے کا رفتار میں آنا۔ ملک میں سیر کرنا۔ پانی کا لکڑی میں رواں ہونا۔ امج الخود بوستے میں

امجاد (کسفس) بزرگ کہنا بزرگی کے ساتھ صفت کرنی اور سیر اونٹ بہت بخشنا۔ ستورون کا بہت گھاس والی چراگاہ میں واقع ہونا

سیری اور فراخی پر پہنچ جانا۔ اونٹوں کو پیٹ بھر کر کھلانا یا چرانا یا آدھے پیٹ کا چارہ دینا یا گھاس کھا کر سیری کے قریب پہنچنا بزرگ فرزند جننے

اَمجار (کسفس) بیع میں زیادہ لینا پیٹ میں بچے کا بڑا ہونا۔ شتر میں ... گرانا۔ چوپایہ کا بچے کے سبب بوجھل ہونا ایسا کہ اوٹھ نہ سکے

امجاع (کسفس) اونٹ کے بچے کو برتن سے دودھ پلانا۔

اَمجال (کسفس) کام کے سبب ہاتھ میں آبلہ ڈال لانا

اَمحر (رفت) موٹا جسیم تنومند۔

اَمحاء (کسکفس) مٹ جانا۔

اَمحاج (کسفس) کپڑے کا پرانا ہونا

اَمحاش (کسفس) گرمی ہوا آگ کا ایک چیز کو جلا دینا۔

اَمحاص (کسفس) بیماری سے اچھا ہونا۔ آفتاب کا گہن سے نکل آنا اور اسکا روشن ہونا۔

اَمحاق (کسفس) ایک چیز کی برکت کو لیجانا گھٹانا وہ محاق کی مانند نیست و نابود ہونا۔

عہد اور پیمان کو پورا کرنا۔
اِمراح رکسفس اترانے والا اور خوش اور شادمان کر دینا۔
اِمراخ رکسفس آٹے کو پتلا کرنا۔
اَمرار رکسفس گذار دینا کسی کو ایک کام پر برانگیختہ کرنا کہ اوسپر چلے۔ اونٹ کی دُم کو پکڑ کر پھرانا یہانتک کہ تابعدار ہو جاوے کڑوا کرنا۔ کڑوا ہو جانا۔ گیہون کا تلخہ برا ہونا۔ رسی کو مضبوط بٹنا۔ کڑوی بات کہنی ملعون نا کسی کے ساتھ لپٹنا تاکہ اوسکو گرا دے۔ اور بعض لکھتے ہین یا گزرنا اگلی یعنی اوس سے نہ کسی کو ضرر ہو نہ نفع۔
اِمراس رکسفس ڈول کی رسی کو گھرنی سے گھرنی کی لکڑی پر گر گئی ہو پھر گھرنی پر ڈالنا۔ رسی کو اوسکے محور سے گھرنی کی لکڑی پر ڈالنا لغات اضداد سے ہے۔
اِمراض رکسفس بیمار کر دینا۔ سرا ہیں صواب کے نزدیک ہونا۔ بیمار ہونا۔ مالک آفت رسیدہ کا مالک ہونا۔
اِمراط رکسفس خربانی کا غورہ گرا دینا۔ اونٹنی کا سرعت کرنا۔ بالون کے اوکھاڑنے کا وقت ہونا۔
اِمراط رکسفس بالون کا ایک دوسرے کے پیچھے چھوڑنا۔
اِمراع رکسفس جگہ کا گیاہ ناک ہونا اسی سے ہی یہہ مثل اَمرع وادیہ واحبی خلبیۃ اور یہہ اوس شخص کے حق مین کہتے ہین جسکا کام فراخ ہو اور وہ مستغنی ہو۔ سر پر بہت تیل ملنا پانی اور سبزہ کی فراخی پر پہنچنا۔ جارہ کی فراخی پر پہنچے ہوئے لوگونکا مالک ہونا۔ یا خانہ پھرنا۔ یا خوف اور ہیبت کے مارے پیخانا کر دینا۔ مثل ہے اَمرغت کا نزول یعنی مقصد کو پہنچا تو بس اوتر آؤ۔
اِمراغ رکسفس منہ میں سے رال بہنی۔ نادرست بات کہنی۔ آٹے کو ہلا ہلا کر نرم کر دینا اور اوسکو بہت پانی دیکر پتلا کرنا۔
اِمراق رکسفس شوربے کا بہت کرنا۔ پوست کے بال اوکھاڑنے کا وقت آنا۔ اندام نہانی ظاہر کر دینا۔
اِمران رکسفس فقیری اور بڑا یا صبر و وقار۔

۳۹۳

آمد و [illegible] شخص کا [illegible] وغیرہ
آمد کی الحرب عرب [illegible]
عزت اور [illegible] لیے
[illegible] ترک
آمد امرکسفسم قدر سائی [illegible]
شراب [illegible] ملانے کے اندر [illegible]
[illegible] کا [illegible] سے آنا [illegible]
کو جہاں کا [illegible] دینا
آمد ارکسفس [illegible] کرنا
آمد الکسفس [illegible] کا سوجانا
آمرح السفت [illegible] بلند
[illegible] میں [illegible] [illegible] بدبودار
گندہ [illegible] بو سے [illegible]
وہ کیا گندہ بو ہے
آمد رفیف بیت الخلا میں جانے والا
آمد قرار کسفس [illegible] ہوئے
دودھ کا پھٹ جانا۔ [illegible] اور خون
کا پانی میں ملا یا ہوا ہونا
آمد لال رکسفس [illegible]
[illegible] ہونا [illegible] وغیرہ کی [illegible]
آمد رفعت بہت کرنا [illegible]
سخت یا امر [illegible]۔ گو بر کی [illegible]
مضبوط کام کرنے والا [illegible]

آمر [illegible] حکم [illegible] اور [illegible]
[illegible] کا [illegible]
آمر [illegible] حکم کرنا [illegible]
کر دینا [illegible]
آمر [illegible] کی [illegible] ہونا
آمر [illegible] آمر [illegible] سخت
[illegible] کے [illegible]
کرے۔ [illegible]
آمر [illegible] [illegible]
آمر [illegible] کامل اور تمام [illegible]
[illegible] کا مجبور کے [illegible]
آمر رفت [illegible]
آمر رفت [illegible] بہت ہونا [illegible]
ہو جانا۔ کام کا سخت ہونا اور [illegible]
بہت سال [illegible] والا ہو جانا
آمر رکس شی عجیب [illegible]
آمر امرکسفسم طعام کا ہضم ہو جانا
[illegible] کا [illegible] والا ہونا
آمراج رکسفس [illegible]
بولتے ہیں [illegible] دریا کو [illegible]
طرح [illegible] کہ وہ دونوں ایک دوسرے
سے [illegible] [illegible] اور [illegible]
گئے کو [illegible] کا گرانا۔ [illegible]

کچھور سے معنے گھسنے یا جسکے دونون
رانین آپسمین گھسیٹین جسکے پانون
پر ایسا بہوا ہو دین۔ مکان برابر
جسمین کنکریان بہت ہون۔
امتسیخ رسنعت کی بدمزہ۔
امسعیخ رضسفس کشتی کی ہرنپی یا لکڑی
امسوخ رمسفس ایک گھاس
ہے ٹی کی مانند۔
امسیہ رسکتف ہشام
امشق رفتت اونٹ جسکی آنکھ
سپیدی نکال لائی ہو۔
امشاہر رسفسم پیٹ چلا دینا دوا
کا استعمال کرنا کہ پیٹ چلا دیوے۔
اہلکنا قوم کا بہت مواشی والا ہونا بہت
جننے والی مواشی والا ہونا قوم کا۔
امشاج رفسفس ہر چیز کہ ناف
مین جمع ہوا ہووے۔
امشاج رسفس سال کا خشک اور
سخت ہونا سر کا کھلیانا اور پراگندہ ہونا
امشار رسفس درخت کا برگ اور
شاخ نکال لانا یعنی ہرا ہو جانا سبز
جانا۔ زمین کا گھاس اوگانا۔
امشاس رسفس ہڈی کا
گودے دار ہونا۔ سلم کا نرم شاخ
اور نازک باہر نکالنا۔
امشاق رسفس کوڑے لے مارنا
امصص رمک آمیص رکس
معرب تامیز یہ ایک طرح کا کھانا ہے جو
بچھڑے کے گوشت سے چمڑے
سمیت بناتے ہین یا شوربا رسکباج
ہے کہ اوسے سرکہ کے اوسکا
روغن دور کرتے ہین۔
امصاح رسفس جھاڑ کا برگ
اور شاخ باہر نکال لانا۔
امصاخ رکتفس انچے کا مان
سے جدا ہونا۔ دور ہونا۔
امضاض رسفس چوسوانا۔
امضاع رسفس کسی کے حق کا
اقرار کرنا۔ مان کا بچے کو ڈالدینا۔
پرندہ کا بیٹ کرنا۔ درخت کو سبج کا پھل
نکال لانا۔ معدہ کے بہی ہو گئی اور منقطع
ہو گئی ہو کہ اونٹنیون والا ہونا۔
امضال رسفس مال کو خراب
کرنا اور نا مناسب اور غیر ضروری مین
اوسے خرچ کرنا۔ عورت کا بچہ گرا دینا۔
کر ابھی مضغہ ہووے جو لہو سے کا

مادہ



۱۲

امرۃ (فسف) ایکبار حکم ماننا
امرۃ (کسف) ولایت سغرمان روای
مال کی زیادتی اور کثرت
امرۃ (فعف) پستہ سنستان کہ پتھر
وغیرہ سے راہ پر کر دیتے ہین
امر (فف) امر کی جمع
آمرۃ (فعف) حکم اور امر فرمانے والا اس کی جمع
امرح (فسف) بیل جس پر سرخ
اور سپید نقطے ہون
امرد (کسکسف) الٹا پڑا ہونا
امرد (فسف) جسکے ڈاڑھی نہ نکلی ہو
گھوڑا ہی وغیرہ سادہ ہو بغیر برگ
کی شاخ گھوڑا جسکے سم کے
گرد اگرد بال نہون صاف ہو
امرش (فسف) نہایت بد
امرط (فسف) ہلکے بدن والا ہلکی
بھون والا ہلکی ہنسی والا پانی جاری
ہونے کے سبب ہلکی آنکھ والا مرطا
رفس امرطہ (فعف) جمع اور جھڑے
ہوئے بالون والا بھیڑیا چور بے
پر کا تیر یا پر گرا ہوا تیر
امرع (فسف) ہر وجہ اکل میں آلودہ
ہو یعنی اکثر بیٹھا اور کھاتا ہو

امرق الذراع ہاتھ کے بازو
اور کندھے کا پٹھا
امرہ (فسف) مردوسے صیغہ نعت ہی
شراب ناب اور خالص
امز (فف) سخت
امزاج (کسفس) انگور کے لئے بنانی
امزلال (کسکسفس) ابر کا کھل جانا
برف کا گل جانا از مہلال کا مقلوب
امس (فسک) کل کا روز جو گذر گیا
مہینوں کے نام ہفتہ کے دن کی طرح
یہہ لغت حالت معرفہ میں بعض کے نزدیک
اور جب اسپر الف اور لام آتا ہی
یا مضاف ہوتا ہی یا نکرہ ہوتا ہی تو ان
صورتون میں بالاتفاق معرب ہی امس
رمض آموس مضمض آماس مفرس جمع
امساد (کسفسم) قوم کے نزدیک تیا ہی
اور فساد اور سمجھانا شام کرنی
امساخ (کسفس) سورج کا پھیکا جانا
امساس (کسفس) چھوانا گھسانا
امشاغ (کسفس) ایک طرف ہو جانا
امساک (کسفس) چنگل مارنا بند
کرنا رک رہنا خاموش ہونا بخل
امسح (فسف) جسکے تلوے سخت

اشماض (کسفعس) خشمناک کرنا کام کسی پر دشوار کرنا جلدا۔

اشعاط (کسفعس) بالون کا سپید ہونے ہرنے لگ جانا۔ پیشانی کے بال کا گرنا۔ کسی کا گہسا ہوا اور زخم ہونا۔ بیماری سے بال کا گرنا۔

اشعاق (کسفعس) کوئین کو بہت گہرا کرنا۔ گہرا کرنا۔

اشعال (کسفعس) سرعت کرنا۔

اشعان (کسفعس) بد اندیشی کرنی کسی کے حق کو چہپانا اور اوسکا منکر ہونا۔ کسی کے حق کا اقرار کرنا۔ تمام اضداد سے ہی۔ گہوڑے کا اندر پہونچنے مین متعدد ہونا۔ گوہ کا اپنے سوراخ مین چہپنا۔ کسی شی کے نقل کا کم ہونا۔ تمامات اضداد سے ہی۔ پانی کا روان ہونا۔ زمین کا سیراب ہونا۔

اَمعر (رفسف) کم بالون والا اور جسکا بال گرا ہوا مرد۔ بال اور پشم گرا ہوا اونٹ بکری وغیرہ پورے بالون کی۔ کم روئیدگی کی جگہ۔

اَمعز (رفسف) سخت جگہ بہت پتہری۔

اَمعط (رفسف) بال گرا ہوا بھیڑیا۔ بغیر بالون والا بھیڑیا۔ پلید اور خبیث

بہیڑ۔ بھیڑ گہاس کا ریت۔

امعوز (کسفعس) بکری۔ ہرن کا گلہ یا ہرن کا گلہ تیس سے چالیس تک یا بڑی بکری کا گلہ۔ اماعز (رفسفک) امامعز رفسک جمع۔

امغاد (کسفعس) عورت وغیرہ کا باہر نکالنا۔ گذار دینا۔ دودہ کا سرخ ہوجانا۔ بکری کی پستان مین سے بیماری کے سبب دودہ خون ملا باہر نکلنا۔

امغاط (کسفعس) کہنچا ہوا ہونا۔ کلمے کا لمبا ہونا۔

امغال (کسفعس) پیٹ کے درد والے بچہ یا بیون کا مالک ہونا۔ عورت کا بچہ دودہ پلاتے اسنے بچے کے حاملہ ہونا۔ عورت کا ہر سال بچہ جننا۔ عورت کا حمل کے ساتہہ بچے کو دودہ دینا۔ بکری کا دو بار ایک برس مین جننا۔ یا بکری کا سال مین دو بچے جننا۔ یا اوسکا ایک درد ہی کہ اوس سے حاملہ ہو جاتی ہی اور گرا دیتی ہی۔ غمازی کرنی۔

اَمغر (رفسف) گہوڑا اور اونٹ گل سرخ کے ہمرنگ۔ سرخ بالون والا مرد۔ سرخ پوست والا مرد۔ وہ شخص کہ جسکے چہرہ پر تہوڑی سی سرخی سپیدی ملی ہوئی ہو۔

12

اَمق (رفسف) خوب لمبا گہوڑا۔

اَمق العین آنکہہ کے آگے کا کونا۔

مصح
مصخ
مص
مصمص
معض
مضی
مضح
مضل
مضض



ایک ایک دوہنا پستان کا سارا دودھ پینا ۔
اَمصح رفسف) چھوٹا پتلا سایہ ۔
اُمصوخہ رضسفسف) اذخر و نرسل کے
پتے اور شاخ ۔ اَمصوخ رضفسن) جمع ۔
اما صیخ رفسکس) جمع الجمع ۔
اَمعض رفس) اس عتاب سے
نڈھر ہونا بعد اپنے ارادہ پر رہنا بیان کا
زبان پر لانا اوس چیز کو جو دل میں ہو ۔
اَمضاء رکسفسم) جاری کرنا ۔
گذر وا دینا ۔ جائز رکھنا ۔
اَمضلاج رکسفس) کسی کی آبرو کو
عیبناک کرنا آبرو کھو دینی ۔
اَمضاض رکسفس) ایک چیز کے
اندوہ کا دل کو جلانا ۔ اندوہ مند کرنا ۔
سرمہ کا آنکھ کو جلانا ۔ تخور کرنا جراحت
کا جلنا چھیلنا پوست کو جلانا ۔
اَمضاغ رکسفس) خرما کا خوش
مزہ ہو جانا اتنا کہ چبایا جاوے ۔ گوشت
کا خوش مزہ ہونا اور کھایا جانا ۔
اِمضحلال رکسفس) نیست ہونا ۔
نابود ہونا ۔ جاتا رہنا ۔
اَمطار رکسفسم) چھپا پر کو سوا کی بتانا
اَمطار رکسفس) برسنا کسی کی

پیشانی کا عرق سے آنا ۔ سینے کے ڈالنا ۔
کچھ نہ بولنا اور خاموش رہنا ۔ گلیہ کا
مینہ پڑا ہوا ہونا اور بر برسنا ۔
اَمطی رفسکتف) اسد ہے اور لمبے
قد کا ۔ ایک گوند جسے کھاتے ہیں ۔
اَمطاط رکسفس) اکڑ لیسے پوست
اوتارنا تا کہ خشک ہو جاوے ۔
اَمع رفت) اِمعہ رکسفتف و کسکف)
سست رائے ہر کسی کا فرمان بردار ۔
طفیلی ۔ وہ جو دین میں اور دنکی پیروی
کرے ۔ وہ جو ہر کسی کو کہے اور
سے کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں ۔ اور
لفظ امعہ معنی میں مردوں کی صفت ہو سکتا ہے
عورت کی نہیں سامراۃ امعۃ بولتے ہیں
اَمعاء رکسفسم) درخت خرما کا
رطب کو پکانا ۔
اَمعار رکسفس) درویش محتاج ہونا
توشہ کا منقطع ہونا ۔ بالوں اور پروں
وغیرہ کا کم ہو جانا ۔ زمین کا بغیر گھاس
یا کم گھاس ہونا ۔ کسی سے لو سکے
مال کو چھین لینا ۔ چرا ہے کو چراگاہ
کی ساری گھاس چرانا ۔
اَمعاز رکسفس) بہت بکریوں والا ہونا ۔

معی
معر
معز
مطر

سخت اور اچھا خمیر کرنا۔ ماں سے کے پر و بال پر نہ پہنچنے کا قادر ہونا۔ جو سد دیکھ جو سد جا ہنی ہے اس معنے میں بھر لا مستعمل ہے طلاق دیا جانا۔ عقد نکاح۔

اَلمُاکِل (کسفس) آرزو کر دینا۔ عاجز کر دینا۔ سفر کا دراز ہونا۔ کسی کے پیچھے چلنے سے تھکا جانا۔

اَلْاِلْمَاہ (کسفس) حیلہ کرنا۔ عذر لانا۔ عہد اور پیمان کرنا اور اس میں مبالغہ کرنا۔

اَلْمَہ (فسفت) مرد کے ذکر کا سر۔

اَلْمَتہ (کسف) یعنی اکل اسم مصدر ہے مجرد کا یا تانیث کا۔

اَلْمَح (فسف) گندم گون۔ جو پانی اور چارہ کا بیابان۔ آملہ۔

اَلْمَح (فسف) سپید سیاہی ملا ہوا۔

اَلْمِحاح (کسکفس) سپید سیاہی ملا ہوا ہو جانا اور سبز رنگ ہونا۔

اَلْمَد (فسف) کرمی اور شاخ نرم نازک۔

اَلْمُد (ضسفض) یعنی املد (فسف)

اَلْمَش (فسف) چکدار اور نرم۔ درست چشم والا۔

اَلْمُطار (فسف) ہے بالوں والے کا مرد۔ ہلکی ڈاڑھی والا مرد یا پیسے پر کا تیر۔

اَلْمُوج (ضسفس) ایک جنگلی درخت کا پتا ہے سرو کے پتے سے مشابہ۔

اَلْمَج (فسکس) جمع۔ گوگل کی گٹھلی۔

اَلْمُود (ضسفس) یعنی املد (فسف) مذکر و مونث برابر اور املودۃ (ضسفس) مونث بھی آتا ہے۔

اَلْمُودانیۃ (ضسفسکتف) نازک عورت۔

اَلْمُوک (ضسفس) ملک کا اسم جمع یعنی بہت سے پادشاہ۔

اَلْمَیْد (کسکس) ہموار بیابان چکدار۔

اَلْمِید (کسکس) اَلْمُدان (ضسفس)

اَلْمُدانی (ضسفسکت) یعنی اَلْمُد۔

اَلْمِیس (کسکس) خشک جنگل بے گھاس کا۔ اَمالس (فسکس)

اَمالیس (فسکس) جمع۔

اَلْمِیاس (کسکفس) فوت ہونا۔ نرم اور چمک دار ہونا۔

اَلْمِیسۃ (کسکسف) خشک جنگل بے گھاس کا۔

اَلْمِیسی (کسکست) جنگلی آثار گویا اِلمیس کی طرف منسوب ہے۔

اَلْمِیعی (کسکس) رفتار سریع۔

اَلْمِیلاج (کسکسفس) لڑکے کا دودھ کے دانت نکال لانا۔

۳۹۹

اَمتِقار (کسفس) نمک زدہ مچھلی کو سرکہ سے پاک کرنا۔ کڑوا ہونا۔ دودہ کا بدمزہ ہونا۔

اَمتِقرار (کسکفس) رگ کا ابھر آنا۔

اَمتِقع (فسفت) عرب کا یہ قول ہے ہو شرط یا امتقع یعنی وہ امور میں ہمیشگی کرتا ہی اتنی کہ اپنی نہایت مراد کو پہنچ جاتا ہی۔

اَمتِقہ (فسفت) امتقہ سے لغت مذکر۔ بغیر گھاس اور بغیر درخت کی جگہ۔ مرد جسکی کہ چشم امد پیوٹا پلکون کی کمی کے سبب سے سرخ ہو۔

اَمکان (کسفس) سوسمار اور ٹڈی کا انڈا دینا اور انکا انڈے کو بازو کے نیچے لینا۔ ایک چیز پر قادر کرنا۔ ثابت ہونا۔ برقرار دینا یا برجا کرنا۔ قدرت دینی۔

اَمل (فف) امید۔ آمال (فسج) جمع۔

اِمل (فس) (ن) امید رکھنی۔

اَملا (کسفسم) پُر کرنا۔ زکام زدہ ہو کر دینا۔ کمان کو زور سے کھینچنا۔ لغت امہت تمتع دینی۔ وقت اور زمانہ دینا۔ زمانہ دراز گذار۔ چہارپایہ کو لمبی رسی پر چھوڑنا۔ کتاب کو املا کرنا۔

اَملاج (کسفس) دودہ پلانا۔

اَملاح (کسفس) کھاری پانی میں اترنا۔ شیرین ہونے کے بعد کھاری ہو جانا۔ کھاری پانی پلانا۔ ہانڈی میں بہت نمک ڈالدینا اور کھانیکو کھاری کر دینا۔

اَملاز (کسفس) لیجانا۔ توقف کرنا۔

اِملاس (کسکفس) فوت ہونا۔ نرم اور چکدار ہونا۔ ایک کام سے پھر جانا۔

اَملاس (کسفس) تاریکی کا پسین ملنا۔ بکری کا پشم گرانا۔

اَملاص (کسفس) عورت کا کچا ہوا بچہ گرا دینا۔ ایک چیز کا پھسلنا۔

اِملاص (کسکفس) روانی پانی۔ چھوٹ جانا۔ فوت ہونا۔

اَملاط (کسفس) اونٹنی کا بغیر بالون والے بچے کو گرا دینا۔

اَملاع (کسفس) اونٹنی کا تیز چلنا یا دینا۔ عنق پھوڑنا۔

اِملاق (کسکفس) بمعنی املاق کسکفس گم ہونا اور گذر جانا۔

اَملاق (کسفس) درویش اور محتاج ہو جانا۔ درویشی سکھولے اور اونٹنی کا بچہ گرا دینا۔ کپڑے کا دہونا۔

اَملاک (کسفس) ایک چیز کو کسی کی میں کر دینا۔ کسی کو بادشاہ کر دینا۔

غیر کے ساتھ ایک مہر کا نکاح کر دینا
اور شخص کو وہ مہر دے دینا
اُمہال (کسعفس) مہلت
دینا ڈھیل دینا خبر گیری نہ کرنا ... مہنگی کرنی
ما تاخیر کرنا عذر لانا
اُمّہۃ (ضسعفف) ماں یا سیر خاص
ذوی العقول کے ساتھ آتا ہے اور
اُم (ضمت) غیر ذوی العقول کے ساتھ
اُمّہات (ضسعفس) جمع
اُمہج (ضسعفس) پتلا دودھ اور چربی
اُمہجان (ضسعفس) پتلا دودھ اور چربی
اُمہق (ضسعف) نہایت سپید چیز
کی مانند کسی رنگ میں آمیزش نہ
رکھے اور جو سبزی سے خالی ہو
اُمہود (ضسعفس) شکاری کا گڑھا
روٹی پکانے کا گڑھا
اُمہیصاص (کسعفس) زمین کا
بغیر گھاس اور بغیر برگ گیاہ کے ہونا
اُمی (ضکس) ان پڑھ (متعفس)
جس کو حساب کتاب کچھ نہ آتا ہو کوئی
... اپنی اصل پیدائش پر
امیر (فکس) ... سردار
(ضسعفس) جمع ...

لیما ... مشہور کر دینا
آمر ... عورت کا خاوند
امیرۃ (ضکسف) عورت ...
امیل (ضکس) ریت کا بیابان جس کی
لنبائی کئی میل کا راستہ ہو اور چوڑائی
ایک میل کی - یا پشتہ ریت کا -
امُل (ضعف) جمع
امیل (فسعف) بچہ کہ پیدائش میں
بچہ اور حسین ہو - جو کہ زمین پر سیدھا
نہ ... سے شمشیر مرد سے
... نیزہ ... دل
امیمہ (ضکس) ... قد وہ کہ
دماغ میں ضرب آئی ہو -
امیمہ (ضعسف) تصغیر ام (ضمت)
پتھر جس پر سر توڑیں - امائم (فسعفک)
جمع - لوہار کی ہتھوڑی -
امین (فکس) امانت دار - قوی
وہ کہ جس پر اعتماد کریں اور اس سے
ڈر نہ ہو - سند رکھنے والا - امناء
(ضسعفس) جمع - ...
... سے -
آمین (فکس) نام خدا تعالی کا یا
فعل ... ہے اسکے لئے خدا قبول کر


ج

امر [illegible] امس [illegible] امن [illegible] امی [illegible] امہ [illegible]

اَمَر (ف) قریب تھوڑی چیز - امر
ظاہر کو کہتے ہیں نزدیک و دور قریب
مقابل کے کہتے ہیں -
امش (مک) پناہ چاہنے والا مدد
اَمَسن (مک) بھیڑ - نذر -
امن (فس) دین - خلق -
امن (فس) ان کا ضعیف ہونا -
اَمْنَاء (کسفسم) حتی کہ پہاڑی میں
داخل ہونا - سامان آترنا - اونٹنی کا
پانی نیچے میں پہنچانا -
اَمْتَاح (کسفس) اونٹنی کا بچہ
جننے کے قریب ہونا -
اَمْتَان (کسفس) شست اور رنج
کر دینا کسی کی بہترین چیز پہنچانا -
اَمْنَة (فف) ہونے ڈر ہونا - ساتھی
ضد خیانت - وہ جو ہر کسی سے نڈر ہو
اور سب پر اعتماد کرے - وہ جو ہر ایک پر کوئی
اعتماد کرے ہر ایک کام میں
اَمْنِیَة (مسکنف) آرزو - اپنی خواہش
اَمْوَاء (کسفسم) بلی کی مانند آواز کرنی
اَمْوَات (فس) اَمَاء (فم)
آمم (مک) امواہ ... جمع
امتہ (فف) اور سب میں اموی

اَنْفُس ... کہتے ہیں
اَمْوَاہ (کسفس) کنوئیں کھودنے
والے کا پانی پر پہنچ جانا -
اَمْوَة (مفقف) اس کی لونڈی ہو جانا
اُمُور (مفس) جمع اَمْر کی -
اُمُومَة (مفسف) ماں ہو جانا -
اُمُوم (فس) ام شی مغبوط پیدا کرنے
کی - امس (فس) جمع -
اَمُوہ (فسف) بہت زیادہ پانی والا
امتہ (فف) فراموشی -
امتہ (فف) (فس) بھول جانا اقرار کرنا
امہ (فس) اس بکری کے چیچک
نکلنی - معروف بھولا
امیہہ (کسف) صیغہ صفت یعنی
بکری سے جیچک نکلتی -
آمہ (فس) (ف) عہد و پیمان کرنا -
عقل ہونا اس معنی میں مجہول آتا ہے
امہاء (کسفسم) دودو اور رکھی میں
بہت پانی ملانا ... کو حق
پانی دینا - تلوار کو پانی دینا - گھوڑے
کو دوڑانے سے گرم ...
... پکی ... کرتی - سرشتہ کرنا
امہاء (کسفس) مہر کرنا - ایک عہد کا

| ماده | | |
|---|---|---|
| | | |

آناؤ (بفتح ہمزہ و کسر نون) ریزہ کا شی۔
آناتہ (بکسر نون) دینا۔
آنام (بفتح ہمزہ و نون) انیم (بکسر نون) آنام (بضم ہمزہ) خلق بعض جن و انس بعض سب جو کچھ زمین پر ہے۔
اناہتہ (بکسر نون) سو لا دینا ماندہ لانا شکست دینی توڑ ڈالنا کسی کو سو یا ہوا پانا۔
آنان (بفتح ہمزہ) بعض لوگ بفتح نون و بعض اننہ (بفتح نون)۔
آنان (بفتح ہمزہ) بمعنی اننہ (بفتح نون)۔
اناتہ (بفتح نون) سو بنت۔
اناشید (بفتح ہمزہ) جتنے شعر پڑھے جاتے ہیں لشکر فارسی ہر ضمیر سرزد۔
انب (بفتح نون) بادنجان۔
انباذ (بکسر ہمزہ) آگاہ کرنا کسی کو سننے سے دور کرنا۔
انبات (بکسر ہمزہ) گھاس کا اگنا گھاس اگانی جو کے اصل میں کا نکالنا۔
انباج (بکسر ہمزہ) بلی بلی مطلقا استعمال بات سے کسی چیز کے پیچھے پوشیدہ چیز کا پکڑ لانا۔
انبلج (بکسر ہمزہ) کرے پر سوار لانا۔
انباخ (بکسر ہمزہ) بخار زمین میں۔

(نون) ہونا بمعنی گھاس کی جڑ کھانی تمیز کر کے بیش کرنا۔
انباع (بکسر ہمزہ) عوام لوگ بے علم۔
انباذ (بکسر ہمزہ) نچوڑنا بکھنی بنانی اور بلنی ایک پینے کی چیز جو چھے پانی شہد پھل اور کھجور وغیرہ سے بناتے ہیں۔
انبار (بکسر ہمزہ) ڈھیر کرنا۔
انباص (بکسر ہمزہ) کمان کا چلہ کھینچ کر ادا کرنا۔
انباط (بکسر ہمزہ) کنویں کھودنے والے کا پانی پر پہنچ جانا۔ پانی نکالنا ایک چیز میں اشتراک ایک چیز کا بعد پہچان ہونے کے آشکارا ہونا مفتی میں مسئلہ نکالنا۔
انباع (بکسر ہمزہ) ایک گھر جہاں بہت آمد و رفت کرتی چھلنی کے سوراخ میں سے کسی کو نکالنا۔
انباق (بکسر ہمزہ) پھسکی مارنی۔
انباق (بکسر ہمزہ) بلا و سختی لانی حدیث میں اثبتا و ما کلیہم اللہ جب بیٹے بلا اور سختی لا پا امن پر زمانہ۔
انبال (بکسر ہمزہ) تیر پھینکنا تیر کو جمع کر کے کھانا۔ تیر دینا غرباء کے واسطے۔

مہموز ول
مہموز نمیر
مہموز نس
مہموز نیم
مضاعف نب
مہموز نج
مہموز نبج
مہموز نبذ
مہموز نبر
مہموز نبض
مہموز نبع
مہموز ندو
الف بر
مہموز نبت
ناقص نز
مہموز نبش
ناقص بر
مہموز نبق
مہموز نبل
مہموز نبغ
الدرغ
مہموز وبق
مہموز نبل

یا ایسا ہی ہو جیسا یا ایسا ہی کرے
الحمیم (فسف) بہت زیادہ مٹی والا۔
ایہیتر (کسف) کبر سے کھجی یا بال ہونا
اُن ج (فت) امین (کس)
اتان (فض) ادمی ہونا سیلی ہونا
آثار (کسم) برتن۔ آثیتہ (کف)
جمع سلاطی (فسک) جمع کرنا۔
اتار (فسم) ڈھیل ہونا۔
اتمر (کسم) کسی کو دور کرنا۔
سرا پردہ اندر گرد پھر کر گھیرنا
اتارۃ (کفسف) بھاری کر دینا
ہر چیز کی گرانی کا مائل کر دینا۔
اتاس (فض) بالفتح ہر ذرا
کباب۔ ایک قسم کی خوشبو۔
اتاتۃ (کفسف) قائم مقام کر دینا
خدا تعالیٰ کیطرف پھر جانا۔
اتاۃ (فض) تحمل اور وقار۔ عورت
نشست وبرین میں ... والی۔
اتات (کفس) چھپ چھپ کر
بنتا ہے سمجھا ... پہچان...
اتاحتہ (کفسف) اونٹ کا بٹھانا
اونٹ کا اونٹنی بٹھانا جفتی کے لئے
اتاوید (فسکس) پراگندہ ہو گئے

ہیں تو کہتے اتاوید ہر طرف پراگندہ ہو گئے
اتارۃ (کفسف) روشن ہونا چمکنا
وغیرہ کا روشن کرنا۔ درخت کا پھل
لے آنا۔ خوبصورت ہونا۔ آشکارا ہو جانا
کسی پر آواز مارنی ... میں تجسس کرنا
اتاس (فض) لوگ۔ کبھی اس
میں سے ہمزہ دور بھی ہو جاتا ہے
اناس کہتے ہیں۔
اتاستہ (کفسف) حرکت دینی۔
اتاسم (فسک) آدمی۔
اتاص (کفس) بچا خرما۔
اتاصۃ (کفسف) گوشت کو نیم جوش دینا
اتاضتہ (کفسف) ارادہ کرنا۔
اتاصیب (فسکس) ان نشان
کہ پتھر پر کھڑا کر دیتے ہیں۔
اتاطۃ (کفسف) کسی کی چیز اور
... آشکارا ہو جانی۔ سخرا کا ...
اتاطر (کسکفس) کج ہونا۔
اتاطۃ (کفسف) اونٹ کا ... ہونا
اتاقتہ (کفسف) ایک چیز پر چڑھنا
اور بلند ہو جانا۔ ہونٹ کا ...
اتانی (فسک) بڑی ناک والا۔
اتافیم (فسکس) ... چوتھائی

اِنبساط (کسکفس) پھیلنا پھیلاؤ چوڑا ہونا۔ گستاخ ہونا۔ بے تکلف ہونا۔ کشادہ رو ہونا۔

اِنبعاق (کسکفس) پسینے کا بہنا۔

اِنبطاح (کسکفس) منہ کے بل گرنا۔ کشادہ اور فراخ ہونا۔

اِنبعاث (کسکفس) برانگیختہ کرنا۔ بھیجا جانا۔ سوتے سے اٹھنا۔

اِنبعاج (کسکفس) پیٹ کا کھل جانا اور پھٹنا۔

اِنبثاق (کسکفس) یکایک اور آنا۔ عطا کرنا۔ گرا۔ بات کرنے لگنا۔

اِنبغاء (کسکفس) آسان ہونا۔ سزاوار یعنی لائق ہونا۔

اِنبقاع (کسکفس) دوڑنا۔

اِنبیق (کسف) بہت بڑا پتھر۔

اِنبلاج (کسکفس) کشادہ ہونا۔

اِنبلاج (کسکفس) روشن ہونا۔

اِنبلاط (کسکفس) معدوم ہونا۔

اِنبلاق (کسکفس) دروازے کا تمام کھل جانا۔

اَنبوب (فسف) اسم ہے۔ زمین پہاڑ میں راہ۔ خیابان درخت۔ زمین بلند۔ انابیب (فکسن) جمع۔

اَنابیب الرئہ۔ سانس کی نالی۔

اُنبوشہ (ضسفف) ایک کھیل کہ ایک چیز کو خاک میں چھپاتے ہیں پھر کوئی اسے لاتا ہو۔

اُنبوش (ضسفس) ساگ اور گھاس کی جڑ یا درخت اکھاڑا ہوا جڑ سمیت۔ انابیش (فکسن) جمع۔

اِنبہار (کسکفس) سانس چڑھ آنا۔

اِنبہاش (کسکفس) سیاہ پڑ جانا۔

اِنبیاج (کسکفس) ... ۔

اِنبیاش (الانبیاش) ... ۔

اِنبیاص (کسکفس) آگے بڑھ جانا۔ سایہ کا کم ہونا۔

اِنبیاع (کسکفس) پسینے کا جاری ہونا۔ رسی کا لمبا ہونا۔ ... لمبا ہونا۔ سانپ کا کودنے کے لئے ... ۔ مسامحت کرنی بیع متاع میں۔

اِنبیاع (کسکفس) رواج پانا۔

اِنبیاق (کسکفس) بلا و سختی کا پہنچنا۔ ... اجازت کسی چیز پر ... ظلم کرنا۔

[illegible]

مادہ

[illegible]

اِنقطاع ہونا۔ بیکلی اور غصہ سا ہونا
اِنتباہ (سعف) بیدار کرنا کسی
کی جانب کو فراموش کیا ہوا۔ (ت)
اِنتصاب (سعف) بھنس [illegible]
دو گروہ کا [illegible] ہونا
اِنبتات (سکفس) جھکے رہنا
مین قاعدے سے سبب [illegible]
[illegible] آپ گشت منقطع ہونا
اِنبتار (سکفس) کٹا ہوا ہونا
[illegible] معدوم کر رہنا
اِنبتاع (سکفس) منقطع ہوجانا
[illegible] جھک جانا
انبتاک (سکفس) [illegible] جانا اور [illegible] جانا
انبتال (سکفس) کٹ جانا
انبثاث (سکفس) پھیل جانا
پراگندہ ہوجانا چیز کا
انبثاق (سکفس) [illegible] کا
پھاڑ دینا۔ پانی کا نکل آنا اور جاری ہونا
یکا یک رو کا آجانا۔ یکا یک [illegible]
[illegible] کرنے لگنا
انبج (سفق) انبہ کا درخت کہ
[illegible] میوہ ہے
انبجاس (سکفس) [illegible] سے

[illegible] اور [illegible] ہونا جاری ہونا
انبجال (سفقفس) خمیر اور کھٹا ہونا
انبجاج (سفقفس) اچھی [illegible] ہیں
[illegible] سوا اور نان (سفقفس)
کے اور نہیں بولتے
انبجاثی (سفقفس) گرم [illegible]
[illegible] سے [illegible] جو شوربا میں [illegible]
اور وہ گرم ہوں
انبجاث (سکفس) تفتیش کرنی
انبجان (سکفس) ترش خمیر خراب
انبخاقی (سفسکت) شرمگین
نکارا اور گرمی ہو یا کھانا ہے کہ کاک
روٹی کو روغن زیت میں بھونتے
ہیں تو وہ پھول جاتی ہے اور اوس پر
پانی چھڑکتے ہیں تو نرم ہو جاتی ہے
انبجانیہ (سفسکتف) [illegible] کی
پرکار یا خانہ زنبور کی مانند [illegible]
انبرامیس (سفسکس) [illegible]
انبراک (سکفس) [illegible] ہوا اور درست
ہونا چیز کا پیشی آنا
انبس (سفق) [illegible] سوئی
انبساس (سکفس) پانی کا [illegible]
چلا جانا چھاپہ [illegible] پراگندہ ہونا

انتباک (کسکفس) بلند ہو جانا چنانچہ
چڑھ بیٹھنا قوم کا یعنی ہجوم کر کے آجانا
انتبال (کسکفس) مرجانا ... جاتا رہنا
قاتا فساد سے ... ایک چیز کو جلدی
سے دفعتہ اٹھا لینا
انتباہ (کسکفس) ہوشیار کرنا
انتتار (کسکفس) ... بلند ہونا
انتثار (کسکفس) کھنچا ہوا ہونا
انتثاش (کسکفس) ... کا ...
... کا نکالنا ... زمین میں سے
... کے ... چیز
انتثاف (کسکفس) ... ہونا
انتثال (کسکفس) ... کہنی
انتثار (کسکفس) پراگندہ ہونا
پانی ... کے ... ناک
میں پانی ڈالنا
انتثال (کسکفس) ... کنویں
میں سے باہر نکالنی
انتثام (کسکفس) بھنڈی بات کہنی
انتجا (کسکفس) نظر پیدا کرنی
انتجا (کسکفس) کسی کو بھید کہنے
کے لیے برگزیدہ کرنا ... میں ...
بیٹھنا ... بھید کہنا ...

انتجاب (کسکفس) درخت پر سے
پوست اتارنا ایک چیز کو برگزیدہ کرنا
انتجاث (کسکفس) باہر لانا شروع
... ہوا ... کا ظاہر ہونا
انتجاح (کسکفس) آواز کرنی
انتجاع (کسکفس) آب و علف و
منفعت و نکوئی کی طلب میں جانا
انتجاف (کسکفس) ایک چیز کو باہر
لانا ... کا سارا ...
... کو خالی کر دینا
انتجال (کسکفس) آشکار ہو جانا
... سے پانی کا دیوار ...
... اور ... کر دینا
انتجام (کسکفس) ...
... وغیرہ کا جاتا رہنا
انتجاد (کسکفس) ایک چیز کا قصد کرنا
تکیہ کرنا اونٹ کا ... میں جانب ...
یہ بھی اصل معنی ہیں ... ہو گیا انتجاد
... اعتماد ... 
تکیہ کرنے کے
انتجاء (کسکفس) کوشش ...
چیز پر تکیہ کرنا جیسے ...
کے عوض ... رکھ دینی جیسے

اَنْفِیَاک کسکفس ۔ پریشان ہونا
عقل کا کرگی محتاج نسو ہے ۔
اَنْتَ اَنْفِتَا زمن تا لرکیا ۔ داغ
جلانا حسد کیا ۔ عانت الشئی اندازہ
کیا شے کا ۔
اَنْتَفْر تعتفا بھیڑ لونڈی ۔
اَنْتَا ر کسفسم پیچھے رہنا ۔ ملتوی
کرنا ۔ توڑنا کسی کی ناک سو جا ہوا
کرنا ۔ شکل اور سیرت میں کسی کے
ساتھ موافق اور مشابہ ہونا ۔
اَنْتَا ر کسکسم خرگاہ کے گرد
خندق کھودنی ۔ معدہ ہونا ۔
اَنْتَاج کسفس اونٹنی کا جننا اور
بچہ لانا ۔ اونٹنی کا بر سر خود جننا جانا
اور معلوم ہوتا کہ کہاں جنی دونوں معنوں
میں مجہول مستعمل ہے جیسے نُتِجت
اَلنَّاقَۃ قوم کی اونٹنیوں کا بچہ جننا
گھوڑی اور اونٹنی کے حمل
آشکار ہونے کا وقت آ پہنچنا ۔
اَنْتَاص کسفس اپنے جگہ
سے اُکھڑنا ۔
اَنْتَاع کسفس بہت پسینا لانا
قے کا نہ تھمنا ۔

اَنْتِعَاج کسفس کسی پر سوار اپنی
راہ سے ہنسنا یا اس طرح پر چھپ چھپ
ہنسنا کہ ضبط نہ کر سکے اور کچھ اوس میں
سے آشکار ہو جاوے ۔
اَنْتَاق کسفس سخت پتھر کو اوٹھانا
ایک گھر دوسرے گھر کے روبرو یعنی
آمنے سامنے بنانا ۔ بہت بچے والی
عورت سے بیاہ کرنا ۔ آفتاب کے
آگے سائبان لینا ۔ مچھلی اور برتن کو
جھاڑنا تاکہ کیڑے سے پاک ہووے
ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ۔
اَنْتَان کسفس ناخوشبو ہونا بگڑ جانا
اَنْتِبَاخ کسکفس ہاتھ سے
کھودنا ۔ پنہان اور ظاہر کرنا ۔ گھیر لینا ۔
پانی ملا کر ستو وغیرہ کو ملنا اٹھنے وقت
دامن چننا سمیٹنا ۔
اَنْتِبَاج کسکفس پھیلنا اور بلند ہونا اور ظاہر
اَنْتِبَاذ کسکفس یکسو ہونا
کنارہ قبول کرنا ۔ دونوں قوم کا جنگ
کے لیے اوٹھنا ۔ نبیذ بنانی ۔
اَنْتِبَار کسکفس ہاتھ کا آبلہ کرانا
اور سوج جانا ۔ خطیب کا منبر پر چڑھنا
اَنْتِبَاق کسکفس کھود باہر لانا ۔

کسی کے پیچھے رہ جانا اور بعید ہونا
جیسے انتسأت عنکم —

انتساب ر کسکفس کسی کی طرف
اپنے تئیں منسوب کرنا —

انتساخ ر کسکفس لکھ لینا منسوخ
لینا۔ زائل کر دینا —

انتساع ر کسکفس اونٹوں کا چرا گاہ
میں پراگندہ ہونا —

انتسلاغ ر کسکفس پراگندہ ہو جانا
چرا گاہ میں اونٹوں کا دور ہونا اونٹ
کا تکلیف کے سبب پانچویں قسم ہے جو سینہ
پر سے اٹھ جانا —

انتساف ر کسکفس بینا کا جڑ سے
اکھاڑنا۔ اونٹ کا گھاس کو جڑ سے
اکھاڑنا۔ ہوا کا خاک کو زمین سے صاف
کرنا۔ رنگ کا متغیر کر دینا مجہولاً مستعمل ہے
کلام کو تمام کرنا خفت کے سبب آہستہ کہنا

انتساق ر کسکفس امر کا باہمی منتظم ہونا
انتسار ر کسکفس ابو سے خوش
کر جی سست ہو جانا —

انتشاب ر کسکفس اٹک جانا متعلق
ہونا۔ لکڑی توڑنی اور اون کو جمع کرنا
گیہوں کو جمع کرنا۔ نشیب لینا —

انتشار ر کسکفس پھیلا ہوا پھیلا
ہوا ہونا۔ دن کا دراز ہونا۔ چیز کا فاش
ہو جانا۔ چرواہے کی غفلت سے
اونٹوں کا پراگندہ ہو جانا۔ ذکر کا پھیلنا
سمجھ میں آنا۔ چوپایہ کے پٹھے کا
تکان کے سبب ہوا پکڑ لینا۔ کھجور کی
شاخوں کا پھیلا ہوا ہونا اور اوس کا پتے
لے آنا۔ ہر چیز کا پراگندہ ہونا ملک
میں پھرنا۔ سیاحی کرنی —

انتشاش ر کسکفس درخت کا ہرا
ہو جانا جیسے انتشت الشجرۃ انتشاش
یہ قول ابن عباد کا تصحیف ہے صحیح
اس میں یہ ہے کہ انتشت باب افعال سے ہے

انتشاط ر کسکفس مچھلی کا پوست
اوتارنا۔ اونٹ کا چارہ کو دانت سے
کھینچنا۔ گرہ کو کھینچنا تاکہ کشادہ ہو دے

انتشاع ر کسکفس کھینچ لینا اور
گرا دینا۔ اپنی ناک میں دوا ڈالنی —

انتشاغ ر کسکفس اونٹوں کا چرا گاہ
میں پراگندہ اور دور ہونا۔ اونٹ کا
پانچویں قسم پر تکلیف کے سبب اٹھ جانا

انتشاف ر کسکفس فشار کھانا
رنگ بدل جانا مجہولاً مستعمل ہے —

انتحی سے علے حلقه السکین

انتحاب رکسکفس زور سے رونا گریہ داری میں آواز بلند کرنی زور سے سانس لینا

انتحاز رکسکفس اپنے تئیں فرع کرنا ایکچیز سے بچنا اور جلدی کرنی اتنی کہ گوشت اور خون اور نزاع و فساد کے قریب ہووے

انتحاض رکسکفس میں کالم گم ہونا اور اوسکا جاتا رہنا مجبلا مستعمل ہوتا ہے گوشت کا ہڈی سے صاف کرنا

انتحال رکسکفس کسی کی چیز کا اپنے لیے دعوی کرنا۔ دوسرے کے شعر کو اپنا بنا لینا اپنے تئین ایک مدت مین پابند کرنا

انتحاص رکسکفس قصد کرنا ایک چیز کا بدل کہنا

انتحار رکسکفس نادر کرنا نحر اور بندگی دکھلانی جیسے انتحی علینا گویا اسکے معنی قتح علینا

انتحاش رکسکفس چھانٹنا نچوڑنا

انتحاص رکسکفس گوشت کا نہ ہنا اور اوسکا جاتا رہنا

انتحاملار رکسکفس ناک سنکنی ناک کا پونچھنا سنکنا مشابہ ہونا

انتحاع رکسکفس اپنا سب نیچے کو گرا دینا اپنی زمین سے دور ہونا

انتحال رکسکفس چھانٹنا بہتر کو چھانٹنا استعمال کرنا

انتدار رکسکفسم جمع ہونا اور مجلس میں حاضر آنا

انتداب رکسکفس جھٹ پٹ پکارنے والے کو جواب دینا گفتگو مین کسی کا معارضہ کرنا نقل لینا

انتداح رکسکفس فراخ ہونا

انتداع رکسکفس نرم ہونا

انتدام رکسکفس غرب مین پڑ لینے مین غنا انتدم یعنی جو چیز آپ سے کی سو وہ

انتداه رکسکفسم کام کا درست ہونا

انتدا ر رکسکفس ایکچیز کا لپنے اوپر واجب کرنا کسی کے ساتھ عہد اور پیمان باندھنا

انتزاع رکسکفس ہو کنا اکھاڑنا جگہ سے کھینچ لینا اوکھڑا ہوا ہونا

انتسا رکسکفسم جا گاہ مین دور چلا جانا جیسے انتسانی الرمی

مادہ

بیمار کا افاقہ پانا۔ صحت پانی۔

انتعاص (کسلفس) گرمی ... کا پھیل جانا۔ غصہ کرنا۔

انتعاظ (کسلفس) مادہ میں ... پایہ کا سانڈ کے نہایت اشتیاق میں اپنی فرج کو کھلا ہوا اور بلند رکھنا۔

انتعاف (کسلفس) سوار کا اٹکنا ہو جانا۔ نعت پر نکلنا۔ ایک چیز کو غیر کی طرف چھوڑ دینا۔

انتعال (کسلفس) جوتی پہننی زمین میں پیادہ پا چلنا سخت زمین میں ...

انتعاش (کسلفس) کانپنا ایک چیز کا اپنی جگہ پر حرکت کرنا۔

انتغار (کسلفس) دور ہونا یکسو ہو جانا

انتفاج (کسلفس) اچھلنا ... کے دونوں پہلوؤں کا بلند ہو جانا۔ شکار کا برانگیختہ ہونا۔

انتفاح (کسلفس) کسی کے سامنے واسطے آنا۔ ایک موضع کیطرف پھیلنا

انتفاخ (کسلفس) ایک چیز کا سوج جانا۔ دن کا بلند چڑھ آنا۔

انتفاد (کسلفس) نیست ہو جانا ایک چیز کو سب کا سب لے لینا۔ ...

انتفاش (کسلفس) بلی کا بالوں کو بلند کرنا اور پھولانا۔ بالوں کا سیدھا کھڑا ہونا۔ پرند کا بازو کو حرکت دینا۔

انتفاص (کسلفس) ذکر ... انگلیوں کے شگاف سے پانی چھڑکنا۔

انتفاض (کسلفس) کپڑے ... اور ... کا جھاڑا جانا۔ انگور کے پتے کا سبز اور تازہ ہو جانا۔ ذکر کو پیشاب باقی سے پاک کرنا

انتفاع (کسلفس) نفع پانا۔

انتفاق (کسلفس) راہ تنگ میں داخل ہونا۔ جنگلی چوہے کا نافقاء میں باہر نکلنا۔ جنگلی چوہے کا نافقاء بنانا اور نافقاء اسکے بل کے دو سوراخ میں سے ایک پوشیدہ راہ سوراخ کو کہتے ہیں

انتفال (کسلفس) دور ہو رہنا ایک چیز سے بیزار ہونا۔ دور ہو جانا۔ نفل نماز ادا کرنی۔

انتقاء (کسلفس) برگزیدہ کرنا ہڈی میں سے گودا نکالنا۔

انتقاب (کسلفس) ... بند باندھنا

انتقاث (کسلفس) ... کسی ... چیز کو کھودنا۔ ہڈی میں سے گودا نکالنا۔

مادہ

لا نقض
لا نقو
لا نقی
نقس
نقض
نقع
نقب
نقر
نقص
نقو

۱۵

نقس
نقص
نقع
نقض
نقف
نقل
نقم
نقع

انتقال (کسرتین) بغیر لگام کے ہاتھ سے گھوڑے کو لیجانا
انتقاض (کسرتین) بالون کا دراز ہوجانا
انتقاء (کسرتین) برگزیدہ کرنا - پہاڑ اور زمین کا دراز ہونا اور بلند ہونا
انتصاب (کسرتین) زمین پر کھڑا ہونا - کسی کام مین قیام کرنا - حرف کا منصوب ہونا
انتصات (کسرتین) خموش رہنا
انتصاح (کسرتین) نصیحت قبول کرنی
انتصار (کسرتین) بدلا لینی -
انتصاص (کسرتین) عروس کا منصہ پر بیٹھنا - سر اٹھانا - پانون پر کھڑا ہونا
انتصاف (کسرتین) کسی سے اپنا تمام حق لینا - عورت کا اپنے سر پر اوڑھنی ڈالنا - ادھیڑ عمر پہنچنا - تیر کا نشانہ مین داخل ہونا - بدلا لینی -
انتصال (کسرتین) پیکان کا باہر گرنا
انتضاء (کسرتین) تلوار کا سونتنا - کپڑے کا بچھانا - کسی کام کو اختیار کرنا
انتضاح (کسرتین) آنکھ سے آنسو کا جوش مارنا - وضو کے بعد پانی شرمگاہ پر چھڑکنا -

انتضاخ (کسرتین) پانی چھڑکنا -
انتضاد (کسرتین) اقامت کرنی
انتضاف (کسرتین) اونٹنی کے بچے کا سارا دودھ پستان کا چوس لینا -
انتضال (کسرتین) باہر لانا - برگزیدہ کرنا - اونٹ کا چلنے میں ہاتھ پھینکنا - آدمیون کا ایک دوسرے پر تیر مارنا - آپس مین تیر اندازی کرنی - شعر و سخن مین مقابلہ اور معارضہ کرنا -
انتطاح (کسرتین) بکریون کا آپس مین سینگ مارنا
انتطاق (کسرتین) عورت کا نطاق پہننا - مرد کا کمر پٹکا باندھنا - کوئی بات کسی سے کہنی -
انتظال (کسرتین) مشک مین سے کچھ گرانا
انتظار (کسرتین) درنگ اور توقف کرنا - راہ تکنی - انتظار کرنا -
انتظام (کسرتین) موتی کا پرویا ہوا اور راست درست ہونا - کام کا تمام ہونا - نیزہ سے زخمی کرنا -
انتعات (کسرتین) صفت کرنی
انتعاش (کسرتین) ایک چیز کو پکڑ لینا
انتعاش (کسرتین) لغزش کے سبب گر پڑنے سے بچکے پھیل جانا -

سے دو سری جگہ جا رہنا ۔

اِنتِوا ر بکسرتین دو چیزوں کا [illegible] کرنا ۔ غائب ہونا ۔ بے [illegible]

اِشتِہا ء بکسرتین کسی چیز کی خواہش ۔ بھوک لگنا ۔ کسی چیز کا ظاہر ہونا

اِشتِباہ بکسرتین شک ہونا ۔

اِشتِہار بکسرتین مشہور ہونا ۔ [illegible]

اِشتِغال بکسرتین مشغول ہونا ۔

اِشتِعال بکسرتین آگ کا بھڑکنا ۔

اِشتِقاق بکسرتین [illegible] ایک لفظ سے دوسرا لفظ نکالنا

اِشتِمال بکسرتین [illegible] ۔

اِشتِیاق بکسرتین شوق کرنا ۔

اِشتِراک بکسرتین شریک ہونا ۔

اِشتِراط بکسرتین شرط کرنا ۔

اِشتِداد بکسرتین سخت ہونا ۔

اِشتِعال بکسرتین [illegible]

اِشتِہا ر بکسرتین کسی کی عزت برباد کرنا ۔ رسوا کرنا ۔

اِشتِکا بکسرتین شکایت کرنا ۔

اِشتِغال بکسرتین [illegible] ۔

اِستِحسان بکسرتین اچھا سمجھنا ۔

اِکتِفا بکسرتین کافی سمجھنا ۔ کفایت کرنا

اِکتِساب بکسرتین کسب کرنا ۔ حاصل کرنا

اِکتِنان بکسرتین اوٹ میں ہونا ۔ چھپنا

اِمتِنان بکسرتین احسان کرنا ۔

اِمتِحان بکسرتین آزمانا ۔

اِمتِداد بکسرتین دراز ہونا ۔ کھنچنا

اِمتِزاج بکسرتین ملنا ۔ مل جانا

اِمتِیاز بکسرتین جدا کرنا ۔ فرق کرنا

اِمتِثال بکسرتین حکم ماننا ۔ تابعداری کرنا

اِمتِلا بکسرتین بھرنا ۔ پُر ہونا ۔ کسی [illegible]

اِنتِقال بکسرتین نقل مکان کرنا ۔ مرنا ۔ [illegible]

اِنتِخاب بکسرتین چن لینا ۔

اِنتِظار بکسرتین راہ دیکھنا ۔

اِنتِزاع بکسرتین کھینچ لینا ۔ جدا کرنا ۔ غلبہ کرنے کے بعد نکالنا ۔

اِنتِشار بکسرتین پراگندہ ہونا ۔ بکھر جانا

اِنتِعاش بکسرتین [illegible] ۔

اِنتِہا بکسرتین آخر ۔ [illegible]

اِتِّفاق بکسرتین ایکا کرنا ۔

اِتِّحاد بکسرتین ایک ہونا ۔

اِتِّصال بکسرتین ملنا ۔

اِتِّکا بکسرتین تکیہ کرنا ۔ بھروسہ کرنا

مادہ

اِنتِقاح (کسکفس) کھجور کی گٹھلی سے مغز نکالنا

اِنتِقاد (کسکفس) پرکھنا اور درم کو لینا۔ لڑکے کا جوان ہونا۔

اِنتِقار (کسکفس) لکڑی میں کچھ کاریگری کرنی۔ کھنا۔ سوراخ دار ہو جانا۔ سر کریدنا۔ کسی ایک چیز کی تفتیش کرنی۔ قوم میں سے بعض کو بلانا۔ گھوڑوں کا زمین کو سم سے اوکھاڑنا۔

اِنتِقاز (کسکفس) گوسپند کا بیمار ہو۔ نقاز (ضفس) ہو جانا۔ کاریگری کرنی

اِنتِقاش (کسکفس) پانوں میں سے کانٹا نکالنا۔ نقاش کو نگین نقش کرنے کا حکم دینا۔ اونٹ کا پانوں کو کانٹا لگ جانے کے سبب زمین میں زور سے مارنا۔ ایک چیز کو باہر لانا۔ برگزیدہ کرنا

اِنتِقاص (کسکفس) کم کرنا۔ کم ہونا۔ ذکر یا انگلیوں کے شگاف سے پانی ٹپکانا۔ آدمیوں کا عیب بیان کرنا۔

اِنتِقاض (کسکفس) بنا اور تابے رسن کو کھولنا۔ بنیاد وغیرہ کا توڑنا۔

اِنتِقاع (کسکفس) رنگ بدلجانا مجہولاً مستعمل ہوتا ہے۔ مسافر کی مہمانی کے لئے اونٹ کو ذبح کرنا۔ سیراب ہوجانا

غنیمت کے اونٹ اور بکری کو قبل از تقسیم ذبح کرنا۔

اِنتِقاف (کسکفس) حنظل کو توڑ کھانا۔ ایک چیز کا باہر لانا۔

اِنتِقال (کسکفس) ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔

اِنتِقام (کسکفس) بدلا لینا عذاب کرنا۔

اِنتِجکار (کسکفسم) حق کا قبضہ کرنا۔

اِنتِکاب (کسکفس) تیر دان کا کندھے پر ڈالنا۔ گھوڑے کا سختی میں پڑنا

اِنتِکات (کسکفس) سر کے بل گر پڑنا

اِنتِکاث (کسکفس) ایک حاجت سے دوسری حاجت کی طرف پھر جانا رسی اور عہد کا ٹوٹا ہوا ہونا

اِنتِکاس (کسکفس) سرنگوں گر پڑنا نگونسار ہونا۔ اوندھا ہونا۔

اِنتِکاش (کسکفس) کم ہیں کانٹا سے نکالنا

اِنتِکاف (کسکفس) نہر کو قطع کر دینا۔ کھوج گم کر دینا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ میلان کرنا۔ عہد کا شکستہ ہونا۔

اِنتِماء (کسکفسم) کسی کی طرف نسبت کرنی۔ منسوب ہونا۔ باز کا ایک جگہ

نقح، نقد، نقر، نقز، نقش، نقص، نقض، نقع، نقف، نقل، نقم، نکب، نکت، نکث، نکس، نکش، نکف، نمی

پہاڑ کا نام ہے ... پہاڑ کی ...
بلند ہونا آسمان کا ابر سے صاف ہونا
مرد کا گنبد کے نزدیک ہونا ۔ عورت
قبول کرنی پکار کر پہنچنا ۔
انجاد ر کسغس بالاخانہ اجار
کی مانند یعنی گھر کا کوٹھا ۔
انجاز ر کسغس ۔ حاجت روا کرنی
ترنجی کا ... ۔ وعدہ کو وفا کرنا ۔
انجاس ر کسغس ۔ پلید کرنا ۔
انجاع ر کسغس ۔ علف کا چوپایہ میں
نصیحت کی بات کا آدمی میں اثر کرنا
... کی بچے کو نفع دینا
انجاف ر کسغس ...
انجاف ر کسغس ۔ ابلک کے شکم اور
نفسیب پر تسمہ باندھ دینا تاکہ جفتی کر سکے
انجال ر کسغس ۔ چوپایہ کو نخیل
میں چھوڑ دینا ۔ زمین کا سبز ہونا ۔
انجام ر کسغس ۔ نکلنا ۔ طلوع ہونا
آسمان کا ابر سے کھل جانا ۔ جاڑے
اور علیہ وغیرہ کا جاتا رہنا ۔
انجام ر کسغس ۔ پیالہ اور خدمت
کا ... دینا ۔
انجاؤ ر کسغس ۔ نجیب فرزند کا جننا

انجنا ر کسغس ۔ ایک ... کی
سرخ رنگ کی ... کا حرف
انجنا ر کسغس ۔ خوش حال ہونا
انجحار ر کسغس ۔ ... آتا
انجدال ر کسغس ۔ زمین پر گرنا
انجذاب ر کسغس ۔ کھنچ جانا ۔
کھنچ جانا ۔ تیز چلنا ۔
انجذاذ ر کسغس ۔ کٹا ہوا ہونا
... سے ... ہونا ۔
انجذار ر کسغس ۔ کٹ جانا ۔
انجراف ر کسغس ۔ ... کے
انجذام ر کسغس ۔ ... ہونا
انجرال ر کسغس ۔ ... کر
ایک گھاس ہے ۔
انجراد ر کسغس ۔ ننگا ہو جانا ۔ ... ہو جانا کپڑے کا ۔ سیر و شعر کا دراز
ہونا ۔ گھوڑے کا چھوٹے اور
تیکے بال والا ہونا ۔
انجرار ر کسغس ۔ کھینچا ہوا ہونا ۔ چلتے چلتے چرنا اونٹ کا ہوا ہو کر اونٹنی کو
بچے کے لیے چھوڑ دینا ۔
انجزار ر کسغس ۔ دریا کے پانی کا
اتر جانا اور گھٹ جانا اور دریا میں ...

[illegible] ماده ... [illegible]

انفجار بکسر فا ... پانی کا پھوٹ کر بہنا ... پانی کا

انقطاع بکسر ... منقطع ہونا

انفلاق بکسر ... پھٹ جانا ... ہجوم کرنا ...

انقسام بکسر ... تقسیم ہو جانا

انقشاع بکسر ... [illegible]

انقصاع بکسر ... اور غنچہ کا ... سے نکلنا

انقشاب بکسر ... [illegible]

انقلاع بکسر ... شکستہ ہو جانا ... سے اکھڑ جانا درخت کا

انقلاب بکسر ... ہر طرف سے ٹوٹ پڑنا ... کا

انقسام بکسر ... [illegible] ہو جانا

انقمار بکسر ... [illegible] جانا

انقلاع بکسر ... درخت سے ... کر ٹوٹ جانا ... کا

انقصام بکسر ... [illegible] ہو جانا ... کسی ... سے ... کے لیے ٹوٹ پڑنا

انقطاع بکسر ... ٹوٹ جانا ... پھر جانا ... ٹوٹ جانا

انتہی بالضم ... [illegible]

انتقاض بکسر ... [illegible]

اشتمال بکسر ... [illegible]

انکمال ... [illegible] ہر طرف سے ... کا گھیر لینا ... بہت ... میں ... جانا

انکباب بکسر ... [illegible]

انکمار بکسر ... [illegible]

... پوست ... [illegible]

انکار ... [illegible]

انکباب بکسر ... ہو جانا ... پیٹنا ... فرزند پیٹنا

... سے بچے

انکشاف بکسر ... [illegible] کا گر پڑنا

انکلاج بکسر ... حاجت کا نکلنا ... حاجت کو نکالنا ... غالب ہو جانا

انکاد بکسر ... [illegible] ہونا ... کیطرف نکلنا ... سے

انجد ... یعنی نجد کیطرف گیا ... جس سے ... دیکھا ...

انجعوف چھوٹے قد کی عورت
انجعاث رک کسکفنس بکھر جانا ـ
اکھڑ جانا درختوں کا درخت سے گرنا
انجعاز رک کسکفنس بکھر جانا مرگ
جانا ـ مجازاً زمین پر آ رہنا
انجعاف رک کسکفنس گر پڑنا
انحدار رک کسکفنس پست بلند
سے نیچے جانا نشیب میں اترآنا ـ
انحذاق رک کسکفنس پارہ پارہ ہونا
انحذام رک کسکفنس کٹ جانا
انحراف رک کسکفنس ہتھلے کا لٹکنا
انحزاق رک کسکفنس ٹوٹ جانا
انحزاق رک کسکفنس بکھا عشق اور
نرم کرا کسی ہی میں ہو جانا
انحسار رک کسکفنس ننگا ہو جانا ـ
انحساس رک کسکفنس دانت وغیرہ
کا کمزور ہونا ـ اسکا گرنا اور کمزور ہو جانا
انحساق رک کسکفنس ریزہ ریزہ ہونا
انحسام رک کسکفنس کٹ جانا
انحصاص رک کسکفنس بال جانا
سر کے بال گر جانا ـ
انحصام رک کسکفنس الگ نکل جانا
انحصاج رک کسکفنس غصہ سے

ے جنگل کا چھتنا اور پھیل جانا پیٹ
فراخ ہونا اور کشادہ جانا ـ
انحطاط رک کسکفنس اوپر سے
نیچے کی طرف جانا اونٹ کا ـ
سے جانا کم ہونا قیمت وغیرہ کا
منزل میں اترنا ـ
انحطام رک کسکفنس ٹوٹ جانا
انحفاق رک کسکفنس
انحلاب رک کسکفنس پسینا بہنا
آنسو یا کسی کی رال ٹپکنا
انحلال رک کسکفنس کھل جانا
انحلام رک کسکفنس خواب
انحماض رک کسکفنس
پیلا ہونا ـ کھانے کے سبب
سرخ ہو جانا اور
سوجن دب جانی
اور کسی کا دبلا اور چھوٹا جسم ہونا ـ
انحماق رک کسکفنس احمق
ہونا ـ احمقانہ کام کرنا ذلیل اور خوار
ہو جانا ـ تواضع کرنی
ہو جانا ـ بازار کا مندا ہونا ـ
انحمال رک کسکفنس اٹھایا جانا ـ
انحمار رک کسکفنس سرخ ہونا

علامات اعراب بہ تفصیل مستعمل ہے جس میں متعدد الکرشمس تکلوں ... [illegible]

انجبار (ع) رکسکفس ٹوٹ جانا ہڈی کا
انجزام (ع) کسکفس ساکن ہونا نون کا
یا منقطع ہو جانا ۔ ٹوٹ جانا ہڈی کا ۔
انجحاب (ع) کسکفس اگر چڑہنا ۔
انجحار (ع) کسکفس بیٹ گری ۔
انجعاف (ع) کسکفس اکھڑ جانا
زمین پر گر جانا ۔
انجفال (ع) کسکفس اکھڑ جانا
گنبد جانا ۔ ڈھلنا ۔ سایہ کا ہٹ جانا ۔
انجل (ع) بفتحتین فراخ آنکھ والا
نجل وغیرہ انجال (ع) جمع ۔
ہر ایک چیز کشادہ یعنی چوڑی ۔
انجلا (ع) کسکفسم روشن اور آشکار
ہونا ظاہر ہونا ۔ دور ہونا ۔
انجلاب (ع) کسکفس ایک جگہ سے
دوسری جگہ کھینچ جانا ۔
انجلاط (ع) کسکفس اونٹ کا گر کر
اونٹ کا بیٹھنا ۔
انجلاع (ع) کسکفس کھلا ہونا کھلنا
انجیاب (ع) کسکفس یعنی گم ہونا
کرنا اور کمی کا دور ہونے کے وقت ۔
یا دل کا کھل جانا ۔ کسی کا دور ہو جانا
انجیال (ع) کسکفس گرد بکھرنا خاک کا

اور پکڑ کر چڑھنا جلد ہونا ۔
انجیل (ع) کسکفس حضرت عیسیٰ کی
کتاب یا تذکرہ و مونث جو ذکر کرتا ہے
اوسکے نزدیک اوس سے مراد کتاب ہے
اور جو مونث کہتا ہے اوس کے نزدیک
صحیفہ سے مراد ہے ۔
انجح (ع) بفتح الف سے سانس پھولنے
والا ۔ موٹی نیل کر جب پیٹ اوس کا
اور آنکھیں نکلی ہوئی ۔ سنگ جمع
انجح (ع) بفتحتین بزرگ نیل کہ جب اوس
پیٹ اور آنکھیں نکلی ہوں ۔
انجح (ع) بفتحتین (ع) انجح (ع) کسکس (ع) الوحج
(ع) کسکس (ع) زمین (ع) سانس پھولنا
مرض وسمہ وغیرہ سے ۔
انجحار (ع) کسکفسم پیش آنا مقرض ہونا
بشیر یعنی اونٹ کا جانب چپ جھکنا ۔
انجحار (ع) کسکفسم اوسکو تھپیڑے مارنا
انجحاز (ع) کسکفس تاخیر کرنا
کسی شئی سے پورا ہونا
انجحاف (ع) کسکفس ہلکا کر دینا ۔
انجحال (ع) کسکفس ہاں دینا ۔ کل کا
سے کسی کے لئے ایک چیز خاص
کرنی عمر اور زید کا فکر کرنا

اِنْخِشَاف (کسکفس) کسی چیز میں داخل ہونا
اِنْخِصَاج (کسکفس) موزہ کا مائل ہونا اور سیدھا ہو جانا۔
اِنْخِضَاد (کسکفس) لکڑی کا خم ہو جانا میوہ دن کا پارہ پارہ ہونا۔
اِنْخِع (فسف) بہت ذلیل اور خوار
اِنْخِشَاش (کسکفس) پانی کا متغیر ہو جانا
اِنْخِضَاض (کسکفس) گرپڑا ہونا۔ بچان میں گر پڑنا۔
اِنْخِضَاع (کسکفس) جگہ کا بوجھ کے مارے ڈھیلا اور باریک اور دو ہرا ہو جانا۔ کھجور کے درخت کا ادھکڑ جانا۔ پھیپھڑے کا پھٹ جانا۔
اِنْخِلَاء (کسکفس) گیلی گھاس کا کثنا ہونا
اِنْخِمَاص (کسکفس) زخم کی سوجن دب جانی۔
اِنْخِنَاث (کسکفس) دوہرا ہو جانا اور موٹا ہو جانا۔
اِنْخِنَاس (کسکفس) پچھاڑی رہ جانا کسی سے۔
اِنْخِنَاق (کسکفس) اپنے آپ سے گلا گھٹ جانا۔
اِنْخِيَاط (کسکفس) عقاب باز وغیرہ کا اوپر سے شکار پکڑنے کے لئے اترنا
اِنْخِيَاق (کسکفس) فراخ اور کشادہ ہونا جنگل کا۔
اِنْدِاثَار (کسکفسم) زیادہ ہونا۔ اونٹ کو دو نوبت آب کے درمیان چرانا نمناک اور تر کرنا۔ بہت عطا اور بخشش والا ہونا یا خوش آواز ہونا۔
اِنْدِاَلَال (کسکفس) نشان زخم کا سخت گندہ ہونا۔ زخم اور جراحت کا اثر کرنا اپنے تئیں خطر میں ڈالنا۔
اِنْدِامَاغ (کسکفس) سنجا دینا۔
اِنْدِادَار (کسکفس) اونٹوں کو پراگندہ کرنا
اِنْدِار (کسکفس) مال میں سے کسی قدر نکالنا۔ گرا دینا۔ شمار سے گرا دینا۔ تلوار سے گرا دینا۔
اِنْدِاص (کسکفس) کسی سے اپنے حق کو باہر نکالنا۔
اِنْدِاع (کسکفس) کمینوں کی خو کی پیروی کرنی۔ تجربہ سے چلن چلنا۔
اِنْدِاغ (کسکفس) تباہ اور خراب کرنا
اِنْدِاف (کسکفس) چوپایہ کا زور سے ہانکنا۔ آواز رباب کی طرف میل کرنا۔ کتے کو جھپہ کہلانا۔

مادہ
خشف
خصج
خضد
خشع
خضش
خضض
خضع
خفی
خمص
۴۱۷
ندث
ندس
ندب
ندح
ندر
ندص
ندغ
ندف

ص ۲۱ ۱۲

علامات اعراب ضمہ کتسم ـــ فتحہ کسرہ س سکون تشدید

مادہ

انتحاز رکسکفس اچہر جانا جیسے
انتحاز علیہ نکلکر اور جگہہ چلا جانا ـ
انتحاس رکسکفس بھاگنا تعرض
کرنی اور سکرتا اور منقبض ہونا جیسے
انحاس عنہ باک و خوف رکہنا ـ
انتحاص رکسکفس بھر جانا اور بکسیو
ہونا جیسے انتحاص عنہ
انتحار رکسکسم تاز اور رنگ نشیلی پر
خودمنی کا زیادہ ہونا ـ
انتحاب رکسکفس زجل فرزند جننے
والعد فرزند جننے نجاتا مدام ہی
انتحاض رکسکفس مرض سے کا لاغر ہونا
انتحاط رکسکفس ناک سنکنی ـ
ناک کا پانی چھینکنا مشابہ ہونا ـ
انتحاق رکسکفس آواز کا اور گریہ کا
خندہ ناک میں افزون ہونا ـ
انخیاز رکسکفس بمعنی انحفاص
نیچے رکھا جانا ـ
انتحاع رکسکفس زمین پر چلنا
جیسے انتحع فی الارض ـ
انخداع رکسکفس فریب کھا جانا
بچہری میں ایڈا پانی ـ بازار کا
سنے رونق اور سے رواج ہونا ـ

انخزار رکسکفس اطرنا اور ٹکا ہوا ہونا
انخراط رکسکفس نادانی کے
سبب سے دریافت انجام ایک کام
کا مرتکب ہونا تیر ردمڑنا ـ بدن کا
دبلا پتلا ہو جانا ـ داخل ہونا ـ
انخلاع رکسکفس اوکھڑ جانا ـ
جگہہ سے نکل جانا شکستہ ہو جانا ـ
ضعیف ہونا ـ نیزہ کا چڑ جانا اور
ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ـ
انخراق رکسکفس پھٹ جانا اور
پارہ پارہ ہو جانا ـ
انخزام رکسکفس چر جانا کٹ جانا
انخزاع رکسکفس کٹ جانا ـ
بڑہاپے اور ضعف سے پیٹھ کا خم ہو جانا
انخزاق رکسکفس نیزہ سے سیا جانا
انخزال رکسکفس جواب دینے
میں بیباکی ـ کلام کرنے میں گرجانا
سستی اور تکان اور بھاری پن سے چلنا
انخسار رکسکفسم کسے کا
دعد ہونا اور چلا جانا ـ
انخساف رکسکفس آنکھہ کا اندہی ہو جانا
انخشاش رکسکفس کسی چیز
میں داخل ہونا پہنچنا ـ

اندلاص کسی شی کا ہاتھ میں سے
پھسل کر گر پڑنا۔
اندلاط کسی شی [illegible]
اندلاع کسی شی کا [illegible] ہونا
اور باہر نکل آنا اور [illegible]
میان میں سے باہر نکل آنا [illegible]
کا باہر نکل [illegible]
اندلاف کسی شی [illegible]
اندلاق کسی شی [illegible] آنا۔
اپنی جگہ سے باہر [illegible]
[illegible] کا میان میں سے [illegible]
[illegible]
اندلال کسی شی [illegible]
[illegible] کی [illegible]
اندماج کسی شی کا ایک [illegible]
ہونا اور [illegible] ہونا۔
اندماس کسی شی کا [illegible] میں آنا
اندماق کسی شی [illegible] بے اجازت
اپنا [illegible] اپنی جگہ سے [illegible]
[illegible] کی جگہ میں آنا۔
اندمال کسی شی کے زخم کا اچھا ہو جانا
اندواج کسی شی [illegible] پیچھے سے نکل آنا

اندعاق [illegible] ایک [illegible]
[illegible]
[illegible]
انذعار کسی شی [illegible] جانا۔
[illegible]
[illegible] کسی شی [illegible]
[illegible] کسی شی [illegible] ایک [illegible]
[illegible] جب میں کی
[illegible]
[illegible]
[illegible] جاتا۔
[illegible] کسی شی [illegible]
[illegible] کرنا۔
[illegible] کسی شی [illegible]
[illegible] کسی شی کا [illegible]
[illegible]
[illegible] کسی شی [illegible] ہو جانا
[illegible] کسی شی کا [illegible]
[illegible] جانا۔
[illegible] کسی شی [illegible] ہو جانا
[illegible] کسی شی [illegible]
پھٹ جانا۔ اونٹ کی پیٹھ کی کھال
[illegible] سے [illegible] جانی۔

ماده

دلص ... دلج ... دبغ ... دثر ... دحج ... دحق ... دخ ... دخل ... در ... درع ... درج ... درس ... درع ... درق

اندلاص (بسکفتس) کسی کی پشانی ینی –
اندباح (بسکفتس) پیٹھ پھیلانی – رکوع وغیرہ میں پیٹھ کا سر جھکانا –
اندباغ (بسکفتس) چمڑے کا سنہرا ہونا – دباغت دینی –
اندثار (بسکفتس) نشان کا مٹ جانا
انداح (بسکفتس) فراخ ہونا کشادہ ہونا
اندحاق (بسکفتس) اونٹنی کا بچہ دان باہر نکل پڑنا –
اندخ (بسکف) احمق بکر سخن –
اندخال (بسکفتس) داخل ہونا –
اندر (بسکف) کھلیان گیہوں کا کھلیان – اناذر (بضم) جمع –
اندراء (بسکفتسم) ہر طرف سے ... کا آنا – پریشان و پراگندہ ہونا تتر بتر ہونا – ... کا دور تک چلنا –
اندراج (بسکفتس) قصہ کا آخر کو پہنچ جانا
اندراس (بسکفتس) ناپدید ہونا
اندراع (بسکفتس) آگے آنا تیز چلنا – ہری کا اپنی جگہ سے نکل آنا پیٹ کا پیدا ہونا – ابر میں چاند کا نکل آنا
اندرانی (بسکفتسکت) نہایت سپید نمک – اس معنی میں صحیح ہے

کہ وہ درانی (بفتسکت) ...
اندرورد (بفتسفتس) اندرورد و ... (بفتسفسکتف) ایک قسم کی ازار چھوٹی کہ زانو تک ہوتی ہے اور شلوار کے اوپر پہنتے ہیں یا تنبان ہے – یہ کلمہ عجمی ہے کہ عربوں نے استعمال کر لیا
اندرون (بفتسفتس) جوان لوگ کہ ہر طرف سے شراب کے لیے جمع ہوویں
اندری (بفتسکت) ملاہ رسی –
اندساح (بسکفتس) ... میں گھس جانا
اندساس (بسکفتس) خاک میں پوشیدہ ہونا
اندعام (بسکفتسم) جواب دینا –
اندفاع (بسکفتس) بات میں جھگڑ ... ہونا تیزی سے چلنا گھوڑے کا ناگاہ آپہنچنا – اچانک آنا –
اندفاق (بسکفتس) ریختہ ہونا –
اندفال (بسکفتس) کھڑکی وغیرہ کا ...
اندقاق (بسکفتس) ... کا شکستہ ہونا
اندقام (بسکفتس) کسی پر ہلکا چلنا
اندکاک (بسکفتس) ہموار اور برابر ہو جانا
اندکام (بسکفتس) داخل ہونا –
اندلاث (بسکفتس) کسی سے آگے بڑھ جانا – بے فکر و تامل کسی کام میں داخل ہو جانا

ملاہ دفس ... دفق ... دفم ... دلک ... دکم ... دلث ۱۲

داخل ہونا یا گھر سے میں ۔
انشرام (کسکفس) بندھا ہوا ہونا ۔
انزواء (کسکفس) دور ہونا گوشہ
گزینی کرنی ۔ سکھال اقبارنی ۔
انزوال (کسکفس) جگہہ سے دور ہونا
انزعاف (کسکفس) چوپایہ کا دہشت
سے یا ہارنے سے اوچھلنا ۔
انزهاق (کسکفس) بہت کرنی
آگے ہوجانا ۔ کودنا چوپایہ کا دہشت
سے یا ہارنے سے اوچھلنا چوپایہ
کی دہشت اور اوسکا آگے ہونا ۔
انزهو (کسفس) تکبر کرنا ۔
انزهوة (کسفسف) عزت تکبر ۔
انزیاح (کسکفس) دور ہوجانا بجانا
الانس (فف) اپنے افسردگی ہے جاتا
کثیر ۔ وہ قبیلہ کہ کسی جا مقیم ہو آدمی
الانس (فف) الانسۃ (ففف)
الانس (ضس) رس میں کی کسی
کے ساتھ آرام کرنا ۔ ضد نفور ہونا ۔
الانس (مک) انس پکڑنیوالا ۔
الانس (ضس) خرمی ضد وحشت
الانس (کس) آدمی اسم جنس
موانس (ضسک) دوست گزیدہ ۔

الانسا (کسفسم) تاخیر کرنی پیچھے
ڈالدینا ۔ وعدہ کرنا وعدہ پیچھا ۔
الانساء (کسفسم) کسی کو ایک چیز
فراموش کرادینی جیسے انساہ ودایاہ ۔
الانساب (کسفس) ہوا کا سخت چلنا
اور اوسکا خاک اور کنکریون کو اوڑانا ۔
الانساخ (کسکفس) لکھوانا نسخ کرنا ۔
الانساع (کسفس) بادشمال کا چلنا
ہونا ۔ سلیہ کو کسیکا ریخ زیادہ ہونا ۔
الانساغ (کسفس) خاک کے پیر سے
نیچے نکال ڈالنا ۔ کاٹنے کے پیچھے درخت کا
پھر دوبارہ اگ آنا ۔ کوڑے سے زخمی کرنا
الانساق (کسفس) بات کو صحیح کہنا ۔
الانسال (کسفس) ہفنا پشم کا گرانا
پشم کو گرادینا ۔ صفیان گھاس کا
شاخون کو باہر نکالنا اور اونکو نیچے لٹکانا
۔ چوپایہ کا پشم گرادینے کا وقت پہنچنا
قوم پر سبقت پکڑنی ۔
الانسان (کسفس) آدمی واحد
جمع ومذکر ومؤنث اسمین یکسان ہے
الانسانۃ (کسفسف) بتانیث
یعنی عورت عامی لغت ہی اونگلیکا
سرا ۔ آدمی کا سایہ ۔ پہاڑ کا سرا ۔

انخلاق بالکسر مثل اخلاق کا بہر ہونا
انذعاب بالکسر پگھل جانا
انتفاج بالکسر مشک کا پھٹ جانا
انشیاف بالکسر دل کٹ جانا
انزلاع بالکسر کھرچا جانا
انتزاج بالکسر کوئیں کا پانی کھینچ لینا
اشک خشک ہو جانے یا کم آب ہو جانے
انزواء بالکسر سخت اور درشت
ہو جانا زمین کا سیل بہا لینا
انتزاع بالکسر نیزہ کا بدن سے
نکل جانا قوم کا نزاع لو مشغول ہونا
انتزاف بالکسر کوئیں کا سدا
پانی خشک ہو جانا بیہودہ مستعمل ہے
کوئیں کا پانی کھینچ لینا کسی کے
اشک کو نچوڑ نا بیہوش اور مست
ہو جانا چشمہ اور کوئیں کے پانی کا
جاتا رہنا قوم کی شراب کا منقطع ہونا
انزاق بالکسر چوپایہ کا دولتی
مارنی اور کودنا پھاندنا بہت ہنسنا
بیماری کے بعد سبکسار ہونا
انزال بالکسر نیچے کھینچنا نیچے
اتارنا آب مردمی سے جدا ہونا
انزباق بالکسر گھس جانا

انزمال بالکسر بکسو ہونا
انزجاج بالکسر رک جانا
انزعاب بالکسر پشکاری کا
گھاری میں چھپنا
انزلاق بالکسر گذر جانا جو کا
کندنا لگن کا پانی گھاس کی طرف جانا
انزلاق بالکسر چشمے کے بل
سونا پیچھے رہجانا اور گھٹی کی
تیر کا گذر جانا سوراخ میں گھسنا
پوشیدہ ہونا نیزہ کا پار ہو جانا
انزوت بالکسر اکیلا رہا اور خست
انزع بالفتح مرد جسکی پیشانی کی
دونوں طرف سے بال جاتے رہے
ہوں مونث اسکی زعراء بالفتح
جمع زعر بالضم حرکت
انزعاج بالکسر جگہ سے آرام ہونا
جگہ سے ادھر ہونا
انزعاق بالکسر رات کو دوڑنا
گھوڑے کا آگے گھوڑوں سے آگے
بڑھ جانا چوپایوں کا رفتار میں سرعت کی
انزقاب بالکسر جنگلی چوہے کا
سوراخ میں داخل ہونا
انزکاب بالکسر زمین پست میں

مادہ

انشقاق (کسفعل) صبح وغیرہ کا کھلنا
انسفاک (کسفعل) خون اور انسو کا بہنا
انسکاب (کسفعل) پانی وغیرہ کا بہنا
انسکاک (کسفعل) سیمین پیچیدہ ہونا
انسلا (کسفعل) سے غم ہونا ـ غم کا دور ہونا ـ جاتا رہنا ـ
انسلاب (کسفعل) تیز چلنا ـ
انسلات (کسفعل) کسی کا نکلنے چیز میں چلا جانا ـ کھسک جانا
انسلاخ (کسفعل) ایک چیز کا ایک چیز میں سے باہر آنا ـ مہینے کا گذر جانا ـ دن کا رات سے باہر آنا ـ سانپ کا کینچلی سے باہر آنا ـ
انسلاع (کسفعل) ایڑی کا پھٹ جانا
انسلال (کسفعل) ایک چیز میں سے پوشیدہ باہر نکلنا آہستہ آہستہ نکلنا
انسماح (کسفعل) جواں مرد ہونا ـ
الانسی (فُسنی) لنا کا وہ رگ مین ـ اور ساق ... ایک رگ ہے
آلانسی (فعلی) الانسی (کسفعلی) ایک آدمی ـ اناسی (فعالی) اناس (فعال) ـ انس جمع
الانسی (کسکت) ضد وحشی ... ہر چیز کی ـ شکل کمان کہ اسکا رخ کھینچنے والے کی طرف ہے اور اصمعی کے نزدیک ہر چیز کی جانب راست اور کہتا ہے کہ انسان میں معہری چیزیں ہیں اور ان میں جو آگے کو ہے وہ انسی کہلاتی ہے اور جو پیچھے کو ہے وہ وحشی کہلاتی ہے ـ
انسیاء (کسفعل) اطراف پستان میں دودھ کا جمع ہو آنا ـ
انسیاب (کسفعل) سانپ وغیرہ کا تیز چلنا ـ اور الٹا پھرنا ـ
انسیاح (کسفعل) دل کا فراخ اور کشادہ ہونا ـ پیٹ لٹک پڑنا اور قریب کی نزدیک پہنچنا ـ پانی کا زمین پر روان ہونا ـ گندنا ـ پھٹ جانا ـ
انسیاع (کسفعل) پانی کا ہر طرف جانا
انشاف (کسفعل) خربزے کے پھول سرے کا پراگندہ ہونا اور ریشہ ہو جانا
انشیاق (کسفعل) ہانکا جانا ـ
انشاء (کسفعل) باہر نکلنا ـ پیدا کرنا پرورش کرنا ـ بڑھانا ـ پھیلانا ـ ایک چیز کا شروع کرنا اور اس میں داخل ہونا ـ حاملہ ہونا اونٹنی کا ـ گھر کی بنا کو پیدا کرنا ـ ابر کو بلند کرنا ـ حدیث وضع کرنی اور

ضمہ زرع زمین سے آنکھ کی پتلی سیدھ
آنا سبز رفتہ رفتہ ارج
اَلْاِنْسِبَاءُ رکسکفس پوست کا اترنا
اَلْاِنْسِبَاتُ رکسکفس بیدار ہونا خم
ہونا سے ... ہونا ـ سماوسی ـ
اَلْاِنْسِتَارُ رفقہ شے کا اضطرار کی الفت
الانستہ رکعف لڑکی نیک ذاتی ـ
الانشجاج رکسکفس بچہ اتو کی کسی ـ
الانشمار رکسکفس تیزی پیوستہ چلنا
بالوں کا لٹکا ہوا ہونا ـ
الانسحال رکسکفس پانی کا ریختہ ہونا
الانشمام رکسکفس اشتو وغیرہ کا سونگھنا
الانسحاب رکسکفس کھینچا جانا ـ
الانسلاخ رکسکفس چھیل جانا اور
پوست کا کھل جانا ـ
الانشطار رکسکفس ہاتھ میں سے
پھسل کر گر پڑنا اور پرسے ایک چیز
لٹک کر اور پھر اوسکو ہاتھ سے پکڑ لینا
الانسحاق رکسکفس گھسا ہوا ہونا
اونٹنی کی پستان پر شیر کا خشک ہونا
فراخ ہونا کشادہ ہونا ـ
الانسحال رکسکفس کلام جاری
کرنا ... ہوا گھسا ہوا ہونا گھسا

اور ٹکڑا ہو جانا درم کا پوست کا کھل جانا ـ
الانسلاج رکسکفس ... گر پڑنا
الانسراح رکسکفس پیٹ یا چت گر پڑنا
الانشراح رکسکفس اچھا ہوا اور
خم ہوا اچھا ہو جانا ـ
الانسدار رکسکفس بستہ ہو جانا ...
الانسدال رکسکفس بالوں کا لٹکا ہوا
ہونا سر ... ہونا ـ
... پیوستہ چلنا ... ـ
الانسدال رکسکفس کپڑے ...
بالوں کا لٹکا ہوا ہونا ـ
الانسدام رکسکفس زخم کا اچھا ہونا
الانسراء رکسکفس غم کا دور ہونا
الانسراب رکسکفس سوراخ میں گھسنا
ایک چیز کا لینا ہونا ـ
الانسراط رکسکفس آسانی سے
گلے میں اتر جانا ـ
الانسراق رکسکفس ... سست ہونا
الانسطاح رکسکفس چت لیٹنا ہونا
اور حرکت کم کرنا ـ
الانسعاب رکسکفس پانی کا جلدی بہنا
الانسفار رکسکفس سر کا بالوں سے
صاف ہونا اور لوگوں کا چلا جانا ـ

مادہ

اِنشِرام (ک س ک ف س) بہت پھٹا ہوا ہونا
اِنشِطاع (ک س ک ف ض) پراگندہ ہونا
اِنشِطاب (ک س ک ف س) پانی کا روان ہونا
اِنشِعاب (ک س ک ف س) پراگندہ ہونا۔ درخت کا شاخ دار ہونا۔ راہ کا شاخ شاخ ہونا۔ مرجانا۔ آپس میں دور ہونا۔ اچھا ہو جانا۔ چنگا ہو جانا۔
اِنشِغاع (ک س ک ف س) بھیڑیے کا بکریوں میں لوٹ ڈالنا۔
اِنشِقاق (ک س ک ف س) لکڑی وغیرہ کا شگافتہ ہونا۔ کام کا متفرق اور پریشان ہونا۔ برق کا ابر سے ظاہر ہونا۔ صبح کا کھلنا
اِنشِلال (ک س ک ف س) ہانکا جانا۔ سیل کا بہہ نکلنا۔
اِنشِمار (ک س ک ف س) سرعت سے چلنا یا چلنے میں سُکنا۔ ایک کام کے لیے آمادہ ہونا۔ گھوڑے کا تیز چلنا
اِنشِماص (ک س ک ف س) ڈرنا۔ خوفناک ہونا
اِنشِمال (ک س ک ف س) دامن سمیٹنا۔ سرعت کرنی۔ گھوڑے کا تیز چلنا۔
اِنشِناج (ک س ک ف س) پوست کا سمٹ جانا
اِنشِواء (ک س ک ف ض) بھنا ہوا ہونا۔
اُنشُوطہ (ض س ض ف) گرہ جو آسان کھل جاوے جیسے ازار وغیرہ کی گرہ۔
اِنشِیاع (ک س ک ف س) پھیلا ہوا ہونا
اِنشِیال (ک س ک ف س) پتھر وغیرہ کا بلند اور اٹھا ہوا ہونا۔
اِنشِیام (ک س ک ف س) ایک چیز میں داخل ہونا۔ منظور نظر ہونا۔
اَنصاء (ف س ف ض) پیشانی کے بال پکڑنے
اَنصار (ف س ض م) [illegible] کا بہت افضل ہو جانا
اَنصاب (ف س ض) پتھر کہ کعبہ کے گرداگرد قائم کرتے تھے اور ان کو پوجتے تھے اور ان پر ذبح اور قربانی کرتے تھے۔ نُصب (ض ف) کی جمع۔ انصاب الحرم حرم کی حدیں
اِنصاب (ک س ک ف) کسی کے لیے حصہ قرار دینا۔ شے کا کسی کو مانند کر دینا۔ رنج پہنچانا۔ بیماری کا مشقت کرنا۔ چھری کے لیے دستہ کرنا۔
اِنصات (ک س ک ف) خاموش رہنا۔ کان لگانے خاموش کرنا۔ بازی میں سُست کرنا۔ میلان کرنا۔
اِنضاح (ک س ک ف) پیٹ بھر کر اونٹوں کو پانی پلانا۔
اِنصاع (ک س ک ف) اونٹنی کا سامنے [illegible]

ن ش ر م
ن ش ع
ن ش ط ب
ن ش ع ب
ن ش غ ع
ن ش ق
ن ش ل ل
ن ش م ر
ن ش م ص
ن ش م ل
ن ش ن ج
ن ش و
ن ش ط
ن ش ع
ن ش ی ل
ن ش م
ن ص و
ن ص ر
ن ص ب
ن ص ت
ن ض ح
ن ص ع

کھی نی یعنی لپٹنے دل سے ہٹانی۔
انشاحو رکسفتح ایکچیز کی جوہانی۔
انشاط رکسفس ایستہ کردینا آگرہ کھینچ
کردینا۔ نادانی کرنا۔ ہوا کا سخت چلنا
اور خاک اور کنکری کو اوڑانا۔ شکاری کا
شکار کو جال میں پھسانا۔
انشاد رکسفتس گم کیے ہوسے کے
نشان بیان کرنے۔ گم ہو گئے ہوئے
کے نشان دریافت کرنے۔ نشانات
اشعار سے ہی شعر پڑہنا ہجو کرنی۔
انشار رکسفس زندہ کردینا۔
انشاز رکسفس مردہ کی ہڈیوں کو
اونکے ٹہکانوں میں اوٹھانا اور اونکے
بعض کو بعض کے ساتھ ترکیب دینا۔
ایک چیز کو اوسکی جگہ سے اوٹھانا۔
انشاص رکسفس ایکجگہ سے اوٹھانا
انشاط رکسفس نزدیک گہر کو اون
کے جسمین سے ڈول یا کشش میں نکالنا
انشاط رکسفس چارہ کا چوپایہ
کو موٹا کردینا۔ یا انشاط چوپایہ والا
ہونا۔ یا مرد کا خوش دل ہونا۔ سانپ کا
کاٹنا۔ گرہ کھولنی۔ یا رسے بندش ان
کی گرہ دراز کرنی۔ ایک چیز کو اوچک لیجانا

مضبوط کرنا۔ رسے قصد اونٹوں کو پکڑنا اور کھینچنا
انشاع رکسفس تالو اور سر میں اور
ناک میں دوا ٹپکانی۔ فال گنگی دودہ کی
انشاغ رکسفس یکسو ہونا۔
انشاف رکسفس اونٹنی کا بعد بچہ پیدا ہونے
کے رکھنا۔ حلالی کہلانی۔
انشاق رکسفس ہرن کو جال میں
پھسانا۔ نشوق کو سنگھانا اور ناک میں ڈالنا
انشاب رکسفس کام کا پراگندہ ہونا
انشار رکسفس آنکھ کا اوسکے
پپوٹے کا ہونا۔
انشحا رکسفس کسی کو نظر لگنی
سے خراب ہونا۔
انشحاب رکسفس معدہ کا دوڑا جانا۔
انشراح رکسفس دونوں پاؤں
کہولے رکھ کر چت لیٹنا۔
انشداخ رکسفس کھوکھلی چیز کا ٹوٹ جانا
انشراب رکسفس ہاتھ سے کسی چیز
کا ڈالنا اور چھپا ہوا ہونا۔
انشراج رکسفس جمع سے غیرہ کا پھٹ جانا
انشراح رکسفس کشادہ ہونا۔
انشراق رکسفس کمان وغیرہ
کا چرا پھٹا ہونا۔

انضاب (کسفس) کمان سے چلہ کر کھینچنا تاکہ آواز کرے ـ تناقض کا تعدیہ

انضاج (کسفس) کسی کی آبرو کو زشت کر دینا اور آلودہ کر دینا کھیت کے مادہ کا آسے بھرا ہوا ہونا ـ

انضاد (کسفس) تازہ سوکھی کر دینا

انضاض (کسفس) حاجت روائی کر لینی ـ جھاسپے کا بکری اور بھیڑ کے بچے کو تھوڑا تھوڑا دودھ پلانا ـ

انضاف (کسفس) ہمیشہ منہ کھانا گوز مروانا ـ شتنی کا بچہ دوھنا ـ اونٹنی کو بچہ دوشرانا ـ

انضال (کسفس) لاغر و ماندہ کر دینا

انضباح (کسکفس) آگ سے کسی چیز کا تھوڑا سا رنگ بدلجانا ـ

انضباط اسکا پتا نہیں ـ

انضجاع (کسکفس) پہلو پر سونا

انضر (کسف) تازہ اور آبدار چمکدار چاندی ـ سونا ـ

انضرار (کسکفسم) ہلاک ہونا لاغرنا بن کا خشک ہوجانا ـ

انضراج (کسکفس) شگافتہ اور کشادہ ہونا قوم کے درمیان عداوت اور جدائی ہونی ـ عقاب کا شکار پر اوتر نا یا عقاب کا ایک طرف میں شکار کو پکڑ لینا شگوفہ کا غلاف شگافتہ ہو جانا افق کی طرف سے برق کا منتشر اور پراگندہ ہونا

انضفار (کسکفس) دو پہلو کا آپس میں ملنا

انضلاخ (کسکفس) اچھی طرح میں عمدہ ہونا

انضمام (کسکفس) جمع ہو آنا ـ پسلی کمر کا ہونا ـ

انضناط (کسکفس) کو میں وغیرہ میں الزدحام کرنا بھیڑ لگانی ـ

انضواء (کسکفسم) کسی چیز کی طرف مائل ہونا ـ میلان کرنا ـ

انضیاج (کسکفس) افراخ ہونا ـ

انضیاع (کسکفس) چوزہ کا آواز اور فریاد کرنا ـ اور اپنے دونوں بازو کو ماں کے آگے کھولنا تاکہ وہ اوسے چوگا دیوے ـ سنکے کا روئے کے لیے آمادہ ہونا اور آواز کرنی

انطا (رفت) سفر دور دراز بعیطار جمع

انعاء (کسفسم) بخشنا ـ

انعاف (کسفس) کسی کو متہم کرنا

انعاق (کسفس) گویا کر دینا اور بات کرانی ـ

[illegible]

| ماده | | |
|---|---|---|
| نصف | کے سبب ثابت رہنا کسی کے حق کا اقرار کرنا اور اسکو ادا کرنا - بدی کے لیئے آمادہ ہونا - بدن کے بال برابر کرنے - دل کی چیز کو آشکار کرنا - جنگ کا قصد کرنا - مستعد ہونا - | انفلات (کسکفس) رفتار میں آگے نکل جانا اور سبقت کرنی - |
| نصلع | انصاف (کسکفس) داد دینی - راستی کرنی - دن وغیرہ کا آدھا گزر جانا - خدمت کرنی - آدھے دن تک چلنا - سیر کو سیر کرنا - ایک چیز کا نصف لینا - برعکس | انصلاع (کسکفس) آفتاب کا اوپر چڑھ آنا یا آسمان کے بیچوں بیچ پہنچنا - یا زمین سے باہر نکلنا - |
| نصم | انصال (کسکفس) تیر میں پیکان لگانا - تیر اور نیزہ میں سے پیکان باہر کھینچنا لغات اضداد سے ہے - ہری گھاس کا کاٹنے نکال لانا - | انصمام (کسکفس) برداشتہ ہونا انصمی [illegible] - انصیاع (کسکفس) غصہ میں چلا جانا انصیاب (کسکفس) چیز کا بدل جانا انصیات (کسکفس) قد کا سیدھا ہونا - پوشیدہ چلا جانا - مشہور ہو جانا بڑی عمر کا ہو جانا - |
| ٤٢٨ صوف | انصب (صفت) سینگ کھڑا ہوا گائے - | انصیاح (کسکفس) چاند کا روشن ہونا - پھٹا ہوا ہونا - |
| صبب | انصباب (کسکفس) ریختہ ہونا - | انصیاخ (کسکفس) زمین میں گھس جانا |
| صبغ | انصباغ (کسکفس) پھر جانا - | انصیار (کسکفس) کج ہونا - |
| صدع | انصداع (کسکفس) شگافتہ ہونا | [illegible] ہونا شکستہ ہونا - |
| صر | انصر (صفت) ختنہ نکیا ہوا مرد - | انصیاع (کسکفس) پراگندہ ہونا |
| صرح | انصراح (کسکفس) ظاہر و آشکار ہونا | اور [illegible] پاؤں پھر جانا - جلدی گزرنا |
| صرف | انصراف (کسکفس) پھر جانا - کسی طرف | انصیاغ (کسکفس) آمادہ ہونا سانچے میں ڈھالنا - ایک چیز کا |
| صرم | انصرام (کسکفس) رسی کا کٹنا ہوا اور منقطع ہو جانا - | انضاء (کسکفسم) لاغر کر دینا |
| صفق | انصفاق (کسکفس) پھر جانا - | کسی کو لاغر چوپایہ - کپڑے کو پرانا کر دینا |

انغاط (رکسنفس) کھاتے وقت لقمہ دانتوں سے کا ملنا۔
انغاط (رکسنفس) [illegible] عورت اور مرد کا جماع کے لیے [illegible] ہونا۔ مادہ چوپایہ کا سانڈ کی نہایت اشتیاق کے سبب فرج کو کھلا ہوا رکھنا
انعاف (رکسنفس) غلاف پر بیٹھنا۔
انعال (رکسنفس) چوپایہ کے پاؤں نعل باندھنا۔ بہت نعل والا ہونا مرد کا [illegible] اور رسغ اسپ کے درمیان کی سپیدی جب تک کہ رسغ سے آگے نہ بڑھے اور جب رسغ سے آگے بڑھ جاوے اوسکو [illegible] کہتے ہیں
انعام (رکسنفس) انعم اللہ بک عینا یعنی نعم اللہ بک عینا۔ ایک امر مین مبالغہ کرنا۔ انعم اللہ صباحک یعنی خداوند تعالی تیری صباح کو فراخ اور خوش کرے۔ نعمت دینی زیادہ ہونا کسی کے پاس سے نکلے پاؤں [illegible] آنا نعم کہنا منزل کا اور [illegible] والوں کو آرام و آسودگی سے رکھنا
انعتال (رکسنفس) [illegible] زن کے درمیان سے گوشت [illegible]

[illegible] کھینچا ہوا اور تنا ہوا ہونا۔
انغدال (رکسنفس) بھر جانا۔
انعراج (رکسنفس) مغرب کی طرف آفتاب کا جھکنا اور میلان کرنا۔
انعزال (رکسنفس) گوشہ قبول کرنا [illegible] ہونا یکسو ہونا۔
انعشاش (رکسنفس) [illegible] پیوند کو قبول کر لینا۔
انعصاب (رکسنفس) سخت ہونا
انعصار (رکسنفس) [illegible]
انعصام (رکسنفس) [illegible] سے [illegible] رہنا باز رہنا۔
انعطاط (رکسنفس) لمبائی میں [illegible] ہونا کپڑے کا۔ لکڑی کی [illegible] شکستگی ظاہر کے دوہرا ہونا۔
انعطاف (رکسنفس) دوہرا ہونا پھر جانا خم قبول کرنا۔
انعطان (رکسنفس) پوست کا دباغ مین رکھا جانا اور [illegible] پانی چھڑکنا تاکہ بدبو اور نرم ہو جاوے اور پشم [illegible] جاوے۔
انعفار (رکسنفس) خاک آلودہ ہونا خاک پر لوٹنا زمین پر [illegible] مارا ہوا ہونا۔

مادہ [illegible]

۱۲

انطباخ (بکسفس) پکا ہوا ہونا —
انطباق (بکسفس) موافق برابر ہونا
انطلاح (بکسفس) پھیلا ہوا اور کشادہ اور فراخ ہونا —
انطفاء (بکسفس) آگ کا بجھنا —
انطلاس (بکسفس) کام کا پوشیدہ اور مشتبہ ہونا —
انطلاق (بکسفس)
انطلاء (بفتحف) سختیاں —
انطلق (بکسفف) گیا چہرہ کشادہ ہوا — امر کا صیغہ ہے —
انطماس (بکسفس) ناپدید ہو جانا پوشیدہ ہونا خط کا مٹ جانا —
انطمال (بکسفس) اچھے دوں کے ساتھ مشارکت کرنی —
انطیاد (بکسفس) ہوا میں اوپر کی طرف جانا اوڑنا —
انطیار (بکسفس) شگفتہ ہونا —
انطیاع (بکسفس) فرمانبردار ہونا —
انطیاح (بکسفس) خوشے میں آٹے کا پیدا ہونا —
انظار (بکسفس) کان لگانے پچھاڑی ہٹا دینا زمانہ اور مہلت دینی

انظام (بفتحفس) ہنیخ انتظام کی کسی چیز میں جیسے پرونا سا اور پر تلے جما ہوا رہنا —
انعام (بکسفس) ایک قسم کے گھاس کی دم سے کان تک ڈھیلے ہوتے ہیں اور ان کو انعامات کہتے ہیں —
انعلام (بکسفس) عالم ہونا اور بدنا ہونا گوشت کی
انظور (بفتحفس) بعض عرب کے نزدیک بہ معنی انظر (بسفس) میں بھی دیکھتا ہوں میں —
انظومة (بضمسف) بمعنی انعام —
انعات (بکسفس) خوب بعد ہونا ایسا کہ وصف کے لائق ہووے —
انعاق (بکسفس) مال میں اسراف کرنا سفر کے ساز و سامان کی تہیہ میں لگنا —
انعاث (بفتحفس) جمع نعث —
انعات (بکسفس) پھیلنے اور خون نے اس میں کھینچا —
انعاج (بکسفس) اموال ہونے اونٹوں والا ہونا قوم کا —
انعاح (بکسفس) اراک کا پھل پک آنا —
انعاس (بکسفس) سست اور سست کرنے فرزند جننے کسی کو سلانا —
انعاش (بکسفس) اوٹھانا —

انفیا ... [illegible] ... کا نام
ہو جانا اور اوسکا زمین میں گھس جانا
انفیا ... کسی شخص کا ... ہو جانا
آنف رفس ناک سردار قوم ... [illegible]
پہاڑ کا باہر کو نکلا ہوا حصہ ... [illegible]
بہت سخت کنارہ روٹی کا اور اوسکا
ٹکڑا اسکا کنارہ اور ... کے سم کا چکنی
زمین کہ اوسپر آنا ... ہے —
انف رفس ارنص ناک پر مارنا
ناک تک پہنچ جانا پانی کا حوض میں —
چھپا یہ پہری ... اور ... کا پیالہ
کرنا — انف رفس آنا ...
آنف رفس ... —
انف فی السماء و است فی ...
الماء یعنے ناک تو آسمان میں ہے
اور چوتڑ ... بیٹھنے کی جگہ پانی میں
یعنے زمین سے بھی نیچے ہیں اوس
شخص کے حق میں کہتے ہیں کہ جو
بہت ... اور اوسکے موافق کام نکر ...
اَنُف الدہر سختی زمانہ —
انف المطر وہ جو مینہ پہلے ہی
ہیل ... گھاس کو —
انف الناب کچلی کا ... نکلتا ...

انف رفس ... [illegible] ... ڈنبیا نا اور ... کا
نیا کام کہ کسی نے نکیا ہو ... [illegible]
... یہ ... سے ... —
الف زنف الفہ زنفف ... [illegible]
عار رکھنا ... ہونا ... [illegible]
کرنا کسی کیطرف ... اور ... کا
کی ناک کا مہار کی ... [illegible]
اور منقاد ہو جانا ... آلفت ... آنف
رکف ... صیغہ ... ہو اور ... [illegible]
چاہتا ہے کہ ... رفس ... [illegible]
جیسا معقود ... جسکے ... میں ...
اور مبطون وہ جسکے پیٹ میں ...
اور علی ہذا القیاس ... جسد میں ...
... کہتے ہیں —
انقا رکف انقاز ... اب —
انفاج رکسفس ... کا پستان
سے دودھ ... کے وقت جدا کرنا
خرگوش کا ... العدو ... —
... کرنا —
انفاد رکسفس ... ابر کردینا
قوم کا ... اور ... ہونا
... کے پانی کا ... جانا —
انفاذ رکسفس ... [illegible]


ج

انفحاص (کسر ف س) خاک میں گڑھا ہونا
انفخاق (کسر ف س) امور میں [illegible] اور سرعت کرنی۔
انقفار (کسر ف س) بستہ ہونا۔
انقفاد (کسر ف س) پانوؤں اور زمین کے سبب پشت ریش ہو جانا چارپایہ کا
انقفاف (کسر ف س) کج [illegible] ہو جانا۔
انعقاق (کسر ف س) غبار کا اوپر چڑھنا۔ گرہ کا بستہ اور محکم ہونا۔ اسپ [illegible] سے رک رہنا۔ پیشاب ہوا اور [illegible] ہوا ہونا یعنی انشقاق۔
انعکاس (کسر ف س) پھرا ہوا ہونا یکسر قبول کرنا۔
انعماد (کسر ف س) ستون پر کھڑا ہونا۔
انعمان (کسر ف س) معدودی زمین [illegible] وہ دونوں الخمر اور [illegible] قبل میں۔
انعواج (کسر ف س) خم ہونا۔ کمان [illegible] حلقہ یعنی شتر کا [illegible] ہونا۔
انغلاج (کسر ف س) ایسی پہیلیاں کہنا
انغاء (کسر ف س) ایسی بات کہنی جو سمجھی جا وے۔
انغاص (کسر ف س) زندگانی کو کسی مکدر کر دینا۔ حرکت کرنی اور مضطرب

ہونا تعجب دینی۔ تعجب سے سر کو حرکت دینی
انغال (کسر ف س) پوست کو خراب اور تباہ کر دینا۔ لوگوں کے درمیان تباہی اور خرابی ڈال دینی۔
انغراف (کسر ف س) قطع کیا جانا۔
انغماس (کسر ف س) غوطہ کھانا۔
انغسال (کسر ف س) جاری ہو جانا
انغضاض (کسر ف س) آنکھوں کا [illegible] جا کر بند جانا۔
انغضاف (کسر ف س) غبار میں داخل ہونا۔ کوہ میں شکستہ ہونا۔
انغفاء (کسر ف س) شکستہ ہو جانا۔
انغلال (کسر ف س) داخل ہونا۔
انغمار (کسر ف س) پانی میں [illegible] چھپ جانا
انغماس (کسر ف س) پانی میں [illegible] گھسنا
انغماض (کسر ف س) آنکھ کا بند ہو جانا
انغمال (کسر ف س) پوست کا نرم اور بدبو اور [illegible] ہو جانا۔
انغمام (کسر ف س) غمگین ہونا۔ ایک چیز کا [illegible] جانا۔
انغمان (کسر ف س) زمین میں گھسنا اور لوگوں میں داخل ہونا۔
انغیار (کسر ف س) پیچھے [illegible] رہنا

علامات اعراب ضمہ کسرہ فتحہ ضمہ فتحہ کسرہ سکون تشدید

انفتاح (کسکفس) کشادہ ہونا۔
انفتاق (کسکفس) اونٹنی کو پستان اور ناف کے درمیان کی بیماری لاحق ہونی اور اکثر اس سے مر جاتی ہے۔ کشادہ اور شگافتہ ہونا۔ عورت کا کشادہ کس والی ہونا۔
انفتال (کسکفس) تافتہ ہونا۔
انفتاث (کسکفس) شکستہ ہو جانا۔
انفجاج (کسکفس) دو قدم کا کشادہ ہو جانا۔
انفجار (کسکفس) آخر شب کا سپید ہو جانا۔ چشموں کا ہر طرف سے پھوٹنا۔ صبح کا روشن ہو جانا۔ پانی کا جاری ہونا۔ جوانمردی کرنی۔
انفجالی (فسفسکت) ہو لنے والا یا وہ بکنے والا بیہودہ بکنے والا۔
انفحاج (کسکفس) فراخ ہو جانا۔
انفحہ (کسفعف) ایک زرد رنگ چیز ہے کہ مچھلی اور بھیڑ کے بچے شیر خوار کے پیٹ میں نکلتی ہے اور اوسے پنیر کے ٹکڑے میں او سماتے ہیں پھر کلدار اور خشک ہو جاتی ہے جیسے پنیر کی مانند اور بعض کے نزدیک انفحہ بکری اور بھیڑ کے بچے کی کہ جس نے

ابھی گھاس نہ کھائی ہو اوجھ ہے انافح (فسکفع) جمع۔ درخت بادنجان یعنی بیگن کے مشابہ ایک درخت ہے۔
انفحات (کسکفس) چھت کا سوراخ یا روشندان۔
انفحال (فسفعفس) مرد جو موٹا پیٹ سے پر گوشت ہو انفحانہ مونث۔
انفحانی (فسفسکت) یعنی انفحان (فسفعفس) انفحانیہ (فسفسکت) مونث۔
انفداع (کسکفس) جوڑ کے ہاتھ پاؤں کا گٹا ٹیڑھا ہونا۔
انفداغ (کسکفس) خشکی کے سبب نرم اور فرو ہشتہ ہو جانا۔
انفشاج (کسکفس) اونٹنی کا پیشاب کرنے کے لیے پاؤں کو کشادہ وعدد دور کرنا۔
انفراک (کسکفس) کھل جانا اور سنوار جانا۔
انفراش (کسکفس) حاملہ عورت کا دل گھبرانا اور متلانا۔
انفراج (کسکفس) رخنہ اور شگاف ہونا۔
انفراد (کسکفس) اکیلا ہو جانا اکیلا نکال لانا ایک کام کو اکیلا کرنا۔
انفراک (کسکفس) ملا ہوا ہونا۔

ماده
فتح
فتق
فتل
فتث
فجج
فجر
فجل
فحج
فحح
فحم
فحی
فدع
فدغ
فشج
فرک
فرش
فرج
فرد
فرک

معاملہ کیا ۔ نامہ اور فرمان کو بھیجنا اور [illegible] کرنا یا قوم میں رہنا یا قوم کو چھوڑ کر اوسکے وسط میں داخل ہونا قوم سے گذرنا اور اوسکا اختیار کرنا تیر وغیرہ کا ایک چیز پر گذار دینا ۔

**انفار** رکسفعس) کسی پر غلبہ کی راہ سے حکم کرنا ۔ بہکانا ۔ نفرت کرنی ۔ دور دیکھی لینا کھینچنا ۔ بھاگنے والے اور متنفر اور نفرت والا ہونا ۔

**انفاز** رکسفعس) تیر کو ناخن پر پھرانا تاکہ اوسکی کجی اور راستی معلوم ہوجاوے بچے کو کودانا ۔

**انفاش** رکسفعس) تعجب میں لانا کسی کو ایک کام میں ترغیب لانی ۔

**انفاش** رکسفعس) رات کو چرائی پر چوپایے کو رکھنا ۔

**انفاص** رکسفعس) خشاب یا [illegible] کھینچی بہت ہنسنا ۔ گوسپند کا بار بار پیشاب کرنا لب سے اشارہ کرنا ۔

**انفاض** رکسفعس) جھاڑ دینا [illegible] کانٹے دینا قوم کا درویش اور محتاج ہو جانا اور اونکے چوپایوں کا مرجانے اور توشہ کا ختم ہوجانا یا توشہ کا

نیز ہو دینا ۔ گوسپند کا بار [illegible] ہونا ۔

**انفاط** رکسفعس) کام کا [illegible] آبلہ ڈال دینا یا اوسمیں [illegible] بکری کا پیشاب کرنا ۔

**انفاع** رکسفعس) [illegible] کی چیزوں کی تجارت کرنی ۔

**انفاق** رکسفعس) درویش ہو جانا ۔ مال کو نیز ہو دینا ۔ زن و فرزند کے لیے نفقہ روزمرہ مقرر کر دینا ۔ مال کا آخر ہونا ۔ قوم کا رائج بازار والا ہونا [illegible] سطح بازار سبب [illegible] کے سبب گندہ اور منتشر ہو جانا ۔ درخت اور سلعہ کو رواج دینا ۔

**انفال** رکسفعس) غنیمت دینا ۔ اور [illegible] کے واسطے قتاد کاٹنے کے لیے [illegible]

**انفان** رکسفعس) اونچی ناک والا ۔

**انفاہ** رکسفعس) تھکا دینا ۔ کسی کو اوسکے مال سے کم دینا ۔

**انفہ الشئ** ہر چیز کا شروع اور اول

**انفۃ الصلوۃ** نماز کی پہلی تکبیر ۔

**انفۃ الصبی** لڑکے کے [illegible] بننے کی تیزی اور اوسکا شروع ۔

**انفتات** رکسفعس) زیر ہونا ۔

نفذ نفر نفز نفس نفش نفص نفض نفط نفع نفق نفل نفن نفہ نفت

نہایت کوشش سے چلنا۔
انفاش (کسر الف) کشادہ ہونا۔
انفعال (کسر الف) ایک کا [illegible]
انفغار (کسر الف) دہن کا کشادہ
ہونا۔ غنچہ کا کھلنا۔
انفغام (کسر الف) زکام کی بستگی
کھل جانی اور سکا اچھا ہو جانا۔
انفقاء (کسر الف) آنکھ کا اندھا ہونا
[illegible] کا [illegible] ہو جانا۔
انفقاس (کسر الف) بلّی کا
[illegible] جانا
انفقاع (کسر الف) شگافتہ ہونا
انفقاء (کسر الف) ایک چیز کا
فساخ اور کشادہ ہونا۔
انفکاک (کسر الف) پاؤں کا
کھوا اپنی جگہہ سے اوتر جانا
بیچ کشادہ ہونا اور آپس سے جدا
ہونا۔ آزاد ہو جانا۔
انفلات (کسر الف) گذر جانا [illegible]
انفلاص (کسر الف) [illegible]
انفلاع (کسر الف) پھٹ جانا۔
[illegible] ہوا ہونا۔
انفلاق (کسر الف) شگافتہ ہونا

[illegible] طرف متوجہ ہو جانا
انفلال (کسر الف) [illegible]
[illegible] لشکر کا ہزیمت پانا
انفہاق (کسر الف) برق وغیرہ کا [illegible]
انفی (ضم الف) [illegible] الف کی طرف
منسوب ہے [illegible] الانف مرد با ننگ وعار
[illegible] غصہ [illegible] ہو گیا [illegible]
[illegible] طرف سے پیچھے [illegible]
یعنی [illegible] طرف متوجہ ہونا۔
[illegible] یعنی وہ اوسکی [illegible]
ہے اور [illegible] پیچھے چلا جاتا ہے۔
انفیاح (کسر الف) کشادہ ہونا۔
شگافتہ ہو جانا۔
انفیاد (کسر الف) تنہا ہونا۔
انفیاق (کسر الف) [illegible]
[illegible] جانا اور [illegible] جانا [illegible]
انق (فتح) شادی [illegible]
انق (فتح) خورش وشادمان
ہونا۔ ایک چیز کو دوست رکھنا کسی
چیز سے اچنبھا کرنا۔
انق [illegible] خوشنما۔
انقاء (کسر الف) برگزیدہ [illegible]
قریب ہونا [illegible] ہو جانا

ٹھنڈ سے کا سست ہو جانا ـ کپڑے
کا اپنی جگہ سے اتر جانا ـ
انفراج (کسکفس) کشادہ ہونا یا ہو جانا
انفس (ن) المال بالکسب
نے ہاتھ کو اٹھایا یہ ...
انفساح (کسکفس) جگہ کا
فراخ ہونا ـ جگہ کا کشادہ ہونا ـ
انفساخ (کسکفس) ارادہ
بیع اور نکاح وغیرہ کا ... کر دینا
انفساق (کسکفس) رطب کا
پوست سے باہر نکلنا ـ
انفشاخ (کسکفس) اونٹنی کا
میں یا ... دوسرے
سے ... اونٹنی کا
سبب سے کشادہ پا رہنا ـ
انفشاش (کسکفس) ہوا کا
میں سے باہر نکلنا ـ ایک کام
سست اور کاہل ہونا ـ سوجن
کا دب جانا یا پچک جانا ـ
انفشاط (کسکفس) شکستہ ہونا
انفشلاغ (کسکفس) آشکار
ہو جانا ـ زیادہ ہونا ـ
انفصار (کسکفس) ایک چیز سے

رگ کی خلاصی پانی کا
انفصاد (کسکفس) ہر رگ و درخت کی
آنکھ مشتق ہونی اور اس میں سے
کسی چیز کا بہنے لگنا
انفصاص (کسکفس) جدا ہونا
انفصال (کسکفس) خلاف میں سے
سرزد کر کا باہر ہونا ـ
انفصال (کسکفس) جدا ہونا ـ
انفصام (کسکفس) شکستہ ہونا
منقطع ہونا کٹا ہوا ہونا ـ
انفضاج (کسکفس) بال کی جڑ کا
پسینا کر آنا ـ چہرہ کا کشادہ ہونا
افق کا پیدا اور ظاہر ہو جانا ـ ناف کا
فراخ ہو جانا ـ دل میں جو کچھ ہو
بہہ نکلنا ـ کام کا سست ہونا ـ
انفضاخ (کسکفس) زخم وغیرہ کا
کشادہ اور فراخ ہونا ـ سست ہونا ـ
دل کا پانی کو بہانا ـ
انفضاض (کسکفس) شکستہ اور
ریزہ ہونا ـ منتشر اور پراگندہ ہو جانا ـ
انفطار (کسکفس) شگافتہ ہونا
انفطاس (کسکفس) ...
انفطام (کسکفس) کسی چیز سے کٹ ...

انقباء (کسکفس) پوشیدہ ہو جانا۔
انقباص (کسکفس) گھوڑے کے نوکر کا سکڑا ہوا ہونا۔
انقباض (کسکفس) سکڑا ہوا اور سمٹا ہوا ہونا جمع ہو آنا۔ جانا۔ دوڑنا۔ منقبض ہونا۔ ضد انبساط۔
انقباع (کسکفس) پنہاں ہونا۔ پرندہ کا گھونسلہ میں داخل ہونا۔
انقحام (کسکفس) اپنے اندیشہ اکیلا کام میں داخل ہونا سختی میں پڑ جانا۔
انقحر (کسکفس) بڑی عمر کا اونٹ۔
انقحل (کسکفس) خشک بدن کا بڈھا بدحال بہت پرسن کا بڈھا۔
انقحز (قنفذ) تھوڑے دماغ کا شتر مرغ چھوٹے سر کا۔
انقد (قنفذ) خارپشت مثل ہے بات فلان بلیل انقد اس لیے کہ خارپشت تمام رات نہیں سوتا۔
انقداد (کسکفس) شگافتہ ہونا۔
انقدار (کسکفس) اندازہ کے ساتھ موافق اور برابر ہونا۔
انقداع (کسکفس) رک رہنا۔
انقدان (کسکفس) بمعنی انقد (قنفذ)

انقذ (قنفذ) کچھوا۔
انقذاع (کسکفس) دوڑنا سرعت کرنی
انقراض (کسکفس) جانا گذر جانا۔
انقرض القوم بولتے ہیں جبکہ سب کے سب مر جائیں ان کے افرادوں میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے۔
انقس (قنفذ) لونڈی بچہ۔
انقسام (کسکفس) حصہ حصہ ہونا۔
انقشار (کسکفس) درخت وغیرہ کا پوست اتر جانا۔
انقشاش (کسکفس) قوم کا فنا ہونا اور گذر جانا۔ قرضدار کو سخت تقاضا اور اوپر تنگ گیری کرنی۔ پانی کا چڑھا ہوا خرما ہمیشہ کھانا ہمیشہ جماع کرنا۔
انقشاط (کسکفس) آسمان میں سے ابر کا پراگندہ اور کھل جانا۔
انقشاع (کسکفس) ابر کا آسمان میں سے پراگندہ ہو جانا اور کھل جانا۔ دل کا غم سے کھل جانا۔
انقصاد (کسکفس) شکستہ ہونا۔
انقصاف (کسکفس) کسی کو چھوڑ کر چلا جانا۔
انقصال (کسکفس) جدا ہونا۔

گیہون کو پاک کرنا۔
انقاب (کسفس) ملک میں پھرنا
اونٹ کے سُم کا پتلا اور باریک ہونا
دربان یا نقیب ہوجانا۔ باریک یا
گھسے ہوئے سُم کے اونٹ والا ہونا
انقاب (ضفس) گوشہا یعنی بہت
سے کان۔ معاصد ابود۔
انقاح (کسفس) شعر کو کلام کیک
سے پاکیزہ کرنا۔ خشک سالی اور
معدبشی میں تلوار کا زیور اوتارنا۔
انقاخ (کسفس) بدمزہ کا مکان نکالنا
انقاذ (کسفس) کسیکو رہا کرنا کسیکو
کسی سے رہائی دلانی۔
انقار (کسفس) ایک چیز سے
پوچھ جانا رک رہنا۔
انقاز (کسفس) ہمیشہ مانند کی
اور اچھا پینا جمع کرنا۔ ذخیرہ جمع کرنا
انقاز (فتفس) رسیدہ چوپایون والا ہونا
چوپایون کو جلدی سے مار ڈالنا۔
انقاص (کسفس) کم کرنا
انقاض (کسفس) چوپایہ پیٹھ یا
زبان لگا کر آواز مارنی۔ عقاب کا اور
چھوٹے مرغ اور بند انام کا آواز کرنا۔

دو پلیون کو آپس میں ہلانا کہ آواز
دیوین۔ زمین کا گھنٹی باہر نکالنا۔
بکری کو بلانا۔ معطلگی چاٹنے سے آواز
نکالنا۔ بار پشت کو گران کرنا۔ شتران
خردسالی کی آواز۔
انقاع (کسفس) شر و فساد کو پوشیدہ
رکھنا۔ مسافر کے لیئے اونٹ ذبح
کرنا۔ سیراب کرنا۔ میوہ اور دارو وغیرہ
کو بھگونا۔ آواز و فریاد سے بچھے جانا
پانی کا ایک جگہہ ٹھہرنا۔ پانی کا زرد اور
متغیر ہوجانا۔ کسی کی ناک پہ لوہگی سے
مارنا۔ مردہ کو دفن کرنا۔ گھر کو سنوارنا
اور منقش کرنا۔ گھر کو اوپر نیچا کرنا یعنی
اوسکے اعلا کو اسفل بنانا۔ حیوان اونکی
کو کمار میں بعد کرنا۔
انقاف (کسفس) کسی کو ہڈی دینی
کہ وہ نکال لینے کے لیئے ہڈیون کا
وادی کو براز سبعیہ کر دینا۔ حنظل کو
دانہ کے لیئے توڑنا۔
انقال (کسفس) نعل اور موزہ اور
بسم شتر کی اصلاح کرنی۔
انقاہ (کسفس) بیماری سے کھڑا
کر دینا اور اچھا کر دینا۔

اِنْقِماح (کسکفس) اونٹ کا اسکو چھاڑ لینا اور پانی پینے سے رک رہنا۔
اِنْقِماس (کسکفس) پانی میں غوطہ کھانا۔ ستارہ کا غروب ہونا۔
اِنْقِماع (کسکفس) گھر میں پوشیدہ داخل ہونا۔ خوار و حقیر ہونا۔
اُنْقُوعَہ (مستفسن) بہت سے کا گڑھا کہ جسمیں پانی جمع ہو جاوے ہر جگہ کہ جسکی طرف بہاؤ وغیرہ کے کمی ہو جا۔
اُنْقُوفَہ (مستفسف) سست کی لکڑی جسے عورت تکلہ پر سے اون کھولتی ہے جبکہ پوری ہو جاتی ہے۔
اِنْقِہْلال (کسکفس) گر پڑنا۔ سست کاہل ہو جانا۔
اَنْقَی (رفسف) باریک ناک والا مرد۔
اِنْقِیاب (کسکفس) انڈے کا شکستہ ہونا۔ گڑھا کھد جانا۔
اِنْقِیاد (کسکفس) کسی کا پیچھے تابعداری کرنی جیسا یہ کا کھینچا جانا اور اسکا خوار اور تابعدار ہونا۔ راہ کا روشن اور ظاہر ہونا۔
اِنْقِیار (کسکفس) گر پڑنا کوئیں کا ویران ہونا میل کرنا۔
اِنْقِیاس (کسکفس) اندازہ قبول کر لینا چنانچہ کہتے ہیں قِسْتُہ فَانْقَاس یعنے اندازہ کیا مین نے اوسکو پس اندازہ قبول کر لیا اوس نے۔
اِنْقِیاص (کسکفس) کوئیں کا ریت اور خاک کا نیچے کی طرف پیدا ہونا۔ کوئیں کا پانی کا زیادہ ہونا۔ دانت کا گر پڑنا۔
اِنْقِیاض (کسکفس) بنا کا ویران ہو جانا۔ ویرانہ کا بغیر گرے پھٹنے کے چور چار یا اوسکا پیٹ پھٹ جانا۔ کوئیں اور دانت کا لمبائی میں پھٹنا۔
اِنْقِیض (کسکس) ایک خوشبو کہ بہت خوشبودار ہے۔
اَنْکَلُّک (رفعق) سیاہ سپید یا سیاہ یا خالص سیسہ وزدون اسکا افعل ہے جیسا کہ شدر (فضت) اور یہ فرق مفردات میں کم ہے۔
اِنْکاث (کسفس) رسی ٹوٹی ہوئی۔
اِنْکاح (کسفس) عورتکو خاوند دینا۔
اِنْکار (کسفس) نہ پہچاننا۔ تغیر حال انکار کرنا۔ مکر جانا۔
اِنْکاز (کسفس) کوئیں کے پانی کو [illegible]

قمح
قمس
قمع
قمع
قنع
قنف
قہل
قنو
قوب
قود
قور
قیس
قیص
قیض
[illegible]


ج

لا نعم
نفی
نقض
نفوض
نفوض
نقع
نقوز
نقوش
نقض
نقوض
نقع
نقص
نقعص
نقعض
نقعوب
نقعب
نقعث
نقعش
نقعع
نقعف

انقصام (بکسفس) شکستہ ہو جانا

انقضا (بکسفس) گذر و تمام ہو جانا۔ ادا ہو جانا۔

انقضاب (بکسفس) منقطع اور جدا ہونا۔ ستارہ کا اپنی جگہ سے گر پڑنا

انقضاض (بکسفس) دیوار کا گر پڑنا۔ ستارہ اور پرندہ کا نیچے اترنا اور ٹوٹنا۔ گھونسہ کا قوم پراگندہ ہونا

انقضاع (بکسفس) کسی سے دور ہونا۔ بعید ہو جانا

انقضاف (بکسفس) جدا ہونا۔

انقطاع (بکسفس) قافلہ سے راہ میں رہ جانا۔ کوئیں کے پانی کا آخر ہوا اور ختم ہو جانا۔ کٹا ہوا ہونا۔ رسی کا ٹوٹ جانا۔

انقع (بفسفس) جمع نقع مثل ہے اخر قشرا نہ نقع سہ مثل اوس شخص کے حق میں کہتے ہیں کہ آزمودہ کار اور بڑا امور میں داخل ہونے والا اور اپنی مراد کو انتہا پہنچانے والا ہو یا سخت اور دشوار کاموں میں داخل ہوا ہو۔

انقع (بفسفت) بہت پیاس بجھانے والا۔

انقعاث (بکسفس) جڑ سے اوکھڑ جانا۔ اکھڑ پڑنا۔ دیوار کا جڑ سے گر پڑنا۔

انقعار (بکسفس) جڑ سے اوکھڑ جانا۔ درخت کا اکھڑا ہوا اور زمین پر گر پڑنا

انقعاش (بکسفس) جگہ سے اوکھڑا ہوا ہونا۔ قوم کا چلا جانا۔ دیوار ویران ہو جانا۔ ٹوٹ جانا۔

انقعاص (بکسفس) فی الفور مر جانا۔ ایک چیز کا دوہرا ہو جانا

انقعاف (بکسفس) پہاڑ کا جڑ سے گر پڑنا۔ ایک چیز کا اپنی جگہ سے چلا جانا۔

انقلاب (بکسفس) پھر جانا۔

انقلاع (بکسفس) اکھڑ جانا۔

انقر (بفسفس) دانہ خرما کا

انقفاش (بکسفس) مکڑی وغیرہ کا سوراخ میں گھسنا اور اوس کا اپنے ہاتھ پاؤں اور اعضا کو سمیٹنا۔

انقفاع (بکسفس) جھڑ جانا۔

انقفال (بکسفس) دروازے کا بستہ ہو جانا۔ بند ہو جانا

انقلات (بکسفس) ناف کا بڑا ہو جانا۔ ناف کا بل کھانا۔

انقلیس (بفسفکس) مار ماہی۔

کی روشنائی کے سبب ترم چمکنی —
چھینا تلوار کا کند ہونا —
انکماش (فتح ک س) مارماہی ہے اور
قلعت سے بھی ہے
انکمار (ک س ف ت م) پوشیدہ ہونا —
انکماش (ک س ف س) نا شناسائی کرنی
انکیاع (ک س ف س) منقطع اور جدا ہونا
انکیال (ک س ف س) کیسی کو دشنام
دینا ... ہونا
انکیس ... ہے کی ... ہونا
سے ایک ... کا نام ... ہے
انکمام (ک س ف س م) چھولنا ... بھولنا
پڑھنا ... سے ... کے طور پر بات کو
خاص کرنی — شکار پر اسطور تیر پھینکنا
کہ بھاگ جاوے اور مر جاوے —
انکماز (فتح ف س) گاو دشتی کے پاؤن
کی ... کہر —
انکماز (ک س ف س) آب ... ظاہر و سادہ بنانا
آب پاکیزہ ... ہوجانا —
انکماش (ک س ف س) ... ہونا
انکماس (ک س ف س) ... ہونا
... شمہ ...
انکماش (ک س ف س) ... کرنی

انکماص (ک س ف س) ... کا وسط کے لگنا
انکماق (ک س ف س) ... کا خرما
... کے ... لگنا
انکمال (ک س ف س) ... کرنی
انکماج (ک س ف س) ... کھنا
انکمار (ک س ف س) ... جانا
انکماص (ک س ف س) آفتاب کا
... سے نکل آنا اور اوسکا ...
ہوجانا — ایک چیز کا گر جانا اور فوت
ہونا — سر چیز کا دب جانا —
انکمالق (ک س ف س) ... ہونا
انکمراع (ک س ف س) ملکمین سیر
کرنے ... سیاحی کرنا —
انکمش (فتح ف س) ... جمع
انکمساخ (ک س ف س) لاغر ہونا —
انکمشاش (ک س ف س) دریافت
کرنا — حاصل کرنا —
انکمص (فتح ف س) کم بالون والا —
انکمصاع (ک س ف س) ملک میں پھرنا
... سیدھے کھڑے ہوتے
انکمعاط (ک س ف س) بالون کا ...
... —
انکماز (ک س ف س) ... ہونا کام

انکمش
انکمرع
انکمس
انکمسر
انکمص
انکمصع
انکمط
انکمز
انکمس
انکمش
انکمشاش
انکمص
انکمصاع
انکمعاط
انکماز

امر نام شیخ ... ۱۲

[illegible]

[illegible] کر دینا بند کر دینا
[illegible] بجرأت کرنی
انکماع ر کسکفس [illegible] سے عزت
[illegible]
گرا [illegible] کر دینا [illegible] ہوا کر دینا
انکماع ر کسکفس ننگ و عار سے
انکماک [illegible] اللہ سبحانہ خداوند
تعالیٰ [illegible] کا [illegible] سے [illegible]
انکال ر کسکفس [illegible] کرنا
[illegible] کرنا [illegible] کی
[illegible] کان [illegible]
[illegible] کا [illegible] پہنچا
ہوا [illegible] گیا
انقلاب ر کسکفس آگے [illegible]
لازم کردنا منہ کے بل گر پڑنا
انکتال ر کسکفس گذر جانا چلا جانا
انکثاب ر کسکفس جمع ہونا
انکتام ر کسکفس چھپنا [illegible]
انکدر ر فسفف [illegible] دشوار [illegible]
انکدیر ر کسکفس [illegible] خوب
[illegible] ٹوٹ [illegible] چھڑانا
[illegible] کا [illegible]
انکراث ر کسکفس منہ چڑھانا
انکراس ر کسکفس منہ کے بل

گر پڑنا ایک چیز میں شکستہ بل خلل ہونا
انکسار ر کسکفس [illegible] کا [illegible]
کی طرف پھر آنا
انکسار ر کسکفس شکستہ ہونا
انکساف ر کسکفس آفتاب اور
چاند کا گہن میں چھپنا
انکشاح ر کسکفس [illegible]
انکشاط ر کسکفس [illegible]
[illegible] کا [illegible] دینا
انکشاف ر کسکفس [illegible]
انکماع ر فسفف [illegible] کا [illegible]
انکفات ر کسکفس [illegible] جانا
رنگ کا اڑ جانا
انکفات ر کسکفس پھر جانا بدلنا
منقبض [illegible] ہو جانا [illegible] کا
[illegible] آدمیوں کا جمع ہوا آنا
انکفاس ر کسکفس [illegible]
انکفاف ر کسکفس [illegible]
جانا [illegible] بیٹھنا
انکلات ر کسکفس [illegible] جانا
ہوا اور منقبض ہونا
انکلاف ر کسکفس [illegible]
انکلال ر کسکفس [illegible] کی [illegible]

بچہ جنے سے ناک چڑھا دے۔
انُعوق (ضفس) عقاب۔ فرخ عقاب
خوار یہ ایک جانور اپنے انڈون کی
بہت حفاظت رکھتا ہے اسی لیے
اپنے گھونسلے پہاڑون کی چوٹیون
مین اور مکان دشوار گذار مین بناتا
ہے تا ان تک کوئی پہنچ نہین سکتا
پس اسی لیے جو امر دشوار ہوتا ہے
اور حکم اسکے انڈون سے مثل دیتے
ہین او صعب کہتے ہین ہوا عز من بیض
الانُوق یعنی وہ امر انُوق کے انڈون
سے بھی دشوار ہے ہے اس جانور کی
دس خصلتین ہین انڈے کی حفاظت
چوزے کی حمایت۔ بچہ کی الفت
اور اپنے بدن کے سواے فرج کی
سیاست اور سب قواطع کے پہلے
زمین ہموار سے گرم سیر مین جانا۔
اور سب رواج کے پہلے واپس آنا
آنا اور ایام گریز مین نہ اوڑنا اور
چھوڑنے کے موسم مین پر گرفتہ ہونا اور
گھونسلے مین ہمیشہ رہنا اور بچھو
پچھلی سے نہ اوڑنا اور شکار سے
سخت ہونے پر بھی بچا نظر رہنا

انُوک (ضفس) بڑا ہونا۔ پر کار ہونا
لینا ہونا اور شی کا سو مند ہونا۔ قبح
کرنا طلب کرنا مانگنا۔

انُوکَ (صفت) احمق مرد۔ ما انُوکہ
قول تعجب ہے یعنی کیا احمق ہے وہ
انُوک (ضفس) ہنسنا

انُوَل (صفت) ما انُولہ قول تعجب
ہے یعنی کیا بہت عطا والا اور دہکیلا جو درد
آنَہ (نفی) انُوہ (ضفس) ابہام
(ضفس) (مس) گرانی ہے کے سبب اٹھیں
چڑھ جانا حسد کرنا۔

آنہر (ضمہ) ماسیہ آنہر (صفت) اکھٹا
انہار (کسفس) بہت بہنا کو سیلاب
کو۔ کام کو استوار اور محکم کرنا جھگڑے
مین داخل ہونا۔ ایک چیز اور پیغام
وغیرہ کو پہنچانا چھوڑ دینا۔
انہاب (کسفس) مال کو لوٹ کو
دینا یعنے لٹوانا۔
انہاج (کسفس) راہ کو پیدا اور
روشن کر دینا سراہ کا پیدا اور کشادہ
ہونا۔ جامہ کے پرانے کرنے پہانتک کہ وہ
بلنے لگے سکڑ کر پرانا کر دینا
کپڑے کا پرانا ہو جانا۔

مادہ

…سے بہائی ہاتی ۔
انملاس (کسعفس) بمعنی املاس ۔
انملاص (کسعفس) بمعنی املاص
(کسعفس) تیز اور ہلکا چلنا ۔
انمحال (کسعفس) کھنچا ہوا ہونا نکلنا
انملة (فسعف و کسعف و فسعف
و فسعف و فسعف و کسعف و کسعف
و فسعف و کسعف) انگلی کا سرا
جس میں ناخن ہوتا ہے انامل (فسعفسا)
انملات (فسعفس) جمع ۔
انمہلال (کسعفس) ہتھیلا ہو…
رسیدہ کہ ہرا ہونا آرام لینا سستی ۔
انمش (فسعکت) جس سے بھری
ہوئی ہو خشک اور نہالی ۔
انمیاث (کسعفس) آمیختہ ہونا
پانی میں گھسا ہوا ہونا ۔
انمیار (کسعفس) بالوں کا بکھرا
ہوا ہونا ۔ پشم کا گرانا ۔
انمیاز (کسعفس) جدا ہونا ۔
انن (فسعف) ایک جانور ہے مانند
کبوتر کے کہ انوہ انوہ اوسکی آواز ہے ۔
انمنة (فسعف) بہت سونے والا
انو (کسعس) رات میں کی ایک
ساعت سے آناء (فسعسم) جمع ۔
انواجر (کسعفسم) لعدہ ہونا جب سفر
والا ہو جانا ۔ حاجت کو روا کرنا ۔
غورہ خرما میں گٹھلی پڑ جاتی ہے
خرما کی گٹھلی پھینکنی ۔ اور [illegible] کی
قرہی کو [illegible] کر دینا ۔
انواخر (فسعف) انواز کا جانچنے والا ۔
انواز (کسعفس) شکار ہو جانا ۔
انواط (فسعفس) معلاقہ یعنی وہ
چیزیں کہ جس پر کچھ لٹکا دیں ۔
انواق (کسعفس) شکار کرنا انوق کا
انوال (کسعفس) احمق پانا ۔
انوح (فسعفس) بہت سانس کھینچنے
لینے والا عرد تجیل کہ جب اوس سے
کچھ مانگیں تو کنکھار سنے [illegible] گھوڑا
جو بہت سانس لیوے ۔ وہ گھوڑا جو
چلنے میں لگام کا پیچ دانتوں میں
پکڑ لیوے اور سر ہلا دے ۔
انور (فسعف) خوبصورت ۔
انوش (فسعفس) کتا جو کہ کاٹے فقط
عقور سا انبش (فسعفس) جمع ۔
انوف (فسعفس) ناک کی طرف سے
خوش [illegible] عورت یا وہ عورت کہ جبر

نشتر کا شکست کھانا - ایک سرا
اونگلی کا گوشت سے الگ ہو جانا
ہو جانا - چوب کستی کا پھٹنا
... اور زمین سے آواز ہونے
انفصام (کسکفس) شکستہ ہونا
اور شیشی کا شکست ... ہو جانا -
انفضار (کسکفس) ... ہونا
اور شکستہ ہونا -
انقصاص (کسکفس) شکستہ ہونا
انہفات (کسکفس) ... ہونا -
... ہونا - ... ہو جانا -
انہقاع (کسکفس) ... ہونا
... سبب ... شکستہ ہونا
انہکاک (کسکفس) ... ہیں
باب ... انہکاک کا ... جدا نہیں ہوتا
... کے وقت ...
... نرم زمین سے چھٹنا ... ہونا
انہلاث (کسکفس) ... سے
بالوں والا ہونا - بالوں کا ... جانا
انہلات (کسکفس) ... ہونا -
فراموش کر دینا غفلت ہو جانا -
انہلاک (کسکفس) اپنے ...

حرف ذال المعجمہ ... میں ...
انہلال (کسکفس) ... کا
... ہونا ...
انہمار (کسکفس) ... کا بہنا
... ہوا ہونا -
انہمار (کسکفس) ... ہونا شکستہ
... ہونا ... اور ...
ہونا اور ... ہو جانا ...
... کے وقت ... گر پڑنے
انہماز (کسکفس) ... ہونا -
انہماع (کسکفس) ... وغیرہ کا
... ہونا ... کا تر ہو جانا
انہماک (کسکفس) ایک امر میں ...
اور ... کوشش کرنی -
انہمال (کسکفس) اشک چشم کا
روان ہونا بہنا -
انہمام (کسکفس) چربی وغیرہ کا
گداختہ ہونا - ... ہونا -
انہواء (کسکفس) گر پڑنا ... سے
نیچے گر پڑنا - گذر جانا -
انہیار (کسکفس) بنا کا پھٹ جانا
انہیاع (کسکفس) ... کا ...
اور اس کا چمکنا -

انتہا ... بالکسر بزرگ گننا یا ہیبت کہ
بزرگ کرنا - آرزو اور خواہش وغیرہ کو ختم
کرنا یا اسکو حد سے ... تک پہنچانا
انتہار بالکسر زمین کھودنے
والے کا پانی تک پہنچنا - پانی اور جوان
وغیرہ کا بہانا ... کو ... کرنا ... کا
حسن ... نیزے سے ...
... بچہ ... عورت کا
... آہستہ ... کا
جاری ہو ... کرنا ... میں ...
ہونا ... میں ...
انتہا ... بالکسر ...
کو ... کے نزدیک کرنا -
انتہاک بالکسر عقوبت میں مبالغہ
کرنا - ایک چیز کے دھونے اور پاک
کرنے میں مبالغہ کرنا -
انتہال بالکسر پہلے ہی ... پانی
پر اونٹوں کو لانا - پہلے پانی پلانا -
دریا ... پہلے پانی پیے ہوئے
اونٹوں والا ہونا - پیاسا کرنا - سیر آب
کرنا - لغات اضداد سے ہے -
خشمناک کرنا - غصہ دلانا -
انتہاص بالکسر ہنسنے میں

زیادتی اور مبالغہ کرنا -
انتہاط بالکسر ...
انتہاک بالکسر کسی کو
زمین کا نگل جانا -
انتہاک بالکسر ...
... اور ... ہونا -
انتہام بالکسر ...
... آنکھ کا آنسو بہانا -
انہداد بالکسر شکستہ و ویران ...
انہداش بالکسر ...
... پر ... آمیختہ کرنا -
انہدال بالکسر ...
فروہشتہ اور نرم ہونا ...
انہدام بالکسر ویران ہونا -
انہدان بالکسر ... ارادہ
سے سست ہو جانا -
انہر بالفتح ... بوسے میں
یعنی خوب روشن دن - انہار ...
... 
انہراج بالکسر ... وغیرہ
کھا کر ... سست ہو جانا -
انہراع بالکسر شکستہ ... ہونا
انہرام بالکسر ...

اور ایک قوم کا قول ہی کہ انسان
کی اصل انسیان ہی تو تخفیف کے
لئے یا کو حذف کیا اور جب تصغیر کی
تو یا کو پھر لائے۔
أنيض (خمس) گوشت نیم جوش۔
انیض (خمس) ان ان آنتوں کا
ڈر کے مارے ہلنا۔
انیض (خمس) (ض) گوشت کا
متغیر ہو جانا۔ خراب ہو جانا۔
أنيف (خمس) نرم تو ناسپاہ سمجھ
انیف زمین سے پہلے روئیدگی کا لا دے
أنيقة البنت زمین جو جلدی گھاس
اگا لا دے سا (ض) انیقۃ النبت
أنين (خمس) نالہ۔
أنيا (سکمنس) کج ہونا۔
أنيه (سکسکس) کلمہ انکار بمعنی نہ
یعنی نہیں۔
او (فس) حرف عطف ہی بمعنی یا۔
خبر میں شک کے لیے آتا ہی جیسا
لبثنا يوما او بعض يوم ابہام کے
لیے جیسا انا او ایاکم لعلی ہدی او
في ضلال مبين تو اسمیں پہلا ابہام
کے لیے ہی اور انشا میں اختیار دینے

کے لیے جیسا تزوج ہند او اختہا
اباحت کے لیے جیسا جالس الحسن
او ابن سیرین جمع کے لیے جیسا
شعر سیان کسرہ غیظہ + او کسر عظم
من عظامہ + تقسیم کے لیے جیسا
شعر فقالوا لنا ثنتان لا بد منہما +
صدور رماح اشرعت او سلاسل + اضراب
کے لیے جیسا ماذا ترى في اسلم ار
و وقع بمعنی الى اور الا استثنا کے
آتا ہی معلوم ان بعد اور ان میں ہی صانع
ان مضمر کے سبب نصب دیگا جیسا
لالزمنک او تقضینی حقی اور جیسا
اس شعر میں شعر وكنت اذا غمزت
قناة قوم + كسرت كعوبها او تستقيما +
شرطیہ جیسا لاضربنہ عاش او مات
تبعیض کے لیے آتا ہی جیسا وقالوا
کونوا ہودا او نصارى۔ بمعنی بل
جیسا ما ارسلنا الى مائة الف او
يزيدون اور کبھی او کو اسم قرار دیتے
ہیں اور واو کو تشدید کے ساتھ
پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دع الاو
جانبا یعنی او کو دور کر۔
اود (نس) (ن) جھرا پکانا

ماده
ع ا نض
ع ا نض
ع ا نف
ع ا نی
ع ا نہ
ع ا و
ع ا و د
٤٤٧

لا ابول
لا توطل
عا الانی
ی عا بی
ہ ابز
ہ ادن
ط ارج
ث انز
ف انس
ہ ...

اَنہیاکنا کہ کسی شخص کا ساتھ دینا کہ
بھلا ہی کے پہنچا ۔ مشترکہ ہونا
اَنحیاکل کہ کسی شخص کا ساتھ دینا
بھی کہ پہلو ۔ الفاظ جدا ہیں
اِنہاکو کلتہ یعنی ہو سکے اور جو رہے
۔ اور وہ سکو قریب دشنا ہے کہ ہو گیا
اَنی (رعف) اس کا حکم دیدار ہو جانا
اَنی (رقع) تمام روز ۔ آنا بر (رضم)
اَنی (رضت) ابھی حقت ۔ ایک چیز
کی نہایت یا اوسکی پختگی ۔ لفظ جمع
ہے بعد یا عددی اعتقاد ۔
اَنی (ققد) کیونکر ۔ کہاں سے کہاں
۔ ہر کہیں اور حرف شرطی بھی ہے
اَنی لک ۔ صحیح اَلحصن سے سہیات
کہاں سے ہے کہ قلعہ کو فتح کرے
اور اَنی تا شتی آنک
اَنی (فک) ساعت اور کچھ حصہ رات کا
اَنی (فکت) پختہ ۔
اَنی (ضلت) ۔ اَلای (رکعت) (رض س)
کہ سیل کرنی ۔ سستی کرنی ۔
اَنی ہنا ۔ اَنی (نقت) اَنی (رکت)
(رض س) ایک چیز کا وقت ہو جانا
یا اوسکے پکنے کا وقت ہو جانا ۔ پختہ

بھلا نا ۔ بنات کے ساتھ ...
آنا بر (قسم) اسم مصدر ہے ۔ اَنی الرجل
کہ چیز کا وقت ہو جانا اور ... ہیں
اَنی لہ اَن یفعل کذا یعنی قریب ہے
کہ ایسا کرے ۔ اَنی الحمیم یعنی
گرمی نہایت کو پہنچ گئی ۔ آن (رکع)
اسی سے صیغہ لفظ ہی ... ہے
جو قرآن شریف میں ہے حمیم آن
اَنیا بر (قسم) گوشت کہ نیم جوش پکایا ہو
اَنیش (رضعہ) جس سے ... اند
وانشون والا آدمی ۔
اَنیت (رکس) ہونا حسد کرنا اشنا
کرنا ۔ آنیت صیغہ لفظ حسد کیا ہو
اَنیث (رکس) ... اور اخلاق ...
اَنیشر (قسف) ... ست
... کو ... فعال ... آنگشتہ
آنیر (قسف) ... تعا ... شہد
آنیس (رکس) ... ہونا نہیں ...
وملا ... چیز ... کوئی ... کا ...
آنیس یعنی ... کوئی نہیں ۔
آنیستہ (رکسعہ) آگ ۔
اَنیسان کہ بعض شخص آتے ... ہوتا ہے
بزیادت یا ... خلاف ... ہیں

وتل (صفص) جمع۔ شراب سے پیلتھ
مرد۔ وتل (صفص) جمع
اوتر (فسیف) یوشیں۔ عداوت۔
اوتج (فس) [illegible]
اوجر (فسف) خائف ترسان [illegible]
اوجل (فسف) خوفناک مرد مونث
اسکی وجلاء (فسم) نہیں آتی بلکہ
وجلی (فسک) آتی ہے۔
اوجم الرمل (نگ) تودہ کا میانہ چوٹی
اوحن (فسف) علاد رسی۔
اوحد (فسف) انگشت فیہ اوحد یعنی
اوسمیں خاص نہیں ہوں۔ اسکا مونث
وحدا (فسم) نہیں آتا۔ ہو اوحد اللہ
اوحد یعنی اللہ صاحب وحدانیت
و یگانگی ہے۔ ہو اوحد اہل زمانہ یعنی
وہ اپنے زمانہ کا یگانہ ہے۔
اود (فف) (سس) کج ہونا [illegible]
لغت نکر اود امد لغت مونث۔
اود (فس) کجی
اودلس [illegible] ان
و گراہا کردینا۔
اوغ (فسف) کبوتر جسکے پرسٹے
پر سپیدی ہووے۔

اودک (فسف) بنات الاودک
ما ادری ای ابن [illegible] ما ادری ای الاودک ہو
یعنی میں نہیں جانتا کہ وہ کیا آدمی ہے
اودن (فسف) نرم و نازک
ہلکا پھلکا۔
اوذر (مس) باد صبا۔
اورر (مس) باد شمال جنبش ابر
اورر (مس) (رض ان) جماع کرنا
آرر (مک) صیغہ لغت ہے۔
اورة (نکف) زمین سخت خشک۔
ارض اورة بولتے ہیں۔
اورق (فسف) شتر خاکستری رنگ
خاکستر خاکستر گوں اونٹ گوشت
میں سب اونٹوں سے اچھا ہوتا ہے
سیر و عمل میں سنے باران سال [illegible]
جسمیں ایک ثلث دودھ اور دو ثلث
پانی ہووے۔ ورق (ض) جمع
اورک (فسف) مرد جسکی ران کے
اوپر کی چیز بزرگ ہو۔
اوزم (فسف) آدمی یا بہت سے
آدمی معظم لشکر لشکر و عظمت و شوکت
اوزن (فس) سیر قمر کا ایک حساب ہے۔
اوزا (فلت) ہر دو چھوٹا دلدار۔ بطہ

۱۵۱۱ ودن
۱۵۱۲ اور
۱۵۱۳ ورق
۱۵۱۴ ورک
۱۵۱۵ ورم
۱۵۱۶ اوز

ماده

او ب — او ر — او ز — او س — او ش — او ص — او ل — او م — او ن — او ہ — او ی

اواب — اوب — او ت — او ج — او د — او ر — او ق — او ک — او ل

اواثب (ف فعل) وہ جو ہر چیز سے پھر کر خدا تعالیٰ کی طرف آوے — تسبیح کرنے والا۔

اُوار (ف فعل) آگ اور آفتاب کی گرمی — پیاس — دھواں — آگ کی لو — باد جنوب اور (ف فعل) جمع —

اُوارۃ (ف فعلۃ) ہر پیادہ اور ایک دفتر ہے کہ جس میں دیوانی کے متفرقات وغیرہ اکثر حساب لکھتے ہیں —

اُواضح (ف فعل) روشن راتوں کے دن یعنی ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ —

اُواعی (ف فعل) ایک آفت ہے جو کھیت کو لگ جاتی ہے اور اس کو فارسی میں شیرونہ کہتے ہیں —

اُواقی (ف فعل) جولاہے کی سنے کہ جس پیدا ہوتا ہے —

اُوال (ف فعل) ایک جزیرہ ہے بحرین میں اور اس سے غوطہ خور موتی نکالتے ہیں —

اُوام (ف فعل) پیاس — پیاس کی گرمی — دھواں — دوران سر — کمانکا چلہ — چلے کی آواز و فریاد —

اوان (ف فعل) وقت — آونۃ (ف فعلۃ) جمع

اوان (ف فعل) بڑا چبوترہ —

اوان (ف فعل) جمع —

اواہ (ف فعل) ہر بایقین — نرم دل بہت دعا و زاری کرنیوالا —

اوب (ف فعل) اپنے بھاسرعت — قصد — عادت — استقامت — نزدیک — شہد — بادل — رستہ — طرف — جہت —

اوب (ف فعل) الٹا پھیر آنا — رات کو آنا — دور رہنا — جلدی کی جلدی — ہاتھ پاؤں ڈالنے اونٹنی کے چلنے میں لوگوں کا ہر ایک طرف سے آنا —

اوب (ف فعل) رسی غمگین ہونا —

اوباء ملمع جمع کی ایک گھاس ہے کہ بعد خشک ہونے کے پھر ہری ہو جاتی ہے

اوباش (ف فعل) جمع ترش تقلب

اوبۃ (ف فعلۃ) بازگشت — اوبات (ف فعلات) جمع

اوبر (ف فعل) اونٹ اور خرگوش کی پشم کا —

اوبۃ (ف فعلۃ) مصیبت — اور (ف فعل) جمع

اوتاد البلاد زمین کے پہاڑ — شہر کے رئیس لوگ —

اوتاد الفم منہ کے دانت —

اوتک (ف فعل) شہر ہے کا خرما خرما اسود —

اوجی (ف فعل) بہتی اور تک (ف فعل)

اوتل (ف فعل) اسیر شکم چال (ف فعل)

عملیات اعراب فضیلت تمام [illegible]

آوقاش (فتح) ہمیشہ آسمان کا گنبد
اقلیم سے [illegible] یا تھوڑا گرد
یا آگنبد [illegible] سوا مقدار [illegible]
أوقاقی (فتح) ہمیشہ [illegible]
أوقاحر (فتح) [illegible] گنبد اور
[illegible] سے [illegible]
أوقوتی (فتح) جماعت
أوقتہ (فتح) ایک گڑھا اور کنواں
کہ جسمیں مینہ کا پانی اکٹھا ہووے
اوقات (فتح) [illegible] وقت کی جمع
اور [illegible] رہنے کی جگہ [illegible]
[illegible]
أوقص (فتح) چھوٹی گردن والا
اوقص الطرفین [illegible]
أوقع (فتح) پہاڑ میں راہ
أوقیہ (فتح) چالیس درم کا وزن
سات مثقال - چالیس درم [illegible]
کہتا ہے کہ زمانہ ماضی میں اوقیہ [illegible]
مگر اب اس زمانہ میں [illegible] اطباء کے نزدیک
اوقیہ ایک استار اور [illegible] استار
اواقی (فتح) [illegible] اواق (فتح) [illegible]
[illegible] (فتح) جمع
أوکرہ (فتح) غصہ [illegible]

أوقح (فتح) [illegible]
أوهن (فتح) [illegible]
أوقع (فتح) [illegible]
[illegible]
[illegible]
أولی (فتح) [illegible]
[illegible] اور [illegible]
[illegible]
[illegible]
أوملی (فتح) [illegible]
[illegible]
أوملی (فتح) [illegible]
[illegible]
[illegible]
أوهلع (فتح) [illegible]
[illegible]
أولو العزم (فتح) [illegible]
جنہوں [illegible]
[illegible]
[illegible]
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم [illegible]
[illegible] اولو العزم [illegible]
[illegible]

اوزنی
اوزنہ
اوزان
اوز
اوس
اوطب
اوشج
اوشن

مرغابی ساننہ (فتکف) ایک اوزان
(کفصنس) جمع جیسا وزن کا القول
کی جمع آتی ہے۔
اُوزاع (فسفنس) آدمیون کے گروہ
اُوزاع (فسفنس) ضعفان۔
اُوزان (فسف) باسنگ یا وزن
اَوزنُ القوم قوم کا رئیس یا بہتر
اُوزکی (کفقف) ایک رفتار ہے
مثل رفتار بعلانے کے۔
اوش (فضن) فرصت غنیمت بھیڑ یا
اوس (فسن) (ان) بخشنا عوض دینا
اُوس آوس ایک کلمہ ہے جس
سے گلہ بن کو ڈانٹتے ہیں
اُوسط (فسف) میانہ۔ اوسط الشی
دو کناروں کا مابین۔ اوسط القوم
قوم میں کا برگزیدہ۔
اوشابج (فسفنس) مقلوب ایک باشر
آدمیوں کا گروہ ہر ایک جنس کا اوشب
(کس) ایک ہے۔ فاعد
اُوشاز (فسفس) مددگاران و
یاری گران سفرمان بردار لوگ جیسے
کچھ چیز مدد لینے جو ہر
اُوصی (فسف) جو کہ دوسرے کے
ساتھ سے نکلے اور اس کے ساتھ بھیجے
اور کھانا کھاوے۔
اُوصر (فسف) زمین بلند۔
اُوطف (فسف) پلکون اور بھون
کے بہت بالون والا۔ عیش اوطف عیش
آسودگی خوش اور فراخ زندگانی نعمت
اور نعمت کے ساتھ۔
آوطاب البیت گھر کے برتن
اُوعب (فسف) تمام ہے۔ کا بہت وار
آوعر (فسف) دشوار۔
اُوعس (فسف) نرم زمین ریتا ہم ی
اوغس (فسن) اماعس (فغسک) جمع
اُوف (فسن) (ن) آفت رسیدہ ہونا
کھیتی کا مجبورا مستعمل ہے زرع مؤوف
اور زرع میئف بولتے ہیں صیغہ لغت
ہے اور بولتے ہیں القوم اوفنا اور القوم
اور ایفوا باشمام کسرہ ہمزہ یعنی وافی
اُوفاض متفرق کو میون کا گروہ
یا خانہ بدوشان کا گروہ۔
اُوقوفہ (فضنفسف) بہت افواہ والا
اُوق (فسن) (ن) اوپر سے کسی چیز
جھانکنا اور اوپر مائل ہونا کسی چیز لانا
اُوقار (فسفس) جمع وقر (کس)

آبر وقت کو ... میں اور فسخ ... اس
... اور ... اور
اور ... اور رفت آور وہ فسخ
آور ... آور ... آور ... تا ...
رفسخ ... ... یا ... رفتفسخ ...
آور وہ فسخ ... ... رن ... آم ...
آور ہا طار فسفس خود ... ...
آور ... رضف ... پیر کادن ...
آور ... رفسف ... شکور ... طا ...
آور ... ہتہ ... ہما ...
آور ... رشکت ... بچون ... جمع ...
... جیسا ... کی جمع ...
... کی ... لینے ... پند ... سے جو ...
جگہ سے جمع ہو آئے ہون ۔
اور ... رشکت ... اوار کفسر ... (من ...
پنا ما اور ... پکڑنا ۔ پا ... جگہ دینی
اور ... رفسف ... اتیہ رفتف ... عات
کرنا ... جرکرنا ... اسکا ... آام ۔
آور ... رفسف ... صغیر ... بمعنی ...
آور ... رفکس ... لوگون سکے ... ۔
آور ... رفسف ... بھیڑیا ۔
... ا رفتعف ... رونا ۔ آہ ... کرنا ۔
آہ ... ب رکفس ... ادا ... غت ... کیا ...

آہبتہ رکف ... آہبتہ ... یا ... کی جمع
آہ ... رکفسف ... پر ... ب ... ب ...
سے آواز ... سے ... کو ... نفط
آہ ب یا لفظ ہب سے ... جر کرنا یا ... ا
... پر آواز ... تا کہ ... ... ... کی ...
آہ ... جتہ رکفسف ... ہوا کا کہا ... کو
خشک کر دینا ... زمین کو خشک ... یا ... ...
... کہا ... سے ... دالی ... ا ۔
آہ ... فتر رکفسف ... پیاسے کو ... ...
آہ ... رکفسف ... کالی ... کو ... نیچے
گرانا ... سے جی لگی ہوئی ... تیل ہر ... سالن
... کی قسم ... سے ... رکفسف ...
آہ ... السیل ... رکفسف ... بہت ... ...
آہ ... ان ... رکفسف ... درخت ... جسکی ... ...
... ہوئی ہون ... کا ... ا ۔
آہ ... بہہ رکفسف ... تغیر ... کہنا ۔
آہ ... غر ... رکفسف ... مردان ... ہند ۔
آہبا ... رکفسف ... گر ... گرد ... کرنا
آہبا ب رکفسف ... آب سے ... ہونا
آہبا ذ رکفسف ... چلنے میں شتابی
کرنی ... ہونے میں شتابی کرنی ۔
آہبا ر رکفسف ... خوب موٹا ہوجانا ۔
آہبا ط رکفسف ... پیچھے ... ... انا ۔

اور اسماء بنہیم اور اسحاق اور یعقوب اور
یوسف اور ایوب اور موسیٰ اور
اور عیسیٰ علیہم الصلوۃ والسلام مین سے
اولی (الف ضمہ) اسم اشارہ ترجمہ ان کا
وہم اولی یعنی یہ لفظ جمع مین بھی
مستعمل ہے اولی (ضمہ) اور اون
مستعمل ہے جمع
اولی (ضمہ) موتث الاول (فتح)
افعل (ضمہ) جمع ہے لوگ یہ لفظ
جمع ہے اسکا واحد اسکے لفظ سے نہین
ہے واحد ذکر اسکا ذا ہے اور ذہ واحد موتث
یہ لفظ ممدود بھی آتا ہے اور مقصور
ہر ایک ساتھ کہتے ہین یا واحد اسکا
الذی ہے اور ممدود مبنی بر کسرہ ہے اس
لفظ مین مذکر و موتث برابر ہے تصغیر اسکی
اولیا ہے اور مقصور آتی ہے اور اس لفظ
ہا تنبیہ بھی آتی ہے جیسا ہولاء اور
بعض عرب ہمزہ کو تنوین کسرہ بھی دیتے
ہین اس لفظ کے آگے کاف خطاب
لاحق ہوتا ہے جیسا کہ کہتے ہین اولئک
(ضمہ) اور اولالک (ضمہ)
اور اولالک (ضمہ) کسائی نحوی
کا قول ہے کہ اولئک (ضمہ) کا

واحد ذالک (فتحہ) ہے اور اولالک
(ضمہ) کا واحد ذلک (ضمہ) ہے اور
الالک (ضمہ) بھی اولئک (ضمہ)
مین ایک لغت ہے یعنی بعضے عرب یون بھی
کہتے ہین اور اکثر اولئک (ضمہ)
غیر ذوی العقول مین استعمال کرتے ہین
اوام (ضمہ) بولتے ہین انکال اور
سینے کی گرمی راتین
اوش (ضمہ) پیاس کا آوازکرنا
سینے کا شور کرنا اور دیگ مین ابال
نیز اسکا ابال مین جوش دینا
اون (ضمہ) اون آسانی سے چلنا مانند
رفتار آہستہ خرچ کا ایک گوشہ
اون (ضمہ) آہستہ اور نرم اور
آرام سے چلنا
اوہ (ضمہ) کسیلے اندھیرے
جمع ہے واحد ندارد
اود (ضمہ) کج کرنا مشرق
کی طرف سے پھرنا سایہ کا کام کا جور کرنا
اور (ضمہ) باد صبا
اوی (ضمہ) آدمی کی طرف منسوب
اوہ (ضمہ) ایک کلمہ ہے بیماری
اور رنج کے وقت کہتے ہین آہ

بیقرار ہو جانا عصبیت کرنی کسی کی

اِہتِزاز (کسکعفس) خوش ہونا کسی شے کا

مکتوب کو جلدی پڑھنا

اِہتِراش (کسکعفس) بھڑ جانا

اِہتِراع (کسکعفس) اکر توڑنا

اِہتِزاز (کسکعفس) حرکت کرنی جنبش ہونا

حدی کی آواز پر حرکت کرنا اونٹ کا

روشنی کے وقت ستارے کا چمکنا

شاخ کا کسی ہوا سے ہلنا پر پھیلنا

چمکنا کھلنا تلوار کا کسی آواز و فریاد

اِہتِزاع (کسکعفس) سرعت کی

ہوا سے پھرنا حرکت کرنا

اِہتِزام (کسکعفس) گھوڑے کا

اس طرح چلنا کہ اوسکے قدم کی آواز

سنی جاوے ابر کا پھٹ جانا

گھوڑے کے قدم کی آواز سنی جانی

کاٹنا اور اوسمیں سرعت کرنی

کرنی جلدی کرنی

اِہتِشال (کسکعفس) چوپایہ پر بے

اجازت مالک کے سوار ہونا

اِہتِشام (کسکعفس) ساری تھیلی

دوہنا پستان کا سارا دودھ دوہنا

اور پیل بعد جوار ہو جانا

اِہتِصار (کسکعفس) لپٹنا توڑنا

پیچیدہ ہونا شگفتہ ہونا خوشہ جھڑنا

اونٹنی کا شاخ پکڑنا اور اوسکو اپنی طرف

اِہتِضاب (کسکعفس) بات چیت کرنے لگنا

اِہتِضام (کسکعفس) کوٹنا توڑنا

اپنے تئیں کسی کے لئے مقصر سمجھنا

اِہتِضام (کسکعفس) کسی پر جور

ستم کرنا کسی پر غصہ کرنا کسی کے

حق میں سے کچھ لے لینا

اِہتِفاف (کسکعفس) سراب کا چمکنا

سراب کی چمک نرم آواز کہ کان میں آوے

اِہتِقاع (کسکعفس) بند کرنا باز

رکھنا کسی کا اونٹنی کو بٹھانا حسب

خیز کرنی تپ کا ایک روز بعد پھر آنا

ہر ایک چیز کا پھر آنا رنگ کا بدل جانا

مجہولاً مستعمل ہے

اِہتِکاع (کسکعفس) صبری کرنی

فروتنی کرنی باز رکھنا بند کرنا

اِہتِلاس (کسکعفس) بے عقل ہونا

اِہتِلاک (کسکعفس) اپنے تئیں مہلکہ میں ڈالنا

اِہتِلال (کسکعفس) چہرہ اور ابر کا

چمکنا ہنسی میں دانت آشکار کرنا

اِہتِلام (کسکعفس) الجھانا

[illegible]

اہتبال [illegible] کسی شخص [illegible] کرنا
[illegible] کرنا
اہتجار (ضم) [illegible] امر کی سامنے [illegible]
[illegible]
[illegible] کے
[illegible]
[illegible]
اہتقاع [illegible]
[illegible]
اہتہ (فتح) [illegible]
اہتہ (فتح) [illegible] کرنا
اہتہ (ضم) [illegible]
ہونٹ پر تپ کے سبب نکل آتا ہے اور
[illegible] (فتح) جھپک۔
اہتبار (فتح) [illegible]۔
اہتبار کسی شخص [illegible] بچے کے سبب [illegible]
اہتتام کسی شخص [illegible] جڑ سے دانت
[illegible] توڑنا۔
اہتیات کسی شخص [illegible] تیز ہو جانا [illegible]
[illegible] کے وقت [illegible] کرنا
اہتیاد کسی شخص [illegible]
[illegible] کی

[illegible]
[illegible]
اہتجاب [illegible] کسی شخص [illegible]
[illegible] کسی شخص [illegible]
[illegible]
[illegible] کسی شخص [illegible]
[illegible]
[illegible]
اہتبال [illegible] کسی شخص [illegible]
[illegible]
[illegible]
اہتجاش کسی شخص [illegible]
جاتا [illegible]
اہتجاج کسی شخص [illegible] کرنا
اہتجار کسی شخص آپس سے جدا ہونا
اہتجاش کسی شخص [illegible]۔
اہتجال کسی شخص [illegible]
اہتجام کسی شخص [illegible]
اہتجان کسی شخص نابالغ لڑکی کے
ساتھ جماع کرنا۔
اہتداء کسی شخص [illegible] پانی
دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔

[illegible] ۱۲

مادہ

اہتضار (فسفس) آدمیوں کے گروہ
اہتضاب (کسفس) بات کرنے لگنا
اہتضال (کسفس) ابر کا ریزان
ہونا ـ ڈول کا کوئیں کا سارا پانی لے لینا
اہتصام (کسفس) پانچویں یا
چھٹے سال میں داخل ہونے سے
اونٹ کا دودھ کے دانت گرانے
اور داڑھ نکال لینے سے بچہ کا دودھ کے دانت گرانا
اہضم (فسفس) باریک شکم اور باریک
کمر والا جسکے پہلو بہم در آمدہ ہو ـ
شکم باریک و در آمیدہ ـ جسکے اگلے
دانت دراز اور گندہ ہوں ـ
اہتمط (فففت) خوب چلنے والا اونٹ
اور صبر کرنے والا ـ
اہتطاع (کسفس) سیدھی لمبی گردن کرکے
کسی سے جھکانا تیز دوڑنا ـ
اہتقاد (کسفسم) کسی ہاتھ کے دل کا خراب کر دینا
اہکوشمت (فسصنف) مسخرا پن ـ
اہل (فس) مہذب شائستہ سعادت
اور جمع یکساں ہے اہلون (فسصنس)
اہالی (فصنسک) اہال (فس) اہلات
(فسفس) جمع ـ لائق مرد کی جورو
اور اجنبی بچہ کا اوسکا نفقہ اوسکے سر پر ہو

اہل الحل مردوں کے آقا و اہل الامر
حاکمان امر اہل البیت گھر کے لوگ
اہل المذہب صاحب دین و ملت ـ
اہل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ـ
دختران اور داماد آپ کے صلی اللہ علیہ
وسلم کہ علی ابن ابیطالب ہیں رضی اللہ
عنہ یا آپ کی عورتیں اور آپ کے اولیا
مردوں میں سے اہل اللہ اہل مکہ معظمہ
اہل القرآن حافظ قرآن اور اوسپر
عامل اہل الکتاب یہودی اور نصاری
اہل الردۃ جو بعد وفات رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر گئے
اہل الذمۃ یہودی نصاری اہل العصمۃ
مردوں کے خالص اور رشتہ دار لوگ ـ
اہل الصفۃ اسلام کے مہمان تھے
کہ صفہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات
کاٹتے تھے اور وہ مسجد کے آگے ایک
چھپر تھا ـ
اہل المدر گانوں کے رہنے والے ـ
اہل الشماتۃ بیگانہ لوگ ـ
اہل (فسک) یعنی اہلی (فسکت) آدمیوں
سمیت گھر یعنی جسمیں آدمی بھی ہوں
اہل (فسک) وہ جسکے جورو بچے ہوں

شعر اہرمی کا لکھا یہ مثل مشہور ہے جس
مین کہ سب کچھ شر و فساد کی علامت
ظاہر ہوا وہ جب کہ کوئی شخص رستے کی
آواز سنتا ہے اور شر و فساد سے خوف
کرتا ہے تو اسے خود یک سننے کے وقت
ادس علی عظیم سمجھ کر کہتا ہے کہ سکتے کو
سوا شر کے لکے کسی نے نہیں سمجھا یا
ہے پس اس صورت مین ایک خصوصیت
لفظ شر کی مثل مین واقع ہو گئی
اور اسی سبب سے نکرہ کا مبتدا ہونا درست
ہو گیا کبھی کبھی کرجاتی پر بتانا یا لانا —
اہراع [illegible] غصہ یا ضعف یا
خوف یا حیا کے سبب کانپنا یا
مستعمل ہو سرعت کرنی نیز کسی کی
طرف سیدھا کرنا اور اوپر سے گزرجانا
اہراف [illegible] بڑے پھلے
پھولے مال کا مالک ہونا — درخت
ہونا کمانے پھل کو جلد نکالانا —
اہرام [illegible] بڑھا اور بڑی عمر کا کر دینا
اہرۃ [illegible] حال نیک — ہیات
متاع خانہ — اہر [illegible] اہرات [illegible]
اہر [illegible] [illegible] فراخ و ہین
اہر [illegible] فراخ فراخ دہن —

اہر شفاف [illegible] [illegible]
اہرماخ [illegible] تحتانی کرنی
سبک ہونا کلام مین جھگڑا کرنا بہت
بولنا کسی پر جھوٹ رونا یانی اور
آنسو کا بہنا ہونا —
اہزام [illegible] اونٹ کو جاڑے مین
قتل کرنا شدت سرما مین داخل ہونا
سرعت کرنی جلدی کرنی —
اہزاج [illegible] بجز [illegible] مین شیخ کہنا
اہزاق [illegible] بہت ہنسنا —
اہزال [illegible] کسی کو جھوٹ کا
پالنا مثلاً [illegible] لاغر ہو جانا سختی
اور تنگی کے سبب سے مال کو بند کرنا
اہزع [illegible] پچھلا تیر جو ترکش مین
رہ جاوے ردی ہو وہ تیر [illegible]
سب تیروں مین اچھا ہوتا ہے کہ [illegible]
اور بیکار سخت سے لیے چھوڑ دیتے ہین
یا سب سے خراب و ردی سا [illegible]
ایک آدمی یعنی کوئی کچھ [illegible]
اہشار [illegible] سرگشتہ آدمی —
اہشال [illegible] کسی کو شتیلہ دینا
اہصار [illegible] [illegible]
سے آدمی قوی و توانا —

علامات اعراب ضمہ کسرہ فتحہ یعنی ضمہ فتحہ کسرہ سکون تشدید

| مادہ | | |
|---|---|---|
| ہ م ہ<br>ہ ک ہ<br>ہ ی ن<br>ہ ن ی<br>ہ ن ف<br>ہ ن ق<br>ہ ن ن<br>ہ ن ع<br>ہ ن و<br>ہ ن ی<br>۴۶۳<br>ثلاثی ہود<br>ثلاثی ہوس<br>ثلاثی اہل<br>ثلاثی ہوم<br>ثلاثی ہون<br>ثلاثی ہود<br>ثلاثی ہی<br>ثلاثی ہیب<br>ثلاثی ہجن<br>ثلاثی ہیس | اہود (فسف) دوشنبہ کا دن ۔<br>اہوس (فسف) خوب کھانے والا ۔<br>اہول (ضفس) (ان ض) پیار کرنا یا اہل ہونا کسی سے آرام پانا اور اوسکے سبب سے افسردہ ہونا ۔ گھر کا اپنے لوگوں سے آبادان ہو جانا ۔ اس معنی میں مجہولاً مستعمل ہے ۔<br>اہوم (فسف) بڑے سر والا ۔<br>اہون (فسف) آسان اور نرم ۔ روز دوشنبہ پیر کا دن ۔<br>اہوی (فسف) دوست تر ۔<br>اہویۃ (فسکتف) آسمان اور زمین درمیان ۔ ایک گڑھا ۔<br>اہونیان (کسکفس) جنگل کا پست اور ہموار اور کشادہ ہو جانا ۔<br>اہی (فس) قہقہہ مار کر ہنسنا ۔<br>اہیب (فسف) مہیب تر ۔<br>اہیجنۃ (فسکف) علجمۃ ۔ ہیجنۃ بولتے ہیں یعنی نابالغ لڑکا کہ جنکو نابالغ لڑکیاں دیویں ۔<br>اہیس (فسف) مرد دلیر ۔ دلیر دوست کہ کسی چیز سے نہ ڈرے اور منقبض یعنی ہیچ و پیچ نہو دے ۔ | اہتمام (کسفس) غمگین کرنا کسی کو سنانے آرام کرنا ۔ نہایت بڑا ہونا ۔<br>اہتکاک (کسکفس) پر پشم ہونا ۔<br>اہش (کمک) مال قدیم ۔ موجود ۔<br>اہناء (کسفس) طعام خوش ہضم کھلانا ۔ طعام خوش ہضم دینا ۔<br>اہناف (کسفس) نرم نرم ہنسنا تبسم سے بڑھکر جیسا تمسخر کرنے والیکا خندہ اور عورتوں کے ساتھ خاص ہے ۔ شتابی کرنی ۔ بچہ کا رونے پر آمادہ ہونا ۔<br>اہناق (کسفس) سنانے قرار اور سنانے آرام و تحسین کرنا ۔<br>اہنان (کسفس) رولانا ۔<br>اہنع (فسف) پست گردن خمیدہ قامت ۔ جو کہ زمین پر سیدھا اور ٹھیک بیٹھ سکے اور دائیں بائیں مائل ہوگئے ۔ زن گرامی نژاد کا بیٹا کہ بندۂ آزاد سے پیدا ہوا ہو ۔<br>اہواء (کسفس) گر پڑنا کسی پر تلوار مارتی ۔ ہاتھ کا ایک چیز کی طرف لینا اور بلند ہونا ۔ ہاتھ سے اشارہ کرنا ۔<br>اہوج (فسف) لمبا تھوڑی سمجھ کا ۔ حماقت اور سبکی اور شتابزدگی سمیت ۔ |

ماده

ہ ل ل
ہ ل ب
ہ ل ج
ہ ل س
ہ ل ک
ہ ل ل
ہ ل م
ہ ل ب

۴۶۲

ہمج
ہمت
ہمس
ہمج
ہمر
ہمل

اہلال رفت کسی سے آنسو پڑنا ملتے
اہلال وفرحا یعنی فراخی میں آیا اور زمین پر پہنچا یس آنسو پڑا اور جوشش مدر کرے
اہلاب رکسفس گھوڑے کا
رفتار کو شدید سرپٹ لانا۔
اہلاج رکسفس پنہان کرنا۔
اہلاس رکسفس آہستہ ہنسنا۔
سخن کو پوشیدہ کرنا پوشیدہ کہنا بھید کہنا
اہلاک رکسفس موت دینی ہلاک
کرنا۔ مال و اسباب کو بیچنا۔
اہلال رکسفس پہلے چاند کا نکلنا۔
معروفا بھوتا مستعمل ہے اور یہ ہلال بولتے ہیں
اہل الشہر یعنی مہینے کا چاند ظاہر
ہوا۔ لڑکے کا آواز سے رونا۔ ہلال کی
طرف نگاہ کرنا۔ کسی کو تلوار سے مار ڈالنا
تلوار سے کاٹنا۔ بیل سے کا تالو کی طرف
زبان اٹھانا تاکہ لقمہ کی جمع ہو۔ مہینے
کا چاند دیکھنا۔ تلبیہ گوی وغیرہ کا آواز بلند کرنا
اہلام رکسفس کسیکو الہام کہنا یعنی آ۔
اہلب رفسعت بہت بالوں والا امر
انبو مدار دم کا گھوڑا اسمال شعر لکھا
ہوا۔ یا بغیر بالوں کی دم بہت بالوں
والی دم۔ لغات اضداد سے ہی بہت

بیٹھنے والا اسال فراخی والا آنت کے سال
اہلتہ رفسعت لوگ سگ کے لوگ
جائے۔ جگہ۔ بی بی۔ جیب۔
اہلتہ رفکعت مال۔
اہلونتہ رضفس مال عقد طرح
اہالیب رفسکس جمع۔
اہلول رضفس ناچیز وبال۔
اہلی رفسکت اجر چرپاۓ کہ جس نے
گھر میں الفت پکڑی ہو۔ جمع درخت
کہ گھر میں یا باغ میں لگا دیں
اہلیلج رکسکسفت اہلیلہ ہر۔ اہلیلجہ
رکسکسفت ایک بعض زرد ہوتی ہے
بعض سیاہ ہوتی ہے۔
اہمار رکسفسم کپڑا ابھارنا۔ سیراب کرنا
اہمات رکسفس بات امید رہنی
کو پنہان رکھنا۔ پوشیدہ کرنا۔
اہماج رکسفس پوشیدہ پنہان رکھنا
گھوڑے کا رفتار میں کوشش کرنا۔
اہمار رکسفس گھوڑے کا سم کو
زمین پر زور سے مارنا۔
اہمال رکسفس ایک چیز کو خود سر
چھوڑ دینا۔ ایک چیز کو چھوڑ دینا اور
اوسکو استعمال میں نہ رکھنا۔

ماده

آفتاب کی روشنی اور خوبصورتی —
روئیدگی کی روشنی اور خوبصورتی —
آیَا (فتحہ) صیغہ ماضی ہی مصدر اسکا
تائیہ ہی اور اونٹ کو لفظ آیا آیا سے ڈانٹنا ہی
اِیَّا (کسرہ) مکسورہ مشددہ با اسم مبہم
سارے ضمائر اس سے متصل ہوتے
ہیں چنانچہ اِیَّاکَ (فتحہ) اِیَّاکُمَا (ضمہ فتحہ)
اِیَّاکُمَا (ضمہ فتحہ) اِیَّاکُم (ضمہ)
اِیَّاکِ (کسرہ) اِیَّاہُ (ضمہ)
اِیَّاہَا (فتحہ) اِیَّاہُمَا (ضمہ فتحہ)
اِیَّاہُم (ضمہ) اِیَّاہُنَّ (ضمہ فتحہ) اِیَّایَ
(فتحہ) اِیَّانَا (فتحہ) تو ان
مین کاف اور ہا اور یا اور نون بیان مقصود
کے لیئے ہین اور موضع اعراب مین نہین
ہین جیسا کہ ذٰلِکَ اور اَرَاَیْتَکَ مین کاف
ہی اور جیسا اَنْتَ مین الف اور نون ہی سو
اِیَّا اسم ہی اور ما بعد اسکا خطاب کے
لیئے ہی اور سارا بمنزلہ شئی واحد کے ہی
مضاف نہین ہی اس لیئے کہ اسمار مبہمہ لغیر
مکنیات مضاف نہین ہوتے ہین اس
لیئے کہ یہہ معرفے ہین اور بعض کے نزدیک
اِیَّا اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہی اور دلیل
اس پر یہہ قول ہی اِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ السِّتِّیْنَ

فَاِیَّاہُ وَاِیَّا الشَّوَابِّ پس اسمین ایا کو
شواب کی طرف اضافت کیا ہی کہ شواب
کو مجرور کیا ہی اور کبھی اسمین ہمزہ کو ہا
سے بدل کرتے ہین اور کبھی واو سے
چنانچہ ہِیَّاکَ اور وِیَّاکَ کہتے ہین اخفش
کہتا ہی کہ اِیَّا اسم مضمر مفرد ہی اوسکا آخر
مثل اواخر مضمرات مضمرین کے اختلاف
کے سبب متغیر ہوتا ہی اور بعض کہتے ہین
کہ کاف اور ہا اور نون اسمار ہین اور
اِیَّا انکا عماد ہی اس لیئے کہ وے بذات
خود قائم نہین ہوتے اور ضَرَبْتُنِیْ کہنا
صحیح نہین ہی بلکہ ضَرَبْتَ اِیَّایَ کہنا
چاہیئے اور کبھی یہہ لفظ اِیَّاکَ تحذیر کے
لیئے ہی جیسا کہ اِیَّاکَ وَالْاَسَدَ یا اِیَّاکَ
اَنْ تَفْعَلَ کَذَا —
اَیَا الشَّمْسِ آفتاب کی روشنی
اور اوسکی خوبصورتی —
اَیَابٌ (فتحہ) ایابت (فتحہ)
ایبتہ (کسرہ) (ن) پھر آنا آفتاب
کا ڈوبنا غروب ہونا —
اَیَا بٌ (فتحہ) ایوب (ضمہ)
آفتاب کا غروب ہونا — مَآبٌ (فتحہ)
بمعنے پھر آنے کی جگہہ —

ا و ی

ا ی ب

۲۹۵

اُشف (فتح) عرب فراخ یعنی پانی کا خرشحال بہت پانی سے گلو ہوا اور علف کی طرف سے فراخی۔

اُپیفان (فتح فتح) از رائی اور کھانا اور پینا۔

اُپیف (فتح) تیلی کمر والا۔

اُجیق (فتح) لنبی گردن والا۔

اُسیل (فتح) نیچے گرا ہوا ریت۔

اُکحیل (ضم) تصغیر اکحل۔

اُہیم (فتح) کے ستارہ عالی رتبہ۔

اَی (فتح) عاقل اور غیر عاقل کے استفہام کے لئے آتا ہے یعنی کون شرط وجزا کے لئے آتا ہے بمعنی جو شخص یعنی کمان پر بھی دلالت کرتا ہے اور کبھی حال واقع ہوتا ہے اور درمیان حرف ندا اور منادیٰ کے حرف کاف بھی اسپر آتا ہے اس صورت میں اسکے معنی بہت ہوتے ہیں اور اسوقت تنوین اسکی بصورت نون لکھتے ہیں جیسا کاین یعنی بہتیرے جو کچھ اور جو کوئی اسم ہے اور بعض کہتے ہیں حرف چند معانی پر آتا ہے اور لغت ما فی (فتح) میں گذرا۔

اِی (کس) حرف ندا حرف ایجاب بمعنی ہاں اور قسم کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے اور حرف تفسیر ہے

اِی (کس) حرف ایجاب ہے بمعنی ہاں اور قسم کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے جیسا اِی وَاللہِ اور ایسا ہی وَاللہ بھی

اَی (فتح) اسم معرب ہے اور صاحب قاموس کے نزدیک حرف مبنی ہے عاقل اور غیر عاقل کے استفہام کے لئے آتا ہے یعنی کونسا شرط وجزا کے لئے بھی آتا ہے یعنی جو شخص یعنی کمان پر بھی دلالت کرتا ہے اور کبھی حال واقع ہوتا ہے حرف ندا اور منادیٰ کے درمیان حرف کاف بھی اسپر آتا ہے اس صورت میں اسکے معنی بہت ہوتے ہیں اور اسوقت تنوین اسکی بصورت نون کے لکھتے ہیں جیسا کاین کتنے ہی کاسی کا پر مگر استفہام کے معنی میں بھی آتا ہے جیسا کاین [illegible] التعجب

ایا (فتح) مقصور مخفف ندا سے بعید کے لئے ایک حرف ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ندا قریب کے لئے ہے اور کبھی اسکے ہمزہ کو ہا سے بدلکر ہیا بھی کہتے ہیں جو حرف ندا ہے

ایاک (فتح) ایاۃ (کس) ایا (ضم)

آپس سے متفرق ہو گئے تھے۔
اَیَّامُ التَّشْرِیق تین دن جو بعد عید الاضحیٰ کے ہوتے ہیں۔
اَیَّامُ سَبْعَہ ساتون جو پورے اور تمام دن ہوں۔
اَیَّامُ العَجُوز سات دن ہیں کہ جو مہر کے پیچھے آتے ہیں جن میں بعض دیر کام کرتے ہیں۔
مُتَوَسِّم مُعَلَّل مُنقطع الحجر یا ملغی نقطعن
اَیَّامُ المَعْلُومَات ماہ ذی الحجہ کے دس دن یکم سے۔
اَیَاجِر (ضمعن) ایک بیماری ہے اونٹون کی۔ دھوان۔
اَیَامْ (کفس) دھوان۔
اَیَّانَ (فتعن) کب اِس لفظ سے زمانہ کا سوال کرتے ہیں جیساکہ متی سے جیسا اِس قول الٰہی میں اَیَّانَ مُرْسٰهَا
اَیَایا (فعفسف) اونٹ کے لیئے ایک ڈانٹ ہے یا یا اور یایہ بھی اِسی معنے میں ہے۔
آیک (رکمک) الجھ آسنے والا اور بدبو
اواب (فتفس) ایاب (فتعفس) جمع۔
اَیْبَاب (کسفسم) عرب میں بعض کہتے ہیں فلانٌ یحجر ولا یجبل اور یکسر یا بھی بولتے ہیں یعنی فلان شخص ایک دریا ہے کہ لوگون کو اِس بات پہ نہیں رکھتا کہ اوس سے انکار کرین یعنی پانی اوسکا منقطع نہیں ہوتا بلکہ لائق ہے کہ ہمیشہ لوگ اوس سے نفع لیوین اور ایسا ہی لوگ بھی بولتے ہیں فلانٌ کلاٌ لا یجبل یعنی زمین کا بیماری ناک ہو جانا منہ کے آگے سے اونگلی سے اشارہ کرنا تاکہ آگے آوے اور ایماء کہتے ہیں اونگلی سے پیچھے سے اشارہ کرنا تاکہ پیچھے رہجاوے سرود وغیرہ کا بچے کو ناگوار ہونا۔
اِیبَاد (کسفس) جدا کرنا۔
اِیبَار (کسفس) پشیمان کرنا۔
اِیبَاس (کسفس) خشک چارہ پہنچنا زمین کا خشک گھاس والا ہو جانا ایک چیز کو خشک کر دینا پیادہ چلنا اور بولتے ہیں اُیبس یعنی چپ رہو۔
اِیبَاش (کسفس) سرعت کرنی زمین کا گھاس اوگانا اور اوسکا مخلوط
اِیبَاص (کسفس) زمین کا گھاس نکلا ہوا ہونے کے سبب چمکنا زمین کا بہت والا ہو جانا آگ کا چمکنا اور اوسکا لوکا اور لپٹ مارنا۔
اِیبَاط (کسفس) سست کر دینا۔
اِیبَاق (کسفس) بند کرنا۔ باز رکھنا یا ہلاک کرنا۔ مار ڈالنا۔

مادہ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ے وبر
ے ود
باب الیاء
۹ے یبس
۱۰ے وبش
۱۱ے وبص
۱۲ے وبط
۱۳ے وبق
۱۲

ایائب (فقفس) سقا۔
ایاث (کسمس) غصہ میں لانا کسی کے ساتھ ایسا کام کرنا کہ جس سے وہ شرم کرے یا خشمناک کرنا یا کسی اوسکی حاجت سے رسوائی کے ساتھ
ایابس (ففسک) ایک چیز سخت و درشت جیسے تلوار آزما میں۔
اباۃ (فسعت) الوزن معنی بیات۔
ایاۃ (کتتمس) آفتاب کی روشنی اور اوسکی خوبصورتی اور ایسا ہی ایاۃ القبات کو بھی کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ایاۃ آفتاب کے لیئے ایسا ہے جیسا چاند کے لیئے ہالہ ہے۔
ایاد (کفس) پشتیبان۔ وہ کہ جس سے قوت ہووے۔ جائے پناہ۔ پناہ۔ ضغاد حمایت۔ جو یعنی آسمان اور زمین کا درمیان۔ پہاڑ مضبوط۔ حوض اور خرگاہ کے گرد اگرد کی خاک ریت کا پشتہ۔ داہنا یا بایاں لشکر کا اونٹوں کی بھیاہ۔
اَیادۃ (کفسف) قوت دینی۔
ایار (کفس) کانسی۔
ایانیز (کفس) او سوسن کے تیسر مہینے کا نام معلوم سال سے

ایار (کفس) جو یعنی زمین و آسمان کا بیچ۔
ایآر (کسمس) کسی کو بھگانا اور رم کرنا۔ کسی کو آگاہ کرنا یا نشان کرنا۔
ایارجۃ (کفسکف) ایارہ کہ ایک معجون مسہل ہے یا ہیج معرب ایارہ کہ نار و الہی ہے۔
ایاری (ففسکت) برے ذکر والا۔
ایآس (کسمس) ارس ناامید کرنا اسکی معنی ایاس بھی آتی ہے اور آئیس بھی آتی ہے۔
ایاس (کفس) ایس ناامید ہونا۔
ایاسین (ففسکس) جمع الیسان کی بعض
ایاصی (ففسک) چھوٹی رسیاں کہ جن سے دامن خیمہ کو میخ سے باندھتے ہیں۔
ایال (کفس) شراب وغیرہ کا برتن۔
ایال (کفس) ان۔ گاڑھا ہونا سیاست کرنی۔ والی ہونا۔
ایآل (کسمس) جگہ کا گوبر بھرا ہونا جگہ کو یا اشتی کا گوبر بھرا کر دینا۔
ایالان (کفسفس) ندیاں۔ تالے۔
ایالۃ (کفسف) ان۔ سیاست کرنا۔ والی ہونا۔ حاکم ہونا۔
ایام (ضمع) جمع یوم کی کے دن۔
ایام التحا وقات وہ دن کہ جن میں ستارے

چرانے اونکہبانی مین ثابت نہین رہتا
ہی اونکی خوب خدمت نہین بجالاتا
یا وہ حالت سواری مین اونٹون پر
ثابت نہین رہتا۔
اِئتمار رکسکفس کسی کے اثر چلنا
اِئتجاج رکسکفس آگ کا افروختہ
ہونا۔ دن کا سخت گرم ہونا۔
اِئتجار رکسکفس طلب اجر یعنی ثواب ڈھونڈ
دینا۔ اجرت لینی۔
اِئتخاذ رکسکفس بعض کا بعض کو
جنگ مین پکڑنا۔ اِتّخذوا فی القتال
اِئتدام رکسکفس روٹی کو سالن
کے ساتھ ملانا۔ لکڑی کا بعض پکڑنا۔
اِئترار رکسکفس زنبوران عسل کا
شہد بنانا۔ مکان کا مین اقامت کرنی
اور اوس مین بند ہو جانا۔
اِئترار رکسکفس سرعت کرنی۔
اِئتراش رکسکفس خراش کے
لیے تاوان قبول کر لینا یعنی کسی سے
خراش کے بدلے تاوان لینا۔
اِئتراق رکسکفس رات کو بیدار رہنا
اِئتراک رکسکفس درخت اراک کا
مضبوط ہونا یا اوسکا جوان ہونا۔

اِئتزار رکسکفس ازار پہننی پس لفظ
کو اتزار رکسکفس لکھنا چاہیئے یعنی
ہمزہ کو تا اور تا کو تا مین ادغام کرنا
چاہیئے اور وہ جو بعض حدیث میں آیا ہے
تحریفات رواۃ سے ہے۔
اِئتزاز رکسکفس ہانڈی کا جوش
مین آنا دوڑانا سرعت کرنی۔
اِئتزال رکسکفس اچر جانا۔ سبق مین
سوراخ کرکے شراب نکالنی کلی کا کھلنا
اِئتسام رکسکفس پیشوا بنا لینا
اِئتسار رکسکفس یعنی اقتنا
اِئتشار رکسکفس ہڈی کا شکستگی
سے اچھا ہو جانا۔
اِئتشار رکسکفس دانتون کی
صفائی کی خواہش کرنی۔
اِئتصار رکسکفس بہت ہونا شما
مین سلینا اور بہت ہونا لباس کا۔
زمین کی روئیدگی کا پاس پاس ہونا۔
اِئتصاص رکسکفس مجتمع ہونا قوم کا
اِئتضاض رکسکفس [illegible]
اضطرار کسی کا مضطر ہونا جیسے [illegible]
اِئتطام رکسکفس بیماری طاعون
مین مبتلا ہونا مجہولا جیسے اُئتطم علیہ

خ
ج
ر
اخ
اد
ا ر
ج
ا ر
ا ر
ا ر
ا ر
ا ز
ا ز
ا ز ل
ا ر
ا ر
ا ص
ا ض
ا ط

| مادہ | علامات اعراب جو بخط مستقیم سے لیے ضمہ ض فتحہ ف کسرہ ک س سکون ن تشدید م |
| --- | --- |

مادہ:
ابل
ابر
اد
ابس
ای
بج
بغ
بد
وند
دنز
۴۶۸
تبغ
تب
تیت
اب
اب
الط
عب

اِیبَال (کسفس) بہت اور تولو والا ہونا۔
اِیتَبَاہ (کسفس) جاننا۔ دریافت کرنا۔
آیبہ (کف) پانی جو کہ بچہ پیوین۔
ایبہ (فسف) بازگشت۔
ایبد (فسف) ایک گھاس ہی اوسکا خوشہ اور گھاس جو کے خوشہ اور گھاس کی مانند ہوتا ہی بونٹوں کو موٹا کرتا ہی۔
آیبس (فسف) خشک۔ ساق سینے گوشت۔ استخوان ساق کا اگلا کنارہ کہ سنے گوشت ہووے جب اسے بجبہو تو وزن معلوم ہووے اور وہ دو ہوسکتی۔ یا لبس (فسکا) جمع۔
آیتہ (مف) تپلا۔ آدمی وغیرہ کا کالبد عبرت۔ بند نشان۔ جماعت۔ ایک فقرہ قرآن شریف کا آیات (معنس) آی (مف) اتعا یا (فض) جمع۔ آیا ی (فسم) جمع الجمع۔
اِیتَاہ (کسفسم) کسی کی طرف ایک چیز لانی۔ صلہ الی ہو کسی کو ایک چیز دینی۔ کسی کو پاداش و جزا دینی۔
اِیتَاح (کسفس) دہش کو کم کرنا اور بیوان کا کم مال ہو جانا۔ رنج اور مشقت مین ڈالدینا۔

اِیتَاخ (کسفس) پہنچنا۔
اِیتَاد (کسفس) میخ ٹھونکنی۔
اِیتَار (کسفس) کمان کو چلہ کرنا۔ کمان کے لیے چلہ بنانا۔ جفت کو طاق کر دینا۔ نماز وتر ادا کرنی۔ ایک چیز کو طاق کر دینا۔ نماز کو طاق کرنا۔
اِیتَاغ (کسفس) ہلاک کرنا۔ باز رکھنا۔ یا کسی کو بدی اور فتنہ مین ڈالدینا یا دردناک کرنا۔ لینے دین کو گناہ سے نقصان مین ڈالنا۔
اِیتَام (کسفس) عورت کی دو راہون کو ایک کر دینا۔
اِیتَان (کسفس) عورت کا پاؤں بچا جننا۔
اِیثَاب (کسکفس) سیر کے لیے آمادہ ہونا۔ اتب کو پہننا۔
اِیثَار (کسکفس) کسی سے اپنے خدمت خرما اور کھیتی کی کشتی اور اصلاح چاہنی۔ کان کھودنا۔
اِیثَاط (کسکفس) ہموار اور درست ہونا۔ طبیعت کا بھاری اور فاسد ہو جانا۔
اِیثَال (کسکفس) عرب مین کہتے ہین اثر ملا کیا تیل م یعنی وہ لوگون کے

علامات اعراب ضمہ فتحہ کسرہ یعنے پیش زبر زیر سکون تشدید

ائتاف (کسفس) ہانڈی کا چولھا بنانا
ائتاق (کسفس) بند کرنا۔
ائتام (کسفس) گناہ میں ڈالدینا۔
ائتان (کسفس) کسی کو عطایے بزرگ دینی سال کو افزون لینا۔
ایجام (کسفس) دور کرنا کوئین کا پانی بند یکسو کردینا سے نیل مقصد پھر جانا۔
ایجاد (کسفسم) بخشنا۔ بخیلی کرنی۔ لغات اضداد سے ہے چھاتی کے سم کو گھسا ہوا کردینا۔ شکاری کا بغیر شکار کے پھر آنا سو جار بھیجنا۔ کوئین کھودنے والے کا زمین سخت پر پہنچنا اور پانی نہ نکالنا۔ اعراض کرنا۔ کھینچ لینا کسیکو تاکس یبخیر پانا۔
ایجاب (کسفس) فرض کرنا لازم کرنا۔ ایسا کام کرنا کہ جسکے سبب بہشت یا دوزخ واجب ہو جاوے کسی کے دلکو ہلایانا۔ رات دنمیں ایکدفعہ کھانا۔
ایجاح (کسفس) راہ وغیرہ کا ظاہر اور آشکار ہو جانا۔ سنگ تابان پر کوئین کھودنے میں پہنچ جانا۔ بیشا کا کسی پر تنگ ہو جانا۔ پناہ لیجانی۔ گھر کا پردہ لٹکا دینا و چھوڑ دینا۔

ایجاد (کسفس) قوی پشت کردینا قوت بخشنی جیسے الحمد للہ الذی آجدنی بعد ضعف یعنی خدا کا شکر کہ اوس نے مجھکو ناتوان اور ضعیف ہونے کے بعد قوی پشت کردیا۔ پیدا کرنا۔ ہست کرنا۔ کسی کو مطلب پر پہنچانا۔ دولتمند و بے نیاز کردینا۔ سبقت کسی کو ایک کام پر معین رکھنا۔ سستی کے بعد قوی کردینا۔ صدیق دینا۔
ایجاذ (کسفس) کسی کو ایک چیز کیطرف مضطر کردینا۔ زبردستی میں کرنا ایک کام پر
ایجار (کسفس) کسی کو اوسکے عمل کا بدلا دینا۔ ہڈی کو کھچی پر باندھنا کھڑا کا اپنے تئین خرچی پر مباح کردینا ایک چیز کو کرایہ اور مزدوری پر چاہنا دینا۔ کسی کے دہن میں نیزہ مارنا۔ کرایہ کردینا
ایجار (کسفس) دہن میں دارو چھوڑنی۔ دہن وغیرہ میں نیزہ مارنا۔
ایجاز (کسفس) کلام کو کوتاہ کرنا اور اوسکا کوتاہ ہو جانا۔ دینے کو شتاب دینا۔ یعنی بخشش میں جلدی کرنی۔
ایجاع (کسفس) دردناک کرنا۔
ایجاف (کسفس) رفتار جیف پر ہانکنا۔
ایجال (کسفس) درد گردن کی ہوا

ماده
[illegible]

مادہ
لقط افک
[illegible]

اِلْتِقَاط (کسکفس) کسی چیز کا لینا۔
اِئْتِفَاک (کسکفس) جھوٹ کہنا۔ اور الٹ جانا شہر کا لوگون سمیت۔
اِلْتِقَاظ (کسکفس) بیشتر بنانا۔
اِئْتِکَاک (کسکفس) گرم ریت سے ہوا ہونا ملک کا۔ بڑا ہونا ایک کام کا اور اوس سے تمارلعد تنگ رکہنا۔ پانون ہیلتے اور اونکا کانپنا۔ گہاٹ کا اتنوہ ناک ہونا۔
اِئْتِکَال (کسکفس) غصہ کرنا۔ برانگیختہ ہونا غصہ سے بہڑک اوٹھنا بعض عضو کا بعض کو کہا لینا۔
اِئْتِلَاء (کسکفس) تقصیر کرنی تاخیر کرنی تکبر کرنا غرور کرنا۔
اِئْتِلَاخ (کسکفس) مشتبہ و مختلط ہونا کام کا۔ بڑہنا اور پہولنا گہاس کا۔ پیٹ کی کسی چیز کا ہلنا سدو دہ کہٹا ہو جانا۔
اِئْتِلَاف (کسکفس) مجتمع ہونا۔ موافقت کرنی۔
اِئْتِلَاق (کسکفس) بجلی کا چمکنا۔
اِئْتِمَار (کسکفس) فرمانبرداری اپنی رائے سے کام کرنا۔ مشورہ کرنا۔ اضداد سے ہی قصد کرنا۔ آپس مین حکم کرنا۔

اِئْتِمَام (کسکفس) قصد کرنا۔ پیروی کرنی۔ آپس مین دو شخص کا سیم کرنا۔ سے ملکر
اِئْتِمَار (کسکفسم) بولتے ہین
اِئْتِمَان (کسکفس) اعتماد کرنا۔ امین بنانا امین کرنا۔ معتمد علیہ ہونا۔ تدر ہو جانا مجھ کا
اِئْتِنَاف (کسکفس) نئے سرے سے کام کرنا اور اوسکو شروع کرنا۔
اِئْتِوَاء (کسکفس) کسی کے پاس پناہ اور جگہہ پکڑنی معاف اور رحم کرنا امیر اور حاکم بھی کرکے اقرار ہے کہتے ہین۔
اِئْتِیَاب (کسکفس) پہر آنا۔ رات کیوقت آنا یا رات کیوقت پانی پر آنا عرب کا دستور ہے کہ انکو سفر کرتے ہین جہان پانی ملتا ہے ٹھہرتے ہین۔
اِئْتِیَام (کسکفس) بیوی عورتکو چہوڑ دینا
اِئْتِشَاء (کسکفسم) پہٹنا ہڈی یا ہاتھہ کو درد ناک یا معیوب کرنا۔ بغیر ٹوٹی ہوئی سواری والا ہونا چوپایہ ہو یا کشتی ہو۔
اِثْتِئَاب (کسکفس) گہبرانا۔
اِیْثَار (کسکفس) برگزیدہ اور گرامی کرنا اور دوسروں کی غرض کو اپنی غرض پر مقدم رکہنا۔ اثرۃ (ففف) اسم مصدر ہے بمعنی فضیلت ایک کو ایک سے پیچھے کرنا۔

ایداب رکسعفس کسی کو مہمانی میں بلانا شہر ونکو عدل اور انصاف سے پر کردینا

ایداح رکسعفس میلان اور اعتقاد کرنا یا نا چیز اور ذمہ مال کا اقرار کرنا یا کسی شخص کی فرمانبرداری کا اقرار کرنا جو اوس کے کھینچنے کے لیئے جاتا ہے فروتنی کرنی عوض کو اچھا کرنا اونٹوں کا موٹا اور خوش حال ہونا بوک کا جتی سے رک جانا ۔

ایداس رکسعفس زمین کا گھاس کو اوگانا اسا کہ روی زمین کو ڈھانک لیوے ۔

ایداع رکسعفس کسی کے پاس ودیعت رکھنی کسی کی ودیعت اپنے پاس رکھنی لغات اضداد سے ہی قوم میں صلح کرانا

ایداع حج کو اپنے اوپر واجب کرلینا احرام کے لیئے زعفران لگانے سے ۔

ایداق رکسعفس مینہ کا برسنا اور خر وغیرہ کا نر کا مشتاق ہوجانا ۔

ایدام رکسعفس لوگوں کے درمیان صلح کرانی اور الفت کرا دینی سعوقی کو سالن کے ساتھ ملانا اور یم کا اپنے آدمی کو ظاہر کرنا

ایدامتہ رکسعفس بغیر تیھر کے زمین سخت ۔ ایاوم ... جمع ...

... کا صیغہ ... دیکھا ...

آیدان رکسعفس ہر ایک چیز کا قریب کرنا قسیلے نیچے جھنے

آیداہ رکسعفس اونٹ پر آواز مارنی

آیدع رکسعف زعفران سرخ یا لقم خون سیاوشان ایک شلم ہے سرخ ستقاقی لا سے لانے ہیں خون کے علاج میں استعمال کرتے ہیں ایک درخت ہے جس سے کپڑے رنگتے ہیں ایک قسم کی حنا ایک ۔۔۔

آیداء رکسعف ستانا ۔

ایداء رکسعفس ہدیہ دینا اور جب لفظ مفعول متعلق سمجھے کے گئے تو آدمی آزاد ... ایداء آدمی کو ... اور ... نہیں کے ...

آیدام رکسعفس ڈھول پر ... حج کو اپنے اوپر واجب کرنا ۔

ایذان رکسعفس اعلام کرنا اذان کہنا ۔ کسی کو تعجب میں لانا ۔ سو کردینا کان میں لانا ۔ کسی کو ایک امر کا آگاہ کرنا ...

آیر رکسعفس جماع کرنے والا ۔

ایر رفتق سخت تیھر جیسے حجر آئیر

ایر رفس ذکر ۔ ایور رضعفس آیار رمعفس آیر رمعفس جمع فرزند ۔ باد صبا

ایر رکسر باد صبا ۔ باد شمال ۔ ہوا گرم سعوی ۔ چاند کا زینہ ۔ ایک پہاڑ

را
ام
ل
وجم
ع
وجی
ع
فج
عد
وحد
ع
وحر
ش
دخز
شمو
وغم
ریح
وخنش
حب
حف
رب
رہ
موم
یدی

[redacted]

ایجام (کسفس) شیر کا اپنے بیشہ میں داخل ہونا۔

ایجاہ (کسفس) بزرگ کردینا۔ باقدر پانا۔ یاقدر گردانتا۔

ایجاؤ (کسفسم) اللہ تعالی کا کام سمجھانا اور الہام کرنا۔ ترسناک و خوفناک ہوجانا۔

ایجاج (کسفس) مضطر کرنا۔

ایجاد (کسفس) تنہا چھوڑ دینا۔ باقی رہنا۔ زمانہ کا یگانہ کردینا۔ بکری کا ایک بچہ جننا۔

ایجاز (کسفس) دحرہ کا طعام کو سمکر کردینا کہ اوسکے کھانے سے سوتے آوے یا پیٹ میں پڑے۔

ایحاش (کسفس) زمین اور شہر کو بغیر نبات اور بغیر آدمیون کے پانا۔ گھر اور جگہ کا ویران اور خراب ہوجانا۔ غمگین کرنا۔ بھوکا ہونا۔ بغیر توشہ کے ہوجانا۔

ایحاف (کسفس) سرعت کرنی۔ اونٹون کے لیے چراگاہ کا ناموافق آنا۔

ایحال (کسفس) گارے میں کیچ دینا۔ کسی کو بڑی سختت میں ڈالدینا۔

ایحا (کسفس) کلمہ تعجب۔ اور یہ کلمہ اوسکے حق میں کہتے ہیں جسکا تیر نشانہ پر پہنچا ہو۔

ایخ (کسک) یہہ کلمہ ہے کہ ہیں سے اونٹون کو بٹھلاتے ہیں۔

ایخاس (کسفس) عطیہ کو کم کرنا۔ کسی کی عزت اور آبرو کو برا اور عیب دار کرنا اور اوسکے حق میں نقصان پہنچانا۔ ملجانا یا بار بار تیر قمار کو پایہ پہیرانا۔

ایخاض (کسفس) سوار کا سراب کو ایکبار بلند اور ایکبار پست دیکھنا یعنی سوار کا سراب کو تلملاتا پانا۔ بخشش کم کرنا۔

ایخاف (کسفس) خطمی کو ملنا۔ آنا کہ لعاب نکل آوے۔ سرعت کرنی۔

ایّد (زفتک) قوی و توانا۔

اید (فس) قوت۔

اید (فس) (ض) قوی ہونا۔

ایداء (کسفسم) کسی پر مدد دینی۔ قوت پکڑنی۔ سر دکی سلاح کے سبب قوت دینی۔ قوم کا ایک جگہ میں فراخی اور ارزانی کے ساتھ بہت ہونا۔ لونڈون کا یا اور مال کا بہت ہونا یہان تک کہ بیچنے مالک کو محافظت اور خبر گیری سے عاجز کردے۔ ہلاک ہونا۔ موت کا گھیرلینا سودی ڈالنا کسی پر احسان کرنا۔

علامات اعراب ضمہ فتحہ کسرہ سکون تشدید

پیشاب کرنا یہ حال حاملہ کا ہوتا ہی۔
ایزاف (کسفس) سرعت کرنی دوڑنا۔
ایزان (کسفس) ایک چیز پر دل رکھنا۔
الیش (فسف) قہر و غلبہ۔
الیس (فسح) نرم ہونا۔
ایساب (کسفسم) بال ہونٹوں کے قطع کرنا۔
ایشاب (کسفس) زمین کا گیاہ ناک
ہونا۔ جگہ کا بہت گھاس والا ہو جانا۔
ایشاج (کسفس) چمک اور بنیاک کر دینا۔
ایساد (کسفس) قوم کے درمیان
فساد ڈالدینا۔ کتے کو بھڑکانا سیرین
شتابی کرنی۔ کتے کو شکار پر برانگیختہ کرنا۔
ایشار (کسفس) توانگر اور سنے دینا
ہوجانا عورت کا آسانی سے جننا۔
ایشلاع (کسفس) دست رسی اور
توانگری کے ساتھ ہونا لغمت کو
کسی پر فراخ کر دینا۔ توانگر کر دینا۔
ایشاف (کسفس) غصہ دلانا غمگین کرنا۔
ایشاق (کسفس) اونٹ کو لاغر اور
خرما کا درخت کا بہت پھل والا ہوجانا۔
ایشاک (کسفس) باقی چھوڑ دینا
صلہ اسکا ساتھ لام کے سالک
انسان کو ایسان بھی کہتے ہیں۔

الیشان کو بیٹن کی بو کا بیہوش کرنا۔
الیسر (فسف) رجب۔
ایشابر (کسفسم) اچھا کر دینا دوا کا بدن کو
ایشاء (کسفسم) زمین کا پہلی گھاس کا
نکالنا۔ خرما درخت کا پیلا رطب نمایاں
ہونا۔ مرد کا بہت مال والا ہو جانا۔
شعر و کلام سے کے معنے نکالنے۔
کھان میں تھوڑا تھوڑا سونا پانا
زمین سے ایک چیز باہر لانا۔ ایڑ سے
گھوڑے کو برانگیختہ کرنا اور نہایت
اوڑانا۔ ایک چیز کو بنانا۔ کچھ درم و دینار
مین سے لینا۔ دوا کا بیمار کو اچھا کرنا۔
ایشاع (کسفس) درخت کا پھول
لے آنا۔ چرپایہ کے دہن میں دوا
گرانی چوپانی۔
ایشاغ (کسفس) پیشاب کرنا
دہن میں دوا چوپانی۔ دہش کم کرنا
ایشاق (کسفس) ایک چیز میں متعلق ہونا
ایشاک (کسفس) سرعت کرنی۔
بولتے ہیں یوشک ان الامر ان یکون
و یوشک ان یکون الامر یعنے
شتاب ہونے لگا کام۔
ایشعال (کسفس) کسی کے حصہ کو

ماده
وسن
وزن
وزن
وسب
وسب
وسی
وسب
وسج
وسب
وسب



وسع
وسف
وسق
وسن
وسر
ابسی
وسی
وشغ
وشق
وشک
وشل

ماده

عد وغ
ر
ر ا
ر د
ر ع
ر ع
در
در
در

اَلْحِیر (ھنک) بادِ صبا یا بادِ شمال ہے
اِیرا بر (کسفسم) موٹاپے کا اونٹ میں
چربی بھر اعبید چربی کا کر دینا آتش
زنہ میں سے آگ نکالنی ہاتھ
اِیراب (کسعنس) کسی پر چادر بچھانا
اِیحراخ (کسعنس) کتاب میں تاریخ
لکھنی [illegible] کو گرم اور لٹکا ہوا کر دینا
اِیراد (کسعنس) لانا [illegible] حاضر لانا
اِیراش (کسعنس) پتے کا اندھا
کھجور کا اسپر ک ناک ہونا [illegible]
ایک رنگ [illegible] سے چیزوں کو
[illegible] میں درخت کا نکال لانا
اِیراص (کسعنس) ایکبارگی [illegible]
اِیراض (کسعنس) [illegible] کام [illegible]
ایکبارگی مرد کا پائجامہ پھیر دینا [illegible]
مرغی کا انڈے پر بیٹھک بیٹ کر دینا
اِیراط (کسعنس) زمین کا ارطی کا درخت
نکال لانا [illegible] اور ہلاکت میں [illegible]
ایک اونٹ کو اور اونٹوں میں چھپانا
حلقہ گردن شیر میں رسی باندھ کر کھینچنا
تا کہ گلا رک جاوے
اِیراع (کسعنس) [illegible] کے
درمیان مانع آنا

اِیحراف (کسعنس) سایہ کا فراخ پڑنا
اور اسکا دراز ہو جانا
اِیراق (کسعنس) بیدار رکھنا [illegible] پتے
نکال لانا درخت کا [illegible] مال والا اور
[illegible] ورم والا ہو جانا شکاری کا تیر شکار
[illegible] شکاری کا تیر [illegible] کے ڈھونڈنا
[illegible] ہو جانا
اِیرام (کسعنس) [illegible] کی پستان [illegible] جانا
اِیراہ (کسعنس) گھوڑے کا [illegible]
[illegible] گمان ہونا
[illegible] جانا
[illegible] میں گرانا
[illegible]
[illegible]
[illegible] لگانا
اِیرال (کسعنس) [illegible]
اِیراز (کسعنس) [illegible]
کرنا کسی [illegible]
گران کرنا چھپانا
اِیسراع (کسعنس) [illegible] انگلی
الہام دینا [illegible] کا [illegible]
[illegible] کرنا
اِیسماع (کسعنس) [illegible] کا [illegible]

اِیطا و [کسرہ] یا ایک ردیف کو دوبارہ لانا
قافیہ میں لفظًا اور معنًا [illegible]
لفظًا اور معنیٰ شعر میں قوافی کا مکرر کرنا
اور یہ عیب ہے شعر میں
اِیعاد [کسرہ] وعدہ اور ڈرانا
اِیطان [کسرہ] ایک جگہ کو وطن بنانا
کسی جگہ رہنا
اِیطاء [کسرہ] پامال کرنا
اِیطال [کسرہ] باطل کرنا
یعنی وہ شے جو خواہش کرے
اِیطاش [کسرہ] بھی اصل کسی کا
باطل کرنا جمع
اِیعاد [کسرہ] ایک چیز کو برتن میں رکھنا یاد کر لینا جمع کرنا
نفقہ کو تنگ کرنا درخت کو جڑ سے اکھاڑ ڈالنا
اِیعاب [کسرہ] قوم کا جملہ ہونا
ایک چیز سب کی سب لے لینی جمع کرنا اور جڑ سے اکھاڑ ڈالنا
ایک چیز میں داخل کرنا
میں ایک چیز کھلانا کہتے
تمام کلام میں ڈالنا
اور سب کا [illegible]

دلیر دن کی جنگ میں سخت گر پڑنا
لیا کہ آپس میں کٹ جاویں
اِیعاث [کسرہ] زمین میں عیث میں
آپڑنا مال کو بیہودہ خرچ کرنا
اِیعاد [کسرہ] شر و بدی کے ساتھ
ڈرانا دھمکانا
اِیعار [کسرہ] کسی پر راہ کا دشوار ہو جانا دشوار جگہ میں پہنچانا دشواری
میں پڑنا اور کم مال ہو جانا ایک چیز کو کم
کرنا دشوار پانا
اِیعاز [کسرہ] ایک کام میں پیش آنا
ایک کام پر فرمان دینا
اِیعاس [کسرہ] [illegible]
اِیعاط [کسرہ] [illegible] سے بآواز
بلند آواز کہنا
اِیعال [کسرہ] کسی کی طرف پناہ
لینی آپس میں درمیان
میں کرنا سختی کرنا میں داخل ہونا
کینہ دار اور خشمناک کر دینا کسی کو غصہ
سے گرم کرنا [illegible]
[illegible]
تمام [illegible] زمین [illegible]
ایک شخص [illegible]

ماده
[illegible]

مادہ

وشغ
وشی
وصب
وصد
وصف
وصل
اصر
ایض
وضح
وصی
وضح
وضص
وضع
وضف
وضم

کم کرنا - پانی کو دستے والا یا نا پستان
اودے کے سرے کو بچے کے منہ میں
داخل کرنا کہ وہ دودھ چوسنا سیکھے -
ایشام (کسفس) انگور کا پکنے
کے بعد رنگین ہونے لگنا یا اوسکا نرم
اور اچھا ہو جانا - لڑکی کا پستان
نکال لانا - بالونکی سپیدی ظاہر ون
ہونی - کسی کی عزت آبرو کو عیب ناک
کرنا اور دشنام دینی - اونٹ کا گیاہ
ناکی چراگاہ پانا - برق کا تھوڑا سا چمکنا
اور اوسے دیکھنا اور بولتے ہیں اشیم
فلان یفعل کذا یعنی فلانا ایسا کرنے لگا
ایصاء (کسفسم) نصیحت کرنی -
فرض کرنا - وصی گردانا -
ایصاب (کسفس) بیمار ہونا بیمار
کر دینا - ایک چیز پر ہمیشہ رہنا اور اوسپر
قیام کرنا ثابت رہنا - فرزند بہت
جنے - اونٹ میں چرپلی بہت پیدا ہونی
ایصاد (کسفس) دروازہ کو بند کرنا
حظیرہ بنانا - کتے وغیرہ کو چھیڑکانا -
دروازہ کو بند کرنا مقفل کرنا -
ایصاف (کسفس) خدمتگاری
غلام اور لونڈی کا حد خدمت کو پہنچ جانا -

ایصال (کسفس) آخیر و نہیں لگانا
پہنچانا - پیوند دینا -
ایصر (فسف) بمعنی اصارۃ کفسف
گھاس کنیل کہ جسمیں گھاس بھر کر
لاویں - یا اصر (فسک) کی جمع -
ایض (فسف) رض پھرنا ایک چیز
کی طرف بعد اسکے کہ اوسے ترک کیا ہو
ایک حال سے دوسرے حال کیطرف
پھر جانا اور دگرگون ہو جانا -
ایضا (فسف) ابھی جیسے ہم بھی جمع بمعنی
ایضاح (کسفس) واضح کول کو اوسکو
پر کرنا - کوئیں کا کم آب ہو جانا -
ایضاص (کسفس) شتر مرغ مادہ کا اپنے
انڈے دینے کی جگہ میلان کرنا -
ایضاع (کسفس) اونٹ کا ترش
گھاس چرنا پانی کے کنارہ پر اوسکے ہمیشہ
اور سیر رہنا - اونٹ کا تیز چلنا تیز ہانکنا
- آدمی کا تجارت میں نقصان رسیدہ
ہو جانا - مجہولاً مستعمل ہے -
ایضاف (کسفس) اونٹ کا سرعت
کرنا - اونٹ کو رفتار وجیف پر ہانکنا -
ایضام (کسفس) گوشت کے لیئے
وضم بنانا یا گوشت کو وضم پر رکھنا -

اِیْقاص رکسعفس، گردن کوتاہ کرنا
اِیْقاع رکسعفس، امر عزاسکا پانی کو
دبالینا۔ کوشیر کا آواز کو پست کرنا اور
اوسکو راست کرنا۔ کسی کو جنگ مین
ڈالدینا۔ کسی کو شروفساد مین ڈالدینا
جسکو وہ مکروہ رکہتا ہو۔
اِیْقاظ رکسعفس، نیند سے بیدار کرنا
جگانا۔ گرداو ٹھانی۔
اِیْقاف رکسعفس، خاموش ہونا کہڑا
کرنا۔ ایک کام سے رک رہنا ٹھہرانا
مساکین کیواسطے ایک چیز کو وقف کرنا
اِیْقام رکسعفس، نمالیسہ چہنا خرلد
حاجت اور مطلوب سے باز رکہنا۔
اِیْقان رکسعفس، یقین کرنا۔
اِیْقاہ رکسعفس، فرمانبرداری کرنی تابعداری
کرنی تابعداری کرنی۔
اِیَاکْت رفس، جمع ایکہ رفسعا
ایکید رفس، رس، انبوہ دار اور گہنا
لپٹا ہوا ہونا بیلوکا۔
اِیْکاب رکمسلم چہلدار انگیں۔
اِیْکار رکسعفسم، تکبیر کرنا۔ تکیہ گاہ کسی
کے واسطے مہیا کرنا۔ مشک کو کہار سے
باندہنا۔ بخل کرنا اور لیسے مین آوکہ

علاقت یعنی گلے ملاقات ٹھوکر سے جیسا
اِیْکاب رکسعفس، مرکب کو لازم پکڑنا
پرندہ کا اوڑنے کیلئے آمادہ ہونا
یا پرندہ کا اوڑنے کے وقت بازو ہلانا
کسی کو غصہ دلانا۔
اِیْکاح رکسعفس، تھک جانا۔ کھونا
کھودنے میں پتھر پر جا پہنچنا
قطع کرنا۔ عطیہ کو خاص کرنا۔ ایک کام
سے رک جانا۔ ٹھہر جانا۔
اِیْکاد رکسعفس، مضبوط کرنا۔ آکد کی
بہ نسبت اوکد زیادہ فصیح ہے۔
اِیْکار رکسعفس، بیتن کو پر کرنا۔
اِیْکاس رکسعفس، مال کا جانا رہنا
اور کم ہونا۔ تجارت مین نقصان اوٹھانا یا ٹوٹا
اِیْکاع رکسعفس، سخت ذلیل اور خوار
کردینا۔ مشک وغیرہ کو موٹے اور
دلدار اور درشت اندام اور موٹین والا ہونا
کم خیر ہونا۔ دشوار کام لانا۔ کام کا
مضبوط اور درشت ہو جانا
اِیْکاف رکسعفس، ٹہیر سر خوکسی کھینا
مینہہ سے چہت کا ٹپکنا۔ کسی کو
گناہ مین ڈالدینا۔ چہپا پر پشیمانی
باندہنی۔ سلو بیشیما گندہ ایک گندگی ہی ہو

مادہ
ع ق ص
ع ق ع
ع ق ظ
ع ق ف
ع ق م
ع ق ن
ع ق ه
ع ک ب
ع ک ح
ع ک د
ع ک ر
ع ک س
ع ک ع
ع ک ف

| ماده | | |
|---|---|---|
| ۱ وغف<br>۲ وغل<br>۳ وفی<br>۴ وفد<br>۵ وفز<br>۶ وفض<br>۷ وفع<br>۸ وفق<br>۹ الق<br>۴۷۸<br>وقب<br>وقح<br>وقد<br>وقذ<br>وقر | یا عامل سے وصول ہو کر سلطان یا کبر کے نزدیک خراج ادا کرنا اور کبھی ضمان خراج کو بھی ایغا کہتے ہیں اور یہ مولدی ہے۔<br>ایغاف رکسفس عورت کا مرد کے نیچے جماع کے وقت حرکت کرنا۔<br>دوڑنا شتاب چلنا سخت چلنا اتنا کہ بیتاب ہو جاوے سست بینائی والا ہو جانا۔ اتنا کھانا کہ کافی ہو پیاس کے مارے کتے کا زبان باہر لٹکا دینا کھی کو ملنا اتنا کہ لعاب سے آمیزے۔<br>ایغال رکسفس تیز چلنا شہروں میں جانا علم میں مشغول ہو جانا اور دور گھس جانا اور اوس میں مبالغہ کرنا کسی کو حاجت کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا کسی کو اوسکی حاجت سے جلدی کروانی گھبرا دینا۔<br>ایفاء رکسفس وفا کرنا پیمان اور وعدہ کو پورا کرنا ایک چیز پر برآمدہ ہونا کسی کا حق کو تمام ادا کرنا قوم پر آنا۔ دلعدی کا بیٹا ایفاد رکسفس ایلچی گری سے نکلوا کر کسی کو بھیجنا ایک چیز پر آجانا ہرن کے بچے کا سر نکالنا اور اوسکا کان کھڑا کرنا سرعت کرنی بلند ہو جانا۔ | ایفاز رکسفس سرعت کرانی ایفاض رکسفس دوڑانا سرعت کرنی سرعت کرانی اونٹوں کا پراگندہ ملانا ایسا ستر چھپانا کہ خاک سے نگاہ رکھے۔<br>ایفاع رکسفس لڑکے کا پھولنا اور گدرانا بلوغ کے نزدیک پہنچنا۔<br>ایفاق رکسفس سوفار تیر کو کمان کے چلے میں رکھنا تاکہ اوسے پھینکے نزدیک ہونا سخن کا موافق ہو جانا صیف برہنا اور اونٹوں کا برابر ہو جانا باہم ملانا یا ملی<br>ایق رکس چوپایہ کے ٹخنے اور پنڈلی کی بار یک ہڈی یا دس میں رسی باندھنے کی جگہ ایقان رکسفس یقین<br>ایقاب رکسفس چھوکا ہونا ایک چیز کو وقبہ میں داخل کرنا۔<br>ایقاح رکسفس کم شرم یا بے شرم ہونا سم کا سخت ہونا اور گٹا لے آنا<br>ایقاد رکسفس آگ بھڑکانی آگ جلانی۔ چھوڑ دینا۔<br>ایقاذ رکسفس ایکبار چھوڑنا۔<br>ایقار رکسفس چوپایہ پر بوجھ لادنا گرانبار ہونا حماق یعنی بیلچی اور ہڈی کو چرا ہوا اور ٹھا دینا۔ |

ایلثہ (سنعف) جنبش سا آواز حرکت
ایلول (سنعفس) بارہویں مہینے کا
نام رومیوں کے سال میں —
ایم (سنعف) سانپ ـ ایوم (ضعفس)
جمع ـ بن بیاہی رہنا عورت کا ـ
ایم (ش) ایوم (ضعفس) ایمہ
(سنعف) زن عورت کا نا کتخدا رہنا ـ
ایم اللہ (ا شد) قسم خدا ـ
ایکم (ایکو) یہ لفظ مخفف ہے ای شی کا یعنی
کون سی چیز ہے ـ
ایم (کنگ) عورت جس کے خاوند کی
یا مرد جس کی عورت (فسک) نہ ہو
(سنعف) جمع ـ مرد جس کی عورت بیاہ
ہوا ہوا نہیں ـ آتا عورت یعنی لونڈی
نہ ہو سکا رنڈی ہو یا خالہ کی طرف
سے ـ سانپ ـ یا سانپ سپید رنگ
ایما کو (سنعفس) اشارہ کرنا
ایما (سنعفس) ایماء (سنعفس)
حکم کرنا ـ بیت کر دینا ایلاء دو شی کا
ایماس (سنعفس) عورت کا لے
ہوئے ـ سا ابر کے سے ... سیاہ
قابو کر دینا ـ رکھنا ـ
ایماض (سنعفس) بدی کا ...

[redacted]
ہنسیدہ ثنا ذکر کرنا اور اشارہ کرنا ـ
ایمان (سنعفس) اعتماد کرنا ـ پناہ دینا
نذر کر دینا ـ تصدیق کرنی اور اس کی غرض
مسلمان کرنا ـ شریعت کا قبول کرنا اور
عاجزی کرنی ـ سمین میں لانا ـ دائیں
طرف چلنا ـ دائیں طرف پھرنا ـ
ایمان (سنعفس) ہر ... جیونا اور
مونثی مرکبی ہو اور ان کی آ زندگی
ز ... ایمان جمع عثمان بھی ہو سکتے ہیں ـ
ایمنی (سنعف) مونثی ـ
ایمنہ (سنعف) ہو گی ـ
ایمن (سنعف) مبارک سا یا من (فسک)
جمع ـ ام ایمن فرزندان رسول صلعم
ایمن اللہ ایک اسم ہے قسم کے لیے
موضوع اصل سکی ایمن اللہ تھی ہے
یہ لفظ بفتح ہمزہ اور بفتح میم بھی اور ہمزہ کو
کسرہ بھی دیتے ہیں ایمُ اللہ و ایمُ اللہ
یعنی قسم الف وصل ہے اسما میں سوا
اس کے الف وصل نفسو منسو ج یا ایمن
سے اکثر نون کو حذف بھی کر دیتے ہیں
اور کہتے ہیں ایمُ اللہ ایمُ اللہ اور
ایمُ اللہ بھی کہتے ہیں اور اکثر حرف

ایمن
ایمن
ایمنہ
ایمن
ایمان
ایمن
ایمنی
ایمنہ
ایمن
ایم
ایمن

ماده

ک ا ل
وکل
ا ہم
ا یل
ولت
ولج
ولد

۸۰ لہ

وک
و ...
وغ
ر ف
م
ولی
ولی

... چوپایہ کی پشت پر رکھکر تنگ کستے ہین
ایکال (کسعفس) کھانے کو دینا
کسی پر ایک چیز کا دعوی کرنا بغیر حق کی
کرنا چغلی کھانی بعض کو بعض پر
برانگیختہ کرنا پھل سے آنا درخت خرما
کا اور یعنی کہ قدرت دینی کسی کو کسی
پر کسی کام چھوڑ دینا اور اوسکے حوالہ کرنا
ایکہ (فتحۂ) درخت ایسین لپیٹے ہوے
یا بیری اور پیلو کے درخت کا بن
یا ایک قسم کے درختوں کی انبوہی
یہانتک کہ نخلستان کو ایکہ کہتے ہین
آئل (رمک) گاڑھا دودھ مربہ
تیل شہد وغیرہ سے ایل (فتحتین) جمع
ایل (فتحتین) نر بز کوہی اور بعض کے
نزدیک وہ گوزن ہی ایائل (فتسک)
جمع اور بضم ہمزہ آب ہستی بچہ دان مین
دودھ گاڑھا اور اوسکا برتن
ایل (کس) باریتعالی کا نام عبرانی
زبان مین جبرئیل میکائیل
ایل (فنف) چھوٹے لوریتر ہے
دانت والا مرد سخت بلند پشتہ
ایلا (کسعفس) سوگند کھانی یعنی
سے بہرا ہونا سکان کا نزدیک کرنا

دینا والی کر دینا کسی کے ذمہ کام ...
وصیت کرنی ... یعنی ... کی جمع
جسپر ... تہ ... دینے
اور سکو ... کی نزدیک ... یعنی
ایلات (کسعفس) حق کم کرنا
ایلاج (کسعفس) داخل کرنا
ایلاد (کسعفس) جنا عورت کا ... جنے
کے نزدیک پہنچنا
ایلاس (کسعفس) کلام کا ... لینا
ایلاج (کسعفس) حریص کرنا ...
ایلاع (کسعفس) کتے کو پانی پلانا
ایلاف (کسعفس) ہزار پورے کرنے
ہزار پورے ہوجانے الفت پکڑانی
الفت دینی او ... کا درخت ... ابدانی
کے درمیان جمع کرنا یعنی جب ... ان
دونون مین سے ایک سے فارغ ہون
تو دوسرے مشغول ہون سے لایلاف
قریش اسی کلام الہی مین ایلاف بمعنی
عہد اور اجارہ امان کے ہی
ایلام (کسعفس) درد پہنچانا ... کی
کھانا کرنا غش اور عقل کا مجتمع آنا
ایلاہ (کسعفس) اندوہگین کرنا سرگشتہ
کرنا آمان اور پناہ دینی

اَیوَانُ الحَمَّام رفتحش حمام کا
ایواتابت رکسفتحش جمع
الیوب رفتحش نام ایک پیغمبر کا
علیہ وعلیٰ نبینا الصلوۃ والسلام اور یہ
معرب ہے اصل میں یعقوب تھا
کے وزن پر اور یہ بمعنی رجوع سے
اگر عجمی ہے اور عربی ہے تو ہیئت قیاس کرلیا
جو قیام سے مشتق ہے
اَیہِ رکسرہ اسم فعل ہے بمعنی ورکہ
بار بار سے اور لا اور سکون ہاکے
مبنی بر کسر اور یہ مبنی ہے اور جب
مکسور اور منون آتا ہے کہتے ہیں
حدیثاً یہ تو اکثروں کا قول ہے اور بعض کا
قول کہ جب ایہٍ مکسور بغیر تنوین ہے کہتے
ہیں تو گویا اوسکو حدیث معہود کے
زیادہ کرنے کا حکم ہے یعنی بیان کر
فلانی بات اور جب باتنوین ہوگی
تو اوس وقت کسی سی حدیث غیر
معہود مراد ہوگی اور ایہاً لفظ ساکت
کرنے کے لیے امر ہے یعنی چپ مت بک
ایہاب رکسفتحش ہدیہ کردینا سونپنا
ایہاب رکسفتحش آمادہ کرنا ایک
کا حاصل ہونا [illegible] ہمیشہ ہونا

ایہات رکسفتحش گوشت کا بو
کرنا یعنی سڑ جانا
ایہاج رکسفتحش آگ کا بھڑکانا
ایہاط رکسفتحش سست اور گران
کردینا مغلوب کرنا مکروہ اور ناپسند
میں ڈالنا زمین پر سے اوٹھا لینا
کر اور پھر پھینکدینا اوٹھانا
ایہان رکسفتحش ایک چیز کا نزدیک
ہونا آسان ہوجانا
ایہال رکسفتحش شایستہ اور لائق کردینا
اور یہ مستعمل ہے اہلک اللہ فی الجنۃ
یعنی وابستہ کرے تجھکو اللہ جنت میں اور
اوس میں تیرا بیاہ کرے
ایہام رکسفتحش حساب میں غلطی
کرنی گمان میں ڈالنا یا ایک چیز کی
طرف جانا بغیر اوسکے ارادہ کے
چھوڑ دینا کسی پر تہمت لگانی
ایہان رکسفتحش سست کرنا
اور کسی بات میں داخل ہونا
ایہان رکسفتحش ایہاہ رکسفتحش
ایہات رکسفتحش اعد مو [illegible]
ایہقان رکسفتحش ایک گھاس کا
یعنی پھول اوسکا سرخ اور تیہ اوسکا

آئین
آئین ونا
[illegible]
[illegible]
آئین [illegible]
آئینہ
[illegible]
آئی
آئی [illegible]
[illegible]

[illegible] سے [illegible] کے معنی ہیں
[illegible] کبھی [illegible] کے [illegible]
[illegible] سے [illegible] ہیں کے معنی
[illegible] کے [illegible] الاصل
[illegible] خطاب بھی
[illegible] اور
[illegible] کہتے ہیں [illegible]
کہنا [illegible] کی اصل [illegible]
سے [illegible] کرے [illegible]
کہ [illegible] کرکے [illegible] کی
قسم کھانے لگے
آئین رکھ [illegible] کی نسبت [illegible] ہے
[illegible] ہیں [illegible]
[illegible] اور [illegible]
یعنی [illegible] کے درمیان میں
[illegible] آسمان کی [illegible]
آئین [illegible] آن [illegible]
اور [illegible] ساعت
آئین رسمی [illegible] وقت [illegible]
آئین [illegible] بھی [illegible]
[illegible] کہنا [illegible] ہیں [illegible]
[illegible]
آئینا [illegible] کہنا [illegible]

[illegible] کرنا [illegible] کرنا کردینا
آئینا [illegible] کی [illegible]
آئینا [illegible] کی [illegible] کے
لیے [illegible] سے [illegible] کہنا
آئینا [illegible]
آئینا [illegible]
کر [illegible] جائے [illegible]
دیکھنا اور [illegible]
آئینا [illegible] رکھنا
[illegible] کو [illegible]
آئینا [illegible]
آئینا [illegible] اور [illegible]
[illegible] کو [illegible] ہیں [illegible]
[illegible] کرنا
[illegible] کام جلدی کرنا
[illegible] کرنا [illegible]
آئینا [illegible] ہیں [illegible]
[illegible]
اور [illegible] کے لیے [illegible] میں
[illegible] اور [illegible]
[illegible] کی [illegible]
اسی لفظ سے [illegible] کسی [illegible]
[illegible] اور [illegible]

# باب الباء الموحدہ

با (ش) شفتی حروف میں سے ایک حرف ہے حروف عوامل سے الصاق کے لیئے آتا ہے خواہ الصاق حقیقی ہو جیسا امسکت بزید خواہ مجازی جیسا مررت بزید یا تعدیہ کے لیئے جیسا ذہب اللہ بنورہم یعنی لے گیا اللہ ان کے نور کو اور استعانت کے لیئے بھی آتا ہے جیسا کتبت بالقلم اور اسی سے ہے بسم اللہ کی با اور سببیت کے لیئے بھی جیسا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل اور بمعنی مصاحبت جیسا اہبط بسلام اور وقد دخلوا بالکفر اور بمعنی ظرفیت جیسا لقد نصرکم اللہ ببدر اور بمعنی بدل جیسا اس شعر میں شعر فلیت لی بہم قوما اذا رکبوا + شنوا الاغارۃ فرسانا و رکبانا + اور بمعنی مقابلیت جیسا اشتریتہ بالف اور بمعنی مجاورت کے مثل عن کے بعض کہتے ہیں کہ یہ خاص ہے سوال کے ساتھ جیسا فاسأل بہ خبیرا یا نہیں ہے جیسا ماغرک بربک الکریم اور بمعنی علی جیسا من ان تامنہ بقنطار یعنی علی قنطار اور بمعنی تبعیض جیسا وامسحوا برؤسکم اور بمعنی قسم جیسا باللہ اور بمعنی الی جیسا احسن بی یعنی احسن الی اور بمعنی اجل جیسا کہ قول لبید تحنت تشذر بالدخول کانہم یعنی من اجل الدخول اور بمعنی تاکید اور وہ زائد ہوتی ہے جیسا احسن بزید اور کفی باللہ شہیدا حرکت اس با کی کسرہ ہے جیسا بہ اور بک اور بلی اور بزید اور بعض اسم ظاہر میں بزید بفتح پڑھتے ہیں۔

باہ (ش م فتسم) جماع۔ نکاح۔

باءۃ (مصنف) نکاح۔ جماع۔ رہنے کی جگہ

باب (ش) دروازہ۔ ابواب (فصنعس) بیبان (تفنفس) ابوبۃ (نسکف) جمع اور اخیر کم ہے۔

باب القوم سردار۔

بابا (صفتسم) دانشمند۔

بقعہ ہوتا ہے اور اس سے کھاتے ہیں
یا جو چیز دشتی ہے کہ فارسی میں
انگور
کی مانند ہوتا ہے لیکن ویسا پھل اس کا
سوفی کی شکل پر ہوتا ہے ایک
ایک ریسمان اور
تحریض کا کلمہ ہے
ابریشم ریسمان سے عمل اور
عود چکدار

دشت سے بیابان۔
ایمان
میں
خروش کرتا ہے
میں
کالی رات میں سے ہر ایک سے
پناہ مانگتے ہیں اور سب میں نعوذ
باللہ من الانسین —

باب

مترجمہ القاموس

باحث الطریق وسط راہ۔
باحث (فسک) کھودنے والا اور
شل میں ہی کالباحث عن الشفرۃ
باحثا ء (فسکفسم) خاک جو جنگلی چوہے
کے بل کی خاک کے مشابہ ہو
باحر (فسک) احمق مرد۔ خون خالص
سرخ۔ سینچے دل کا خون یعنی جگر
ولقاس بہت جھوٹ بولنے والا
فضول۔ حیرت زدہ متحیر۔
باحرۃ (فساکف) ایک خارجا عد حشکی سے
بہت درد والی او غشی۔
باحری (فسکت) سرخ خون خالص
باحور (فسفس) باحورا (فسفسم)
سخت تپش کی گرمی و نیز باحور چاند
باخر (فسک) کھیتی کا پانی دینے والا
یعنی سینچنے والا۔
باخس (فسک) کسی کے حق کو کم کرنے والا
تمکین یا خقہ اندھی آنکھ۔
باخق العین کانا یک چشمہ
باخل (فسک) کنجوس بخیل ضیق جمع
باذ (فسف) ران کا اندرا یا دان
(فسقفس) تغنیہ اور معنے سوار کی فوطوں
رانوں کے رہنے کی جگہ گھوڑے کی پیٹھ

باذاۃ (فسقس) صحرا۔
باذر (فسک) پورا چاند یعنی لڑکا جوان
باذرۃ (فسکف) غصہ کی تیزی شتابی
زودگی۔ قول میں یا فعل میں خطا کہ بسبب
غصے کے واقع ہو دست کو ایک تیزی
بات سے جو جی ہوئی صحرا گھاس کا پتا
جو پہلے ہی ہیں گھاس سے نکلتا ہے۔
اسپرگ تازہ اور بہتر اور اسپرگ ایک ید لکھاکر
ہے کہ جس سے چیزوں کو رنگتے ہیں
شانے اور گردن کی بیچ کا گوشت
آدمی کی رگ رغشا رطکے اور پہلو بند وہ
اسفل میں ہو گوشت کے گردے جو
باذلۃ (فسکف) گوشت جو درمیان
بغل اور پستان کے ہے۔
باذلۃ (فسفف) ایک سریع او شتاب
رفتار ہے بغل اور پستان کے درمیان
کا گوشت یا پستان کا گوشت ہے باذلہ
باذن (فسک) بمعنی بدن مذکر و مونث
بادر یدان (فسفت) بدن ضیق جمع
بادنۃ (فسکف) جسیم تنومند جو رشتہ
باذون (فسفس) بدگار ضیقف
بدار (فسقسم) بدیع باوری۔
باذی (فسک) جنگل کا رہنے والا

بابار (فسفس) دورے

بابار الصبیح سہیل اوسکے لب لب

بابارہ و بابار بیہ کہا اوسکو کہ باپ

بیرا تحمیہ تھا جیسے

باباث الکتاب کتاب کی سطرین

اسکا واحد بیمن ہے

بابوکیہ (فسفق) ہنزاونٹ کی آواز

بابیہ (فسف) وجہ اور جہت باتات

(فسفس) جمع سات اور جہات ہیں

بمعنے نہایت کے ہے بابا بیہ بہ

اوسکے لیے صلاحیت رکھتا ہی

بابلی (فسکت) شراب بند ہیں

بابلیہ (فسکت) شراب

بابوس (فسفس) لونڈی کا بچہ کا

باتیسر جوان لڑکا یہ لفظ رومی لغت سے ہی

بابونج (فسفسف) بابونہ کا معرب

بابونکث (فسفسف) یعنی بابونج

بابیہ (فسکق) جو بہ پسینے کی چیز

بات (فست) لاغر اور نزار نہایت

احمق منقطع اسی سے ہی طلاق بات

اور بتع بات

باتر (فسک) برّان وقاطع جیسے

بتار بولتے ہیں

باتک (فسک) قاطع ورتان سیف

باتک بولتے ہیں

باث (فسک) پراگندہ اور متفرق جیسے

حاث باث ان دونوں کو اکٹھا بولتے

ہیں اور حوث بوث اور حوثا بوثا بھی بولتے ہیں

باثق (فسکا) پانی جو بغیر کھود کے ظاہر

اور نمایاں ہو وے جاسوس

باثعہ (فسکف) جو پھٹنے کے قریب

پہنچ گیا ہو جیسے شفتہ باثعہ یعنی غلبہ

خون کے سبب سرخ اور پکا ہونٹھ

باثق الکرم بہت عطا والا مرد

باج (فس) مستوی برابر روش طریقہ

باج (فس) (ف) پھیر دینا اور دل

دینا آواز کرنا پکارنا

باجہ (فسف) ایک قسم کا طعام ہی

باجا کا معرب ہے

باجر (فسک) بڑے پیٹ کا جو جاہل

اور پھولے ہوئے پیٹ کا بجرہ (فقف) کی جمع

باجل (فسک) خوشحال مرد شادمان

اچھے حال کا اور چربی دار شادمان

باجج (فس) صاحب

باجر (فسف) مدیا کا پیچ اور اوسکی جمع

گھر کا صحن کھجوروں کا جنگل باجہ



(ہامش) بابل ... نبی ... جب ... ۴۸۴ ... حج ... بت ... بیت ... بحج ... بیہع ... بعیب

آدبا ہے اور وہ جاتا ہے کہ زمین ویران
ہو جاتا ہوں [illegible]
بارئی (بفتح) [illegible] پیدا کرنے والا
[illegible] پیدا کرنے والا
بارئی (بفتح) [illegible]
بارئی (بفتح) [illegible] - لوہا
[illegible]
باریاب (بفتح) [illegible] - راہ طرق
باریک (بفتح) [illegible] - راہ طرق
بارئی (بفتح) شکاری [illegible]
[illegible] ایران [illegible]
باز (بفتح) بازی (بفتح) [illegible]
کہ ایک شکاری پرندہ ہے -
ابواز (بفتح) بیزان (بفتح) جمع
بازو براہ (بفتح) جمع بازی -
باز (بفتح) بازی (بفتح) باز
بوازی (بفتح) بزاة (بفتح) ابواز
[illegible] جمع
بازل (بفتح) [illegible] جو نوین برس
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

اور اسکے بعد کوئی سوال نہیں کہ جسکے
جواب سے اونکا نام رکھین لیکن
اسم ساکے بعد وسکو بازل علم اور بازل
ناہین کہتے ہین - مرد آزمودہ کار -
بازل (بفتح) بزل (بضم) جمع
بازلقہ (بفتح) ایک شتاب سیر
رفتار ہے جسمین سرعت اور [illegible]
بازلہ (بفتح) زخم کہ پوست کو چیر دے
اور خون اوس سے روان ہو - تیز چال [illegible]
باس (بفتح) خوف - عذاب - سختی
جنگ مین قوت اور دلیری -
باس (بفتح) سخت جنگی ہونا -
باساء (بفتح) سختی بلا -
باسنہ (بفتح) مکہ معظمہ
باسرہ (بفتح) [illegible]
باسط (بکسر) فراخ کرنے والا -
بچھانے والا خداوند تعالے کے ناموں
مین سے ایک نام ہے اسلیئے کہ جسپر
چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے ثانی
[illegible]
[illegible]
باسطہ (بفتح) [illegible]
[illegible]

[illegible]
بزل
باش
بلس
بسم
بسط

یا ذِی الرّای (رائی ظاہر رائی اصل) یا ذِی عِی یدٍ و یا ذِی یدٍ ری صفت کا نام ہے دونون لفظ ملکر ایک ہو گئے ہین جیسا معد یکرب۔

بادِیۃ (فسکف) صحرا جنگل۔

بادِرۃ (فسکف) نئی بات کہ کسی نے نکہی ہو۔

باذِنجانۃ (ج) بادنجان دو بہیات۔

بازام (فسفس) بادام کا معرب۔

بازِخ (فسک) گردن بلند کرنے والا۔ بلند۔ بذخ (فسف) بواذخ (فسک) جمع۔

بازِرنجبویہ (فسففسف) معرب بادرنجبویہ کہ ایک قسم کی گھاس ہے۔

بازِروج (فسففس) پہاڑی ریحان۔

باذق (فسک) انگور کا شیرہ تیز کچھ کم پکا ہوا۔ بادہ کا معرب۔

باذِل (فسک) بخشنے والا۔ سخی۔

باذِنۃ (فسفف) فروتنی اور کام عجمی کرنی ایک چیز کا اقرار کرنا اور جاننا اور پہچاننا۔

باذِنجان (فسفس) معرب بادنجان۔

بارّ (فت) مہربان نہایت نیک۔ ماں باپ کا فرمانبردار۔ بررۃ (ففف) جمع۔

بارِض (ف) کوان کھودنا۔ آنشدان کھودنا۔ ایک چیز کو پوشیدہ کرکے رکھ چھوڑنا تاکہ بوقت حاجت کام آوے۔ چھپا کر نیک کام کرنا۔

بارِج (فسک) ملاح ماہر۔

بارِجۃ (فسکف) کشتی بڑی جنگی۔ مرد بہت شر و فساد والا۔

بارِح (فسک) گرمی کی گرم ہوا تیز ہو گرد والی۔ بوارح (ففسک) جمع۔ شکار جو شکاری کے ہاتھ سے بائین ہاتھ کی طرف جاوے۔ ضد سانح عرب لوگ سانح سے نیک فال لیتے ہین اور بارح کو شوم سمجھتے ہین۔

بارِد (فسک) بڑے کام کی تلوار۔ بوارد (ففسک) جمع۔ سرد و خنک نصیب بیرنج۔

بارِض (ففسک) سبز گھاس کا کہ نکلے اور پہچانا نجاوے کہ کس جنس سے ہے۔

بارِع (فسک) کارنیک۔ اپنے یاروں سے برتر برابر مین۔

بارِعۃ (فسکف) صیغہ صفت مونث۔

بارِقۃ (فسکف) تلوارین۔

بارِنج (فسفس) نارجیل یعنی ناریل جسے کھوپرا کہتے ہین۔

بارِدک (فسفس) مردود دل سکا حیکا بوجھ یعنی خواب مین جو آدمی کو ایک بوجھ سا

باطلہ (رفسکف) ... [illegible]
باع (رفتح) ایک مقدار ... [illegible]
دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور ...
ہاتھ کی انگلیوں سے ... [illegible]
کی انگلیوں تک جسقدر ... [illegible]
وہ باع ہے - بزرگی اور کرم ... [illegible]
فلان ... باع ... صاحب کرم ہے
باعہ (رفسکف) جمع باع کی -
باعث ... اگر ... [illegible]
باعث (رفسک) ... بھیجنے والا ... [illegible]
... والا ... [illegible]
... ہے ... وہ جو ... [illegible]
بعد ... کرنے ... [illegible]
باعجہ (رفسکف) ... [illegible]
باعد (رفسک) دور - بعد ... [illegible]
باعق (رفسک) زور سے آواز کرنے والا
چیخنے والا - سیل بزرگ -
باعک (رفسک) احمق ہے
باعوشا (رفسفس) لفظ سریانی ہے
مسلمانوں میں جیسا استسقاء ہے ویسا
ہی ترسایوں میں باعوث ہے -
باعر (رفسک) انشاد - نشاط میں لانے
والا - تیزی - مرد تیغ ... مرد دلیر

اور ... بولا ... [illegible]
... گندا ... [illegible]
باغر (رفسکف) ایک قسم کا
... ایک جانور ہے جس ... [illegible]
باغش (رفسک) ہلکا مینہ
باغی (رفسک) طالب اور ... [illegible]
بغاۃ (رفسفس) ... [illegible]
... اور ... کو ... [illegible]
... باغ ... لئے ہیں -
... باغیہ گروہ جو نافرمان ہو -
باق ... کی آواز ... [illegible]
... اور ... [illegible]
... لئے ... [illegible]
باقر (رفسف) ... کی گردی
باقزا (رفسکف) ایک رگ ہے
... چشم میں ... [illegible]
باقرۃ (رفسکف) ... ڈالنے والا
... بولتے ہیں -
باقع (رفسک) ... [illegible]
باقعہ (رفسکف) ہوشیار ... [illegible]
اور سے قریب ... جانور ... [illegible]
کر شکار ہو جانے کے خوف سے
... پیتے ... اور ... [illegible]

[illegible]
۱۲

[illegible]

باجس ...

باحس۔ چینش لغت باحش ہے

باحشہ (فسکف) باحشی۔ ابر سپید

باحش (فسک) شیر شجاع بہادر

باحشم (جبل) فرس ... باب بحری

باحضیت۔ کشادہ دہن حرف ... بھی ...

باحشہ (فسکف) لوہے کا ایک اوزار

جس سے زمین کاٹتے ہیں۔ کاریگری

کے آلات۔ دلدار گون خراب کنان

کی ہے۔ باحسن (فسک) جمع۔

باسور (فسفس) ایک طرح کی مقعد

کی بیماری۔ بواسیر (فسکس) جمع۔

ایک قسم کی ناک کی بیماری

باسوط (فسفس) ایک قسم کا

پالان۔ مفرد کی ضد۔

باش (فسس) (ف) کسی کو ناگاہ

زمین پر پچھاڑ مارنا۔ باز رکھنا اور دفع کرنا

باشق (فسف) معرب باشہ کا کہ

ایک شکاری پرندہ ہے۔

باصر (فسک) چھوٹا پالان۔ تیز جیسے

تیغ باصر کے معنے تلوار تیز۔

باصرہ (فسکفہ) آنکھ۔

باصور (فسفس) گوشت۔ ...

[illegible]

باضہ (فسکفہ) عورت جس کا پوست

تنگ ہو اور گھٹیلی ہو۔

باضع (فسک) اور اونٹوں کا دلال

لوگوں کی متاع کا دلال۔ شمشیر بران ...

(فففا) جمع۔ پانی خوشگوار۔

باضعہ (فسکفہ) سر کی چوٹ جس میں

پوست اور گوشت پھٹ گیا ہو ...

مرجھا ہو۔ ... [illegible]

... [illegible] جمع

باضک (فسک) ... ضفس

شمشیر بران۔ تیز تلوار۔

باضوض (فسفس) ...

باطخ (فسک) چاٹنے والا۔

باطخ الماء احمق۔

باطل (فسک) ناچیز۔ ضد حق۔ اباطل

(ففاعل) جمع۔ ابلیس۔

باطن (فسک) پوشیدہ۔ بواطن (ففاعل)

جمع۔ خدا کریم کے ناموں میں سے

ایک نام ہے۔ ہر ایک چیز کا اندرون۔ زمین

پست گڑھا۔ البطن (فسکفف) بطنان

(فسفس) جمع۔ پانی کی راہ زمین سخت

میں۔ بطنان (فسفس) جمع۔

علامات اعراب ضعف مستم [illegible] ان [illegible]

باب الف رفض [illegible] ایک درخت ہے
باب تا رفض [illegible] بیٹے [illegible]
باب ثا رفض [illegible]
باب جیم رفض [illegible]
کے اپنی عورت کا [illegible]
[illegible]
باب حا [illegible]
[illegible] پانی [illegible]
[illegible] باب [illegible]
[illegible]
باب خا رفض [illegible]
باب دال رفض [illegible]
[illegible]
[illegible] پانی [illegible]
[illegible] ہونا اور [illegible]
میں کوشش کرنا [illegible]
باب ر رفض [illegible] نکاح [illegible]
باب ز رفض [illegible] دریافت کرنا
باب س رفض [illegible]
باب ش رفض [illegible] جھوٹ [illegible]
[illegible]
باب ص رفض [illegible] ایک [illegible]
[illegible]
باب ط رفض [illegible] پان
باب ظ رفض [illegible]

باب [illegible] ہے [illegible]
[illegible] پاس [illegible]
[illegible]
[illegible]
باب [illegible]
باب [illegible]
باب [illegible]
باب [illegible]
باب [illegible] پانی [illegible]
باب [illegible] بات [illegible]
باب [illegible] ایک [illegible]
باب [illegible]
باب [illegible]
[illegible]
باب [illegible]
باب [illegible]
باب [illegible]
باب [illegible]
باب [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

باھی [illegible] رفتستفہ ایک [illegible]
و [illegible] جمع [illegible] ہے۔ باقلی [illegible]
[illegible] کا [illegible] قول [illegible]
[illegible] باقلی [illegible]
[illegible] رفتستکسن باقلاء [illegible]
باھی رفتسکہ [illegible] زندہ۔ خدا [illegible]
نامون میں سے ایک نام ہے
باقیہ رفتسکنہ [illegible] ۔ [illegible]
الباقیات الصالحات [illegible]
[illegible] سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا
[illegible] اکبر۔ نماز پنجگانہ۔
احمق باک [illegible] باک احمق [illegible]
[illegible] میں اختیار کرے [illegible]
باکورہ رفتسفس پہلا میوہ [illegible]
باکورۃ رفتسفسفہ میوہ نورسیدہ
[illegible] درخت جسکے پھل جلد پکیں [illegible]
[illegible] جسیع
[illegible] خان [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] اور [illegible]
با [illegible] رفتسف [illegible]
[illegible] رفتسف التفات [illegible]
[illegible] باللہ [illegible]
[illegible] الاسلام [illegible]
رفتسکفہ [illegible]
بالو [illegible] رفتسف [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] زمین [illegible]
بالکہ رفتسک الاتباع [illegible]
[illegible]
بالع رفتسک دوستاروں [illegible]
[illegible] ایک کا نام ہے
بالغ رفتسک [illegible]
[illegible]
بالیقین رفتسکفسم [illegible]
با [illegible] رفتسک [illegible]
[illegible]
[illegible]
بالوں [illegible] رفتسفس [illegible]

اور کھاڑ ذالاذناب اور غیرہ ضعیفون کی اصطلاح
مین یہہ ہے کہ بحر متقارب اور مدید مین
حذف اور قطع کو جمع کرنا اور مقصور مین
فعولن فع بچتا ہے اور فاعلاتن فعلن
بتر (رفعف، رس) دم کٹا ہوا ہونا
بے فرزند ہونا – بےخیر ہو جانا –
بتراء (رفسفس، رسا) کامل –
بترۃ (رفسف) گھونگھی جیسے نفیس بصحرہ
بتع (رکس کعف) شہد کی مند وغیرہ نبیذ
یا انگور کا عرق – یعنے شہد کا مرد – شراب
بتع (رنک) جسم مرد قوی سخت مفاصل کا
سخت گھوڑا لمبی گردن کا – بتعۃ
(رفکف) مونث ہے –
بتع (رضف) جمع بتعی (رضسف) کہ مونث
ابتع (رفسف) کی ہی یہہ لفظ جمع کی کہ جمع
جمع کی ہے تاکید واقع ہوتا ہے – بولتے
ہین جاءت النساء کلھن جمع بتع
یعنے سب کی سب عورتین آئین –
بتع (رفس، رض) نبیذ بنانی –
بتع (رفف، رس) گھوڑے کا سخت
اور دراز گردن ہونا تبع (رفکسم) صیغہ لغت
مذکر ہے اور بتعۃ (رفکفم) لغت مونث
بتک (رفس، رض ن) کاٹنا اور
قطع کرنا – ایک چیز کو پکڑنا اور اسے کھینچنا
جیسے پر مرغ اور بال اور ریشم وغیرہ کو –
بتکۃ (رفسف) کٹا ہوا ٹکڑا – بال اور
پر مرغ اور ریشم وغیرہ مین سے
جو چیز کہ کھینچی جاوے – بتک کی
جمع – رات کی تاریکی – اندھیرا –
بتل (رفیم) بے مانند جیسے عطار
بتل (یا) چھلا خطیہ اور اسکے پیچھے غلطیہ ہوتے
بتل (رفس) بتلۃ (رفسف، رفس ن)
قطع کرنا اور کاٹنا اسی سے ہے طلقہا بتۃ
غیر سے جدا کرنا اور ممتاز کرنا –
بتلۃ (رفسف) صدقۃ بتلۃ صدقہ
کر دینے والے کی ملک سے جدا کر کے جاری ہو
بتو (رفس، رن) اقامت کرنی –
بتوت (رفضس، رض) لاغر و نزار ہو جانا
بتوع (رضفس، رن) راہ مین بھٹک جانا
اور دور دست چلا جانا جیسے بتع
فی الارض یعنے دور نکل گیا –
بتوک (رفضس) ثمران وقاطع –
بتول (رفضس) درخت کا پودا جو درخت
کی جڑ مین سے نکلا ہوا اور اس درخت
سے بے پروا ہو گیا ہو – کواری عورت
جس نے کہ مردون سے اپنی حاجت

495

غریب ہونے والا ۔ غریب جسے
وطن کے سبب شہر غریب/تنہا رہا ہو
بالغ ع رفتک ۔ ہرن کا بچہ جو چلنے
میں برابر کشادہ ہو سکے
متاع بالوعہ ۔ متاع جسکی کچھ قیمت نہ ہو
بائقہ رفتحعلہ ۔ سختی و بلا [illegible]
بوائق رفتک ۔ جمع
بالک ع رفتک ۔ ہمیشہ محبت کرنیوالا
[illegible] رفتحف [illegible] وقت [illegible]
بالکہ رفتک ۔ ہمیشہ لعنت کرنیوالا
بورک رفتحس ۔ [illegible]
بائل ع رفتک ۔ پیشاب کرنے والا
بائن رفتک ۔ جو بائیں سے آوے
اور علیحدگی کے واسطے ۔ عورت جو خاوند
کے سبب طلاق کے جدا ہوگئی ہو
بائنہ رفتک ۔ کمان کہ چلہ اسکا
نہایت بعید ہو ۔ کمان فراخ تھا ۔ وہ
وہ طلاق کہ جسمیں رجعت درست نہیں
بہجت رفتک ۔ رونق ۔ [illegible] سہانا لگنا
بہان رفتحس ۔ [illegible]
بہبہہ رفتحتف ۔ [illegible] کی آواز [illegible]
[illegible] کا بیٹا ہوا [illegible]
بجیر رفتحس ۔ ایک قسم کا [illegible]

حرمت [illegible] بور رفتحس [illegible]
[illegible]
اسمیں [illegible]
بت ع رفتک ۔ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] وقت [illegible]
[illegible] طرف [illegible]
بت ع رفتحس ۔ [illegible]
کاٹنا اور قطع کرنا [illegible]
سے عاجز کر دینا ۔ [illegible] عاجز [illegible]
یہ لفظ متعدی بھی ہے اور لازم بھی
بتات رفتحس ۔ مکان میں اقامت کرنا
جیسے بات بالمکان ۔
بتات رفتحس ۔ [illegible] مسافر اور
مردہ کا توشہ [illegible] ۔ گھر کا مال اور
متاع ۔ [illegible] جمع
بتات رفتحس ۔ [illegible] یعنی [illegible]
[illegible] کاٹنے والا اور [illegible]
بتار رفتحس ۔ [illegible]
بتار رفتحس ۔ [illegible]
بتر رفتحس ۔ [illegible] کو دینا ۔ کاٹنا
قطع کرنا ۔ ناتمام [illegible] جبر سے

کے سبب سے جگہ خستہ ہونا –
بشعر رفتح [illegible] سر مین بال [illegible] کے
متصل گوشت کا [illegible]
بشع رفتح [illegible] کے غلبہ کے
سبب [illegible] کا [illegible] اور [illegible] ہونا –
بشق رفتح [illegible] کسی چیز کا [illegible]
کہ پہاڑ گیا ہو [illegible]
بشق رفتح [illegible] کسی [illegible]
یعنی [illegible] کی [illegible] کو پہاڑ دینا [illegible]
جلد آنسو [illegible] ہو جانا –
بشاعت رفتح [illegible] شہرت –
[illegible]
[illegible] حسین [illegible]
[illegible] پوست کی [illegible] گوشت کی نعمت
[illegible] ریت [illegible]
بشمیر رفتح [illegible] کے [illegible]
نفیس [illegible]
ہر [illegible] زمین [illegible]
[illegible]
بشوش رفتح [illegible]
[illegible]
[illegible]
ولا [illegible] لشکر [illegible]

بشیع رفتح [illegible]
بشیر رفتح [illegible] اچھی خبر [illegible]
بشیمہ رفتح [illegible] کی تصغیر ہے
بجح [illegible] جوہ –
بجر رفتح [illegible] کو [illegible] نہ کسی
[illegible]
[illegible] کا [illegible] کر دینا یہان
تک کہ اوسکی [illegible] ہو جاوین
[illegible]
بجار رفتح [illegible] چشم
بجاج رفتح [illegible] اور [illegible] مرد –
بجاجو رفتح [illegible] کمینہ اور [illegible]
بجادر رفتح [illegible]
بجارم رفتح [illegible]
بجال رفتح [illegible] وہ مرد کہ جسکی تعظیم
کریں – یا سردار بزرگ با عظمت و جلال –
بجالہ رفتح [illegible] با عظمت و جلال
عورت کہ اوسکی تعظیم کریں –
بجالہ رفتح [illegible] رفتح [illegible] کسی کا
[illegible] ہو جانا –
بجباج رفتح [illegible] بجباجہ رفتح
[illegible]

[illegible] بجباج [illegible] دلدار [illegible]

اور جس کا بت منقطع کیا ہو - عورت جو خدا تعالے
کے لیے دنیا سے علیحدہ ہو گئی ہو -
بتّاک (ف ک) بت کا بننے والا اور
اوسکا بیچنے والا - دسترخوان صوف
بتیرا (ف س) آفتاب - تمام
تبیرا [illegible] بتیری مونث کی تصغیر ہے -
بتیل (ف س) عورت جو خدا تعالے کے
لیے دنیا سے علیحدہ ہو گئی ہو - درخت
کا پودا جو ایک درخت کی جڑ سے نکلا
ہو اور جس درخت سے سبب پیدا ہو گیا ہو
[illegible] جو زمین کے [illegible] میں
[illegible] درخت کر
[illegible] ہوں -
بتیلہ (ف س) [illegible] اور ہر عضو
بتائل (ف [illegible]) جمع - عورت جو دنیا
منقطع ہو اور خدا تعالے کی طرف [illegible]
ہو - [illegible] ایک درخت کی جڑ سے نکلا ہو
اور [illegible] درخت سے مستغنی ہو گیا ہو
بث [illegible] حال - غم و اندوہ سخت
[illegible] - منتشر - پراگندہ
بثّ (ف [illegible]) [illegible] خبر کو ظاہر
کردینا [illegible] کردینا
بث (ف [illegible]) غبار کو پراگندہ کرنا

[illegible] پراگندہ کرنا اور پھیلا دینا اور بچھا دینا
بثّاء (ف [illegible]) زمین نرم
بثاثہ [illegible] کی جگہ [illegible]
بثبثہ (ف [illegible]) خبر کو پراگندہ کرنا اور
فاش کر دینا - غبار کو پراگندہ کرنا
بثر [illegible] اصل میں بثوہ
[illegible] جمع -
بثر [illegible] لغات [illegible]
[illegible] چھوٹا سا [illegible]
بثرہ (ف [illegible]) ایک [illegible]
جمع [illegible] چہرہ [illegible]
ہو اگر جب اوسے [illegible] تو پانی
نکل [illegible] جاوے -
بثر [illegible] چھوٹا سا آبلہ کہ بدن پر نکل آوے
بثر [illegible] بثور [illegible] بثر [illegible]
[illegible] ایک چھوٹا سا آبلہ نکال لانا -
بثط [illegible] لب کا [illegible] کرنا
بثع [illegible] خندہ کے سبب
لب کا [illegible] جانا - خون کے سبب [illegible]
[illegible] ہو جانا - [illegible]
[illegible] لب کے ساتھ [illegible]
[illegible] لب اور [illegible] کے [illegible]
[illegible] کہتے ہیں [illegible] غلبنی [illegible]

بجحل (فتحتین) بجول (ضم فتحتین) ... خوشحال اور خرمی اور شادمان ہونا۔

بجلۃ (فتحہ سکون فتحہ) چھوٹا درخت۔ بجلات (فتحتین فتحہ) جمع اچھی ہیات۔

بجم (ضم سکون) عجز بیان کے سبب خاموش رہنا۔ یا خوف اور ترس کے سبب تاخیر کرنی منقبض ہو جانا۔

بجو (فتحتین) مقیم ہونا اور کسی گاؤں کو لازم پکڑنا جیسے بجدت الابل

بجوش (فتحتین) کسی کو دشنام دینی

بجیس (فتحتین) بہت پانی والا۔

بجیل (فتحتین) ہر چیز بلدار و فراخ

ابح (فتحتین) جمع ابح (فتحتین) کی یعنی وہ مرد کہ جسکا گلا بیٹھ گیا ہو اور آواز بھاری ہو گئی ہو۔ بہت سے تیامہ بہت سے بیچے بہت سی بلدار لکڑیاں بہت سے چھوٹے تیر۔

بحاء (فتحتین) گلا بیٹھی ہوئی عورت بھاری آواز کی۔ یا دریا میں ایک پشتہ ہے۔

بحاث (فتحتین) بحث کرنیوالا۔

بحاح (فتحتین) یعنی بحۃ (فتحتین)

بحار (فتحتین) یعنی بحار (فتحتین)

بحار (فتحتین) کشتیبان بحارۃ (فتحتین) جمع

بحالح (فتحتین) بار بار دہانہ چھوڑا۔

بحباح (فتحتین) یکبارگی جا آخر ایک کلمہ ہے یعنی کہ ایک چیز کی نفی کا اور انقطاع کو جتاتا ہے۔

بحبحۃ (فتحتین) عجب جگہ پکڑنی مقیم ہونا اور تر ناگھونا۔

بحبحی (فتحتین) مرد جیسے نفقہ اور فرمل

بحبوح (فتحتین) اصل ایک چیز کا بیچ اور وسط ہونی بحبوح الکرم بولتے ہیں۔

بحبوحۃ (فتحتین) یعنی بحبوح

بحت (فتحتین) ہر چیز سادہ خالص عربی

بحت اور شراب بحت بولتے ہیں

بحۃ (فتحتین) گلے بیٹھے ہوئے عورت بھاری آواز کی۔

بحۃ (فتحتین) گلے کا بیٹھا پن۔

بحثر (فتحتین) ٹھٹکنا گول بد نکا۔

بحث (فتحتین) کان ... سا نپ

بحوث (فتحتین) جمع

بحث (فتحتین) (ف) کسی کے حال کی کاوش اور تفتیش کرنی۔

بحثۃ (فتحتین) ایک کھیل ہے جو لڑکے خاک سے کھیلتے ہیں

بحثرۃ (فتحتین) تفتیش کرنی پراگندہ

۴۹۹

۱۲

بجبج (فتحتین) بھی ہاتھی کی چربی کی شکن
بجبجہ (بفتحتین) اور جوا لوگ کرکہ
سلامتی کے وقت کرین —
بجۃ (فتحتین) چھوٹی سی پھنسی جو آنکھ میں
نکل آوے — عورت کی فصد کا خون
کہ جسکو عرب زمانہ جاہلیت مین سال قحط
مین کھایا کرتے تھے —
بجح (فتحتین) شاد ماںی —
بجح (فتح اور کسرہ) شاد ماں ہونا خوش
ہونا — بزرگ قد ہونا —
بجد (ف س و فتح) آدمیوں اور گھوڑوں
کی جماعت ایک سو ہوں یا زیادہ —
بجدہ (بنسبت) اصل صحرا — کام کی
حقیقت اور اسکی کنہ —
بجر (فتح) ناف کا ابھار باہر کو اور
اسکی جڑ کی بڑی کاری —
بجر (فتح اور کسر) ناف کا باہر کو نکلا ہوا
ہونا — دودہ اور پانی سے پر شکم ہو جانا
لا تسکین اور تسلی نہ پانی — کسی چیز
سے سست ہو جانا —
بجر (ضم) بڑی کار بزرگ عجیب
ابا جر (تفسک) جمع اباجیر (تفسکس) جمع الجمع
بجرا (فتح ضم) عورت جسکی ناف باہر کو
نکل آئی ہو — عورت جسکے پیٹ کی زمین
نہ سخت سفر مین کہ جسمین کچھ بھی نہ اُگے
بجرۃ (فتحتین) جسکی ناف باہر نکلی ہو — عکس
پیٹ اور چہرہ اور گردن کی گرہ یا سوجی
بجر (فتح) جمع — اور اسی سے ہی یہ قول
ذکر بجرہ و بجرہ یعنی اسکے عیوب اور
سارے امور باطن و ظاہر یاد کئے
بجری (فتح سکن) بجریۃ (فتحتین)
بلا مصیبت — بجاری (فتح) جمع —
بجس (فتح) جاری پانی جیسے کہ
بجس بولتے ہیں
بجس (فتح ن ص) پانی کا پھاٹنا
اور نکلنا اور روان ہونا — لازم اور متعدی
دونوں آتا ہے — زخم کو چیرنا —
بجع (فتح) کسی کو تلوار سے کاٹنا —
بجل (فتح) بہتان عظیم
بجل (فتح) بہتان تعجب و ناقت اور
دعا بھی ہے اور بجل بمعنی ہاں حرف ایجاب
ہی جیسا کہ نعم اور اسم فعل بھی ہے بمعنی
یکفی اور حسبک کے یعنی کفایت کرتا ہے
تجکو اور بس ہی لوبکا فی ہے اور کبھی یا میم
جیم کو بھی ساکن کر دیتے ہیں
اور بجلی بنا لیتے ہیں

بحریب (ف ک س) سیاہ اور سفید آمیز
چیز - جیسے ابلق معرب ہی -
بحرش (ف س) زیادہ گرنے آنا خشی سے
دفع کر دینا سل کرنا -
بحزج (ف س) [illegible] سالہ [illegible]
پیٹ کا - جوان اونٹ -
بحشکہ (ف س ف) چیونٹی کے ناچنا
بحشو (ف ض س) [illegible] اور
یہ لفظ قبیلہ [illegible] لیکن [illegible]
نے اسکا تخفیف کیا ہی اور صحیح بحشو ہی
بحصل (ف س ف) [illegible] گوشت والا
بحظلہ (ف س ف) [illegible] کی مانند کودنا -
بحل (ف س) [illegible] دفع کرنا -
بحنا (ف س ف) [illegible] قسم ہے [illegible]
کے پتوں سے بناتے ہیں -
بحناتہ (ف س ف) یعنی بحنا [illegible]
آگ کا ٹکڑا - انگارا -
بحوتہ (ف س ف) سادہ اور سفید آمیزش
ہو جانا - خالص ہو جانا -
بحوث (ف س) بہت بحث کرنیوالا
مذکر [illegible] برابر ہے [illegible]
اس معنے میں [illegible] بحث [illegible]
ہے - اونٹ جو اپنے ہاتھ سے خاک

[illegible] جو دور کر اپنے پیچھے پھینکے -
بحور (ف س) تیز رفتار کشادہ قدم کا -
بحوال (ف س ف) [illegible] ریت جما ہوا -
جو کہ سرعت میں قدم پاس پاس رکھے
ایک قسم کا خرما -
بحونہ (ف س ف) [illegible] عورت [illegible]
اور [illegible] پیٹ کی عورت -
بحیثی (ف س ف) ایک کھیل [illegible]
خاک سے کھیلتے ہیں -
بحیح (ف کس) [illegible] میں سے ہی
[illegible] بولتے ہیں یعنی بخیل -
بحیر (ف کس) سل زدہ یعنی جسکو بیماری سل ہو
بحیرۃ (ف ک س ف) اونٹنی یا بکری کہ جب
وس نے بچے جن چکتی تھی تو ایام جاہلیت
میں اسکے کان چیر کر چھوڑ دیتے تھے
جہاں چاہے چلے پھرے اور جہاں چاہے
چرے اور جب وہ مرجاتی تھی تو
اسکے گوشت کو صرف مرد ہی کھاتے
اور عورتوں کو اسکا گوشت نکھلاتے
یا بحیرہ وہ ہے کہ جسے سانبے چرواہے چھوڑ
دیتے تھے یا وہ جو پانچویں پیٹ میں اگر
وہ نر جنتی تو اس نر کو ذبح کرتے اور مرد
و عورت ملکر سب کھاتے اور اگر مادہ جنتی

مادہ
بحرب
بحرج
بحزج
بحشک
بحشو
بحصل
بحظل
بحل
بحن
۱۰۵
بحن
بحنت
بحر
بحن
بحو
بحث
بحی

بیہودہ جھگڑا کرنا کھلا کھلا ظاہر اور نمایاں کرنا

بحکومت کا لڑنا عداوت کرنا معدہ کا پھٹا ہوا ہونا

بحکشیہ (ضم فتح) کام میں دخل کرنی

جیسے بحشش فی الامر

بحح (فتح) گلے بیٹھا ہوا ہونا اور

آواز کی گرانی

بحح (فتح) بحح (فتح) بحوح (ضم)

بحوحہ (فتح) بحاح (ضم)

بحاحہ (فتح) گلے کا بیٹھا ہوا

اور گران آواز ہونا

بحدری (فتح) دودہ کا تھوڑا ہونا

کہ لڑکا کہ جوان اور قوی ہو رہے

بحدلہ (فتح) تیز اور کند ہے ہلاتے

ہوئے چلنا سبک دوڑنا

بحذق (فتح) اسپغول

بحر (فتح) بڑی نہر دریاے شور

ابحر (فتح) بحور (ضم) بحار (کسرہ) جمع

تصغیر اسکی ابحر (فتح) آتی ہے بحیر

(ضم) کھاری پانی بحیرہ اسی سے ہے

بحر (فتح) بولتے ہیں فراخی اور وسعت مرد

کریم بہت علم والا خرج قدم چھوڑا

زمین یا کشت جگہ جہاں کی نباتات

بحر سے سیراب ہوں کے شروع

تابستان میں پیدا ہوتے ہیں

بحر (فتح) اون چیرنا فراخ کر دینا کان چیرنا

بحر (فتح) ہسل کی بیماری اور یہہ اونٹ

کو بھی عارض ہوتی ہے

بحر (فتح کسرہ) خوف کے سبب پریشان

ہونا نہایت تشنگی کے سبب بہت سیراب

ہونا بیماری بحر میں مبتلا ہونا بحر کمہ

بیماری بحر سے گوشت گل گیا بحر البعیر

سخت دوڑنے کے سبب دھندلے رنگ کا

ہو گیا بحر (فتح) جمع

بحران (ضم) تپ میں جو بیمار کو تغیر

حاصل ہو جاوے یوم بحران بولتے ہیں

اور فتح کے ساتھ اور یوم باحوری بھی

بغیر قیاس مستعمل ہیں گویا کہ باحوری

باحور کیطرف منسوب ہے اور باحور اور باحورا

کہتے ہیں شدت گرمی کو جو دنوں تابستان میں

بحرانی (فتح) بچہ دان کا خون

سرخ خالص خون

بحرۃ (فتح) شہر نبیں جیسے بحرۃ کہتا

بولتے ہیں پست زمین ہر شہر جدا پانی

کے بحرۃ یعنی جگہہ ہر گاؤں کا جس میں پانی جاری

ہو اور پانی صاف اور بالضم ہو

بحرم (فتح) بہت پانی کا تالاب

بختی (فسک) اونٹ اور نسبت نسبی بخت کا جو کہ عجمی اور عربی اونٹ سے پیدا ہو
بخت نصر کی طرف منسوب ہے کیونکہ بادشاہ تھا۔ بختیہ (فسکت) اونٹنی
اور بخت (فس) اونٹنی بخاتی (فسک) [illegible] تشدید یا جمع اور انکو اختیار ہے کیا ہو گو
تخفیف کرو اور کہو بخاتی (فسک) اور ایسا ہی جو اوسکے مشابہ ہو ایسا
جسکا واحد مشدد ہے اوسکی جمع میں تشدید اور تخفیف دونوں جائز ہیں۔
بختیر (کسکس) خوشخرام مرد خوش قدم یا تکبر و ناز سے چلنے والا۔
بخترۃ (فسف) پاؤں کا دہند یا کپڑے کا دہند یا [illegible]
بخلج (فسف) [illegible] حیوان یا [illegible]
بخدجہ (فسفف) ایک قسم کی رفتار اسطرح کہ پاؤں کے نیچے پاس پاس رکھے اور ایڑیاں دور دور۔
بخدان (فسف) نرم و نازک بدن کی
بخر (فف) دہن وغیرہ کی گندگی۔
بخر (فف) (س) گندہ دہن ہو جانا۔
بخر (فک) گندہ و تیز بو کی۔
بخر (فس) (ف) دہوان نکالنا۔

بخزاء (ضمس) آفتاب کی ایک گھاس ہے۔
بخزۃ (فسف) ایک گھاس ہے۔
بخز (فس) (ف) کسی کی آنکھ کو اندہا کر دینا اور اوکھاڑ ڈالنا۔
بخس (فس) کم اور ماندگی ندی میں جو بغیر پانی دیئے اوگا وے بخوس (ضمس) جمع۔ محصول جو بازار نشین لوگون سے لیوین (منحوتہ) بازاری محتسب لینے والے جو صدقہ بیچنے کے بعد مزدوری کے حیلہ سے لیوین۔
بخس (فس) (ف) کسی کا حق کم کرنا اور [illegible] کرنی آنکھ کا اندہا کرنا اور اوسکا اوکھاڑ ڈالنا۔
بخسی (فسکت) پانی نہ پایا ہوا کھیت جو پانی دینے کا محتاج نہو۔
بخص (فف) پاؤں کے آگے کا گوشت اونگلیوں کی جڑ کا گوشت۔
بخصۃ (فسف) ایک گوشت کا ٹکڑا جو [illegible] کے سبب پیدا ہو گوشت کا ٹکڑا جو پہوٹے میں اوسکے [illegible] کے سر کا گوشت۔
بخص (فف) (س) بخص ہو جانا اور بخص مرد جسکے پہوٹے میں گوشت لٹکا ہوا

مادہ
ع ف بخت
ل ف بختر
ع ف بخثج
ع ف بخدج
ل ف بخدن
ع ف بخر
ع ف بخز
ع ف بخس
ع ف بخص
صفحہ ۵۰۰

علامات اعراب صفحه کے لئے ض ضمه ف فتحه ک کسره س سکون ت تشدید م

| ماده | | |
|---|---|---|
| بخ<br>بخت<br>بخر<br>بخع<br>بخق<br>بخل<br>بخنج<br>بخو<br>بخنخ<br>بخ بخ | تو اوسکے کان چیرتے اور اوسکا دودھ اور سواری اپنے اوپر حرام کرتے اور اوسکے مرنے کے پیچھے اوسکے گوشت کو عورتون پر حلال کرتے تھے یا یعنی بچہ ساتھ ہی کہ مادین پیدا ہووے اور وہ حکم سائبہ کا رکھے یا بحیرہ وہ بکری ہی کہ جب پانچ بچے جن چکتی تو اوسکے کان چیر کر اوسے چھوڑ دیتے تھے بہت دودھ والی مادین کے معنی مین بھی آتا ہی بحائر (فضک) بحر (ضفض) جسیم<br>بخ (فت) سرور اور مہتر مرد۔ ایک کلمہ ہی کہ تحسین یا فخر مدح اور ایک چیز سے تعجب کے وقت مین کہتے ہین جیسا کہ فارسی مین زہ اور خہ ہی حالت افراد مین اسکے خا کو کبھی ساکن کبھی مکسور اور کبھی مضموم یا تنوین لاتے ہین اور اگر مبالغہ کے لیئے مکرر کرین تو بخ بخ بکسر اول و تنوین اول و سکون ثانی اور بخ بخ دونون کے سکون کے ساتھ اور بخ بخ دونون کے کسرے اور تنوین کے ساتھ اور بخ بخ بولتے ہین<br>بخ (فت) (ض ن) غصہ کا دب جانا سوتے مین خرخر کرنا۔ | بجائث (فضفض) بجثی یا دشمنون کا جمع کرنے والا۔<br>بجار (ضفض) ناک اور گدم جگہ سے جو دھوان سے نکلے۔<br>بجاع (فضفض) پشت مین ایک رگ ہی کہ گردن کی ہڈیون تک پہنچتی ہی۔<br>بجاق (فضفض) بھیڑیا۔<br>بجال (ضفض) بخیل ج بخال اور بجل<br>بخلاء ہوتے ہین یعنی نہایت بخیل مرد۔<br>بخبخہ (فسفف) کسی کو بخ بخ کہنا۔ اونٹ کا مستی کے سبب آواز کرنا سخت کی دھوپ سے آرام پکڑنا گوشت کا فربہی کے بعد لاغری کے سبب حرکت کرنا سونے مین خرخر کرنا۔<br>بخت (فس) طالع۔ یہ لفظ معرب ہی<br>بخت (فس) (ان) مارنا۔<br>بختج (فسف) بختہ کا معرب ہی اور وہ ایک دوشاب ہی کہ اوسکو اتنا جوش دیوین کہ اوسکا قوام ہو جاوے بخاتج (فضک) جمع<br>بخترشی (فسفکت) خوشخرام مرد خوش تن باجمال مرد متکبر ناز سے چلنے والا<br>بخترتیہ (فسفکتف) خوشخرامی خوشخرام عورت خوش تن باجمال متکبرانہ سے چلنے والا |

بجو بر (فعس) وہ چیز کہ اوسکا نشہ چڑھے
دہوان سلگا دینا - بجورات (مفعس) جمع
بجور مریم ایک روئیدگی ہی کہ اوسکو
پنجہ مریم کہتے ہیں اور ہتھا جوڑی
بھی کہتے ہیں -
بجور الاکراد و بجور السودان
چند گہاسین ہین -
بجوع (فعس) بچاعۃ (فعست)
(فاس) حق کا اقرار کرنا اور اوسکی
طرف گردن جھکانی -
بجوکل (مفعس) کنجوسی -
بجی (فکت فلکت) روز ہمچی وہ درہم
کہ اوسپر کلمۂ بخ لکھا ہوا ہو یعنی بجی فلکت
وہ درہم کہ اوسپر کلمہ بخ ہو اور کتاب
معرب مین ہی کہ بجی بخ کی طرف منسوب
ہی اور وہ ایک امیر تہا -
بجیت (فعس) بجتیار اوضخوش قسمت
بجیق (فعس) کانا آدمی ایک آنکھہ کا
اور عین بجیق اور عین بجیقۃ اندہی آنکھ
بجیل (فعس) کنجوس بخلا جمع
بدا (فت) نکلنا اور ماند گی -
بدر (کت) مانند رہنا -
بدرضت ...بہ معرب ہی ...

بدو (فعس) بادو (مفعس) جمع - بجتا نہ کہ
صورت - ہر چیز کا حصہ - عوض - جدائی
چارہ و تدبیر یوں کہتے ہیں لابد لک منہ
یعنی تجکو اوس سے چارہ اور تدبیر نہین
بدا (کرفس) آغاز اور شروع جیسے
لک بدئۃ یعنی اوسکا شروع تیرے
لیئے ہی - پہلا جیسے افعلہ بدءا اول
بدا یعنی تو اوسکو پہلے کر اور اس معنی
مین لغات اور بھی آئے ہین اس تفصیل
سے بادی بدو اور بادی بدی اور
بادی بدو اور بدءۃ ذی بدء اور ...
ذی بدء و اور بادۃ ذی بدء و اور
بدءۃ ذی بدی اور بدأۃ ذی بدی و
اور بدءۃ بدء اور بدی ذی بدء اور بدء
بدء اور بادی بدی اور بادی بدی
اور بدیء ذی بدء اور بادی بدء اور
بادی بدا اور بدء بدء اور بدءۃ بدءۃ
اور بادی بدا اور بادی بدا وغیر ذلک
سرداری مین پہلا سردار یا فرہنگ اور
دانش جوان - تمام کے گوشت کا
حصہ یا اوس سے بدأۃ (فعس) ...
... کا جوڑ - بدو (فعس) جمع اس کو ان
جو ایام اسلام مین پیدا ہو - ہر چیز کا پہلا

بجم
بجم
بجم
بجم
بجم
۵۵

بخضل (ف ک) بہت گوشت والی پستان بہت گوشت والی پستان جسکا دودہ بہت مشکل سے نکلے ۔

بخص (ف س) (ف) کسی کی آنکھ کو اکھاڑ کر نکالنا و ضمیٰ کا پسے کے آزار کے سبب لنگڑا ہو جانا چل نسکنا ۔

بخع (ف س) غم و اندوہ اور غضب کے مارے اپنے تئین مار ڈالنا ۔ کوان کھودنا یہان تک کہ پانی نکل آوے ۔ کسی کو نصیحت آمیز بات اور سرے آمیغ پند دینے لعد اوس مین مبالغہ کرنا ۔ زمین کو پے در پے بونا اور اسکو ایک سال بھی نہ ہونے زراعت بچھوڑنا ۔ کسی کی خبر کو تصدیق کرنا ۔ ذبح مین مبالغہ کرنا یہانتک کہ حد ذبح سے گذر جاوین اور رگ بخاع کو پہنچ جاوین ۔ اصلی معنی تو اسکے یہہ مین مگر لغویون نے اسکو ہر ایک امر کے مبالغہ مین استعمال کیا ہے ۔

بخق (ف ض س ن) کا ہلاپن آنکھ کا بہت بڑا ہونا آنکھ کے ڈہیلے پر دونون پپوٹون کے کنارے کا منطبق ہونا اور اوسکی بینائی کا جاتا رہنا ۔

بخق (ف س) کسیکی آنکھ کا اندہا کر دینا

بخقاء (ف ض) کانی آنکھ پہاڑ

بخق بخقاء (ض) بہی آنکھ ۔

بخل (ف ض) و بخل (ض) بخل (ف ض) ۔

بخل (ف ض) کنجوسی ہشدکر ہے ۔

بخل و بخل اپنے شہر دہ بخیل ہونا صفت کا الفیا نسبا الفرسک سیکے یعنی بہایت کنجوس بخیل جو ہو ۔

بخل (ض) بخل (ف ض س) کم کنجوسی کسی بخیل کی طرف ۔

بخن (ف ض) لمبے قد کا آدمی ۔

بخنداۃ (ف ض ض س) پوری ساق کی عورت سپید بدن کی ۔ پر گوشت ساق ۔ بخاند (ف ض ک) جمع ۔

بخندی (ف ض) بمعنی بخنداۃ ۔

بخنق (ف س) ایک چھوٹا سا پیچ کہ عورتین اوڑہنی کے نیچے لگاتی مین تاکہ اوڑہنی چکنی ہونے سے بچی رہے ۔ جھوٹی ٹوپلی ۔ ایک چادر سی چیز جو لڑکی کے بن گردن پر ہوتی ہے ۔

بخنک (ف س) بمعنی قنبق ۔

بخو (ف س) نرم و سست کلپیچ ۔

بخوۃ (ف ض) ایک ۔

بخو (ف س) (ان) غصے کا دب جانا ۔

علامات اعراب ضمہ فتحہ کسرہ ... مفتوح مکسور سکون ت تشدید ... | مادہ

بدءۃ کا سکر علاکہ تھی پیچھے کے چوپایہ کی
پیٹھ پر رکھتے ہیں
ونیز بداد (فکس) وفص ہر شخص کا
ایک چیز کو کاٹنا اور بعض جو ملے
کے آپس میں تقسیم کرنا
بدار (فضک) بکسر را اسم فعل یعنی
جلدی کر اور دوڑ
بدار (کفس) سبقت کرنا ایک چیز کی
طرف سرعت کرنی جیسے بادرہ ...
سبقت کرنا
بدالعۃ (فقسف) بدوع (فضس) (کک)
اپنے ہمسروں سے علم اور شجاعت اور
شرافت میں بڑھ جانا
بدانمہ (فقسف) کیڑے نکلنے پاخانہ ...
بدال (فقفس) ماکولات فروش
عوام اوسکو بقال کہتے ہیں
بدال (کفس) کسی سے معارضہ کرنا
بداوۃ (فضسف) بمعنی بدو بداوتی اوسکی
طرف منسوب ہی وہ جو ہر ایک چیز میں
سے پہلے پیدا ہو یعنی ایک قسم کی ...
بداوۃ (کفسف) صحرا خلاف حضر
بداوی اوسکی طرف منسوب
بداہۃ (فقسف) بمعنی بدوش

سنے اندیشہ آنا اوسکا آنا
بداہۃ (فضسف) بمعنی بداہۃ (فضسف)
اول رفتار گھوڑے کی
بداہۃ (فضسف) حرف ہنسے سوچی بات کہنی
بدائد (فقسک) جمع بدیدہ (فکسف)
بمعنی بڑا مولا سرج ہی
بدائع (فقسک) جمع بدیعۃ (فکسف)
بدائہ (فقسک) نوادر
بدبد (فسفس) بمعنی بخ بخ
بدۃ (کسف) قوت و توان
بدۃ (ضسف) ہر چیز کا حصہ بدد (کف)
جمع طاقت ایک چیز کی نہایت
بدح (فس) ایک قسم کی مچھلی
بدح (فس) کاٹنا اور پھاڑنا کسی کے
ایک کام پیش لانا بھید کو فاش کرنا
بدح (کس) فضائے فراخ
بداح (کفس) جمع
بدحاء (فسفسم) وہ عورت کہ جسکی فرج کا
گرد اگرد فراخ ہووے
بدحۃ (فسف) صحن خانہ
بدخ (فس) ارتس کی بزرگ مرتبہ ہونا
بدخاء (فسفسم) جمع بدیخ (فکس)
بدد (فف) حاجت طاقت ... ہے

مادہ:
بدء
بدء
بدء
بدل
بدر
بدہ
بدر
بدع
بدء
بدو
بدح
بدخ
بدد

عُود کے مقابل جیسے بولتے ہین رَجَعَ
عَوْدَہٗ عَلٰی بَدْئِہٖ یعنی جس راہ سے کہ
آیا تھا اوسی راہ سے پھر گیا اور اِس
معنی مین تین لغت لوگ رکھی ہین چنانچہ
بولتے ہین رَجَعَ فِی عَوْدِہٖ وَبَدْئِہٖ اور رَجَعَ
فِی عَوْدِہٖ وَبَدْئِہٖ اور رَجَعَ عَوْدًا وَبَدْءًا اور
بولتے ہین فَعَلَ ذٰلِکَ عَوْدًا وَبَدْءًا فَعَلَ
فِی عَوْدِہٖ وَبَدْئِہٖ اور فَعَلَ فِی عَوْدَتِہٖ وَبَدْءَتِہٖ
بَدْء (فتح س) شروع کرنا۔ ایک چیز
کو ایجاد کرنا۔ نمونے کے لیئے شہر سے
باہر جانا جیسے بَدَءَ مِنْ اَرْضٍ اِلٰی اَرْضٍ پیدا کرنا
جیسے بَدَءَ اللّٰہُ الْخَلْقَ چیچک کے مرض
مین مبتلا ہو جانا۔ بیمار ہونا۔
بَدْء (فتح) پیدی رقیق۔ آدمی کے
بدن کا جوڑ۔ اَبْدَاءٌ (ضم) جمع۔
بَدْأَۃ (فتح سم) عورت بڑے بدن
والی۔ یا وہ عورت کہ جسکے اعضا یا ہاتھ
دونون کے مابین آپس مین ورم ہون۔ عورت
جسکی فرج کے کنارے دلدار ہون۔
بَدَاءَۃ (فتح) آغاز اور شروع۔ تمام
گوشت کا حصہ۔ ہر چیز کا پہلا
اور اول چنانچہ کہتے ہین کَانَ ذٰلِکَ
فِی بَدَائَتِنَا اور اِس معنی مین چار لغت

اور ہین فِی بَدْأَتِنَا اور فِی بُدَائَتِنَا اور فِی
مُبْتَدَئِنَا اور فِی مُبْتَدَأَتِنَا۔
بَدَاءَۃ (ضمہ) آغاز اور شروع ہر چیز کا
اول۔ ایک گھاس ہے۔
بِدَاءَۃ (کسر) آغاز اور شروع ہر چیز کا اول۔
بَدَاءَۃ (ضمہ و فتح) آغاز اور
شروع۔ نئے سوجھی ہوئی بات۔
بَدَاءَۃ (کسر) ہر چیز کا اول۔
بَدَاءَۃ (فتح) زمین فراخ یا فراخ اور
نرم زمین۔ بَدْءٌ (فتح) جمع۔
بَدَاد (فتح) ہر چیز کا حصہ تفرقوا بَدَدَ
پریشان ہوئے ہیں یہ قول جا بجا
الخیل بَدَادِ بَدَادِ (فتح) بَدَادِ (فتح)
بَدَادِ (فتح) اور بَدَادِ (فتح) بوزن
قَطَامِ اسم فعل ہے جیسے یا بیچے کہ ہر مرد
اپنے حریف اور ہمتا کو پکڑ لے بولا ہی
ہے عرب کا جنگ مین یہ قول یا قوم بَدَادِ بَدَادِ
بَدَاد (کسر) ہر چیز کا حصہ اور بچھی جو
چیز کہ گھاس اور روئی اور صوف وغیرہ
مین سے کسی چیز مین بھر کے زین اور
پالان کے نیچے رکھیں تاکہ چوپایہ
کی پیٹھ زخمی نہ ہووے لبدہ دوہری
ہوتی ہے۔ بَدَائِدُ (فتح) اَبِدَّۃ (کسر) جمع

بدع (فس) ایجاد اور پیدا کرنا کسی چیز کا
کرنا کسی چیز کو بغیر نمونہ کے
بدع (فف) موٹا ہونا
بدعت (کسف) دین میں نئی رسم بعد
اوس کمال کی ہاتھی بات کہ جو بعد نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کے
بدغ (فس) ابدان بدن کا
توڑنا۔ نجاست میں آلودہ ہونا سرین
کے بل چلنا
بدغ (کس) ہوکر زمین پاخانہ پھرے
بدغ (فک) مرد آلودہ نجاست ہو۔
موٹا خوشحال جیسے ہم عورتوں کو
وہ موٹے اور خوش حال ہیں
بدغ (فف) زمین نجاست میں آلودہ
ہونا سرین کے بل چلنا
بدل (فف) ہاتھ پاؤں کا درد
بدلا۔ ابدال (فس) جمع
بدل (فف) ہاتھ میں درد ہو جانا
بازو میں درد ہو جانا۔ بدل زبان عربی
میں چار طرح پر ہے بدل الکل۔ بدل
البعض بدل الاشتمال بدل الغلط اور
حروف بدل چودہ ہیں اس مجموعہ میں
انجدته یوم صال زطه اور حروف بدل جو

غیر اور تمام میں جاری ہیں وہ بائیس ہیں
اس مجموعہ میں بجد صرف شکس آمن
طی ثوب عزته
بدل (کس) جو چیز کہ دوسری جگہ میں
آوے۔ مرد شریف و کریم و سخی
ابدال (فس) جمع
بدل (فک) جسکے ہاتھوں پاؤں یا
بازو میں یعنی بغل اور چھاتی کے بیچ
کے گوشت میں درد ہو۔
بدن (فف) دھڑ بن سر وہ جگہ بدن
میں جسکے کاٹ ڈالنے سے آدمی نہ مرے
جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ یا بعضی علق
عضو یا خاص جزو۔ مرد بوڑھا چھوٹی
زرہ۔ چھوٹا جبہ بے آستین کا۔ جامہ کا
گھیر۔ ابدان (فس) جمع۔ نر کوہی نر
بوڑھا ابدان (فس) جمع مرد کا حسب
بدن (فس) بدن (فس) ابدان (فس)
بدانہ (فس) ارکان جسیم اور
تنا ور ہو جانا موٹا ہو جانا
بدنہ (فف) اونٹ اور گائے قربانی
کی جسکو مکہ میں بھیجیں مذکر اور مونث
برابر ہے۔ بدن (فس) جمع
بجد و (فس) جنگل خلاف ہو مکی (کس)

۵۰۵

ماده

بدر

تا آنکہ بدر بدرۃ گوشت بھرے پن کے سبب دونون کا نون کے درمیان کی دوری اور چوپایون مین اسکے ظرف یا تھون کے درمیان کی دوری بجانب سینہ

التحمیل بدر و بدو اور بدار بدار زفقتا یعنی آگے سوار متفرق متفرق اور یا لیعتہ بدروا یسے سعار فتہ ـ

بدر و رفت (س) آبد ہو جانا ـ

بدر (فس) پورا چاند سردار ـ پورا ہر ایکا جوانی کا ہر چیز یعنی طباق و بھیڑ کے بچے کی کھال ـ ہمیانی ہزار یا دس ہزار درہم کی یا ساٹھ ہزار دینار کی بدر رکف بدر (فس) مع ـ

۵۰۸

لیلۃ البدر چودھوین رات کا چاند

بدر و بدور (ن) پورا ہو جانا اور کا پک جانا پھل کا آگے آنا ـ کسی کیطرف دوڑنا جیسے بدرہ الیہ ـ کسی کو کسی کی طرف دوڑانا جیسے بدر غیرہ الیہ ـ

بدرۃ (فس) بھیڑ کے بچے کی کھال ہمیانی ہزار یا دس ہزار درم کی یا ساٹھ ہزار دینار کی ـ

پوری آنکھ چاند کی مانند آنکھ ...

بچے والی بدرۃ (فس) بیدرۃ ... صحاح مین درج ہے کہ بدرۃ (فس) ہمیانی کی شکل ہے جو اون بھیڑ کے بچے کی کھال سے بناوین جسکا دودھ چھڑا لیا ہو اور اسکی کھال کی شکل جیسے ... کے لیے ہو مسک (فس) کہتے ہین اور بھیڑ کے جوان بچے کی کھال کی جو مشک دودھ کے لیے ہو وطب کہتے ہین اور جو روغن کے لیے ہو تو عکہ کہتے ہین اور پوست شیر خوار سے جو مشک دودھ کے لیے بنا کین شکوہ کہتے ہین جو روغن کے لیے ہو تو عکہ (فس) کہتے ہین ـ

بدرقۃ (فس) رہبر ... بدرقہ کو بذرقہ بھی کہتے ہین ـ

بدشتی (فس) ... و شیئی ـ

بدری (فس) ... جو پہلے چاردن کے برسے سلونٹ کا بچہ ہوتا

بدیع (فس) نو ایجاد کسی کی مثال پر نہو ـ جوان ... واسع الاخلاق اپنے یاردن سے علم و شرافت و شجاعت مین بڑا ہو ـ سپر گوشت بدن ـ بدیع (فس) ابداع (فس) ...

بذ فرد خلاف جنت۔
بذاذہ بیاذہ بدحال اور بد ہیئت۔
بذو رفس) رف) کسی کے حال کو خوش
دیکھنا اور اوس سے کراہیت رکھنی حقیر
جاننا۔ سرزنش کرنی۔ زمین کی چراگاہ
کو ناپسند کرنا کسی چیز کو آنکھ کا نقول کرنا
بذو رفش) بذاوۃ رفسف) رک
ن س) برا اور بدگفتار ہونا حقیر ہونا۔
بذاء رفسم) کلام بیہودہ۔
بذاء رفسم) بذاءۃ رفسف رک)
بیہودہ گو ہو جانا۔
بذا ر کفس) آپسمین فحش بکنا۔
بذاخ رفقس) اونٹ بڑا آوازکرنے
والا۔ شگفتہ باہر نکلنے والا۔
بذاخی رفسک) بزرگ۔
بذاذ رکفس) کسی کے آگے بڑھ جانا۔
بذاذ رفس) بذاذۃ رفسف)
بذذ رفف) بذوذۃ رفسف)
بدحال ہونا و نیز بذاذہ و بذوذۃ
بدحالی۔ بذاذ ایک ٹھہر ٹھہر کہلم اوس
بولتے ہین کہ جب کسیکو ایک شی سے روکین
بذارۃ رفسف) نسل۔ زیادتی۔
برکت۔ و بفتح یا و بھید ظاہر کرنیوالا ہونا

بذارۃ رفسف) اسراف۔
بذارۃ رفسف) رک) بھید ظاہر کردینا۔
بذامۃ رفسف) رک) تندعیم ہونا۔
بذجۃ رکتف) حصہ کسی چیز کا۔
بذج رفس) ایک برس کا بکرا۔
بذجان رفسفس) جمع۔
بذح رفف) ران کی خراش۔
بذح رکس) ہاتھ پاؤن کی گھائیان
بذح رفس) اونٹ کے بچے کی زبان
چیر دینی تا کہ دودھ نہ پی سکے۔ پوست
رگ سے الگ کرنا گھائیون کی جگہ۔
بذخ رفف) بمعنی بذاخ رفقس)
بذخ رفف) گردن کشی۔
بذخ رفف) رس) گردن کشی کرنی۔
و بسکون خا و بکسرین بمعنی بذخ رفت)
بذر رفس) دانہ جو بیج کے لیئے رکھ
چھوڑتے ہین پہلی گھاس جو بیج سے
نکلتی ہے یا وہ جو کوئی رنگ رکھتی ہو
بذور رضفس) بذار رکفس) جمع نسل۔
بذر رفس) رن) زمین بونی۔ زمین
سے گھاس نکل آنی بھید کو ظاہر
کرنا۔ مال کو اسراف سے پراگندہ کردینا
بذر رفک) بہت بکنے والا۔ بھید کا ظاہر

۱۱ه

مادہ

منسوب بدو کی طرف۔
بُدُو (ضس) بدو (رضفت) بداء
(ضسم) بداءۃ (ضفست) (ن)
اور ایک رائے ظاہر ہونی صحرا میں جانا
اور وہاں اقامت کرنی۔ گزنا ز
یا بیجا نہ پھرنا گویر کرنا۔
بدور (فت) (رس) زمین کا پراگندہ
کھیتی سے بھرا ہوا ہونا۔
بدوان (فففس) نئی رائے
اول دبی وہ کنارے تلے کے۔
بدوح (ضفس) (رف) رفتار خوش
سے چلنا بھاری بوجھ کے سبب
عاجز رہ جانا کسی کو ایک کام کا گرانبار
کردینا۔ عاجز کردینا۔
بدور (ضفس) (جمع بدر (فس))
بدرہ (فس) آغاز ہر چیز کا اچانک آنے والا
بدرۃ (فس) (ف) اچانک اور بے
سوچ آنا۔ ایک امر کا پیش آنا۔
بدی (فکت) پہلا۔ انوکھا کام۔
بدی (فس) (فس س) شروع کرنا
جیسے بدیت بہ
بدیع (فکس) پیدا کیا ہوا اور مخلوق
سنا کام اور عجیب۔ گزران جو ایام اسلام

میں کھلا ہو۔ ہر چیز کا پہلا۔
بدیح (فکس) مرد بزرگ مرتبہ
بدید (فکس) بمعنے بدلو الشرح بدائد
(فسک) بدۃ (فکتف) جمع۔ بیابان
فراخ۔ مانند وہیتا۔
بدیدۃ (فکسف) پہلا۔ مانند وہیتا اور کہتے
ہیں فلان مع بدیدۃ یعنی جنگل کہ اس میں کوئی نہیں
بدیر (ضفس) تصغیر بدر۔
بدیع (فکس) خدا کے ناموں میں سے
ایک نام۔ نیا پیدا کرنے والا۔ انوکھا
نیا پیدا کیا ہوا۔ نئی قسم کی رسی جو بنی ہوئی
نئی مشک جس میں شراب وغیرہ رکھیں۔
بہوتا مرد۔ بدع (ضفت) جمع۔
بدیل (فکس) جو کہ دوسری چیز کی جگہ
میں آوے۔ بدلے میں آوے۔
بدین (فکس) جسیم وتناور مذکر اور مونث
برابر ہے۔ بدن (ضفض) جمع۔
بدیہۃ (فکسف) شروع۔ اچانک بے
سوچی بات۔ اچانک اور بے سوچ آنا۔
بدیہیۃ (فکسف) آغاز اور شروع۔
بے سوچی ہوئی بات۔
بذ (فت) غلبہ۔ مانند ہونا بخوبی پراگندہ
بذ (فت) (ن) غلبہ کرنا سبقت کرنی۔

برکت (ن) مقبول ہونا۔ معروفاً اور
مجہولاً مقبول کرنا۔ بکریون کا ہانکنا اور
پھلانا کسیکو مغلوب کرنا قول میں فی فعل میں
برافت وبکت (س ض) قسم میں سچا
ہونا سونیز بر (کت) فرمانبرداری کرنی
مان باپ کی فرمانبرداری۔
ہو لا یعرف الہر من البر یعنی
وہ جاہل ہے اور یلی میں امتیاز نہیں کرتا
یا عام اشیاء متضادہ میں فرق نہیں کرتا
بر (ضمہ) گیہون۔ اسم جنس ہے مفرد
اسکا برۃ (ضمہ) ہے۔
برء (فتحہ) برء و برء (ضمہ) پیدا
کرنا۔ اس لفظ کو خدا تعالیٰ سے پیدا
کرنیکے ساتھ وہ خصوصیت ہے کہ
اوروں کے ساتھ نہیں۔
برء (فتحہ) برء و برء (ضمہ) (ب ر
فس) (ف ن ک س) مریض کا
بیماری سے اچھا ہونا اور دکھ کمزور ہونا
برایہ (فتحہ) تراشہ یعنی برادہ وغیرہ
جو تراش سے گرے۔
ناقہ برایہ اونٹنی یا شحم ولحم مضبوط
جو تھکی ہوئی ہو۔
برأ (ضمہ) پاک و بیزار اسمین تثنیہ
اور جمع اور تانیث نہیں آتی پہلی رات
یا پہلا دن ہر مہینے کا۔ یا پچھلی رات
یا پچھلا دن ہر مہینے کا۔
براء (ضمہ) براءۃ (فتحہ) بریء
(ضمہ) (س) بیزار ہونا عیب
اور قرض وغیرہ سے پاک ہونا بیزار ہونا
براۃ (ضمہ) کاوہ میدان یعنی
شکاری جو جال کے کنارے بیٹھ
درختون کی شاخین لگا دیتے ہیں اور
اوپر کچھ لٹکا دیتے ہیں تاکہ اوس سے
شکار ڈر کر جال کی دوسری طرف کہ جدہر
دانہ ہے آوے۔
براغیث (ضمہ) ایک قسم کا کھانا جو گیہون
خوشہ کے دانون کو تازے دودہ کے
ساتھ تیار کرتے ہیں۔
براۃ (ضمہ) چھری جس سے کمان تراشیں
براکث (ضمہ) چھوٹے ٹیلے
یہ جمع ہے واحد اسکا ...
برجاس (ضمہ) اسم آفتاب۔
براح (فتحہ) زمین چوڑی جسمین
کھیت درخت کچھ نہ ہو ...
امر ظاہر جس میں خفا نہ ہو
یعنی اوسکو چھپانے میں ...

۵۱۳

| مادہ | | |
|---|---|---|
| لہ بذق | گردن سینے والا شتر یا جرکت — | بذور (فس) (ن) بُرا کہنا — |
| لہ بذر | بذرقہ (فسکف) بدرقہ نگاہبان | بذور (فکس) عیب کرنے والا — |
| لہ بذی | رہنما — بدرقہ ہونا — | جو بھید چھپا نسکے — |
| لہ بذع | بذری (فکفتف) ہاتھی — خروٹ بڑا شتر | بذخی (فکفت) بیہودہ بکنے والا — بد زبان |
| لہ بذقطر | بذع (فس) گھڑے سے پانی بہانا — | بذیر (فکفت) بیہودہ — |
| لہ بذل | بذع (فف) بیم و ترس — | بذیذ (فکس) ماند دیہات — |
| لہ بذلخ | بذع (فف) (ف) ڈرانا — بہانا — | بذیذہ (فکسف) غلبہ غصہ تنگ عیشی |
| لہ بذم | گھڑے سے پانی ٹپکانا — | بذیر (فکس) یعنی بذور (ففس) — |
| ٥١٣ | بذق (فس) سفر میں راستہ چھوٹا — | بذر (فضس) جمع و بمعنی کشیدہ |
| لہ بر | ہلکا — بذوق (ففس) جمع — | بذیی (فکس) برا آدمی — بدگفتار اور |
| لہ برء | بذقطر (فسکف) پراگندہ کرنا ہانکا | حقیر — جنگل سب سے چراگاہ — |
| لہ برأ | اور گھر کی پونچی کا — | بذیم (فکس) قوی و مضبوط — منہ بولا |
| لہ برب | بذل (فس) اسم بخشش عطا — | عقلمند کہ غصہ میں لب نہ سے غصہ پر ثابت کو |
| لہ برث | گھوڑے کی دوڑ — | بذیمہ (فکسف) عقلمند کہ غصہ میں |
| لہ برج | بذل (فس) (ف) بخشش کرنی — | اپنی جا سے پر ثابت ہے — |
| لہ برجد | بذلاخ (فسکفس) وہ جو کہے اور نکرے | بر (فت) مہربان — خدا تعالیٰ کے ناموں |
| لہ برح | بذلاخ (فکسفس) کہنا اور نکرنا — | میں سے ایک نام ہے سچ بولنے والا |
| لہ برد | بذلہ (فکسف) پرانا کپڑا — اور وہ کہ | فرمانبردار ماں باپ کا — بڑا نیک — ابرار |
| | جسے ہر روز پہنیں — | (فسکس) جمع — قسم کی سچائی قسم میں سچا ہونا |
| | بذلحہ (فسکفف) کہنا اور نکرنا — | برکت — نیکی — سوغات بہشت — |
| | بذم (فضس) راست — ہوشیاری — | فراخی احسان — صلہ رحم — راستی — تقدیر |
| | نفس — کثافت — موٹاپا — جستی — فربہی — | ورع — قسم کی سچائی — حج — سعدی — ؟ |
| | بردباری — قوت — طاقت — | کا بچہ — چوہا — جنگلی چوہا |

متقاربین بکتی ہی۔ برِدِک (فضغ) جمع۔
بُراک (فضسک) اسم فعل بمعنے امر
لڑائی مین کہتے ہین براک براک یعنی
ابر کو ایعنی خوب کوشش کرو۔
براکا (فضسم) برو کا (فسفسم)
زانو کی نشست۔ لڑائی مین کوشش
اور ثبات اور قرار۔
براکیہ (فضسکف) ایک قسم کی کشتیان۔
بُرائِلہ (فسفعف) گردن کے پر
پھلانے مرغ کے لڑائی مین۔
بَرامِ (فضس) چھری۔ ابرہمۃ (فسکف) جمع۔
براہمۃ (فضسکف) ایک قوم ہمالت
کی ہنگر یعنی ہو ایک قوم ہے کہ اونکے
اعتقاد مین یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کو
پیغمبرون کا بھیجنا کچھ ضرور نہین۔
بُرائِل (فضسکس) ابرند جانور کی
گردن کے گرداگرد یا خاص شوات
کی گردن کے بال کو کہتے ہین اور
شوات ایک پرند ہے مرغابی کی
جنس سے اوسکو سرخابی بھی کہتے ہین
براَئِل الارض زمین کی گھاس
براَئلی (فضسکف) یعنی برائل
براَئلی (فضسکت) مرغابی۔

بَربار (فسفس) شیر شور کرنے والا
غصہ سے ڈکار دینے والا۔ آلوبجر بار
یا آواز ڈول۔
بَرباش (فسفس) بڑا گہرا کوان۔
بَربخ (فسف) پاخانہ کے پانی کا
راستہ جو کوٹھے سے زمین تک
بنا دیتے ہین اور وہ غیر نمایان ہے جیسے
قلعی دار پرنالہ۔ برابخ (فضسک) جمع۔
بَربَرِکس (فسکس) ایک کلمہ ہے کہ اس
سے بکریون کو بلاتے ہین۔
بَربَر (فسفس) بڑی آواز کا آدمی
بہت بولنے والا۔
بَربَرۃ (فسفعف) شور و غوغا کرنا یا غصہ
مین آواز کرنی بھیڑ کی آواز کثرت کلام۔
بَربَستِر (فسفف) طلب کرنا۔
بَربَصۃ (فسفف) زمین کو پانی دینا
یا کھا کر اوسکو پانی دینا۔
بَربَط (فسف) عود ایک باجا جسے
بجاتے ہین معرب بربط کا بافتح
یعنی سینہ بط۔
بَربور (فسفس) کبیدہ گندم یعنے
گیہون کا گھنا ہوا آٹا یا دلیا۔
بَربیطا (فسفسم) گھاس۔

۵۱۵

۱۲

شل بلا ریب کے منصوب ہی اور اسکا
رفع بھی درست ہی تو لا ینبغی لہ لیس کے
خبیل برلاح شیر اس لیئے کہ جگہ
سے نہیں ہلتا گویا اسی سے بندھا ہوا ہی

براحا (فقس) زائل ہونا۔ زمین
براح مین جانا۔ پوشیدگی کا دور ہونا اور
کام کا روشن ہونا۔

براد (ضفس) سرد ضعیف و سست ہونا
قاصد بنانا سولون کا مارا ہوا ہونا۔

براوۃ (ضفسف) برادہ جو سوہن سے گرے

براوۃ (فقسف) برتن کہ پانی کو
خشک کرے۔ پانی پینے کا گھاٹ کنوئین
جسکا سر تنگ ہو اور پانی کو سرد کرے

برار ی (فضسک) جمع بریہ (فکتک)
یعنی جنگل۔ بگرز۔

براز (فقس) جنگل میدان چوڑا
چوڑی جگہ بے درخت۔

براز الروج ایک وزن ہی بغداد
میں۔ بانچ (؟) سنگ کے طرح۔ جائے
کشادہ جسمین درخت نہو۔

براز (کفس) اسم ہی آدمیونکا پاخانہ
براز (کفس) مصدر صف میں سے
باہر آنا لڑائی کے لیئے۔

برازۃ (فقسف) رکہا پارسا و عقلمند ہونا۔
براذیق (فقسکس) آدمیون کے
گروہ۔ برذیق (کسکس) واحد۔ سواران
گھوڑون کے گروہ بدون سواران کے
رستے برجے راستہ کے گرد۔

براشم (ضفسک) تیز نظر اور بد دیکھنے والا
براشش (ضفسک) تیز نظر اور بد دیکھنے والا

براض (فقس) وہ شخص جو مال
اپنا کما جاوے اور تباہ کر دے۔

براض (ضفس) تھوڑا۔

براطم (ضفسک) جسکا ہونٹھ موٹا ہو

براعۃ (فقسف) بروع (ضفس)
رس ان کی فضل او کمال میں پورا ہونا
اپنے یاروں سے دانش و بینش میں بڑھ جانا

براغیش (فقسکس) امیل و نشا۔

براق (ضفس) چوپایہ جسپر جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم شب
معراج سوار ہوے خچر سے چھوٹا اور
گدہے سے بڑا تھا۔

براق (فقس) چمکدار۔

براقۃ (فقسف) عورت جمال والی
چمکدار بدن کی گوری چٹی۔

براک (کفس) ایک مچھلی ہی کہ بہت سی

اور پانی خروش مزہ ہو جاوے۔
نشان جو پتھر سے بناویں جیسے میل۔
بُرجان (فسفس) ایک قسم ہے آدمیوں کی
بُرجد (فسف) ایک قسم کا دلدار کمبل۔
بُرجمۃ (فسفف) کلام کی سختی۔
برجمۃ (فسفف) ہیچ کا جوڑ اور انگلیوں
کے تین جوڑوں میں سے بیچ کی
یا انگلی کی ہڈی کی پشت یعنی گرہیں۔ یا
انگلیوں کے جوڑ کا سر پشت کہ جب
مٹھی کو بند کریں تو تنی ہوئی اور بلند رہے۔

براجم (فغفس) جمع۔
برجیس (فسکس) ایک ستارہ ہے یا وہ
مشتری ہے یا وہی وعدہ ایل۔
برح (فس) سختی۔ گزند۔ بدی۔
برح یا برح بڑا نقصان۔
برح (فک) کار سخت۔
برحاء (فغفسم) تپ وغیرہ کی سختی۔
برحۃ (فسف) ہے بمعنے براحۃ (فغسف)
برحۃ (فغفف) اونٹنی اصیل بہترین
برحی (فسف) کلمہ ہے کہ بروقت خطا
کر جانے تیر کے نشانہ سے کہتے ہیں
اور مرحی اوس وقت کہتے ہیں کہ جب
نشانہ پر بیٹھ جاتا ہے۔

برحین (فسکس) بلائیں سختیاں اسی
میں بار کو تینوں حرکتیں بھی پستے ہیں
برخ (فس) ارزان زیادتی بیچاؤ کا
سستا ہونا۔ غلبہ۔ قہر۔ گردن توڑنی
پیٹھ توڑنی۔ تلوار مارنی کہ جس سے
کچھ گوشت کٹ جاوے۔
برخاش (فسفس) تنگی جس بحث۔
بُرخداۃ (فسففس) عورت نازک
بدن گوشت والی گٹھیلی۔
بُرد (فس) جاڑا۔ ضد حر۔ سرد و خنک۔
برد (فس) سرد و خنک کرنا۔ سرد ہونا
یا برف ملانا۔ لازم ہونا۔ لاغر ہونا۔ آسان
ہونا۔ سوہان کرنا۔ سرمہ لگانا آنکھ میں
۔ مر جانا۔ بعض پر بہانہ لکنا۔ تلوار کا اوچٹ
جانا۔ احتلام ہونا۔ خواب۔ رال جو منھ سے نکلے
برد النہار ٹھیک دوپہر کا دن۔
بردان (فسفس) صبح و شام۔
بُرد (فس) جامہ خطدار۔ ابراد (فسفس)
ابرد (فسفس) برود (فغفس) جمع۔ کالا کمبل
جو گوشہ کہ عرب اپنے اوپر لپیٹتے ہیں
بردۃ (فسف) ایک۔ برد (فغف) جمع
بُرد و الحجندب بلندی سکے وعابد۔
برد (فف) اولا۔

برجی
برجاب
برجم
برجیس
برحی
برحش
برخ
برخا
بردا
برد

علاہ

مادہ
برت
برتل
برثن
برج
برجس
برد

بُرت (ضس) شکر طبرزد کہ ایک قسم کی شکر ہوتی ہے نہایت سپید لیکن سخت کھاری مرد راہبر ابرات (ضس) جمع
بُرۃ (ضف) ناقہ کی ناک کا حلقہ یا کان یا بال وغیرہ کا ہر حلقہ مثل خلخال وغیرہ کے برین (ضف) برات (ضس) برین (ضکس) جمع
بِرت (کف) (س) حیران ہوجانا
تحیرۃ (ضف) فرمان برداری سے پھرجانا عورت جیسے کہتے ہیں لا اکلم تحیرۃ
برتہ (ضسف) ماہر ہونا ایک کام میں
برتکہ (ضسف) ٹکڑے ٹکڑے کرنا چیرنا پھاڑنا ریزہ ریزہ کرنا
برث (ضس) زمین نرم یا پہاڑ نرم ریت کا یا سب سے زیادہ نرم زمین براث (کس) ابراث (ضس) بروث (ضس) براث (ضس) جمع سا ہبر ماہر
برث (فکف) (س) صیغہ ماضی ناز اور نعمت میں اچھی طرح سے زندگانی کی
برثان (کس) ایک داغ ہے خارش اونٹ کا
برتطہ (ضسف) خانہ نشین ہونا زانو پر بیٹھنا یا پہاڑ پر جب کوئی پہاڑ پر چڑھکر اور اپنے زانو کے تئین کشادہ رکھکر بید لیوں پر بیٹھے تو کہتے ہیں برتطأ فی الجبل
برثمتہ (ضسف) شوکت وقوت برثنۃ کو برثمۃ بھی کہتے ہیں
بُرثن (ضسف) پنجہ پنجہ شیر شکاری جانوروں کا پنجہ براثن (ضفکس) جمع یا برثن (ضسف) جو درندوں کے سبب ایسا ہے کہ جیسا آدمی کے لیے انگلیاں
برثنۃ (ضسف) شوکت وقوت
برثوطۃ (ضسف) ہلاکت
بُرج (ضس) قصر یعنی محل قلعہ قلعہ کا مضبوط کرنا آسمان کے حصوں میں سے ایک حصہ بروج (ضس) جمع
بَرِج (فف) خوبصورت باجمال روشن نمایاں ابراج (ضس) جمع
برج (فف) (س) فراخ چشم ہونا آنکھ کی سپیدی کا بہت ہونا سیاہی کا بہت سیاہ ہونا کشادہ آنکھ ہونا
برجاس (ضسفس) (ع) آنکھ والی
برجاس (ضسف) ایک نشانہ جو نیزہ وغیرہ سے ہوا میں رکھیں پتھر جو کوئیں میں ڈالیں تاکہ اوس کے چشمے کھل جاویں

کی مانند سیاہ جو کہ گھاس کی پود کی جڑ
برس (رفت) بمعنی قرضدار پر تشدد کرنا
برسام (مفتوحہ) برا سام (مفتوحہ)
آدمی کے سینے میں ورم ہو جانا ایسی ایک بیماری
ہو یا ایسی اکثر ہوتا ہے جیسے جن میں
جانتا کہ یہ کیسا آدمی ہے کیا کون ہی
برسام (مکسور) ایک بیماری ہے جس
کی وجہ سے ہذیان ہوتا ہے برسام کا
معرب اس لیے کہ بر بمعنی سینہ اور سام بمعنی
بیماری ہے جیسے سرسام سر کی بیماری
برسیمہ (مفتوحہ) بیماری برسام میں
مبتلا ہونا مستعمل ہے
برسیم (مکسور) ایک گھاس کا دانہ ہے
ر علیہ کے مشابہ مگر اس کا رنگ سبز ہے
برش (رفت) نقطے سیاہ یا سپید گھوڑے
کے برخلاف اس کے رنگ کے ناخن کا نقطہ
برشاء (مفتوحہ) جہاں بہت گھاس
ہو۔ بہت لوگ۔
برشام (مکسور) نظر کی تیزی
برشۃ (مفتوحہ) بمعنی برش (رفت)
برشتوک (مفتوحہ) ایک قسم کی مچھلی
برشطۃ (مفتوحہ) گوشت کا ٹکڑا
برشفۃ (مفتوحہ) گوشت کا پارہ پارہ

کرنا۔ تازیانہ سے مارنا۔
برشکۃ (مفتوحہ) بمعنی حصہ حصہ کرنا
قربانی کے گوشت کا۔
برشم (مفتوحہ) برقع۔
برشمۃ (مفتوحہ) تیز اور برابر دیکھنا۔
چپ ہو جانا غم و غصہ سے۔ منہ پھیر لینا
نقطے رنگ برنگ کے ہونے۔
برشوم (مضموم) ایک قسم کا کھجور کا
درخت بصرہ میں کہ بہ نسبت اور جگہ کی
کھجوروں کے بہت جلدی پھل لاتا ہے
برص (رفت) (رس) ابلق ہونا۔ ٹیکا
داغدار ہو جانا بسبب فساد مزاج کے
چہرہ یا بدن کے اچھے ہونے زخم کی سپیدی
برص (رفت) ایک جانور ہے
چھوٹا جو کوئیں میں ہوتا ہے۔
برصاء (مفتوحہ) زمین جس کی گھاس
چھپی ہوئی ہو۔ سانپ کو ڈالا۔
برصۃ (مفتوحہ) جن کا گھر ریگستان
میں وہ جگہ کہ گھاس وہاں نہ اگے۔
برصوم (مضموم) شیشہ کا علاج
چمڑا جس سے شیشہ کا سر باندھیں
برض (رفت) تھوڑا۔ یا من کرنا
برض (مفتوحہ) ابیاض (مفتوحہ) جمع۔

ماده
برب
برابر
برابیل
برابیر
برابیت
برابیس
برابیز
برابیش
برابیص

ماده
برجک
برشم
برص
برصم
برض

بُرْدُ وَرنک (ف) اولا برسانے والا بادل مثل مبتذ قلف)۔
بَرْد (مش)، بَرُودَة (فتحتین) (ان کا) خنک اور سرد ہونا۔
بُرَدَاء (فتحتین) سردی کی تپ یعنی جاڑا بخار
بُرْدَة (فسف) ادبہنی
بُرْدَة (فقف) آنکھ کا میچ۔
بَرْقُوج (فسف) قیدی معرب بردہ۔
بَرْدِیس (کسکہ) مرد خبیث وگروکمش مروزشت اور بد۔
بَرْذَعَة (فسف) موٹا کمبل کہ پالان کے نیچے چوپایہ کی پیٹھ پر رکھیں۔
بَرْدِی (فسکت) ایک گھاس جو کہ پانی میں اوگتی ہے اور مصر میں اوس سے کاغذ بنایا جاتا ہے۔
بَرْدِی (فسکت) ایک قسم کا اچھا چھوہارا
بِرْدِیس (کسکس) متکبر مغرور۔
بَرْذَعَة (فسفف) بمعنی بردعہ۔ براذع (فضسک) جمع۔ زمین کہ نہ بہت سخت ہو نہ نرم
بَرْذَنَة (فسفف) غلبہ کرنا۔ چوپایہ کا عاجز رہنا۔ گھوڑے کا تاتاری گھوڑے کی چال پر چلنا۔
بِرْذَوْن (کسفس) چوپایہ تاتاری گھوڑا۔ برذونہ (کسفسف) مونث۔

بَرَاذِین (فضسکس) جمع۔
بَرَرَة (ففف) جمع بار (فت)
بَرَّز (فس)، زمین فراخ و خالی۔ مرد بے پرواہ دلیر و زیرک دانا مثل برزی۔
بُرُوز (فف)، (س) ظاہر ہونا۔ مبرزہ (کسکفف)
بَرْزَة عورت پارسا پاک باز اپنے شکین عزت سے رکھنے والی یا میانہ سال کی عورت پارسا بزرگ مرتبہ کہ مردوں میں بیٹھے اور بات چیت کرے اور حجاب نہ کرے
بَرْزَج (فسف) ارغوان معرب برزہ
بَرْزَخ (فسف) وہ چیز جو دو چیز کے بیچ میں ہو کہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں جو حائل ہے اور وہ وقت مرگ سے روز قیامت تک ہے اور جو مرتا ہے برزخ میں داخل ہوتا ہے۔ براذخ (فضسک) جمع۔
بَرْزَخُ الْاِیْمَان ایمان کے اول اور آخر کے درمیان میں ہے۔
بَرْزَغ (فسفف) جوانی کی ترنگ اور امنگ و جوش۔ پورا جوان پر گوشت۔
بَرْزَق (فسفف) ایک گھاس ہے
بَرْزَل (فسفف) مرد موٹا۔
بِرْزِین (کسکس) چھال کے پوست کا کوزہ
بِرْس (کس) روئی یا ایک چیز روئی

برغش (کسکک) مچھر۔
برغلہ (فسفف) برغیل میں رہنا۔
برغوث (فسفس) پسو۔ براغیث جمع
برغیس (کسکس) جو سختی پیدا ہوا
صابر ہوا اور اوس سے نلے پیدا ہو۔
برغیل (کسکس) گاؤں اور زمین کہ پانی
کے قریب ہوں۔ وہ شہد جو کھیت
والی زمین اور جنگل کے درمیان واقع
ہوں۔ براغیل (فسفکس) جمع۔
برق (فس) چمک۔ بجلی۔ بروق (فسفس) جمع
برق (فس) (ن) آراستہ ہونا اور
زینت کرنا عورت کا۔ چمکنا۔
برق (فس) سوسمار۔
برق (فف) معرب ہی بڑہ کا۔ ابرق
(فسفس) برق (فس) جمع۔ ڈر۔
دہشت۔ حیرت۔ چوندھیانا۔
برق (فف) بروق (فسفس)
(ن س) آنکھ کا چوندھیانا۔ مشک
کے گھی کا گرمی سے پگھل کر بہجانا۔
برقاء (فسفسم) خاک پتھر ریت مٹی
سے ملی ہوئی۔ برقاوات (فسفسفس) جمع۔
بھیڑ برقاء بھیڑ کی کہ اوس پر سیاہی
اور سپیدی ہو وے۔

برقان (فسفس) چمکدار۔ ٹڈی نگدار
برقانہ (فسفسف) ایک۔
برقہ (فسف) دہشت۔
برقہ (فسف) حاجت۔ خاک ریت مٹی
سے ملی ہوئی۔ برق (فف) جمع۔
برقحہ (فسفف) چہرہ کی بدصورتی۔
برقش (کسکس) ایک جانور ہے سبز
رنگ چھوٹا بقدر چڑیا کے اہل حجاز
اوسکو شرشور کہتے ہیں۔
برقشہ (فسفف) خلط ملط کرنا بات کا۔
خلط ملط کر کے کھانا۔ پریشان ہونا۔
رنگ برنگ ہونا۔ رنگ برنگ کرنا۔
برقطہ (فسفف) پاس پاس قدم رکھنا
اور پیچھے بھی دیکھتے جانا۔ پراگندہ
کرنا۔ ست رفتار۔ رلط بات کہنی۔
برقع (ضسف و فسفس) چوپایہ کی
اندھیری اور عورتوں کا نقاب۔ اونٹ
کی ران کا داغ اس صورت کا ۞ بھیڑ کا
کا نام کہ وہ بیٹنے کے وقت اوس نام سے
پکاری جاوے
برقعہ (فسفف) برقع پہنانا۔ دو کانوں
کے بیچ میں مارنا۔
برقلہ (فسفف) چھوٹا ہونا۔
برقوع (ضسفس) روسے بند چوپایوں

ماده
برغ ۔ برغل ۔ برغث ۔ برغس ۔ برغل ۔ برق ۔ برقن ۔ برقح ۔ برقش ۔ برقط ۔ برقع
۵۲۱
برقع ۔ برقل ۔ برقع


ج

برزن
بعرم
بعرمکل
بعرم
بعرزل
بعرل
بعرم
بعرق
٥٢٠
بعرب
بعرس
بعرل
بعرب
بعرت
بعرع
بعرس

برصتہ (فسف) وہ جگہ جہان درخت
زیادہ ہون بہتا پانی جو تھوڑا تھوڑا
کرکے لیا ہو۔
برطام (کسفس) جسکا ہونٹھ موٹا ہو
برطل (فسفس) ایک قسم کی ٹوپی اور
کبھی اس لفظ کے لام کو مشدد کردیتے ہین
برطلہ (فسفف) چھوٹا سا سائبان
تنگ کشادہ وسیع ہو۔
برطلتہ (فسفف) بڑا سا پتھر رکھنا کنا
حرص پر رشوت دینی۔
برطم (فسف) جو باتین عاجز ہو۔
برطمتہ (فسفف) ایک طرح کا کھیل غصہ
مین پھول جانا غضب ناک کردینا۔
اندھیرا ہوجانا رات کا۔
برطنتہ (فسفف) ایک قسم کا کھیل ہند کے
برطیل (کسکس) بڑا پتھر لینا چوڑا
لوہا کہ جس سے چکی کو ہاتھ سے کرین۔
لوہے کی سلائی جس سے پتھر تراشتے
ہین سد رشوت۔ براطیل (فسکس) جمع
برع (فس) (رن) غالب آنا جیسے
برع یعنے غالب ہوا۔
برعثہ (فسف) علقہ زہر۔
برعس (کسکس) اونٹنی دودھیل۔

برعل (فسفس) ریچھ کا بچہ یا ہرنگ کا بچہ کہ
گیدڑ سے پیدا ہووے اور ہرنگ ایک
جانور ہے بلی کے مشابہ۔
برعم (فسفس) میوہ یا کلی کا غلاف۔
برعمتہ (فسفف) برعوم (فسفس) برعم
(فسفسف) اشلہ براعیم (فسکس) جمع۔
یا ایک ریگستان ہے کہ ساگ اوس مین پیدا
ہوتا ہے اور وہان لوگون کے گھر ہین
پہاڑ کی چوٹیان۔
برعمتہ (فسفف) کلی نکالنی درخت کی
برعیس (کسکس) جو عمدہ ہو یا سر کے
اونٹنی دودھیل اصیل۔
برغ (فس) لعاب نازک مین بسرکی
برغشتہ (فسفف) ایک رنگ بلی
کے رنگ کی مانند۔
برغز (فسف) برغز (فسفس) برغوز
(فسفس) برغاز (کسفس) گائے
وحشی کا بچہ یا اوس وقت اوس بچہ کو یہ
لفظ کہتے ہین کہ جب وہ اپنی ماں کے
ساتھ چلنے لگے۔
برغز (فسفس) مرد بد خلق بہت ضعیف
ہے اور صحیح برغز (فسفس) ہے بعد معجمہ زا
معجمہ بدلے مہملہ۔

حوض ـ بِرَکْ (کف) جمع ـ
بَرَکَۃ (ففف) زیادتی ـ نیک بختی ـ
بَرَکَات (ففف) جمع ـ بَرَکَاتُ الکُماۃ
مِنہ ـ بَرَکَاتُ الاَرض گھاس ـ
بَرَکَۃ (ضسف) ایک جانور ہے آبی سفید رنگ کا چھوٹا سا ـ بِرَک (ضف) ایک
(فسفس) بِرْکان (ضفس) جمع ـ
ملک بہت سے ـ خونبہا تاوان وغیرہ یا جو اوسکے ذمہ وار ہوں اکٹھا ہونے اور پینے والے ہوں اشراف کا ایک گروہ ـ جگہ والے کی عزت وہی خونبہا چاہنے والوں کا گروہ ـ وہ سے لوگ کہ جن سے دیت طلب کریں ـ
بُرْکُع (ضسفض) ٹھنگنا آدمی ـ اونٹ کا بوتہ جسکی گردن زمین تک نہ پہنچے ـ
بَرْکَعَۃ (فسفف) کاٹنا ـ زمین پر دے مارنا ـ چار ہاتھ پانوں پر کھڑا ہونا ـ زانو کے بل گر پڑنا ـ
بُرکُوع (ضفضس) سخت جیسے جوع بُرکوع بھوک سخت ـ
بَرَم (ففت) جو سبب بخل کے جوا نہ کھیلے ـ ابرام (فسفس) جمع ـ عاجزی ـ بیقراری ـ انگور کا دانہ جبکہ بقدر ذرہ

کے ہو ـ خار دار بلند درختوں کا پھل ـ
بَرَمَۃ (ففف) ایک نام درخت ہے ـ پہاڑ کی چوٹی ـ گلا ہوا سینہ ـ
بَرِم (فکف) بَرَم (فس) اندوہ اور غم سے عاجز آنا اور بیقراری کرنا ـ محبت لانی کا ارادہ کرنا لیکن محبت کا یاد نہ آنا ـ
بَرْم (فس) (ان) کام کو مضبوط کرنا ـ
بَرْمَۃ (فسف) ایک بیل کے درخت کا پھل ـ بِرَم (کفف) بِرَام (کفس) جمع
عضاہ کے درخت کا پھل ـ
بُرْمَۃ (ضسف) دیگچہ ـ دیگ سنگین ـ
بُرَم (ضفس) بُرَم (ضفت) بِرَام (کفس) جمع ـ
بَرْنامَج (فسفسف) فرد حساب معرب برنامہ ـ
بَرَنْج (ففسل) ایک چیز ہے دست آور کابل کی طرف سے لاتے ہیں برنگ کا معرب ـ
بِرِنْد (کسکس) تلوار کی چمک اور اوسکا جوہر ـ برنگ کا معرب ـ
بَرَند تلوار جو ہر دار ـ تلوار کا وسیر یا نا شادہ
بُرْنُس (ضسفس) لمبی ٹوپی ـ یعنی ٹوپی والا کپڑا جیسے جبہ اور کرتہ اور بارانی وغیرہ جسمیں ٹوپی لگی ہو ـ
بِرْنِسَا (کسکس) بِرْنَاسَا (کسفس) آدمی
بِرْنِسَاء (کسکفس) آدمی ـ

[illegible]

۲۴۴

اہل عرب کی عورتوں کا سخت گو ہونا یعنے
مین بحوج بجوج اور اس معنی کے خیزین
مونث اور بھی ہین بر قوع رضعف
اور جمع رضعف بانیکار
برقوق رضعف ٹھوٹا الو بڑا کو
برقیل رضعف کرکس غلیل سے غلہ
برکن رضعف نابت کسی چیز پر بیٹھا
ہونا ذی الحجہ کے مہینے کا نام زمانہ
جاہلیت میں۔ مرد بزدل۔ کابوس کہ
ایک بیماری ہے یعنے بوجھ سا آدمی پر
سوتے میں گرتا ہے اور آدمی جانتا ہے
کہ میں دبا جاتا ہوں۔
برک رفس اونٹ خیمہ باشوں کے
ہوں یا اونٹوں کے کہ رات کیوقت
اپنے تھان پر پھر آوین یا لیٹے بیٹھے
ہوں اونٹوں کا گروہ یا بہت اونٹ۔
بارک رفسک ایک اونٹ۔ بارکہ اکہتر
اونٹنی۔ بہذکہ رفسف جمع سینہ
یا چھتی کا اندر۔ اونٹ کے سینے کا
پوست کہ سوتے ہوئے زمین سے لگے
برکان رفسس ایک درخت ہے
مزہ کا کھاری یا ہر گھاس جسکا تنہ
لپٹا ہو۔ یا ایک گھاس ہے کہ نجد میں
اگتی ہے۔ یا چھوٹی گھاس۔ برکانہ
رکسفف ایک بیتر یا روضہ ہے۔ یا برکان
جمع ہے واحد اسکا برک رضعف ہے۔
برکان رفتقس برکانی رضعفسر
برنکان رضعفس برنکانی
رضعفسکت کالا کنبل ہے یا سیاہ جامہ
برکہ رفسعف صبح کے وقت دو وقت
مین سے ایک بار کا دوہنا۔
برکہ رکسعف سینہ اونٹ کے
سینہ کا پوست جو سوتے میں زمین سے
لگتا ہے۔ یا برکہ رکسف جمع برک کس
کی ہے۔ یا برکہ رفس تو سینہ آدمی کو
کہتے ہیں لہذا برکہ رفسف سینہ غیر
آدمی کا۔ یا برک رفس باطن سینہ کو
کہتے ہیں اور برکہ رکسف ظاہر سینہ کو۔
ایک طرح کی نشست۔ بیٹھی اونٹنی کو
اوٹھاتا تاکہ دودہ اوسکا ریزان ہو
اور اوسکو دوہنا۔ والفعل من نصر
یعنی جیسے دوہنا چاہیے یا اسکا تثنیہ
برکتان رکسعفس ہے اور جمع برکات
رکسفس ہے۔ پانی کے ٹھہرنے
کی جگہہ۔ صبح کے دو دوہنے میں سے
ایکبار کا دوہنا۔ ایک چادر ہے یمنی

بُرُوق (فضفس) (ن) چمکنا بجلی کا
آنا آسمان میں بجلی کا ظاہر ہونا۔ ڈرنا
ڈرنا۔ تھوڑا سا گھی ڈالنا کھانے میں
نکلنا ستارہ کا۔ اونٹنی کا دم لو اٹھانا الخ
حمل ظاہر کرنا اورحالانکہ حمل نہو۔ عورت کا
آراستہ اور زینت دار ہونا۔

بُرُوک (فضفس) وہ عورت جو خاوند والی ہے
اور اوسکا بیٹا جوان ہو۔

بروک (فضفس) حلوا جو آٹے اور گھی سے بناتے ہیں۔

بروک (فضفس) (ن) اونٹ کا بیٹھنا سینہ ٹیکنا
رہنا۔ اقامت کرنی۔ کوشش کرنی پیہم
برسنا اچھی طرح خوب مینہ اور سرعت سے

بروک (کسک) برکت پایا ہوا۔ خلط جھجھکنا
تر جو مسکہ کے ساتھ کھاوین۔

بروکتہ (فسفف) خارپشت کی مادہ۔

بُرُوہ (ففف) جسم کا اپنی حالت اصلی پر آجانا
بعد بیماری کے اور سرخ و سپید ہوجانا۔
رنگ گوشت اور ناخن کا پوست ہونا۔ بیماری
(فسفسم) صیغہ لغت مونث ہے اور وصف
صیغہ لغت مذکر ہے۔

بُرہان (فسفس) حجت اور بیان واضح
برہنہ (فسفف) ننگا برہنہ

برہرہ (فسفف) عورت گوری چٹی
جوان نازک۔ عورت جسکا گوشت ملتی ہے بدن کی۔

برہمہ (فسفف) ابرار نیچے چلے
جانا اور ایک زر چھپانی۔ درخت کے
پھل کا غلاف کلی یا کھلی ہوئی کلی۔

برہمہ (فسفف) محبت قائم کرنی۔

برہوت (ففف) ایک کنوان ہے
حضرموت میں کہلی تہاہ تک اور نہ
نہیں سکتا کہتے ہیں کہ اوسمیں کفار کی ارواح ہیں

بَری (فس) (ض) تراشنا۔ تھکا
ہوا اور دبلا کر دینا۔

بری (فسف) برات (فضفس) (ن)
(فکس) برین (فکس) جمع بری کی ہے

بری (فتف) کلمہ طیبہ۔

بری (فف) خاک۔

سمہری (فکف) اچھا تراشا ہوا تیر

بریت (فکس) صحرا۔ بیابان (فضفسکس)
جمع جمیع لغت ہی ہے یا کہ تا سے بدل لیا

بریتہ (فکفف) صحرا۔ زمین بے درخت
خلاف رفیقہ۔ بیابانی (فضسک) جمع

بریتہ (فکفف) پیدا کیے ہوئے

بریح (فکس) بمعنی برح (ففس)

بریح (فکس) کمر توڑنا۔

مادہ

ع برق
ع برک
ع برہ
ع برہم
ع برہن
ع برہت
ع برہ
ع بری
ع بری

۵۲۵

بر
بریح
برح
برخ

بَرْنَجَانْ (فسقس) کا لا کنبل ج۔
بَرْنُوف (فسقس) ایک گھاس ہے مصر مین بہت ہوتی ہے۔
بَرَنِی (فسکت) ایک چھوارا ہے اچھا برنیک کا معرب۔
بَرْنِیَّۃ (فسکتف) سفالین کا برتن یا شیشہ کا عرفا بیان جوان۔
بَرَانِی (فسک) جمع۔
بَرَنْق (فسکس) ہنزہ کا ارا ایک قسم کی کھمبی کہ ببنی اور سرخ ہوتی ہے یا چھوٹی سی۔
بَرْو (فس) ان الیہ اکرنا۔ اونٹ کی ناک مین نکیل ڈالنی۔ تیر تراشنا قلم وغیرہ تراشنا۔
بُرُوَاق (فس) ایک گھاس ہے مشہور دوطعمی۔
بُرُوج مُجَسَّدَہ چار برج ہین ثور جوزا سنبلہ ان چار کو اہل نجوم ذوات الاجساد کہتے ہین۔
بُرُوح (ضفس) شکاری کے سامنے سے ہاتھ کی طرف سے جانا ہرن کا غضہ کرنا۔
بَسُوح (فقس) شکار کہ شکاری کے داہنے ہاتھ کی طرف سے بائین ہاتھ کو جاوے۔
بُرُود (ضفس) ضعیف وسست ہونا۔

(جا)مہ بنانا۔ اونٹ کا ماندہ ہونا۔
بَرُود (فس) سرد وخشک۔ اور جو چیز کہ خشک کرے۔ آنکھ کی دارو کہ سرد دواؤن سے بناوین۔ خبز بَرُود روٹی جس پر پانی گرایا ہو۔ ثوب بُرُود بوئین دار کپڑا۔
بُرُودَۃ (ضفسف) سردی وخشکی سرد ہونا۔
بُرُور (ضفس) (س من) قسم مین سچا ہونا۔
بُرُوز (ضفس) میدان کی طرف نکلنا اور ظاہر ہونا بعد اخفا۔
بُرُوض (ضفس) (ن) چشمہ سے تھوڑا سا پانی نکلنا۔ گھاس کا زمین مین سے نکلنا۔
بَرُوض (فس) کنوان جو تھوڑا تھوڑا پانی دیوے۔ اور بروض (ضفس) بھی کہتے ہین یا تھوڑا پانی نکلنا چشمہ سے۔ یا گھاس نکلنا زمین سے۔
بَرُوق (فس) ایک گھاس ہے جب ابر کو دیکھتی ہی سبز ہو جاتی ہے۔ بَرُوقَہ (فسف) ایک یعنی تازہ حد تک اسی سے ہے یہہ مثل "أشکر من بروقۃ" یعنی بروقہ سے بھی زیادہ شکرگذار۔

براء (کفسم) ابراء (رفسم) ابرئاء (رکفسم) براء (رفسم) جمع - جو بیماری سے اچھا ہوا ہو - براء (کفسم) جمع -

بَز (فت) جامہ - گھر کی پونجی کپڑے وغیرہ سے - ہتھیار -

بَزَّ (فت) (ن) اوچک لیجانا - ظلم سے کوئی چیز لینی -

بَزُّ الشہر آخر شہر -

بَزَأَ (فت) پیٹھ کی ہڈی سرین کے پاس وسط پشت کا سرین پر جھک آنا اور سینہ کا آگے کو نکل آنا اور پیٹھ کا اندر کو یا سرین کا باہر کو نکل آنا -

بَزِی (فت) (س ن) ایضاً ہوجانا

بَزَّار (فتفس) السی کا تیل بیچنے والا - بغدادیوں کے لغت میں -

بَزَّاز (فتفس) جامہ و متاع بیچنے والا -

بِزَازَة (کفسف) کپڑا بیچنا متاع بیچنی -

بُزَاع (ضفس) مرد خوش طبع تیز زبان

بُزَاعَة (ضفسف) خوش طبع اور خوبصورت اور ٹھنا لڑکے کا -

بُزَاق (ضفس) تھوک -

بِزَال (کفس) سوراخ کہ شراب کے برتن میں کرین تاکہ اوسمین سے نکلے وہ لوہا کہ جس سے شراب کا پالونہ کھولین لعد پالونہ لصورت کنگیر ہوتا ہے کہ اوسمین سوراخ بہت ہو ستے ہین اور اوسی سے روغن وغیرہ صاف کرتے ہین -

بَزْبَاز (فسفس) لڑکا سفر مین ہنسوڑ - سنے تکلف ظریف - لوہے کی سنے جو لوہارون کی دھونکنی کے منہ پر لگی ہوتی ہے - فرج - کس - خلان -

بَزْبَز (فسفس) زور آور بد دل - غلام سبک روح سفر مین -

بَزْبَزَة (فسفسف) سخت آرام و بیقرار کر دینا لیجانا - نیچے ڈالدینا - تیز ہانکنا - سعد بنا بھاگ جانا - بہت ہلانا کسی چیز کو سستی سے درست کرنا - بہت بولنا -

بِزَّة (کفف) ہتھیار - ہیأت -

بَزَجَ (فس) (ن) فخر کرنا - برانگیختہ کرنا -

بَزَخَ (فس) (ف) تمام لیجانا - پیٹھ پر لکڑی سے ملنا -

بَزِخَ (فف) (س) سینہ کا نکل آنا اور پیٹھ بیٹھ جانا - بزخاء (فسضم) صیغہ لغت موئث -

بَزْر (فس و کس) تخم - تخم کتان - بزور (ضفس) جمع - ہانڈی کا گرم مصالح جو خوشبو کے لئے اوسمین ڈالین -

٥٢٤

سلسلہ

مادہ

ع برد

ع برر

ع برزخ

ع برص

ع برض

ع برع

ع برق

ع برک

ع برم



ع بره

بجے

ع۲۲

بَرِید (ف کس) رستا ہر چیز کا کہ ترتیب وار ہو۔ قاصد جو ہر بارہ میل پر بادشاہوں کے پاس خطوط کے پہنچانے کے لیے مقرر رہتے ہیں۔ معرب بُریدہ۔ قاصد۔ ڈاک کے چھپایون پر۔ بُرُد (ض ض) جمع دو فرسخ یا بارہ کوس۔ یا دو منزل کی مسافت۔ وہ جانور کہ شیر کے آگے آگے چیختا ہوا جاوے اور جانور اوسکے آنے سے خبردار کرے۔

صاحب البرید قاصد بھیجنے والا۔

بَرِیر (ف کس) پیلا پھل پیلو کا۔ اسم جنس

بَرِیرَۃ (ف کس ف) واحد یعنی ایک دانہ ہے۔

بَرِیش (ف کس) گھوڑا جو سیاہ نقطے مخالف اپنے رنگ کے رکھے مثل ابرش

بَرِیص (ف کس) ایک گھاس ہے مانند سعد کے۔ کسی چیز کی چمک۔

بَرِیض (ف کس) ایک ندی ہے یا وہ بریض ہے کہ یاء تحتانیہ کے ساتھ ہے۔

بَرِیعَۃ (ف کس ف) عورت جو جمال اور عقل میں بڑی ہلکی ہو۔

بَرِیق (ف کس) چمکاہٹ۔

بَرِیق (ف کس مذ) چمکنا۔

بَرِیقَۃ (ف کس ف) دودھ جس پر چربی یا کچھ چکنائی ہو۔ برائق (ف فس ک) جمع

بَرِیک (ف کس) برکت پایا ہوا۔ حلوا جو آٹے اور گھی سے بناتے ہیں۔ چھوارے جو مسکہ کے ساتھ کھاویں۔ بَرَاکِین جمع

بَرِیکَۃ (ف کس ف) حلوا۔

بَرِیم (ف کس) صبح۔ دو دو رنگے سپید اور سرخ کہ عورتیں اونکو بٹکر اپنی کمر اور بازو پر باندھتی ہیں۔ ہر چیز کہ اوسمیں دو رنگ ہوں۔ دو رنگے ڈورے کہ جواہر وغیرہ کے ساتھ بٹیں یعنی بگتشا عورتیں اوسکو کمر اور بازو پر باندھتی ہیں۔ چھوٹا ہار کہ نظر بد کے لیے بچوں کے گلے میں ڈالدیتے ہیں یعنی گنٹھلا۔ آنسو سرمہ کے ساتھ ملا ہوا۔ ہر طرح کے لوگوں کا گروہ۔ لشکر کہ مختلف قبیلوں سے جمع ہوا ہو۔ منتر بکریوں کا ریوڑ۔ یا بھیڑ اور بکری کا ریوڑ۔ مرد متہم

بَرِیمان (ف س کس) جگر اور اونٹ کا کوہان کہ عورتوں کو لبنائی میں چیر کر دیا کہ وغیرہ اون پہنیں

بُرَیر (ض فس) تصغیر ابراہیم۔

بَرِیٔ (ف کس) کسی چیز سے پاک۔ بیزار۔ بریئان (ف کس) بیمار (ض ض م)

بزریزی (کسف) حلیہ دست ادوی کا
بزیع (فکس) لڑکا کہ سنے سمجھا بانہ بات چیت کرنے سے لڑکا خوش طبع خوبصورت۔ بزیعہ (فکسف) موئث مرد خوش طبع۔
بزیم (فکس) ساگ وغیرہ کی گڈی توشہ کا بقیہ۔ بچا ہوا شوربا ہنڈیا کی پیندی میں بدون گوشت کے۔
بزیون (ضفس کسفس) دیبا۔
بس (فت)، بسیسہ (فکسف)، رن، عیب چینی کرنی۔ آہستہ ہانکنا اونٹ کا۔ ریزہ ریزہ اور خاک کیا جانا پہاڑوں کا بھیولا۔ مستعمل ہے۔ ملانا۔ بسیسہ بنانا۔ اٹھانا اونٹوں کا بس بس کہہ کر۔ پراگندہ کرنا اور چھوڑ دینا۔ اونٹوں کا ڈھونڈھنا کوشش کرنا۔
بس (فت) گھر کی بلی۔ بستہ (فتف) ایک بلی۔ طاقت۔ کافی و بس۔
بسا (ضس)، بساء (ضفسم) بسوء (ضفضس)، (فس)، (فس) کسی پڑنا آرام پانا۔ خوگر ہونا۔ سہیل کرنی۔
بسارۃ (کفسف) وہ میٹھی کراہم گرامین پیدا ہے ملک سندھ و ہندمین برستا ہی اور ایک ساعت کو نہیں کھلتا۔
بساستہ (فتفسف) مکہ معظمہ۔
بساط (ضفس) زمین فراخ ہموار۔ زمین فراخ۔ بڑی ماند سی۔
بساط (کفس) فرش۔ بسط (ضس) جمع ببول کے درخت کے پتے کہ اوس درخت کے نیچے بچھا کر جمع کئے ہوں ہر ایک ماندی۔
بساطۃ (فتفسف) ازیں فراخ زبان ہونا۔
بساق (ضفس) تھوک۔
بسالۃ (فتفسف)، بسال (فس)، ہوک، شجاع و دلیر ہونا۔
بسام (فتس) بہت مسکرانے والا۔
بسباستہ (فسفسف) ہندی زبان میں رگ درخت قرنفل و جاوتری ہے ایک درخت ہے عرب میں مشہور ہے جسے کوئی چوپائے کھاتے ہیں اور وہ اور لوا اوسکی گاجر کی مانند ہوتی ہے۔
بس بس (منس منس) ایک کلمہ ہی جس سے بکریوں کو بلاوین اور اونٹوں کو ڈانٹیں ہے اور اونٹنی کو اوس کلمہ سے دوہنے کے لیئے مانوس کرتے ہیں۔
بسبس (فسفت) زمین جسمین گھاس پانی نہو۔ بسابس (فضسک) جمع۔ ایک درخت

مادہ
[illegible] بزر
[illegible] بزع
[illegible] بزغ
[illegible] بزق
[illegible] بزل
[illegible] بزن
[illegible] بسأ
[illegible] بسر
[illegible] بسس
[illegible] بسط
[illegible] بسق
[illegible] بسل
۵۲۶
۵۱۰ بسق
۵۱۱ بسل
۵۱۲ بسم
۵۱۳ بسن

[illegible]

۵۲۶

بزبز (فس) ... بچہ

بزبز (فس) (ن) ناک کا پانی بہنا۔ لکڑی سے مارنا۔ بیج ڈالنا۔ تال کھنکنی ہنڈیا میں مصالح ڈالنا۔

بزرای (فسفسم) عورت بہت بیٹوں والی

بزری (فقت) عورت جسکا سینہ نکلا ہوا اور پیٹھ اندر کو ہو۔

بزز (فف) ہتھیار۔

بزغ (فس) بزغہ (فسف) [illegible] نشتر مارنا اور خون بہانا۔

بزق (فس) (ن) تھوکنا۔ آفتاب کا روشن ہونا۔ زمین میں بیج ڈالنا۔

بزکی (فقت) شتاب روی۔

بزل (فس) بکری۔

بزل (فس) سختی۔

بزل (فس) (ن) چیرنا شراب کے برتن میں سوراخ کر کر شراب نکالنی یکسو کرنا۔ اونٹ کے کچلی نکلنی۔ پالونہ سے شراب صاف کرنی۔

بزلاء (فسفسم) بلا۔ بزرگ کارہائے سخت ساچھی رائے ... اور وہ امر کہ حق و باطل میں فیصلہ کرنیوالا ہو۔

بزم (فس) ایک کام کا ارادہ ... کھانا

بزم (فس) (ن) منہ سے ... دانتوں سے کاٹنا جیسے بزم علیہ جز ... بوجھ کا اوٹھانا جیسے بزم بالعباء دو ... پہنا پہلی انگلی اور انگوٹھے سے کسی کے کپڑے کو جھٹکنا ... توڑنا۔

بزم (فس) (ن) کمان کا چلہ کھینچنا کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑ کر چھوڑنا

بزمتر (فسفف) ایک بار کھانا۔ تیس درم کا وزن۔

بزمخہ (فسفف) تکبر کرنا۔

بزواء (فسفسم) ہونٹ ... حرف

بزوانشبی مانند مثل ایک شئی کا۔

بزوان (فقس) (ن) زیادتی ... کودنا۔ انس پکڑنا۔ غلبہ کرنا۔ سوار ہونا

بزوغ (فقفس) بزغ (فس مدن) آفتاب کا چمکنا یا شروع طلوع ... اونٹ کی کچلی نکلنی۔

بزول (فقس) اونٹ ... جسکی کچلی نکالی ہو۔ مذکر و مونث برابر ہے۔

بزل (فقس) جمع۔

بزی (فکت) وعدہ کا شریک۔

بزیخ (فکس) احسان کا جتلانے والا

بُسُّن (ضفض) شگوفے کھلے ہوئے اونگنیان نابید اور انکو بس چھوڑا
بِسْطر (فس) (ن) بچھانا۔ کھولنے مارنا۔ ہاتھ لمبا کرنا کسی کو خوش کرنا گنجائش دینی کسی کو کسی پر فضیلت دینی۔ گستاخی کرنی۔ عذر قبول کرنا گنجائش کر دینی
بِسطر (کس فس) وہ اونٹنی جسکے بچہ کو اسکے ساتھ چھوڑ دیں لیکن جمع بسط (ضفض) بساط (کفس) ابساط (فسفض) جمع
بِسطر (ضس) کشادہ۔
بِسطام (فسفسم) کان چھوٹے بڑے
بِسطام (کسفس) ایک شہر ہے کہ وہاں کسی کو عشق اور آنکھ کا درد نہیں ہوتا اور اگر کوئی عاشق وہاں جاتا ہے تو اوسکا عشق جاتا رہتا ہے۔
بِسطۃ (ضفسف) فضیلت۔ دست قدرت۔ فراخی علم۔ درازی جسم اور اوسکا کمال
بسفایج (کسفسک) معرب بسپایہ ایک گھاس کی جڑ ہے گرہ دار اور اوسکا اندر سبز ہوتا ہے اور وہ تند مزہ اور شیریں ہے تلخی کے
بُسق (فس) بسوق (ضفس) (ن) تھوکنا۔ کھجور کے درخت کا پھولنا غلبہ اور زیادتی پانی۔
بُسقۃ (ضسف) زمین پتھریلی جلی ہوئی۔ بساق (کفس) جمع۔
بِسکل (ضسفض) گھوڑ دوڑ کا گھوڑا جو سب کے پیچھے آوے۔
بَسَلٌ (فس) حرام۔ حلال۔ لغات اضداد سے ہے۔ واحد و جمع و مذکر و مونث برابر ہے۔ آنحضرت نے حسین قتال حرام کیا گشنیز کا عرق نچوڑا ہوا۔ حنا کا عرق مردہ صورت بھیگم۔ عذاب۔
بُسل (فس) (ن) ملامت کرنی دوڑنا۔ سخت ہونا۔ چھپانا۔ تھوڑا تھوڑا ایک چیز کا لینا۔ روکنا۔ بُسُل ہو جانا سو جانا بعد نیند کا مند ہو جانا۔
بَسَل (فف) ہاں ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا تو نے۔
بَسَل (فف) (س) سپرد کر دینا۔
بُسل (ضک) بد صورت منہ چڑھا غصے سے یا شجاعت سے۔
بسالۃ (ضسف) چالاکی اور دلیری۔
بسم (فس) (ض) مسکرانا۔ باسم (فسک) صیغہ لغت ہے ایک چیز کو چکھنا۔
بسملۃ (ضسفف) بسم اللہ کہنی

عع بسب
عع بسا
عع بسم
عع بسا
عع بسفح
عع بسب
عع بسل
عع بسل
عع بسب
عع بسل
عع بسل

الرہ

کہ اوس سے پالان بناتے ہیں -
بستہ (ضفف) سرعت کرنی تیز
چیون کرکے بلانا چھری اور اونٹنی کو
ایک چیز پر مداومت کرنا -
بسط (ضس) زمین پر چلنا کشادہ
قدم چلنا یعنی ترقی کرنا - مرنے میں
بستان (ضفس) باغ معرب
بوستان کہ معنی (ضکس) ایسا کرنا
بستوق (ضفف) خادم -
بستقان (ضفس) باغ کا مالک
بستوقہ (ضفسف) چھوٹا مٹکا
کوزہ کا پستو کا معرب
بسنبہ موتنگا -
بسر (ضس) بسر (ضفس) جلدی کرنی
وقت سے پہلے لینا - یعنی کچی
روز بنانا - زخم کو چھیل ڈالنا - عدو دینا کھجور
کے درخت کو وقت سے پہلے جفتی
کرنی اونٹ کی اونٹنی کی خواہش سے
پہلے - بغیر وقت میں حاجت چاہنی
میعاد سے پہلے قرض کا تقاضا کرنا
شروع کرنا - نبیذ خرما میں بسر آمیختہ کرنا
مشکیزہ سے دودھ کو اوس سے پہلے
کہ گاڑھا ہو جاوے پینا - چوپایہ

پھر ہری گھاس کو چرانا -
بسر (ضس) ٹھنڈا پانی -
بسر (ضس) نئی تازی ہر چیز تازہ
پانی - تازہ پانی مینہ کا یعنی (ضکس) جمع
جوان مرد ہو یا عورت - غورہ خرما اور
شگوفہ خرما سے پہلے جب ظاہر ہوتا ہے
اوسے طلع کہتے ہیں بعد جب بندھ جاتا
ہے تو اوسے سیاب کہتے ہیں اور جب
سبز اور گول ہو جاتا ہے بلال اور
اور خلال کہتے ہیں اور جب کچھ بڑا ہوتا
ہے تو اوسے بلح کہتے ہیں اور جب
اس سے بھی بڑا ہوتا ہے تو اوسے
بسر کہتے ہیں بعد اوسکے مخطم بعد
منوکت بعد اوسکے تذنوب بعد اوسکے
جمسہ بعد اوسکے ثعدہ اور خالع اور
اور جب پگھل ہو جاتا ہے پک جاتی ہے تو
رطب کہتے ہیں بعد اوسکے پھر تمر ہے -
بسرۃ (ضسف) ایک غورہ خرما کا بسرہ
(ضفس) جمع - آفتاب طلوع کے وقت
کہتے کہ ذکر کا سرا ایک منکا ہے زمین
سے روئیدگی جو پہلے نکلے اوسے بارز
کہتے ہیں پھر جمیم ہے پھر بسرہ ہے
پھر صمعا ہے پھر حشیش ہے -

مادہ

ب س ل
ب ش ش
ب ش ر
ب ش ع

۵۳۳

زبان ور زبان چرب زبان جبڑا زبان۔
بسیل (فکس) یعنے بسل رنگ،
شراب کہ رات کو برتن میں باقی رہ گئی ہو۔
بسیلۃ (فکسف) کسی چیز کے مزہ کی
کڑواہٹ ہر چیز کا کھٹ۔
بش (رفت) جسکا ہنستا چہرہ ہو کہتے
ہیں ہش بش یعنی تازہ رو و خندان۔
بش (رفت) بشاشۃ (رفسف)
تازہ روی۔خوشی۔تازہ رو ہونا خوش
ہونا۔نرم کلامی اور تازہ روئی اور کشادہ
پیشانی سے پیش آنا۔
بشار (رفض) کمینہ آدمی۔
بشارۃ (رکفسف و فسف و ضفسف)
خوش خبری جب اسکا استعمال مطلق ہوتا
ہے تو خوشخبری نیک مراد ہوتی ہی اور جب
مقید ہوتا ہی تو بُری مراد ہوتی ہی اور
بشارۃ (رفسف) زبر کے ساتھ خوبصورتی
و جمال و بشارۃ (ضفسف) پیش کے ساتھ
جسم ٹے کا کام اور زیر و پیش کے
ساتھ خوشخبری کی مزدوری۔
بشارۃ (رفسف) (س ض) مسرور
ہونا جیسے بشر بہ بشارۃ
بشاک (رفقس) بہت جھوٹ بولنے والا

بشام (رفض) ایک درخت خوشبودار
اوسکی لکڑی سے مسواک کرتے ہیں
اور اسکا پتہ بال کو سیاہ کرتا ہی۔
بشر (رکس) کشادہ روی۔
بشر (رفف) آدمی مذکر و مونث واحد و
جمع اسمیں یکسان ہی آدمی کی جا جلد
اور کبھی تثنیہ جمع بھی آتا ہی بشران
(رفضس) تثنیہ ابشار (رفضس) جمع۔
بشر (رس) بشور (رضفس) (ن)
خوشخبری دینی۔موچھ کے بال کاٹنے
تاکہ جسم ظاہر ہووے۔تمام زمین کی
روئیدگی کو کھا جانا ٹڈی کا۔جماع کرنا
بشرۃ الارض زمین کی روئیدگی۔
بشری (رفسف) خوشخبری
بشری (رضسف) (ن) خوشخبری دینی
بشع (رکس) طعام بدمزہ جو حلق میں پھنسے
وہ جس نے ایسا کھانا کھایا ہو۔وہ
جسکے منہ میں سے بُری بو آوے خلال
اور مسواک نکرنے سے۔بدخو کمینہ
بدذات۔ترش روی۔چین بجبین۔
بشع (رفف) بشاعۃ (رفسف)
(س) بدمزہ کھانا کھانے سے ناخوش
ہونا۔مسواک نکرنے سے بدبو ہونا منہ کا

[redacted]

بسّ بسّ العبد اتباع کے بولتے ہین-

بَسْعُور (فعلول) اونٹنی جو دودھ دینے والے کی تابعدار ہو وے

بَسْعُور (فعلول) انشیر-

بَسُوس (فعول) اونٹنی کہ بغیر البس بس کے دودھ نہ دیوے- ایک عورت شوم کا نام کہ خداوند تعالی نے اوسکے خاوند سے تین دعائین قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا اوس نے خاوند سے کہا کہ میرے لیئے دعا کر کہ مین بنی اسرائیل کی عورتون سے خوبصورت زیادہ ہو جاؤن اوس نے دعا کی وہ خوبصورت ہوگئی اور اوس نے اپنے خاوند سے منحرف ہو کر گناہون پر کمر باندھی تب اوسکے خاوند نے اوسکے لیئے بد دعا کی کہ وہ بھونکنے والی کتیا ہوگئی تب اوسکے بیٹے نے باپ سے کہا کہ لوگ ہمپر طعنہ زنی کرتے ہین دعا کر کہ پھر وہ اپنی اصلی صورت پر آجائے الغرض اوسکی دعا سے پھر اپنی اصلی صورت پر آرہی اور اس طرح سے اوس شخص کی تینون دعائین اوس عورت کی شومی کے سبب

[redacted] سے لیے مثل کہتے ہین

اشأم من البسوس یعنی بسوس سے بھی شوم زیادہ

بَسْعُوق (فعلول) بکری بھنے لینے تھنون کی-

بَسْعُول (فعلول) اَبسل ہونا کھٹا ہونا اور تیز

بَشْیَار وانج (فعفعیل) بسیار (؟) کا معرب اور وہ ایک پھل ہے بڑا میٹھی-

بَسِیس (فعیل) طعام قلیل-

بَسِیسَہ (فعیلہ) ستو یا آٹا پیسا ہوا جسے روغن زیت کے ساتھ کھاتے ہین یا روٹی جسے خشک کر کے کوٹ کر دودھ وغیرہ سے کھاتے ہین-

بَسِیط (فعیل) پھیلائی ہوئی- سنے ملائے خالص زمین فراخ- مرد جسکی زبان فراخ ہو- تیسری بحر کا نام عروض مین سے وزن اوسکا آٹھ مرتبہ مستفعلن فاعلن ہے بسیط الجسم والباع جسیم اور مضبوط- بسیط الوجہ جسکا منہ خوشی سے چمکتا ہوا ہو- بسیط الیدین جوانمرد سخی- بسطا (فعلا) جمع- اور بولتے ہین ذہبت فی البسیطۃ گیا زمین

بَسِیطَۃ (فعیلۃ) زمین- زمین فراخ اور ہموار- اونٹنی بچہ سمیت- عورت

مادہ
بسن
بسا
بسر
بسس
بسق
بسل
بسم
بسو
بسط
۳۳۳

اِمرأۃٌ بِ بستے ہیں یعنی الکس نہیں
بالفظ غیر معدود کہ وہ بمعنی قطعہ ہو
بِضع رفس) رف، سیراب ہونا جب
بَضع من الماء بضعا کاٹنا چیرنا زخم کو
مکمل کرنا گوشت کا ۔ بیا جانا ۔
جماع کرنا ۔ مقصد بولنی کلام کا ظاہر کرنا
اکڑنا ۔ آنکھ میں آنسو آجانا اور بہنا نہیں
بَضع رفس) جماع کرنا کس مہر
عورت کا طلاق نکاح ۔ لغات اضداد
بِضعۃ (کسف) گوشت کا ٹکڑا ۔ بضع
رفس وکف) بِضاع رکعس) بِضعات
رفقفس) جمع ہے ۔
بَضک رفس) رض) کاٹنا قطع کرنا ۔
بَضَم رفس) تفس، خورشہ بنا جو بعد
پر وزر بڑھتا جاوے ۔
بَضم رفس) لن) پر کا رہونا دانہ کا
سخت ہونا دلنے کا ۔
بَضُوض رفقفس) مثل بضیض رکس
بضوضۃ رفقفسف) بضاضۃ
رفقفسف) رض س) پتلی کھال کا
بھری گوشت کا ہونا ۔
بَضَوّج رفقفس) رف) جا پڑنا سیراز
ہونا ۔ کاٹنا قطع کرنا زخم کا چیرنا

مکمل کرنا گوشت کا ۔ بیا جانا جماع
کرنا مقصد بولنی کلام کا ظاہر کرنا اور
دورنا ۔ آنکھ میں آنسو بڑنا آنا ۔
بَضیضۃ رکمسف) بمعنی باضہ وضیضہ
بھیجہ تھوڑا تری تھوڑا پانی ۔
بَضِیع رکمس) ٹاپو پسینا بہا ہوا
آدمی کا ہو یا چوپایہ کا ۔ سند پانی
خوشگوار ۔ شریک بِضیع رفس) گاو
بِضیعۃ رکمسف) کو تل اونٹ
بَطّ رفت) ایک قسم کی مرغابی کا نام
جنس ہے بطۃ رفقف) کا مذکر و مونث
اس میں برابر ہے ۔
بَطّ رفت) رن) زخم کا چیرنا ۔ پھاڑنا کا چیرنا
بُطاء رفس) ڈھیل ۔ آہستگی
بُطء رفس) بطاء رکفسم رک)
دیر لگانی ۔ آہستگی کرنی ۔
بَطّاحی رفقفسک) مبتلا بیماری بطاح میں
بُطاخی رفقفسک) پیٹ کا رو دار ۔
بُطاق رفقفسک) طویل
بِطاقۃ رکفسف) آنکھ کی سیاہی
ٹکڑا کاغذ کا کہ اوس پر قیمت لکھکر بطاقہ
میں لگا دیتے ہیں ۔ ہر ایک چھوٹا رقعہ
بَطال رفقفس) مرد نا چیز بیکار

مادہ
بضع
بضک
بضم
بضض
بضو
بضح
بضع
بضیع
بطط
بطأ
بطح
بطخ
بطق
۱۳۵
بطق
بطل


ج

بصر
بصیر
بضع
بعض
بضاعہ
بضیض
بعض
بضاضہ
بضع

بپہ سائبان حجت بخیل کانون
سے نکالا ہوا ... پر کمر بچھاتا ہے
بیبا بیٔہ (فتح) جمع کواری لڑکی —
خوان مثال ... عورت ... گواہ —
بصیص (کمس) کچھ چمک تمام
بصیص (کمس) (ن) چمکنا دینا
بضیع (کمس) پسینا بہا ہوا آدمی کا
یا چوپایہ کا ـ بضع (مکس) کا جمع —
بضع (فت) ہر وہ جسکا پوست پتلا اور
گوشت بھرا ہوا ہو ـ کھٹا دودہ —
بخشش تھوڑی سی —
بعض (فت)، بضوض (ضمتین)
بضیض (کمس) (ن) تھوڑا تھوڑا
پانی روان ہونا ٹپکنا تھوڑا دینا
جیسے بض لہ عود بلند جسکے تار کو
ہلانا اور درست کرنا تا کہ اوسے بجاوین
بضائض (فتح) مرد قوی —
بضاضہ (فتحتین) تھوڑا پانی —
بضاع (کفس) سیراب ہونا —
بضاع (کفس) جماع کرنا —
بضاعہ (کفسن) پونجی کچھ مال
جس سے تجارت کرین —

بضاضہ (فتح) ...
بضاعہ (فتح) ...
بضعہ (فتح) ایک ٹکڑا گوشت کا جو عورت کی
پر گوشت کٹا دودہ —
بضر (فتح) گوشت زائد جو عورتون
کی فرج کے درمیان میں ہوتا ہے
بضرہ (فتح) رائگان ہونا کسی چیز کا
بضیض (فت) تھوڑا پانی
بضع (فت) کچھ حصہ رات کا کچھ
عدد تین کا یا تین سے لیکر نو تک ہی
یا پانچ تک یا ایک سے چار تک کا درمیان
یا چار سے نو تک یا وہ سات ہی اور جب
لفظ عشر سے آگے بڑھ جاوے لفظ بضع
نہیں بولتے یعنی بضع و عشرون نہیں
بولتے اور بعض کے نزدیک بولتے ہین
فرا کے نزدیک عشرہ سے لیکر
تسعین تک کے ساتھ نہیں بولا جاتا اور
بضع و مائۃ و بضع والف بھی نہیں بولتے
میمان کا قول ہے کہ بضع وہ ہی جو ایک
سے دس تک اور گیارہ سے بیس تک کے درمیان
ہے یہ لفظ ہمراہ مذکر ... کے ساتھ
اور ہمراہ مونث بغیر ہا کے مستعمل ہے
بضعۃ و عشرون رجلا اور بضع و عشرون

زیر علم رکھتا ہی اور سے قوس میں لکھے ہیں

بطارقہ (ضفسکف) کی جمع ۔

بَطریقان (کسفس) دو قسمے کہ

باذنجان کی قسم پہ بہوتے ہیں ۔

بَطش (فس) بالش ص، حملہ کرنا سخت

پکڑنا ہر چیز کو ۔ دلیری کرنی ۔ تپ

سے افاقہ پاتا لیکن ابھی ضعف باقی ہو

بَطَع (ف ف) (س ع) بمعنی بدع

(فف) کسی چیز کا زمین پر پھٹنا ۔ یا نوپنا

گھسیٹتے ہوئے زمین پر چلنا ۔

بطل (فف) مرد دلاور ۔ ابطال جمع

بطل (ضس) بطلان (ضسس)

بطول (ضضس) ناچیز ہونا ۔

بطلات (ضتفس) بیہودہ گیان ۔

بطالۃ (فف) عورت دلاور ۔

بُطم (ضس) ایک درخت کا پھل ہے

جسے بن کہتے ہیں یا اوسکا درخت ۔

بطن (زکہ) تو انگر متکبر پیٹ کا بندہ

بہت کھانے والا بڑا ہوشیار بطان (ضس) جمع

بطن (فس) پیٹ خلاف ظہر کے ہر

ہر چیز کا پیٹ یعنی اندر کی جانب ۔ دراز

زمین گردہ بیلی نیچے پہر سے بطنان (ضس) جمع

بطن (فس) (د ن) پیٹ پر مارنا

جیسے بطنہ ولہ بطنا وادی کا اندر آنا

حقیقت اور ماہیت چیز کی پہچاننی

کسی شے کے خواص میں سے ہو جانا

جیسے بطن من فلان وبہ پوشیدہ ہونا

باطن میں اثر کر جانا بیماری کا جیسے

بطنہ الداء وبہ پیٹ کا دکھیا ہونا اس

معنی میں مجہولا مستعمل ہے ۔

بطن (فت) (ک س) بڑے پیٹ والا ہونا ۔

بُطنان الجنۃ بہشت کا بیچ ۔

بطنۃ (کسف) تکبر اترانا ۔ سیری

پیٹ کی شکم اسی سے ہی مثل البطنۃ

تذہب الفطنۃ یعنی سیری عقلمندی

کو دور کر دیتی ہے ۔

بُطوء (ضضس) بطاء (فس) ابطاء (کفس) دیر لگانی آہستگی کرنی ۔

بطولۃ (ضضسف) (ک) دلیر ہونا ۔

بطوح (ضضس) بطنان (ضض) (ز)

البطن (ضس) جمع بطن (فس)

گروہ قبیلہ سے کم یا فخذ سے کم عمارہ

سے زیادہ البطن (ضس) البطون (ضضس) جمع

بطیسہ (کسف) دھیل ۔

بطیخ (تکس) کدو ککڑی خربوزہ

وغیرہ اسم جنس بطیخہ (تکسف) کدو خربوزہ

مادہ

بطرق

بطش

بطح

بطل

بطم

بطن

بطو

بطأ

بطل

بطن



بطل

بطیخ

مادہ

بطل
بطن
بطن
بطا
بطح
بطح
بطط
بطر

بَطالت (فسفت) دلیری بیکاری بیروزگاری
بطالت (فسفف) رک بیہودہ کہنا ۔ دلیر ہونا ۔ بیکار ہونا ۔
بُطّان (ضسس) اسم فعل بمعنی ماضی یعنی دیر ہوئی کی اور دیر لگائی ۔
بِطان (کفس) چوپایہ کا تنگ ۔
اَبطنہ (فسکف) بطن (ضس) جمع ۔
بطانہ (کفسف) پوشیدہ بھید گانٹھ کا پیچ دلی دوست خاص کپڑے کا استر
بطائط بطاط (ضفسک) موٹا ولادار [illegible]
بطائط بطا اتباع سے ہی ۔
بطبطہ (فسفف) بط کا بولنا ۔ بط کا غوطہ مارنا ۔ رائے کا ضعیف ہونا ۔
بطۃ (فتق) روغن کا برتن سیا ایک برتن ہے بط کی شکل کا ۔
بُطح (ضس) ایک چیز میں چپکا ہوا کہ اوس سے علیحدہ ہوا ہو ۔
بطح (فس) (ف) منہ کے بل پچھاڑنا
بطحہ (فک) بطیحہ (فکسف) بطحاء (فسفسم) ندی کا تھوڑی زمین میں
بطاح (کفس) بطائح (فغسک) اباطح (فغسک) جمع ۔
بطحہ (فسف) خوخصلت ۔

بطخہ (ضحل) قد آدم ۔
تبطیخ (ضسن) [illegible] چاشنا
بطیخہ (فکف) ہوتی ہے ارض بطیخہ اور رجال بطیخہ بولتے ہیں ۔
بطر (فف) (س) بہت خوشی کرنی اترانا تکبر کرنا پریشان ہونا نعمت کی ناشکری کرنی ناپسند رکھنا اوس چیز کو جو لائق ناپسندی کے نہیں حق بات کی طرف سے گردن کشی کرنی اور اوسکو قبول نہ کرنا ۔ بطیر (فکس) بہت بطر
بطر (فکس) رائگان ۔
بطر (فک) صیغہ تعجب ہی بطر (فف) سے
بطر (فف) (ض ن) چیرنا زخم کا
بیطار (فغسف) بمعنی بطریق (کسکس) سردار محبوس ۔
بطاریہ (کسکس) [illegible] گمراہی میں پھنسا ہوا بطریہ [illegible]
بطریق (کسکس) مرد شکیر [illegible] روم کا سپہ سالار جسکے زیر حکم دس ہزار مرد جنگی ہوں اس سے جو نیچے ہوتا ہے اور پانچ ہزار مرد اوسکے زیر حکم ہوتے ہیں اوسے طرخان کہتے ہیں اور اوس سے جو نیچے ہوتا ہے اوسے [illegible]

بجالیح (فتحہ) فقیر لوگ۔
بجاد (کسرہ) لعنت و نفرین سبب کرنا۔ وعدہ ہونا۔
بجاد (ضمہ) وعدہ۔
بجائر (ضمہ) بیری کے درخت کا پھل یعنے بیر۔
بجار (کسرہ) ہینگنی کرنی۔
بجلاع (فتحہ) ایک ساگ ہی نرم رخت و متلاع۔ جہاز سا مل کا بھاری پن بوجھ کے سبب۔ لوٹ کے وقت جو متاع بیمسی ہو یعنی بوجھ نفیس۔ تمام بوجھ جسقدر ابر مین ہو۔ بابر برسنا۔
بجاق (ضمہ) نعت کی آواز۔ بڑی بڑی بوندونکا مینھ جو اچانک برسے۔ سیل بزرگ۔
بجاق (ضمہ) (ن) بڑی بڑی بوندونکے مینھ کا زمین کو چیر دینا۔
بجال (کسرہ) خصم بعد جھگڑا آپسمین اختلاف کرنا۔ جماع کرنا۔ آپسمین خصلت و صفت جدا جدا کرنا۔ آپسمین سے ہیبا کرنا۔ ہینگنی کرنی۔
بجائس (فتحہ) بجاس (کسرہ) جمع بجوس (ضمہ) کی۔
بجبجہ (فتحہ) اول جوانی۔ بہتی میں سے پانی بہانے کی آواز۔
بجبعۃ (فتحہ) کچھ آواز کی نقل۔ جلدی جلدی بات کہنی۔ کفار کی لڑائی سے بھاگ جانا۔
بجتہ (فتحہ) اونٹ کا بچہ کہ نتاج کے درمیان مین پیدا ہو۔ اور وہ جو اول نتاج مین پیدا ہوتا ہی اوسے ربع کہتے ہین اور جو آخر نتاج مین پیدا ہوتا ہی اوسے ہُبَع کہتے ہین۔
بجث (فتحہ) ایک گروہ کہ کسی بھیجین۔ بجوث (ضمہ) جمع۔
بجث (فتحہ) (ف) برانگیختہ کرنا۔ اوٹھانا۔ بھیجنا۔ زندہ کرنا۔ جگانا۔ پراگندہ کرنا۔
بجث (فتحہ) (س) جاگتے رہنا۔
بجث (فتحہ) شب بیدار۔ تہجد گزار۔
بجثرۃ (فتحہ) پراگندگی۔ بجاثر (فتحہ) جمع۔
بجثرۃ (فتحہ) چرکین کا رنگ۔
بجثرۃ (فتحہ) نظر کرنی۔ تفتیش کرنی۔ کھودنا۔ برانگیختہ کرنا۔ جدا جدا کرنا۔ نکالنا۔ ظاہر کرنا۔ جی متلانا۔
بجثط (فتحہ) وادی کا بیچ۔ مذکر ہے یا مونث۔ غایہ سمیت۔ بجاثط (فتحہ) جمع۔
بجثقہ (فتحہ) پانی کا بہنا حوض

| مادہ |
| --- |
| ۱۸۹ بج |
| ۱۹۰ بجد |
| ۱۹۱ بجر |
| ۱۹۲ بجع |
| ۱۹۳ بجل |
| ۱۹۴ بجس |
| ۱۹۵ بجب |
| ۱۹۶ بجع |
| ۱۹۷ بجث |
| ابواب |
| ۱۰ بجثر |
| ۱۱ بجثط |
| ۱۲ بجثق |

بطیخی (بکسک) خربزہ بیچنے والا۔
تبطیر (تفکس) چیرا ہوا۔ چوپایون کا
معالج سعوا کرنے والا سالوتری۔
بطیش (تفکس) سخت پکڑنیوالا۔
بطیط (تفکس) اچنبھا۔ جھوٹ۔ نیز ننگے
موزہ کی جوتی۔ بلا ساق موزہ۔
بطیطہ (تفعلہ) بھانسی۔
بطین (تفکس) بڑا پیٹ۔ دولتمند
امیر۔ سعد سعید۔
بطیئی (تفکس) سست چلنے والا۔
بطاء (تفسم) جمع۔

بظار (رفت) سخت اور دلاور۔ فقط کہتے بولتے ہیں۔
بظر (رفت) ران یا بچے کے تا سیدھ کرنے بچانے کیلئے۔
بظار (بفسم) گوشت کے ٹکڑے آپس میں جمع کیے ہوئے۔
بظارۃ (رفتفسف) وہ چیز جسکو ختنہ کرنے والی عورت میں باقی چھوڑے اور پرکے ہونٹھ کے درمیان کا ابھار بکری کے پستان کا سر۔ فرج زن کے دو لب کے درمیان کا ابھار۔ بظارۃ الشاۃ بکری کی فرج کے کنارہ کا ابھار۔

بظر (فتن) فرج زن کے دو لبون کے درمیان کا ابھار۔ بظور (بفسس) جمع۔ انگوٹھی۔
بظر (رقف) ریس۔ یا بظر ہونا فرج کے دو لب کے درمیان کے ابھار کا لمبا پن۔ فرج کے دو لب کے درمیان کا ابھار۔
بظر (رکس) رائگان۔
بظراء (رفسفسم) عورت جسکی فرج کے دو لب کے درمیان کا ابھار لمبا ہو۔ بظر (رفس) جمع۔
بظرۃ (رفسف) وہ عورت جسکی بغل میں بال کم ہون۔ انگوٹھی کا حلقہ جسمے نگ نہ ہو۔
بظرۃ (رفسفہ) اوپر کے ہونٹھ کے درمیان کا ابھار۔
بظرم (رفسف) انگوٹھی۔
بظریرۃ (رکسکسف) بے شرم عورت۔ بدزبان۔
بظلاج (رکسفس) کپڑا جسکے دونوں طرف برجان ہو وسے لمبے دونوں طرف میں نقش ونگار ہو ویں۔
بظوفس (ران) گھٹا ہوا گوشت ہونا۔
بظیطار (رفلس) موٹا ناز کبدن۔
بلع (رفت) ران میں ابھار دینا شراب کا۔
بلع (رفت)۔ بعلج (رفس)۔ برابر اور متصل برسنا مینھ کا۔

علامات اعراب ضمہ فتحہ کسرہ یعنی ضمہ زبر فتحہ زیر کسرہ س سکون تشدید ّ

بعکث (س) زدن اطراف پر تلوار مارنی –
بعک (فف) (س) سخت اور خشک
بدن ہونا –
بعکرۃ (فسفف) تلوار سے کاٹنا –
بعکشۃ (فسفف) دشوار نگذار –
بعکوک (ضسضس) گرمی کی سختی
بعکوک القوم قوم سے کے اور ترنے
کے نشان کہ بعد چلے جانیکے باقی رہیں
بعکوکاء (فسفسم) بدی شور وغوغا –
بعکوکۃ (ضسفسف) ایک چیز کا بیچ
اونٹون کی ہتایت غبار بعد اوسکا
اژدحام بعکوکۃ الصیف والشتاء گرمی
بعد سردی کا اجتماع – بعکوکۃ القوم
بمعنی بعکوک القوم یا قوم میں سے کے نام
لوگ – یا جماعت قوم کی – بعکوکۃ
الناس اکٹھے لوگ –
بعل (فف) (س) متحیر و حیران ہوجانا
ایک کام سے کے چارہ و تدبیر سے عاجز ہوجانا
بعل (فک) صیغہ لغت مذکر – بعلۃ (فکف)
صیغہ لغت مونث –
بعل (فس) زمین بلند کہ اوس پر سال
بھر میں ایک دفعہ مینھ برسے سر کھجور
کا درخت اور درخت او کھیت کہ پانی
نہ دیا جاوے یا مینھ کا پانی پہوے کچھہ
حصہ کہ سینچے بربعین – کھجور کا درخت
یونس علیہ السلام کی قوم کا بت – مالک
کسی چیز کا مرد کا کنبہ – خاوند – جورو –
بعال (فض) بعل (فس) بعولۃ (فضسف) جمع
بعلۃ (فسف) مرد کی جورو –
بعلۃ (فکف) عورت جو اپنے تئین پیار
میں آراستہ کرنا جانتی ہے –
تبعلۃ (فسفف) ذلیل اور خوار ہونا
خدمت وغیرہ میں –
بعقاۃ (فسفس) تیز چنگل والا عقاب
تعقاع بعقاۃ بیستے میں –
بعو (فس) گناہ – خطا – عاریت –
بعو (فس) (فعل) گناہ کرنا خطا کرنا
بجوے میں غالب آنا نظر بد لگانی
بدی پہنچانی شکاری کتا عاریت لینا –
گھوڑا گھوڑ دوڑ کیواسطے عاریت لینا –
بعوص (فضس) اونٹنی دبلی کہ دودھ
اوسکا خشک ہوگیا ہو بسبب گذرنے
سات مہینے کے جننے کے پیچھے –
بعوضۃ (فضسف) پشہ یعنے مچھر –
بعوض (فضس) جمع –
بعولۃ (فضسف) خاوند ہونا سرکشی کرنی

مادہ
بعکث
بعک
بعکت
بعکبک
بعل
بعلب
بعلت
بعو
بعوص

ت بعض
ت بعج
ت بعد
ت بعذر
ت بعر
ت بعرق
ت بعص
ت بعض
ت بعط

۱۴۴ ص
بعث
بعثط

کے کنارہ یا خم گرگٹ
شکستہ ہونے سے
بعقوط (ضمہ فتحہ) بادی کا بچہ
بعج (فتحہ) سست ہونا
بعج (فتحہ) (ف) پھاڑنا غم سے گھبرانا
خیر خواہی میں مبالغہ کرنا
بعد (فتحہ) دوری مرگ ہلاکت
بعد (فتحہ) (ک س) دور ہونا مرجانا
بعید (ک س) دور بعداء (ضمہ فتحہ)
بعدی و بعداء (ضمہ) بعد (فتحہ)
بعدان (ضمہ فتحہ) جمع
بعد (ضمہ) خیر و فائدہ
بعد (فتحہ) پیچھے ضد قبل
بعد یا بعد بطور مبالغہ کے ہے
بعدۃ (ضمہ فتحہ) رائے و حزم
بعذارۃ (فتحہ) حرکت دینی کیچڑ یانی
بعر (فتحہ) مینگنی
بعرۃ (فتحہ) مینگنی سے ایک
ابعار (فتحہ) جمع
بعر (فتحہ) (ف) مینگنی کرنی
بعرن بعدۃ (ضمہ) بہیر ہو جانا دھکا
بعرۃ (ضمہ فتحہ) خدا کے واسطے غصہ
بعرۃ (ضمہ فتحہ) اسر ذکر

بعزقۃ (ضمہ فتحہ) پریشان کر دینا
بعض (فتحہ) (ف) عاجز ہونا اضطراب کرنا
بعصوص (ضمہ فتحہ) فقس ہونا
بقیر سرین کی ہڈی
بعصوصۃ (ضمہ فتحہ) ایک جانور
ہے چھوٹا سا چمکتا ہوا
بعض (فتحہ) ٹکڑا ہر چیز کا
بعض (فتحہ) مچھر سے کاٹا جانا
بعض کبھی کل میں مستعمل ہے
بعضۃ (فتحہ) ایک مچھر
بہت ہلکی
بعضۃ بولتے ہیں
بعضوضۃ (ضمہ فتحہ) ایک جانور
خنفساء (ضمہ فتحہ) کی مانند
بعط (فتحہ) (ف) ذبح کرنا نادانی
کسی کام میں غلو کرنا
بعق (فتحہ) (ال) اونٹ کو ذبح کرنا
کھول دینا ظاہر کر دینا
بعق (فتحہ) (ف) سے آواز کر
کھولنا منع کرنا ہانکنا
بعقط (ضمہ فتحہ) ٹھگنا
بعقوط (ضمہ فتحہ) ٹھگنا
بعقوطۃ (ضمہ فتحہ) گیڑیلی کی گولی

نغث (ف) رس) داغدار ہونا بکری کا
نغثاء (سفسم) بکری داغدار۔ قسم قسم کے آدمیوں سے ملے ہوئوں کا گروہ۔
نغثر (سفسف) داغدار ہونا بکری وغیرہ کا
نغثر (رفسف) احمق سست بھاری میلا آدمی۔ موٹا اونٹ۔
نغثرۃ (سفسف) جیس بیص جی بتلانا کسی چیز کا پریشان کرنا۔
نغر (فس) ایک نمک کا ہرن منہہ کی۔
نغر (ش) (ف) زور سے ایک دفعہ یا بستا منہہ کا مذمین کو پانی دینا۔
نغر (ک) جو بیماری بغر میں مبتلا ہو۔
نغر (ف) پیاس کہ پانی سے بجھے پیاس کی بیماری جس سے اونٹ مرجاتا پانی ناگوار جسکے پینے سے چوپایہ بیماری بغر میں مبتلا ہو جاوے۔
نغر (ف) (س ف) بیماری بغر میں مبتلا ہونا
نغرۃ (سفسف) زمین کہ مینہہ کے بعد جو تین دن اوسی پانی سے سبز ہو جاوے
نغر (فس) (ن) ہاتھوں سے مارنا یا ہاتھ کی چھڑی سے مارنا۔ نشانا اور کھلانا کبری اونٹ کی یا ہر کسی کی۔
نغش (فس) ہیا ہی لغت یمانی ہے

نغش (فس) منہہ کا کرنے سے پہلے نہین اول مہینہ طلوع ہو اور پھر روانہ ہوئی اور پھر خرماپیش
نغش (فس) (ف) ہلکا مینہہ برسنا بچے کا رونا اور دوسفے پر آمادہ ہونا۔ بسبب شعاع آفتاب کے سوزن مین سے گرد ہوا کی ظاہر ہونی۔
نغشۃ (فسف) بعنی نغش (فس) یعنی ہلکا مینہہ جو بہ نسبت نکلے۔
نغض (فس) (ش) مشتی ماضی
نغضہ (س) دشمن بکالو سکو صیغہ
نغضاء (سفسم) بعنی نغضۃ (فسف)
نغضۃ (فسف) (دشمنی سخت۔
نغل (فس) پھر سیتال (فس) جمع
نغلۃ (فسف) موزۃ۔
نغل (فس) (ف) لونڈی بچہ کردینا
نغو (فس) عرفطہ اور سلم کا شگوفہ
نغو (فس) (ن) تامل سے دیکھنا۔
نغور (فضت) عورت زناکار۔
نغوۃ (فسف) خرما کا شگوفہ کہ سپید ہو خرما جو پکا ہو درخت عضاہ کا میوہ
نغوثر (فسفس) (ف) پہ مینہہ ستارہ کا گرنا اور مینہہ پر دلیل ہونا۔
نغوم (فسف) (ن) نرمی سے آواز


ج

علامات اعراب ضفکستم یعنی ض ضمہ ف فتحہ ک کسرہ س سکون ت تشدید م مد

ماده: بعث، بعج، بعد، بعر، بعر، بعر، بعر، بعر، بعران، بعم، بغ، بغی، بغ، بغ، بغث، بغت، بغبغ

بعیث (فکس) بھیجا ہوا۔
بعیج (فکس) پیٹ پھاڑا ہوا۔ عورت جو اپنے خاوند کی خیرخواہی میں مبالغہ کرے اور اوس پر نثار ہو۔
بعید (فکس) دور۔ واحد و جمع اسمیں برابر ہے۔ بعید الغور دانا اور عاقل۔
بعیر (فکس) چار یا نو برس کا اونٹ اور کبھی اونٹنی میں بھی استعمال کرتے ہیں گدہا۔ اور ہر ایک لدو چوپایہ۔ ابعرۃ (فسکف) اباعر (فضسک) اباعیر (فضسکس)
بعران (ضسکس) جمع۔
بعیم (فکس) کٹ پتلی۔ بعضو سنگ کی بنی ہوئی جسکا سایہ نہر پر ہے سو وہ جو شعر لکھا نچاوے۔
بغ (فت) اونٹ کا بچہ چھوٹا۔
بغ (فت) (ن) خون کا جوش مارنا۔
بغاء (ضفسم) اسم ڈھونڈھا ہوا۔
بغاء (ضفسم) (ض) ڈھونڈھنا۔ میں اعانت کرنی۔
بغاء (کفسم) زنا کرنا۔
بغاث (ضفس) ایک پرندہ ہے سست اور اڑنے والا سیاہ رنگ کا۔ بغاثۃ (فسفسف) ایک۔ بغثان (ضسفس) جمع۔

جانور دیکھکر بہچاننے والا۔
بغاشتہ (ضفسف) (ک ن ض) تیسری ...
بغال (فتفس) خچر والا یا خچر کا نگہبان۔
بغام (ضفس) ہرن کی اور اونٹ کی اور جنگلی گائے کی آواز۔
بغام (ضفس) (ف ن ض) بہت نرمی سے آواز کرنا ہرن کا بچے کیطرف۔ اونٹنی کا اپنی ناک کو قطع کرنا بعد اوسکو دراز نکرنا۔ کسی کے ساتھ کلام مشرح اور ظاہر کرنا۔ جنگلی گائے اور گورخر اور نیز کوہی کا آواز کرنا۔
بغایۃ (ضفسف) ڈھونڈھا ہوا کسب۔
بغبغ (فسفس) کنوان کہ جسکا پانی پاس ہو۔ ہرن موٹا۔
بغبغۃ (فسفف) اونٹ کی آوازکی نقل۔ خواب میں خرخر کرنا۔ پامال کرنا۔ جماع کرنا۔ صحبت کرنا۔
بغبور (فسفس) وہ پتھر جس پر ذبیحہ بت کیلئے ذبح کریں۔
بغتۃ (فسف) بغتۃ (فسفف) اچانک
بغتات (فسفس) جمع۔
بغیت (فس) (ف) اچانک آجانا۔
بغثرۃ (فسفف) اونٹنی چھوٹی۔

بہت آواز والا۔ بقاقہ (فتحہ) ایک مرد بہت بولنے والا بہت بکبک کرنا

بقاقہ (فتحہ) بہت بولنے والا

بقال (فتحہ) ساگ بیچنے والا غلہ فروش لغت عامی ہے صحیح بدال

بقالہ (فتحہ) ساگ کا کھیت۔

بقالیہ (فتحہ) ریشم کا خلاصہ جب کاتتے ہیں لعل کے ریزے سے جو رنگنے کے وقت لوہے کا سے میں اور کاتتے میں نکلتے ہیں سکڑی کا بور کہ رہی کے بیان سے نکلتا ہے مرد کم عقل

بقاوقہ (فتحہ) (لن) دیکھنا جیسے

بقاء بحذف انتظار کرنا نگاہبانی کرنی

بقباق (فتحہ) اور بہت بولنے والا۔ رجل قبقاق و بقباق

رجل لق لق بہت بولنے والا۔

بقبقہ (فتحہ) مصدر کوزہ کی آواز پانی وغیرہ میں۔ کوزہ کا آواز کرنا پانی وغیرہ میں سطول دینا بکواس پریشان طور سے کہنا جیسے بقبق علینا الکلام

بقبقہ (فتحہ) اسم کوزہ کی آواز پانی وغیرہ میں۔

بقث (فتحہ) (ن) ملانا۔

بقمہ (فتحہ) پتھر سرخ جس میں بلوچ کیڑے دن میں پڑ جاتی ہیں بلق ازرق جمع عورت بہت بچوں والی۔

بقث (فتحہ) (ن) خلط ملط کر دینا

بقر (فتحہ) (س) کا ئے کے دیکھنے سے گھٹنے کا بھکا ہونا مصدر کی چیز کے دیکھنے سے آدمی کا فرو ماندہ بینائی ہونا بھٹک جانا اس معنی میں بقر (فتحہ) اور بقر (فتحہ) دونوں آتے ہیں جیسے بقر الرجل بقرا و بقرا۔

بقر (فتحہ) (ن) چیرنا کشادہ اور فراخ کر دینا تفتیش کرنا اور کھوج نکالنا۔

بقر (فتحہ) بلادرع صحیح

بقرۃ (فتحہ) گائے یا بیل سلک یہ پرند ہے ابلق یا خاکستر گون یا سپید بقر (فتحہ) بقران (فتحہ) بقر (فتحہ) بقران (فتحہ) بقار (مشتق) البقور (فتحہ) براقر (فتحہ) جمع بقیر (فتحہ) بیور (فتحہ) باقور (فتحہ) باقورۃ (فتحہ) باقر (فتحہ) اسم جمع۔

بقس (فتحہ) ایک درخت ہے جس کا دانہ اور پتا گلاب کے دانہ اور پتے کی مانند ہوتا ہے یا درخت شمشاد کو کہتے ہیں

نے والی بچے کی طرف۔
بغوص رفتحتین) ایک بنی کا انما مگر بنے
کی طرف ... ہے۔ اور یعنی کا اپنے
سے ... کرنا کھو کر اٹھنا یعنی ...
کرنا یعنی ... اور ... کیا
بغی رفتس ... ظلم اور
تعدی کرنا حق سے تجاوز کرنا اور
حد سے تجاوز کرنا ... جھوٹ کہنا
... بغی علیہ نا رستے چلنا ... کے
... جیسے بغی الفرس فی
... دیکھنا انتظار رکھنا
آنا ... کا زور سے ... سنا
بغی ... بغا رفتح) بغتہ
رفتح وکسر) ڈھونڈ لینا ڈھونڈ
میں ... کسی ایک چیز کو ڈھونڈنا
بغی ... لونڈی۔ عورت زنا کار
بغایا رفتح) جمع بہت ڈھونڈنے
والا ... میں ... کرنیوالا
بغیع ... تصغیر بغیع رفتح
عرب ... الفظ ...
... لیتے ہیں ... عجب ...
... ہے
بغیع ... کسر ... مطلوب ... جیسے

بغیہ رفتح) ... مطلوب حاجت کو ہی
ہر ایک چیز جسکو ڈھونڈتے ہیں۔ طلا یہ
بغایا رفتح) جمع
بغیث ... گیہوں جو اسکے گیہوں
بغشا ... اور شہ میں ...
جہان اور سپر لادتے ہیں
بغیر ... یعنی بغیر ...
بغیض ... دشمن ... کا جمع
بق ... فراخ ... اور زیادہ
والا ہونا ... پراگندہ کرنا فراخ
کرنا گھاس کا ... بہت ...
ہونا عورت کا بہت بچے کرنی
بہت برسنا مینہ کا۔
بقا رفتح) زندگانی۔
بقا رفتح) جیتا جہان میں رہنا۔
بقا رفتح) گاڈبان ... کھیل ...
بقاط ... ایک ... پھر نیز۔
بقاط ... دانہ حنظل کا نقش۔
بقاع رفتح) عرب میں ... لیتے
ہیں ... یعنی گرد و غبار
... دا ... ہو گیا۔
بقاق رفتح) ناکارہ اسباب گھر کا
نالہ ... ایک جانور ہے

زنگر یہ کہتے ہیں فارسی میں اسے کنگر
کہتے ہیں اور اسکا درخت بہت بڑا
ہوتا ہے اوسکا پتا برگ بادام کے مشابہ ہوتا ہے
بُقم (ن) رس، بیمار ہو جانا اونٹ کا
عشق وان کے کھانے سے۔
بَقوۃ (فسف) انتظار کرنا۔ نگہبانی کرنی
بَقول (ن فنس) ظاہر و نمایاں ہونا۔
داڑھی نکالنی سبزہ یا نبات ہو جانا
زمین کا بشور و گیاہ کا سبز ہونا۔
بقول الاوجاع ایک گھاس ہے
ازالہ درد شکم کے لیے مجرب۔
بقوی (فسف و فسف) زندگانی
رعایت۔ رحمت۔
بقی (ن ن)، لقاء (فنسم) (س)
انتظار کرنا۔ دیکھنا جینا جہان میں رہنا۔
لقیا (فسف) بمعنی لقوی (فسف)
لقیہ (فلتف) بچا ہوا۔ زندگانی۔ رعایت
رحمت۔ قوم کے درمیان صلح کرانی
فہم و درایت یعنی سمجھ بوجھ۔ طاعت۔
لقیر (فلس) چرا ہوا۔ چادر جسے چیر کر
بیچ میں سے آستین بے پھیر اور ہاتھ
میں پہنا ہوا ہو [illegible]
جس کا بچہ حمل کے سبب پیٹ پھٹ گیا ہو

بقیرۃ (فلسف) چادر جسے چیر کر
بنا لے آستین نہیں۔
بقیری (فتفسعف) ایک کھیل ہے
جسے فارسی میں کرا موسی کہتے ہیں
بقیلۃ (فلسف) ساگ کا کھیت
زمین سبزہ ناک۔
بکا (ن) بکاء ایک روئیدگی ہے سمسم
جیسی بکاۃ (فسف) بکاۃ (فنس) ایک
حدیث میں ہے کہ نحن معاشر الانبیاء
فینا بکاۃ یعنے ہم معاشر انبیا میں
قلت کلام ہے مگر بوقت ضرورت کلام کرتے ہیں
بکأ (فتس) بکاءۃ (فنسف) کم ہونا
[illegible] (فنس) [illegible] کم شیر
ہونا اونٹنی کا۔
بکاء (فتفسم) بمعنی بکی (فکت)
بکاء (فنفسم) بکی (فنف) آواز سے
رونا۔ گانا کسی کو سر اشتے ہوئے ہونا
بکاۃ (فنفس) بکی (فلکت) جمع باکی
بکارۃ (فنسف) کواری پن۔
بکالۃ (فنسف) آٹا زیت یا روغن اور
چھوارے میں گوندا ہوا۔ یا ستو گھی سے
بھونے ہوئے۔ یا ستو چھوارے اور دودھ
سمیت ملا کر [illegible]


ع ج

مادہ
نقس
نقش
نقط
نقع
نقع
نقل
نقم



نقسیس (فسکس) بمعنی نقس —
نقش (فس) ایک درخت ہے فارسی میں اوسے خوش ساک کہتے ہیں
نقط (فس) گھر کا اسباب یعنی متاع کا اکٹھا کرنا باغ کو تہائی اور چوتھائی پر کسی کو دینا اور یہ باب نصر ینصر سے آتا ہے —
نقط (ف ف) پھل جو کاٹتے وقت درخت سے گر پڑے، لوگوں کا گروہ کسی چیز کا ٹکڑا —
نقطۃ (ف س ف) لوگوں کا گروہ جماعت پریشان
نقطریۃ (ف س ک ت ف) کپڑے سپید
نقع (ف س) بشتی — معنے جسکا بدن جگہ جگہ سے تر ہو گیا ہو، قوم جنکے کپڑے مرقع ہوں —
نقع (س) اکتفا کیا اوس پر
نقعت الارض منہ خالی ہو گئی زمین اوس سے —
وقع المستسقی ستے کا جگہ جگہ سے بدن تر ہوا پانی سے —
نقع (ف س ف) چلا جانا یعنی سخت کہنا کسی پر جان کہنا —
نقعاء (ف س ف س) جس حال میں قعط

پڑا ہو یا جسمیں تنگی اور فراخی دونوں ہوں
نقعۃ (ف س ف) جا سے گڑھے کی جسمیں پانی جمع ہووے زمین کے اپنی گرد کی زمین سے ممتاز ہو نقع (ف ف)
نقاع (ک س) جمع —
نقعۃ (ک ف ف) زمین جسمیں بہت بلندیاں ہوں
نقل (ف س) ساگ سبزہ جسکے بیج سے پیدا ہو نہ وہ جسکی پودے لگے نقلہ (ف س ف) ایک نقل۔ نقول جمع
نقل (ف س) ساگ سبزہ بہار
نقلۃ (ف س ف) ساگ کا کھیت زمین سبزہ ناک — نقلۃ الانصار چقندر
نقلۃ الحمقاء لطیف زرد چوب یعنی ہلدی یا شاید ہرنگا کی ڈنڈیاں —
نقلۃ المبارکۃ کاسنی یا خرفہ نقلۃ اللینۃ خرفہ نقلۃ الحمقاء خرفہ نقلۃ الیہودیۃ کاسنی بری نقلۃ الملک شاہترہ نقلۃ الکبارۃ عمشق پیچان
نقلۃ الذہبیۃ ایک نبات ہے جسے قطف یعنی کمیلہ کہتے ہیں
نقم (ف س ف) جوز ماثل کا درخت جسے دہتورہ کہتے ہیں —
نقم (ف ف ف) ایک لکڑی ہے سرخ جس سے

مذکر اور مونث برابر ہے۔ انگور کا درخت جو
اس قسم سے پہلے پھل لایا ہو (فرہنگ)
بکر وہ ضرب تلوار کی جو ایک بار میں
صاف کاٹ دے۔
بکر الی فلاح نماز صبح کی
بکر (فف) تڑکا۔
بکر (فف) (س) سرعت کرنی جلدی کرنی
بکر (فک) تڑکے اٹھنے والا۔
بکر (فض) جمع بکر (فک)۔
بکرۃ (فسف) کوئیں کی گھرنی بکرۃ
(فف) بکرات (فف) جمع ہے۔
تلوار کی نیچی۔ جوان اونٹنی
جوان لڑکی۔ بکار (کس) جمع
بکرۃ (فسف) تڑکے کا وقت۔
بکس (فس) (ن) غلبہ کرنا۔
بکستہ (فسف) ایک گولی ہوتی ہے
جس سے لڑکے جوا کھیلتے ہیں
بکش (فس) (ن) زانو اور سینہ کا کھولنا
بکع (فس) (ف) برائی سے پیش آنا۔
کاٹنا قطع کرنا۔ غلبہ کرنا صحبت میں
بے دستے نور سے۔ اونا ہر جگہ
بدن میں۔ چلا جانا بخشش کرنی
بکنک (فضف) نوجوان سخت بدن

ایک والی لڑکی
بکل (فس) ملاؤ غنیمت۔
بکل (فس) (ن) خلط ملط کرنا بات کا
یا بات کا کذب کرنا۔
بکلۃ (کسف) سرشت طبیعت خلقت
و ہیئت و صورت و حال۔
بکم (فف) (س) گونگا ہو جانا۔ بکم گونگا پن
عجز بیان بھولاپن۔
بکم (فس) بکمان (فسفس) جمع
بکیم (فکس) کی۔
بکماء (فسفسم) صیغہ صفت مونث
بکاتہ (فضسف) ہے۔
بکور (فضس) پہلا میوہ کھجور کا درخت
جسکے پھل جلد پکتین۔
بکور (فضفس) (ن) تڑکے اٹھنا
تڑکے کا کر دینا تڑکے جانا۔
بکی (فکت) بہت رونے والا ہر چیز تھوڑی
بکی (فکس) بکیۃ (فکسف) اونٹنی
کم دودھ دینے والی صیغہ لغت
ہے بکائر (فض) وغیرہ سے
بکیرۃ (فکسف) میوہ نورسیدہ کھجور کا
درخت جسکے پھل جلد پکین۔
بکیک (فکس) خاک میں گرا دینے والا

مادہ
551
بکر
بکک

ف۔ ا
عہ۔ بکی
عہ۔ بکن
عہ۔ بکل
ف۔ بکا

[redacted] کی ہو
یا سبز خشک کہ تر کے ساتھ مخلوط ہو
یا اتنا اور چھار اگر مخلوط ہو تو بکی ساتھ
بکامتہ (فتشف) گونگا پن۔ اندھاپنا
اور بہراپنا اور اندھا او گونگا بہرا اندھا پیدا ہونا
بکاتن (فتفس) جمع ایک رفقت
بمعنے اسحصر کنا۔
بکباک (فسفس) بہت تھگنا آدمی کہ
جب رستہ چلے تو یہہ معلوم ہو کہ اسکا پاؤں
بکبکتہ (فسفف) ازدحام سا اور رفت
ایک چیز کا پیسین ایک دوسرے پر ڈالنی
سلانا سا اور لت دینا متاع کا۔ بکری کی ۵۵۰
آواز نہ پہچانے کیسے لیے
بکت (فس) (ن) تلوار سے یا لکڑی
سے مارنا۔ بری سے پیش آنا کسی کے ساتھ
بکتہ (فتف) مکہ معظمہ۔ یا جو کچھ درمیان
دو پہاڑ وادی مکہ معظمہ کے ہی یا موضع
بیت اللہ یا اوسکی طواف گاہ۔
بکتہ (فتف) (ن) پھاڑنا یا پارہ پارہ کرنا
ریزہ ریزہ کرنا۔ مزاحمت کرنی ساتھ دوسرے
کنا۔ نرمی کرنی۔ رحم کرنا۔ تحاجۃ مند
سے یہی کسی کی نخوت کو روک دینا
کسی کو پست کرنا۔ گرا دینا گردن

توڑنی۔ الکھٹا کرنا حاجت مند ہونا۔ خشک
بدن ہونا۔ لاعذری سے عورت کو بسبب
جماع کے مشقت میں ڈالنا۔
بکر (فس) (ضس) اونٹ کا بچہ۔ یا جوان
اونٹ۔ یا پانچ سال کا اونٹ چھ سال
تک۔ یا اونٹ کا بچہ جو دوسرے سال
میں داخل ہوا ہو۔ یا تک کہ کچلیاں نکالی
یا اونٹ کا بچہ دو برس کا جو تیسرے
سال میں لگا ہو۔ یا اونٹ کا بچہ جس
کچلیاں نہ نکالی ہوں۔ اکبر (فسفس) بکران
(فسفس) بکارۃ (کفس) بکارہ (کفسف) جمع
اونٹوں میں بکر بمنزلہ فتی کے ہی آدمیوں
میں اور بکرۃ بمنزلہ فتاۃ کے ہی اور
قلوص بمنزلہ جاریہ کے ہی اور بعیر بمنزلہ
انسان کے اور جمل بمنزلہ رجل کے ہی
اور ناقہ بمنزلہ امرأۃ کے۔
بکر (کس) کولا۔ کواری۔ ابکار (فسفس)
جمع عورت کو مثل جس نے ایکبار سے
زیادہ بچا ہو۔ یا پہلا ہر چیز کا۔ جوان لڑکا
ہر نیا کام کہ ویسا پہلے نہ ہوا ہو۔ گائے
کہ ابھی حاملہ نہ ہوئی ہو یا جوان گائے
یا مل حسن میں مثبت ہو۔ پہلا بیٹا کسی
اور اسکے پیچھے ایک دوسرا نہوا ہو۔ نر کسی

الحدیث ... اور اس ... میں ...
صم بکم ... [illegible] ... بل
الذین کفروا بل هم فی [illegible]
کے نزدیک ... سے اس ...
و اصل ... بعض ... بل ...
ہے اور ایسا ... بل ...
... میں ... میں ... بل
... بعض کے نزدیک ...
میں سے نقصان حرف آخر ...
یعنی اصل میں بل ... [illegible]
بل رفتہ ... [illegible]
سے ... [illegible]
بل ... [illegible]
... والا ... [illegible]
کھانے والا الم ...
بل رفت یا مرض یا بیماری سے شفا پانی
جیسے بل ... مرضہ بلا ... ہونا
بل یا [illegible]
بل ... بیماری سے شفا ...
... بل ... [illegible]
بلا ... آزمائش ...
یا محنت ... سختی ... غم ... جسم ...
کر دے ... ہو

بلا ... عورت ... کا ...
... جانا ... [illegible]
بلا ... عورت ...
... [illegible]
بلا ... [illegible] ... کرنا
... [illegible] ... مرد ... ایسا ہی ...
بلا ... [illegible]
... [illegible]
بلا ... [illegible]
بلا ... [illegible]
بلا ... [illegible]
بلا ... [illegible]
بلا ... [illegible]
بلا خیرہ ... بڑی ...
بلا شریف ... بزرگ خاندان کی ...
بلا ... جس سے ...
... کرنا ہے
بلا ... کنیز ... خاطر
بلا ... [illegible] ...
اور کنیز خاطر ہونا
بلا ... [illegible] ...
... کا ...

۵۵۳

صفت [illegible] بولتے ہیں یعنے تلوار
خاک میں ملا دینے والی
[illegible] جو اپنے گرد [illegible]
خوشنما ہو یا اپنی رفتار میں [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
بل ترکیب میں مخفف حرف عطف کے
اضراب کے لیے آتا ہے جبکہ اسکے پیچھے
جملہ واقع ہوتا ہے اور معنی اضراب کے
یا تو ابطال کے ہیں جیسا وقالوا
اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد
مکرمون تو یہان بل کے پیچھے
جملہ واقع ہے یعنے بل ہم عباد مکرمون
پس یہان بل ابطال کو مفید ہوا
یا اضراب سے یعنے ایک غرض سے دوسری
غرض کی طرف انتقال کے ہیں جیسا
وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون
الحیوۃ الدنیا اور جبکہ اوسکے
پیچھے مفرد واقع ہووے یعنی جملہ نہووے
تو اوس صورت میں بل عاطفہ ہوگا

اور اس صورت میں اگر اوسکے پہلے امر
ہووے جیسا اضرب زیدا بل عمروا یا ایجاب
موجبہ ہووے جیسا قام زید بل عمرو
تو اپنے ماقبل کو مسکوت عنہ کر دیگا یعنی اوسکے
ماقبل سے کچھ غرض نہوگا اور اثبات حکم
صرف اپنے مابعد کے لیے کرے اور
اور اگر اوسکے پہلے نفی یا نہی ہووے جیسا
ماقام زید بل عمرو تو اس صورت میں
اپنے ماقبل کو بحال خود رکھے اور ضد
حکم ماقبل کو اپنے مابعد کے لیے ثابت
کرے - کوفیون کے نزدیک ایجاب میں
عاطفہ نہیں آتا پس انکے مذہب سے
یہہ کہنا ضربت زیدا بل ایاک درست
نہیں ہے اور کبھی بل کے پہلے لا کبھی
زیادہ کرتے ہیں اور یہہ لا بعد ایجاب تو
تاکید اضراب کے لیے ہوتا ہے جیسا اس شعر
میں شعر وجہک البدر لا بل الشمس لو
لم + یقض للشمس کسفۃ او افول
اور بعد نفی کے تاکید کے لیے جیسا
اس شعر میں شعر وما ہجرتک لا بل زادنی
شغفا + ہجر وبعد تراخ لا الی اجل
اور بل بعض کے نزدیک بمعنی ان آتا
ہے جیسا ع بل [illegible]

بلبال (سفس) سخت غمناک ہونا
وسوسہ ناک ہونا - برانگیختہ کرنا اور
تحریک دینی مجھاتا -
بلبالہ (سفسفت) غم و اندوہ کی سختی -
بلبل (سفس) ہزار داستان -
بلابل (فسک) جمع - ہمرد تیز مسافری
میں لوگونکی مدد کرنے والا - مچھلی
مجھدار کف دست کے جیسی مار اکوزہ
کی کی تونٹی جس سے پانی گرے
بلبلہ (فسف) اپنا بیخ سرکنا اور تحریک
دینی - اور بلبال اسکا اسم مصدر ہے
نیز بلبلہ بات کو بیجا کرے - غم
کی سختی - سوسف - ستاع سب میں
ایک کا لا مثل ہوتا ہے -
بلبلہ (سفسف) کوزہ جسکی ٹونٹی او ...
سرکی طرف ہو - آزاد عورتوں کی
سوا ایک محل نکہ لونڈیوں کا -
بلبلی (فسفلت) ہمرد تیز سفر میں
لوگوں کی مدد کرنے والا -
بلتح (فستف) مکر یونکا رہا -
بلت (فس) (زمن) کا ...
بلت (فعف) ایک پرند کا آگر تو
ایک مادہ پرند کے پیچھے پڑ جاوے

ہلاو یوے -
بلت صیغہ ماضی (ازرک) عقلمند ہوا -
بلت (فعف) (رس ن) اکٹھا ہوا ہونا
بلتہ (کتیف) درخت ثمر کا شہد سخت ہی
تمنا کی بغیر مند شر - نفق سے چیخنا
اچھی فصاحت سے گفتگو کرنا -
بلتہ (فعف) آتنی سی تانگی جرانی جو
موت بخار دار درختوں کا شگوفہ -
ہال کی مانند جو شگوفہ نکلتا ہے وہ نمی
بعد قریب چارہ کا القیہ شعر فغا کا شگوفہ
ثمر کا شگوفہ الو سکا شہد غرہ کا پھل
کہ ایک قسم کی ہکی ہی چارہ کا بوجھ
لے بیجا ہوا جاتا - بلال (فعس) جمع اس
معنی میں اس لغت اقسم میں بلتہ (فعف)
بلتہ (فعف) بلول (فعس) بلوۃ
(فعف) بلتہ (فعف) بللۃ (فعف)
بلاۃ (فعف) بلاہ (فعس) بلالۃ
(فعف) بلاۃ (فعف)
بلحات (فعس) کا ٹپا -
بلتع (فعف) ہر چیز کا ماہر و دانا -
بلتعانی (فسفیت) وہ جو تکلف
سے خوش مزاجی اور عقل ظاہر کرے
اعر اض میں ہو نہیں -

بلاتش رفتس [illegible] ہوا س کا [illegible]
عرب کی دیار بدین [illegible] ہے [illegible]
[illegible]
[illegible] گھوڑی [illegible]
[illegible]
[illegible]
بلاس [illegible] ۔
بلا [illegible] رفتس [illegible]
بلا [illegible] رفتس [illegible]
[illegible] میں [illegible]
[illegible]
بلا [illegible] رفتس [illegible]
[illegible] سخت [illegible]
بلا [illegible] رفتسک [illegible] اصلاح [illegible]
دونوں کو ساتھ لا لیتے ہیں ۔
بلا [illegible] رفتسف [illegible]
[illegible] رفتسفہ [illegible]
رفتسکس بلالیح [illegible]
بلاعق رفتسک [illegible] ۔
بلاغ رفتس [illegible]
[illegible] بلاغ [illegible]
[illegible] پہنچانا [illegible]
[illegible] البلاغ [illegible]

بلاغ رکفس [illegible] نکرنی
بلاتمات رفتسف [illegible] ۔
[illegible]
بلا [illegible] رفتسفہ [illegible] پانی ۔
بلا [illegible] رفتسف [illegible] پہنچا [illegible]
[illegible]
بلاغی رفتسف [illegible] ۔
بلال رفتس [illegible]
بلال رفتسکہ [illegible] کی ۔
بلال رفتس [illegible] کرنا
[illegible]
بلال رفتس [illegible] بلال [illegible]
[illegible] آ [illegible]
[illegible] بلال [illegible]
[illegible] پانی [illegible]
بلا [illegible] رفتسف [illegible] کی ۔ [illegible]
بلا [illegible] رفتسکس [illegible]
بلا [illegible] رفتس [illegible] سبز ۔
بلا [illegible] رفتس [illegible] جمع
بلا [illegible] رفتسف [illegible]
بلا [illegible] رفتسف [illegible]
[illegible] رفتس [illegible]
[illegible] پھیریا ۔

کے نکالدے کرنے کی جگہ یا دور [illegible]
جمع سینہ ہتھیلی آنکھ [illegible]
قریب ہے اور دو ستارے ہیں [illegible]
[illegible] کی جگہ [illegible]
مین [illegible] جس [illegible]
یا [illegible] معلوم کرتے ہیں [illegible]
کشادگی [illegible]
کسی چیز کا عنصر [illegible]
[illegible] سینہ کے
اور [illegible] کے گرد [illegible]
[illegible] مین [illegible]
[illegible]
بلد [illegible]
مین [illegible]
بلد [illegible] کی گینڈا یا جانور کا
کی [illegible] کی [illegible]
[illegible]
تو [illegible]
بلد [illegible]
بلد [illegible]
[illegible] کی جگہ [illegible]
زمین [illegible]
دمشق [illegible]

ایک منزل ہے منازل قمر سے [illegible] اور سعد
ذابح کے بعد ہے [illegible] اور بعض اس سے
متصل [illegible] کے [illegible]
وہ چھ ستارے ہیں [illegible]
کے [illegible] سینہ [illegible]
[illegible] کے بیچ کی کشادگی
بلجہ (فتح ف) دو ابرو کے بیچ کی
کشادگی [illegible] کی ہیئت
[illegible] (فتح ف) [illegible] جسم
[illegible] (فتح ف) [illegible]
[illegible] (فتح ف) اپنے [illegible] مین [illegible]
مارنا [illegible] کو [illegible] کرنا
بلعم (بضم ف) [illegible] حلقوم
[illegible] طعام [illegible]
متصل [illegible]
[illegible]
[illegible]
بلد [illegible] چپ ہو جانا
بلعوم (بضم ف) [illegible] کے حلقوم
مین سے [illegible]
[illegible] عورت
[illegible] کا قول ہے کہ [illegible]
مین [illegible] کے [illegible]

ماده

بلجتہ (فسفف) عورت بہت بے زبان بہت بکنے والی

بلتعی (فسفلت) وہ بلی تو جو بہت حریص

تقریعہ جسکی زبان بشتکرے

میں یا بہت بادرے لکنتا ہے

بلتم (فسف) مرد جسکی زبان بھلی کھلے اور جا بجا ہو مخلوقات اور بیکی

بلثوق (فسفنس) پانی جو اکٹھا ہو گیا جیسا زمین پر پھیلا ہوا ہو

بلاعق (فسفک) اس کی جمع

بلج (فف) روشن اور کشادہ ہونا

کشادگی ابرو کشادہ ابرو ہونا

ابلج (فعل) مرد کشادہ ابرو

بلج (فسفس) روشن کھولنا

بلجہ (فسفس) بالون کی بھوؤں کے بیچ کا فرق سے الگ

بلجتہ (فسفف) بہیج کا سفیدی

دو بھوؤں کے بیچ کی کشادگی

بلجمتہ (فسفف) بیطار کا چھوٹا ہتھیار یا نشتر بالو بندہا سبب بیماری

بلح (فف) خرما کا دانہ بغیر پکا ہوا سبز جو کہ خلال اور بسر کے بیچ میں ہوتا ہے۔ بلحتہ (فسفف) ایک

بلح (فف) پڑا ناید اگر کسی کا لک بیشتر ہو بکر کسی سے بالیونر اوران پر اگر ایک یا اسکا اور یا اور اسکے پیچھے ۔ بیٹھے تو جلاوے ۔ بلحان (فعلان)

بلح (فسن) بلوح (فسفس) (فن) خشک ہو جانا کنکر پڑنا پانی کا خشک ہو جانا سوکھ جانا

بلحتہ (فسفف) ایک رو بند گی ہیکہ بزرگ مرد بہتی ہو گئی ہو جائے مانند گلی یا اسکے

بلحاح (فسف) بن بیندی کا پیالہ جسکے تلی نہو

بلخ (فس) ناچو تکبر بزرگ عضو

بلخ (فسن) جمع بلخ (فسن)

بلخ (ففا) اور کی فسی

بلخ (فف) اور بزرگ فتنی گری

بلخاء (فسفیم) احمق عورت

بلخش (فسف) بڑا کار ولدار

بلخیہ (فعلعل) ایک درخت ہے بڑا مثل درخت انار کے پھول اوسکا بہت خوشنما ہوتا ہے

بلد (فف) مکہ معظم آبادیات کسی ہی جگہہ آباد ہو یا غیر آباد ۔ خاک ۔ گور گورستان سکہ ستان تشتر مرغ

[illegible] بلغم
بلغثر (فسف) بہت کھانیوالا
بلغش (فسف) مرد ہونا سست تو
بلغشہ (فسف) ایبن کا سست ہونا
سمجھانے اور بلادری ہوسکے
بلغس (فسف) اونٹنی کی سست
بلعقش (فسفش) بجو فرج
بلعق (فسف) ایک قسم کا مچھلی کے
مچھلی ہونی خرما کے ایک ...
بلعک (فسف) اونٹنی کا سست
عمر دکھ کرنا حافظ کرنیوالا اونٹنی بلعوب (فسف)
بلعکہ (فسف) ٹکڑا سے کاٹنا
بلعلع (فسفس) ایک جانور ہے
آبی کلغی گردن کا
بلعثم (فسف) مرد بہت کھانیوالا
بلعم (فسفس) کھانے کا رستہ حلق میں
بلعمہ (فسف) لقمہ نگلنا
بلعمس (فسفس) احمق عورت
بلعوم (فسفس) بلعم بلعم (فسفس)
گدھے کے بعض جنکی گردن کی ہیئت یا
زمین بنفسکے اوپر پانی کا رستہ
بلغ (فسفس) مرد خشن لعنت ہے یا
چاہیے بات کو پہنچا دے ... بلاغ

بلغ [illegible] مرد بلاد
کیسہ یعنی تلاش
بالغ (فسف) ... بلیغ
بلغتہ (فسف) دن کا آخر جس سے
دن گزار میں ... (فسف) جمع
بلغم (فسف) بلغم سنکے چار ...
خلطوں میں سے ایک خلط
بلغیس کی فصف مفصفس بلاغت
بلق (فسف) چتکبرا ہونا سپید و سیاہ
یا گھوڑے کی سپیدی ران تک جیسے
خنگ رنگ کا گھوڑا سیاہ سپید
بلق (فسف) ... دروازہ کو کھولنا
یا خوب کھولنا بند کرنا جیسے بلق الباب
بلق - نفاح جنکا منہ لوہے ہی سا تا اللہ
بکارت کرنا جیسے بلق السحاریہ
بلق (فسف و فسف) رس ... یا ابلق ہونا
سپید و سیاہ یا نوع ہونا ران تک
متحیر ہونا - ابلق (فسف) اور بلقاء
(فسفم) صیغہ لغت ہے
بلقہ (فسف) ابلقی
بلقط (فسف) گھٹنا
بلقع (فسف) زمین جس میں گھاس
نہ پانی - بلاقع (فسف) جمع

[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
... ہے [illegible] نسخہ [illegible]
... والی [illegible]
بلبر (ر) کلمہ عورت [illegible]
بلسن (ع) (ر نفت) [illegible] خیر [illegible]
[illegible] نا امیدی کا [illegible]
انجیر [illegible] شکل [illegible] انجیر کے
بلس (ع) (ر نفس) [illegible]
بلیس (ع) (ر نفس) [illegible]
بلس (ع) (ر نفت) نا امید [illegible]
بلسام (ر نفس) [illegible]
بلسان (ر نفس) ایک [illegible]
[illegible] درخت [illegible]
[illegible] مصر سے [illegible]
[illegible] بہت مفید [illegible]
بلسک (ر نفت) [illegible]
[illegible] میں [illegible]
[illegible] [illegible]
واللہ اعلم بالصواب
بلسمتی (ر نفت) [illegible]
[illegible] [illegible]
چہرہ کسی کو [illegible]

[illegible] [illegible]
(ر نفت) ایک [illegible]
بلشون (ر نفس) [illegible]
بلغش (ر نکات) [illegible]
[illegible] (ر نفت) [illegible]
بلقیہ (ر نفت) ایک [illegible]
بلقیہ (ر نفت) [illegible]
بلعیدی (ر نفس) ایک [illegible]
بلقلی (ر نفت) [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
بلعی (ر نفت) ایک [illegible]
بلطہ (ر نفس) [illegible] کا ایک [illegible]
بلط (ر نفس) [illegible]
بلط (ر نفس) [illegible]
[illegible] [illegible]
بلعطہ (ر نفت) [illegible]
[illegible] [illegible]
بلطہ (ر نفت) [illegible]
بلع (ر نفت) [illegible]
بلعر (ر نفت) ایک [illegible]
بہت [illegible]
بلع (ر نفت) [illegible]

بلنزی (فسف) اونٹ موٹے
دل کا مضبوط بدن —
بلنسم (فسف) قطران —
بلنصاۃ (فسفس) ایک ساگ ہی —
بلنصی (فسف) ایک پرندہ ہی کہ سبز انڈا
دیتا ہی — بلاصی (فسک) جمع —
بلنط (فس) ایک چیز سپید پتھر کی
مانند لیکن اوس سے نرم
بلنقع (فسف) ظاہر ہونا بش بلنقع
بلنقع دو دونوں کو ساتھ لوٹ لیتے ہیں —
بلنوکس (ا) بولتے ہیں ہو بلنو ہستفا
یعنے وہ سفر کا آزمودہ کار ہی اور اوس
میں پرانا ہوگیا ہو گس گیا ہی۔ اور
بلو شرٹ یعنے بدی پر غالب اور اوس میں
آزمودہ کار بلو مال ہے یعنے مال کی
مصلحتوں کا اور اونکے بندوبست کا جاننے
والا۔ ابلا (فسفسم) جمع —
بلوی (فسفسم) (ن) آزمانا
حقیقت حال دریافت کرنی —
بلوۃ (کسف) آزمائش سختی ایکی خبر
کی دریافت اور اوسکا کشف —
بلوح (فسفس) (ن) ہوش ہونا
بلوح (فسفس) کو آن جسکا پانی
خشک ہوگیا ہو۔ مرد قاطع رحم یعنے ناتا توڑنے والا
بلود (فسفس) (ن) ایک جاے میں
مقیم ہونا اور اوسکو شہر بنا لینا —
بلور (کسفس) (فسفس) (کسفس) ایک
پتھر ہی مشہور — بلورۃ (فسف) ایک —
بلالیر (فسک) جمع —
بلوہر (کسفس) مرد موٹا دلیر سلاطین
ہند کا بزرگ —
بلوط (فسفس) ایک درخت ہی کہ اوسکی
چھال سے کھال کو سنوارتے ہیں
اور زمانہ قدیم میں عرب اوسکے پھل سے
اپنی غذا کرتے تھے کبھی کے غذا
بلوطاء الارض ایک گھاس ہی اوسکا
پتا کاسنی کی مانند ہوتا ہی
بلوع (فسفس) ہنڈیا بڑے پیٹ کی
بلوغ (فسفس) رسیدگی —
بلوغ (فسفس) (ن) پہنچنا رسیدگی
کے قریب ہونا۔ بالغ ہونا لڑکی کا
حد کمال اور خوبی کو پہنچنا مشقت میں
ڈالا جانا اس معنی مجہول استعمل ہی —
بلوق (فسفس) زمین کہ کچھ نہ اگا
بلالیق (فسکس) جمع —
بلوق (فسفس) (ن) دوڑنا یا بالیدہ

بلج
بلد
بلر
بلہ
بلط
بلع
بلغ
بلق
۵۶۱

بالقصد (ف) [illegible] جان بوجھ کر

اسم [illegible] عورت مخصوص [illegible]

[illegible]

[illegible] بجز [illegible]

بلقیس (ف) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

بلک (ف) [illegible] ملنا

[illegible] کا [illegible]

بلکنا (ف) [illegible] کا اشارہ

[illegible] کی [illegible]

[illegible] کا کھانا [illegible]

بلل (ف) [illegible] پانی

بلل (ف) [illegible] پانی جیسے

[illegible]

[illegible]

[illegible]

جیسے [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

باخوا [illegible] ہوتی

بلما (ف) قسم [illegible] چار [illegible]

بلمہ (ف) [illegible] آذر [illegible]

کی نسل کی طرف اور اس کی فرج کا [illegible]

[illegible] سلب کی [illegible]

بلیغ (ف) [illegible] ہر چیز کا [illegible]

[illegible] زبان [illegible] عورت

بہت بولنے والی

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

الف [illegible] کی [illegible]

بلبیب (ع – امذ) بہت عقل والا، مرد عقلمند و دانا۔

بلبیش (ف – امذ) ننگا [illegible]
[illegible] کا [illegible]

بلبلچ (ف – امذ) [illegible] کشتی کا [illegible]
[illegible] کشتی [illegible] نکالنے [illegible]

بلبحار (ع – امذ) [illegible]
[illegible]

بلبیت (ع – امذ) [illegible]

بلبیدہ (ف – امذ) [illegible] کند ذہن [illegible]
دل [illegible]

بلیغ (ع – امذ) مرد فصیح، بات کو [illegible] جانے پہنچانے والا۔ بات پوری۔

بلیل (ف – امذ) روشن، پستہ۔

بلیل (ع – امذ) آواز، تھوڑا [illegible]

بلیل و بلبال [illegible] دونوں کو ساتھ [illegible]
[illegible] ہوا [illegible] کی [illegible] اور
جمع اس میں برابر ہے۔

بلیلہ (ع – امث) ہوا ٹھنڈی [illegible]

بلیلج (ع – امذ) [illegible] بلیلہ کا۔
[illegible] روشن [illegible] میں [illegible]
[illegible] آواز [illegible]

بن [illegible] (ع – امذ) [illegible]
بن [illegible] (ع – امذ) [illegible] سوتا [illegible]
بن (ع – امذ) [illegible]
بن [illegible] (ع – امذ) [illegible]
[illegible]

بن [illegible] (ع – امذ) [illegible]
بنا [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] کی [illegible] حالت، خواہ [illegible]
خواہ [illegible] مکمل [illegible]

بنا (ف – امذ) [illegible]

بنات (ع – امث) جمع بنت کی
[illegible] لڑکیاں اور [illegible]
[illegible] گڑیاں۔

بنات [illegible] ایک [illegible]

بنات النعش [illegible] سات [illegible] ستارے [illegible]
[illegible]

بنات الدہر زمانہ کی حوادثات۔

بنات اللیل [illegible] احلام [illegible] شب

[illegible]

ادوم علامات اعراب جیکو کسرہ یعنی زیر فتحہ یعنی زبر ضمہ یعنی پیش تنوین تشدید وغیرہ

بسبیل یا بھیڑ بکری وغیرہ کو۔

بلوکہ (فتحتین) بیابان یعنی ایسی زمین کہ جہان کوئی درخت وغیرہ نہ ہو یعنی کچھ نہ اُگا ہو۔

بلوک (فتحتین) ایک جگہ کا نام جہان سے آنا جانا لوگون کے واسطے بہت مشکل ہو یعنی جس ملک مین سیر کرتے جانا۔

بلول (فتحتین) ہر چیز کا تر ہونا اور بیماری سے شفا پانی یعنی صحت پانی۔

بلولہ (فتحتین) حال۔

بلوح (فتحتین) یعنی بلوۃ (فتحتین)

بلہ (فتحتین) اسم فعل ہے بمعنے چھوڑ اور ما بعد اسکا منصوب ہوتا ہے بلحاظ مفعولیت کے جیسا بلہ زیدًا معہد ہی بمعنے ترک یا بعد اسکا باضافت مجرور ہوتا ہے جیسا اس شعر مین شعر تذر الجماجم ضاحیا ہاماتہا بلہ الاکف کانہا لم تخلق ہو بمعنی کیونکہ بعد بلہ صورت اول اور ثالث مین مبنی بر فتحہ کے ہوتا ہے اور صورت ثالث مین معرب بمعنی اور کے بھی آتا ہے۔

بلمہ (فتحتین) بمعنی تسلیم دل یعنی ذاتی خوش خوی سلامت بدی۔

بلہ (فتحتین) ابلہ ہونا عاجز رہنا حجت مین۔

بلہاء (بفتح ضمہ) عورت ابلہ یعنی وہ عورت کہ بسبب حماقت یا شرافت کے کسی بات سے نہ سمجھے عورت نادان ناتجربہ کار کہ خاندان بزرگ سے ہو۔

بلہسہ (فتحتین) رفتار مین جلدی کرنی۔

بلہصہ (فتحتین) ڈر کے مارے بھاگنا اور جلدی کرنی۔

بلہق (فتحتین) بہت کلام کرنے والی بہت سخن۔

بلہنیہ (بضم و سکون) فراخی عیش۔

بلہور (فتحتین) سلاطین کا نام۔

بلی (فتحتین) ایک جنس ہے بعقلی۔

بلی (فتحتین) بمعنی بلوٹ۔

بلی (فتحتین) ہان جواب استفہام کا حرف نفی کے ساتھ ... جیسے

بلی (فتحتین) ... کپڑے کا پرانا ہوجانا غافل (وغیرہ) مختلف ہے۔

بلیہ (وفتحتین) اونٹنی جسے عرب کے مالک کی گور پر ایام جاہلیت مین باندھ دیتے تھے یہان تک کہ وہ مرجاتی۔

بلایا (بفتحتین) جمع۔ آزمایش سختی

لا ... بلی ... بلہ ... بلیہ ... بلہنیہ ... بمعنی ... ۱۲

...

مین اوسی پر بجشور ہوگا ۱۲ مولوی محمد حبیب الرحمن صاحب مدظلہ

بست بار [illegible] باد [illegible] [illegible]
بنتر رفتح اوپر سے [illegible] [illegible]
بنان رکس [illegible] ج [illegible] [illegible]
بنج رفتس ۱ ایک [illegible] میں [illegible]
والی [illegible] کے [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] اچھا [illegible]
بنج رفتس ۱ ان [illegible] [illegible] [illegible]
بنج رفتس ۱ ان [illegible] [illegible] [illegible]
بنج رکس ۱ اچھا
بنج رفتس عطایا
بندر فس [illegible] [illegible]
وسن [illegible] اور دو ہون فارسی [illegible]
کرلیبی شود رفتس ۱ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
پیادہ وفرزین [illegible] شطرنج کا –
بنور آخر رفتس [illegible] [illegible] [illegible]
جواہر [illegible] [illegible] [illegible] سوداگر [illegible]
انسا [illegible] [illegible] چھوڑے تاکہ [illegible]
قیمت کو نہ پہنچے سنادر [illegible] [illegible]
بندر رفس ۱ لنگر گاہ کشتی کا دریا کے
کنارہ پر کہ غلہ اور سوداگر وہاں
بہت آمد و رفت کریں –
بندق رفس [illegible] کا غلہ [illegible]

رفتس [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
بنفق [illegible] [illegible] [illegible]
بند [illegible] رفتس [illegible] [illegible]
بنفق رفتس [illegible] کمان
[illegible] [illegible] قیمتی –
بنفک رفتس [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] رفتس ۱ ان [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
بنفشہ رفتس [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] میں [illegible]
[illegible] رفتس [illegible]
بنگال رفتس عورت [illegible]
[illegible] [illegible] زبان [illegible]
بنفشہ رفتس ۱ بنفشہ –
بنو رفتس ۱ ان [illegible] میں [illegible]
بنفوس رفتس [illegible] [illegible]
بنائس رفتس [illegible]
بنگ رفتس [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] –
بنود رفتس [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
۵۷۵
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]


ج

بنات الفلا آلائی ہے کہ جنگل میں پھیلی ہوئی ہیں
بنات الشفا [illegible] کی [illegible]
بنات [illegible] محبت ہے
بنات [illegible] سوزش کی
بنات الفنا یا تیر
بنات النعش بدل میں [illegible] زمین کے [illegible] اور وقت [illegible] پیدا ہوتی ہے [illegible]
بنات النعش [illegible]
بنات غم محبوب
بنات عرادان ایک [illegible]
بنات الآگ ذار کو رشتہ الندر کی طرف منسوب ہے
بنات کرم ایک زیور ہے کہ ایام جاہلیت میں پہنتے تھے
بنات النقی ایک کیڑا ہے کہ ریت میں رہتا ہے اور اوسے شحمۃ النقا بھی کہتے ہیں
بنات المعری [illegible] تیس کے جو [illegible] ہو گذرے اوسکا عیب کریں
بنات طیار بلا میں سختیاں
بنات المحنق دولتمند لشکار کی بیٹیاں

بنات الخیس [illegible] ایک [illegible] جسکی [illegible] کے [illegible] کے
بنات الرجلی لیے
بنات [illegible] بمعنی بنات نعش یعنی ہفت اورنگ
بنات [illegible] انگشت یا انگلی
بنات [illegible] ایک
بنات [illegible]
بنات [illegible] کا [illegible]
بنات [illegible] شاید [illegible]
لفظ کا استعمال [illegible] اشیاء میں
بنات [illegible] یا [illegible] کرنی
[illegible] کو [illegible] کے [illegible] جیسے بنی [illegible] ہوتا ہے
بنی الطعام [illegible]
بنات [illegible] ایک جانور [illegible] ایک [illegible] ہے کہ آدمی [illegible] ٹکڑے کر کر نگل جاتی ہے
بنت الرکس [illegible] ہے بلکہ صیغہ جداگانہ ہے اور حالت نسب میں بنی [illegible]
بنت الارض ایک قسم کی [illegible]
بنت الشفقہ [illegible]
بنت [illegible] اور سختی بنات [illegible]

[illegible]

[illegible]

بوان (ف) [illegible] بنانا
کی جائے [illegible] میں سے ایک [illegible]
ہے کہ [illegible]
بوان (ف) [illegible]
بودا (ف) [illegible]
کر چلنے والا [illegible]
اور بھی [illegible]
[illegible]
[illegible] ہو گیا
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] سے
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] (ف) [illegible]
[illegible] (ف) [illegible]
[illegible] ہیں
[illegible] (ف) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] کا [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

۴۳

[illegible]

[illegible]

[illegible] اگر [illegible]

[illegible] مسکہ [illegible]

[illegible] شریف [illegible]

[illegible]

سینہ اسے [illegible]

کے [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

بوازی [illegible]

بواال [illegible]

[illegible]

کسی کا ایک چیز کے ساتھ قصد کرنا۔
ونیز بوش مصر میں ایک طعام
ہے جو گیہوں اور مسعد سے تیار کرتے ہیں۔
بوشی (رفسکت) مرد کمینہ۔ فقیر بہت
کنبے والا بال بچے والا۔ اس پاجی۔
بوص (رس) (ن) آگے بڑھ جانا
دوڑ جانا۔ بھاگ جانا چھپ جانا۔
جلد جانا بہت چلنا۔ تھک جانا۔ رنگ
سرین۔ سرین کے گوشت کی نرمی
بوص (رض) ایک درخت کا
ہمیشہ کا جو چپاتی کی ایک قسم۔ ابواص
(رفتس) جمع۔
بوصاء (رفسم) عورت بڑے سرین
والی۔ ایک کھیل ہے کہ لکڑی کے
ایک طرف آگ لگا کر سر سے پھراتے
ہیں یعنی۔
بوصی (رمسکت) ایک قسم کی کشتی
جو بڑے کا معرب ہے۔
بوص (رس) (ن) ایک جانب مقیم
ہوتا اور اس کو لازم پکڑنا۔ چھپ جانا
ہمیشہ کا چھانا ہے۔
بوط (رس) (ن) بعد تونگری کے
محتاج ہو جانا۔ بعد عزت کے ذلیل ہونا

بوطة (رفس) سنار کی کٹھالی۔
بوط (رفس) شئ کو رحم میں ڈالنا
موٹا ہو جانا بعد لاغری کے۔
بوع (رفس) دہی مقدار معین جو
باع ہے۔ ابواع (رفس) جمع
جائے ہموار پہاڑ کے درخت میں۔
بوع (رفس) (ن) گونا ایک چیز
کی طرف۔ فراخ دست ہونا مال
میں۔ کشادہ قدم رکھنا گھوڑے کا رفتار میں
بوخ (رفس) جمع بالخ (رفسک)
بوغ (رفس) (ن) خون کا غلبہ کرنا۔
بوغاء (رفسم) نرم خاک مشابہ غبار
کے۔ مرد ہلکا چھچھورا احمق پریشانی
بوغاء الطیب طیب کی خوشبو۔
بوق (رفس) بگل یا نلی جیسے
بجاتے ہیں۔ ابواق (رفس) جمع
باطل اور دروغ۔ جو بھید نہ چھپا سکے
بانسلی کی مانند ایک چیز جس میں
جھلنی دار لے پھوٹتے ہیں۔
بوق (رفس) (ن) آدمی اور دشمنی
لانی۔ سختی پہنچنی۔ غیب سے ظاہر
ہو جانا۔ کسی کو جا دبانا۔ یورش
کرنا اور ظلم سے مار ڈالنا۔ تباہ ہونا


ج

بوادر [illegible] (ف) [illegible]
[illegible] ہوتا تھا [illegible]
بوزر [illegible] ایک پیالہ [illegible]
میں [illegible] علیہ السلام [illegible]
[illegible] آسمان [illegible]
بو [illegible]
[illegible] ماخذ [illegible]
بورر [illegible]
[illegible] السلام [illegible]
[illegible] میں [illegible]
[illegible]
بو [illegible] آ [illegible]
ایک [illegible]
[illegible] کہ [illegible] آیا [illegible]
[illegible] گرا [illegible]
[illegible] ہے [illegible]
[illegible] ہے [illegible]
[illegible] کرتا [illegible]
بوزا [illegible]
[illegible] آتشدان [illegible]
بوس [illegible] آتشدان [illegible]
بوزق [illegible]
[illegible]

اور [illegible] کا [illegible]
[illegible] کہتے
[illegible] ہے
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
بوس [illegible]
بوس [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] اور [illegible]
[illegible] ہے
[illegible]
[illegible] کی [illegible]
[illegible] کی [illegible]
ایک خاندان [illegible] کی [illegible]
[illegible] کا [illegible] میں [illegible]
[illegible]

ماده

کرنا ـ لعنت کرنی ـ

بوه (ضس) (ن س) آگاه ہونا ـ

بوه (ضس) (جمع) جیسکے پر چار ہوں

ہون ـ سبز انگور ـ بڑا ساایک جانور ہی جنکی

ایجنی انگور کے مشابہ ـ

بوہتر (فسف) (جمع) بہتر ـ چھوٹا سر

ہلکا ـ احمق بخیر ـ آلو ـ دوات کا

صوف الگ الگ کیا ہوا ـ خاک اور

پر جیسے ہوا میں اڑ جائے ـ

بوی (ف ک ت) مرد احمق ـ

بہ رفت (ض س) بیاد شاہ کے

ہاں ـ حسب و جاہ کا ہونا ـ

بہارہ (فضم) لاشی صفت ...

بہار (فضم) (ر ف س) کا نفس پکڑنا

بہانج (فس) (ضس) (ر ف

س ک) النس بگڑنا ـ

بہا (فس) (ر ف) سمجھنا ـ گھر کو خالی

کر دینا اسباب سے ـ

بہارہ (فضم) خوبی اور حسن چہرے کے

بلند سے کی چمک ـ خوب ـ حسین ہونا

بہاجر (فضم) (ک س ن) غالب

آنا خوبی اور حسن میں ـ

بہاق (فضس) جیسے کھڑ سے نفعا

بہاجہ (فسف) (رک) خوش نما اچھا ہونا

بہار (فضس) ایک پھول زرد خوشبو

دار جسے گاؤ چشم کہتے ہیں ہر چیز

خوب خوشنما ـ گھوڑے کے سینے کا

سرا ـ گھوڑے کے سینے کی چوڑی

بہارہ (فضس) (بت) ایک چار پیری

سیاہ رنگ کا جو عمارت پختہ کی چھتوں

میں رہتا ہی اور ابابیل کے نام سے

مشہور ہے ـ ایک مچھلی سپید ـ روی

ہوئی روئی ـ ایک چیز ہی جس سے

تولتے ہیں اور وہ تین سو رطل ہیں یا

چار سو یا چھ سو یا ہزار ـ دریا کی متاع

چار سو رطل کی گون ـ ایک برتن

ہے چھاگل کی مانند ـ

بہالیق (فضس) پاگل چیزیں ـ

بہام (فضس) سعد البہام چاند

کی منزلوں میں سے ایک منزل ہی

بہانس (فضک) تابعدار اونٹ ـ

یعنی جو شرارت نہ کرے اور سوار کا

ہمراہی فرمانبردار ہو ـ

بہاتم (فضک) (جمع بہیمۃ) (فکسف)

بہباہ (فسفس) اونٹ مستی سے

آواز کرنے والا ـ

۸۷

۱۲

[illegible]

بالکل چھوڑنا یا ظلم کرنا۔ سعدون یا جاریہ
لیسی بیچیدہ ۔ مونا تاسال جرانا۔
بوقالی (صنعنس) کوزہ جس کے گوشہ
بوقہ (صنف) زور شور کا مینہ کہ
دفعتہ برس پڑے۔ بوق (صنف) جمع
بوک (صنس) مرتبہ۔ عرب میں کہتے
ہیں لقیتہ اوّل بوک یعنی ملاقات
کی میں نے اوس سے پہلے ہی مرتبہ
بوک (صنف) بک (صنف)
جمع بالک (الابک)
بوک (صنس) گدھے کا گدھی سے
جفتی کرنا۔ دونوں ہتھیلیوں کا دے
کو لنگر گولی بنانی۔ بیچنا یا مول لینا
چشمہ کو لکڑی وغیرہ سے کھودنا
تا کہ پانی نکلے۔ جماع کرنا عورت سے
بوکاء پریشان ہونا کام کا۔
پریشان ہونا عقل کا کہ کوئی طرح نہ سوجھے
بوکا (صنفس) پریشانی کا۔
بول (صنس) پیشاب۔ ابوال جمع
لڑکا۔ عدد بسیار۔
بول (صنس) (ن) پیشاب کرنا
نکلنا۔ پانی وغیرہ کا جاری ہونا
بولہ (صنف) بیٹی۔

بوزینہ (صنف) بہت ہنسا کرنیوالا۔
بولس (صنف) ایک قید خانہ ہے
جہنم میں خدا بچاوے۔
بولع (صنف) بہت کھانے والا۔
بوم (صنس) بومہ (صنسف) الّو
دونوں میں مذکر و مونث برابر ہے۔
بون (صنس) فضیلت زیادتی
فضل میں زیادہ نکلنا۔
بون (صنس) مسافت درمیان
چیزوں کے۔ بون (صنس) بیون (صنف)
جمع بوان (صنس)
بونہ (صنف) بیٹی چھوٹی عمر کی۔
بووح (صنفس) جو بھید چھپا سکے
بووح (صنفس) متغیر ہو جانا۔
بووح (صنس) بوح دہ بوحہ (صنسف)
بھید ظاہر کر دینا۔
بوو (صنفس) بیزان (صنس)
جمع باز (صنس) کی۔
بووق (صنفس) (ن) کسی کو
سختی اور بلا کا پہنچنا۔
بووک (صنفس) اونٹ کا موٹا ہونا۔
بوہ (صنس) لعنت۔
بوہ (صنس) (ن) عورت سے جماع

اور دونوں خوشبودار ہوتے ہیں ـ
بہرۃ (ضسف) زمین فراخ سواد کی
وغیرہ اشیاء کا بیچ ـ
بہرج (سف) باطل ـ چھوٹ اپنی چیز
میں کی خراب ـ مباح ـ مدعی ہدا نیچ ـ
بہرجۃ (سفف) باطل اور رائگان
کر دینا خون کا ـ کسی چیز کو محصول
لینے والے کے خوف سے اوس
راہ سے لانا کہ جاری نہ ہو ـ
بہرم (ضسف) کسم ـ مہندی ـ
بہرمان (فسففس) گل معصفر یعنی
کسم کا پھول ـ
بہرمۃ (فسفف) شگوفہ ـ برہمنان
ہند کی عبادت ـ سرخ رنگنا ڈاڑھی
کو حنا سے خضاب کرنا ـ
بہز (فس) (ف) ہانکنا کسی کو اپنی
سے ملکی ی رفع کرنا ـ دونوں
ہاتھ کسی کے سینے پر مارنا ـ غلبہ کرنا ـ
بہزر (ضسف) عقلمند ـ مضبوط عقل کا
بہزرۃ (ضسفف) بڑی اونٹنی
کھجور کا درخت لمبا یا اتنا لمبا کہ
اوسکا پھل ہاتھ سے نہ توڑ سکیں ـ
بہازر (فغسک) جمع ـ

بہش (فس) دلیری ـ
بہس (فس) (ف) دلیری کرنی ـ
بہش (فس) کو گل تر ـ مرد ہشار
بشاشس (فغس)
بہش (فس) (ف) تفتیش کرنی
جبکہ محض صلہ ہو ـ شاد ہونا ـ آرزومند
ہونا ـ ایک چیز کا قصد کرنا اور نہ لینا
ایک چیز کے قصد میں اوسکی طرف
دوڑنا ـ گریہ کی طرف آمادہ ہونا ـ
ایک چیز کی طرف لینے کے لیئے
ہاتھ لبا کرنا ـ اکٹھا ہونا ـ
بہصش (فف) تشنگی ـ
بہصل (ضسف) ہر دو پرکار سیم سفید
بہصلۃ (ضسففہ) ٹھنگنی عورت
بہت سپید رنگ کی ـ عورت نے شرم
بہت فریاد کرنیوالی ـ
بہصلۃ (فسفف) بدن سے کپڑے
اوتارے کے جو میں بار دینے سے ہڈی
کی طرف سے گوشت جدا کر کے
کھانا ـ خارج کر دینا ـ
بہصم (ضسفض) بہت سخت ـ
بہصوصل (ضسعض) کچھ ـ
بہص (فس) (ف) کام کا بھاری

ماده
بہج
بہجج
بہجر
بہجم
بہجن
بہس
بہش
بہص
543
بہصل
بہصم
بہصص
12


ع

بہ بہ (فسف) یہہ ایک کلمہ ہے کہ
بوقت فرح لیے تعریف کے یا دستوں
کو جب ایک چیز عظیم جانیں بولتے ہیں
بہجت (فسفف) بہ بہ کہنا بلند
آواز کرنی اوقت کی
بہہی (فسفکت) استاد و بزرگ
بہت (فس) ایک پتھر ہے
بہت (فس) (ف) دروغ بندی کرنی
بہتان یا بہتانی غالب ہونا حیران ہونا
بہت (فس) (س ن ک) عاجز
ہونا متحیر رہ جانا
بہت (فف) (ف) دروغ بندی کرنی
بہت (فف) جھوٹ
بہتان (فسفس) جھوٹ افترا
دروغ بندی کرنی
بہتر (فسفض) ٹھگنا مرد بیمار
جمع بہترہ (فسفف) ٹھگنی عورت
بہترہ (فسفف) جھوٹ
بہش (فس) (ف) کشادہ روئی
سے پیش آنا
بہشتہ (فسف) جنگلی گائے
بہج (فس) شادمان
بہج (فس) خوش خلق شادمان ہونا

بہج (فس) (ف) مسرور کرنا
بہجہ (فسف) خوبی اور حسن
خوشی اور شادمانی
بہجہ (فسف) (س) شادمان ہونا
خوب اور اچھا ہونا
بہدری (فسفکت) بچہ دودھ کا
مارا ہوا کہ جوانی نہیں پکڑتا
بہدل (فسف) بچہ کا بچہ ایک
جانور ہے سبز رنگ کا
بہدلہ (فسفف) کلان پستان ہونا
تیزی اور جلدی کسی رفتار میں
بہر (فس) دولتمندی بعدی دوری
خم بلا کی نگونساری بہتان تہمت
تکلیف جسکی طاقت نہو تعجب
پڑی روشنی تعلیم
بہر (فس) (ف) روشن ہونا خوشنما
دکھائی دینا غلبہ کرنا بڑھ جانا اور
اپنے یاروں سے فضل میں آگے
نکلنا سانس چڑھ آنی
بہر (فس) زمین فراخ وادی
بیچ شہر کا بیچ
بہرامج (فسفف) بید مشک
اور یہہ دو طرح کا ہوتا ہے سبز اور سرخ

مادہ

گیاہ ہوا ان جبنا ہنا سینگ کے ہبوب لسے
بہمی (صنسف) ایک گھاس مشابہ بنا
جو کے ہبہات (فسفس) ایکسا واحد
اور جمع یکسان ہے اور الف اسکا تانیث
کے لیے آتا ہی پس واسطے تنوین نہین آتی
بہش (رف) (رس) شادان ہونا۔
بہنانہ (سفسف) عورت خوشبو
خوش گفتار نرم گفتار خوش کردار
عورت سبک روح ہنسنے والی عورت
بہنانات (فسفس) جمع
بہنس (فسف) جاری ملد ...
اونٹ تابعدار مطیع ۔
بہنسر (فسفف) مٹک کر چلنا
شیر کی چال چلنا۔
بہو (فس) گھر کے آگے کشادہ مکان
اور گھر زمین فراخ ہر چیز فراخ ۔
اور جنگل۔ ابہا (فسفسم) بہو
بہی (فسکت) جمع۔ جوف سینہ کشادگی
دو پستان اور تمام سینہ کے درمیان
کی استراحت کی جگہ بچے کی بیٹھک
مین۔ ابہاء (فسفسم) ابہ (فسک)
بہی (فسکت) بہی (فسکت) جمع۔
بہو (فس) (رف) گھر کا خالی ہونا۔

بہو (فسفت) (رن) خوبی اور
حسن مین غالب آنا۔
بہوت (فسس) بہت جھوٹ گھڑنے
والا بہت (فس) بہوت (فسفس) جمع
بہور (فسف) شیر۔
بہور (فسفس) (رف) روشن ہونا
خوشنما دکھائی دینا غلبہ کرنا۔
بہوغ (فسفس) سوجانا۔
بہونیتہ (فسفکف) دو غلا اونٹ
کراعی اور عربی کے درمیان کا۔
بہی (رف) (رس) خالی ہونا گھر کا
بہیتہ (فکسف) جھوٹ۔ وہ جھوٹ
کہ جس سے حیرت آوے۔
بہیج (فکس) خوبصورت۔ بشاش
بہیر (فکس) عورت بڑے سرین
کی جسے چلنے مین سانس چڑھ جاوے
وہ مرد جسکی سانس پھولتی ہو۔
بہیرہ (فکسف) عورت سست
عورت شریف آزادی کی۔ عورت
بڑے بھے مہر والی۔
بہیصل (فسک) انگھا
بہیلہ (فکسف) بڑی مہر والی عورت
بہیم (فکس) سیاہ۔ اندھیرا مجہول

۱۲

[illegible]

بہنا (صفت) بہی [illegible] کسی
بہیطا (صفت) ایک قسم [illegible]
[illegible] کے ساتھ [illegible]
بہن ہندی دودھ بہیتا —
بہیطا (فس) (ف) یعنی [illegible]
کسی کی [illegible] اور [illegible]
بہق (فت) ایک بیماری ہے کہ [illegible]
جلد پر داغ ہو جاتے ہیں سوا [illegible] ایک
بیماری [illegible] بہق ابیض
گھاس [illegible]
بہق [illegible] بیماری بہق میں [illegible]
بہق (فس) (ف) بیماری بہق
میں مبتلا ہونا —
بہکتہ (فسغف) کام میں جلدی کرنی
بہکل (فسنف) جوان پر گوشت
تازہ [illegible] بہکلہ (فسغف) [illegible]
[illegible] بہکلح بولتے ہیں
بہکش (فسنف) یعنی بہکل [illegible]
بہاکن (فسنک) جمع —
بہکنتہ (فسغف) یعنی بہکلہ (فسغف)
بہل (فس) آسان — مال قلیل
نفرین اور لعنت —
بہل (فس) (س) الپستان [illegible]

چھوڑ کر اونٹ کے بچے کو چھوڑ دینا —
بہل (فس) (ف) کسی کو اس کی مراد پر
چھوڑ دینا بہلا آہستہ باش —
لعنت کرنی —
بہلتہ (فسغف) لعنت و نفرین
بہلق (فسنف) یعنی دبلا
بہلق (فسنک) عورت بہت سرخ [illegible]
بہت بولنے والی بیوقوف [illegible] آواز و
فریاد کرنے والا [illegible]
بہلقہ (فسغف) [illegible]
[illegible] بات [illegible]
بہلول (فسغس) [illegible]
[illegible] طرح کی [illegible]
بہمتہ (فسغف) [illegible] بچے [illegible]
کا بچہ بھیڑ کا بچہ گائے کا بچہ — بہم (فس)
بہام (فسغج) بہامات (فسغس) جمع الجمع
بہمتہ (فکغف) زمین جس میں بہی گھاس ہو
بہمتہ (فسغف) مشکل کام [illegible]
کسی کا قابو نہ چلے [illegible] لشکر
بہم (فسغف) جمع —
بہمن (فسنف) ایک [illegible] کی جڑ
ہے مولی کے مشابہ [illegible] اکثر
[illegible] ہوتی ہے اور دو قسم کی ہوتی ہے

آسمان میں کعبہ کے مقابل

بیت الحرام خانہ خدا عز وجل

بیت العتیق کعبہ اس لیے کہ وہ

پہلا گھر ہے جو زمین میں وضع کیا گیا ہے

یا غرق ہونے سے یا جباروں کے ہاتھ

سے آزاد کیا گیا ہے یا اس لیے کہ

کوئی آدمی اس کا مالک نہیں [illegible]

بیت باہ خالی گھر جس میں کچھ نہ ہو

بیتہ (کف) گھر کی رونق و زینت

بیتہ (کسف) شب گذاری

بات کا آرد [illegible]

بحیث (فش) متفرق ہو یا [illegible]

بیث دو [illegible]

بیجاذق (فسف) بیجادہ کا معرب

بیجان (فسفس) بمعنی [illegible] جو

کہ اپنے بھید کو ظاہر کرے

بیجان [illegible] بیجان (فسفس)

بید (فس) بمعنی غیر اور علی من اجل

بید آر (فسفسم) بیابان بیدرس

جمع برخلاف قیاس ہے بحسب قیاس

بیدادات (فسفس) جمع

بیدانہ (فسفسف) جنگلی گدھی

یا وحشی گدھی کا بچہ بیدانات (فسفس) جمع

بیذخ (فسف) موٹی عورت

بیذخ (فسف) عورت مشہور

بدون الف و لام کے مستعمل ہے

بیذحہ (فسفف) موٹی عورت [illegible]

بیذر (فسف) کھلیان کھلیاں

[illegible] کھلیان بیدری

بیذرۃ (فسفف) ڈھیر

غلہ یا گندم وغیرہ کو

بیذر (فس) بیذارہ (فسفف)

بہت بکنے والا [illegible]

بیذخ (فسف) عورت موٹی

بیذری (فسفسف) بمعنی بیدار

بیذق (فسف) شطرنج کا پیادہ

بیادہ پیادہ شطرنج کا بیاذق

(فسک) جمع

بیذمان (فسفس) [illegible]

بیر (کس) کنواں [illegible]

بے آباد (کس) آباد (کس)

[illegible] (فس) آبار (مس) [illegible]

بیر یاعتیہ کنواں جسکا منہ فراخ ہو

بیر یاتعہ چاہ پر آب [illegible]

کنواں جسمیں پانی کم ہو

بیرۃ (کسف) ذخیرہ

مادہ

بیت

بیت

[illegible]

[illegible]

بیذ

بیذر

بیذق

یہ ہیرا اپنا محاورہ ہے خالص
ت سے علاوہ سنگھو پڑا ایک کہ کوئی رنگ
نہ ہیرا اور سیاہ رنگ کے مخالف ہو
مگر ہیونت یکسان ہے کالی
بابری سننے گنگری کی آواز
بہیمتہ رکسفف چوپایہ اگرچہ آبی
یا بری جانداروں سے انہار ـ
بیہس رفسفف شیر ـ
بیئی رفت کمینہ مرد یا جی
بیئی رفت رض بحر کے مشابہ ہونا اور لی
بیاب رفتس سقا جو کہ جنگ میں پانی پہچے
بیات رفتس شبخون ـ
بیات رفتس بیتوتہ رفسفف
یا رمض شب گذارنی رات گذارنا ـ
بیاح رفتفس ایک قسم کی مچھلی
بیاحتہ رفتسف مچھلی پکڑنے
والون کا جال ـ
بیاس رفسف نہایت ولاور مرد
شیر سخت عذاب بیاس بو
بیاض رفتس سفیدی ـ
بیاض البیض انڈے کی سپیدیا
بیاضتہ رفتسف سپیدی
بیاع رفتفس معامل کرنیوالا ولالا

بیاتمہ رفسسف بیچنے کی چیز ـ
بیاتمات رفسفس جمع ـ
بیان رفتس فصاحت زبان آوری
ظاہر ہونا آشکار ہونا ـ
بیب رکس بدررو حوض کے
پانی کا رستہ
بیان رکسفس جمع بابیاغیو روا
بیت رفس گھر ابیات رفسفس
بیوت رضفس جمع ـ ابانیت رزر
بیوتات رضسفس ابیاوات رفسفس
جمع الجمع بیت رضفس ابیت رسا
تصغیر بیت رفس اور عوام جو بوت
رفتفس تصغیر کہتے ہیں غلط ہے
بزرگی بزرگ جدو خصم ہونا قصر
چھتا کنبہ مرد کے گھر کے لوگ سقا
کعبہ زادہا اللہ شرفا قبر گھر کا فرش اور
بولتے ہیں فلان حاجی بیت کیت
یعنی وہ میرا ہمسایہ ہے شعر کے دو مصرع
بیت رفس ، بتات رفتس ،
بیتوتہ رفسضف رض س
رات کو ایک کام کرنے لگنا بولتے
ہیں بات یفعل کذا ـ
بیت المعمور ایک گھر ہے جو ساتھ

کرتی کا سپیدی میں مائل آنا
خشک ہونا عود کا ۔ اقامت کرنی
مکان میں ۔ رسنا بھی گھاس کا
اپنا نعال گراتا اور وہ ایک جال
سی ہوتی ہی کہ اوسکے بیچ ظاہر
ہوتی ہی بعد پھر گر جاتی ہی ۔

**بیض** (کس) جمع ابیض (فتحہ)
**بیضۃ** (کسف) ایام بیض روشن
راتیں یعنی تیرہویں چودھویں پندرہویں
**بیضا** (فسغسم) بلا ہجتی سگندم
سجو نازونے پرست آفتاب بند کیں
ویران سنگ صیاد کا دام ۔

**بیضۃ** (مسف) انڈا ۔ بیض گس
**بیوض** (مغنس) بیضات (فنح جمع)
ہر چیز کا بیچ گھر کا بیچ شہر کا بیچ ۔
**بیضۃ النہار** دن کی سپیدی ۔
**بیضۃ البلد** تخم شتر مرغ اسی
سے مثل ہوا اذل من بیضۃ البلد
یعنی وہ ذلیل تر ہی شتر مرغ کے
انڈے سے ۔ سردار شہر کہ لوگ
اوسکے پاس آکر اکٹھے ہوویں اور
اوسکی بات کو مانیں ۔ لغات اضداد
سے ہی ۔ ایک قسم کی کھمبی ۔ بیضۃ

العقر جو مرغ انڈا کہ سال بھر میں
ایک دفعہ دیتا ہی ۔
**بیضۃ الخدر** پردہ نشین دختر
**بیضۃ** (کسف) زمین سپید و بجواد
ایک رنگ ہی خرما کے رنگوں میں سے ۔
**بیطار** (فتعس) یعنی بیطر (فسف)
**بیطر** (فسف) چوپایوں کا معالج ۔
**بیطر** (فض) درزی ۔ بیطار
**بیطرۃ** (فسفف) بیطاری کا کسب ۔
**بیظر** (فس) منی مرد کی ۔ بچہ دان
منی عورت کی منی جاندار کی ۔
**بینظر** (فس) الرحم یعنی رحم میں منی کی
**بیظر** (فسف) عورت کی فرج کے
درمیان دو لب کا ابھار ۔ یا بیظر
لونڈی کے حق میں گالی ہے ۔
**بیع** (فسک) بیچنے والا ۔ خریدنے
والا ۔ قیمت کرنیوالا ۔ بیاع (ففف)
ابیاع (فسفس) جمع گھوڑا کشادہ قدم
**بیع** (فس) بیعۃ (فسف) خریدنا
بیچنا لغات اضداد سے ہی جھلی
گھانی سطر بائی ۔
**بیعان** (فسفس) الدلالۃ جمعی
بائع اور مشتری یعنی بیچنے والا خریدنے والا

[illegible]
[illegible] گیا پھر سلائی سنگ [illegible]
[illegible] کھا سیسہ ۔
[illegible] پیوز (شفس) رش
[illegible] رستا ۔ ہاتھی یا
[illegible] لڑکی [illegible]
[illegible] دو مفتوح ہیں باز دار اور
[illegible] معرب ہے پیازۂ فنک کا
[illegible] (صنعت) سختی نیز رہ
[illegible] (صنعت) ہیولی لکڑی جس
[illegible] کی گری کرتے ہیں پیازۂ
[illegible] (صنعت) اولاد ہاتھ کی
[illegible] ہم پیاز رفنک کا
[illegible] (س) اگوں ہو کر نیز رستگی
[illegible] ہنسی اور ازار دینا اور غلہ
[illegible] ساتھ ملا کے آٹا ہے ۔
[illegible] (س) ہلا ۔ نبات بعکس
[illegible] سخت سے مذاب پس سے بچی ہیں
[illegible] (س) بڑا کلہ و مرکہ
[illegible] (صنعت) ایک کپڑے
[illegible] کہ جو قت زم اور سچے
[illegible] سخت ہے ہیں
[illegible] (س) ایک [illegible] ہے

[illegible] ہوتی ہیں
[illegible] زہر قاتل ہوتا ہے تریاق اوسکا سماری
کا گوشت ہے اور سماری ایک پرند
ہے کہ مثل کھانا ہوتا نہیں ۔
فستاچ رکی (صنعت) اخواتھ اور
ملتا جیمی مثل اسہل و مجمر
کے مکھا جہان سے آگے [illegible] طعام
سے پہلے پستارہ کا معرب ہے
پستاد جات فستفس [illegible] اور بھی
اسکو فستاچ بھی کہتے ہیں ۔
بعض (س) سختی و تنگی جیم [illegible]
اس معنی میں دونوں کے ساتھ
بولتے ہیں بفتح اولین و آخرین و بکسر
اولین و بفتح آخرین و بفتح اولین و بکسر
آخرین اور بولتے ہیں [illegible]
[illegible] حیص و بیص دیکھا بیٹھا یعنے
تنگ کیا تم نے اوسے زمین کو
گویا پیاسا تنگ تم نے اوسکو تنگ کیا
[illegible] عاجز آگیا ۔
[illegible] (س) گھوڑے کے ناک
کی سوجن یا بچھوں [illegible]
[illegible] (س) گھوڑے کا
ہاتھ سوج جانا اور یا سخت [illegible]

علامات اعراب ضمہ فتحہ کسرہ ... تشدید ... مادہ

ابینا ... [illegible]

بینا ... [illegible] ... ہونا

بنشتہ ... [illegible] ... اور دریافت کرنا

[illegible]

بَیعَۃ (بفتح) عہد و پیمان —

بِیعَۃ (بکسر) کلیسائے ترسایان —

بِیَع (بکسر) بیعتیں —

بَیغ (بفتح) (مص) خون کا جوش مین آنا۔ ہلاک ہونا —

بَیق (بفتح) (بوق) (مص) سختی اور تکلیف پہنچی —

بَیقَۃ (بفتح) ایک دانہ سبز [illegible] اوجھی مدح کھاتے ہین اور اسکو بیلوں کو دیتے ہین کہ جس سے موٹے ہوجاتے ہین —

بَیقَر (بفتح) حیوان لا [illegible] —

بَیقُران (بفتحتین) ایک گھاس

بَیقَران (بفتحتین) مال و متاع کی کثرت۔ ہلاک ہوجانا۔ فاسد کردینا۔ لنگڑا کر چلنا۔ عاجز ہوجانا۔ تھک جانا۔ کسی چیز مین شک کرنا۔ مرنا۔ قوم کو جنگل مین چھوڑ کر آپ شہر مین مقیم ہونا۔ ایسی جگہ جانا کہ خبر نہ معلوم ہو۔ سر ہلاتے ہوئے جلدی چلنا۔ مال کے جمع کرنے پر حریص ہونا۔ [illegible] لوگونکو دینا۔ شام سے عراق مین جانا۔ ایک زمین سے دوسری زمین کیطرف ہجرت کر جانی۔ گھر مین فروکش ہونا۔ ہاتھ اٹھانا گھوڑے کا۔ گائے کے [illegible] تعجب کرنا گھوڑے کا۔

بَیقَتی (بکسر) ایک نباتی چیز سے لبنی کھیتوں مین اگتی ہے

بَیلَۃ (بفتح) خناس —

بَیلَم (بفتح) [illegible] گھاس کی بوئی [illegible] کا۔ روئی کا [illegible] کا بچہ۔ بیالم (بفتح) جمع

بَین (بفتح) جدائی۔ پیوستگی لغات اضداد سے ہے۔ دوری۔ نزدیکی —

بَین (بفتح) (مص) جدا ہونا۔ پیوستہ ہونا۔ لغات اضداد سے ہے۔ فصل مین [illegible] نکلنا۔ عورت کا خاوند طلاق کے سبب جدا ہونا۔ پیدا ہوجانا

بِین (بکسر) کنارہ۔ حد فاصل درمیان دو زمین کے۔ مسافت مقدار مد بصر۔ بلندی ایسی زمین کی کہ ساتھ ریت اور مٹی اور پتھر کے ملی ہوئی ہو۔ بیون (بضم) جمع بین (بکسر) —

بَیِّن (بتشدید) ظاہر و آشکار۔ [illegible] (بفتح) بیّنۃ (بکسر) جمع [illegible]

[illegible]

علامت تانیث نہیں جیسا کہ [illegible]
[illegible]
ہوتی ہے اور [illegible] کے ساتھ [illegible]
[illegible] آتی ہے [illegible] جیسا
تا [illegible] اسم اشارہ مونث [illegible]
کہ [illegible] اسم اشارہ مذکر [illegible]
[illegible]
[illegible] مونث کے لیے [illegible]
[illegible] آتی ہے [illegible]
[illegible] جیسا [illegible]
[illegible]
خطاب [illegible]
اور [illegible]
لغت [illegible] ہے اور [illegible] کے لیے
تاک اور جمع اولئک [illegible]
اور [illegible] کاف خطاب [illegible]
خطاب کے لیے [illegible]
مذکر اور مونث اور [illegible] جمع میں
[illegible] کاف اشارہ کے لیے
[illegible]
تاکہ [illegible] حاصل ہوتی ہے جیسا
[illegible]
[illegible]

[illegible]
تاب [illegible]
[illegible]
تاب [illegible]
تاب [illegible]
[illegible]
تا [illegible]
تا [illegible]
تا [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
اور [illegible]
تا [illegible]
یعنی [illegible] اصلاح [illegible] قبول [illegible]
تا [illegible]
تا [illegible] اور [illegible]
[illegible]
[illegible] سے بندھا ہوا [illegible]
[illegible]
تا [illegible]

# باب التاء المثناة الفوقانیۃ

[illegible]

جوڑ میں آتا ہے اور ربّی وغیرہ میں
اور بامسکرولہ میں ہر ادیتا متحرک
اور اسمار میں وحرف خطاب
جیسا انتَ اور انتِ اور علامت تانیث
بھی ہوتی ہے جیسا قائمۃ

جل شانہ میں ... ہوا ...
ماضی میں جو تا مفتوحہ ہے ...
خطاب مذکر کے لیے اور مکسورہ
خطاب مونث کے لیے اور مضمومہ
حکایت متکلم کے لیے اور ساکنہ

کام تمام کرنا۔ اور دشمن کو موٹا کرنا

تابین المیت مردہ کی ثنا کرنی

تا [illegible] کسی کا [illegible]

عیب بیان کرنا [illegible]

اور دشمن کے عیوب [illegible] کہنا

جانا [illegible] اوسکی [illegible]

لینا۔ ایک چیز [illegible]

جانا۔ ایک چیز کا اقتضا کرنا۔

تا [illegible] کسی کو [illegible] کرنا

[illegible] محبت کرنی

تا [illegible] وہ [illegible]

[illegible] سے [illegible]

تا [illegible] تا [illegible]

[illegible] لئے میں [illegible]

[illegible] سے [illegible]

[illegible] جیسے تاتا

بالتلبیس و نیز تا [illegible] آواز کی

نقل کرنی سچے کا چلنا لڑائی میں

ناز سے چلنا

تا [illegible] آواز کہ [illegible]

ہونا سخت ہونا کمان کا [illegible]

[illegible] تون [illegible]

سے نکال لانا یعنی اوسے [illegible]

تا [illegible] بمعنی [illegible] و [illegible]

[illegible] ہونا [illegible]

تا [illegible] کام کا [illegible]

[illegible] جیسے تا [illegible] الامر کسی

[illegible] عدد [illegible]

تا [illegible] ایک چیز [illegible] اس طرح

آنا کہ اوسکو حاصل ہووے [illegible]

ہونا غلط اسکا لازمی

تا [illegible] کسی کے [illegible] کا اثر

کیا جانا مجہولاً مستعمل ہے کسی

کو اثر پہنچانا

تا [illegible] تا [illegible]

[illegible] کرنا

تا [illegible] کا [illegible]

تا [illegible] بمعنی [illegible]

تا [illegible] ایک چیز کا آنا

[illegible] کسی کا متاع خانہ [illegible] ہونا

مال و متاع [illegible]

تا [illegible] اثر سے [illegible]

تا [illegible] [illegible] کرنا

تا [illegible] کسی کے ساتھ [illegible]

کرنی [illegible] کسی کی [illegible] کرنی کسی

[illegible] کرنا کسی کو [illegible]

585

[illegible]

[illegible]

معلوم اسکا سبب ہے

یا بنی فلان فلانا [illegible]

[illegible]

مہلت دینی - دو مگر دن کی دعا کرتی ع
تاہموار ہی بالیں سے ہو جاوے بعد
کرنا - روکنا - تالاب میں پانی جمع کرنا -
تاحمم (فسک) اچھا لاہے -
تاحی (کفسک) باغبان -
تاخید (فسکس) ہو کو ایک کرنا اور ایک
العشرہ - یعنے دس کو گیارہ کر -
تاخ (فست) ہدے اشتباہ جسے
بھوک نہو جیسے اصبح تاخا -
تاخر (فقتفض) درنگ کرنی دیر
لگانی - تیچھے رہجانا -
تاخی (فقفسک) دو گروہ کا آپس
میں برادری کرنا -
تاخی (فسک) بھائی ہونا کسی کو
بھائی بنا لینا کسی کو بھائی کہنا ایک
چیز کا قصد کرنا اور اوسکا راہ صواب
و درست ڈھونڈھنا -
تاخیہ (فسکن) چوپایہ سکے لیے
آخیہ (کف) بنانا -
تاخید (فسکس) وعدہ کو ترش کرنا
عورت کا اپنے شوہر کو افسون سے
بند کرنا تاکہ اور عورتوں سکے پاس
نجاوے جیسے اخذت زوجہا -

تاخیر (فسکس) تیچھے چھوڑ دینا
تیچھے رہ جانا -
تادب (فقفض) ادب سیکھنا -
تادد (فقفض) ایک چیز میں سختی کرنی
تادی (فقفسک) دفع حادثہ زمانہ
کے لیے کسی کے اوزار اور اسباب
تادی (فسک) بمعنی تادی (فقفسک)
تادی (فقفسک) پہنچا دینا ادا کر دینا
جیسے تادیت الیہ من حقہ پہنچایا
جیسے تادی الیہ الخبر -
تادیب (فسکس) ادب سکھانا -
تادیہ (فسکف) پہنچا دینا امانت
اور قرض کو ادا کر دینا - ادا ہو (فسم)
اس سے اسم مصدر ہے -
تادیم (فسکس) روٹی کو سالن کے
ساتھ بہت ملانا -
تاذن (فقفض) قسم کھانی کہ کام
کرنا - امیر کا لوگوں میں تہدید کے
ساتھ منادی کرنا
تاذی (فقفسک) رنج کھینچنا آزردہ
ہونا جیسے تاذی بہ -
تاذین (فسکس) اذان یعنی بہت اعلان
کرنا کسی کا کان ملنا اور اسکو بانی

مادہ | علامات اعراب فتحہ کسرہ ضمہ سکون تشدید

اثم
اثث
اثر
اثف
اثل
اجج
اجر
اجل
اجم

تأثم (تفعّل) جرم پکڑنی اور ظلم [illegible] کرنا [illegible] لیا [illegible] مال کو جمع کرنا [illegible] ایک چیز کا جڑ [illegible] جمع کرنا —

تأثّم (تفعّل) گناہ سے توبہ کرنی اور اوس [illegible] سے [illegible] گناہ [illegible] میں [illegible] رکھنا —

تأثیث (تفعیل) ایک چیز کو اسباب اور بہت مال اور [illegible] کر لینا —

تأثیر (تفعیل) اثر و نشان کسی میں [illegible] کرنا [illegible] کا [illegible] اثر کرنا

تأثیف (تفعیل) ہانڈی کو [illegible] کو [illegible] —

تأثیل (تفعیل) کسی کو یا اصل [illegible] اور مقرر کرنا [illegible] مال کی زکوۃ دینی اور اوسکو اصل قرار دینا یعنی اوسکو اپنی پونجی اور بضاعت بنا لینی [illegible] مال جمع کرنا — ملک کو زیادہ کرنا [illegible] اپنے گھر کے لوگوں کا اچھا لباس پہننا اور اونکے ساتھ بھلائی کرنی بہت مالدار ہو جانا —

تأثیم (تفعیل) کسی کو کہنا کہ تو نے گناہ کیا — گناہ ایسا کام کرنا کہ حلال اور جائز نہیں ہے —

تأجّج (تفعّل) آگ [illegible] دہواں کے لیے [illegible] اور [illegible] جلتا ہے [illegible]

تأجّج النہار (دن سخت گرم ہوا) [illegible] لفظ زیادت [illegible] ہے اصل میں تأجج تھا ادغام کر لیا —

تأجیج (تفعیل) آگ کی [illegible] کا [illegible] بھڑکانا [illegible] سخت گرم ہونا

تأجیر (تفعیل) مزدور [illegible] اپنے والا [illegible] کا [illegible] جسکا [illegible] کوئی

تأجرة (تفعّل) [illegible] جسکا [illegible] کوئی خریدار ہو [illegible] گھوڑا —

تأجّل (تفعّل) [illegible] مانگنا [illegible] گلہ کا [illegible] پیچھے رہجانا اور توقف کرنا قوم کا گلوں سے جمع ہو آنا یا پانی کا [illegible] میں جمع ہو آنا —

تأجّم (تفعّل) [illegible] کرنا [illegible] آگ کی [illegible] کا [illegible] دن کا بہت گرم ہونا [illegible] شیشہ میں [illegible] ہونا —

تأجیم (تفعیل) آگ کو [illegible] کرنا —

تأجیل (تفعیل) [illegible] مدت معین کرنی

علامات اعراب ضمہ فتحہ کسرہ پیش زبر زیر سکون تشدید

تَحْرِیش (تفعیل) آگ کو بھڑکانا۔ قوم کے درمیان بدی اور جنگ کو برانگیختہ کرنا۔

تَحْرِیص (تفعیل) گیاہ تاکہ زمین چراتا اور اوسکو طلب کرنا۔ دوزہ کی نیت کرنی۔ سعد کے لیئے آمادہ ہونا۔ کلام کو آراستہ کرنا۔ وزن میں نگراں کرنا۔ اصلاح کرنی کسی کو کسی کے کا حکم کرنا۔ مشکٹ میں یا لی یا دھڑ یا زرب چلانا اسکو کی اصلاح کرنے کے لیئے۔

تَحْرِیط (تفعیل) زمین کا حصہ اطلی نکال لانا صاحب قاموس کے نزدیک یہ استعمال غلط ہے اس معنی میں اِرْاط مستعمل ہوتا ہے۔

تَحْرِیف (تفعیل) زمین کے لیئے حد گردانی جانی اور اوسکا قسمت کیا جانا مجہولاً مستعمل ہے جیسے اُرِّفَت۔ عَلَی الْاَرْض۔ تاریف الحبل رسی کی گرہ باندھنی۔

تَحْرِیق (تفعیل) ہیضہ اراق کا...

تَحْرِیک (تفعیل) محلہ کو اکیلے آراستہ کرنا اور چوہا لگانا۔

تَحْرِیشُن (تفعل) زخم کا بھرا آنا یا اسمیں ایک بدبو جسے لڑائی میں پاس ہونا۔

تَأَرُّب (تفعل) کالکو اسمیں جمع کر لینا۔

تَأَرُّح (تفعل) توقف کرنا اور ایک کام سے ٹھہرجانا اور پیچھے رہجانا۔

تَأَرُّز (تفعل) اترانا پہنچی سمجھانا اور قوی ہو جانا۔

تَأَرُّش (تفعل) آدمی کا غصہ میں آنا یا جوش میں آنا۔

تَأَرُّف (تفعل) بعض کا بعض سے قریب ہونا اور ملا پاس پاس رکھنا۔

تَأَرُّق (تفعل) الیعن اللیل۔

تَأَرُّج (تفعل) سینہ کا تنگ ہونا غم کے سبب سے۔

تَأَرُّم (تفعل) گھر میں مستکن رہنا۔

تَأَرِّی (تفعّل) ٹھہر جانا جیسے تأرّی عنہ۔ تیر کا شکار میں جا لگنا اور اسمیں حرکت کرنا۔ حوض کے لیئے آثار...

تَأَرِّی (تفعّل) قوم کا اسمیں فرق ہونا یا اپنے خاص حصے میں۔

تَأَزِّی (تفعّل) حوض کے لیئے آثار بنانا۔

تَأْرِیخ (تفعیل) عمارت بنانی اور اوسکو لیپا کرنا۔

ت ا ر
ت ا ر ب
ت ا ر ح
ت ا ر ز
ت ا ر ش
ت ا ر ف
ت ا ر ق
ت ا ر ج
ت ا ر م
ت ا ر ی
ت ا ر ث
ت ا ز ر
ت ا ز ز
ت ا ز ف
ت ا ز ق
ت ا ز ل
ت ا ز م
ت ا ز ی
ت ا ن ی

سے ہٹا دینا کسی کو [illegible]
اجازت دینی جو تی وغیرہ [illegible]
تا [illegible] نسبت اور مسافر یعنی [illegible] الوطن
[illegible] وغیرہ سے [illegible]
[illegible] گوشت [illegible]
تا [illegible] آواز لگانی [illegible] اشیا —
تا [illegible] (تفعّل) بتکلف [illegible]
[illegible] کرنا سختی کرنی —
تا [illegible] (تفعّل) ایکبار [illegible] اسکا [illegible]
استعمال سے [illegible]
تا [illegible] (تفعّل) انگور کا [illegible] —
تا [illegible] (تفعّل) [illegible]
[illegible] (تفاعل) [illegible] —
تارس (تفعّل) [illegible] پیر —
تارش (تفعّل) انگور [illegible] سفید [illegible]
تارض (تفعّل) متعرض ہونا —
زمین کو لازم پکڑنا — تاخیر کرنی
گھاس کا [illegible] لینا کہ اوسکا
کاٹنا ممکن ہو —
تاری (تفعّل) پیچھے رہجانا [illegible]
تاری [illegible] مکان میں اقامت کرنی
اور [illegible] ہو جانا [illegible]
یا [illegible] کا شہد بنانا

[illegible] تاریخ (تفعّل) ایک چیز کا حال [illegible]
[illegible] جواب [illegible]
تاریب (تفعیل) مضبوط کرنا —
[illegible] کامل [illegible]
کرنا ایک چیز [illegible]
تارجیح (تفعیل) [illegible] کے [illegible]
[illegible] چیز کو [illegible]
آگ کو [illegible] مشتعل کردینا —
یا آگ کے لیئے آتشدان بنانا [illegible]
امر کو پوشیدہ کرنا اور [illegible] ظاہر [illegible]
تاریث (تفعیل) بعض کو بعض [illegible]
[illegible] ڈالنا آگ [illegible]
تاریخ (تفعیل) [illegible] ڈالنا — [illegible]
بنانا [illegible] کا [illegible] اور
وہ ایک دفتر ہے کہ جسمیں حساب [illegible]
دیوانی [illegible] لگتے ہیں —
تاریخ (تفعیل) کتاب کی تاریخ لکھنی
[illegible] کا قول ہے کہ ہر ایک چیز کی تاریخ
اوس چیز کی غایت و نہایت ہے
تاریز (تفعیل) [illegible] کو ثابت کرنا
[illegible] لگتے ہیں —
تاریش (تفعیل) کام اور خدمت
یعنی یکسان ہو جانا —

علامات اعراب جو مستعمل ہوئے ف ض ک س ت م

| مادہ | | |
|---|---|---|
| [illegible] | جیسے تا قح تا یعنی ہمارے | اور بعض کو بعض کے ساتھ حساب کرنا |
| [illegible] | پاس افق سے آیا | تا حصیل (فسکس) مضبوط کرنا |
| [illegible] | تا قل (فتفض) تکبر کرنا | تاطر (فتفض) اپنے آپ کو قید میں |
| [illegible] | تا فتح (فتفض) عیب کرنا یعنی خو | رکھنا سبزہ کا خرم ہونا تا غایشین |
| [illegible] | بکرنی اپنے تئیں تکلف دانا بنانا | رہنا عورت کا کنوار بیٹھا رہنا عورت کا |
| [illegible] | انجام امور کا تجسس کرنا | ماں باپ کے گھر میں ایک مدت تک |
| [illegible] | تا فہ (فسک) حقیر و اندک | تاطر (فسفض) کج ہونا |
| [illegible] | تا فیف (فسکس) آف کہنا | تاظم (فتفض) عفیف ہونا لہروں کا |
| [illegible] | تا فیک (فسکس) جھوٹ کہنا | اونچا ہو جانا اور ایک کا ایک پر چڑھنا |
| [illegible] | تا قیل (فسکس) زیادہ کرنا | بہت تاریک ہونا رات کا |
| ۵۹ | تا قر (فسف) غصہ کی سختی - بڑی کنگر | مین بلی کا آواز کرنا چپ رہنا |
| | تا قطر (فتفض) پیر کی تا تنبہ جانا | کی بات ظاہر کر دینی |
| ۱۱ افف | تا قیت (فسکس) وقت معین کرنا | تاطیر (فسکس) ثابت رکھنا |
| ۱۲ افق | تا کا (فست) لاغر - جو ہلاک ہوگیا | تاخیر (فسکس) غم دینا ہونا |
| ۱۳ افک | ہو - احمق تکلہ (فتفف) تکاک (فتفض) | ہونا تیر پر بیٹھنا |
| ۱۴ افن | تکاک (فتفف) جمع | تاطیم (فسکس) کسی پیٹ سے اٹکنا ہونا |
| ۱۵ لغو | تا کد (فتفض) مضبوط ہوجانا تاکید | تا نعہ (فسف) یکبارگی جمع ہوئی |
| ۱۶ افف | تو کد (فتفض) تاکد (فتفض) ہے | اور سے لاسے ہوئی |
| ۱۷ افک | زیادہ فصیح ہے | تا عس (فسک) تحس صنیع صفت |
| ۱۸ افل | تا کر (فتفض) آگے بڑھنا | تا فہ (فسف) یعنی تو یہ صفت |
| ۱۹ افق | تا کل (فتفض) آپس میں کھانا | تا فر (فسک) یعنی تفر رک |
| ۲۰ افق | کشت و خون کرنا آپس میں | تا قف (فتفض) آگے کرنا |
| ۱۸ انط | تا کید (فسکس) یعنی تاکید | تا فق (فتفض) افق سے آنا |

[illegible] کا شرین سکون تا تشدید میم

[illegible]
تاسیر (بفتحتین) [illegible]
[illegible] (بفتحتین) [illegible]
[illegible]
تاسیم (بفتحتین) [illegible] کرنا [illegible]
[illegible]
تاشجیع (بفتحتین) [illegible] ذکر [illegible]
تاشفی (بفتحتین) [illegible] لکھانا اور
کسی [illegible] ہونا
تاشی (بفتحتین) [illegible] کے [illegible]
تاشین (بفتحتین) [illegible]
اور کسی [illegible] سے [illegible] ہوجانا
پانی کا [illegible] ہوجانا۔ [illegible] کے
مشابہ ہونا۔ [illegible]
تاشیر (بفتحتین) [illegible] کی [illegible] ہونا
[illegible]
تاشعار (بفتحتین) [illegible] مجمع [illegible]
تاشی (بفتحتین) [illegible] کی [illegible]
تاشی (بفتحتین) غمخواری [illegible]
ایک [illegible]
تاشعار (بفتحتین) [illegible] کی [illegible]
[illegible]
تاسید (بفتحتین) [illegible] کرنا

[illegible] الشرنج (بتشدید جیم) سے
[illegible] زمین
تاشس (بفتحتین) [illegible] بنیاد [illegible] علم
حاوی میں ایک کلمہ کا لانا کہ معنی [illegible] کا
افادہ کرے معنی کلمہ اول کے سوا
اور [illegible] تاکید کے مقابل ہوتا ہے
تاسل (بفتحتین) ایک چیز کا دوسری
چیز [illegible] کرنا [illegible] کا [illegible]
[illegible] کرنا
تاشعب (بفتحتین) [illegible] لینا
ملنا تا [illegible] جمع ہوجانا [illegible] کی طرف
منضم [illegible] ہوجانا [illegible]
تاشرن (بفتحتین) [illegible] ہاتھ دھونا
تاشعب (بفتحتین) برانگیختہ کرنا
[illegible] کا لینا
تاشیر (بفتحتین) [illegible] کا [illegible]
کرنا وہ چیز کہ جس سے [illegible] کی
ہے تاشمس [illegible]
تاصقص (بفتحتین) قوم کا مجتمع ہونا
تاصل (بفتحتین) جز مضبوط ہونا
تاصیتہ [illegible] ہونا
تاصید (بفتحتین) [illegible] دینا
تاصیص (بفتحتین) محکم اور سخت کرنا

تاوان کہ ادا کرنا
تاکید (تفعیل) پرستش کو محکم کرنا
تامور (تفعل) صاحب نہ خود
خرما کھلانے والا
تامر (تفعل) مسلط ہونا
تآمر (تفاعل) ایک دوسرے پر حکم
کرنا مشورہ کرنا
تامع (تفعل) اتبع ہو جانا مرد کا
تامک (تفعل) کوہان بلند ہونا
جیسا کہ کوہان ہوا ہو
تامل (تفعل) بعد تاکید کا کام میں
ایک کام سمجھنا کہ انجام اوس کا
معلوم ہو جاوے
تامم (تفعل) امان بنانا کسی کو
کہنا قصد کرنا اسی سے ہے تیمم خاک
کی طرف قصد کرنا وضو کے لیے
تاشور (تفعل) بہتر سجان
حیات دل سوانہ دل عزیز سلطان
کم سن لڑکوں یا لڑکیوں کا کھیل
معمود تماشا یان تماموس سامان
پانی ستی قلیل کسی بعض کو کی
عمدہ جاتی ہیں یعنی اچھا ککل دونا
تاسورہ (تفعل) خوابگاہ شیر

خبرات بچھا گل ہونا ۔ تاسیس (تفعیل) جمع
تاموری (تفعل) تامری (تفعلت)
تو مری (تفعلت) بمعنی مدد یعنی کوئی
مونث و مذکر یکساں ہے جیسے مال اور
تو مری یعنی گھر میں کوئی نہیں ہے
تاموک (تفعل) یعنی تامول یعنی
تامی (تفعل) لونڈی بنا لی
تامست (تفعل) اندازہ کرنا
تامیہ (تفعیل) لونڈی بنا کر دینا
تامید (تفعیل) حد و نہایت بیان کی
تامیر (تفعیل) جمع تو شور
تامیر (تفعیل) امارت دینی تیز کرنا
داغ و نشان دینا مسلط کر دینا
بیرہ میں بچال رکھنی بہت کر دینا
تامیل (تفعیل) امید رکھنی
تامیم (تفعیل) قصد کرنا
تامین (تفعیل) اعتماد کرنا امانت
داری کرنی امانت دار جاننا آمین کہنا
تان (تفعل) نگندہ کا دہاگا
تانانج (تفعل) ارض ، رونا
تانث (تفعل) نرم ہونا
تانس (تفعل) کسی سے آرام
پانا امداد سے کے سبب وحشت جاتی رہی



ج

علامات اعراب جو مستعمل ہوئے ہیں یہ ہیں ف فتح ک کسرہ ض ضمہ س سکون ت تشدید م

تاکید (ف ش ک س) بمعنی توکید (ف ش ک س) لیکن توکید نسبت تاکید (ف ش ک س) زیادہ فصیح ہے۔

تاکید (ف ش ک س) مضبوط کرنا۔

تاکیف (ف ش ک س) پیٹھ پر خرگیر رکھنا یا خرگیر بنانا بمعنی توکیف۔

تاکیل (ف ش ک س) کسی پر ایک چیز کا دعوی کرنا پھلانا۔

تاکیم (ف ش ک س) موٹے سرین کا ہونا سرین کی والدای۔

تآل (ف س ت) گراہ تالنی کمال درختوں کو اسی معنے میں ایک ساتھ بولتے ہیں۔ ۵۹۲

تالش (ف س) کھجور کے درخت کے پودے کہ جنہیں کھود کر اور جگہ لگاتے ہیں یہ اسم جنس ہے تالشہ (ف س ت) اسمیں سے ایک۔

تالان (ف ف س) جو اس طرح پر آہستہ چلے کہ گویا اوسکی پیٹھ پر بوجھ ہے۔

تالب (ف س ت) ایک پہاڑی درخت جسکی لکڑی سے کمان بناتے ہیں یہ اسم جنس ہے۔ تالبہ (ف س ف) اوسمیں سے ایک۔

تالب (ف ف ض) جمع ہونا قوم کا۔

تالد (ف ش ک) بمعنی تلدد (ف ض)۔

تالد (ف ف ض) متحیر ہونا۔

تالس (ف ف ض) دردمند ہونا۔

تالف (ف ف ض) مدارات کرنی۔ دینا تاکہ اپنی طرف مائل کر لے۔ مجتمع ہونا۔ موافق ہو جانا آپسمیں۔

تالق (ف ف ض) بجلی کا چمکنا۔ عورت کا اپنے تئیں زینت دینا یا اوسکا دامن اوٹھانا لڑائی کے سبب لیئے یا اوسکا آمادہ ہونا شر کے لیئے اور مستعد ہونا۔

تالم (ف ف ض) درد پانا۔

تاله (ف ف ض) پرستش کرنی۔ یعنی معبود بنانا۔ عبادت کرنی۔

تاله (ف ش ک) متحیر و سرگشتہ۔

تالی (ف ف ش ک) سوگند کھانی۔

تالی (ف ش ک) پیرو۔ چوتھا گھوڑا گھوڑدوڑ کا۔

تالیت (ف ش ک ف) تقصیر کرنی۔ دیر کرنی۔ تکبر کرنا۔

تالیف (ف ش ک س) جمع کرنا اور موافقت کرا دینی آپسمیں۔ الف کھینچنا۔ ہمسے نیزار کر لینے۔

تالیق (ف ش ک س) تیز کرنا۔ محفوظ کرنا۔

تا اوّل مکسور | اعراب | خلاصہ تشریح

مادہ

نبز علمی والکیموۃ —

تاجید (رفسکس) کج اور خمیدہ ہونا۔

تاویق (رفسکس) طعام کرکرد ینا

منقعت میں ڈالنا۔ روکنا۔ خرابہ

اور ذلیل کرنا۔

تاوِیل (رفسکس) اسی کو کسی کی

طرف پھیر دینا۔ بیان کرنا اس چیز کا

کہ جسکی طرف کلام پھرتا ہو۔ اسی

سے ہے تاویل الرؤیا ... تاوی

ایک مسالہ ہے یعنی خوشبودار۔

تاویم (رفسکس) چار ... کو

اور ... کر دینا پیاسا کرنا ...

تاوش (رفسکس) چارپا ... کو

پیاسا تک کہ پیٹ پھر جاوے۔ آہستہ

چلنا۔ تحمل اختیار کرنا۔

تاویہ (رفسکس) آہ کہنی۔

تاہب (رفقعل) یعنی تاہیب۔

تاہل (رفقعل) بیاہ کرنا۔ با اہل ہونا

تاہید (رفعفل) ابر۔

تاہیب (رفسکس) کام کے لئے

تیاری کرنی۔ مستعد ہونا۔

تاہیل (رفسکس) کسی کو اہل کہنا۔ لائق کر دینا۔

تاہہ (رفقعل) آہ کرنی۔

تاسی (رفسکس) اسیقت کرنی۔

تایب (رفقعل) پھر جانا۔ ...

تابی (رفسک) ... فقرہ

صیغہ صفت ہے تائب سے۔

تائیہ (رفسعف) جو چوپایہ کے

معنی میں ہو سکے ہیں۔

تاج (رفسک) تاجدار۔

تاید (رفقعل) قوی ہونا۔

تاثر (رفسک) جو کہ ایک کام میں جلد

اور بے فتور کے ہمیشگی کرے۔

تالس (رفقعل) نرم اور خوار

اور ذلیل ہو جانا۔

تایک (رفسک) بیوقوف احمق۔

تایہ (رفسک) تباہ (رفقعل)

تیہان (رفقعل) شیخی باز متکبر

گمراہ سرگردان۔

تاثیب (رفسکس) بھر جانا۔

تایید (رفسکس) قوت دینی۔

تاییس (رفسکس) ناامید کرنا۔

قلیل اور ذلیل کرنا۔ ایک چیز میں

اثر کرنا۔ نرم کرنا۔

تاییم (رفسکس) بیوہ کر دینا۔

علامات اعراب صیغہ مستمر یہ ہیں فتحہ کسرہ ضمہ سکون تشدید

مادہ

تاآلیف (تفعّل) عورت حاملہ کا طرح طرح کے کھانوں کیطرف راغب ہونا۔
تاآمّی (تفعّل) کام میں استوار ہونا۔
تاآنی کرنی جیسے تأنی فی الامر
اچھا سمجھ کر ناپسند کرنا۔
تاتّن (تفعّل) خورش کرنا۔
تامّی (تفعّل) مقیم ہوجانا۔
تاری بہتعاون۔ تار (تفعیل) جمع۔
تاتّی (تفعّل) ڈھیل کرنی انتظار کرنا۔ ڈھیل سستی۔
تانیب (تفعیل) سرزنش کرنی بحث میں غالب آنا۔ سائل کو روکنا ایسا کہ منہ سے دینا۔
تانیہ (تفعلہ) سستی کرنی کاہلی کرنی ڈھیل کرنی۔
تانیث (تفعیل) نرم کرنا علامت کرنا۔ خلاف تذکیر۔
تانیس (تفعیل) آنس پکڑنا دیکھنا ایک چیز کو غور سے پہچاننے کے لئے
تانیف (تفعیل) چوپایہ پہلے مرغزار میں اونٹوں کو پہنچانا۔ تنگ پر پرا آمیختہ کرنا تیز کرنا پیکان کا طلب کرنا گھاس کا۔

تانیق (تفعیل) اچنبھے میں ڈالنا۔
تانّن (تفعّل) خورش کرنا۔
تاوّہ (تفعّل) لغت ہے تاوّی (تفعّل) سے بمعنی ہلاک ہونیکے۔
تاوّب (تفعّل) پھر جانا رات کے وقت آنا۔
تاوّخ (تفعّل) قصد کرنا۔
تاوّد (تفعّل) کج اور خمیدہ ہونا۔
تاطیر کسی کو صیح میں ڈالنا اور اسکو گرا اینار کر دینا۔
تاوّق (تفعّل) ایک کام سے رک رہنا۔
تاوّل (تفعّل) پہنچنا اول کلام کا۔
تاوّن (تفعّل) چارہ چرنا گدھے کا یہانتک کہ پیٹ بھر جاوے۔
تاوّہ (تفعّل) آہ کہنی۔
تاوّی (تفعّل) پناہ اور جگہ پکڑنی جانوروں کا اکٹھا ہوکر آنا ہر طرف سے۔ تاوّی (تفعّل) مثلہ۔
تاویب (تفعیل) پھر جانا سب دن چلنا آپسمیں لڑائی کرنی اونٹوں کے چلنے میں تسبیح کہنی۔
تاویہ (تفعیل) پناہ اور جگہ پکڑنی پناہ اور جگہ دینی جیسے اذیت

علامات اعراب ض ضمہ ف فتحہ ک کسرہ س سکون ش تشدید

تباطی (ففسک) رفتار میں سستی
کرنی جیسے تباطا الرجل فی مشیہ

تباع (تفعل) کسی کے کام کی
پیروی کرنی کام میں ایک دوسرے
کے پیچھے جانا جیسے تابعتہ علی کذا

تباعۃ (ففسف) اس کی پیروی
کرنی کسی کے پیچھے جانا اور اس
سے جا ملنا پہنچنا

تباعد (ففسفض) دور ہونا

تباعل (ففسفض) جماع کرنا اچھا
کرنا خصم اور عدو کا آپس میں

تباغض (ففسفض) آپس میں دشمنی

تباک (صیغہ ماضی) آپس میں مل کر
بیٹھنا تباک القوم علیہ انداہم کیا
خلق نے اوس پر

تباکی (ففسک) جھوٹا بیچ رونا

تبال (ففسس) تابل یعنی مصالح
ہنڈیا کا بیچنے والا

تبالح (ففسفض) آپس میں انکار کرنا

تبالط (ففسفض) تلوار سے مارنا
ایک دوسرے کو

تبالہ (ففسف) یہ لفظ مرکب ہے یعنی
ہلاکی ہو جیو اوسکو

تبالہ (ففسفض) اسے نیچے تبلیں
چھوٹا ہونٹ آبرو دکھانا

تبالی (ففسک) اڑانا

تبالین (ففسفض) راہ اور پانو کے
نشان کے پیچھے جانا

تبان (ففسس) پیچھے پہنچنے والا

تبان (ففسس) چھوٹی ازار کہ
شرمگاہ کو ڈھانکے جیسے عرفی جانگیا

تباین (ففسکس) جمع

تبائس (ففسفض) آپس میں فقیری
قبول کرنی فقیروں کی سی عاجزی کرنی

تباوش (ففسفض) آپس میں
ایک چیز کو لے لینا

تباہی (ففسک) آپس میں ابتر ہو جانا

تباہش (ففسفض) کشادہ روئی
سے پیش آنا

تباہج (ففسفض) بہت شگوفہ
دار ہونا [illegible] کا

تباہش (ففسفض) آپس میں ایک
کے پاس دوسرے کی کوئی چیز لانا

تباہل (ففسفض) آپس میں ایک
دوسرے پر لعنت کرنی

تباہی (ففسک) آپس میں فخر کرنا

علامات [illegible] فی [illegible] کا حرف [illegible]

تبا [illegible] ہوا [illegible]
تبا [illegible] رفت [illegible]
[illegible] رفتہ [illegible]
تبا [illegible] رفتہ [illegible] کیا [illegible] کرنا
تب رفتہ [illegible] نقصان
[illegible]
تب رفتہ [illegible] ہلاک ہونا
تب رفتہ [illegible] قطع کرنا
تبا [illegible] رفتہ [illegible] ہلاک ہونا
تبا [illegible] رفتہ [illegible] دور ہونا
تبا [illegible] رفتہ [illegible]
تبا [illegible] رفتہ [illegible]
[illegible] وغیرہ [illegible]
تبا دو [illegible]
تبا [illegible] رفتہ [illegible] کرنی
[illegible] کی طرف [illegible] کرنی
تبا [illegible] رفتہ [illegible]
تبا [illegible] رفتہ [illegible]
[illegible] وغیرہ [illegible]
تبا [illegible] رفتہ [illegible]
[illegible]
تبا [illegible] رفتہ [illegible]
تبا [illegible] رفتہ [illegible]

تبا زحل رفتہ [illegible] ہلاک [illegible] ہونا
[illegible] خاص ہے خداوند تعالی کو [illegible]
[illegible]
تبا [illegible] رفتہ [illegible] کرنا
تبا [illegible] رفتہ [illegible] طعام
[illegible]
تبا [illegible] رفتہ [illegible] کرنا
[illegible]
[illegible]
تبا [illegible] رفتہ [illegible] کرنا
[illegible]
[illegible]
تبا [illegible] رفتہ [illegible] ایک دوسرے
[illegible] خبر [illegible]
تبا [illegible] رفتہ [illegible] خوشخبری [illegible]
صبح [illegible] ہر چیز زمین پر [illegible]
سے [illegible] زخم کا نشان [illegible]
[illegible] پودے جلد
پھل [illegible]
[illegible] جانے کے سوا [illegible]
[illegible]
تبا [illegible] رفتہ [illegible] کرنی
جیسے تبا [illegible]

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | تجسّر (فعفعل) یگانہ ہو جانا۔ |
|---|---|---|
| [illegible] | تبیع (فعفعل) ... بہت ... | تجبّر (فعفعل) بہت مالدار ہونا۔ بہت دھنی [illegible] ہونا۔ |
| [illegible] | تشرّع (فعفعل) ... کسی ... کشتی ... | تحصّل (فعفعل) گوشت ... اعیب مالدار ہو جانا۔ |
| [illegible] | تبدّر (فعفعل) ... ہو جانا ... | تخلّص (فعفعل) فارغ ہونا۔ |
| [illegible] | تبرّع (فعفعل) ... ہونا۔ | تنجّم (فعفعل) ... کی نشست ... پانی جہاں ... |
| [illegible] | تبدّل (فعفعل) بدلے میں لینا ... | تخدّر (فعفعل) ... |
| [illegible] | ... ہو جانا۔ | تخشّر (فعفعل) ... |
| [illegible] | تبدّی (فعفعل) ... ظاہر ہونا ... | تخمّر (فعفعل) ... |
| [illegible] | ... ہونا۔ | تخلّص (فعفعل) ... |
| [illegible] | تبدید (فعلس) ... کر دینا۔ | تخفّض (فعفعل) ... |
| [illegible] | ... جانا ... | ریجانا انگلیوں کا ... |
| [illegible] | ... ہونا یعنی ... | تخلّص (فعفعل) گوشت کا ... اعیب دلدار ہو جانا۔ |
| [illegible] | تبلیع (فعلس) بدعت کی ... | تحبّت (فعلس) غلبہ کرنا ... |
| [illegible] | تبدیل (فعلس) بدلے میں ... | تحیّر (فعلس) ایک چیز سے ... کرنا۔ |
| [illegible] | اور ... کر دینا۔ | |
| [illegible] | تبدّن (فعلس) ... ہو جانا ... | تخمیس (فعلس) تمام ... سے صرف انگلیوں ... میں گودا رہ جانا۔ |
| [illegible] | تبدّع (فعفعل) ... کرنا۔ | |
| [illegible] | تبذّر (فعفعل) ... بھید کا ظاہر کرنے والا۔ | تخییل (فعلس) بخل کی طرف کسی کو منسوب کرنا۔ |

[illegible]

بیت [illegible]
[illegible] کمین [illegible] تنفس [illegible]
[illegible] بعیب [illegible]
تبجیل فتح فتکس [illegible]
[illegible]
تجسس [illegible] فتح [illegible] قال
تبجس [illegible] ہوجانا
[illegible] التوقف [illegible]
[illegible] سنجیدہ ہونا
تبجیل [illegible]
[illegible] اونچا [illegible]
[illegible] ہونا [illegible]
منقطع ہونا [illegible]
[illegible] ایک بچہ دو دو [illegible]
کی جڑ مین سے نکلتا اور اوس سے
مستغنی و بے پروا ہونا
تبجیل فتکس [illegible] اچھی
طرح سے [illegible] سے
تبجح فتکس [illegible] آنا
تبجیل [illegible] فتکس کاٹنا
[illegible] فتقس [illegible]
[illegible] فتکس [illegible] ہونا
پیدا [illegible] کر دینا

تبجیح فتکس [illegible]
کا [illegible] ہونا
تبقیق [illegible] فتکس کی رفتار [illegible]
تبجیح فتقس [illegible] ہونا
[illegible] کا [illegible] ہونا
تبجح فتقس [illegible] ہونا
[illegible] فخر کرنا
تبجر [illegible] میں
بہتا [illegible] کرنی
تبجس فتقس [illegible] جاری
ہونا [illegible]
تبجیح فتکس [illegible]
[illegible]
تبجید فتکس [illegible] ہونا
تبجس فتکس پانی جاری ہونا
تبجیل فتکس [illegible] بجل
کہنا [illegible] جان [illegible]
تبجیم فتکس یعنی تجیم فتکس
[illegible]
تبجیح فتقس [illegible] پڑنا
[illegible] میں جگہ [illegible]
[illegible] زمین میں جگہ [illegible]
تبجیش فتقس [illegible] کرنی

[illegible]

[illegible]

کسی کا کسی کے پیچھے [illegible]

اپنے اوپر [illegible] گنبد [illegible] دینا

[illegible] رفتہ رفتہ [illegible]

[illegible] رفتہ رفتہ [illegible]

[illegible] اور خوش [illegible] ہونا

[illegible] رفتہ رفتہ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

لگ آ جانا یا گندہ ہو جانا

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] اور [illegible] الدنیا

[illegible] رفتہ رفتہ [illegible] لینا

[illegible]

[illegible]

[illegible] کر دینا

[illegible] ایسا [illegible]

[illegible] سے [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ہونا

[illegible]

[illegible]

[illegible]

تبرزہ (کسنفعن) مصرف -

تبجح (تفعّل) اِترسنا -

تبذخ (تفعّل) گردنکشی کرنی -

تبذّر (تفعّل) متغیر ہو جانا - زرد ہو جانا - پیلا پڑ جانا -

تبذّل (تفعّل) ... دینا کسی چیز کو ... مند کہنا اور ... کرنے ... میلا کچیلا رکھنا -

تبذیر (تفعیل) زمین کو بیج ... کرنا مال کو اسراف سے ... کرنا کسی چیز کا پراگندہ کرنا اڑانا -

تبریع (تفعیل) ... دارنا -

تبر (...) توڑنا ہلاک کرنا ... چاندی جو ... نہ ہو -

تبار (...) (رس) ہلاک ہونا -

تبر (کسر) سونا چاندی یا تانبے کا ٹکڑا اگر ابھی ٹکسال کر سانچے میں نہ ڈھالا ہو ... اسکو ذہب ... بعد ... کہتے ہیں یا جو کھان سے نکالیں ... گلانے سے پیشتر اور بقول ... ہر فلز تانبے کانسے وغیرہ کی

تبدد (تفعّل) ... -

تبرّم (تفعّل) تنگ و دلتنگی -

تبرّک (تفعّل) اونٹ کا سو جانا ثابت ہونا۔ اقامت کرنی ... کو ... کرنی۔ پے در پے بسنا -

تبربش (تفعلل) ... کی چال چلنا یا سبک اور شتاب چلنا -

تبرقش (تفعلل) رنگ برنگ ہونا اور خوشنما ہونا -

تبرّج (تفعّل) اپنی زینت مردوں کو دکھلانا عورت کا -

تبرّر (تفعّل) فرمانبرداری کرنی -

تبرّز (تفعّل) جنگل کی طرف ... حاجت کے لیے جانا -

تبرّض (تفعّل) زمین پر سے ... گھاس ... یعنی -

تبرّص (تفعّل) تھوڑی سی ... پر ... دینا تھوڑا تھوڑا لینا کسی سے تھوڑا تھوڑا لینا ...

تبرطل (تفعلل) رشوت لینی -

تبرطم (تفعلل) غصہ میں ... ہونا ...

تبرّع (تفعّل) بخشش کرنی کہ ... واجب و فرض نہ ہو ... یعنی بنظر ثواب بخشش کرنی -

تبصبّح (فتحتین) تھوڑا تھوڑا پسینا
نکلنا یا کسی چیز سے پانی تھوڑا تھوڑا
بہنا صحیح ہے
تفصّل (فتحتین) یعنی تفصیل (کسر)
بہت مانگنا کسی سے یہاں تک کہ جب
اوسکے پاس ہو سب ہو چکے
تبصّق (فتحتین) تھوکنا (کلف)
تبصیر (فتح) تحقیق کرنا
تبصیر (فتح) بعضو بیعض ملکاف
بعضو میں آنا تعریف بعد ... کا
... سے گوشت کاٹنا اور جدا
کرنا ... آنکھ کھولنا کاٹنا
... قطع کرنا
تبصیص (فتح) نکالنا زمین کا
اوسکو جب پہلے نکالتی ہے ... بچے
کا آنکھیں کھولنا
تبصیل (فتح) دور کرنا
تبضّض (فتحتین) تمام لے لینا
سارا لینا حق لینا تھوڑا تھوڑا کر
تبضّع (فتحتین) پسینا بہنا
پوست کا بدن سے پھٹ جانا
تبضیع (فتح) کاٹنا
تبطّح (فتحتین) بہت ہونا سیل کا ...

تبطّرق (فتحتین) ... گمشدہ
چیز کا تلاش کرنا یا ... کی رفتار سے
تطبیش ... باہر نکلنا
تبطّل (فتحتین) بیکار بیٹھنا
بطالت سے ... باطل ہونا
تبطین ... آگے
تبطّن (فتحتین) کسی کے پیچھے
سے لینا حقیقت ... کی
کسی سے درمیان ... بطن
تبطیح (فتح) ... کسی ... کا
... سے کو اوپر نکلنا
تبطیط (فتح) ... کی ...
تبطین (فتح) بہت پیٹ والا
استر لگانا تھوڑی ... سے
بال موندنا ... یا ... چیز
تبطیئ (فتح) کام کرنے ...
... لینا ... تاخیر کرنی
تبظّرم (فتحتین) ... الاحمق کے
حق میں کہتے ہیں کہ انگشتری انگلی میں
چھلا لوگوں کے ساتھ ... کرے
کرے اور اوس سے اتنا ... جاو
تبظیر (فتح) ... کرنا
تبعّ (فتحتین) اللہ شخص کے کلام میں

تبصبّح
تبصّل
تبصّق
تبصیر
تبصیص
تبصیع
تبصیع
تبصیل
تبضّض
تبضّع
تبضیع
تبطّح
تبطّرق
تبطّل
۶۰۳
تبطّن
تبطین
تبطیح
تبطیط
تبطین
تبطیئ
تبظّرم
تبظیر
تبعّ

[illegible] عراقی [illegible] کا [illegible] کرنا [illegible]

تشنہ رہنا [illegible] پیاسا رہنا

[illegible] ہونا

[illegible] رفتعفن [illegible]

تبسم رفتعفن ہنسنا [illegible]

تبسم رفتعفن [illegible] مسکرانا

بمعنی سماع کرنے کے [illegible]

[illegible] کرنا [illegible]

[illegible] رفتعفن [illegible] کا [illegible]

[illegible] رفتعفن [illegible]

[illegible] رفتعفن [illegible]

[illegible] رفتعفن [illegible] پھیلنا

تبشیر رفتعفن [illegible] پانی کا [illegible]

تبشیر رفتعفن وقت سے پہلے

[illegible] ہونا [illegible] ڈالنا

[illegible] کا [illegible]

[illegible] جیسے [illegible]

تبسط رفتعفن [illegible] کا [illegible]

[illegible] ہونا [illegible]

[illegible] رفتعفن [illegible] اور [illegible]

[illegible] رفتعفن [illegible]

ہونا [illegible] سے یا [illegible] سے

[illegible] پر [illegible] پکنا - فلفات

[illegible] کھانا

تبسم رفتعفن [illegible] ہنسنا

تبسط رفتعفن [illegible] پھیلانا

تبسق رفتعفن [illegible] کھانا

تبسل رفتعفن [illegible] کھانا

تبشش رفتعفن [illegible]

تاندہ [illegible] خدا تعالی کی [illegible] ہونا

تبشیر رفتعفن [illegible] اور [illegible]

[illegible] ہی [illegible]

[illegible] رفتعفن [illegible]

[illegible] رفتعفن [illegible]

[illegible] رفتعفن [illegible]

تبسط رفتعفن [illegible]

بغت عراقی ہے

تبصیص رفتعفن [illegible] بلانی اور

[illegible] کھانے کی

تبصر رفتعفن [illegible] طرح

[illegible] دیکھنا [illegible] ایک چیز

کے دیکھنے کی طلب کرنی

تبصرہ رفتعفن [illegible] اور

بینا کرنا

تبعیض رفتعفن [illegible]

تغنّی (ف نکس) [illegible] بنانا
تفحّص (ف نکس) [illegible] بنا دینا
تغفّل (ف نکس) [illegible] اور
تنگا ہوا ہونا ایک قسم کی [illegible]
[illegible] اور [illegible] کے دینا
[illegible] [illegible] [illegible] ا
تقصّر (ف نکس) فراخ [illegible]
ہونا فراخی حال اور [illegible] کی
تقسّط (ف نکس) [illegible] لینا
تفقّد (ف نکس) [illegible] بعض [illegible]
نکلنا حسرہ کا جڑنا
تقمّم (ف نکس) [illegible]
ہوجانا کسی کا [illegible]
تقنّع (ف نکس) [illegible] ہونا
تقبّض (ف نکس) [illegible] اور [illegible]
رکھنا [illegible] کا سلنا [illegible]
تقشّر (ف نکس) [illegible] کھیلنا
تقطّط (ف نکس) [illegible] چھوڑ لینا
جلدی کرنی رفتار میں اور کلام میں
غلطی کرنا [illegible] اور پراگندہ کر دینا
تقطیع (ف نکس) کسی جگہ چلا جانا
جگہ جگہ [illegible] کا الدینا [illegible]
[illegible] میں [illegible]

تفقّع (ف نکس) پراگندہ کرنا
تفعّل (ف نکس) ڈاڑھی [illegible]
[illegible] کے [illegible] کرنا
تنگا (ف نکس) رونا [illegible]
[illegible] مصدری
تکلّمات (ف نکس) [illegible] قائم [illegible]
تنگّر (ف نکس) [illegible] ہونا
تنگّل (ف نکس) [illegible] [illegible] کا
[illegible] [illegible] [illegible] کی
[illegible] [illegible] سے چلا [illegible]
[illegible] کا دوسری [illegible] جیسا [illegible]
آدمی سے [illegible] [illegible] دینا
ایک چیز کا [illegible] [illegible]
تنگیّر (ف نکس) [illegible] میں [illegible]
تکلّمات (ف نکس) [illegible] [illegible]
سختی کرنی سرزنش کرنی [illegible]
میں غلبہ کرنا
تکمّہ (ف نکس) [illegible] سے ہونے
رونا کسی پر [illegible] کے [illegible]
کرنا کسی کو [illegible]
تکسّر (ف نکس) [illegible] کے وقت آنا
جلدی کرنا کسی وقت میں
[illegible] کے وقت [illegible] دینا [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
١٢ بکر
٥ بقل
١٣ بکم
١٤ بکت
[illegible]

[illegible] ١٢

[illegible] کسی کے پیچھے دوسرے کا [illegible]

[illegible]

تتبع (تفعّل) پیروی کرنا پیچھے چلنا

و تبع (سمع) کسی کا ساتھ [illegible] تباع (مفاعلہ)

تتابع [illegible] پیچھے چلنا

تتبع (تفعّل) کسی کے پیچھے جانا اور

[illegible] پیچھے جانا [illegible]

[illegible] کسی کے پیچھے لگا پھرا

[illegible]

تبع (مثال) یہ ایسے [illegible]

[illegible] کے تابع ہو [illegible]

[illegible]

[illegible] انجام

[illegible] (فعللۃ) [illegible]

[illegible] (فعللۃ) [illegible]

[illegible] (فعللۃ) [illegible]

[illegible]

[illegible]

بعد [illegible] دور ہونا

[illegible] (فعللۃ) [illegible]

[illegible]

[illegible] اضطراب کرنا

[illegible]

[illegible]

تبعیض (تفعیل) حصہ حصہ کرنا

تبعض (تفعّل) بعض کا بعض [illegible]

[illegible]

[illegible] کرنا

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] کرنا

[illegible] (فعللۃ) [illegible] ہونا

[illegible]

[illegible] آنا

[illegible]

[illegible]

[illegible]

تبلہ (ضفعف) ابلہ ہونا ابلے تئیں
ابلہ دکھانا جھوٹ موٹ۔ کم ہوتے
کو فربہ بنانے ہمارا ملک سے
زیادہ اور نرے استغفار کے کسی
تبلیص (ضفعف) ننگا ہو جانا۔
تبلیط (ضفعف) ننگا کر دینا اور کسی
کو اوسکی گور پانہ پہنچانا یہاں
تک کہ مر جاوے۔
تبلیح (ضفعف) تھک جانا۔
تبلید (ضفعف) کسی چیز کی طرف
متوجہ ہونا نقل کرنا اپنے تئیں
زمین پر دے مارنا بیٹھنا رہنا
بعد مینہ کے زمین چھوٹا سا سقف کرنا
تبلیغ (ضفعف) سب نرے
لینا کسی کے پاس کچھ چھوڑنا
بکری کا کم شیر ہو جانا
تبلیط (ضفعف) بیٹھی او کئی کان
بیمار کی کر درد کرنے لگے کہ بچ جاتا
چلنے میں سبلا اچھانا
تبلیع (ضفعف) ظاہر ہونا سپیدی
کا سر میں بوڑھا ہو جانا
تبلیغ (ضفعف) پہنچانا سوار کا
باگ کی طرف ہاتھ لینا کر تاکہ تیز چلے

تبلیق (ضفعف) نرم زمین سے
کو تئیں کو سنولا سال کے مٹکون سے
تبلیل (ضفعف) تر کرنا۔
تبلیم (ضفعف) کسی کا کام دشوار
کر دینا نہایت آرزو مند ہونا
اور تمنی کا ترکی طرف۔
تبن (فتف) (فق) چوپایہ کو گھاس دینا
تبن (کسر) بھس اسم جنس
تبنۃ (کسیف) ایک تار واحد ہے
اتبان (ضفعف) تبون (ضفعف) جمع
سردار جوان مرد شریف طرح
بڑا قدح جس میں بیس آدمی کھا
سکیں اوس سے اوتر کر صحن پھر
اوس سے کم عس میں یا چار
آدمیوں کی خوراک کا پھر اوس
سے کم قدح پھر دو آدمیوں کو
ہو پھر اوس سے کم قاب جو ایک
آدمی کے لائق ہو پھر اوس سے
کم غمر (فنف) ہے۔
تبن (فک) وہ چیز ہر ایک چیز اتھا
میں لیکر کھیلنے لگے صیغہ لغت
ہے تبنان (فتف) تبانہ (فتف) سے
تبس (فتف) تباشہ (نتسف)

[illegible]

ہے اول وقت [illegible]
[illegible] (فتح) [illegible]
[illegible] کا سنا [illegible]
[illegible] (فتح) [illegible]
[illegible]
[illegible] (فتح) [illegible] عمل [illegible]
[illegible] (فتح) [illegible]
[illegible] (فتح) [illegible] عقل [illegible]
[illegible]
[illegible] محبت کا کسی کو [illegible]
[illegible] کسی کی محبت [illegible]
کسی کے دل کو [illegible] کرنا
[illegible] (فتح) [illegible]
[illegible] سے [illegible]
[illegible]
[illegible] (فتح) [illegible]
[illegible] کسی عقل [illegible]
[illegible] (فتح) [illegible] اور [illegible]
روشن ہونا چمکنا
[illegible] (فتح) [illegible] کرنی
[illegible] (فتح) [illegible] کا [illegible]
[illegible] سے [illegible]

[illegible] (فتح) [illegible] ظاہر
کرنی [illegible] کی [illegible]
کھانا [illegible] زمین [illegible] طرف [illegible]
[illegible] ہونا [illegible]
[illegible] میں [illegible]
[illegible] کا [illegible] ہونا
[illegible] (فتح) [illegible]
[illegible] (فتح) [illegible]
[illegible] (فتح) [illegible]
[illegible] کی [illegible]
[illegible] ہونا عمل سے [illegible] کرنا
اور [illegible]
[illegible] (فتح) [illegible]
کرنی [illegible]
[illegible] لوگوں میں
[illegible] (فتح) [illegible]
[illegible] کا [illegible] منزل کو
[illegible] (فتح) [illegible]
[illegible] کی [illegible] کو [illegible]
[illegible]
[illegible] (فتح) [illegible]
[illegible] اور [illegible]
[illegible] آئی

تَمُوُّعُ الشمس ایک ہوا ہے کہ بعد
طلوع شمس کے بہاب مختلفہ میں چلتی
ہے اور اکثر سمت صبا میں جمع کی تموع
تَمَعُّع (تفعّل) جھٹ کا غلبہ کرنا
یا غالب ہونا۔ ورد ہونا۔
تَمَوُّق (تفعّل) دریا کی پانی کی ہوا کی میں
جیسے تموق فی الماشیہ۔
تَموِّکی (تفعّل) ایک قسم کے
طائف کے انگور ہوتے کہ طرف مسنون
تَمَوُّل (تفعّل) بمعنی تمل۔
تَمَوُّلع (تفعّل) کسی کو یاریت
کا بی گلوج سے دبا لینا جیسے تمول سے
تَموِیب (تفعیل) ہاب ہاب کرد بنا۔
تَمویَۃ (تفعیل) کسی کی طرف
نیزہ سیدھا کرنا۔
تَموِیح (تفعیل) بجلی کا خوب چمکنا۔
تَموِیس (تفعیل) جمع کرنا اکٹھا
کرنا آپس میں ملجانا
تَموِیص (تفعیل) گوص نکال لانا
ایک گھاس کا۔ کلان شیرین ہونا
صاف رنگ ہو جانا گھوڑے کا
گھوڑ دوڑ میں آگے نکل جانا
تَموِیح (تفعیل) نکاح کرنا جگہ

ہونی سا عد کسی جگہ میں اوتارنا کسی جگہ
اوتارنا اور وہان مقیم ہونا۔ نیزہ کسی
کی طرف سیدھا کرنا۔
تَہَبُّتہ (تفعّل) شریف بزرگ ہونا
تَہَجُّر (تفعّل) پیر ہو جانا روشن ہونا
تَہَدُّس (تفعّل) نہار سے چلنا
تَہَرُّم (تفعّل) بہت سرخ ہو جانا
تَہَکُّش (تفعّل) اکٹھا ہونا۔
تَہَکُّن (تفعّل) شکستہ ہو جانا
تَہَلُّل (تفعّل) آپس میں ایک دوسرے
کو لعنت کرنا۔ مرغوب چیز دل
سے بیزاری اور نفرت کرنی۔
تَہَلُّق (تفعّل) چھوٹ بولنا
تَہَمُّم (تفعّل) بات کا گول ہو جانا
ہونا کہ سمجھ میں نہ آوے۔
تَہَنُّش (تفعّل) ہنسی ہنسنا
تَہَہیِہ (تفعیل) گستاخ ہو کر نا گھر کا
تَہَجُّج (تفعیل) خوبصورت اور اچھا کردینا
تَہجِیم (تفعیل) چوپایہ کے بچے
کا ادھر کی ماؤں سے جدا کرنا
اقامت کرنا مکان میں
تَہِیّج (تفعیل) ایک قسم کا
تَبیان (تفعلان) ظاہر ہونا

رس) عقلمند ہونا باریک بین اور تجربہ
کار ہو جانا سن میں رنگ صیغہ نفسٹ
تبیّن (تفعّل) ثابت ہو جانا
تبنّک (تفعّل) بیٹھا بنانا - چار زانو
بیٹھنا دونوں پاؤں کو پھیلا ہونا
سبب موٹاپے کے -
تبنّت (تفعّل) خبر پوچھی بیت
اکا کنا - چپکا کر دینا اور لعاب
صحبت میں ... کی بات کہدینی -
تبعّقہ (تفعّل) گھرنا -
تبہنّج (تفعّل) بھونک کہلانی
کی ... آواز کا اپنے سوراخ میں
تبیّش (تفعّل) پیچھے رہ جانا
تبیّش (تفعّل) یعنی ...
تبیّق (تفعّل) یعنی اشتیاق
(استفعال) مکان میں اقامت کرنی
... آرائی کرنی - ... کرنی
مجروح کر دینا نشست کو ...
سے کسی کے ذمہ کر دینا ...
بنانا ... کے لئے ... کر ...
کر ... تنگ ... بنانا
تبنّیت (تفعّل) ... کا
اپنے قبیلہ میں سے نکلنا اور

... کے ... میں ایک دوسرے سے
... حاجت روا کرنی ...
تبیّش (تفعّل) ... کی کو ماندہ
... کرنا کہ ... کریں
تبوّر (تفعّل) اوڑنا اور تقسیم ہونا
تبوّا بالمکان وارد ہونا جیسے
تبوّأ الرجل من اہلہ
تبوّر (تفعّل) الرن ... یعنی
تبوّب (تفعّل) دربان بنانا
تبوّج (تفعّل) ... جیسے
... ہوئے ہونا
تبوّت (تفعّل) یعنی ...
تبوّج (تفعّل) یعنی ...
تبوّذل (تفعّل) ... میں
... ہو جانا جو ... اور ...
اپنے ... کا ... یعنی ...
تبوّش (تفعّل) ... لگانا -
تبوّط (تفعّل) پہلو پر سونا
فراخی عیش کے ساتھ رات
گذرانی یا آرام کرنا -
تبوّع (تفعّل) جست کرنی
قدم کشادہ رکھنا چلنے میں سستی کا
لمبا ہونا - ہر چیز کی نہایت اور ...

تتالع (فتفعل) گردن کو لمبی اور سر کو بلند کرکے چلنا۔
تتالی (تفاعل) ایک دوسرے کے پیچھے ہونا پیدرپے آنا۔
تتامم (تفعل) پورا ہوجانا اور پورا ہوجانا۔ تمام ہوجانا۔
تتایع (تفاعل) یعنی تتیع (تفعیل) سرعت کرنی اپنے تئیں سست ڈال دینا۔ ہلاکا کھانس کو جھکا دینا اونٹ کا چلنے میں اپنے شانوں کو ہلانا۔ اور جلد آ پڑنا۔ ازدحام کرنا بھیڑ کرنی شور اٹھانا۔
تتاوق (تفاعل) حیلہ اور فریب کرنا شکار کا کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں طرف سے آنا۔
تتبع (تفعل) یعنی تتبیع
تتبیت (تفعیل) تبا لک کہنا یعنے ہلاکی ہو جیو تجکو۔ ہلاک کرنا۔ زیان نقصان۔ ہلاکی۔
تتبیر (تفعیل) توڑنا۔ ہلاک کرنا۔
تتبیع (تفعیل) کسی کو اوسکے پیچھے پیچھے جاکر ڈھونڈھنا۔
تتبیل (تفعیل) ہندیا میں گرم مصالحہ وغیرہ ملانا۔
تتنمیق (تفعیل) ریزہ کاری اور باریک بینی کرنی۔
تترب (تفعل) خاک آلودہ ہونا۔
تترتر (تفعلل) حرکت کرنی لپکنا۔ ڈولنا۔
تترح (تفعل) غمگین ہونا۔
تترس (تفعل) یعنی ترس لینا۔
تترع (تفعل) کسی کی طرف بدی سے جلدی کرنی۔
تترف (تفعل) ناز و نعمت میں زندگانی بسر کرنی۔
تتریب (تفعیل) کم مال والا ہونا۔ بہت مالدار ہونا۔ لغات اضداد سے ہے۔ کسی پر خاک ڈالنی۔ کسی کو خاک آلودہ کرنا۔
تتری (فعلی) پے در پے متفرق و پریشان ایک ایک دوسرے کے پیچھے۔ متفرق اور پریشان۔
تتریح (تفعیل) غمگین کرنا۔
تتریس (تفعیل) ڈھال کسی کو دینی۔
تترصیص (تفعیل) مضبوط کرنا۔

اچکا کرنا - سیہ وزن مقصد کشادہ ...
تبثیث (رفتکس) ہلاکی -
تبثیت (رفتقس) روک دینا جیسے
تبتیہ معنی حاجتہ -
تبیع (رفکس) مددگار - وہ جسپر پیچھے
مال آتا ہو - پیچھے چلنے والا پیچھا
لگانے کے پیچھے - تبیعہ (رفکسف) مونث
تبلج (رکفس) تبایع (رفتنس) جمع -
وہ بچھڑا گائے کا جسکے کان اور
سینگ برابر ہوں -
تبیعہ (رفکسف) مونث تبیع بمعنی گوسالہ
تبیغ (رفتقس) کلام کا کسی پر مشتبہ
ہونا جیسے تبیغ علیہ الامر خون کا
جوش کرنا - پانی کا جوش مارنا چشمہ
میں بہت ہونا دودھ کا -
تبقر (رفتقس) فراخ اور کشادہ ہونا
تبیین (رفتقس) ظاہر اور آشکار
ہونا - گرانباری و وقار -
تبجیس (رفتقس) ناز سے چلنا
اور بولتے ہیں دجاج تبیس یعنی ...
اور اوسکے پاس کوئی چیز نہیں ہے
تبیغی (رفتکس) قصد کرنا - ...
کو میان میں کرنا -

تبلیث (رفتکس) ہر ایک میں پلادہ کرنا
کام کا - تدبیر کرلی - اندازہ کرنا کھجور
کے درخت کو برابر استر کرنا یعنی
چھانٹنا - چھاپہ مارنا یعنی شبخون مارنا -
تبنیج (رفتکس) چھپکے سے خبردار
کردینا جیسے تبیح بہ - ... گوشت کو
کاٹنا اور اوسکو پانا -
تبیض (رفتکس) سپید اور خوب
صورت کر دینا منہ کا -
تبییض (رفتکس) سفید کرنا - پر کردینا
ایک چیز کو - خالی کرنا ایک چیز کو -
لغات اضداد سے ہے - سپید کپڑا پہننا
تبییغ (رفتکس) ٹھہرا رہنا
رستے میں جیسے بیغت بہ معرفا ...
... تبیغ بہ مجہولاً مستعمل ہے -
تبیین (رفتکس) ظاہر اور آشکار
ہونا - ظاہر اور آشکار کر دینا - لازمی
اور متعدی دونوں آتا ہے - بیٹی بیاہ
دینی - اوگنا بیج کا نکلنا -
تبایع (رفتفعل) ...
ساتھ ایک دوسرے کی پیروی کرنی
تبارک (رفتفعل) ایک دوسرے
پر کام کو چھوڑ دینا -

تتویہ (فسکس) ہلاک کر دینا
پریشان کرنا متفرق کرنا
تتہم (فتقس) بمعنی تہامہ میں آنا اور میں آ دہرنا تہامہ ایک زمین
تتیر (فتقس) اور کھڑے ہوئے چلنا
جیسے تتیر فی مشیہ کسی کی طرف
کود جانا جیسے تتیر الی الغدا
تتیح (فتقس) جھگڑنا خود رائی
کرنی بدی میں منہ کے بل گر پڑنا
تعیش (فسکس) گھوڑے کو
تا بدار اور بس میں کر لینا
تتیع (فسکس) روٹی کے ٹکڑے
سے لکھی کو اوٹھانا
تتیشیر (فسکس) غلام اور مٹا بدار کر لینا
تیتیہ (فسکس) رض ضائع
اور سرنگوں کر دینا
تتاوب (فسقص) خمیازہ لینا
تتائب (فتقس) خمیازہ لینا
خرگا تجسس کرنا
تتاجر (فسقص) کودنا
تتباۃ (ففس) بمعنی تتی (فف)
تتا قو (ففسفس) بعد ارادہ سفر
کے مقام کر دینا ٹھہرنا کھانے پہ

الحنین کا وارد ہونا
تتا قل (فسقص) کاہلی کرنی
کسی سے پیچھے رہنا اپنے تئین
بھاری کرنا کاہلی میں عمل کرنا
تتا کل (فسقس) عضون سے
برا ہونا جسم کا
تتاوج (فسکس) بمعنی تتاؤن
(فسقص) بالتاء المہملہ
تتاق (فسقس) ارض اہلی میں
بہت باہر کرنا اور تیزی سے چلنا
جلد آنسو بھر نے آنکھ میں
تتبت (فتقس) تو رنگ کرنا جگہ
لانا برقرار رہنا
تتبیج (فتقس) لکڑی کو پیچھے پہ لٹکا
دونوں ہاتھوں کو اوپر سے لٹکانا
تتبط (فتقس) واقف ہونا کام
ایک کام سے رک جانا ٹھہر جانا
تتبش (فتقس) دامن میں ایک
چیز لیکر بغل میں لینا دامن کسی چیز
لپیٹنا کسی چیز کو دامن میں اوٹھانا
تتبیت (فسکس) ثابت کرنا
برقرار رکھنا جانا لینا
تتبشہ (فسکف) اکٹھا کرنا ایک

راست درست کرنا۔
تسریح (فتسکس) دروازہ بند کرنا۔
تشریف (فتسکس) نازو نعمت میں پالنا
تشقیح (فتسعس) بے قرار ہونا
تشنعف (فتسعس) الو بری یا
لو بری کا بچہ اسمیں کئی لغت ہیں
… (فتسعف) بروزن منقعر و …
و … خشک و ضعف … آخر
میں آیا ہے … سے مونث
ہو جاتے ہیں … خشک …
خشک گھاس یا ایک درخت ہے
یا ایک نبات ہے سبز میلے رنگ کی
یا ایک … سرخی و زردی کا ملی ہوئی۔
تقیف (فتسکس) … کہنا۔
تقیق (فتسکس) گر پڑنا … کا اندر کو گڑھے میں گھس جانا۔
تقعین (فتسکس) زمین کا لے
پانی سے سینچنا تاکہ خوب …
تسلیش (تفعل) … ہونا …
تسلیم (فتسکس) … کے پیچھے …
جانا … کو … کے
… کر دینا … کرنا … کے
قریب پہنچنا۔

تلبید (فتسکس) جمع کرنا دور کرنا۔
تلبیص (فتسکس) … ہموار کرنا۔
تتمیم (تفعیل) تمام کرنا ایک چیز کو
استوار کرنا جیسے تتمیم و تمیما۔
تمم (فتعل) چھوٹ جانا الگ ہو کر جدا
ہو کے … ہو جانا۔
تتمیر (فتسکس) تمر کی حد کو پہنچ جانا
رطب کا خشک کرنا خرما کو … گوشت
کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے خشک کرنا۔
تتمیم (فتسکس) تمام کرنا … کی
چھوٹ جانا … اپنے
… کے حصہ میں … کو
پھیر دینا ہلاک کر دینا … اپنا …
میں … زخمی کو مار ڈالنا جیسے …
تمتش (تفعل) دوستوں کو
چھوڑ کر غیروں میں جا ملنا۔
تتمیج (فتسکس) … ہونا۔
تمو … القلنسوہ ٹوپی کے دونوں گوشوں …
تتویج (تفعل) تاج پہننا۔
تتوق (تفعل) آرزومندی کرنی۔
تتویب (فتسکس) خدا تعالی کا ذکر
کرنا کسی کے لئے تاکہ وہ توبہ کرے۔
تتویج (فتسکس) تاج پہنانا۔

خط پر رکھنا ہنڈیا کو

تشقید (فتکس) استر لگانا

تقفیر (فتکس) پیچھے ہٹنا

تقفیل (فتکس) کھانے کو دور سے کھانا چکی کے نیچے دستر خوان بچھانا

تقق (فتقق) سو خدا کرنا سوراخ دار ہونا آگ بھڑکانا

تقشر (فتقق) تردد اور بے صبری

تقتیب (فتکس) سوراخ کرنا آگ بھڑکانی - بوڑھاپے کا ظاہر ہونا

تقثیف (فتکس) نیزہ کو ثقاف سے سیدھا کرنا

تثقیل (فتکس) بھاری وزن کر دینا

تثل (فتس) ایک عطر علی خوشبو

تثلل (فتقق) گھر کا ویران ہو جانا

تثلم (فتقق) رخنہ دار ہونا

تثلیب (فتکس) بوڑھا ہو جانا اونٹ کا

تثلیث (فتکس) تیسرا حصہ عوض خرما کا پک جانا منجمین کی اصطلاح میں جو تھے برج میں واقع ہونا ستارہ کا - تکونہ بنانا - تیلا بٹنا رسی کا - تین حصہ کر دینا - خدا سے

عز و جل کو تین جانا تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا

تثلیخ (فتکس) آلودہ کر دینا

تثلیم (فتکس) رخنہ دار کر دینا

تثمل (فتقق) اچھنا

تثمم (فتقق) متوقف ہونا

تثمیر (فتکس) بہت کرنا مال کا مسکہ نکال لانا دودھ کا کھیت میں ثمر نہ پڑنا

تثمیغ (فتکس) ڈھانک دینا

تثمیل (فتکس) باقی چھوڑنا

تثمیم (فتکس) پامال کرنا ملنا - بچی جدا کر کے

تثنی (فتقک) دوہرا ہونا پھیر جانا ہنک کر چلنا

تثوب (فتقق) فرض کے بعد نفل پڑھنے - ثواب حاصل کرنا

تثور (فتقق) ہجتے ثور اور ثوران کے معنی میں سو اسکے ہیں

تثول (فتقق) شہد کی مکھیوں کا جمع ہو آنا - گالی گلوچ مار پیٹ ہنگڑی سے دبا لینا

تثوی (فتقک) مہمان ہونا

تثویب (فتکس) بعد چلے جانے

علامات تا اعراب فتحہ کسرہ ضمہ ... سکون تا تشدید

| مادہ | | |
|---|---|---|
| ... | کام سے برابر لگا رہنا کسی امر کی علامت ہندی کی تعریف کرنی کسی چیز کی اصلاح کرنا۔ زیادہ اور پورا کرنا تعظیم کرنی باپ کی خوبو چلنا۔ اپنے حال کی شکایت کسی کے آگے کرنی اور اوس سے مدد چاہنی۔ مدد کرنی بھلائی کرنی نیکی کرنی۔ بدی کرنی | تدیہ (تفعلہ) ... تدحیر (تفعلل) بہت بھاری گرشت والا ہو جانا تثریب (تفعیل) گناہ پر سرزنش اور ملامت کرنی پشیمان کرنا تشثیة (تفعلة) تر کرنا خاک کو تر کرکے بہت کرنا |
| ... | تقییح (تفعیل) لکڑی کو پیٹھ پہ جھکا دونوں ہاتھ اوس سے لٹکانے پریشان کام کرنا۔ گفتگو میں تعمیہ کرنا اور واضح نہ کرنا۔ | ترید (تفعیل) کسی چیز سے رنج تا کہ رنگین اچھی طرح سے ہو جائیں اندک و قلیل تھوڑی سی چیز تصریر (تفعیل) تر اور نمناک کرنا |
| ... | تقبیس (تفعیل) کسی کو اوسکی حاجت سے منع کر دینا۔ باز رکھنا۔ تثبیط (تفعیل) کسی کو کام سے روک دینا اور تذبذب میں ڈال دینا۔ | تقطعم (تفعّل) یار ... سے گفتگو میں خالص نکلنا۔ تقطیع (تفعیل) توڑنا۔ تعمّم (تفعّل) اپنے منھ میں ڈال دینا تعطیط (تفعیل) توڑنا ریزہ ریزہ کرنا |
| ... | تہتّم (تفعّل) بری بات سے کہنے لگنا۔ پارہ پارہ ہو جانا کپڑے کا۔ سبز ہو جانا چھوٹے گڑھے میں کا جسکا پانی نہایت قریب ہوتا ہے | تعبّد (تفعّل) روان ہونا۔ تفرّق (تفعّل) دودھ کا جما ہوا بہنا تغفّل (تفعّل) کسی سے کے ساتھ مکارم میں کوتاہی کرنی۔ |
| ... | تخضخض (تفعلل) پانی کا بہنا تفجیر (تفعیل) پانی جاری کرنا کشادہ اور چوڑا کر دینا یا فتح ... نرمی سے ... آئیں سے | تسقی (تفعّل) مکارم میں کوتاہی کرنی کسی سے تسقیة (تفعلة) تین پایہ پر بیٹھنے |

تجاری (فتنک) ملکر اکٹھا چلنا بات چیت میں مناظرہ کرنا

تجاشر (فتفعل) گالی گلوچ کرنی

تجازی (فتنک) قرض کا تقاضا کرنا جیسے تجازی دینہ علی فلان

تجاشر (فتفعل) گردن کشی کرنی اور سر کو اونچا کرنا ولیرہونا کسی پہ چڑھنی کسی حرکت کرنی

تجاسح (فتفعل) آپسمیں تنگی سے پینا پانی کو اور پیاسا رہجانا

تجامل (فتفعل) کسی چیز کو آپسمیں بانٹ لینا

تجافی (فتنک) ایک جگہ پر قرار نہ پکڑنا ایک چیز کا ایک جگہ سے اوٹھایا جانا

تجالش (فتنست) چیز میں سے چھانٹ لینا برہنگی کرنی

تجالد (فتفعل) تلوار سے ایک کا دوسرے کو مارنا

تجالس (فتفعل) آپسمیں ملکر بیٹھنا

تجالی (فتنک) ظاہر ہونا

تجالید الانسان آدمی کا بدن اعضا اور سکا الید

تجانن (فتنست) دیوانہ ہوجانا

اپنے تئیں دیوانہ ظاہر کرنا

تجانب (فتفعل) دور ہونا

تجانف (فتفعل) میلان کرنا

تجاوب (فتفعل) ایک دوسرے کو جواب دینا

تجاود (فتفعل) ایکدوسرے کو دیکھنا کہ کون محبت جید رکھتا ہے

تجاور (فتفعل) ہمسائگی کرنی ایک دوسرے کی پناہ میں آجانا

تجاوز (فتفعل) گناہ معاف کرنا چشم پوشی اور اغماض کرجانا حد سے گذر جانا

تجاول (فتفعل) ایکدوسرے پر جولانی کرنی لڑائی میں

تجاوید (فتفعل) بہت سے مینہ واحد اسکا ہنس آیا ہے

تجاہ (فتفعل) مقابل ہونا

تجاہد (فتفعل) بہت کوشش کرنی قوت و زور کام میں لانا

تجاہل (فتفعل) اپنے تئیں نادان کرنا

تجباب (فتفعل) اچاندی کی تکبیر کھان سکے پتھر میں

تجبجب (فتفعل) گوشت کا ٹکڑا لینا اور وہ شیقہ ایک گوشت ہے کہ

[illegible]

سے پھر آنا۔ بدلہ دینا۔ عمل کرنا۔
اذان کہنی۔ اذان کے پیچھے دوبارہ
الصلوٰۃ خیر من النوم کہنا اذان فجر
میں الصلوٰۃ خیر من النوم دوبارہ
کہنا۔ تکبیر کہنی بعد فرض کے نفل
پڑھنی۔ کسی کے بلانے کے لئے
اپنے سر پر چادر پھیلاتے ہوئے
آواز کرنی۔ دوبارہ بلانا پکارنا۔
تثویۃ (رفتلف) کسی کو مقیم کر دینا
ٹھہرا دینا۔ سعر جانا۔
تثویر (رفتکس) برانگیختہ کرنا علم
قرآن میں بحث کرنی۔
تثی (رفتس) عقل کا اٹھانا یا ستو کھجور
کے پھل کا پوست۔
تثاقل (رفتفعل) اپنے تئیں بیوقوف جاننا
حالانکہ ہو نہیں۔
تثییب (رفتکس) ثیب (رفتک) ہو جانا
عورت کا۔ بڑی عمر کا ہونا اونٹنی کا۔
تجانب (رفتس) چاندی کے روپے
کا اونکا ایکبار گلا یا ہوا اور ابتک اون
میں چاندی باقی ہو۔ تجانبۃ (رفتفعلۃ)
ایک تار وحدت ہے۔
تجاثب (رفتعت) دو مردوں کا
آپسمیں ایک دوسرے کی بہن سے نکاح کرنا۔
تجافی (رفتفک) تا اونچے بیٹھنا۔
تجاحیر (رفتفعل) ٹھہر جانا رک جانا۔
ڈرنا۔ خوف کرنا۔
تجاحد (رفتفعل) آپسمیں انکار کرنا۔
تجاحف (رفتفعل) تلوار یا لکڑی سے
پیٹا کھیلنا۔ گیند کو چوگان سے اوچک لیجانا۔
تجادع (رفتفعل) آپسمیں گالی
گلوچ کرنی اور جھگڑنا۔
تجادل (رفتفعل) آپسمیں جھگڑا کرنا۔
تجاذب (رفتفعل) کھینچ جانا۔ بیچ جانا
آپسمیں کشاکشی کرنی اور جھگڑنا۔
تجاذل (رفتفعل) آپسمیں کینہ
رکھنا۔ دشمنی کرنی۔
تجاذی (رفتفک) آپسمیں زور آزمانا
پتھر کے اٹھانے میں۔ کسی چیز کے
درمیان میں سے باہر نکلنا۔
تجار (رکعس)۔ تجار (رفتفس)۔
تجر (رنس)۔ جمع تاجر (رفتک) کی۔
تجارۃ (رفتفت) سوداگری کرنی۔
تجارۃ (رفتفت) بن سوداگری کرنی۔
تجارش (رفتفعل) آپسمیں گالی
گلوچ کرنی۔ سوال و جواب میں ...

علامات اعراب صفحہ گستم سے بے ضمن نمبر فتحہ کسرہ ضمہ سکون جزم تشدید

تجحر (فتقص) حوض کی مٹی خشک
ہو کر پھٹ جانی اور پانی کا سر نکلنا۔
تجحی (فتقک) بخود سکڑنا جیسے تجحی
[illegible] علی المجم۔ اندھا ہو جانا۔
تجحیہ (فتفف) پیٹ کو بلند کرنا اور
دونوں ہاتھوں کو سجدہ میں کشادہ
رکھنا نمازی کا سر انکا ڈھل جانا —
پشت خم کرنی۔
تجحیر (فتکس) کوئیں کا سر کشادہ کرنا
تجدب (فتقص) ناگوار سمجھنا کسی چیز کو
تجدد (فتقص) نیا ہونا دودھ کا
سوکھ جانا تھن میں۔
تجحیر (فتکس) ستونوں کو کھولنا
تجدید (فتکس) نیا کرنا۔
تجدیر (فتکس) چیچک نکال لانی
لائق کر دینا - جیسے کے برابر پھل
نکال لانا درخت کا سچ اور مٹی وغیرہ
سے دیوار کو لیپنا۔
تجدیع (فتکس) بدخوار کر دینا بچے کا
گدھے کے دونوں کان کاٹ
ڈالنے کسی کو جدعک کہنا۔
پژمردہ کر دینا قحط کا گھاس کو۔
تجدیف (فتکس) نعمت کی ناشکری

کرنی اندھا کر جانا۔
تجدیل (فتکس) زمین پر گر پڑنا
زمین پر دے مارنا۔
تجذب (فتقص) پینا۔
تجذم (فتقص) اکٹھا ہوا ہو جانا
تجذمی (فتقک) مادہ کے گرد [illegible]
تجذیذ (فتکس) ٹکڑوں سے تا [illegible]
جا سینی اندھا و سلا کرنا۔
تجذیم (فتکس) اچھی طرح سے کاٹنا
تجر (فتس) ارن اسوداگری کرنی۔
تجرثیم (فتکف) آزمانا۔
تجرثم (فتقص) چیز میں سے
اچھی چھانٹ کر لینا۔
تجرثوم (فتقص) نہر اکل پڑنا
یا سوج جانا۔
تجرر (فتقص) دلیر ہونا جیسے تجرأ علیہ
تجری (فتقک) بچہ بنا لینا و معنے
تجریہ (فتکف)
تجریہ (فتکف) وکیل بنا لینا۔
جیسے جری تملکیہ
تجریح (فتکس) سر کے بال منڈانی
ڈھیلا اور فرخ بنانا چیز کو [illegible]
کر دینا زخمی کر دینا

مادہ

[illegible]

اور اسکو ایک جوش دیکر خشک کرتے
ہیں تاکہ دیر تک رہے۔
تحلیل (تفعیل) درست ہونا چھالا
ہونا دولتمند ہونا تکبر کرنا سبزہ اور درخت
دار ہونا سلگنا گھاس کا بعد کھانے
کے بحال ہو جانا مریض کا اس حال کو
پہنچ جانا جو کہ جا مارا تھا اور اسکو پالینا
تحسیس (تفعیل) ناز سے چلنا۔
تحبیل (تفعیل) پیار پڑنا تھام لینا
تحمیس (تفعیل) دودھ کا جم جانا
اور گاڑھا ہو جانا۔
تحبیث (تفعیل) چوپایہ کے ہاتھ
پاؤں کی سپیدی زانو تک پہنچ جانی
نفرت سے بھاگنا بھاگ جانا
اور بیوں کو سیراب کرنا۔
تحبیہ (تفعلت) اپنے دونوں ہاتھ
اپنے دونوں زانو پہ رکھنا سینہ کے
بل گرپڑنا پیٹھ خم کرکے کھڑا ہونا
تحمیر (تفعیل) لوٹے کو ... بہنا
اچھا حال کر دینا کسی کا دولتمند کر دینا
تحشیع (تفعیل) لاغری سے
شکل متغیر ہو جانا۔
تحبیل (تفعیل) پارہ پارہ کرنا

تجبین (تفعیل) کسی کو بزدل کہنا
کسی کو بزدلی کی طرف منسوب کرنا
تجبیہ (تفعیل) اپنے دونوں ہاتھ
اپنے دونوں زانو پر رکھنا سینہ
کے بل گرپڑنا پیٹھ خم کرکے کھڑا ہونا
تجحیث (تفعیل) بالوں کا بہت
ہونا پیر جھاڑنے۔
تجثیم (تفعیل) سینہ کے نیچے لینا کسی کو
تجثیم (تفعیل) سینہ پر بیٹھنا۔
تجدیر (تفعیل) چاند کا پتا اور اونٹنا۔
تجدیل (تفعیل) مغلطان ہونا۔
تجحیر (تفعیل) سوراخ میں جانا۔
آنکھ کا اندر کو گھس جانا۔
تجحفل (تفعیل) جمع ہونا۔
تجحیم (تفعیل) حرص اور بخل سے
چلا ہوا دل تنگ ہونا۔
تجحیظ (تفعیل) گھور کر دیکھنا
تجدیل (تفعیل) زمین پر دے مارنا
تحجیم (تفعیل) گھور کر دیکھنا۔
تجحین (تفعیل) تنگ گیری کرنی
بسبب فقر کے یا بخل کے
تجحیم (تفعیل) اپنے تئیں پینا گرانا
جماع کرنا خوب تاریک ہونا رات کا۔

پیچ کرنی سنگے بچے کی آنکھ کھولنی
جو کہ درخت میں سے پہلے ہی ظاہر ہوتا
ہے اوسکا ظاہر ہونا - حملہ کرنا -
تجھضم (فتقض) منہہ میں لینا کسی چیز کو
تجخیض (فنکس) لڑائی کے
لیے قصد کرنا - تیز دوڑنا -
تجعث (فتقض) گر پڑنا تیر دان
بنانا - تیر دان کو کام میں لانا -
تجعشی (فسکت) گر پڑنا -
تجعشم (فتقض) سمٹ جانا سکڑ جانا
تجعشن (فتقض) سمٹ جانا سکڑ جانا
تجعد (فتقض) سمٹ جانا اور سکڑ جانا
تجعر (فتقض) جماعت کی کوکمر پاند ہنا
تجعس (فتقض) پاخانہ پھرنا -
تجعش بکنا - بیہودہ بکنا -
تجعجع (فتقض) اپنے تئیں زمین پر گ
سے مارنا بسبب درد کے -
تجعم (فتقض) باجے کا آواز دم بننا
طمع کرنی - لالچ کرنا -
تجعیث (فنکس) اچھا ہونا
تیر دان بنانا -
تجعیگ (فنکس) پٹھوان کھینچنا بال کا
تجعاف (فسعنس) ایک پوشش ہے

کہ لڑائی کے دن پہنتے ہیں چلتہ
تجعف (فنقض) آوہا خشک کرنا
کپڑے کا سجانو پسندہ کا پھوڑنا اور
اپنے پہلو کے نیچے اوڑھ کر لینا -
تجفر (فتقض) چار مہینے کا ہونا
بز غالہ کا اور دودھ چھوڑ دینا -
تجفل (فتقض) گردن کے بر
پھلانے مرغ کے
تجفو (فتقض) بخیر و برکت ہونا -
تجفیر (فنکس) ساند کا جفتی
سے باز رہنا -
تجفیف (فنکس) پھوڑے کے
یا کھوڑ آلنی خشک کرنا
تجفیل (فنکس) پوست اوتارنا
پیلجہ سے مٹی کھودنی -
تجفیش (فنکس) بہت جماع کرنا
بڑے پیالون میں کہلانا -
تجلبب (فتقض) چادر پہننی
تجلجل (فتقض) زمین میں
گھس جانا - ہلنا -
تجلد (فتقض) تکلف چالاکی کرنی
تجلق (فتقض) خوب ہنسنا یہانتک
کہ پچھلے دانت ظاہر ہو دین -

تج

علامات اعراب یعنی حرکات جسم کے معنی ہیں ضمہ فتحہ کسرہ س سکون ت تشدید م

**مادہ**

تحجیر (فتکس) پوست نکال لینا
تحجلد (کس) سال اونکا اڑنے موٹی
اونٹنی کے تلوار سونتی - کتاب میں
اعراب اور نقطے دینے
تحجید (فتکس) اچھی طرح پر
کھینچنا - بیعت کھینچنا
تحجین (فتکس) مسودہ کا اور کھانا
آزمانا - عضو کا حاصل کرنی - حاکم
بنانا کسی کو اپنے مال میں تصرف کرنا
کسی کی کرم نامی کھودنی اور اسکو مشہور کرنا
تحجزع (فتکس) غصہ اگلی یاد دینا
تحجیف (فتکس) جھجھک سے سوچ
چھوڑ دینی کھود کر ستارہ کا در میں نکلنا
تحجمیم (فتکس) برس پورا کر دینا
ایک چیز میں سے باہر ہونا
تحجشیر (فتکس) ظاہر کر دینا
تحجری (فتکس) دلیر کر دینا
تحجزع (فتقع) ٹوٹ جانا - حصہ
کر کے سب لے لینا
تحجف (فتقع) داخل ہونا
تحجرم (فتقع) ٹوٹ جانا
تحجزی (فتکس) اکتفا کرنی سب
تحجزا - برادر پارہ پارہ ہو جانا

تحجلب (فتکس) قریب جنگلی کے
پہنچنا - پھل کا عشق صبر کو دور کرنی
اور تسلی دینی دلاسا دینا
تحجیم (فتکس) نیند لی کرنی عاجز
ہو جانا - خاموشی اختیار کرنی
چپ رہنا - متشاعر ہونی
تحجسد (فتقع) جسیم اور کھانی میں ہونا
تحجس (فتقع) خبر و بچہ ڈھونڈنی
اور بیشتر اکثر شر و فساد کے لئے ہوتا ہے
تحجلم (فتقع) بھاری بد نکاح ہونا
اچھا کام لینا - بڑے کام پر ہونا
بلندی پر چڑھنا - ارادہ کرنا بہت
میں سے پسند کرنا
تحجیر (فتکس) دلیر کر دینا
تحجشع (فتقع) نہایت حریص ہونا
تحجشم (فتقع) سختی جھیلنا - تکلیف
تحجشو (فتقع) ڈکار لینی
تحجشی (فتکس) ڈکار لینی
تحجیر (فتکس) خالی کرنا برتن کا
چھپا پورا کو رات وہاں چراگاہ میں
چھوڑ کے رکھنا
تحجشم (فتکس) تجھی کے جسم
تحجصیص (فتکس) برتن کو بھرنا

لشکر کو دار الحرب میں مقیم کرنا مجبور
میں پیاسا ناکیر لکو کشتی کی پہلکی
تجمیش نغشکس عورتوں کے
ساتھ کھیلنا اور بات چیت کرنی
تجمیع ف نشکس بہت اکٹھا کرنا
مرغی کا انڈے کو پیٹ کے نیچے
داب لینا جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا
تجمیل ف نشکس لشکر کو مقیم رکھنا
زینت دینی سنوارنا اچھا بنانا
تجمیم رنشکس گھاس کا ہو جانا
نگاہش کا پیمانہ کو اس طرح بھرنا کہ
اسکی چوٹی اوپر کو اٹھ آوے
تجنب رفقفق دور ہونا جنب
ہو جانا یکسو ہو جانا
تجنث رفقفق اپنے تئیں غیر اصل
کی طرف منسوب کرنا مہربان ہونا
کسی کو دوست رکھنا اور سینے میں
چھپا رکھنا سا زو کھولکر بیٹھنا جانور کا
تجنح رفقفق ہتھیلیوں چھپا رکھنا
اور کشادہ رکھنا دونوں بازوؤں کا سجدہ میں
تجنش رفقفق اپنے تئیں جوان ظاہر کرنا شگوفہ نکال لانا گھاس کا

دیوانہ ہو جانا ہیا ولا ہو جانا
تجنیب ف نشکس دور ہونا دور رکھنا
کسی کو کسی سے کنارہ ہونا گھوڑوں
کی ساقوں کا اور اسے پسند کرتے ہیں
بکریوں اور اونٹوں کو سانڈ سے
دور رکھنا سے شیر ہونا لوگوں کا
تجنیح رنشکس مائل کر دینا ہتھیلیوں
سہارا کرنا اور کشادہ رکھنا دونوں
بازوؤں کا سجدہ میں
تجنید رنشکس لشکر اکٹھا کرنا
تجنیز رنشکس مردہ کو تخت پر رکھنا
تجنیس رنشکس درخت کے
سارے پھلوں کا پک جانا جنس
جنس کو اکٹھا کرنا کسی چیز کے
ساتھ مشابہ ہونا اہل بلاغت
کی اصطلاح میں ایسے دو کلموں کا
لانا کہ لفظ میں متفق ہوں اور
معنے میں مختلف
تجنیص رنشکس مرتا عشق کے
مارے بھاگ جانا گھور کر آنکھ کھول کر
مارے ڈر کر دیکھنا تیلا لگنا
تجنیق رنشکس منجنیق سے پتھر پھینکنا
تجنین رنشکس دیوانہ بنانا

خث
عج جج
عج جب
حح جم
جب
حث
نث
خم
جن
خب
۱۲۳
[illegible]
جح
جم
عنس
جض
جعن
۱۲

[illegible] اعراب [illegible] قسم [illegible]

تجلّی [illegible]

تجلیق (فعل) کسی چیز کا آنا اور اڑنا
[illegible] آسمان سے [illegible]
تجلی (فعل) [illegible] ہونا منکشف
ظاہر ہونا اچھی چیز کا کسی کو دکھنا
تجلیب (مشکس) جمع ہونا اور
شور و شغب کرنا گھوڑے کو دوڑا ہانا
ہنکا دینا۔ اونٹنی کی تھنوں کو ریشم
اور ریشمی لگا دینا تاکہ بچہ دودھ نہ پی سکے
تجلیہ (مشکف) روشن اور ہویدا
کرنا۔ جلوہ کے وقت دولہا کا
دولہن کو کچھ دینا۔ کسی پر نگاہ ڈالنی
[illegible] سے دیکھنا۔
تجلیح (مشکس) ایک کام سے پیش
آنا۔ اور قوت سے گذر جانا۔
[illegible] کا حملہ کرنا۔
تجلید (مشکس) پوست نکال لینا
کسی چیز کو پوست پہنا دینا۔
تجلیز (مشکس) اسا [illegible] تیر کے
بار بار کھینچنا کمان کو سخت کرنا لپیٹنا
کھینچنا۔ اور کھاڑنا۔ تیز چلنا [illegible]
[illegible] اور تلوار کے دستے [illegible]
تجلیف (مشکس) مال کو تباہ
کر دینا قحط سالی کا۔

تجلیق (مشکس) [illegible] سے
[illegible] کھینچنا۔
تجلیل (مشکس) [illegible] چھپا لینا اور
گھیر لینا تمام ظاہر کرنا۔
تجماّر (مفتعل) [illegible] کسی کو میدان میں
ایک چیز کو لیکر کسی سے پوشیدہ کر دینا
[illegible] سے [illegible] لوگوں کا۔
تجمجم (مفتعل) صاف اور ظاہر
نہ کرنی [illegible] بات کہنی
تجمر (مفتعل) اکٹھا ہونا [illegible]
لشکر کا ولایت کفر میں مقیم ہونا۔
تجملح (مفتعل) اپنے تئیں [illegible]
دینی اور سنوارنا [illegible] چربی کھانی
تجمش (مفتعل) [illegible] ہو جانا
[illegible] کا۔ عورت کا [illegible]
[illegible] سے شعر کرنا۔
تجمشر (مفتعل) [illegible] کرنی
تجمع (مفتعل) آپس میں اکٹھا ہونا
تجمیل (مشکس) [illegible] اور
[illegible] لگنا ایک چیز کا۔
تجمیع (مشکس) اکٹھا کرنا ایک
کا مرتبہ اکٹھا ہونا۔ عورت کا کنگھی
کرکے پیچھے زلفوں کو گرہ دینا۔

تمضمض (تفعلل) کلی کرنا غرغرہ کرنا
تحمم (تفعل) ...
تحمض (تفعل) ...
تحمیس ... دلیری کرنا
تحمس (تفعل) کسی چیز کا ... اوڑھنا
تحمل (تفعل) لشکر ... اور سامان
تیاری وغیرہ کا اسباب تیار کرنا
تحنن (تفعل) کسی کو ... کی
طرف رغبت کرنا
تحنش (تفعل) ...
تحیب (تفعل) کسی ...
تحیض (تفعل) ...
تحیر (تفعل) ... کی
تحشد (تفعل) لشکر کا جمع کرنا
تحفظ (تفعل) ...
تحیق (تفعل) ...
مرد کا ... ہونا
تحابب (تفاعل) ایک دوسرے کو
دوست بنا لینا
تحات (تفاعل) پوست اتر جانا
یا پھل جانا ... درخت ...
تحاث (تفاعل) آپس میں ...
تحاثت (تفاعل) ایک گروہ کا
... ہونا

تحاج (تفاعل) آپس میں جھگڑنا
تحاجز (تفاعل) لڑائی میں دو
گروہ کا ایک دوسرے سے پھر جانا
تحاجی (تفاعل) آپس میں پہیلیاں بوجھنا
تحاذر (تفاعل) آپس میں مخالفت
کرنی ... کرنا
تحادب (تفاعل) کبڑا ہونا
تحادث (تفاعل) آپس میں
بات چیت کرنی
تحاذر (تفاعل) بہانا کر بیٹھنا
تحامل (تفاعل) آپس میں جبر و ستم
کرنا ... کمان پر جھکنا
تحاوش (تفاعل) او شمن کا
آپس میں ایک دوسرے کو ہانکنا
تحاذی (تفاعل) آپس میں ...
تحنش ... تحادث ...
تحارش (تفاعل) ایک دوسرے
سے لڑنا جھگڑنا
تحازن (تفاعل) غمگین ہونا
تحاشد (تفاعل) ایک دوسرے
پر ... کرنا
تحاشد (تفاعل) ... اعتقاد
تحاشی (تفاعل) ایک طرف ...

تجحیح (بفتح) زمین [illegible] کنارہ [illegible] زخم کا پھٹ جانا اور [illegible] سے جاری ہونی۔
تجحیر (بفتحتین) جدا اختیار کرنا۔
تجحیف (بفتحتین) گر پڑنا اور منہدم ہو جانا [illegible] پھٹنا۔
تجحیب (بفتحتین) [illegible] بہنا۔
تجحیز (بفتحتین) آسانی [illegible] اور [illegible] کوشش کرنی۔ گناہ معاف کرنا
[illegible] دوسروں کو قبول کر لینا
[illegible] سمجھانا بات کہنی
تجحیس (بفتحتین) تھوڑی رات [illegible] جانا۔
تجحیط (بفتحتین) کوشش کرنی۔
تجحیع (بفتحتین) [illegible] ہونا اپنے [illegible] قصداً [illegible] رکھنا۔
تجحیف (بفتحتین) کسی چیز کے اندر آنا
تجحیق (بفتحتین) اکٹھا ہو جانا۔
تجحیش (بفتحتین) وطن [illegible] معاش پیدا کرنا [illegible] دروازہ [illegible] کرنا۔
تجحیب (بفتحتین) لباس میں گریبان بنانا۔
تجحیبہ (بفتحتین) [illegible] کو پیوند کرنا

تجحیح (بفتحتین) پانوں [illegible] نکلنا۔
تجحیح (بفتحتین) زمین پر گرا دینا۔
پچھاڑ دینا۔ [illegible] کنارہ [illegible]
تجحیذ (بفتحتین) جدا کر دینا۔ اچھال دینا [illegible] تیز رو ہو جانا گھوڑے کا
تجحیر (بفتحتین) [illegible] زمین
پر پچھاڑ دینا۔ [illegible] کی طرف منسوب کرنا۔
ایک چیز کی بنا کو الٹ دینا۔
تجحیز (بفتحتین) ایک ایک کر کے اونٹوں کو کھینچ لیجانا [illegible]
اونٹوں کو ہانک دینا۔
تجحیط (بفتحتین) کوشش [illegible] کرنا
تجحیم (بفتحتین) [illegible] کرنا اور [illegible]
تجحیف (بفتحتین) [illegible] خالی کر دینا۔
تجحیق (بفتحتین) جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا
تجحیل (بفتحتین) [illegible] کسی کے گرد پھرنا۔
تجحیر (بفتحتین) متوجہ ہونا۔
تجحیہ (بفتحتین) چمک رہنا۔
تجحیز (بفتحتین) کام کے لیے تیار ہونا [illegible] لشکر [illegible] مسافر کا اسباب تیار ہونا۔

تحفیش (فقعیل) اکٹھا ہونا۔
تحفیک (فقعیل) ازار باندھ کر [illegible] اور [illegible] آمادہ ہونا۔
تحفگر (فعلل) گشتہ ہونا۔
تحمیل (فقعیل) شکار کو جال میں پھانس لینا شکار کرلینا۔
تحبیب (فعلل) درست بنا لینا
تحبیہ (فعلل) [illegible] اور [illegible]
تحبید (فعلل) جید لکھنا۔
تحبیر (فعلل) اچھا اور درست کرنا اور سنوارنا خوشخط لکھنا۔ کلام اور شعر وغیرہ کو سنوارنا۔
تحبیس (فعلل) گھر [illegible] کو [illegible] بند کردینا [illegible] ایک چیز کی اصل اپنے قبضہ ملک میں رکھ کر اس کی آمدنی اور اس کے پھل راہ خدا میں وقف کردینے۔
تحشیش (فعلل) کسی [illegible] کے لیے کچھ جمع کرنا اور رکھنا۔
تحفیف (فعلل) ہلکا کردینا۔
تحلیق (فعلل) مال و متاع جمع کرنا اور [illegible] کے امر کی مضبوطی اور استواری کرنی۔

تحجیک (فعلل) مضبوطی سے باندھنا اور [illegible] خط کھینچنا۔ [illegible] ڈالنا
تحجیل (فعلل) بعض [illegible] بعض پر
تحت (فعل) نیچے ضد فوق ظرف بھی ہے اور اسم بھی [illegible] جب اسم ہوتا ہے تو مبنی بر ضمہ ہوتا ہے۔
تحتحت (فعللة) [illegible] سے اور [illegible] گرنا۔
تحتحت (فعللة) چلنے کی آواز [illegible]
تحتحش (فعلل) جمع ہونا۔ [illegible] پکڑنے کے لیے دوڑنا
تحتحف (فعلل) پریشان [illegible]
تحتحک (فعلل) جلدی چلنا اور پاس پاس قدم رکھنا۔
تحتحم (فعلل) کسی [illegible] سے [illegible] اور [illegible] اور نیک فال نکالنی خوش کرنا اور [illegible] نرم [illegible]
تحتیت (فعلل) [illegible]
تحتید (فعلل) ایک چیز کو [illegible] لینا اور پسند کرلینا [illegible] کردہ خالص اور نفیس کہ۔

[illegible]

ایک دوسرے کی [illegible] ہونا۔
تحاشُش رفنست حصہ لینا
[illegible] کرنا۔
تحاصُب رفنسن ایک دوسرے
پر کنکری پھینکنی
تحاضّ رفنست [illegible] کا [illegible] ہونا
تحافی رفنسک حاکم کے آگے
قصہ لیجانا انصاف چاہنا۔
تحاقّ رفنست آپس میں جھگڑنا
تحاقُر رفنسن آپ کو حقیر کر دینا
تحاکّ رفنست ایک دوسرے کو
کھجانا ایک دوسرے کو گھسنا۔
تحاکُم رفنسن معاملہ کے
ساتھ حاکم کے پاس جانا۔
تحالُن رفنسن آپس میں بات
چیت کرنے لگنا۔
تحالُق رفنسن آپس میں ایک
دوسرے کا سر مونڈنا۔
تحالُل رفنسن آپس میں
[illegible] کرا دینا۔
تحاکُم رفنسن اپنے میں علم دکھانا
[illegible] سے [illegible] نہیں ہے
تحامی رفنسک کسی کو اچھا

اور بنانا [illegible] کہانی۔
تحامُق رفنسن اپنے تئیں احمق بنانا
تحامُل رفنسن مشقت کے ساتھ
ایک کام کرنے اور لینا طاقت سے
زیادہ کام کا حکم دینا ظلم و ستم کرنا۔
تحامی رفنسک اپنے تئیں دوسرے سے
بچانا اور کسی سے پرہیز کرنا۔
تحانُث رفنست [illegible]
تحاوُر رفنسن آپس میں بحث کرنی
تحاوُز رفنسن [illegible] کا آپس
سے [illegible] ہو جانا۔
تحاوُش رفنسن [illegible] لینا
تحاوُص رفنسن اپنے تئیں [illegible] دکھانا
تحاوُل الارض رفنسن ایک سال کھیتی
میں چھوڑ کر جانا اور دوسرے سال اس کو بونا
تحایُز رفنسک [illegible] منزلوں
میں سے ایک منزل ہے [illegible] تین
ستارے ہیں [illegible] کے مقابل میں
تحایا رفنسن ایک [illegible]
تحبُّب رفنسن [illegible] کا سر [illegible]
اول [illegible] ظاہر کرنی
تحجُّج رفنسن [illegible] کی [illegible]
تحبُّس رفنسن اپنے تئیں قید میں رکھنا

تحدّب (فتقّل) کسی سے لڑنے کے لیئے پیٹ جاتا مہربانی کرنی دوسرا معنی تمام عورت کا اور بچوں پر مہربان رہنا۔

تحدّث (فتقّل) بات کہنی۔

تحدّر (فتقّل) سے نیچے کو ڈھلک آنا۔

تحدّس (فتقّل) خبر کی جستجو کرنی۔

تحدّم (فتقّل) غصے کے مارے دانت پیسنے۔

تحدّی (فتقّل) قصد کرنا ایک کام میں دوسرے کی برابری کرنی دشمن کو آگے بلانا لڑائی کے لیئے اور غصہ میں ڈھونڈھنا۔

تحدیث (تفعیل) بات کہنی۔

تحدیج (تفعیل) گھور کر دیکھنا۔

تحدید (تفعیل) چھری وغیرہ کو پتھر یا سوہان سے تیز کرنا۔ دیر میں کھیتی کا نکلنا بسبب دیر میں برسنے مینھ کے۔ کسی کی طرف قصد کرنا کسی کی طرف گھور کر دیکھنا کسی چیز کی حد ظاہر کرنی۔

تحدیر (تفعیل) لکڑی کے زخم سے بدن کا سوج جانا جلدی اذان کہنی۔

تحدیق (تفعیل) گھور کر دیکھنا کسی کے گرد آنا۔

تحذّق (تفعّل) اپنے تئیں حاذق عقلمند و زیرک ظاہر کرنا اور ایسا ہونا۔

تحذّل (تفعّل) مہربان ہونا کسی اور اوس کے لیئے ترس کھانا۔

تحذلق (تفعلل) اپنی حذاقت ظاہر کرنی اور شیخی مارنی۔

تحذلم (تفعلل) دوڑنا موذب ہو جانا۔ دانا ہو جانا۔

تحذیر (تفعیل) ڈرانا۔

تحذیف (تفعیل) بنا اور اچھا کرنا۔

تحرّج (تفعّل) گناہگار ہونا۔ گناہ سے پرہیز کرنا اور توبہ کرنی تنگی سے نکل جانا۔

تحرّد (تفعّل) پوست کا بالوں سے پاک و صاف ہونا اکیلا و تنہا ہونا۔

تحرّر (تفعّل) آزاد ہونا۔

تحرّز (تفعّل) پرہیز کرنا اپنے تئیں کسی چیز سے نگاہ رکھنا۔

تحرّس (تفعّل) اپنے تئیں کسی چیز سے نگاہ رکھنا۔

مادہ

حدب
حدث
حدر
حدس
حدم
حدو
حدث
حدج
حدد
حدر
حدق
حذق
حذل
حذلق
حذلم

۶۲۹

حذر
حذف
حرج
حرد
حرر
حرز
حرس

تحجر (ع) مص [illegible] پتھر [illegible] کی
[illegible] کرنی [illegible]
[illegible] ع مص [illegible]
تحجی [illegible] ع مص خاک [illegible]
خاک [illegible] ہو جانا —
تحجیب [illegible] ع مص [illegible] کرنا —
تحجیر [illegible] ع مص ہوا کی گولیاں [illegible]
تحجا [illegible] ع مص ایک چیز کو لازم
پکڑنا [illegible] تحجیل [illegible] [illegible]
[illegible] ہونا —
تحجیش ع مص پردہ میں چھپانا
تحجیر ع مص حجرہ بنانا کسی کی
تنگی [illegible] سبب [illegible]
اور سخت ہو جانا —
تحجر [illegible] ع مص [illegible]
تحجیز [illegible] ع مص [illegible] ہونا —
[illegible] گنگنانا [illegible]
[illegible] کرنا —
تحجیف [illegible] ع مص ہاتھ [illegible] میں
[illegible] دینا —
تحجیر [illegible] ع مص [illegible]
[illegible] سے [illegible]
آنکھ کے گرد [illegible] داغ دینا —

[illegible] ع مص [illegible]
[illegible]
میں [illegible]
پانوں کی [illegible]
اور ایک [illegible]
دونوں پانوں کی [illegible]
ہاتھوں کی سپیدی [illegible]
کی سپیدی [illegible]
پانوں یا ہاتھ کی سپیدی [illegible]
پانوں یا دو [illegible] پانوں کی [illegible]
تحجیل [illegible] سپید [illegible]
[illegible]
سپید داغ [illegible] کے [illegible] میں [illegible]
پستان [illegible]
قسم کا داغ [illegible]
بنانا [illegible] میں [illegible]
تحجیل [illegible] ع مص [illegible]
[illegible]
اور ایسا ایام خشک سالی میں [illegible]
کرتے تھے —
تحجیم [illegible] ع مص [illegible]
تحجین [illegible] ع مص [illegible]
دینا — [illegible] کرنا —

تحریم (فتح کسر) حرام کردینا۔ نماز کی نیت باندھنی۔ حرم میں آنا۔ حرام مہینوں میں داخل ہونا۔ اور اس نیت والا ہونا کہ جسکا پہنچنا درست نہیں جیسے کو نہ سنوارنا۔ پوری کی ریاست بنانی چوپایہ کی۔

تحزب (فتح فتح ضمہ تشدید) مجتمع ہونا گروہ گروہ ہونا۔

تحزر (فتح فتح ضمہ) کٹ جانا۔

تحزق (فتح فتح ضمہ) برائی کرنی۔ گرہ میں کسی کسی کی۔

تحزق (فتح فتح ضمہ) مثل انجمن ہونا۔

تحزم (فتح فتح ضمہ) کمر سے پٹکا باندھنا۔ کمر بستہ ہونا۔

تحزن (فتح فتح ضمہ) غمگین ہونا کسی غم کھانا اور ترس کھانا۔

تحزر (فتح فتح ضمہ) زال نکالنی عیب کی بات بتانی۔

تحزی (فتح کسر) یعنی تجزیہ۔

تحزیب (فتح سکون کسر) گروہ گروہ کرنا۔ قرآن کا ورد کرنا۔

تحزیر (فتح سکون کسر) اٹکل سے اندازہ کرنا جیسا کہ چرواہوں کے دانت ہوتے ہیں دانت سے اندازہ کرنا۔

تحزین (فتح کسر) غمگین کرنا آواز پڑھنی۔

تحسب (فتح فتح ضمہ) کسی چیز کو تکیہ کرنا۔ اخبار کی تجسس کرنی۔

تحسحس (فتح فتح ضمہ) ہلنا۔ لونڈے کی پشم گر پڑنی۔

تحسر (فتح فتح ضمہ) پچھتانا اور شعدی ہونا ہی سا کچھ کی کے تھک جانا کہلانا چہرہ ہونا عورت کا پڑا پسنے پھر جھاڑ دینے جانور کے اور نئے نکال لانے سانڈنی کے سب اونٹ کی پشم گر جانی۔ لڑکی کے بدن میں اپنی اپنی جگہ گوشت بھر آنا۔ اونٹ کو چربی اور نری گوشت کہ بہار کے کہاس کھانے سے حاصل ہوا تھا وہ بسبب چند روز کی سواری کے جاتا رہنا اور وہ گوشت جو کہ لٹک آیا تھا اپنی اپنی جگہ سخت ہو جانا۔

تحسف (فتح فتح ضمہ) اونٹ کی پشم اڑ جانی اور گر جانی۔

تحسی (فتح فتح ضمہ) تھوڑا تھوڑا ادبیہ میں شوربا پینا۔

تحسیب (فتح سکون کسر) تکیہ پر بٹھانا پیٹ بھر کر کھلانا۔ ایسی چیز دینی جس سے

تحریص [illegible]
[illegible] کرنا
تحریض [illegible]
[illegible]
تحریف [illegible]
[illegible]
تحریق [illegible]
تحریک [illegible]
تحریم [illegible] کسی کی حرمت
[illegible] بینی
تحریر [illegible] زمین [illegible]
تحری (تفعّل) قصد کرنا [illegible]
میں [illegible] درست [illegible]
[illegible] کی [illegible] ہے
تحزیب [illegible] (تفعیل) [illegible]
کی [illegible] تیز کرنا [illegible]
کسی کو [illegible] برانگیختہ کرنا ابھارنا
تحریج (تفعیل) تنگ کرنا کسی کی
تنگ [illegible] کرنی بہت قسم اور
سوگند کھانی حرام کرنا
تحریر (تفعیل) [illegible]
یہاں تک کہ گول ہو جاوے
ایک چیز کو کج کرنا [illegible] حلق
کی ہیئت پر [illegible]

[illegible]
[illegible] بنا
[illegible] بنا
زینت [illegible]
تحریض (تفعیل) [illegible]
[illegible] سعدی
[illegible]
کی [illegible] کلام
[illegible]
تحریر [illegible]
[illegible] کرنا
تحریش (تفعیل) [illegible]
[illegible]
تحریض (تفعیل) [illegible]
کرنا ایک چیز پر اپنی [illegible]
[illegible] حرص [illegible]
گلنا [illegible] کپڑے کا [illegible]
اور گلا ہوا ہو جانا
تحریف (تفعیل) بات کو اپنی
جگہ سے پھیر دینا اور قلم میں قط لگانا
تحریق (تفعیل) [illegible] جلانا آگ
میں [illegible]
تحریک (تفعیل) حرکت دینا

شہر کے گرد اگرد نکالنا۔
تحضب ا رفتفعل) سنگ ناک سے شعلہ ... گزار رستہ پر کر قریب ہی چلنا۔
تحضیر رتفعیل) حاضر ہونا۔ کسی
تحضیع رتفعیل) بات میں کرنا
تحضیض رتفعیل) لڑائی پر آمادہ کرنا
تحطم رتفعل) ٹوٹ جانا۔ غصہ کے مارے جلنا۔
تحطیط رتفعیل) کھانے کو کھانا
تحطیم رتفعیل) بہت توڑنا۔
تحظرب رتفعلل) مشک بھر جانی غصہ سے بھر جانا یا کھانے سے۔
تحفیر رتفعیل) سو تمات تحف رتفعیل
تحفز رتفعل) پانوں پر بیٹھنا۔
تحفش ۱۱ رتفعل) عورت کا خاوند کے لیے دوستی ظاہر کرنی۔ چھوٹے گھر میں ہمیشہ رہنا۔ جمع ہونا۔
تحفظ ۱۲ رتفعل) پرہیز کرنا ہوشیار اور بیدار رہنا ایک چیز کو یاد کر لینا۔
تحفل ۱۳ رتفعل) زینت کرنی اور سنوارنا۔ دودھ پانی وغیرہ کا جمع ہو آنا مجلس کا لوگوں سے بھر جانا۔
تحفن ۱۴ رتفعل) کمائی کرنے میں

کوشش کرنی۔ بہت مہربانی اور نوازش کرنی۔ خوشی و مسرت ظاہر کرنی۔ بہت حال پرسی کرنی۔
تحفیش رتفعیل) چھوٹے گھر میں بیٹھنا
تحفیض رتفعیل) اعضا میں سے گرا دینا ایک چیز کو۔ جو ان بھینک دینی ہلکا کر دینا خشک کر دینا زمین کو۔ زمین کا خشک ہو جانا۔
تحفیظ رتفعیل) کسی کو کتاب وغیرہ یاد کرانی۔
تحفیف ۱۸ رتفعیل) تنگ اور مفلس اور کم حال ہونا۔ ایک چیز کا طواف کرنا اور اوس کے گرد اگرد پھرنا۔ کسی چیز کو کپڑے وغیرہ میں تھام لینا۔
تحفیل ۱۹ رتفعیل) پانی جمع کرنا۔ زینت دینی سنوارنا۔ ایک مدت تک بکری کو نہ دوہنا جمع ہونے کے لیے تاکہ اوس کے تھن بھر جائیں اور پھر خریدار کو دکھائی دے۔
تحقد ۲۰ رتفعل) کینہ رکھنا۔
تحقق ۲۱ رتفعل) خبر کا صحیح اور درست ہونا۔ ایک امر کو کسی کے سامنے ثابت کرنا
تحقیر ۲۲ رتفعیل) کسی کو ذلیل اور خوار چھوٹا رکھنا۔ کلام کو حقیر گننا۔

مادہ
خضب
حضر
حضع
حضض
حطم
حطط
حظرب
حفز
حفش
حفظ
حفل
حفن
حقد
حقق
حقر

...غش ہو جاوے کسی چیز کو تکیہ کرنا
مردہ کو کفن میں رکھکر گور میں رکھنا
یا شگستان میں دفن کرنا۔
تحشید رفتکس بہت حسد کرنا۔
تحشیر رفتکس انکا دینا دوسرے
افسوس دلانا۔ جانور کے پر جھاڑنی
تحسر کہنا۔ آرزدہ کرنا۔
تحشیف رفتکس سر چھوان کے
بال منڈوانے۔
تحسین رفتکس سنوارنا اچھا
کرنا نیکی کیطرف منسوب کرنا۔
تحشش رفتفص پراگندہ ہونا
حرکت کرنی۔
تحشد رفتفص جمع ہو آنا قوم کا۔
تحشف رفتفص اپڑے کے ... بھیجنے
تحشم رفتفص عار و ننگ رکھنا۔
تحشن رفتفص کمائی کرنی۔
تحشی رفتنک اہتدعن میں سے
کسی کو نکال لینا جیسے تحشی منہم
فلانا کسی سے عار و ننگ کرنا۔
جیسے تحشی من فلان۔ حاشا کہنا
تحشیف رفتکس پہور سے آنکھ
کے بند کرکے پلکوں سے شعور انگور

میں سے دیکھنا۔
تحشیم رفتکس غصہ میں لانا۔
تحصب رفتفص گہیوں کا جنگل
میں آنا دانے کی تلاش میں۔
تحصحص رفتفص زمین پر چپت جانا
اور برابر ہو جانا۔
تحصل رفتفص جمع ہو آنا۔ ثابت ہونا
تحصن رفتفص حصان ہو جانا۔
عورت کا پارسا ہو جانا یا خاوند کر لینا۔
گھوڑے کی اصالت حصین میں ہونا۔
تحصی رفتنک بچنا۔
تحصیب رفتکس کنکریاں بچھانی
اعراض کرنا سرات کو ایک ساعت
محصب میں سونا اور محصب ایک موضع
ہے مابین مکہ اور منی کے۔
تحصیر رفتنک ہگانا۔ رکھنا پناہ دینی
تحصیص رفتکس ظاہر ہونا۔
تحصیل رفتکس اپور کے ... چھلکا
علیحدہ ہو آنا۔ حاصل کرنا حروفی
... کو کان سے نکالنا۔
تحصین رفتکس مضبوط کر دینا
حصن میں کر دینا خاوند کا عورت کو
چھپانا گھوڑے کی اصالت۔

تحلیۃ (تفعلۃ) پوست کے [illegible]
اور اسکا میل اور سیاہی [illegible]
کا میٹھا کرنا۔ کسی کی آنکھ میں کسی چیز کو
اچھا دکھانا۔ عورت کو زیور پہنانا۔
عورت کے لیے زیور بنانا۔ کسی کا
حلیہ لکھنا اور اسکے نشانوں کو تامل سے لکھنا
تحلیف (تفعیل) قسم کھلانی۔
تحلیق (تفعیل) اچھی طرح سے
مونڈنا۔ عرب کا دو ثلث پکانا۔ آدمی کی
پستان کا شیر بڑھ جانا۔ آنکھیں
گڑھے میں گھس جانی۔ ہالہ میں بیٹھنا
چاند کا۔ ستارہ کا بلند ہونا۔ کسی کی طرف
بالضرر چیز پھینکنی۔ آنکھ آسمان کی طرف
اور اٹھانی۔ بہت اونچا چڑھ جانا۔ جانور کا
آسمان میں حلقہ کی شکل کا [illegible]
تحلیل (تفعیل) امکان میں [illegible]
اچھی طرح سے کھولنا۔ گرہ کو۔ حلال
کر دینا۔ کفارہ دیکر سوگند اور [illegible]
سوگند کا کفارہ دینا۔ وہ کام جسمیں
مبالغہ نکیا جاوے جیسا تھوڑا سا
مارنا کسی کو بطور ادب کے۔
تحلیم (تفعیل) [illegible] کر دینا۔
علم کرنے کا حکم کرنا۔ [illegible]

[illegible] دور کر لینی۔
تحمیم (تفعیل) [illegible] منقش کرنا۔
تحمیۃ (تفعلۃ) [illegible] سیاہی
تحمیۃ (تفعلۃ) [illegible]
تحمحت (تفعلل) خالص ہونا رنگ کا
تحمحم (تفعلل) احمق ہونا گھوڑے
کا آواز کرنا ہنہنانے سے کم۔ جو بھگنے
کے وقت [illegible] گھوڑے کا آواز کرنا
تحمد (تفعل) کسی پر منت رکھنی۔
تحمس (تفعل) سخت اور
کڑا ہونا دین میں
تحمش (تفعل) غصہ کے مارے
بھڑک اٹھنا۔
تحمع (تفعل) [illegible] جانا۔ جمع ہونا
گوشت کا خشک ہو کر پھٹ جانا۔
تحمص (تفعل) [illegible] ہونا
تحمل (تفعل) تحمال کی [illegible]
کام کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لینا۔
کوچ کر جانا۔ سفر کر جانا۔
تحمق (تفعل) احمق ہو جانا [illegible]
تحموت (تفعلت) انگلی کی [illegible]
[illegible] بہت شیرین [illegible]
تحمی (تفعل) بیمار کا [illegible]

مادہ

[illegible]

حلج
حلس
حلف
حلق
حلل
حلم
حلو
حلی
حلا

تحقیق (فتح ضمہ کسرہ) واجب کرنا۔ جاننا اور تصدیق کرنا۔ درست کرنا۔

تحکر (فتح ضمہ) بمعنی احتکار یعنی غلہ بیچنے سے روکنا حبس کرنا۔

تحاکک (فتح ضمہ) کسی کے ساتھ بری سے پیش آنا۔ نکٹھو ہونا۔

تحکل (فتح ضمہ) نادانی کی راہ سے چلنا۔ جھگڑنا۔

تحکم (فتح ضمہ) فرمانبرداری کرنی۔ حکم کرنا۔ فرقہ حروریہ کا لا حکم الا للہ کہنا۔

تحکیک (فتح کسرہ) خوب کھجلانا۔

تحکیم (فتح کسرہ) حاکم بنا دینا۔ کسیکو اوسکی خواہش اور تمنا سے روک دینا۔ صلح کر دینی۔ اپنے مال میں کسیکو حاکم کر دینا۔

تحلابۃ (کسرہ فتح) مکری جسکے تھنوں میں سے جننے سے پہلے کچھ تھوڑا سا دودھ نکل آوے۔

تحلب (فتح ضمہ) پسینا بہنا۔ منہ کی رال بہنی۔ آنکھ کا پانی بہنا۔

تحلبۃ (کسرہ فتح) بمعنی تحلابۃ

تحلج (فتح ضمہ) ابر کا پھٹنا اور اوسکا چمکنا۔ کسی چیز کا دل میں کھٹکنا۔

تحلحل (فتح ضمہ) اپنی جگہ سے جدا ہونا۔

تحلز (فتح ضمہ) کچھ نیچ رہنا۔ درد والا ہونا۔ دل کا تنگ ہونا۔ دامن اوٹھانا۔

تحلق (فتح ضمہ) حلقہ میں بیٹھنا چاند کا۔ حلقہ حلقہ ہو کر بیٹھنا۔

تحلل (فتح ضمہ) سفر سے آکر بیمار پڑ جانا۔ قسم میں استثنا کر لینا۔ کفارہ دیکر قسم سے باہر ہو جانا۔

تحلم (فتح ضمہ) خواب دیکھنے یا خواب دیکھنے کا دعوی کرنا۔ بعد دیکھنا بتکلف بردبار بننا۔ اونٹوں کا موٹا ہو جانا۔ چیچڑی دار ہو جانا۔ سوسمار کے بچے کا۔

تحلمۃ (کسرہ فتح) بہت چیچڑیوں والا۔

تحلو (فتح ضمہ) ایک چیز کو میٹھا پانا۔

تحلی (فتح ضمہ) زیور پہننا عورت کا اور اوس سے فائدہ اوٹھانا۔ زیور پہننا اور آراستہ ہونا۔

تحلیۃ (فتح کسرہ) تحلیہ (کسرہ فتح) پانی سے روکدینا اور پینے ندینا۔ جیسے حلأہ عن تحلیۃ میٹھا میں ڈالنا ستو وغیرہ میں۔ درہم دینا۔

تحلی (فتح کسرہ) گھوڑے پرسے کے بال اور اوسکا میل اور سیاہی۔ پوست جسمیں چیڑی کا زخم لو تار ... [illegible]

تحفظ (تفعّل) ہوشیار ہونا گھر دیکھنا
تحنف (تفعّل) اپنی عمر گذارنی
تحنث بت پرستش سے کنارہ کرنا۔
تحنف بڑھانا۔ دین حنیف اختیار کرنا
کسی کی طرف میلان کرنا جیسے تحنف الیہ
تحنک (تفعّل) ٹھوڑی کے
نیچے سے عمامہ نکالنا۔
تحنن (تفعّل) کسی پر مہربانی کرنی
تحنی (تفعلل) تحنیہ مشتق
مہندی لگانا۔
تحنی (تفعلہ) جیسے حنا سے رنگ کیا
اور شکوہ تحنی علیہ تحنیہ ہوا اور تحنی
علیہ مہربان ہوا اوس پر
تحنیب (تفعیل) سر جھکانا بقعت
خانہ کو منعقد کرنا کج کرنا گھوڑے
کے ہاتھ پاؤں کی کجی۔
تحنیہ (تفعیل) کج اور خم دینا۔
بیٹھ دوہری کرنی۔
تحنیف (تفعیل) اخف کر دینا۔
تحنیق (تفعیل) کھیتی کے کانٹے
پوست میں سے نکل کر منتشر ہو جانے
تحنیک (تفعیل) حنک ملنا سکھانا
یا بچہ کو گھٹا باندھنا تجربوں کا

کسی کو بچے کی تحنیک کا کر دینا سر وہ کے ٹھوڑی
کے نیچے سے خرقہ نکالنا۔
تحنین (تفعیل) درخت کا پھول نکالنا
لانا۔ سے پیچھے ہٹنا بد علی کرنی
تحوب (تفعّل) گناہ سے توبہ کرنی
دردمندی کرنی غم کے مارے سے
تحوبت (تفعّل) اسے کہتے لوگ۔
تحوج (تفعّل) حاجت چاہنی۔
تحور (تفعّل) اپنے اوپر لپیٹنا کسی
طرف کو چلنا۔ کور پکڑنا۔
تحوز (تفعّل) دلیری کرنی کسی
کسی چیز کے لیے ...
کے مقصد پر ایک جگہ اقامت کرنی
تحوش (تفعّل) گوشہ گزینی کرنی
دور ہونا۔ شرم کرنی۔ بیوہ ہونا عورت کا
تحوط (تفعّل) نگاہ رکھنا۔ خبرگیری کرنی
تحوف (تفعّل) کسی کے کنارہ
میں سے کم کرنا۔
تحول (تفعّل) پشتارہ اوٹھانا۔
حیلہ کرنا۔ ایک چیز سے دوسرے کی
طرف پھر جانا۔ کچھ چادر میں رکھ کر اسکو
پیٹھ پر اوٹھانا۔ وہ وقت ڈھونڈھنا کہ
جس میں انسان خوشی سے نصیحت کرے

[illegible]

سے پرہیز کرنا۔
تحمیج (تفعیل) تیز اور گھور کر دیکھنا
[illegible] میں دیکھنا۔ گڑھے میں
تحمیس (تفعیل) [illegible] غصے سے چہرہ
[illegible] کو کھولا کر دیکھنا
دیکھنا۔ [illegible] اور
[illegible] کے سبب گھوڑے کے پسینے کو بہانا
تحمید (تفعیل) بیمار کی تحمید کرنی
تحمیر (تفعیل) خمیر روٹی میں بات
چپت [illegible] کی بدبو ہونا۔
تحمیز (تفعیل) کسی کو [illegible] کہنا
[illegible] کرکے کاٹنا۔ خمیر روٹی میں [illegible]
[illegible] سے [illegible] سختی سے
تحمیش (تفعیل) غصہ دلانا۔
[illegible] آگ [illegible] کہنی۔
سخت اور [illegible] کرنا۔
تحمیس (تفعیل) جمع کرنا۔ غصہ دلانا
تحمیص (تفعیل) [illegible]
[illegible] کا شکار کرنا۔
تحمیض (تفعیل) [illegible] سے جماع
کرنا۔ کسی چیز میں [illegible] کرنی۔
تحمیط (تفعیل) ایک درخت [illegible]

انگلی [illegible] دینا تاکہ آگ تاپ [illegible]
ذلیل اور خوار کرنا۔ کسی کو مارنا
لیکن بہت نہیں
تحمیق (تفعیل) کسی کو حماقت کی
طرف منسوب کرنا۔ احمق بنانا
تحمیل (تفعیل) بوجھ اٹھانے
کے لئے حکم دینا۔ کام کرنے
کے لئے حکم دینا۔
تحمیم (تفعیل) پانی گرم کرنا۔ کوئلے
سے کالا منہ کر دینا۔ لڑکے کے سر کے بال
نکل آنی بعد مونڈنے کے سر کے
بال نکل آنے۔ سبزی میں مال
سیاہی نکال لانا زمین کا۔ چوزہ کا
پر نکال لانا۔
تحنا (تفعّل) مہندی سے رنگین ہونا
تحنب (تفعّل) بوڑھاپے سے
کبڑا ہو جانا۔ کسی پر مہربان ہونا۔
تحنبل (تفعلل) سر نیچے کرنا۔
تحنث (تفعّل) چند رات عبادت
کرنی اور بتوں کی پرستش سے
کنارہ پکڑنا اور اپنے گناہ دور کرنے
تحندس (تفعلل) اندھیری رات
ہونی۔ سکڑ پڑنا۔ ضعیف ہونا۔

ہو جانا اور خروج کار کو نہ جاننا پانی کے گرد پھرنا۔ جگہ کا پانی سے بھر جانا۔ تمام اعضاء بدن میں چربی آجانا۔ کسی طرف کو اس کا متوجہ ہونا۔ طعام اور گوشت کی چکنائی سے پیالے کا بھر جانا۔

تحییر (تفعیل) سانپ کا اپنے اوپر لپٹنا۔

تحکیش (تفعیل) نفرت کرنی بھاگنا چھوڑنا۔

تحییض (تفعیل) ایام حیض میں نماز سے رک جانا عورت کا۔

تحیکط (تفعیل) سخت برس جنگی سختی اور شوں بعد بکریوں پر پڑے۔

تحییف (تفعیل) ایک چیز کے کنارہ میں سے کم کرنا۔

تحیین (تفعیل) وقت۔

تحیین (تفعیل) اونٹنی کو ایک وقت دوہنا۔ ہلاک ہو جانا وقت مقرر ہونا۔

تحیشیر (تفعیل) پریشان کر دینا۔

تحیشیش (تفعیل) حیس طعام بنانا۔

تحییض (تفعیل) جاری کرنا حالت حیض میں جماع کرنا۔

تحیین (تفعیل) ایک چیز کے لیے وقت

مقرر کر دینا۔ دشمنی کو ایک وقت دینا ہلاک کر دینا۔

تخ (رفت) تل کا عصارہ یعنی پھیا تیل کھلیا خمیر۔

تخاتل (تفاعل) ایک دوسرے کو فریب دینا۔

تخاتن (تفاعل) آپس میں ایک دوسرے کا داماد ہونا۔

تخاجو (تفاعل) آہستہ چلنا اور کو ہوا سے بھر کر اس کے پیچھے سر سے کو نچلے کی طرف نکالنا۔

تخادع (تفاعل) اپنے تئیں فریب خوردہ ظاہر کرنا اور ہو نہیں۔ ایک دوسرے کو فریب دینا۔

تخادن (تفاعل) ایک دوسرے کے ساتھ دوستی میں استوار ہونا۔

تخاذل (تفاعل) پاؤں کا ضعیف ہونا۔ ایک دوسرے کو چھوڑ دینا اور آپس سے ٹوٹ چھوٹ جانا۔ اپنے بچے پر ٹھہر رہنا ہرنی کا۔

تخارج (تفاعل) بعض شریکوں کا تو گھر بنے ہوؤں کو لے لینا اور بعض کا زمین کو۔

مادہ

حیب
حیر
حیض
حیط
حیف
حین
حیس
حیش
حیض
۶۳۳
حصن
حقن
حضن
حجا
فنح
خدن
خذل
خرج

[illegible] الف [illegible] فشا کی تیز نظر
[illegible] میں تصرف [illegible] ہوتا
[illegible] سے مال [illegible]
[illegible] ایک جگہ سے دوسری جگہ کی
طرف پھیرنا۔ گھوڑی کا [illegible] پھیرنا
تحویل (فتح) [illegible]
تحویث (ف ش س) [illegible] کو [illegible]
[illegible] سے [illegible]
تحویر (ف ش ک) [illegible]
کو ایک [illegible] گول
کر دینا۔ حلقہ ہونا۔
تحویج (ف ش س) رستہ سے کسی کو
پھیرا کر دینا۔ کسی کی محبت میں اپنا
طریق چھوڑ دینا۔
تحویر (ف ش س) کپڑے سفید
کرنے [illegible]
سکے لیے۔ نامراد و خاسر کر دینا۔
جیسے [illegible] ۔ داغ
دینا۔ پھرانا اور دور ادینا۔
تحویز (ف ش س) نرمی اور آہستگی
سے اونٹوں کو پانی کی طرف ہانکنا
ایک چیز کو ایک چیز سے جو [illegible] ملانا
تحویش (ف ش س) بہت جمع کرنا

[illegible]
تحوط (ف ش س) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] سے ایک چیز
کی طرف راغب ہونا
تحویط (ف ش س) نگاہ رکھنا۔ خبر گیری
کرنی۔ [illegible] وغیرہ کے
گرد اگرد دیوار کھنچوانی۔
تحویف (ف ش س) کنارہ پر [illegible]
[illegible] باقی چارہ [illegible]
تحویق (ف ش س) [illegible] کر دینا
تحویل (ف ش س) نقل کر دینا کسی
کو کسی کی طرف پھیر دینا۔ کسی کی
طرف پھر جانا۔ کہکشان کا بیچ آسمان
میں ہونا۔ اونٹنی کا نر سے
حاملہ نہ ہونا۔ کسی کی آنکھ کو کج کر دینا
تحویم (ف ش س) کام میں [illegible] کرنی
تحیۃ (ف ت ف) سلام کرنا۔ سلام
بقا۔ ملک۔ تحیات [illegible] تحایا
(ف ف ف) جمع۔ باقی اور زندہ رکھنا
یا الگ کر دینا۔
تحیز (ف ف ف) ایک چیز کو دیکھ کر [illegible]

بات چیت کرنی غرض سے ـ
تخایل (فعفعل) غرور کرنا ـ
تخجخب (فعفعل) لٹک جانا اور نرم ہو جانا ـ موٹاپے کے بعد دبلا ہونا ـ گرمی کی شدت وبجاتی ـ
تخبر (فعفعل) خبر پوچھنی ـ بکری گوشت اگٹ میں خرید کر ذبح کرنا ـ کسی چیز کی آگاہی ـ با خبر ہونا ـ
تخبس (فعفعل) غنیمت پانی ـ
تخبش (فعفعل) جمع کرنا اور ادہر اودہر سے گھیر کر لانا ـ
تخبص (فعفعل) خبیصہ بنانا ـ
تخبط (فعفعل) دیوانہ پن میں رکہنا کسی کو آسیب کا ـ اٹکل سے راہ چلنا ـ اگلا پاؤن دے مارنا اونٹ کا زمین پر ـ
تخبق (فعفعل) بلند ہونا ـ
تخبی (فعفعل) خیمہ بنانا خیمہ بلند کرنا اونچا کرنا ـ
تخبیث (فعفعل) فریب دینا خیانت کرنی ـ
تخبیہ (فعفعل) پوشیدہ کرنا چہپانا
تخبیت (فعفعل) خبیث کر دینا
تخبیر (فعفعل) خبر دینی ـ آگاہ کرنا ـ
تخبیص (فعفعل) خبیصہ پکانا ـ
تخبیل (فعفعل) غم کا کسی کو دیوانہ کر دینا اور اسکا کسی کو خراب اور تباہ اعضا کر دینا ـ
تختت (فعل) جامہ دانی ـ
تختاخ (فعفعل) جسکی زبان میں لکنت ہو ـ توتلا ـ ہکلا ـ
تخت (فعل) تختہ کا معرب ہے ـ
تخاتج (فعفعل) جمع ـ
تخ تخ (کس کس) ایک کلمہ ہے جس سے بکریوں کو ڈانٹتے ہیں ـ
تختخانی (فعفعل) بمعنی تختاخ ـ
تختخہ (فعفعل) زبان کی تتلاہٹ ـ آواز کی نقل ـ
تخثر (فعفعل) سستی کرنی اور پڑا ہو جانا ـ کاہل ہو جانا ـ سپید زرد ہونا ـ دودہ وغیرہ پینے سے ذہن پریشان ہو جانا ـ کاہوق کی طرح سے چلنا ـ
تخمر (فعفعل) سر پر عمامہ باندہنا اونگہنا ـ اونگھنی میں پہنچنی ... سلسلہ کلام کو چہپانا غفلت کرنی ـ چپ ہو جانا

تخ

[illegible] (بفتحتین) آپس میں [illegible]
ایک دوسرے سے جنگ
پر آمادہ ہونا —

تخارب (بفتحتین) [illegible] کا
چھتا شہد کی مکھی کا چھتا شہد کا
[illegible] [illegible]
[illegible] کی [illegible] تھکنے —

تخازر (بفتحتین) آنکھ کے کونے سے
[illegible] کرنا تیز ہو جاوے —

تخاشن (بفتحتین) چند شخصوں کا
ایک چیز کو ایکبار لینا اور [illegible]
[illegible] شخصوں کا ایک چیز کو [illegible]

تخاسو (بفتحتین) آپس میں
سنگ اندازی کرنی

تخاشی (بفتحتین) آپس میں
سنگ اندازی کرنی —

تخاصر (بفتحتین) ملنے میں ایک
دوسرے کا ہاتھ پکڑنا

تخاصل (بفتحتین) تیر اندازی
میں شرط لگانی —

تخاصم (بفتحتین) یعنی خصام

تخاطب (بفتحتین) آپس میں
رو برو ہو کر بات کرنی

تخاطر (بفتحتین) [illegible] لگانی —

تخاطف (بفتحتین) یعنی [illegible]

تخافت (بفتحتین) چپکے کلام کرنا —

تخافق (بفتحتین) [illegible] ہونا —

تخالج (بفتحتین) دل میں کچھ کھٹکنا —

تخالس (بفتحتین) ایک دوسرے
سے اوچک لیجانا —

تخالط (بفتحتین) آپس میں
[illegible]

تخالص (بفتحتین) دوستی کرنی —

تخالط (بفتحتین) آپس میں [illegible]
[illegible] کا کھانا —

تخالع (بفتحتین) آپس میں [illegible]
[illegible] مال [illegible] خصم کی آپس
میں جدائی کرنی —

تخالل (بفتحتین) آپس میں دوستی کرنی

تخامص (بفتحتین) بھوکا ہو جانا
صبح کے وقت کی تاریکی ہلکی ہو جانی

تخاور (بفتحتین) آپس میں عہد در
پیمان کرنا قول و قرار کرنا —

تخاوص (بفتحتین) آنکھ بند کر
کسی چیز کی طرف نزدیک دیکھنا جیسا کہ
آفتاب وغیرہ کو دیکھتے ہیں

تخاوض (بفتحتین) آپس میں

بات چیت کرنی غرض سے ۔

تجابل (تفعل) غرور کرنا ۔

تجنب (تفعل) لٹک جانا اور نرم ہو جانا ۔ موٹاپے کے بعد دبلا ہونا ۔ گرمی کی شدت و بیماری

تجبر (تفعل) خبر پوچھنی ۔ بکری کو شراکت میں خرید کر ذبح کرنا ۔ کسی چیز کی آگاہی ۔ باخبر ہونا ۔

تجبس (تفعل) غنیمت پانی ۔

تجبش (تفعل) جمع کرنا ادھر ادھر سے گھیر کر لانا ۔

تجبص (تفعل) خبیصہ بنانا ۔

تخبط (تفعل) دیوانہ پن میں رکھنا کسی کو آسیب کا ۔ آنکھ بند کر کے راہ چلنا ۔ اگلا پاؤں دے مارنا اونٹ کا زمین پر ۔

تجنق (تفعل) بلند ہونا ۔

تخبی (تفعل) خیمہ بنانا خیمہ بلند کرنا اونچا کرنا ۔

تخبیث (تفعیل) فریب دینا خیانت کرنی ۔

تخبئة (تفعلة) پوشیدہ کرنا چھپانا

تخبیت (تفعیل) خبیث کر دینا

تخبیر (تفعیل) خبر دینا ۔ آگاہ کرنا ۔

تخبیص (تفعیل) خبیصہ پکانا ۔

تخبیل (تفعیل) عقل کا کسی کو دیوانہ کر دینا اور اس کا کسی کو خراب اور تباہ اعضا کر دینا ۔

تخت (فس) جامہ دانی ۔

تختاخ (فعلال) جسکی زبان میں لکنت ہو ۔ توتلا ۔ ہکلا ۔

تختج (فعل) تختہ کا معرب ہے ۔

تختاخ (فعالل) جمع ۔

تخ تخ (کس کس) ایک کلمہ ہے جس سے بچھڑوں کو ڈانٹتے ہیں ۔

تختخانی (فعللانی) بمعنی تختاخ ۔

تختخة (فعللة) زبان کی تتلاہٹ ۔ آواز کی نقل ۔

تخثر (تفعل) سستی کرنی ڈھیلا ہو جانا ۔ کاہل ہو جانا ۔ دہی زردہ ہونا ۔ دودھ وغیرہ پینے سے ذہن پریشان ہو جانا ۔ کاہوں کی طرح سے چلنا ۔

تخمر (تفعل) سر پر عمامہ باندھنا اور تکلمی میں پہننی سلسلہ کلام کو چھپانا غفلت کرنی ۔ چھپ ہو جانا



تخ

تشاجر (بفتح) شجر۔ آپس مین ایک دوسرے سے جنگ کے لیے برانگیختہ ہونا۔

تحارب (بفتحتین) ایرون کا چھتا۔ شہد کی مکھی کا چھتا۔ شہد کی مکھیون کے گھر جیسے سوراخ سوراخ جس مین مکھی شہد رکھے۔

تحازر (بفتحتین) آنکھ کے پپوٹے کو تنگ کرنا کہ نگاہ تیز ہو جاوے۔

تحاشت (بفتحتین) چند شخصون کا ایک چیز کو ایکبار اسکا لینا اور اوسکا ... چند شخصون کا ایک چیز کیطرف ...

تحاکسو (بفتحتین) آپس مین سنگ اندازی کرنی۔

تحاسی (بفتحتین) آپس مین سنگ اندازی کرنی۔

تحاصر (بفتحتین) چلنے مین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا۔

تحاصل (بفتحتین) تیر اندازی مین شرط لگانی۔

تحاصم (بفتحتین) بمعنی اختصام۔

تحاطب (بفتحتین) آپس مین ادہر ادہر کی بات کرنی۔

تحاطر (بفتحتین) آپسمین شرط لگانی۔

تحاطو (بفتحتین) بمعنی تخطو (بفتحتین)

تحافت (بفتحتین) چپکے کرنا۔

تحافف (بفتحتین) ہلکا ہونا۔

تحالج (بفتحتین) دلمین کچھ کھٹکنا۔

تحالس (بفتحتین) ایک دوسرے سے اوچک لیجانا۔

تحالص (بفتحتین) آپس مین خالص دوستی رکھنی۔

تحالط (بفتحتین) آپسمین عیش و عشرت کا مچانا۔

تحالع (بفتحتین) آپس مین قسمین توڑ ڈالنی۔ مال پر جوے و خصم کی آپس مین جدائی کرنی۔

تحالل (بفتحتین) آپسمین دوستی کرنی۔

تحامص (بفتحتین) کمسو ہو جانا۔ صبح کے وقت رات کی تاریکی ہلکی ہو جانی۔

تحاور (بفتحتین) آپس مین عہد و پیمان کرنا۔ قول و قرار کرنا۔

تحاوص (بفتحتین) آنکھ بند کر کسی چیز کی طرف تیز دیکھنا جیسا کہ آفتاب وغیرہ کو دیکھتے ہین۔

تحاوض (بفتحتین) آپس مین

[18] خلل [19] شخص [20] خود [21] خوص [22] خوض ۱۲

مادہ

تخرس رفتقص، اپنے بچے کھانا پکانا عورت کا مہمانی کے لیئے
تخرص رفتقص، افترا کرنا
تخرط رفتقص، روغن کو روغن دان میں سے دمغزہ سے اوٹھانا
تخرق رفتقص، جھوٹ گرھنا پھٹا ہوا اور پارہ پارہ ہونا سماوت میں ہاتھہ کو کھولنا۔
تخرم رفتقص، درز کا اودھڑنا چھوجانا غصہ دب جانا جڑسے اوکھاڑ ڈالنا۔
تخرمل رفتقص، پارہ پارہ ہوجانا
تخریب رفتکس، ویران کر دینا
تخریج رفتکس، باہر نکال لانا علم ادب میں کسی کو راہ پر لے آنا اور اوسکو بنا لینا تختی پر کچھہ تو لکہنا اور کچھہ چھوڑ دینا۔ ایک کام کا انواع واقسام پر کردینا۔ چراگاہ کی بعض جگہہ چرنی اور بعض جگہہ چھوڑ دینی۔
تخریس رفتکس، بچے کے پیدا ہونے کے لیئے مہمانی کا کھانا پکانا۔

تخریص رفتکس، کھیتی کے خوشے کا سرا نکلنا۔
تخریص رفتکس، تخرلیقہ رفتکسف، انگرکہ وغیرہ کا چوبغلہ
تخریط رفتکس، دوا کا کسی کے پیٹ کو جاری کر دینا۔
تخریف رفتکس، کسیکو خرف کہنا۔
تخریق رفتکس، پھاڑنا پارہ پارہ کرنا۔ بہت جھوٹ بولنا۔
تخریم رفتکس، درز کو اودھیڑنا
تخزب رفتقص، پوست کا بھر آنا۔ اونٹنی کی پستان سوج جانی
تخزع رفتقص، اپنی قوم سے پیچھے رہجانا۔ قربانی میں سے گوشت کا ٹکڑا جدا کرنا۔ حصہ حصہ کر کے آپسمیں بانٹ لینا۔
تخزل رفتقص، بعض بادل کا بعض پر بھاری پن سے چڑھ آنا بھاری پن اور سستی سے
تخزلج رفتقص، چلنے میں جلدی کرنی جھپٹ کر چلنا۔
تخزم رفتقص، ناکون میں کان یا چھنا
تخزیر رفتکس، تنگ کرنا۔

تحشیم (فتکسر) عمامہ بندی۔
تحشیف (فتکسر) جھڑنا اکھاڑنا۔ فہرست کرنی۔
تحشیر (فتکسر) شراب کا ذہن کو خراب کر دینا۔
تحتیم (فتکسر) اچھی طرح سے مہر کرنی۔
تحثیر (فتکسر) دہی بنانا۔
تحجیم (فتکسر) چوڑا کر دینا۔
تحجیل (فتکسر) شرمندہ کرنا۔
تحدب (فتقص) رستہ چلنا نہ تو جلدی سے نہ سستی سے۔
تحدر (فتقص) جھریاں پڑ جانی سے دبلا اور کم گوشت ہو جانا۔
تحدر (فتقص) چھپ جانا۔
تحدع (فتقص) تکلف سے فریب دینا دھوکا دینا۔
تحدید (فتکسر) دبلا اور کم گوشت ہونا سو دبلا اور کم گوشت کر دینا۔
تحدیر (فتکسر) اسکی کا خدر میں مقیم ہونا اور ٹھہرنا۔
تحدیش (فتکسر) چھیل دینا۔
تحدیع (فتکسر) مارنا اس طرح پر کہ نہ تو پار نکل جاسے اور نہ کچھ لگے۔

تحذیم (فتکسر) گھوڑے کے بندگاہ کے گرد اگرد کی سپیدی۔
تحذف (فتقص) کسی کی طرف گٹھلی پھینکنی۔
تحذم (فتقص) کٹ جانا۔ کاٹنا۔
تحذیع (فتکسر) پارہ پارہ کرنا اس طور سے کاٹنا کہ جدا نہو وے تلوار سے اس طرح مارنا کہ کارگر نہو وے۔
تحذیل (فتکسر) یاری چھوڑ دینے پر یا تنبیہ کرنا۔ لشکر اپنے یار دوں سے کہنا کہ جہاں چاہو چلے جاؤ اب ہمارا ساتھ نہ دو۔
تحذیر (فتکسر) کاٹنا یا ٹکڑے کرنا۔
تحرب (فتقص) گھر بٹھا جانا۔
تحرر (فتقص) فخر کرنا۔ بڑائی کرنی۔ منہ چڑھانا۔ اونٹ کا ہاتھ سے روند ڈالنا جھکوانا۔
تحروب (فتقص) صلیب اندھی۔
تحرج (فتقص) علم و ادب میں راہ پر آ جانا اور سنور جانا۔
تحزم (فتقص) کلانی کے سبب پیٹ کا ہلنا۔
تحرد (فتقص) خرید ہونا۔

خرب ۔ خزر ۔ تحزب ۔ خرج ۔ خرد ۱۲

تخضور (تفعل) سبز ہونا
تخضیب (تفعیل) رنگین کرنا
تخضید (تفعیل) قطع کرنا
تخضیر (تفعیل) سبز کرنا کسی چیز مین برکت دیکھانی سبز کرنا
تخضیض (تفعیل) خضخض چکون سے زیبایش دینا
تخضیع (تفعیل) گوشت کو پانی یا ... کے کاٹنا
تخطر (تفعل) گذر جانا آگے ...
تخطرب (تفعلل) افترا کرنا جھوٹ بولنا
تخطرف (تفعلل) بمعنی خطرف (فعلل)
تخطف (تفعل) اوچک لیجانا
تخطل (تفعل) ناز سے چلنا
تخطو (تفعل) خطا کرنی خطا کسی کی طرف منسوب کرنا
تخطی (تفعل) لوگون کی گردن سے پہلانگ کر گذر جانا
تخطیہ (تفعیل) تخطئہ (مشکل) کسی کو کہنا کہ تو نے خطا کی کسی سے یہ نہی ...
تخطیط (تفعیل) تھوڑا کھانا

خط دار بنانا - کسی چیز کو خط دار کرنا
تخطیم (تفعیل) اونٹ کی ناک مین مہار ڈالنی
تخطیہ (تفعلت) ولدار اور ... کرنا
تخفجر (تفعلل) ...
تخفر (تفعل) بہت شرمگین ہونا کسی سے پناہ چاہنی - نگاہبان ہونا - نگاہ رکھنا ...
تخفس (تفعلل) زمین پر گر پڑنا ...
تخفف (تفعل) ...
تخفیر (تفعیل) کسی کا عہد توڑنا - نگاہبان ہونا شرمندہ کرنا
تخفیس (تفعیل) شراب مین تھوڑا یا بہت پانی ملانا
تخفیش (تفعیل) ویران کرنا زمین پر پچھاڑنا اور پامال کرنا بدن کا ضعیف ہونا ...
تخفیض (تفعیل) آہستہ بولنا اپنے کام کو آسان اور ہلکا کرنا - زمین کی طرف ... سر جھکانا ...

تخریع (تفعیل) کاٹنا۔ قطع کرنا۔
تخزیم (تفعیل) اونٹ کی ناک میں خزامہ ڈالنا۔
تخسس (تفعل) دلفین یہ ایک جانور ہے دریائی کہ غریق کو اپنی پیٹھ پر بچا لیتا ہے ڈوبنے نہیں دیتا۔
تخسیر (تفعیل) بمعنی اخسار۔
تخسیر (تفعیل) ہلاک کر دینا۔
تخشب (تفعل) اونٹوں کا لکڑی کو یا سوکھی گھاس کو کھانا۔
تخشخش (تفعلل) آواز کرنی کسی چیز میں گھس جانا اور اوس میں گم ہو جانا۔ گھڑگھڑاہٹ کاغذ کپڑے وغیرہ کی۔
تخشع (تفعل) گریہ اور زاری کرنی اور فروتنی کرنی۔
تخشل (تفعل) فروتنی کرنی۔ خوار ہو جانا۔ حقیر ہو جانا۔
تخشم (تفعل) سڑ جانا۔
تخشن (تفعل) کھردرا ہو جانا کسی کی کھردراہٹ سخت ہونی۔ کھردرا لباس پہننا۔ کڑی سخت بات کہنی۔ سخت زندگی میں جینا۔
تخشی (تفعل) ڈرانا۔

تخشیۃ (تفعلۃ) ڈرانا۔
تخشیف (تفعیل) رہبری کرنی۔
تخشیم (تفعیل) کسی کی ناک میں شراب کی بو پہنچکر اوسکو مست کرنا۔
تخشین (تفعیل) غصہ دلانا۔
تخصر (تفعل) کوکھ پر ہاتھ رکھنا۔ مخصرہ ہاتھ میں لینا۔
تخصص (تفعل) خاص ہو جانا۔
تخصیص (تفعیل) خاص کرنا۔ ضد تعمیم یعنی کسی چیز کو اسکی جنس سے الگ کرنا۔
تخصیف (تفعیل) ابلق ہونے کی سفیدی اور سیاہی کا برابر ہو جانا۔
... وکلف انچہ ...
تخصیل (تفعیل) پارہ پارہ کرنا۔ درخت کی شاخوں کو چھانٹنا۔ اونٹ کے لیے خصلہ کاٹنا۔
تخضخض (تفعلل) کمبی کا لٹکانا۔
تخضخض (تفعلل) ہلنا۔
تخضد (تفعل) خم دار ہو جانا۔ لکڑی کا ٹیڑھا ہو جانا۔
تخضع (تفعل) ... ہونا
تخضلب (تفعلل) ...
تخضعب (تفعلل) ...

خمیر اٹھنا۔ خمیر کر لینا۔ غور و خوض کرنا۔ آٹا چھان
رکھ کر ادا و سیر کر چھلک کر خمیر ... 
کے قریب انگلیوں کی ... 
پانی پہنچ جاوے ڈنڈی کے ... 
ڈالنا تاکہ ادھوری پانی پہنچ جاوے
... کے دو کناروں کو لکڑی ... 
کی حلوائی نے اس میں ملا کر ... 
... تاکہ ہوا سے اور نے ... 
... کا عرش ... خراب ہو جانا
تخالط (ف) ... اختلاط ... 
تخمیر (ف) ... 
تخمس ... 
تخمیص ... 
تحاب ... 
تخمین ... 
تخمط ... تکبر کرنا ... 
کرنا ... 
... 
تخمیر ... 
... کو کھانا
تخمیر ... آٹے کا ... 
... خمیر کو چھوڑ دینا تاکہ خمیر ہو جاوے
ایک چیز کو ... خمیر میں ... 

... خمیر ہو جاوے
تخمیش (ف) ... 
تخمیش ... کان سے کہنا
تخنب ... غرور کرنا
تخنث (ف) ... 
ہونا ... 
کی طرح ... 
تخند ... 
خندیدن ... 
تخنذ ... دلیر ہو جانا
تخنس (ف) ... 
تخنیع ... 
تخنیق ... 
... کے قریب ہونا ... 
... کرنا ... 
تخوت (ف) ... 
کر دینا ... ایک چیز سے ... 
جانا الگ ہو جانا اور اس کو چھوڑ دینا
... اور یاد رکھنا ... 
تخوش ... 
تخوص (ف) ... 
تخوف ... کا ... 
تخور (ف) ... 

تخلخل (بفتحتین و ضمہ لام) ہلا کرنا ۔
تخلص (بفتحتین و ضمہ لام مشدد) کسی کو اپنا بنانا اور
[illegible]
اور سردار بنا لینا ۔
تخالج (بفتحتین) ہلنا کانپنا ۔
تخالس (بفتحتین) اچک لینا ۔
تخالص (بفتحتین) [illegible]
تخالف (بفتحتین) [illegible]
[illegible]
[illegible]
میں [illegible]
[illegible]
تخلف (بفتحتین) پیچھے رہنا ۔
تخلق (بفتحتین) [illegible]
تخلق [illegible] خوشبو لگانی ۔ کسی
کی [illegible]
تخلل (بفتحتین) درمیان میں
[illegible] جانا [illegible]
[illegible]
[illegible] کسی
[illegible] کسی
[illegible]
میں خلال کرنا ۔ [illegible]
[illegible]
میں [illegible]

تخلی (بفتح لام مشدد) [illegible] دنیا سے [illegible]
تخلی (بکسر لام) چھوڑ دینا خالی ہونا
تخلیہ (بسکون) چھوڑ دینا [illegible]
[illegible] کام سے خالی [illegible]
تخلید (بسکون) کسی کی جگہ ہمیشہ
رکھنا ۔ ہمیشہ رکھنا ۔
تخلیص (بسکون) چھڑانا [illegible]
[illegible] دلانا ۔ [illegible]
[illegible] کا گلا [illegible] نکالنا
تخلیط (بسکون) ملا دینا بعض
کا بعض میں ملا دینا بعض
میں [illegible] ڈال دینا ۔
تخلیع (بسکون) [illegible]
سر سے جدا ہونا ۔ [illegible]
میں سے ایک تصرف ہے ۔
تخلیف (بسکون) کسی کو اپنی جگہ
خلیفہ بنانا ۔ کسی کے پیچھے چھوڑ دینا ۔
[illegible]
تخلیق (بسکون) خوشبو لگانی
کسی کی خلقت کو پورا کر دینا ۔ [illegible]
اور برابر کرنا ۔ [illegible]
تخلیل (بسکون) [illegible] میں
خلال کرنا ۔ سرکہ بنانا ۔ سرکہ ہو جانا

تخوّض (تفعّل) پانی میں گھسنا
تخضّع (تفعّل) کمر اور جھولنا
کسی کی ہمت کے مارنے سے
اور سُست کر دینا۔ رَدّ کا جواب
دینا [illegible] قرض ادا کرنا
تخوّف (تفعّل) ڈرانا کسی کو
ایسے حال میں کر دینا کہ جس سے
لوگ ڈرتے ہیں
تخوّق (تفعّل) کشادہ کر دینا
تخوّل (تفعّل) دینا یا مالک بنانا
تخوّن (تفعّل) کسی کو خیانت
کی طرف منسوب کرنا [illegible]
کرنا یا کسی کی عہد داری کرنی
تخیّب (تفعّل) باطل میں پڑنا
تخیّر (تفعّل) پسند کرنا اچھا سمجھنا
تخیّط (تفعّل) بالوں کی سفیدی و سیاہی کا ملنا
تخیّس (تفعّل) [illegible] پہننا
تخیّف (تفعّل) متغیر ہونا
تخیّل (تفعّل) کسی میں فراست
سے خیر یافت کرنی جیسے
کے لیے ابر کا آمادہ ہونا [illegible]
خیر کا خیال بندھنا یا [illegible] کرنا
تخیّم (تفعّل) خیمہ کھڑا کرنا

الطیب کو خوشبو میں لینا
تخییب (تفعیل) ناامید کرنا
تخییر (تفعیل) اپنے کام پر [illegible]
اور [illegible]
تخییر (تفعیل) ایک دو چیزوں سے
تفضیل دینا یا اختیار دینا
تخییس (تفعیل) [illegible]
لبس میں کر لینا
تخییط (تفعیل) بالوں کی سیاہی
میں سفیدی کے ساتھ [illegible]
[illegible]
تخییل (تفعیل) کسی [illegible]
اور [illegible] کرنی اور [illegible]
[illegible] جیسے خیال [illegible]
تقسیم کیا جانا متفرق [illegible]
تخییل (تفعیل) کسی پر
تہمت لگانا یا کسی میں خیر
سے خیر یافت کرنی [illegible]
[illegible]
[illegible] خیال [illegible]
اور [illegible]
[illegible] اور بزدل ہو جانا
تخییم (تفعیل) کسی کو [illegible]


ج

[illegible]

تحویل (ف) [illegible]

[illegible] کسی کے پاس [illegible]

[illegible] آنا

[illegible] (ف) [illegible]

[illegible] اور [illegible]

تحوق (ف) کسی [illegible]

[illegible] کرنا اور تصدیق اقرار کرنا

تحوق (ف) ایک دوسرے

سے الگ اور جدا ہونا فراخ

[illegible] ہونا

تحمل (ف) بار اٹھانا

خبرگیری کرنا [illegible] کسی [illegible]

فراست سے نشان [illegible] کرنا

[illegible] نشان [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] سامان [illegible]

[illegible] خوب [illegible]

[illegible] کا [illegible] ہونا [illegible]

[illegible] سے الگ رہنا [illegible]

[illegible] دوسرے [illegible]

[illegible] کا [illegible]

[illegible] کا [illegible] کرنا

تحیر (ف) [illegible]

[illegible] جلدی اور تیزی [illegible]

[illegible] میں [illegible]

تحوز (ف) [illegible]

[illegible] (ف) [illegible] اور [illegible]

[illegible] ایک [illegible] کرنے [illegible]

[illegible]

[illegible] (ف) [illegible]

[illegible] تعلیم [illegible]

[illegible]

[illegible]

تداوک (فتفعل) خصومت اور بدی یا لڑائی مین آپسمین تنگ ہونا
تداول (فتفعل) ایک چیز کو باری باری سے لینا - لڑائی مین ایک دوسرے سے نیزے لینا -
تداوم (فتفعل) گرد پھرنا ہمیشہ ہونا ایک کام کا کسی پر کام کا ہونا متوارد ہونا
تداوی (فتفعل) اپنی دارو کرنی
تداین (فتفعل) ادھار خریدنا اور ادھار بیچنا -
تدبر (فتفعل) اندیشہ کرنا چیز کی حقیقت دریافت کرنی -
تدبق (فتفعل) سریش سے شکار ہو جانا
تدبیث (تفعیل) خوب آہستہ چلنا
تدبیغ (تفعیل) کاریگری کرنی
تدبیج (تفعیل) بمعنی اندباج (انفعال) گھر مین بیٹھے رہنا اور اوس سے جدا نہونا - زمین کا کھیتی سے پھول آنا اور ابھی اوسکا باہر نہ نکلنا - کسی کو ذلیل اور خوار رکھنا -
تدبیخ (تفعیل) پیٹھ ٹیڑھی کرنی سر نیچے کو جھکانا - سرین باہر کو نکالنا -
تدبیر (تفعیل) کام کے انجام کو دیکھنا - مرنے کے پیچھے غلام کو آزاد کرنا - بعد مرگ ایک شخص کے اوس سے بات نقل کرنی -
تدبیس (تفعیل) پوشیدہ کرنا پوشیدہ ہونا - موزہ کسی چیز پر باندھنا تا کہ اوس سے آواز نکلے -
تدبیق (تفعیل) سریش سے شکار کرنا
تدبیل (تفعیل) مروڑنا اور نگلنے کے لیے بڑا لقمہ بنانا -
تدبیہ (تفعیل) ریگستان مین جا پڑنا - نیک طریق اختیار کرنا -
تدجیی (تفعیل) پوشیدہ کرنا -
تدثر (تفعل) کپڑا لپیٹنا - دثار پہننا - نر کا مادین پر چڑہنا - کود کر چڑھ بیٹھنا مرد کا گھوڑے پر -
تدثیر (تفعیل) پرند جانور کا گھونسلے کو سنوارنا - مقتول پر اوپر تلے پتھر رکھے جانے -
تدثین (تفعیل) جانور کا انڈا دینا جانور کا جلدی سے پاس پاس جگہ مین اوترنا - درخت مین جانور کا گھونسلہ بنانا -
تدجج (تفعل) تمام ہتھیار پہن لینے

سے کہ پکنا خمیر کی مانند بنانا

تاکہ خوشبو میں بس جاوے۔ خیمہ میں داخل ہونا۔ مکان میں مقیم ہو جانا

تداخر رفنسفن) ایک دوسرے سے کٹ جانا چھوٹ جانا۔

تداثر رفنسفن) گھر کا اثار پڑا ہونا جانا

تداخن رفنسفن) آگ میں سے دھواں نکلنا۔

تداود رفنسفن) کسی چیز میں پنہاں ہو جانا۔ جوف میں اور حلق کا آواز کرنا۔ خبر کا پہنچنے میں دیر لگانا۔ بوجھ کا خمیدہ اور ٹیڑھا ہو جانا۔ بار سے اور مشک کر چلنا۔ ازدحام کرنا۔ پھر جانا۔ لوٹنا۔ ایک جگہ سے دوسری چیز کی طرف پھر جانا۔

تدارس رفنسفن) ہاتھ پڑھانا۔

تدارک رفنسفن) پچھلے کا اگلے تک جا پہنچنا۔ ایک چیز پر ایک چیز کے ساتھ پہنچنا یعنی تلافی کرنا۔

تدارؤ رفنسفن) لڑائی میں ایک دوسرے کو دفع کرنا۔

تداعب رفنسفن) آپس میں مزاح کرنا

تداعک رفنسفن) سخت دشمنی

ہونی سے ٹوٹنا پھر گھبرانا نکل جانا۔

تداعی رفنسک) دشمن کا آگے آنا شکستہ ہو جانا ویران ہو جانا۔ جمع ہونا چیستان کہنی۔

تداغش رفنسفن) آپسمیں لڑائی میں گڈمڈ ہو جانا یا شور و شغب میں۔

تدافع رفنسفن) لڑائی میں ایک دوسرے کو دفع کرنا۔ آپسمیں ایک چیز کو دفع کرنا اور حوالہ کرنا۔

تدافن رفنسفن) پوشیدہ ہونا۔

تدافی رفنسک) دریافت کرنا یا کسی سے لینا۔ کشادہ اونٹ کا چلنا۔

تداوق رفنست) آپسمیں وقت کرنی

تداکم رفنسفن) ایک دوسرے کو دفع کرنا ہانکنا۔

تداکو رفنسفن) جمع ہونا عدد دینا۔ دفع کرنا۔

تدالح رفنسفن) ایک چیز کو آپس میں لکڑی پر اوٹھانا۔

تداحج رفنسفن) ایک دوسرے کی مدد کرنی۔

تدامل رفنسفن) آپسمیں صلح کرنی

تدالی رفنسک) آپسمیں خوش طبعی

مادہ

تدخیسہ (فسکف) پوشیدہ کرنا ـ کم کرنا درغلانا ـ تباہ کرنا ـ کسی کی طرف ایک بات نقل کرنی ـ

تدسیم (فسکس) ہیضہ کا کسی چیز کو تر کر دینا ـ روغن میں تر کرنا ـ بچہ کی ٹھوڑی سے گڑھے کو سیاہ کرنا تا کہ اوسے نظر بد نہ لگے ـ

تدشش (فقفض) پکڑنا ـ

تدعب (فقفض) کسی پر ناز کرنا ـ

تدعمہ (فسفف) تن آسانی اور فراخی عیش ـ

تدعث (فقفض) سینہ کا کینے سے ہونا

تدعدع (فضسض) بڑی عمر والے کی رفتار ـ

تدغر (فقفض) چہرہ کا بدرنگ اور الٹ ہو جانا ـ

تدعص (فقفض) خراب اور ریزہ ریزہ ہو جانا گوشت کا ـ

تدمکش (فقفض) دست بند کھیلنا

تدمعس (فسکس) نشان کرنا کسی جگہ میں نیزہ مارنا ـ

تدفق (فقفض) بہہ جانا ـ

تدفن (فقفض) پوشیدہ ہو جانا

تدفوا (فقفض) گرم کپڑا پہننا ـ

تدقیق (فسکس) بہت بہانا ـ

تدقیق (فسکس) خوب کوٹنا باریک کرنا آٹے کا نرم کرنا ـ

تدلل (فقفض) کسی پر ناز کرنا گستاخی کرنی ـ اپنے تئیں اونچا کرنا اور بزرگ سمجھنا ـ عزت پکڑنی تکبر کرنا ـ ڈھیل کرنی ـ

تدکیک (فسکس) خلل کو ملانا آمیختہ کرنا ـ

تدکیل (فسکس) چوپایے کو خاک میں لوٹانا ـ

تدکیم (فسکس) ایک چیز کو ایک چیز میں گاڑنا ـ اپنا سر کسی کے نخرے میں مارنا ـ

تدکین (فسکس) اوپر تلے رکھنا اسباب کو ـ

تدلث (فقفض) داخل ہونا منہ کے بل گر پڑنا ـ

تدلدل (فقسض) ہلک پڑنا لٹکتا ہوا ہلنا ـ متزلزل و مضطرب ہونا ـ

تدلس (فقفض) پوشیدہ کرنا کہانا تھوڑا تھوڑا لینا ـ ادخر نکا

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] ہونا | تدرع (رفتفض) لوہے کی زرہ کو پہننا |
| [illegible] | [illegible] کا مالک ہونا | عورت کا زیور کو پہننا۔ مردوں کا [illegible] کو پہننا |
| [illegible] | [illegible] | تدرو (رفتفض) کسی پر [illegible] |
| [illegible] | [illegible] آسمان کا [illegible] ہونا | کرنا کسی سے اوسکو فریب دینے |
| [illegible] | [illegible] کسی [illegible] | کے لیے پوشیدہ ہونا۔ |
| [illegible] | [illegible] قریب کے [illegible] | [illegible] فریب دینا عورت کا |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] کرنا |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] کے وقت صبر کرنا۔ |
| [illegible] | [illegible] میں سونا۔ | [illegible] کرنا |
| [illegible] | تدحظر (رفتفض) اٹکنا۔ | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] پہنچا ہوا | [illegible] |
| [illegible] | تدخل (رفتفض) داخل ہونا۔ | [illegible] |
| [illegible] | یا گھوڑا داخل ہونا۔ | [illegible] |
| [illegible] | تدخن (رفتفض) [illegible] | [illegible] عورت کو زیور پہننا [illegible] |
| [illegible] | تدخین (رفتکس) آگ میں سے | [illegible] ظاہر کرنا۔ |
| [illegible] | دھواں نکلنا۔ | تدرق (رفتکس) نرم کرنا۔ |
| [illegible] | تدرکت (رفتفض) [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] ناخنوں کو ترشنے |
| [illegible] | [illegible] اٹھنا۔ | کے بعد [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] زیادہ [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] کر دینا [illegible] |

تدمیر (فتسکس) ہلاک کرنا کسی پر
ہلاکی ڈالنی شکاری کا اپنے جال
کو پشم جلا کر دہوان دینا تاکہ شکار
جال کی بدبو دریافت نکریوے
تدمیس (فتسکس) کسی چیز کو
خاک مین پوشیدہ کرنا
تدمیغ (فتسکس) اشکنہ کو چربی
سے نرم کرنا اور اشکنہ دو طرفی شوربا
مین چپڑی ہوئی کو کہتے ہین
تدمیق (فتسکس) گندہے ہوئے
آٹے کو خشکی لگانی تاکہ ہاتھ مین چپکے
بمعنی ادماق (کسعفس)
تدمیم (فتسکس) آنکھ کے پپوٹے
پر روکا مہم کا طلاء کرنا
تدمین (فتسکس) مکان کو گوبر
بہر اکر دینا اجازت دینی۔ کسی کے
دروازہ پر پڑے رہنا جدا نہونا
تدلیس (فقفقس) عزت کو بٹہ لگ جانا
تدلوتو (فقفقس) کمینہ پن پر
کسی کو برانگیختہ کرنا
تدلی (فقفک) اکھوڑا اکھوڑا کر
نزدیک ہونا
تدنیة (فتسکص) نزدیک کر دینا

ہر چہوٹے بڑے کام مین جستجو کرنی
تدنیح (فتسکس) تابعدار ہونا ہو کا جھکنا
تدنیخ (فتسکس) عاجزی کرنی
تابعدار ہوجانا۔ اپنے سر کو جہکانا
نیچا کرنا۔ گہر مین چھپا رہنا کمین
ہوتا ہوجانا۔ گرہ کا اونچا نیچا ہونا
تدنیر (فتسکس) چہرہ کا چمکنا بہت
دینار والا ہونا
تدنیس (فتسکس) کپڑے کو میلا
کر دینا۔ آبرو و عزت کو عیب دار کرنا
تدنیق (فتسکس) منہ پر لاغری کا
ریخ یا مرض سے ظاہر ہونا۔ آنکھین
گڑھے مین گہس جانی اور کمینہ پنا
جیسے دقت کمینہ کام کو خوب تامل
کرکے دیکھنا اور اوسمین پڑنے
سرے کی کوشش چاہنی۔ ایک چیز
مین ہمیشہ دیکھنا۔ غروب ہونیکے
لئے آفتاب کا نزدیک ہونا
تدنیم (فتسکس) کمینہ پن۔ کان کی
آواز مگس کی آواز
تدوام (فتسکس) آواز کرنا
تدورة (فسکف) گول ہونا
پہاڑون کے درمیان مین ایک گہر

... جوں ... بہ ... ہے
جاتا تھا۔ قدم کا اندھیرے میں ...
تدلیف (فعفعل) چلا جانا نزدیک ہو
تدلق (فعفعل) دفعۃً آ پہنچنا۔
تدلک (فعفعل) اپنے بدن پر
ڈھول ملنا۔ نہانے کے وقت
اپنا بدن ملنا۔
تدلع (فعفعل) ناز کرنا گستاخی
اور شوخی کرنی۔
تدلم (فعفعل) ارادہ کرنا۔
تدلمص (فعفعل) سر کے آگے
کے بال جھڑ پڑنے۔
تدلہ (فعفعل) شدت سے خود اور دل
اور عقل گیا ہوا ہو جانا۔
تدلی (فعفعل) ناز سے چلنا
اوپر سے نیچے اترنا۔ قریب ہو جانا
۔ لٹک پڑنا۔ فروتنی اور عاجزی کرنی
تدلیۃ (فعللۃ) نزدیک کر دینا۔
تدلیس (تفعیل) خریدار پر متاع
کا عیب پوشیدہ کرنا۔
تدلیص (تفعیل) نرم اور چکنا
کر دینا۔ کسی کے باہر سر جانے کرنا
تدلیہ (تفعلۃ) عشق کا کسی

سے آگے دل کو لیجانا۔
تدمری (فعفعلی) کمینہ مرد یعنی
چھوٹا چھوٹا۔ اصمعی کہتے ہیں یعنی کوئی
چنانچہ کہتے ہیں ما بالدار تدمری
یعنے گھر میں کوئی نہیں۔
تدمرۃ (فعفعلۃ) چھوٹے کان
تدمس (فعفعل) کسی چیز
میں آلودہ ہو جانا۔
تدملج (فعفعل) زمین کا کام کا ہو جانا
اور طاقت دار ہو جانا۔
تدملک (فعفعل) گول چکیلا ہو
پستان کا نکل آنا اور گول ہونا۔
تدمیۃ (تفعلۃ) خون آلود کرنا
کسی کے لیئے رستہ آسان کرنا۔
کسی کے لیئے رستہ بنانا۔ کسی کو
کسی کے لیئے نزدیک کرنا۔ کسی کو
جیسا کہ اللہ وقرب داری کہنا کسی
کے لیئے ظاہر ہونا۔ کسی کو بد عوض
اپنے مال میں سے دینا۔
تدمیث (تفعیل) نرم کرنا۔
حدیث کا ذکر کرنا۔
تدمیج (تفعیل) نیچے اتارنا
اپنے سر کو جھکانا نیچا کرنا۔

تہکت ... [illegible] ... کا ملاقا ... [illegible]
[illegible] خواہش ... [illegible]
سخت کا ... [illegible] داخل ہونا۔ خلاف
کرنا ... [illegible] کشتی کرنی
تدمّس (رفعمن) چکنا ... [illegible]
ملنا اپنے بدن پر
تدہو (رفعمن) ... [illegible]
تدغمی (رفعمن) ... [illegible]
عقلمندوں ... [illegible] کا ... [illegible]
تدمہتی (رفعمن) کسی کو ہوشیار
رکھنا ... [illegible] نقصان لگانا
یا آفت پہنچانی
[illegible]
تدیس (رفعمن) ... [illegible]
تدشّت (رفعمن) ... [illegible]
تدسّنج (رفعمن) ... راست کا ... [illegible]
دینا ... [illegible] لگانا
[illegible]
[illegible] کسی ... [illegible] کرنا
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

... [illegible] الف ہونا
[illegible]
تدانیف (رفعمن) ... [illegible]
... [illegible] ایک ... [illegible]
[illegible]
تدہم (رفعمن) ایک ... [illegible]
... [illegible] کرنی
تدأوشاب (رفعمن) ... [illegible]
بھیڑیے کی مانند ہونا۔ ... [illegible]
بھیڑیے کی مانند ہو ... [illegible]
... [illegible] غیر ... [illegible]
... [illegible] تداب الرمل ... [illegible]
... [illegible] ذرہ ... چلنا۔ ... [illegible] کی
تدأوق (رفعمن) آہستہ ... [illegible]
... لینا جیسے تداوق الرماح
تدأول (رفعمن) ... [illegible] اور ... [illegible]
ہونا ... [illegible] دینا
تدلعمن (رفعمن) یعنی ... [illegible]
تدایل (رفعمن) ... [illegible]
تدنمث (رفعمن) حرکت کرنا
تدنملخ (رفعمن) عورت کا مردوں کی رفتار پر چلنا۔ یا ... [illegible] ناز سے چلنا۔

[illegible]

٦٥٦

تدویم (تفعیل) پانی کا کسی چیز کے گرد [illegible] دینا۔ بیاہ کا اونٹنی پر چڑھنا۔ بیعنی کرنا۔ کودنا۔ پھر دو کا [illegible] پیچھے آنا۔ انتظار کرنا۔

تدویل (تفعیل) [illegible]

تدوّہ (تفعّل) متغیر ہو جانا۔ [illegible]

تدوّیہ (تفعّل) [illegible] کسی کی [illegible] خوب [illegible] کسی چیز کے گرد پھرنا۔ پانی [illegible] ایسی چیز ظاہر ہونی کہ جیسے [illegible] آواز سنائی دینی۔ جنگل بیابان میں آنا۔ بیابان کی طرف جانا۔ بیابان میں اقامت کرنا۔ کسی کو بیابانی کہنا۔

تدہمر (تفعیل) پراگندہ کرنا۔

تدعیج (تفعیل) تابعدار [illegible] کرنا۔ شہر میں غالب آنا اور اوسکے باشندوں پر قابو پانا۔

تدویر (تفعیل) گیر دار ہونا۔ کھانے کا [illegible] کے کا [illegible] بیٹھا کر جھوٹے لینا

تدویر (تفعیل) پھرانا گھمانا۔

کسی چیز کو گول یا دور دور کرنا۔

تدویص (تفعیل) اوپر سے نیچے اوترنا۔

تدویم (تفعیل) پرندہ کا معلق ہو کر پھرنا۔ دور چلا جانا اور دور تک دوڑنا۔ پھیر جانا۔ اوچھل جانا۔ گھومنا۔ نشے میں جھکنا کی بہت [illegible] بیان [illegible] سکے اور ترتیب نہ لگے جیسے دوّم الرقم۔ [illegible] گھسنا۔ [illegible] کے ابال کو ٹھنڈے پانی سے دبانا۔ خوب نکلنا۔ پرند جانور کا آسمان میں اوڑنا اور [illegible] کو [illegible] کھیلنا۔ زبان کو منہ کے گرد پھرانا۔ [illegible] مست کر دینا۔ مستی سے [illegible]

تدوین (تفعیل) ترتیب دینا۔

تدوّیہ (تفعّل) اونٹنی کو بچہ کی طرف داوداو یا دُه دُه کہکر بلانا۔

تدہکم (تفعلل) اگر پڑنا۔

تدہدہ (تفعلل) لڑھکنا۔

تدہمقن (تفعلل) آسان [illegible] کرنا

تدہکر (تفعلل) [illegible] کسی پر غالب ہونا [illegible] چڑھنا جیسے

ہلانا جیسے ذرع فی المشی بشارت
دینے والے کا ہاتھ سے اشارہ کرنا
ہاتھ ہلاتے ہوئے چلنا جیسے
ذرع فی المشی —
تذریف (تفعیل) تذرف (تفعل)
آنسو بہانا، آنسو سے بھیجانا، موت
کے قریب کر دینا — وکذا تذرف
تذعجب (تفعل) جی کا کسی [illegible]
تذعذع (تفعلل) پراگندہ ہو جانا
تذعمر (تفعلل) [illegible]
تذعلب (تفعلل) پوشیدہ جانا [illegible]
پر سونا، ہلکا کپڑا پہننا —
تذفیف (تفعیل) کسی کو مدد [illegible]
سبک کرنا، ہلکا کرنا —
تذقح (تفعل) کسی کو ایسی گالی دینی جس سے
[illegible] سخن کیا —
تذقط (تفعل) ایک چیز کو تھوڑا
تھوڑا کر کے لینا —
تذقین (تفعیل) ٹھوڑی کو ہاتھ
یا عصا پر رکھنا —
تذکاکر (تفعل) کسی چیز کو یاد کرنا
تذکر (تفعل) یاد کرنا، نصیحت
ماننی، [illegible] فکر ہونا —

تذکرہ (تفعلۃ) یادگار، جس کو
جس سے حاجت یاد آوے —
تذکیر (تفعیل) [illegible] کا نر [illegible]
[illegible] کا ہونا، بکری [illegible] گلا کاٹنا —
تذکیر (تفعیل) یاد دلانا، نر کی
طرف منسوب کرنا، خلاف تانیث
نصیحت دینی، تیر وغیرہ پر فولاد لگانا —
تذلذل (تفعلل) مضطرب اور
لٹکا ہوا ہونا، عاجزی انکساری کرنی
تذلل (تفعل) فروتنی اور عاجزی کرنی
تذلی (تفعل) عاجزی کرنی —
تذلیق (تفعیل) چھری وغیرہ کو
تیز کرنا، گھوڑے کو دبلا کر دینا،
سو [illegible] سفر میں پانی ڈالنا
تاکہ [illegible] نکل آوے —
تذلیل (تفعیل) کسی کو خوار ذلیل
نرم کر لینا، کھجور کے خوشوں کا
لٹکانا یا قریب کیا جانا، یا [illegible] کا
برابر اور ہموار کیا جانا —
تذمر (تفعل) غصہ [illegible] سے
[illegible] کسی چیز پر [illegible] ملامت
کرنا [illegible]
کرنا [illegible] وعدہ کرنا —

[illegible] کی حالت [illegible]
[illegible]
[illegible] ایک راستی [illegible]
[illegible] کرنے کے بعد جیسے [illegible]
[illegible] بہت دفع کرنا جیسے [illegible]
تمزیج (تفعس) سر کو [illegible] کر
[illegible] دینا ۔
[illegible] (تفعس) لگنا ۔
[illegible] (تفعل) جمع ہونا ۔
[illegible] (تفعل) رہنا ۔
تمریع (تفعل) بہت [illegible]
جیسے تمرع فی الکلام ایک چیز کا
[illegible] میں [illegible] کے برابر [illegible]
کسی چیز کا بالشت سے اندازہ کرنا ۔
وسیلہ پکڑنا ۔ کسی کو [illegible] ۔
اونٹوں کا پانی [illegible]
چلا آنا ۔ عورت کا برگ درخت [illegible] کا
[illegible] کر اوس سے [illegible] ۔
تمزرق (تفعل) [illegible] ہونا
[illegible] (تفعل) [illegible]
اور [illegible] جانا ۔
تمزرمی (تفعل) کسی چیز کے [illegible]

[illegible] (تفعس) سے جدا [illegible] ہونا
[illegible] اپنے قبیلے کی [illegible]
[illegible] (تفعس) [illegible] وغیرہ
کی کھال کو تیز کرنا ۔ عورت کا [illegible]
کر اور [illegible] سے [illegible] تاکہ [illegible]
[illegible] وغیرہ کو [illegible] میں [illegible] ۔
[illegible] (تفعس) [illegible]
[illegible] (تفعس) میں [illegible]
کر اور [illegible] کو [illegible]
اپنے [illegible]
[illegible]
نشان [illegible] کے لیے ۔
تمزیج (تفعس) کھانے میں [illegible]
ڈالنا ۔ زعفران کا پانی میں [illegible] کرنا
[illegible]
[illegible]
تمزیع (تفعس) کسی چیز کا اقرار
کرنا جیسے تمزع بکذا [illegible]
[illegible] اونٹ کی [illegible]
کی [illegible] سے [illegible] رہنا ۔
جیسے [illegible] تیر [illegible] میں [illegible]
کر [illegible] جیسے [illegible]
پانی [illegible] میں [illegible]

ترزفت (ر فس ن) الٹ جانا۔ قطع کرنا۔ لازم و متعدی دونوں آئے
ترمی کا باہر نکل پڑنا۔ اپنے شہر سے دور جا پڑنا۔ سفر میں گھانے پینے میں کسی چیز کا چھوڑ دینا۔
ترزفت (ر فس ص) موٹا اور پُر گوشت ہونا جسم کا۔
ترصنت (ر فس) سراج کا شاقول لگانا جس سے عمارت سیدھی کرتے ہیں۔
تراب (ر فنس) خاک مثل ترب
(رفس) تربا (ر فس) تربہ (ر فس) تیراب
(ر فنس) تراب (ر فس) توراب
(ر فنس) تریب (ر فس) تریب و کسر
تراب جعد تر و نمناک خاک۔
تراب (ر فس) بکری کی بن دست
ترابل (ر فس ف) شیری ظاہر کرنی
ترابل (ر فس ف) جدا ہونا اطفہ خود سے سردار و حاکم کے لڑائی کرنی
تراتر (ر فس) بدلے کام کا
تراتیر (ر فس) دختران خوشلیہ
تراجز (ر فس ف) شعر خوانی میں آپس میں مقابلہ کرنا۔ دو شخصوں کا آپس میں ایک دوسرے سے لینا اگر
مقابل سے جو کچھ ان سے لیا ہو بعد میں دیں سکے پھر برابر ہو جانا
تراجم (ر فس ف) آپس میں سنگ اندازی کرنی
تراجن (ر فس) ر کا فنس کو ایک سا گٹھا ہے
تراحم (ر فس ف) ایک دوسرے پر مہربانی کرنی
تراخی (ر فس ف) ڈھیل سستی ڈھیل ر سستی کرنی
تراداف (ر فس) ایک دوسرے کا یار ہونا۔ ایک دوسرے کے پیچھے ہونا۔ تکلیح کرنا۔ اوپر تلے ہونا۔ ایک چیز کے دو نام ہونے۔
ترازة (ر فسف) ارس ص و لی انہ اور گوشت والا ہونا جسم کا۔
ترازم (ر فس) ایک بیماری جو کہ گھوڑے کو ہوتی ہے اوس سے وہ مر جاتا ہے
ترازن (ر فس ف) آپس میں مقابل و برابر ہونا۔
تراسر (ر فس) باہم بھید کہنا
تراشش (ر فس) ڈھال بنانے والا

ا



ج

[illegible]

[illegible] کسی سے

[illegible] کہنا

[illegible] کام کا اندازہ کرنا

[illegible] میں [illegible]

کسی [illegible]

[illegible] (تفعیل) [illegible]

[illegible] (تفعیل) [illegible]

[illegible] چھوڑ دینا

[illegible] (تفعیل) [illegible]

[illegible] سے [illegible] شروع

کیا ہو [illegible]

تذ [illegible] (تفعیل) [illegible]

[illegible] کا [illegible] کرنا

تذ [illegible] (تفعیل) [illegible] ہونا

تذ [illegible] (تفعّل) [illegible]

[illegible] آدھی

کے [illegible] تاکہ وہ بچہ

[illegible] مہربان ہو اپنے تئیں [illegible]

[illegible] کر [illegible] کی [illegible] بنانا

ہوا کا نرم اور [illegible]

سے لینا ایک شی کو

تذوق (تفعّل) [illegible] چکھنا

تذ [illegible] (تفعّل) [illegible]

تذ [illegible] [illegible]

تذویب (تفعیل) [illegible]

تذ [illegible] (تفعیل) [illegible]

تذ [illegible] (تفعیل) [illegible]

تذ [illegible] (تفعیل) [illegible]

تذ [illegible] (تفعیل) [illegible] کا [illegible]

[illegible] (تفعّل) [illegible]

[illegible] تھا

تذ [illegible] (تفعّل) [illegible]

یا گوشت کا ہڈی سے [illegible]

[illegible] کے جدا ہو جانا [illegible]

تذ [illegible] (تفعیل) [illegible] کر لینا [illegible]

[illegible] کا ذکر [illegible] کرنا

تذ [illegible] (تفعیل) [illegible]

کپڑا باندھ دینا تاکہ [illegible] سے

کر [illegible] کے تھن پر باندھ دیتے

ہیں [illegible]

خاک میں ملا ہوا [illegible]

ملنا [illegible] کا [illegible] کو [illegible]

تذ [illegible] (تفعیل) [illegible]

[illegible] سے جدا ہو جانا

[illegible]

[illegible]

علامات اعراب خط کشیدہ فتحہ ضمہ کسرہ سکون تشدید

تراقح (ف‌ض) ہاریکی ایک کام کرنا

تراوح (ف‌ض) آپسمین کشتی کرنا

تراوحم (ف‌ک) جمع تراوح

تراھص (ف‌ض) تہ بتہ جمنا اور پتھروں کا محکم اور استوار ہونا

تراھش (ف‌ض) آپسمین گردی کرنا

تراھی (ف‌ک) آپسمین میل کرنی

تراھی (ف‌ک) آئینہ مین دیکھنا کسیکا سامنے آجانا کہ اوسکو دیکھین

ترائش (ف‌ک) سینے کی ہڈیان سینہ پر پٹی کی جگہ یا جو دو چھاتیون اور دو چنبر گردن کے درمیان مین ہو یا چار پسلیان ہین سینہ کے داہنی طرف اور چار بائین طرف کی یا دو ہاتھ دو پانون دو آنکھین

ترائی (ف‌ک) اپنی شکل آئینہ مین دیکھنا کسیکو پہاڑ دکھائی دینی ایک دوسری کو دیکھنا مقابل اور دو چار ہونا خرما کا سرخ و زرد ہونا کھال کو دیکھنا

ترب (ف‌ف) خاک آلودہ ہوجانا خاک مین لتھڑ جانا زبان کا رہونا محتاج ہونا تربت یداہ یعنی خیر کو نہ پہنچیو وہ یہ ایک کلمہ ہے

جسے عرب کبھی تو بوقت مدح اور کبھی بوقت مذمت بولتے ہین

ترب (ف‌ک) ہمزاد و ہمعمر ترائم

اتراب (ف‌س) جمع

ترابح (ف‌ض) زمین میں ...

ترابض (ف‌ض) ...

تربب (ف‌ف) ... پرورش کرنا کسی چیز کا جمع کرنا ایک چیز کا دعوی کرنا

تربۃ (ف‌ک) ...

ترتۃ (ف‌ک) انگلی کا سرا ... جو انگلیون کی ...

تربیۃ (ف‌ف) ... اچھی ...

تربح (ف‌ف) ... پیچھے ...

تربخ (ف‌ف) ... گرنا ...

تربح (ف‌ف) ... اور ... ہوجانا

تربد (ف‌ف) غصہ سے چہرہ متغیر ہوجانا ... آسمان کا ابرناک ہونا

تربص (ف‌ف) انتظار کرنا ... انتظار پر ... کرنا

ترج
ترخ
ترجح
...
رای
ترید
...

ترابت رفسعف) ... کل بانٹنا
تراسق رفسعف) آپس میں ... پینا
تراضع رفسعف) ... اور ... باہم
تراصص رفسعف) ... لوگوں کا ... میں ایک دوسرے سے لگنا
تراضع رفسعف) شتر کا ادین ... چھوڑنا یا ... کرنا
تراصف رفسعف) قوم کا صف میں ایک دوسرے کے پاس کھڑا ہونا
تراضخ رفسعف) آپس میں ... تھوڑی ...
تراضی رفسعک) آپس میں خوشنود ہونا خوشنودی
تراطن رفسعف) آپس میں ... زبان عجم میں بات کرنی
تراع رفعیل) دربان - رد جو وادی کو بھر دے
تراعۃ رفسکت) ...
تراعی رفسعک) آپس میں شور اور فریاد کرنی
ترافد رفسعف) ذخیرہ جمع کرنا آپس میں مدد کرنا
ترافص رفسعف) پانی کی ...

... کسی مقرر کرنا یعنی
ترافق رفسعف) سفر میں ایک دوسرے کا ہمراہ ہونا ساتھ ہونا
ترافی رفعلس) ترافق رفسعک
ترقوہ رفسعف) یعنی ہانس ... ترقی رفسعک) اسم فعل ہے یعنی امر ہے ... چھوڑ
تراکب رفسعف) یعنی ترکب رفسعف)
تراکض رفسعف) گھوڑدوڑ ... ایک چیز کی طرف دوڑانا
تراکل رفسعف) آپس میں لاتوں سے ...
تراکم رفسعف) جمع ہونا ...
ترام رفسعک) ... جسکی قوت تمام و کمال کو پہنچی ہو
ترامس رفسعف) چاندی کے مہرے
ترامی رفسعک) ایک دوسرے پر تیر پھینکنا - ایک چیز کا پھینکنا - وطن سے باہر ہونا - کام کا ڈھیل کرنا - کسی کے امر کا فتح یا شکست کی طرف مائل ہونا - زخم کا خراب ہونا - بعض ابر کا بعض پر پیوست ہونا اور جمع ہونا - کسی کی طرف تیر پھینکنا -

ترتیب (فسعف) آلائشہ - مزاد
غلام - خاکی -
ترقبہ (فسفعف) راہ کی ماننده
اور پامال کیا ہوا -
ترتہ (فسعف) زبان کی لڑکھڑاہٹ
اور یہ عیب ہے -
ترتوۃ (فسفعف) ہلانا - حرکت دینا
بہت ہونا - بدن کے گوشت کی سستی
سستی بات کی -
ترتل (فعفعن) کلام کو آہستہ پڑھنا
ترتم (فسفعن) ثابت و برقرار رہنا
ترتم (فعفعن) تمام ہونا - تمام کرنا
ترتی (فسفعف) لڑکی کی چوٹی
ترتور (فسفعس) تحصیلدار کا پیادہ
دامن بردار سپہر دار بادشاہ کا پیادہ کہ
خدمت کے لئے ہمیشہ ساتھ رہے - ایک جانور
ترتیب (فسکس) ثابت و مضبوط
کرنا - چیزوں کے درجوں کو درست کرنا
ترتیل (فسکس) اچھی طرح سے
تالیف کرنی - ایک چیز کو دوسری کے ساتھ
ظاہر کرنا - کھولنا اور ہموار کرنا - آہستہ
کھول کھول کر پڑھنا -
ترشج (فعفعن) عورتوں کا ہنسنا

پرتحمرہ (فسعف) ایک طرح کا طلا ہے جسے
عورتیں چہرہ پر ملتی ہیں -
ترکی (فعفسک) بمعنی ترشیہ (فسکف)
ترشیۃ (فسکف) مردہ کی تعریف
کرنی اور اس پر رونا -
ترمین (فسکس) بیٹھنے کا خوب سا
زمین پر جگہ کرنا -
ترسج (فسس) ایک بیشہ ہے یمن میں
جس میں شیر بہت ہیں -
ترج (فسس) ان چھپ جانا
ترجح (فعف) رس بستہ ہونا کسی چیز کا
ترحجر (فعفعن) میلان کرنا - حرکت
کرنی - پرندہ کا اڑنا اور زمین پر اترنے کا
حرکت اور جنبش کرنا -
ترجرج (فعفعن) کانپنا - ہلنا -
ترجز (فعفعن) رعد کا آواز کرنا -
بادل کا پانی کی کثرت کے سبب
آہستگی اور مہلت کے ساتھ حرکت
کرنا - درجہ میں شعر کہنا -
ترجع (فعفعن) لوٹنا کو پھیرنا اور
اس کی مصیبت میں صبر سے کو خیرباد کہنا -
ترجل (فعفعن) پیادہ چلنے سے
پاؤں کا سخت ہونا - ہاتھ دست و دشمن

[illegible] ر فتحتین [illegible]
[illegible] کو سامان
[illegible]
[illegible] ر فتحتین [illegible]
[illegible]
کی جگہہ [illegible]
[illegible]
[illegible] ر فتحتین [illegible] کھانا -
ترکیب ر فتحتین [illegible] گھاس کھانی
درخت کا [illegible] نکالنا اور
[illegible] گھاس چرانی شروع
کرنا - [illegible] گھاس کو ڈھونڈھنا -
[illegible] نکالنا [illegible]
سبزہ [illegible] بہت [illegible]
[illegible] ر فتحتین [illegible]
[illegible] ر فتحتین [illegible]
[illegible] ر فتحتین [illegible]
[illegible] ر ضمتین [illegible] تیل کو خوشبودار
کرنا [illegible]
[illegible] ر فتحتین [illegible] کرنا
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] ر فتحتین [illegible] کرنا -
[illegible] ر ضمتین [illegible] کسی کی حاجت
پوری کرنا - [illegible] کرنی
[illegible] ر فتحتین [illegible] کو جگہہ دینی
[illegible] ر فتحتین [illegible] بکری وغیرہ کا
[illegible] لینا -
[illegible] ر فتحتین [illegible]
[illegible] ر فتحتین [illegible]
[illegible] ر فتحتین [illegible] جگہہ دینی [illegible]
[illegible] میں پانی ڈالنا [illegible]
[illegible] سے [illegible]
[illegible] ر فتحتین ایک چیز کو [illegible]
[illegible] ستاروں کا
ایک [illegible] دیکھنا -
[illegible] ر فتحتین [illegible] جس سے
بکری کو [illegible]
[illegible] الکلام کلام کی آرایش
[illegible] ر فتحتین [illegible] حسین خوبصورت
[illegible] آئینہ [illegible] لینا - [illegible]
[illegible] کسی [illegible]
[illegible] ر فتحتین [illegible] جگہہ [illegible] رکھنا -
[illegible] ر فتحتین [illegible] اور [illegible]
[illegible] کا سبب -

[illegible]

تحرّحل (بفتحتین) کھجور ... [illegible] ... ہونا
پر سوار ہونا - کھجور کا ... [illegible]
ساتھ ... [illegible] ... دینا ... سب
طرح سے پیش آنا

تحرّجم (بفتحتین) ... [illegible]
تحرّحیب ... [illegible]
... کی طرف بلانا - فراخ کر دینا - [illegible]
تحرّحیل (بفتحتین) ... [illegible]
... کر دینا - کسی پر ... [illegible]
سیدھی سیاہی ... [illegible]
... سرخی ... [illegible]
تحرّحمر ... [illegible]
... [illegible]
تحرّح (بفتحتین) ... ایسا ... [illegible]
نشان کہ جلد پر ہو
تبرّح (بفتحتین) ... ایسا ... رہنا
تحرّحش (بفتحتین) حرکت کرنی
تحرّحص (بفتحتین) ... [illegible]
تحرّحم (بفتحتین) ... [illegible]
تحرّحیص (بفتحتین) ... [illegible]
... سخت ... [illegible]
تحرّح ... [illegible]
... [illegible] ... کھا

تحرّ ... [illegible] ... میں آخر
... سے ... کر دینا ...
تحرّ ... [illegible]
تحرّ ... [illegible]
تحرّ ... [illegible]
... [illegible]
تحرّ ... [illegible] ... کر دینا
تحرّ ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ... ہونا
... [illegible]
اور ... [illegible]
تحرّ ... [illegible]
... [illegible]
اور چادر ... [illegible]
تحرّ ... [illegible]
تحرّ ... [illegible] ... بہت ... [illegible]
تحرّ ... [illegible]
... [illegible] ... ہونا -
تحرّ ... [illegible] ... میں
... [illegible] ... -
تحرّ ... [illegible]
... [illegible] ... دینا ... [illegible]

پاؤن کے نیچے دہرنا ... جانا ۔ گڑھے مین اوترنا ۔ چارپایہ چلنا
عورت کا معروف ہونا ۔ بازو مین
ترکھی کرنی ... سنوارنا ۔
ترجمان (فتحتین) ایلچی یعنی
ایک شخص جو واسطہ ... دوسری زبان
کو سمجھاوے ۔ ...
ترجمہ (فتحتین) ایک بات کو دوسری
زبان مین بیان کرنا ۔
ترجی ... امید رکھنی ۔
ترجیب (کسرتین) کسی کو ...
یا بخشش کرنا ۔ درخت پھلدار کے
نیچے ستون لگانا ۔ یا دیوار بنانی
تاکہ وہ اوس سہارا لگا دے ۔ خرما
کے خوشون کو شاخون سمیت
سے باندہ دینا تاکہ ہوا خوشون
کو نہ گرا دے ۔ یا کھجور کے درخت
کے گرد کانٹے ... تاکہ کسی کا
ہاتھ اوس تک نہ پہنچے ۔ انگور کی
شاخون کو ... کر کے
اونکو اوسکے جگہون پر رکھنا ۔
ترجیب العتیرۃ ماہ رجب
مین قربانی کا ذبح کرنا ۔

ترجیج ... امید رکھنی
ترجیح (کسرتین) ایک کو ترجیح کر دینا ۔
ترجید (کسرتین) ... کا پینا ۔
ترجیز (کسرتین) ... پڑھنا ۔
ترجیع (کسرتین) انا للہ وانا الیہ راجعون
کہنا ۔ چارپایہ کا ... رکھنا ۔ ...
خط بنانا ۔ آواز کو حلق مین پھیرانا ۔
چارپایہ کا ... مین ... کو ہلانا
نقش کو دوبارہ ... کر دینا ۔
ترجیل (کسرتین) بال ... لٹکانے ۔
پاؤن ... کر ... یا ...
... کرنا ... کر دینا ...
چارپایہ ... کا ایک ...
ترجیم (کسرتین) کسی کو ... پتھر ...
گمان سے بات کہنی ۔
ترجین (کسرتین) چارپایہ کو چارہ
کے گھر مین روک رکھنا ۔
ترح ... فقیری و محتاجی ۔
ترح ... غم ...
ترح ... ہمیشہ ہونا ... ترنا
ترح ... جس کا ...
ترحیح ... کا
پاؤن کو فراخ کرنا ...

فرزند کو تھوڑا تھوڑا دودھ دینا یہان
تک کہ چوسنے کی قوت اوسکو
حاصل ہو جاوے - پالنا اور ادب دینا -
ترشیف (فتح ک س) پانی وغیرہ کو چوسنا
ترشیم (فتح ک س) لکھنا - منقش کرنا -
ترصد (فتح ق ض) دیکھتے رہنا - انتظار کرنا
ترصع (فتح ق ض) استادہ اور
خوش دلی کرنی -
ترصیص (فتح ک س) ایک شی کو
استوار کرنا - عورت کا روے بند
کو آنکھ کے پاس رکھنا - کسی چیز پر
قلعی کرنی -
ترصیع (فتح ک س) جواہر کا ایک
چیز مین جڑنا - اندازہ کرنا - پانا
ایک چیز کو ترتیب وار اچھی طرح
سے درست رکھنا - شادمانی
اور خوشدلی کرنی - کلام کو یکسان
ٹکڑے ٹکڑے کرنا - ہر کلمہ کو لپنے
مقابل وزن وروی مین لانا -
ترصین (فتح ک س) ایک چیز کی
شناخت مین دوسرے پر غالب آنا -
ترضب (فتح ق ض) آب دہن کو چوسنا
ترضح (فتح ق ض) ٹھیکری وغیرہ کا ریزہ
ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا -
ترضح (فتح ق ض) خبر کو سننا
اور یقین نکرنا -
ترضض (فتح ق ض) ٹوٹنا اور
ریزے ریزے ہونا -
ترضی (فتح ق ک) کسی کی خوشنودی
چاہنی - خوشنود کرنا -
ترضیہ (فتح ک ف) خوشنود کرنا -
ترطم (فتح ق ض) پلیدی کو روکنا -
ترطیب (فتح ک س) رطب ہو جانا
کپڑے کو تر کرنا - لوگون کو رطب کھلانا
ترطیل (فتح ک س) تیل سے بالون
کو نرم کرنا اور توڑنا لٹکانا اور اونکا
چھوڑ دینا - رطل سے وزن کرنا -
ترع (فتح س ف) پھیر دینا -
صلہ اسکا عن ہے -
ترع (فتح ف) پرآب -
ترع (فتح ف س) بڑے بڑے
کامون مین اپنے تئین ڈالنا - پھر جانا
برتن کا - بدی اور غضب کیطرف جلدی کرنا
ترع (فتح ک) بدی اور غضب کی
طرف جلدی کرنے والا -
ترعاثب (فتح ق ض) ڈرانا -

ماده
[illegible]
۶۶۹
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ایک پنچ کے
[illegible] کے گئے ۔
تفریح (تفعیل) فراخ کردینا
بات کھول کر کہنا [illegible] کا ذہن [illegible] کرنا
[illegible] کے پانی کا
[illegible] (تفعیل) [illegible]
[illegible] کے [illegible] کرنا
[illegible] ۔
[illegible] (تفعیل) [illegible]
[illegible] کر لینا
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] (تفعیل) [illegible] کا چلنے قابل
ہونا [illegible] چلنا سیکھنا ۔
[illegible] (تفعیل) پانی وغیرہ کا [illegible]
[illegible] (تفعیل) پانی وغیرہ کو [illegible]
[illegible]
[illegible] (تفعیل) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

پریشان ہونا چلنا ـ لوٹتا ہوا ہونا ـ
ترفیغ (تفعیل) عورت کی دونوں رانوں کے درمیان مین جماع کے لیئے بیٹھنا ـ عیش مین فراخی کرنی ـ
ترفق (تفعل) نرمی کرنی ـ
ترفلہ (تفعلة) تکبر و غرور سے چلنا
ترفیة (تفعلة) دعا کے طور پر بالرفاء والبنین کہنا یعنی مجتمع اور با آرام اور با طمانیت رہنا ـ
ترفح (تفعل) بمعنی ترفیہ ـ
ترفید (تفعیل) سردار اور بزرگ بنانا ـ بزرگ رکھنا ایکطرح کی رفتار ـ
ترفیش اللحیة داڑھی مین کنگھا کرنا اور اوسکو سیدھا کرنا حتی کہ بیلچہ کے مشابہ ہو جائے ـ
ترفیض (تفعیل) تھوڑے سے پانی کو مشک مین باقی چھوڑنا ـ گھوڑے کا اپنے ذکر کو جفتی کے لیئے نکالنا لیکن اوسکی تندی کا محکم ہونا ـ
ترفیع (تفعیل) اوٹھانا ـ دور ہونا ـ دور کرنا ـ گدہوں کا مختلف دوڑنا بعض کا بعض سے زیادہ حاکم کے پاس شکایت کرنی اور

اوسکے پاس نزد عامل کے ساتھہ جانا ـ
ترفیل (تفعیل) کوئین کے پانی سے تر کرنا ـ کسی کو بزرگ رکھنا ـ خوار اور حقیر کرنا ـ لغات اضداد سے ہے ـ کسی کو ایک چیز کا مالک کرنا ـ سردار کرنا ـ بحر کامل مین سبب زائد کردینا ـ ناز سے چلنے والا ـ
ترفیہ (تفعلة) خداوند کریم کا کسی کو آسودہ اور آسان رکھنا جب چاہین تب اونٹوں کو پانی پینے آنا ـ غم اور اندوہ سے رہائی دینی ـ آسایش دینی ـ
ترقاء (تفعال) چیز گردن جہان ملتا ـ
ترقب (تفعل) انتظار کرنا ـ
ترقح (تفعل) کنبہ کے لیئے کمائی کرنی ـ کمانا ـ
ترقرق (تفعلل) ہلنا ـ چمکنا ـ آمد و رفت کرنی ـ پانی کا آنکھہ مین پھرنا ـ پھرتا ہوا معلوم ہونا آفتاب کا ـ
ترقش (تفعل) زینت دینی اور آراستہ کرنا ـ
ترقص (تفعل) بلند ہونا ـ پست ہونا ـ لغات اضداد سے ہے ـ

مادہ
رفغ
رفق
رفل
رفأ
رفح
رفد
رفش
رفض
رفع
رفل
رفہ
رقأ
رقب
رقح
رقرق
رقش
رقص

ترجحا ... (تفعّل) بہت دور ہو الا
ترنّامہ (تفعلہ) یعنی ترنجبین
ترجّل (تفعّل) گھوڑے کا پاؤں
پایئے ہو جانا پیڑا تا ہو جانا۔
ترعہ (فعلہ) دروازہ حوض
نفقہ ... جوئے بہانے - دہانہ
حوض یعنی پانی آنے کی جگہہ دہانہ جوئی
سیرہی کا موندہ - زمین بلند مین
چراگاہ منبر کے درجے -
ترعبت (تفعل) عورت کا
گوشوارہ دار ہونا -
ترعّد (تفعّل) ہلنا اور کانپنا -
ترعرع (تفعلل) لڑکے کا ہلنا
حرکت کرنا پھولنا اور بڑھنا - دانت کا
ہلنا اور حرکت پانا -
ترعّظ (تفعّل) اونٹ کا بوجھہ
برابر کرنا چاہنا تاکہ تیز چلے -
ترعیّہ (فعلیّہ) خوب چرانے
والا اونٹون کا خوب بندوبست
کرنے والا - یا وہ کہ اوسکا اور اوسکے
باپ دادون کا شتربانی پیشہ ہو
چرایہ کا چرنا -
ترغیب (تفعیل) ڈرانا کو ...

وغیرہ کا کاٹنا - تیر مین کہال جانے
کی جگہہ کو راست و درست کرنا -
ترعلیہ (فعلیہ) کمان کا ٹکڑا
ترعیب (تفعیل) [illegible] حج
ترعیبہ (فعلیہ) یعنی ترعی ...
ترعظ (تفعل) ہشت کر دینا
برانگیختہ کرنا - جلدی کرانی میں
اندازے سے ہی - بچے کو ہلانا تاکہ دکھانا
انگلیون کا ہلانا تاکہ اوسکا درد
معلوم ہووے -
ترغّم (تفعّل) غصہ کرنا -
ترغیب (تفعیل) راغب کرنا -
خواہان کرنا -
ترغیّہ (تفعلہ) دعوہ کا جہاگ
لے آنا - کسی کو غصہ مین لے آنا -
ترغیم (تفعیل) زبردستی کسی کو کرنا
ترف (فعل) نعمت و آسایش
مین زندگی بسر کرنی -
ترفہ (فعلہ) نعمت اور آسایش
کے سبب نازکی - مزہ دار کہانا
تحفہ - اوپر کے ہونٹھ کی تندی -
ترفّت (تفعّل) ٹوٹا ہوا ہو جانا
ترفّض (تفعّل) بکہرا ہوا اور

کلام میں لانا۔

ترکال (فعل) چھوڑ دینا۔

ترکب (تفعل) جم کر بیٹھنا مضبوط ہونا۔

ترکت (ضمہ فتحہ) ایک ہے کا نحو شتر مرغ کا انڈا کہ جسے اوس نے چھوڑ دیا ہو۔

ترکوش (جمع) عورت کا میانہ۔

ترکہ الرجل جیرا ن عمر وہ۔

ترمحی (تفعل) فراخ ہونا مجلس فراخ بیٹھنا ایک کام میں ہاتھ ڈالنا سہل کرنی۔ کام میں تصرف کرنا۔

ترکرش (تفعل) رو دو کی ترکیب کا ملانا اور اوسکا بچھڑ لینا۔

ترکضا ترکضا (تفعل) ترکضا

ترکسم ایضًا (تفعل) ترکس

ترکلخ (تفعل) کسی چیز میں لات مارنی تاکہ زمین میں گھس جاوے۔

ترکش (تفعل) استوار ہونا اور صاحب عقل ہونا۔

ترکیف (تفعل) جا کر بیٹھانا گھوڑے کو بھی لوٹ پھار دینا

ترکلس (تفعل) نیزہ وغیرہ زمین میں گاڑنا

ترکیک (تفعل) پہاڑ پسانی پر جی

ترمرف (تفعل) اندر خوارزان لاترتا

یعنی اوسکا یعنی خاص کر

ترماہ (تفعیل) تعلیم دانشی کرنی۔

ترمز (تفعل) اضطراب کرنے کے لیے ہو نتھون کو ہلانا۔

ترمخر (تفعل) الملک اضطراب کرنا اور تھنے یا خصومت کے لیے گھوڑے کا مجلس میں ہانا۔ آمادہ ہوجانا غصہ سے گوز نا۔

ترمس (تفعل) ایک درخت کا پھل ہے کہ دانہ اوسکا چھلود والاو پرخشروار ہوتا ہے یا مصری باقلی ہے

ترمشتہ (تفعل) الرای سے تمام ہوجانا۔ اسکو شغب سے

ترمستہ (تفعل) سر دانہ

ترمبص (تفعل) گرمی سے کرفت میں ہرن کا شکار کرنا۔ سل کا گھبرانا

ترمع (تفعل) حرکت کرنا۔ غصہ سے دہکانا۔ ڈرانا۔

ترموق (تفعل) دمرہ کو تھوڑا تھوڑا پینا۔ پانی وغیرہ پینا گھونٹ گھونٹ پینا۔

ترملش (تفعل) آلودہ ہونا

ترمعتم (تفعل) متعرق و پراگندہ ہو

[illegible]

ترقیط (تفعیل) کپڑے پر سیاہی وغیرہ کے نقطے ٹپکنے۔

ترقیع (تفعیل) کمائی کرنی۔

ترقیق (تفعیل) مہربانی کرنی، دل تنگ ہونا۔ لغات اضداد سے ہے۔

ترقین (تفعیل) عورت کا اپنے تئیں حنا یا زعفران سے رنگ کرنا

ترقوہ (تفعلہ) ہنسلی گردن

تراقی (تفاعل) جمع۔

ترقی (تفعل) سیڑھی پر چڑھنا درجہ بدرجہ ہر چیز پر چڑھنا۔

ترقیہ (تفعلہ) کسی کے آگے سے کلام نقل کرنا۔

ترفیع المال اور مویشیوں کی خوب خبرگیری اور بندوبست کرنا۔

ترقید (تفعیل) ایک قسم کی رفتار

ترقیص (تفعیل) بلند ہونا، لٹکنا، پست ہونا۔ لغات اضداد سے ہے۔

ترقیع (تفعیل) کپڑے پر پیوند لگانا، اور مویشیوں کی خبرگیری کرنی

ترقیق (تفعیل) پتلا کر دینا۔ کلام کو اچھا اور خوب کرنا۔ ایک چیز سے کنایہ کرنا۔

ترقیم (تفعیل) کپڑے کو خطدار بنانا۔ خط دار کرنا۔ لکھا پڑھ کرنا۔ خط کو سنوارنا اور نقطے کرنے تاکہ واضح ہو جائے۔ سطروں کو پاس پاس کرنا۔ خراج کے دفتر والوں کا ایک نشان ہے کہ مضمون اور فرامین اور حساب کی فردوں پر کر دیتے ہیں تاکہ خالی جگہ پر یہ گمان ہو کہ یہاں حساب واقع ہوا تھا۔

ترقین (تفعیل) ڈاڑھی کو حنا یا زعفران سے رنگ کرنا۔ سطروں کو پاس پاس کرنا۔ خط میں نقطے کرنے تاکہ واضح ہو جاوے۔ خط کو آراستہ کرنا اور زینت دینی۔ افراد حساب کے مضمون کو کالا کر دینا تاکہ خالی اور سپید جگہ پر گمان ہو وے کہ یہاں کچھ حساب لکھا تھا۔

ترک (افص) ایک گروہ ہے یافث بن نوح علیہ السلام کی اولاد کا۔

اتراک (افعال) جمع۔

ترک (فعل) (ان) چھوڑ دینا کوئی کام کرنا۔ لغات اضداد سے ہے۔

ترک (فعل) (ص) ترکیہ عورت کو

بدکار۔ حرام کار عورتین ۔ ایک ریگستان کا
ترنیق (ضفک) اپنی معشوق کی طرف برابر دیکھنا۔
ترشیہ (ضسکف) راگ۔ گریہ۔ شادمان کرنا۔ کسی کو برابر دیکھتے رہنے پر چین کرنا۔
ترنیح (ضسکس) بیہوش ہونا۔ سستی کے سبب کہ ہڈیون مین عارض ہو لہراتے چلنا۔ سستی کسی کو شراب وغیرہ کا مست کرنا۔
ترنیخ (ضسکس) خوار و ذلیل کر دینا۔
ترنیع (ضسکس) سر ہلانا۔
ترنیق (ضسکس) پانی کو گدلا کرنا یا پانی کو صاف کرنا۔ لغات اضداد سے ہے۔ بدن کی سستی۔ بینائی کی سستی۔ سست کار اور پریشان عقل ہونا۔ ایک چیز مین ہمیشہ دیکھتے رہنا۔ انتظار کرنا۔ جانور کے بازو کو تیر سے توڑنا کہ گر پڑے۔ ایک جگہ اقامت کرانی۔ جانور کا چلتے بازو کو پھیلا رکھنا بعد اسکا ہوا پر ثابت رہنا۔
ترنیم (ضسکس) آواز کو کھینچنا اور خوش کرنا اور پھیرانا۔ کبوتر کا آواز کرنا۔ ٹڈی کی کا آواز کرنا۔ کمان کا آواز کرنا۔ وہ چیز

کہ جسکی آواز بھلی اور اچھی لگے ۔
ترمیش (ضسکس) کسی چیز سے آواز کرنی۔
تنوح (ضفقض) ایک چیز کا جاری ہونا۔ بیلاج پکڑانا۔ ایک چیز کے گرد پھرنا۔
ترووح (ضفقض) گھاس کا پھوٹنا رات کے وقت آنا۔ پانی کا ایک چیز کے پاس سے بہنے سے اسکی بو بہی دوبارہ درخت کا پتے نکال لانا۔ رات کے وقت کہین جانا۔ پنکھے سے ہوا کرنی۔ پنکھا جھلنا۔
ترووخ (ضفقض) کچھ زمین گر پڑنا۔
ترووہ (ضفقض) ہوا کا چلنا اٹھنا اور پھر کلپنے لگنا۔ ٹہنی کا سایہ ڈالنا اور میلان کرنا۔ گردن مڑجانی۔ نعمت کے سبب خوشی کرنی۔
ترووز (ضفقض) اڑ کر چلا جانا۔ کا ہٹنا بستی کا باہر نکل پڑنا۔ اپنے شہر سے دور جا پڑنا۔ موٹا اور گوشت دار ہونا۔
ترووز (ضفقض) سخت ہونا گوشت کا۔
ترووس (ضفقض) سخت اور موٹا ہو جانا۔
ترووع (ضفقض) گھومنا۔
ترووغ (ضفقض) چارپایہ کا خاک مین لوٹنا۔

رنی
سہ رنا
سہ رنح
سہ رنخ
سہ رنع
سہ رنق
سہ رنم
سہ رنح
سہ رنج

675

رو ح
رو خ
رو د
رو ز
رو ز
رو س
رو ع
رو غ
12

ترشح (فتح …) … ناقہ
ترشیف (فتحتین) پستان ناقہ میں جو دودھ باقی چھوڑ دیا - پیالہ میں … پرزہ یا … ہونا -
ترشیح (فتح …) اطراف کا … کھا جانا -
ترضیع (فتحتین) اونٹنی وغیرہ کا بچے کے قریب اپنی پستانوں کو لانا - کسی چیز کو اکھڑ میں ڈالنا پر اکڑ میں چھونا -
ترصیص (فتحتین) لکڑیوں کا جبتی زمین میں چھپانا - … کی … انتظار کر جانا -
ترصیع (فتحتین) ہتیار … سے … کا اندر ہو جانا - … کا … ڈالدینا -
ترطیع (فتحتین) بات کا … سے آنا - بال … اور گھولنا سر کو روغن سے خوب تر کرنا - … کو … میں خوب تر کرنا -
ترفیق (فتحتین) ہمیشہ دیکھنا کام کو اچھی طرح سے کرنا کہ کافی … بات گرہنی …

ترضیخ (فتحتین) … یا بٹنا - … کا اکٹھا ہو جانا - زبون کردینا - خون میں آلودہ کرنا - … خبر کرنا - آلودہ کرنا
ترعیب (فتحتین) … ترعبہ …
ترعی (فتحتین) …
ترعید (فتحتین) بات کو چھیڑنا -
ترعیج (فتحتین) مستی وغیرہ سے جھکنا شراب کا تھوڑا پینا -
ترعیش (فتحتین) … وغیرہ کسی میں لپٹ جانا -
ترنیق (فتحتین) پانی کا گدلا ہونا -
ترنم (فتحتین) اچھی آواز سے گانا - آواز کا پھرانا - … کمان … کا آواز کرنا - کبوتر کا آواز کرنا - ہر چیز کا آواز کرنا کہ جسکی آواز بھلی معلوم ہو - تلاوت قرآن میں آواز کو اچھا کرنا -
ترنیت (فتحتین) گانا - آواز کا پھرانا - کمان جب کھینچے وقت آواز کرے
ترنوق (فتحتین) تیلا گارا جو کہ نہر کا نالہ کا پانی زمین میں گھس جانے …
ترنوک (فتحتین) حقیر و لاغر -
ترنومت (فتحتین) اچھی آواز -
ترنی (فتحتین) لونڈی عورت

کو ایک چیز کا طلب کرنا۔ ایک چیز کا
ایک چیز کے بعد ارادہ کرنا۔
ترّہ (فتف) باطل۔
ترّہ (فف) رس، ترات میں پڑجانا
ترہات (فتفس) ترار یہ ہے (فضفکس)
جمع ترہۃ (فسف)
ترہیب (فتفض) دھمکانا۔ ڈرانا
دینا۔ ڈرانا۔ پرستش۔
ترہیل (ففسف) شلیدہ روش پر چلنا
ترہّۃ (فتفف) باطل سخن بیفائدہ
چھوٹا رستہ جو بڑے رستے سے
نکلے۔ بلا ہوا یا دکھ۔ زمین ہموار
زمین سے آب و گیاہ۔ ایک جانور
ریگستان میں۔
ترہرۃ (فقفض) جسم کا نازک
کے سبب سرخ اور سپید ہونا۔ سراب
کا سپید چمکنا۔
ترہمس (فقفض) ہلنا حرکت کرنا
مضطرب و بیقرار ہونا۔
ترہوط (فسفس) بہت کھانے والا۔
ترہوک (فسفس) ہلتے ہوئے چلنا
ترہیئ (فسکس) ماشی کا پہ چلنے
سے بدحال ہوجانا۔ اعضا بچھر جانا رہ کھانا

سے کاہل ہوجانا۔
ترہید (فسکس) سخت نادانی
اور حماقت کرنی۔
ترہیط (فسکس) بہت ہی کھانا
ترہیق (فسکس) کسی کو بدی
کے ساتھ متہم کرنا۔ کسی کا ظلم
ترہیل (فسکس) سست اور
ہلتا ہوا کرنا۔
ترہیک (فسکس) رش، ڈھنگ کرنی
تریاق (کسفس) شراب ایک دوا
تریاقہ (کسفس) شراب
تریب (فکس) سینہ
تریبۃ (فکسف) سینہ کی ہڈیاں
تریکۃ (فکسف) خائض چھوٹ جو
تھوڑی سی زردی اور تیرگی کی ہیاتی
کے بعد دیکھے۔
ترییش (فقفض) ڈھنگ کرنا۔
تریح (فکس) تیز ہونا عود جسکے
بیچ سخت ہوں۔
تریص (فکس) مضبوط استوار۔
تریع (فکس) جیسے بڑے
کاموں میں اپنے تئیں ڈالنے والا
تریغ (فقفض) توقف کرنا سرگشتہ

ترزوق (بفتح تا) ایک پرندہ ہے
ترصیم (بفتح تا) مستعد یا تیار کرنا
ترکوم (بفتح تا) جہاں بہت ہجوم کرنا
ترہدی (بفتح تا) حدیث کی روایت
لینا۔ کام میں اندیشہ و فکر کرنا [illegible]
[illegible] کا آزردہ ہونا [illegible]
[illegible] کا معتدل [illegible]
ترویث (بفتح تا) [illegible] کو وہی جاننا
[illegible] کر دینا [illegible] کرنا
ترویۃ (بفتح تا) تروی (بفتح تا) [illegible]
کام میں اندیشہ و فکر کرنا [illegible] کے
انجام کو دیکھنا [illegible]
ترویح (بفتح تا) کسی کو شعر کی
نقل پہنچانا۔ کام میں اندیشہ
کرنا۔ سیراب کرنا۔
ترویج (بفتح تا) ایک چیز کو جاری
کر دینا۔ کسی کے پاس بات کو [illegible]
جانا نا تمام ہونا اس سے ماہ رمضان
کی تراویح کہ ہر چار رکعت کے بعد
استراحت [illegible]
[illegible] ایک چیز کو ساتھ کے وقت
چوپایہ کو خوابگاہ میں پھیلانا۔
ترویز (بفتح تا) ایک چیز سے ایک

[illegible] کرنا
ترہیص (بفتح تا) [illegible]
[illegible] زمین [illegible]
ترقیع (بفتح تا) [illegible]
[illegible]
[illegible]
کپڑے میں پیوند کرنا قیمت میں
زیادہ کر دینا اور [illegible] ایک
چیز کو [illegible] کرنا [illegible]
[illegible] معاف کرنا ایک چیز کو
[illegible]
تاریکی کو [illegible] یعنی خوب تاریک کرنا
ترکیل (بفتح تا) [illegible]
کو سلیس بنانا۔ یا [illegible]
چرب کرنا [illegible]
[illegible] کا ذکر
[illegible]
[illegible] پہنچنے سے
پہلے [illegible] کر دینا [illegible] کا
[illegible] میں [illegible] چھوڑنا۔
ترکیم (بفتح تا) [illegible]

تیزا جمعہ رفسفض آگیں میں [illegible]
نزدیک ہونا قریب ہونا [illegible]
تیزا جماعت رفسفض آپس میں [illegible]
ہونا۔ دو دو ملنا۔ نمات امنیہ [illegible]
تیزا جمع رفسفض [illegible] [illegible]
تیزا ازور رفسفض اپنا [illegible]
چلا جانا [illegible] چلانا [illegible]
[illegible] رحلی [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
تیزا عم رفسفض [illegible] کا کام
[illegible] کرنا۔ [illegible] کرنا۔
تیزا انفظ رفسفض [illegible] [illegible]
تیزا فح رفسفض [illegible] [illegible]
[illegible] ہونا
تیزا اور رفسفض ایک جیز سے
پھر جانا۔ آپس میں بات کرنی
تیزا وف رفسفض لڑکوں کا
ایک کھیل ہے
تیزا وک رفسفض شرم کرنی
تیزا ول رفسفض ایک کام میں
شغل کرنا۔ آپس میں کوشش کرنی
تیزا ہد رفسفض کسی کو حقیر
گننا۔ ذلیل اور خوار جاننا

تیزا [illegible] رفسفض [illegible] زیادہ ہونا۔ کلام
وغیرہ میں [illegible] زیادہ کرنا
[illegible] رفسفض [illegible] [illegible]
کی طرف جھکنا
تیزا [illegible] رفسفض [illegible] ہونا
[illegible] جدا ہونا کسی سے [illegible]
تیزا [illegible] رفسفض [illegible] [illegible]
[illegible] ہونا منہ کا
تیزا [illegible] رفسفض [illegible] کرنا
تیزا [illegible] رفسفض [illegible] جانا
[illegible] قسم میں جلدی کرنا
[illegible] [illegible]
تیزا [illegible] [illegible]
تیزا لغ رفسفض [illegible] [illegible]
اور بد خلقی کرنی۔ سخت اور [illegible]
کی بات کہنی۔ [illegible] کی [illegible]
اور [illegible] [illegible] چلنا [illegible]
تیزا [illegible] رفسفض [illegible] [illegible]
تیزا [illegible] رفسفض [illegible] [illegible]
قریب ہونا [illegible] [illegible] کا
[illegible] آنا [illegible] [illegible]
تیزا [illegible] رفسفض [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] لینا

ہونا۔ نمایاں [illegible] ہوا [illegible] کا
[illegible] ہونا [illegible] کھانا [illegible] اور
[illegible] کا حرکت کرنا [illegible]
[illegible]
[illegible] عضو [illegible]
میں [illegible]
[illegible] آواز کا نمایاں
ہونا اور حرکت
[illegible] انگور کا خوشہ
[illegible] کھجور کا درخت
پھل [illegible] لیا ہو
[illegible] عورت [illegible]
اور [illegible] کی خواہش [illegible]
[illegible]
[illegible] سے باقی رہ گیا ہو۔ اور
جس میں سے بچہ نکل آیا ہو۔ خود
آہستی۔ خوشہ جس میں سے پھل
لیا ہو۔ اور شتر مرغ کا [illegible]
[illegible] کا [illegible]
خدا کے لیے [illegible]
یا میلا [illegible]
[illegible]
اور ناپدید ہو جانا۔

[illegible] چلنا
[illegible] ہونا
ایک کام کا ارادہ [illegible] رکھنا [illegible]
[illegible] کرنے کا ارادہ [illegible]
[illegible] خلاف اعتقاد رکھنا
آئینہ سامنے کرنا [illegible]
[illegible] سے جڑا دینا
کام میں [illegible] اور اندیشہ کرنا
[illegible] گرم کرنا۔ عاجز
[illegible]
[illegible] سست کرنا
[illegible] ہستی [illegible]
[illegible] ہونا [illegible]
[illegible] قوم کا سردار کر دینا
[illegible] میں [illegible] رکھنا
[illegible] جمع ہو آنا
[illegible] کرنا
[illegible] افزون ہونا
ایک جگہ مقیم ہونا [illegible] ہونا
اور [illegible] ان کا مقیم رہنا
[illegible]
[illegible] کے ساتھ [illegible]
[illegible] کرنا

[illegible]

[illegible]

تر عش رفقعس ہنسا دمان ہونا — آواز کرا لی ساد [illegible]

[illegible]

تر عوع رفقعس ہلانا — سر کیطرف سے بوست نکالنا

تر عمل رفقعس ہنسا دمان ہونا — تر کرز رفقعس شراب کا ملنا ہونا

تر عمر رفقعس جھوٹ بولنا — بچے کا پیٹ پیدا ہو جانا بچہ کا

تر عمر رفقعس گدہے کی آواز — حال اچھا ہونا پیر ہونا بچہ کا پیٹ

دینا کا کرنا اور زمین پر چوٹی کرے — بہونا بھر جانا

تر عمر رفقعس اور شب کا گلے — تر کرل رفقعس اپنا ساد ساما



ج

تحزن [illegible] ونکس [illegible] جھونکا
[illegible] کی [illegible] —
تحزن [illegible] ونقص [illegible] آزردہ ہونا —
تحزن تشت ونکس پراگندہ ہونا —
تحزن [illegible] ونفتح ایک چیز پر [illegible]
تحزن [illegible] ونکسر [illegible] سے [illegible]
[illegible] بعید کرنا —
تحزن حج ونکس [illegible] کو [illegible]
[illegible] کی ایک چیز کو سیدھا کرنا
تحزن [illegible] ونفتح جیسے کا پیچھے کرنا
[illegible] ہونا بیماری [illegible]
ہونا بیٹے کا [illegible] —
تحزن خرج ونفتح [illegible] —
تحزن [illegible] ونقص کسی کی طرف
[illegible] سے جانا —
تحزن حلا ونقص جگہ سے دور ہونا
تحزن خلف ونفتح [illegible] ہونا
تحزن حلق ونفتح [illegible] —
تحزن حلک ونفتح [illegible] —
تحزن [illegible] ونقص [illegible] کرنی
تا [illegible] سے [illegible] —
تحزن حلج ونفتح [illegible]
[illegible] بکھر جانا [illegible]

تحزن [illegible] ونکس [illegible] پیچھا [illegible] پیچھے
کرنا اور اوسکا [illegible] ہونا — [illegible]
[illegible] میں مبتلا ہونا [illegible]
[illegible] اوسکی [illegible] میں [illegible]
اور [illegible] ایک بات تک
اوسکی [illegible] میں [illegible] ہیں اور اوسکی
ناک بند کر دیتے ہیں اوسکے اور اوس
[illegible] کی [illegible] میں سے نکال لیتے
ہیں اور دوسری [illegible] کے
[illegible] سے [illegible] میں [illegible]
گمان [illegible] کر [illegible] سے [illegible]
[illegible] اوسکی [illegible] کر [illegible]
ہیں [illegible] اور اوس [illegible]
اوس پر مہربان ہوتی ہے [illegible]
دوجتے ہیں —
تحزن [illegible] ونکس [illegible] کرنا
تحزن خبر ونفتح [illegible]
تحزن خف ونفتح [illegible] اور [illegible]
تحزن [illegible] ونفتح ایک [illegible]
[illegible] کرنا [illegible] —
تحزن خیف ونکس [illegible] —
[illegible] سے خوش [illegible]
اور [illegible] کے ساتھ [illegible]

تز... (تفعّل) کسی کی ... میں ... [illegible]
تز... (تفعّل) ... کرنا ۔ [illegible]
[illegible]
تزیج (تفعّل) تکبر کرنا ۔
تزیند (تفعّل) خواب میں تنگ ... عاجز آنا ۔ غصہ کرنا ۔
تزندق (تفعلل) زندیق ہونا ۔
تزنر (تفعّل) ... زنار باندھنا ۔
تزنف (تفعّل) غصہ ور ہونا ۔
تزنیۃ (تفعلۃ) تنگ گیری کرنی ۔ تنگ کرنا ۔ زنا کی طرف منسوب کرنا ۔ کسی کو زانی کہنا ۔
تزہیج (تفعیل) کسیکو ... کر دینا ۔
تزہیح (تفعیل) بار بار پانی پینا ۔
تسیح (تفعیل) ... بچہ کا دودھ پیتے وقت ... کے سبب یا حلق کی خشکی کے سبب سرا دیکھنا ۔

[illegible]
تزویج (تفعّل) کسی کی طرف خوب ... ۔
تزنیم (تفعیل) ... ۔
تزنیۃ (تفعلۃ) تنگ کرنا ۔
تزوج (تفعّل) ... ۔
تزوبر (تفعّل) ... ۔
تزورق (تفعّل) پیٹ میں ... ۔
تزوع (تفعّل) گوشت کا ... سے دور ہونا ۔
تزوکل (تفعّل) درست کرنا ۔ خوب زیرک ہو جانا ۔ نہایت زیرکی اور ظرافت کو پہنچ جانا ۔ ...
تزوی (تفعّل) گوشہ گیری کرنی ۔
تزویج (تفعیل) نکاح کرنا ۔

[illegible]

[illegible]

تزلزل (فتحتین) [illegible]

[illegible]

بیر کا پھیلنا۔

تزعب (فتحتین) پھیلنا

تزحزح (فتحتین) جھکنا۔

تزحف (فتحتین) [illegible]

تزلج (فتحتین) پھسلنا۔

تزلزل (فتحتین) ہلنا۔ کانپنا۔

تزلع (فتحتین) پاؤں کا پھٹنا

تزلف (فتحتین) آگے آنا۔ [illegible]

[illegible] ہونا۔

تزوق (فتحتین) زینت پکڑنی

[illegible]

اور اس کے کناروں کو [illegible]

کی نگہبانی کرنی۔

تزمت (فتحتین) [illegible] وقار

تزمجر (فتحتین) شیر کا غرانا۔

تزمزم (فتحتین) [illegible] آواز کرنا۔ بولنا۔ بڑبڑانا۔

تزمع (فتحتین) [illegible]

تزمل (فتحتین) [illegible]

تزمیر (فتحتین) [illegible] کرنا۔

[illegible]

زیت کا توشہ دینا۔
تشمیت (فسکف) کسی کو پیشش دینی
تشدید (فسکس) زیادتی کرنی
تشییع (فسکس) پیدا کرنا
تزییف (فسکس) درہموں کو بے رواج یعنی کھوٹا کر دینا
تزییل (فسکس) جدا کرنا۔ پراگندہ اور متفرق کرنا۔ پراگندگی۔
تزییم (فسکس) ڈرانا
تزیین (فسکس) آراستہ کرنا۔
تساب (فسکت) ایک دوسرے سے ٹوٹ جانا الگ ہو جانا ایک دوسرے کو گالی دینی۔
تسابق (فسکف) ایک دوسرے پر سبقت پکڑنی۔
تسابی (فسکس) بعض کا بعض کو بندی کرنا۔ دل لیجانا۔
تسائل (فسکف) یعنی استیال
تساجل (فسکف) آپسمیں فخر کرنا
تساحق سے فاعل کا وزن ہے
تساند (فسکت) کسی کے ساتھ
تسارع (فسکف) سرعت کرنی
تساوی (فسکف) کاموں کا

مختلف ہونا۔ دشوار ہونا۔
تسافح (فسکف) زنا کرنا۔
تسافد (فسکف) جفتی کرنا۔
تسافہ (فسکف) نادانی کرنی
تساقب (فسکف) نزدیک ہونا
تساقط (فسکف) اوپر تلے گرنا۔ گر پڑنا۔ ڈالنا۔ آپسے تئیں کسی چیز پر ڈالنا۔
تساقی (فسکس) ایک دوسرے کو پانی پلانا۔ ساقی ہونا۔
تساکر (فسکف) بغیر مستی کے آپ سے مستی کرنی۔
تسال (فسکس) مانگنا۔
تسالف (فسکف) ایک دوسرے کا سالا ہونا۔ ساڑھو ہونا۔
تسالم (فسکف) آپسمیں صلح کرنی
تسامح (فسکف) آپسمیں آسانی کرنی
تسامع (فسکف) ایک دوسرے سے سننا۔ خبر کا فاش ہونا۔
تسامی (فسکف) بزرگی میں آپس میں مقابلہ کرنا۔
تسان (فسکت) سانڈ اور گھوڑے کا ایک دوسرے کو کاٹنا۔

[illegible]

[illegible]

تصویع (تفعیل) ... چھیلنا

تسریح (تفعیل) نیزہ کا گاڑنا

اور ... ہونا

تصفیق (تفعیل) سپید ہو جانا

صاف اور روشن ہونا موٹا ہو جانا

تصنیع (تفعیل) لباس پہننا

... اور مستعد ہونا

تصفیر (تفعیل) عمدہ خرما کا رنگ بگڑنا

تسفیہ (تفعیل) کسی کو نا خوشی ... پہنچانا ... ضد ... سلام کرنا

ایک بچہ کو گھر گھٹنا ... رنگ لگانا

تزبیب (تفعیل) ... کا دن

... ہونا

تسریج (تفعیل) ...

جھجک سے ... ہونا

... (تفعیل) ...

ایک قسم کی رفتار ...

... میں نکلنا ...

آواز کے ساتھ ... چھوڑنا

تعدیہ (تفعیل) ... شرح ...

... طرف ...

تبلیغ (تفعیل) ...

تشویق (تفعیل) ...

اپنے آپ کو سنوارنا

تذییل (تفعیل) پراگندہ و متفرق ہونا

تشریم (تفعیل) متفرق اور پراگندہ ہو جانا۔ گوشت کا متفرق ہونا۔

گوشت کا گٹھا ہوا اور جھبا ہوا ہونا

تزیین (تفعیل) آراستہ ہونا

(تفعیل) آراستہ ہونا ... کا اظہار کرنا

تزنیت (تفعیل) کسی کو ...

تسبیط (رفتکس) اونٹنی کا اپنے حمل
کو خراب کر دینا - بکری کا بچہ ڈالدینا -
تسبیع (رفتکس) کسی چیز کو سات
عدد کر دینا - ایک چیز کو سات گونے کا
بنانا - برتن کو سات بار دھونا - سات
بار دینا یا سات گونہ دینا - قرآن کا
سات دن مین وظیفہ کرنا - جورو کے
پاس سات رات اقامت کرنی - سدر ہونکو
پورے ستر کر لینا - سات شو ہونا -
تسبیغ (رفتکس) اونٹنی کا بچہ
ڈالدینا جبکہ جننے کے قریب آگئی ہو -
اصطلاح کا علم عروض کا تصرف -
تسبیق (رفتکس) بکری کا ناتمام بچہ
گرا دینا - جو چیز کہ گھوڑ دوڑ مین شرط
لگائی گئی اوسکو لینا یا دینا - لغات
اضداد سے ہے -
تسبیک (رفتکس) سونے چاندی
کا گلانا پگھلانا -
تسبیل (رفتکس) راہ خدا مین ایک
چیز کو بار دینا -
تستر (رفقص) پوشیدہ ہونا - چھپ
کرنا - ایک چیز کو دور کہنا - پردہ
مین ہونا ایک چیز کا -

تسش لسش (کس کس) ایک کلمہ ہے
کہ جس سے بکری کو ڈانٹتے ہیں تاکہ رک جاوے
تسئوق (رفقص) گھوٹنا درم -
تسجیة المیت مردہ کو چادر وغیرہ
سے ڈھانکنا -
تسجیح (رفتکس) کلام مین کسی
پر تعریض کرنی -
تسجیح الماء پانی کو روان کرنا -
تسجیر (رفتکس) پانی کو گدلا کرنا
تسجیع (رفتکس) کلام با قافیہ بولنا -
تسجیف (رفتکس) گھر پر پردہ لٹکانا
تسجیل (رفتکس) ذکر کو مشہور کرنا
اوپر سے نیچے ڈالنا - سجل کرنا -
عہد و پیمان کرنا - حوض کو پر کرنا -
تسجیم (رفتکس) ، التسجام (رفقص)
آنسو کا جاری کرنا -
تسحین (رفتکس) خوب چیز تا درخت
خرما کے گرداگرد گڑھا کھودنا تاکہ
اوسمین پانی ٹھہرے -
تسحب (رفقص) ناز کرنا -
تسحج (رفقص) بہت چھیلنا -
تسحر (رفقص) سحری کھانا -
تسخم (رفقص) پانی کا اوپر سے جاری ہونا

مادہ: سبط، سبع، سبغ، سبق، سبک، سبل، تسش، سوق، سجو، سجح، سجر، سجع، سجف، سجل — ۶۸۷ — سجم، سجن، سحب، سحج، سحر، سحم

[illegible]
تساخر
تساکی
تساند
تساوق
تساوک
تساوم
تساوی
تسایل
تسایم
تساھل
تساھم
تسایر
تسایف
تسایل
۷۸۴
تسبیب
تسبیت
تسبیح
تسبیخ
تسبیع
تسبیغ
تسبیح
تسبیخ
تسبیب

تساخر (تفعل) کسی کی تحقیر کرنا ایک دوسرے کی آپس میں ہنسی کرنی۔

تساکر (تفعل) ظاہر ہونا۔ اپنے تئیں نشہ کا کھینچنا۔

تساوق (تفعل) اونٹوں کا ایک دوسرے کے پیچھے ہونا اور تابع ہو جانا۔ سکیونکار رفتار میں برابر ہونا۔

تساوک (تفعل) چلنے میں مائل اور خمیدہ ہونا یعنی سیر ضعیف ناتوانی کے سبب برا چلنا اور گرتے پڑتے چلنا۔

تساوم (تفعل) اسباب کا مول کرنا چکانا۔

تساوی (تفعل) آپس میں مانند ہونا اور برابر اور مستوی ہو جانا۔

تساھل (تفعل) آپس میں آسان پکڑ لینا ایک چیز کو۔

تساھم (تفعل) آپس میں قرعہ ڈالنا۔

تسایر (تفعل) آپس میں ایک ساتھ چلنا۔

تسایف (تفعل) آپس میں تلوار زنی۔

تسایل (تفعل) [illegible] کا ہر طرف سے جاری ہونا۔

تسبیح (تفعیل) کالا کمبل پہننا۔

تسبیخ (تفعیل) گرمی کا قرار پکڑنا اور سست اور ضعیف ہو جانا۔

تسبیب (تفعیل) روان اور جاری ہونا پانی کا۔

تسبیغ (تفعیل) تسبیغہ (تفعیل) جو زرہ کا دامن جو زرہ پر پڑے۔ تسابغ (تفعیل) جمع ہے۔

تسبیت (تفعیل) گالی دینی عیب بتانا۔

تسبیح (تفعیل) سبحان اللہ کہنا پاکی کے ساتھ یاد کرنا۔ خدا تعالے کی صفت کرنی۔ نماز۔

تسبیخ (تفعیل) قرار پکڑنا۔ گرمی کا سست ہونا۔ رگ کا درد سے قرار پکڑنا اور درد رگیں اوچھلنا۔ فراغ۔ ہلکا کر دینا۔ روئی وغیرہ کا لپٹنا۔ لکی نیند۔ آرام دینا۔

تسبید (تفعیل) بال مونڈنے جڑ سے اکھاڑنا۔ سر کا چرب نکلنا۔ چوزے کے پر نمایاں ہونے۔ بالوں کا بعد مونڈنے کے نمایاں ہونا۔ چراگاہ میں نئی نئی گھاس کا نکلنا۔ سر کے بال دھو کر اور تر کر کے لٹکانے

[illegible]

کو لپیٹ کے رکھنا۔

تشریب (فتح) شوربے میں گھسنا۔

تسبیل (فتح) بالا پن پہنانا۔

تشرف (فتح) شاد کرنا۔

تشطیر (فتح) شیر بنانا۔

تسمیر (فتح) کیڑے کے تیلا گانا۔

چھڑی یا انگلی سے ٹھٹانا۔

تشلیط (فتح) گل جانا۔

تشریح (فتح) ابدی کی کھال [illegible]

[illegible]

تسریعی (فتح) بچہ کا اچھی

طرح پرورش پانا۔

تشرق (فتح) تھوڑا تھوڑا چلنا۔

تسرم (فتح) پارہ پارہ ہو جانا۔

تسمط (فتح) بالوں کا تھوڑا

اور بیشتر بکھرنا۔

تسرول (فتح) ازار کھینچنا۔

تسرکی (فتح) بتکلف مروت

و سخاوت کرنی۔ لونڈی کا سریہ بنانا۔

تسریب (فتح) تھوڑے اور

[illegible] کا گھٹ جانا۔ گلہ گلہ کرکے بھیجنا۔

کو [illegible] بکھیرنا اور [illegible]

[illegible] پانی ڈالنا کہ مضبوط ہو جاوے۔

تسریر (فتح) عورت کا بہت لونڈی والی ہونا۔ لونڈی کا [illegible] دینا۔ اور بہت سے ایک چیز کو ڈال دینا۔ مسیحی تسبیح کا

پیچھے سمجھنا۔

تسریح (فتح) بال کو کنگھا کرنا اور خوبصورت اور اچھے بنانے۔

تسریح (فتح) چوپایہ کو چراگاہ میں چھوڑ دینا۔ جورو کو طلاق دینا۔

آسان کرنا۔ بالوں کا کھولنا اور لٹکانا۔

تسرید (فتح) چمڑے کی بنی سینا۔

پیوستہ کرنا۔ بات کو خوب روانی سے ادا کرنا۔ روزے کا پے در پے رکھنا۔

تسریر (فتح) ناف تک پانی کا پہنچنا۔

تسریق (فتح) کسی کو چوری کا لگانا۔

تسریم (فتح) پارہ پارہ کرنا۔

تسس (فتح) جڑ میں خراب ہونا۔

تسطیح (فتح) برابر اور ہموار کرنا۔ چوڑا کرنا۔ قبر کی تسطیح خلاف تسنیم۔

تسطیر (فتح) صحیح کرنا۔ لکھنا۔ [illegible] اصل چیزوں کو آپس میں ملانا۔ بھیجا جانا۔

[illegible]

تسخیم (فتکف) خط پر مہر کرنی۔
تسخیر (فتکس) جھیلنا۔
تسخیر (فتکس) فریب دینا۔ مشغول کرنا۔ کسی نے پینے کا محتاج کر دینا۔ جادو کرنا۔ سحر کرنا۔
تسخیر (فتقض) فرمان بردار کر لینا۔ بے مزدوری کام کرنا۔
تسخط (فتقض) غصہ کرنا۔ ناخوش ہونا۔ بگڑنا۔ مکروہ اور ناخوش کہنا۔
تسخم (فتقض) کسی پر کینہ پکڑنا۔
تسخی (فتفک) بتکلف جوانمردی کرنی۔
تسخی (فتکس) تسخیۃ (فتکف) آگ کو ہانڈی کے نیچے بڑھانا اور روشن کرنا۔ جلانا۔
تسخید (فتکس) اوراق کا نم پکڑ جانا اور ایک کا دوسرے پر چمٹ جانا۔
تسخیر (فتکس) مطیع اور منقاد کر لینا۔ ایک کام کی بے مزدوری تکلیف کرنی۔
تسخیل (فتکس) کسی پر عیب لگانا۔ ضعیف گننا۔ کسی کو ضعف کی نسبت لگانی۔ سست گٹھلی کا پھل لانا درخت خرما کا۔ درخت خرما کا ایسے پھل لانا ہونا کہ سخت ہوا ہو۔ درخت کا پھل لے آنا۔ یا پھل کو گرانا۔

تسخیم (فتکس) غصہ دلانا۔ کسی کا منہ کالا کرنا۔ یا ہانڈی کی سیاہی سے منہ کالا کرنا۔ پانی کو گرم کرنا۔ گوشت کا سڑ جانا۔
تسخین (فتکس) گرم کرنا۔
تسدج (فتقض) جھوٹ بولنا۔ جھوٹ تراشنا۔
تسدد (فتقض) رخنہ وغیرہ کا بند ہونا۔
تسدی (فتفک) کپڑے کو تننا۔ اونٹنی کشادہ قدم پر سوار ہونا۔ پیروی کرنی۔ ایک چیز کے تانے پر ہونا۔
تسدیۃ (فتکف) کپڑے کو تننا۔ کشادہ قدم اونٹنی پر سوار ہونا۔ پیروی کرنی۔ ایک چیز کے عدد پہ ہونا۔ احسان کرنا۔
تسدید (فتکس) راست اور درست کرنا۔ صواب و راستی کی توفیق دینی۔ نیزہ کو سیدھا کرنا اور طول میں کہنا۔ تیر کو شکار کی طرف سیدھا کرنا۔ صواب کی توفیق پانی۔ صواب ڈھونڈھنا۔ کردار اور گفتار میں بیچ کی راہ چلنی

چھوٹے بیٹون کو چرانا۔ اونٹون کا مغرب اور عشا کے بیچ مین چرنا۔

تسقّط (تفعّل) تھوڑا تھوڑا لینا۔

تسفّع (تفعّل) آگ سے گرم ہونا

تسفّل (تفعّل) پست ہوجانا نشیب مین آنا۔

تسفّر (تفعّل) [illegible] کو کچھ اور سایہ دار [illegible] کسی کو ایک چیز سے فریب دینا

تسفیہ (تفعیل) بیہودہ کام کرنا

تشفیف اللحم بھوننے کے لئے گوشت کو سیخ مین پرونا۔

تسفیر (تفعیل) سفر مین بھیجنا اونٹون کو مغرب اور عشا کے بیچ مین چرانا۔ آگ کو بھڑکانا اور شعلہ ناک کرنا۔

تسفیط (تفعیل) چرم کو مٹی سے لینا اور اسکو درست کرنا۔

تسفیع (تفعیل) آگ اور لو کا چہرہ کو جلانا۔

تسفیل (تفعیل) نیچان مین جانا

تسفیہ (تفعیل) نادان یا نادانی کی طرف منسوب کرنا

تسقّط (تفعّل) تھوڑا تھوڑا کا لینا۔ کسی کی خطا اور لغزش ہونے میں سخن چینی کرنی جھوٹ گھڑنا۔ خطا پر کسی کو برانگیختہ کرنا۔

تسقّف (تفعّل) اسقف ہونا

تسقّی (تفعّل) اونٹون کا تر خود رو گھاس کو کھانا اور اس سے موٹا ہونا۔ کسی چیز کا پانی کو قبول کرنا۔ سیراب ہونا۔

تسقیہ (تفعیل) پانی دینا۔ سقاک اللہ یا سقیا لک کہنا۔

تسقید (تفعیل) گھوڑے کو موٹا کرنے کے بعد دبلا کرنا۔

تسقیف (تفعیل) گھر پاٹنا۔ کسی کو اسقف بنانا۔

تسکاب (تفعال) پانی کا بہانا۔ پانی کا بہنا۔ جاری ہونا۔

تسکّع (تفعّل) سرگشتہ ہوجانا۔ کار باطل مین بہت دیر تک لگا رہنا۔ گوشہ مین جانا۔

تسکّف (تفعّل) دروازے کی چوکھٹ بنانا

سغل
سغم
سقط
سقف
سقی
سقد
سقف
سکب
سکع
سکف

تسخ (فتح) کسی کا ذکر برا
کرنا کسی میں داغ کرنا۔
تسع (فتح) نویں یا نویں حصے
لیکن ساتویں آٹھویں نویں۔
تسع (فتح) نویں کا ایک۔
تسع (فتح) نوان حصہ لینا
مال میں سے نوان ہو جانا۔ نو
کر دینا اس طرح پر کر آٹھ وان
ہو تیں ملا اونکو نو کر دیتے
تسع (کسر) اونٹوں کی تشنگی
یعنے پیاس کی مدت۔
تسع آیات نو نشانی جو حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھیں
(۱) عصا (۲) قحط (۳) دریا (۴) ٹڈی
(۵) جوئیں (۶) خون (۷) ید بیضا
(۸) مینڈک (۹) طوفان ایک شاعر
نے انکو نظم کیا شعر عصا سنة
بحر جراد و قمل + دم و ید بعد
الضفادع طوفان +
تسع نسوة نو عورت۔
تسعة رجال نو مرد۔
تسعب (فتح) لعاب یا پانی
وغیرہ میں سے تار کی مانند لپٹا ہونا

تسعد (فتح) سعدان گھاس کی بہتات ہونی
تسعر (فتح) آگ کا بھڑکایا جانا۔
تسعسع (فتح) زندگانی کا آخر
ہونا عمر کا پیر خرف ہونا مہینے
میں سے اکثر گذر جانا۔ دانت کا
منھ سے نکل جانا کسی کا ملک
پست ہو جانا اور اوتر جانا۔ بدحال ہو
تسعط (فتح) لونٹ کا ہونا یا
سے پرے ہونا لونٹ کا خوب موٹا ہونا
تسعیر (کسر) نرخ مقرر کرنا
آگ کا بھڑکانا۔ لڑائی کا برانگیختہ کرنا
تسعیط (کسر) ناک میں دوا وغیرہ
کو لو۔ خوشبو ناک میں ملانا۔
تسغبل (فتح) زرہ پہننی
تسغسغ (فتح) خاک میں دھنسنا
اگلے دانت ہلنے۔
تسغیم (کسر) غصہ کو دبا دینا
تسفر (فتح) سفر کو جانا۔ پوست
کا ایک چیز کے اثر کو قبول کرنا۔
تدارک کرنا۔ عورت سے روگشائی
طلب کرنی۔ کسی سے اوس چیز کا
نصف چاہنا کہ اسکے ذمہ بطور قرض
تاوان ہو۔ اور نہ سکے پڑا ہو اونکا

تسلیم رفتعس کسی کو حوالہ کرنا۔ راضی ہونا۔ بیع سلم کرنا
بے اپنے کو وہ دیکر نذر رکھنا۔ سونپ دینا۔ حکم قضا پر راضی ہونا۔ سلام کرنا۔
تسمت رفتقس نیچ کا رستہ چلنا۔ نیک خصلت ہونا۔
تسمط رفتقس ایک چیز میں آویختہ ہونا
تسمع رفتقس سننا۔ تھوڑا تھوڑا سننا۔ کسی کیطرف کان لگانے
تسمع رضفف کسیکو آواز سنانی
تسمل رفتقس بیچے ہوئے پانی کو پینا۔ نبیذ کے پینے میں اصرار کرنا۔
تسمن رفتقس موٹا ہونا۔
تسمی رفتقک نام رکھا جانا۔ قوم کیطرف منسوب ہونا۔ نام بتانا
تسمیۃ رفسکف نام رکھنا۔ ایک نام سے پکارنا۔
تسمیت رفسکس کسی چیز پر خدا کا نام رکھنا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا۔ میانہ روی کا قائم رکھنا
تسمیج رفسکس بھونڈا کر دینا۔
تسمیح رفسکس نرم چلنا۔ ثقاف سے نیزہ کو سیدھا کرنا۔ سرعت کرنی بھاگنا۔ کسی سے آشنائی کرنی
تسمید رفسکس زمین کو سماد کا کھاد دینا
تسمیر رفسکس ایک چیز کو مضبوط کرنا۔ دامن اوٹھانا۔ رہا کرنا۔ تیر کو جلد رہا کرنا۔ دودھ کو پانی سے پتلا کرنا۔ کسی کی آنکھ کو اندھا کر دینا۔
تسمیط رفسکس اپنے قرضدار کو رہا کر دینا۔ چیز کو شکار بند پر لٹکانا۔ خاموش ہونا۔
تسمیع رفسکس تشنیع کرنی۔ تشہیر کرنی۔ کسی کا ذکر مشتہر کرنا۔ کسیکو آواز سنانی۔ کسیکی گمنامی کو اوٹھانا۔
تسمیل رفسکس حوض کو کیچڑ سے پاک اور صاف کرنا۔ ڈول کا تھوڑا پانی نکالنا۔ حوض کا تھوڑا پانی والا ہونا۔ ڈول کا کنوئیں میں سے کیچڑ نکالنا۔ کلام میں کسی کے ساتھ نرمی کرنی
تسمین رفسکس موٹا کرنا۔ کھانے کو روغن سے چرب کرنا۔ خنک کرنا۔ توشہ کا گھی دینا۔
تسمیہ رفسکس اونٹوں کو اپنی خوشی پر چھوڑ دینا۔
تسنت رفتقس ذلیل کریمہ اور شریف کو مرد کا اپنی دولتمندی اور اوسکی فقیری کے سبب درخواست کرنا۔
تسنخ رفتقس ایک چیز کی تفتیش

تسمیر سے
تسمیع
تسمیط
تسمیل
تسمین
تسمیہ
تسنت
تسنخ

... رفتقف، گریہ وزاری کرنی

... رفتقف، درویش ہونا ... کے مشابہ ہونا

... رفنکس، چپ کرنا۔

تسکیر رفنکس، گلا گھونٹنا۔

تسکین رفنکس، آرام دینا۔ ہمیشہ تیر مع گرد سے پر سوار ہونا۔ نیز گھوڑے کو آگے سے سیدھا کرنا۔

تسلب رفتقف، عورت کا خاوند وغیرہ پر سوگ کا کپڑا پہننا۔

تسلج رفتقف، شراب پینے سے گرمی اور بہت پینی۔

تسلح رفتقف، ہتھیار پہننا۔

تسلخ رفتقف، پوست وغیرہ کا بیماری سے چھلجانا۔

تسلسل رفتقف، پانی کا اوپر تلے جاری ہونا۔ بیق اور کپڑے کا عرض میں ظاہر ہونا۔ کپڑے کا استعمال کے سبب پتلا ہو جانا۔

تسلط رفتقف، والی ہو کر بھیجا جانا

تسلع رفتقف، ایڑی وغیرہ کا پھٹ جانا۔ بلائی پھٹ جانی۔

تسلف رفتقف، قرض لینا۔ قیمت پہلے سے دینی۔

تسلق ۱۴ رفتقف، دیوار پر چڑھنا۔ درد یا غم کے مارے سے بے آرامی اور بے قراری

تسلل ۱۵ رفتقف، ایک چیز میں سے پوشیدہ باہر نکل آنا۔

تسلم ۱۶ رفتقف، قبول کرنا۔ اسلام لانا۔ معاملہ طے کرنا اور بیع سلم کرنا۔ ...

تسل... [illegible] بھی ... ہونا

تسلیب [illegible] کسی ... سلاب

تسلیة رفنکس، تسلی دینی۔ ... کے رحم میں سے سلا باہر نکالنا۔

تسلیح ۲۰ رفنکس، ... روغن کے مشک ملنا۔ کسی کے لئے ہتھیار کر دینا۔

تسلیس ۲۱ رفنکس، جواہر کا پرونا۔ وغیرہ تحفے کے زیور کو ترکیب دینا۔

تسلیط ۲۲ رفنکس، کسی کو والی کر کے بھیجنا۔ حکم اور قدرت کو جاری کرنا۔

تسلیع ۲۳ رفنکس، چیرنا۔

تسلیف ۲۴ رفنکس، ناشتا کرانا۔ کسی کو ناشتا دینا۔ آگے بھیجنا۔ قیمت پہلے سے دینی۔

[illegible]

ہونا - زمین میں ہلاک ہونا
تسویخ رفتسکسہ عیب لگانا
بدی کی طرف منسوب کرنا - سیاہ
پہننا - سیاہ اور سبز کپڑے پہننا
تسوید رفسکسی کی بڑائی کرنی
سردار کر دینا - ایک قوم کا سردار
کو مار ڈالنا - بیمار کے ملاقات کو
کی پیٹھ کے زخم کی [illegible]
کو ٹینا لو ہے کا لگانا -
تسوید رفسکسی کے [illegible]
لنگی ڈالنا - دیوار پر چڑھنا -
تسوید رفسکسی ایک چیز کو
کر کے پیٹ جانے - ایک کام
کو کسی کے لیے سنوار دینا اور
زینت دینا - اور اوسکا مرتکب
ہونا - کسی کے درمیان [illegible]
تسویط رفسکسی ایک چیز کو
ایک چیز میں ملانا - طوق کو
لشانا - گٹنا سے نکالنا
تسویغ رفسکسی ایک چیز کو
رکھنا - [illegible] ایک چیز [illegible]
عطا کو روا رکھنا -
تسویغ لغات السلاطین

[illegible] دیناہ [illegible] عطا
تسویف رفسکسی کا میں تاخیر
ڈالنی - کسی کو امید کا
النہا - [illegible] کو حاکم [illegible]
یلدیا - [illegible] افضل
تسویق رفسکسی کو حف کا
[illegible] کو [illegible]
[illegible] کرنا -
تسویہ رفسکسی [illegible] کرنا
تسویل رفسکسی ایک کام کو
آراستہ کرنا - کسی کو شیطان کا
[illegible] کو دینا - اور بہلا دینا -
تسویم رفسکسی کھوڑے پر نشان
اعلانیہ کی [illegible] چھوڑ دینا -
ارتقال [illegible] کو حاکم کرنا کہ جو چاہے
جائے کرے - گھوڑوں کو چرانا
[illegible] چھوڑنا - قوم پر غارت
پہنچانی - کسی کو ایک کام کی
تکلیف دینی - [illegible]
[illegible] پر چھوڑ دینا -
تسہیر رفسکسی بیدار رہنا
تسہیل رفسکسی آسان [illegible]
تسہیک رفسکسی اچھا پانیہ کا

۶۹۵
[illegible]
۱۲

علامات اعراب ضمہ فتحہ نصب جزم حرکت کسرہ سکون تشدید مد

| مادہ | | |
|---|---|---|
| سنم<br>سنن<br>سنہ<br>سنو<br>سنت<br>سنی<br>سنح<br>سند<br>سنم<br>سنن<br>سنح<br>سنو<br>سور<br>سوق<br>سوک<br>سوم<br>سوی | گرہ پڑنی۔ گرہ دینا<br>تسنّم (تفعّل) ایک چیز پر چڑھ آنا۔ اچانک کسیکو دبا لینا۔<br>تسنّن (تفعّل) متغیر ہو جانا۔ ایک رستے میں ہونا۔<br>تسنّہ (تفعّل) روٹی اور شراب وغیرہ کا گرہ باندہ لینا۔ متغیر اور خراب ہو جانا۔ خرما کے درخت وغیرہ کا سالخوردہ ہونا۔ تنگ سالی کھینچنی۔ کسی کے پاس برس تمام کر دینا۔ کسی خرما کے درخت کا سال سال پھل نہ لانا۔<br>تسنّی (تفعّل) بدلجانا اور متغیر ہو جانا۔ کام میں آسانی اور نرمی کرنی۔ جادو کرنا۔ کسی کو راضی اور خوشنود کرنا۔ اونٹ کا اونٹنی سے جفتی کرنا۔ کسی کے پاس سال تمام کرنا۔ تنگ سالی کھینچنی۔<br>تسنیت (تفعیل) ہانڈی میں ڈوئی چلانی۔<br>تسنیۃ (تفعلہ) آسان کرنا۔ گرہ وغیرہ کو کھولنا۔<br>تسنیح (تفعیل) ایک چیز کو ڈھونڈھنا۔ ایک چیز کا دعوی کرنا۔<br>تسنید (تفعیل) کسیکو چادر سفید | پہنانی۔ دیوار کے نیچے لکڑی لگانی۔<br>تسنیم (تفعیل) گھاس کا اونٹ کو بزرگ کوہان کرنا۔ پر کرنا۔ چڑھ آنا۔ خرپشتہ کرنا۔ ایک چیز کو کوہان کرنا۔ بہشت میں ایک چشمہ ہے کہ غرفوں کے اوپر جاری ہے یا ایک چشمہ ہے کہ بہشتیوں کے اوپر چڑھ آتا۔<br>تسنین (تفعیل) چھری وغیرہ کو تیز اور روشن کرنا اور صیقل کرنا۔ کلام کو آراستہ اور رنگین کرنا۔ نیزہ کو کسی کی طرف سیدھا کرنا۔<br>تسنّح (تفعّل) کیچڑ میں پڑ جانا۔<br>تسنّو (تفعّل) نکاح کرنا۔<br>تسوّر (تفعّل) دیوار پر چڑھنا۔ اپنے ہاتھ میں کنگن ڈالنا۔<br>تسوّق (تفعّل) بازار ڈھونڈھنا۔ خرید فروخت کرنا۔ خرید و فروخت میں اپنے تئین بازاری رکھنا۔<br>تسوّک (تفعّل) مسواک کرنی۔<br>تسوّم (تفعّل) [illegible] کا اختیار باندھنا۔<br>تسوّی (تفعّل) مستوی اور برابر |

جڑنا جیسے کہ [illegible]
درخت کا ایک جز [illegible] ایک دوسرے پر
[illegible] مائل ہونا۔
تشابک (تفاعل) مخلوط اور
[illegible] ہونا [illegible] ہو جانا۔
تشاجح (تفاعل) آپس میں ایک
کام پر حرص کرنی [illegible]
تشاحن (تفاعل) قوم کے
درمیان اختلاف [illegible] ہونی
تشاخص (تفاعل) دو [illegible] کا
آگے [illegible] ہونا [illegible] کا
[illegible] کرنا قوم کے
درمیان اختلاف اور خصومت
[illegible] واقع ہونا [illegible] کا
[illegible] کے وقت [illegible] کھلنا
کام کا تباہ اور پریشان ہونا
سر کا ضرب سے دو ٹکڑے ہو جانا
مائل اور کج ہونا۔
تشارس (تفاعل) آپس
میں دشمنی کرنی۔
تشارک (تفاعل) شرکت کرنی
تشازب (تفاعل) [illegible] حصہ
کے لیے انتظار کرنا

تشادق (تفاعل) [illegible] آنکھوں
[illegible] نظر کرنا
تشاغر (تفاعل) متفرق
[illegible] پریشان ہونا
تشافی (تفاعل) ایک چیز کو
سب کی سب لے لینا الغرض
میں حد [illegible] کو پہنچ جانا اسی
[illegible] اور [illegible]
تشاکس (تفاعل) ایک دوسرے
[illegible] مخالفت کی
تشاکل (تفاعل) موافقت
کرنی مشابہ ہونا۔
تشاکہ (تفاعل) آپس میں مشابہ ہونا
تشاکی (تفاعل) آپس میں [illegible] کرنا
تشاجر (تفاعل) آپس میں
ایک دوسرے کو [illegible]
نزدیک ہونا۔
تشانج (تفاعل) [illegible] اور
اکھٹا ہوا ہونا [illegible] کا [illegible] ہونا
پوست کا خشک ہونا
تشاور (تفاعل) ایک دوسرے
کو مشورہ دینا
تشاعر (تفاعل) [illegible] کرنا

[illegible]



ج

[illegible]

ساسب ... [illegible]
[illegible] رفتکس ... [illegible]
... الافصیال کرنا ... [illegible]
التشعیل ... اعلان کرنا
التشعیز ... خط ... [illegible]
اور ... چادر ... [illegible]
التشعیر ... جلد
[illegible] کسی کی ... [illegible]
التشعیط ... [illegible]
التشعیل ... تنہا اور
[illegible] ... ہونا
التشعیع ... ایک
التشعیر ... اور کسی کا [illegible]
اور ... [illegible] سے
... کا ... [illegible] مختلف
ہونا ... [illegible] اقرار کرنا
التشقیق ... [illegible]
... چھوڑ دینا -
التشمیع ... [illegible]
التشمیخ ... [illegible]
التشعیب ... [illegible]
... خط ... [illegible]
... [illegible] سے

[illegible]
کھولنا ... بیان کرنی -
... جلد ... [illegible] لگانا -
التشییع ... مٹی سے لیپنا -
... کو چربی وغیرہ سے آلودہ کرنا -
التسییل ... پانی وغیرہ کا
... بہانا -
التشبیح ... جمع ہو جائے
ہوئے ... [illegible]
التشاجر ... لڑائی ... [illegible]
... ہونا گویا
... [illegible]
ایک ... باقی ... ہے -
التشاکس ... [illegible] کا
... کا خلط ملط ہونا -
التشابه ... مانند ہونا -
التشاتم ... ایک دوسرے
کو گالی دینی -
التشاجب ... کلام کا
خلط ملط ہونا - ... [illegible]
التشاجر ... [illegible] کا
... کرنا - ایک دوسرے پر
نیزہ مارنا - تمام گھاس کو چر لینے کا

... رجب ... ہجری ۱۲

تشمیم (تفعیل) مشام کرنا

تشبہ (تفعل) مشابہ ہونا - کسی پر کام کا مشتبہ ہونا -

تشعب (تفعل) پراگندہ ہونا

تشعی (تفعل) ... مست کرنی - انگور ...

جانور سے ... کافی ہونا -

تشعث (تفعل) پراگندہ ہونا

تشعیر (تفعیل) ... کے ... کو ... کرنا -

تشغب (تفعل) غمگین ہونا -

تشمع (تفعل) ... ہنسی ...

تشعر (تفعل) یاد دلانا -

... درخت کا پیچ پیچ ہونا -

تشجیع (تفعیل) عزیمت میں ... گذر جانا - بہت سر میں چوٹ دینی

تشجیر (تفعیل) درختوں کے نقش سے منقش کرنا -

تشجیر ... خوشہ خرما کو

تشحم (تفعل) ...

... مشکل ... کرنا ...

... سنبل ...

تشحیط (تفعیل) ... ہونا

حرکت کا ... ہونا

تشحی (تفعل) زبان کو کشادہ اور فراخ کرنا -

تشحید (تفعیل) چھری وغیرہ تیز کرنا - دہار نکالنی -

تشحیط (تفعیل) خون میں تڑپانا -

تشخص (تفعل) جدا اور ممتاز ہونا

تشخیص (تفعیل) پہنچانا -

تشمیر (تفعیل) کجاوہ باندھنے کے لیے چوپایہ کی پشت پر سے کمبل وغیرہ اٹھا لینا - خوشہ خرما ...

تشاجر (تفاعل) آپس میں جھگڑنا
تشاعر (تفاعل) ...
... کرنی
تشاغل (تفاعل) ... وغیرہ
سے ایک دوسرے کی طرف
... میں ... کرنا
تشاکس (تفاعل) ...
قال یعنی ... کے ... کی طرف ہونا
تشاغب (تفاعل) قوم کا
متفرق اور پریشان ہونا ...
ہونا آپس میں عہد ہونا
تشامخ (تفاعل) اپنے تئیں
خواجہ اور بڑا دکھلانا
تشاغط (تفاعل) آپس میں
گالی گلوچ کرنی
تشایع (تفاعل) آپس میں
شریک ہونا اپنے تئیں
سے راضی ظاہر کرنا
تشبب (تفعل) غزل کہنی

... کا ... ہونا
تشتت (تفعل) ...
تشخص (تفعل) ...
... ہونا ... کا
تشجع (تفعل) اپنے تئیں ...
... کرنا زیادہ ہونا ...
تشبک (تفعل) ایک ...
آپس میں گتھا ہوا ہونا ...
... ہونا ...
تشبہ (تفعل) مشابہ ہونا
تشبیب (تفعیل) غزل کہنی
یعنی عورت کا صفت اور جمال کرنا
اور اس سے اپنا عشق کا حال بیان
کرنا ... مقصود میں شروع کرنا
تشبیح (تفعیل) بڑی عمر کا ہونا
... ایک کالبد کو ... ایک
چیز کو چوڑی کر دینا
تشبیہ (تفعیل) انسان کرنا
کسی کی تعظیم کرنی
تشییع (تفعیل) ... کا

کی تہ دور کرنا اور خشک جدا جدا کرنا
تشریح (ر فشکس) ہر خط میں
[illegible] - [illegible]
[illegible] کو [illegible] - جا بجا [illegible]
[illegible] تسمیہ اللہ [illegible]
تشریح (ر فشکس) [illegible]
[illegible] کو [illegible]
[illegible]
تشریح (ر فشکس) [illegible]
کرنا - کسی کے عیب کو [illegible]
تشریح (ر فشکس) [illegible]
[illegible] وقت [illegible]
تشریح (ر فشکس) [illegible]
کرنا - کسی چیز کو آفتاب میں [illegible]
تاکہ خشک ہو جائے
تشریح (ر فشکس) عذاب کرنا
[illegible] - گالی دینی
تشریح (ر فشکس) [illegible]
کرنا [illegible]
[illegible]
کی حاجت ہو
تشریح (ر فشکس) [illegible]
[illegible] اور [illegible]

پرندگی رکھنا - [illegible]
تشریح (ر فشکس) [illegible]
[illegible] مشرق کی طرف
[illegible]
کی نماز پڑھنی [illegible]
[illegible] کرنا
تشریح (ر فشکس) [illegible]
[illegible]
[illegible] کی قیمت [illegible]
تشریح (ر فشکس) [illegible]
[illegible]
تشریح (ر فشکس) [illegible]
[illegible] کے [illegible] میں
تشریح (ر فشکس) [illegible]
لڑائی [illegible]
تشریح (ر فشکس) [illegible]
خصومت [illegible] کسی
[illegible]
مارنا [illegible]
تشریح (ر فشکس) [illegible]
[illegible]
تشریح (ر فشکس) [illegible]
تشریح (ر فشکس) [illegible]

[illegible]

تشنج [illegible] خشک ہونا
تشدد بفتحتین ایک جگہ جمع ہونا
سختی کرنی [illegible] شدت
تشدق بفتحتین باتیں بنانا
خوش تقریری کرنی ۔
تشدخ بکسر سر توڑنا [illegible]
خرما کا [illegible] ہونا اگر شکستہ ہو جاوے
تشدید بکسر قوت دینی
بھاری کرنا خلاف تخفیف [illegible]
سے [illegible] پرہیز کرنا ۔
تشذیب بفتحتین پریشان
اور متفرق ہونا ۔
تشذر بفتحتین لڑائی کا آمادہ
ہونا ۔ دامن کو پانوں کے
درمیان میں لینا ۔ ڈرنا ۔ آمادہ
ہونا ۔ ایک کام کی طرف سرعت
کرنی ۔ [illegible] کا نظارہ کرنا [illegible]
نشاط سے سر ہلانا ۔ حرکت کرنا
تازیانہ کا کچھ ہونا ۔ قوم کا متفرق اور
پریشان ہونا ۔ لڑائی میں حد سے
[illegible] جانا ۔ [illegible] پیچھے سے جھپٹنا

[illegible] ہونا
[illegible] کا [illegible] ہونا
تشرد [illegible] گوشت [illegible]
کرنا [illegible] پوست اتارنا [illegible]
[illegible] بکسر کسی آگیا ہونا
تشرب بفتحتین سیراب کیا جانا
[illegible] کسی [illegible] کو پی لینا
تشرج بفتحتین ایک چیز کا
ایک چیز میں گڈ مڈ ہونا
تشرط بفتحتین اپنے کام میں
خوب تامل کرنا
تشرف بفتحتین بزرگ ہو جانا
بزرگ منش ہو جانا گھوڑے کی [illegible]
کا [illegible] ہو جانا ۔ کسی چیز کی طرف دیکھنا
کسی چیز کے اوپر [illegible] ہو جانا
تشرق بفتحتین دھوپ میں بیٹھنا
تشرم بفتحتین چیرا ہوا ہونا ۔
تشری بفتحتین متفرق اور
پریشان ہونا ۔ شادی ہو جانا ۔
تشریب بکسر سکھلانا کسی
کے مال میں تصرف کرنا
تشریب بالکسر بہت پیاسی [illegible] کو

تشعیل (فتح، سکون) آگ کو بھڑکانا

تشغیر (فتح، سکون) گھوڑے کا ہیجان میں چلنا

تشغیر (فتح، سکون) بدی میں حد نہایت کو پہنچنا ۔ نہایت کوشش اور طاقت سے چلنا اونٹ کا ۔ اونٹ کا بہت دوڑنا ۔

تشعب (فتح، سکون) ہیجان چاہنا

تشغیب (فتح، سکون) فتنہ اور تباہی اور بدی کو برانگیختہ کرنا ۔

تشغیہ (فتح، سکون) پیشاب کو قطرہ قطرہ ٹپکانا ۔

تشفع (فتح، سکون) شفاعت کرنی

تشفی (فتح، سکون) شفا پانی

تشفیہ (فتح، سکون) فائدہ مند ہو جانا ۔ زیادہ ہونا

تشفیر (فتح، سکون) مال کا کم اور قلیل ہونا اور جاتا رہنا ۔ سورج کا غروب کے قریب ہونا ۔ اطلاع پانا آگاہ ہونا ۔ عورت سے کنایۃً فرج بلا جماع کرنا ۔

تشفیع (فتح، سکون) کسی کی عرض کسی کی شفاعت قبول کرنی ۔

تشفیف (فتح، سکون) فائدہ مند ہونا ۔ زیادہ ہو جانا ۔

تشقیق (فتح، سکون) ٹکڑے ٹکڑے کرنا ۔ کپڑے کی گرہیں ہٹا کر ٹکڑے ٹکڑے کرنا ۔

تشقق (فتح، سکون) ہیضوم کا نکلنا ۔ بیوی کا حمل ظاہر ہونا ۔

تشقیح (فتح، سکون) خرما کا رنگ لے آنا اور سرخ ہو جانا ۔

تشقیص (فتح، سکون) ذبح کی گئی بکری کے اعضا کو جدا کر کے شرکا کے درمیان میں برابر حصے کرنے کے لئے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ۔

تشقیق (فتح، سکون) خشک لکڑی کو چیرنا ۔ کلام کو اچھی روش سے بیان کرنا ۔

تشقیہ (فتح، سکون) غوزہ خرما کا رنگ لے آنا ۔

تشکس (فتح، سکون) بد خلقی کرنی

تشکک (فتح، سکون) گمان کرنا

تشکل (فتح، سکون) صورت پکڑنی ۔ انگور کا پک آنا ۔

تشکی (فتح، سکون) گلہ کرنا ۔ عورت کا پوست کو مشکیزہ بنا دینا تاکہ اس میں

تشیّع ... تشبیہ ...

[illegible]

میں قصہ ... یا مذہبی ...
تشیّع (ف) ... مذہبی ...
... [illegible] ...
تشطیب (تفعیل) ...
کو ... قطع کرنا ـ
تشطیر (تفعیل) ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
تشطیر (تفعیل) ...
... [illegible] ...
... نصف کرنا اور کسی
کسی ... پستان کو باندھنا اور
باقی کو چھوڑ دینا ـ
تشطط (تفعل) ...
... گذر جانا ـ
تشظی (تفعل) لکڑی کے
ایک ... کا ... جانا ـ
... وغیرہ کا ...
... [illegible] ...
... کا ... ـ
تشظیہ (تفعیل) پراگندہ کرنا

تشظیظ (تفعیل) قوم کو متفرق
اور پریشان کرنا ـ
تشعب (تفعل) پراگندہ ہونا
راہ اور درخت کا شاخ شاخ
ہونا ... [illegible] ...
... [illegible] ... ہونا ـ
تشعث (تفعل) پراگندہ اور
پریشان ہونا ... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... ـ
تشعّر (تفعل) ... کا پیٹ
میں بال نکال لانا ... ہونا
تشعشع (تفعل) مہینے
میں سے تھوڑا رہ جانا ـ
تشعّل (تفعل) آگ کا بھڑکنا ـ
تشعیب (تفعیل) جدا اور
متفرق کرنا ـ ... پیالہ کو
جوڑنا ... اضداد سے ہے ـ
تشعیث (تفعیل) ... دور کرنا
دفع کرنا ـ پریشان کرنا کسی
کو ... [illegible] ...
تشعیر (تفعیل) بچہ کا پیٹ میں بال
نکال لانا ... [illegible] ...

آفتاب میں جلانا۔ آفتاب میں
پھیلانا۔ آفتاب کو دکھانا۔
تشمیس (ف) مص ... یہ ... کی
سے ... بچانا ...
سے ... کرنا کو ... ط
تشمیع (ف) ... مص ... پانی ... لگا
کرنا ... کی کرانی ... سے
موم میں ... کو ... دینا۔
تشمیل (ف) مص ... سے
... پانی ... چادر والا ... 
تشہیر (ف) مص ... سے ... گنا
تشنیع (ف) مص ... بھت ... کرنا
تحریک (ف) مص ... ہنسی ...
وغیرہ کا ... کرنا۔ ...
... دیا ... ہونا ... لینا
گھوڑے پر سوار ہونا ... 
پینا ... بارات کو ... کرنا۔
... کا ... چھپا ...
تشنیف (ف) مص ... کان میں بالا ڈالنا
تشنیج (ف) مص ... کا ... ہوا
اور سمٹا ہوا ہونا۔ ... سے ... ٹانا
ہونا ... پانی ... سے ... ہونا
سے ... کا ... ہونا۔

تشبیک (ف) مص ... کا ... کرلینا
تشجیع (ف) مص ... یعنی تشنیع
... مص ... کی
تشنیع (ف) مص ... کو
... کا ... کرنا
تشخیص (ف) مص ... کا ...
بیان کرنا ... کے ... کو
... اور ... کرنا
تشطیر (ف) مص ... بھونا
تشریح (ف) مص ... شعر ...
... کی ... کا ... 
... کرنا ... کرنا ...
... کا ... کرنا۔
... کا ... کرنا۔
تشفیع (ف) مص ... سے
... میں ... ڈالنا
تشویق (ف) مص ... شوق دلانا
... کو ... سے ... میں لانا
... کرنا ... کو ... 
تشہود (ف) مص ... کا ... ہونا
تشہیر (ف) مص ... مشہور ہونا
تشویش (ف) مص ... کام کا
پریشان ہونا۔

| | |
|---|---|
| | وہی ہو وے |
| | تشکف رفشکف عورتوں کا |
| | پوشیدہ ہونا [illegible] کر اس |
| | میں بھی ہو [illegible] کے |
| | دل کو خوشنود کرنا |
| | تشکیک رفتکس [illegible] |
| | تشکیک [illegible] سیاہ سادی کی |
| | تشکک [illegible] کسی کو |
| | شک میں ڈالنا |
| | تشکیل [illegible] صورت بنانی |
| | عورت کا اپنے سر کے |
| | بالوں کو دو چوٹی کر کے گوندھنا |
| | بائیں [illegible] کام کا مشتبہ [illegible] |
| | ہونا۔ آنکھ کا پک آنا۔ چوپایہ |
| | کے پاؤں کو رسے سے باندھنا |
| | تشلشل رفتعل [illegible] کا |
| | خون کو ٹپکانا۔ پیشاب کو بہانا |
| | تشلیح [illegible] ننگا کرنا۔ |
| | تشمت [illegible] خائب |
| | امید خاسر پھرنا۔ |
| | تشمر [illegible] چلنے میں [illegible] |
| | اور اس میں سرعت کرنی۔ |
| | ایک چیز کو اکٹھا کرنا [illegible] کو |

اور اٹھانا [illegible] کام میں سبکی
اور پھرتی کرنی۔ کشتی کو روانہ
کرنا۔ ایک کام کا قصد کرنا
تشمخر [illegible] چہرہ کا رنگ بدل جانا
تشمس [illegible] آفتاب
میں بیٹھنا [illegible]
تشمص [illegible] گھبرانا [illegible]
تشمعل [illegible] متفرق ہونا
تشمی [illegible] ستارہ مانند ہونا
غیر ستارہ [illegible] نکلنا
تشمل [illegible] مشتمل [illegible] چادر
میں [illegible] ہونا
تشمم [illegible] سونگھنا
تشمیت [illegible] چھینک کی
دعا کہنی [illegible] خائب کرنا کسی
کو جمع کرنا
تشمر [illegible] چلنے میں ٹھکنا
چلنے میں کوشش اور سرعت
کرنی۔ ایک چیز کو اکٹھا کرنا۔ کپڑے
کو اوپر اٹھانا [illegible] کام میں سبکی
اور شتابی کرنی۔ ایک چیز کو
اکٹھا کرنا۔ ایک کام کا قصد کرنا
تشمیر [illegible] کسی چیز کو

خوب بکانا۔ چاندی کا ٹھاس و جلد ... گھوڑے کا بکواس تا ... تھکنا ... تشویق (فتحہ کسرہ) کسی کو آرزو مندی میں لانا۔

تشویک (فتحہ کسرہ) کھیت کا پراگندہ ہونا قبل اوس کے پراگندہ ہو ... کانٹا نکال لانا۔ درخت کا خارناک ہونا۔ سر دیوار پر کانٹا رکھنا۔ اونٹ کا دندان نیش نکل آنا۔ لڑکی کی چھاتیان نکل آنی لڑکے کی مونچھ کا سخت ہونا۔ مونڈ کے بعد بال نکل آنے۔ چوزہ وغیرہ کا سخ پر ہونا یعنی گھر سے ہوئے بالوں والا ہونا۔

تشویل (فتحہ کسرہ) اونٹنی کا جماع کے وقت سست اور لٹکا ہوا ہونا۔ پانی یا دودھ کا کم ہونا۔ اونٹنی کا دودھ خشک ہونا اور اوسکا شکم لاغر ہونا۔ اونٹ کا پیٹ پیٹھ سے لگ جانا۔ توشہ دان کا پانی کم ہو جانا۔ توشہ دان میں تھوڑا پانی چھوڑنا۔ ڈول کا پانی کم ہونا۔

تشویش (فتحہ کسرہ) جدا اور ...

تفرقہ کرنا متفرق کردینا۔

تشویہ (فتحہ کسرہ) چہرہ کو بدصورت کردینا کسی کو نظر بد لگانی۔

تشہاق گدھے کی آواز۔

تشہب (فتحہ ضمہ) کام کا درہم برہم ہونا۔ شریر ہونا۔

تشہد (فتحہ ضمہ) اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا نماز میں اس کلمہ کو پڑھنا۔

تشہل بمعنی ابو جہم آ ... جاتی ...

تشہی (فتحہ کسرہ) کسی چیز کی خواہش کرنی اور اوسکا آرزو مند ہونا۔ خواہش کے بعد خواہش کرنی۔

تشہیب (فتحہ کسرہ) گرمی کا کسی کو جلا دینا اور اوسکا رنگ بدل دینا۔

تشہیہ (فتحہ کسرہ) کسی کو ایک چیز کی خواہش پر برانگیختہ کرنا۔

تشہید (فتحہ کسرہ) مرد کا مذی سے آنا۔

تشہیر (فتحہ کسرہ) آشکار کرنا تلوار کو میان سے سونتنا اور لوگو پر ...

تشیخ (فتحہ ضمہ) خواجہ اور بڈھا ہونا۔

تشیخ (فتحہ ضمہ) خوشبو ملنی یوست ...

تشیط (فتحہ ضمہ) جلا ہوا ہونا بہت جلنے کے سبب جلا ہو جانا۔

تشطر (تفعل) گھوڑے کو
جیب لگانا۔ دوڑانا۔
تشجن (تفعل) لڑکی کا سنے
تشطن (تفعل) آراستہ کرنا۔ ایک چیز سے
چڑھ جانا کہ اوسے دیکھ سکیں۔
چیز کا ظاہر کرنا۔ ایک چیز کو
سیدھا کر کے دیکھنا۔
تشوق (تفعل) بہ تکلف
شوق کو ظاہر کرنا۔ آرزو کرنی۔
تشکم (تفعل) اپنے تئیں
شاعر کی طرف منسوب کرنا۔ بلکہ
طرف لینا کسی کے آئین کا اظہار
کی طرف ہونا۔ کسی چیز سے
بری فال لینی۔
تشون (تفعل) عقل اور
پاسے کی سبکی۔
تشوہ (تفعل) بکری کو شکار
کرنا۔ کسی کے لئے اپنے تئیں
بے جان کر دینا۔
تشویب (تفعیل) نرم ہو کر
دفع کرنا۔ دور کرنا۔
تشویہ (تفعیل) کسی کو زشت
دینا تا کہ تجھ سے کسی سے

پوست کا سر میں جا لگنا۔ کسی کو
سمجھا ہوا گوشت کھلانا۔
تشویح (تفعیل) نہ پہچاننا۔
انکار کرنا۔ مکر جانا۔
تشویذ (تفعیل) آفتاب کا چڑھنا
بلند ہونا۔ اونچا ہونا۔
تشویز (تفعیل) آفتاب کا مائل
بہ غروب ہونا۔ سر کا اچھا کر کے گھیر لینا
کسی کے سر پر عمامہ باندھنا۔
تشویر (تفعیل) گھوڑے کو
ریاضت دینی۔ یا گھوڑے کو پھیرانا
اور سیدھا ہونا کہ اس کی خوبی
اور نجابت اور چال معلوم کر لیں۔
کسی کے ساتھ ایسا کام کرنا کہ
اوسکے باعث شرم ہو۔ ایک چیز
کی طرف اشارت کرنی۔ آگ کو بلند
کرنا۔ سر کو ننگا کرنا۔
تشویش (تفعیل) کام کا کسی کو
شوریدہ اور پریشان کر دینا۔
تشویص (تفعیل) مسواک
سے دانت ملنے۔
تشویط (تفعیل) سفر کا طے کرنا
ہانڈی کو جوش دینا۔ گوشت کو

علامات اعراب ضمہ فتحہ کسرہ ـــ جزم سکون ـــ تشدید

ایک چیز میں داخل ہونا ۔
تشیّن رفتکس آسین لگنا ۔
تصابی رفتسک فریب دینا
مرد کا عورت کو اور اوسکو مفتون
کر لینا ۔ لڑکپن اور لہو لعب کی
طرف میلان کرنا ۔
تصافت رفتست آپس میں لڑائی کرنی
تصاخب رفسص آپس میں
فریاد کرنی ایک دوسرے کو مارنا ۔
تصادق رفسص آپس میں
دوستی کرنی ۔ ایک دوسرے سے
دوستی اور عشق میں راست ہونا ۔
تصادم رفسص اوپر سے
مارنا ۔ آپس میں کوٹنا ۔ مقابلہ کرنی
تصارخ رفسص آپس میں چیخ
اور فریاد کرنی ۔
تصارم رفسص آپس میں قطع کرنا ۔
تصاعد رفسص کسی سے
ڈرنا اور اوسکا نابود ہو جانا ۔
تصاعد رفسص دشوار ہونا
تصاغر رفسص اپنے تئیں
چھوٹا دکھانا ۔ خوار و حقیر ہونا
تصافٹ رفسست آپس میں ہاتھ

ا دینا آپس میں مقطع ہو جانا ۔
تصافح رفسص آپس میں ہاتھ ملانا
تصافق رفسص آپس میں
بیع اور بیعت میں ہاتھ مارنا ۔
تصافن رفسص پانی کو حصہ کرنا
تصالح رفسص آپس میں آشتی کرنا
تصالح رفسص آپس میں صلح کرنی
تصامخ رفسص اپنے تئیں بہرا کرنا
تصامم رفسص اپنے
تئیں بہرا ظاہر کرنا ۔
تصاول رفسص ایک دوسرے
پر حملہ کرنا اور کودنا ۔
تصاوح رفسص چوزہ کا آواز کرنا
تصاویر رفتکس لکڑی
مٹی وغیرہ کی صورتیں بنائی ہوئیں
جمع تصویر رفتکس کی
تصایح رفسص ایک دوسرے
کو آواز دینی ۔ ملاپ سے
تصبب رفسص ریختہ ہونا
اوپر سے نشیب کی طرف پانی کا
تصبح رفسص صبح کے وقت
آنا ۔ صبح کے وقت ناشتا کرنا
تصبر رفسص اپنے تئیں

ماده

تشعشع (فتحتین) روشن ہونا۔
[illegible] اور پریشان ہونا۔
تشطیر (فتحتین) کسی پر کلام
میں عیب نکالنا کسی
تشیع (فتحتین) شیعت کا دعویٰ
کرنا۔ اپنے تئیں شیعی ظاہر کرنا۔
تشیع (فتحتین) کسی کی شیعت
اختیار کرنا اور روشن ہونا آگ کی
بلند ہونا۔ کسی کو [illegible]
کر لینا۔ ایک چیز میں داخل ہونا۔
تشفی (فتحتین) کسی کا غصہ ٹھنڈا ہونا
تشبیب (فتحتین) [illegible]
کر دینا غم کا۔ کسی کو [illegible]
تشبیہ (فتحتین) کسی کو ایک
کام پر برانگیختہ کرنا۔ کسی کے
حصہ کو [illegible] خدا تعالیٰ کا
تشخیص (فتحتین) [illegible] ڈرانا [illegible]
کو نظر [illegible] سے دیکھنا۔
تشیخ (فتحتین) خواجہ اور بڑا
ہونا۔ کسی کو خواجہ اور بزرگ کہنا
بزرگی کے سبب۔ عیب کرنا
رسوا کرنا۔ لغات [illegible]
تشیید (فتحتین) کسی چیز کو

[illegible] ایک چیز کو [illegible] کرنا۔
تشطیط (فتحتین) [illegible] خطوط [illegible] اور
[illegible] خطوں کی [illegible]
تشنیص (فتحتین) کسی کو
رنج اور اذیت دینی
تشییط (فتحتین) جلنا [illegible]
کسی کا سر جلانا اور [illegible] کسی کو
آگ پر [illegible] جلانا
ایک چیز کو جلانا۔
تشعیع (فتحتین) آگ کو پریشان
کرنا۔ [illegible] کسی کے
ساتھ [illegible]
[illegible]
رکھنے۔ کسی چیز کو [illegible] میں جلانا
آگ کو خشک لکڑی سے بھڑکانا
کسی کو شعلہ [illegible] کسی کو
آگ [illegible] چیز [illegible]
[illegible] کو [illegible] نکالنا
تشعیف (فتحتین) [illegible]
تشمیر (فتحتین) کسی [illegible]
[illegible]
ہاتھ کو کسی کے سر [illegible]
[illegible] میں [illegible] ڈالنا

پریشان ہونا۔ زمین میں بچھانا
ہاتھ ہونا ایک جھگڑا
تصدیف (فتحتین) بھیج لینا۔
تصدیق (فتحتین) تصدیق کرنا۔
تصدیر (فتحتین) شروع ہونا۔
تصدی (فتحتین) تعرض کرنا۔
تصدیع (فتحتین) الجھنا جھگڑنا
تصدیر (فتحتین) الجھ پڑنا
ہاتھ پاؤں ... نالی بچھانا
تصدیر (فتحتین) ... عرض
نامہ لکھنا۔ لوگوں کے ... نقد
لانا ... اپنے سرکو
ظاہر کرنا اور ... کے
کسادی بچھونا بچھونے کا
دو ... میں کمی اور بچھونے سے
آگے بچھانا کسکو صدر میں بٹھانا
تصدیع (فتحتین) جدا جدا
کرنا کسی کو درد سر دینا۔
سرکا درد مند ہونا۔
تصدیع (فتحتین) اونٹ کی
کھنچی پیرو کی ... ان کھینا
تصدیق (فتحتین) کسی کو
راست گو کہنا ... تب

کسی کا دورا دورا اور اوسکا التفات
کرنا جب کہ اوس پر حملہ کریں۔
... لیے
تصرخ (فتحتین) ... میں تکلف کرنا
تصرف (فتحتین) ایک کام میں
ہاتھ ڈالنا۔ پھر جانا۔
تصرم (فتحتین) ... کرنی
کام میں خوب رہا ہونا ... ہو
ہو جانا۔ کٹ جانا۔
تصریب (فتحتین) ... گوند
کھانا۔ کھٹا دودھ پینا۔
تصرید (فتحتین) بکری وغیرہ کا
تھن ... کہ دودھ پینا جمع ہو جائے
تصریح (فتحتین) ... سے لینا
تصریح (فتحتین) ظاہر اور
آشکارا کرنا۔ خوب ظاہر اور آشکارا
ہونا۔ تیر اندازی خطا کرنا اور اوسکا
تیر نشانے پر نہ لگنا۔ کشادہ اور
روشن کہنا خلاف تعریض۔ کام
کو ظاہر کرنا
تصرید (فتحتین) کام کا ظاہر ہونا
شراب کے بچھانا جانے رہنا
اور اوسکا روشن اور پاکیزہ ہونا

[illegible] کرنا —
تصحیف (فتح ض) [illegible]
[illegible] اور بات [illegible]
[illegible] کی خدمت — خلاف
[illegible] سمجھ کی [illegible]
تصحیح (فتح ص) [illegible] میں [illegible]
تصحیک (فتح ک) [illegible] کی
طرف [illegible] کرنا — مرد کا عہد [illegible]
[illegible] لینا [illegible] الدینا —
تصغیر (فتح س) کسی کو [illegible]
[illegible] کا کہنا — کسی کے پاس [illegible]
[illegible] وقت آنا — صبح کی [illegible]
[illegible] قوم کو [illegible] کرنا [illegible]
کا [illegible] ہماری کتابی
تصغیر (فتح س) کسی کو صبر دینا
کسی سے صبر چاہنا
[illegible] (فتح س) آدمی کا [illegible]
[illegible] کو ڈال دینا — [illegible]
کا عمدہ ہونے لگنا اور [illegible] سے
رنگ بدلنے لگنا — کپڑے کو
[illegible] رنگ —
[illegible] (فتح ض) ایک جگہ میں
[illegible] ہونا یا [illegible]

[illegible] کا آنا جانا اور جانا —
تصحیح (فتح ض) [illegible] دور [illegible]
[illegible] (فتح س) [illegible] کسی چیز کو قائم
کرنا — [illegible] کرنا
[illegible] (فتح س) [illegible] جواز [illegible]
کر دینا اور [illegible] لینا —
[illegible] (فتح ض) [illegible] کرنی
[illegible] (فتح ض) [illegible] کہنی
[illegible] ناک ہونا —
[illegible] (فتح ض) [illegible] غلط دینا
[illegible] (فتح ض) ایک چیز کو چاہنا —
[illegible] (فتح س) [illegible] درست کرنا —
ایک چیز کو درست [illegible]
[illegible] (فتح س) [illegible] لکھے
[illegible] چوک [illegible] غلطی کرنی —
[illegible] (فتح س) دوسرے کو
قربانی [illegible] کرنا اور [illegible] لینا
تصدیر (فتح ض) [illegible] ہونا —
تصدیر (فتح ض) سینہ کو مجلس میں
سینہ اکڑانا — مجلس کے صدر کی
جگہ میں بیٹھنا — گھوڑے کا دوڑ
میں گھوڑوں سے آگے نکل جانا —
[illegible] (فتح ض) متفرق اور

[illegible]

تصفیح (ف ع س) [illegible]
[illegible] اور [illegible]
[illegible]
تصفیق (ف ع س) [illegible]
[illegible]
[illegible]
تصفیف (ف ک س) [illegible]
[illegible]
کرنا [illegible]
[illegible]
[illegible] اور [illegible]
تصفیق (ف ک س) [illegible]
[illegible] کرنا
کرنا۔ [illegible]
تصفیف (ف ک س) صف میں
کھڑا ہونا۔ صف میں کھڑا کرنا۔
تصفیق (ف ک س) پھیر دینا
شراب کو یا شراب مخلوط کو ایک
برتن سے دوسرے برتن میں
کرنا تا کہ صاف ہو جاوے۔ ہاتھ
پر ہاتھ مارنا۔ چوپایہ کو ایک چراگاہ
سے دوسری چراگاہ میں لیجانا
۔ جانا۔ ایک چیز کے گرد پھیرنا

تصفیف (ف ع س) [illegible]
[illegible]
تصقیر (ف ع س) [illegible] کرنا
[illegible]
[illegible]
تصفیر (ف ک س) [illegible]
[illegible]
تصفیع [illegible]
[illegible]
[illegible]
تصلیب (ف ع س) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] میں [illegible]
[illegible]
تصلیع (ف ع س) [illegible]
تصلف (ف ع س) [illegible]
لاف زنی کرنی۔ سلوت کا
تیرین چارہ سے طول ہونا اور
سنورہ گھاس کی طرف میلان
۔ قوم کا سخت زمین میں جا پڑنا
تصلق (ف ع س) ہر درد کے
سبب عورت کا فریاد کرنا۔ شفقت
اور اندوہ کے سبب چوپایہ وغیرہ
کا خاک میں لوٹنا۔ پانی میں آہستہ
و رفتت کرنی۔

[illegible]



ع

[illegible]

[illegible] دینا

تصحیف [illegible] لفظ کا [illegible]

[illegible] کرنا

تصریح [illegible] صاف بیان کرنا [illegible]

[illegible] اور [illegible]

تصرف [illegible] کا اثر میں

لانا [illegible] قبضہ

وضع کرنا بعد [illegible] اور اشیا کے

تصرف [illegible] کرنا [illegible]

تصدیق [illegible] کلام کو [illegible] سچا

ماننا [illegible] ایک طرف سے

دوسری طرف پھیرنا [illegible] کا

پھیر دینا۔ خالص شراب پینی

تصمیم [illegible] ارادہ [illegible] کا

[illegible] کا نا [illegible] کہ وہ [illegible]

اور خشک ہو جاوے [illegible]

[illegible] کرنا [illegible] سے [illegible]

[illegible] لینا [illegible] کا

تصفیق [illegible] تالی [illegible]

[illegible] ہو جانا

تصعید [illegible] شور کرنا

تصعید [illegible] ایک امر کا [illegible] شور

آواز [illegible]

تصغیر [illegible] چہرہ [illegible] کرنا

یا رخسارہ کا [illegible] کرنا

تصفیح [illegible] ہر [illegible]

[illegible] اور [illegible] ہو جانا [illegible]

اور [illegible] ہونا [illegible] کی

[illegible] ہو جانا

تصفیر [illegible] زرد [illegible] ہونا

تصلب [illegible] سخت اور [illegible]

اور [illegible] ہونا [illegible] کو

تصنع [illegible] عمدہ [illegible]

تصویب [illegible] درست کرنا

تصمید [illegible] ارادہ [illegible]

[illegible] اور [illegible] ایک چیز [illegible]

تصعیر [illegible] رخسارہ کو

غرور سے [illegible] کرنا

تصغیر [illegible] چھوٹا کرنا

اسم کو [illegible] وزن پر لانا

تصفف [illegible] صف [illegible] ہونا

تصلید [illegible] کا [illegible]

اور [illegible] ہونا

کند جانا - یا تلوار کا بہو مدون پر
بیٹھنا اور قطع کرنا - عود کا گھوڑ
کو گھاس میں بٹھانا اور گرد دینا - پس اوس کا
بیٹھ جانا اور بیٹھا ہو جانا - کسی
کو بات یاد دلانی -
تصدّل (تفعّل) عورتوں
کا تبرّج کرنی اور عشقبازی کرنی
تصنّع (تفعّل) اپنی طرف سے
اچھی روش رکھنی - اپنے تئین
آراستہ کرنا - بہ تکلف نیک خصلتی کرنی
تصنّف (تفعّل) ہو کچھ جانا
گھاس اور درخت کا پتے
نکالنے کے لیے آمادہ ہونا
تصنّی (تفعّل) ... اختیار کرنا
تصنیح (تفعیل) زمین پر
پچھاڑ دینا - دے مارنا -
تصنیع (تفعیل) لڑکی کا خوب
تربیت پانا یہاں تک کہ موٹی ہو جاوے
تصنیف (تفعیل) ایک چیز
کو قسم قسم کرنا - ایک چیز میں سے
بعض کو بعض سے جدا کرنا - اور
تمیز دینی - اور اسی سے ہے
تصنیف الکتاب - درخت کا
پتے نکال لانا -
تصنیم (تفعیل) تصویر کرنی
نقش بنانا - ہونٹوں ... میں
... ایک بار رہنا -
تصوّب (تفعّل) اوپر سے
نشیب میں آنا ... کا ...
تصوّح (تفعّل) بالوں کی
پیشانی پراگندگی - ساگ کا سر
کی طرف سے خشک ہونا
تصوّر (تفعّل) صورت پہچانی
کر لینا - اپنے میں ایک چیز کی
صورت بنانی اور صورت باندھنی
گرنے کے قریب ہونا -
تصوّع (تفعّل) گھاس کا خشک
ہونا - بالوں کا پراگندہ اور پریشان
ہونا - ... کا متفرق ہونا
تصوّف (تفعّل) صوفی ہونا
تصوّک (تفعّل) آلودہ ہونا
تصویب (تفعیل) کسی کا ...
... کسی کی بات کو درست گننا
سر کو پست رکھنا - ... کر
... کر دینا تا کہ بہت تیز چلے
تصویت (تفعیل) آواز کرنی

[illegible]

تصلی (ش ک) آگ کی گرمی
کو سہنا۔ انگشت کا ... [illegible]
آگ پر سیدھا کرنا۔
تصلیب (ش ک س) سخت اور
مضبوط ہونا۔ سخت اور مضبوط
کرنا۔ چمڑی وغیرہ کا خشک ہونا۔
صلیب بنانا۔ چلیپا بنانا اسی طرح
... [illegible] ... لکڑی سے یعنی
کپڑے کو چلیپا سے نقش سے
منقش کرنا۔ محمد و حسن کی ... [illegible]
اور ... کی بیاض۔
تصلیۃ (ش ک ع) انگشت کا ... [illegible]
کو ... [illegible] ... لانا
جیسے صلی الظہر ... نماز پڑھی
... پڑھی۔
تصلیۃ (ش ک ع) آگ میں ڈالنا
آگ میں گرم کرنا۔ عصا اور
لکڑی کو آگ سے سیدھا کرنا۔
تصلیح (ش ک س) ایک چیز
کو نیک اور اچھا کرنا۔
تصلید (ش ک س) بخیل ہونا
تصلیط (ش ک س) بعینہ تسلیط
تصلیع (ش ک س) ... [illegible] ... لانا

... [illegible] ... ہونا اور سر کے بال کا گرنا
... [illegible] ... زمین پر
پھیلا کر ... [illegible] ... سخت
کر ... [illegible] ... کرنا
تصلیک (ش ک س) اونٹنی کی
پستان پر ... [illegible] ... دینا۔
تصلیل (ش ک س) ... [illegible] ... آواز کرنا
تصلیم (ش ک س) ناک کا ... جڑ
سے ... [illegible] ... کاٹنا
تصمع (ش ک س) کان کا ... [illegible] ... ہونا
تصمیت (ش ک ع) خاموش رہنا
خاموش کرنا۔
تصمیر (ش ک س) عمل کرنا منع کرنا
وقت غروب آفتاب میں آنا۔
تصمیم (ش ک س) اپنی عزیمت
اصرار اور ... [illegible] ... کرنا۔ ... [illegible]
نکالنا اور ... [illegible] ... کرنا۔
تصمیغ (ش ک س) کسی چیز
میں گوند داخل کرنا۔
تصمیم (ش ک س) اپنے کام اور
عزیمت میں گذر جانا۔ ... [illegible] ... اور
ایک چیز میں ... [illegible] ...
... [illegible] ...

موسم میں ایک چیز کا کھانا چکھنا
تضاجر (تفعل) جلنے میں
تگلین اور غلول کرنا۔
تضاجع (تفعل) آپس میں
گور میں پہلو سے ساتھ سونا
تضاحم (تفعل) اختلاف کرنا
تضاحک (تفعل) ہنسنا
آپس میں ہنسنا ... کرنا
تضارب (تفعل) آپس میں
خصومت اور جنگ کرنی۔
تضالع (تفعل) ... ہونا
تضامن (تفعل) آپس میں
کفیل ہونا۔
تضاعف (تفعل) دو چند
ہونا۔ دو چند کرنا۔
تضاغط (تفعل) جمع ہونا
سانس ... کرنی ...
ایک دوسرے کو کھینچنا۔
تضاغن (تفعل) آپس
میں کینہ رکھنا۔ آپس میں کینہ چھپانا
تضاف (تفعل) ...
کسی ... یا پانی وغیرہ پر ...
ہونے کے وقت جمع ہونا۔

تضافر (تفعل) آپس میں مدد
کرنی۔ کام میں مدد کرنی ...
تضافط (تفعل) ...
تضافن (تفعل) آپس
میں ایک دوسرے کی مدد کرنی
تضام (تفعل) اکٹھا ہونا
ایک چیز کی طرف کھینچ جانا۔
اور جمع ہونا۔
تضامن (تفعل) ... اور
... ہونا ...
میں اپنے بدن ... اکٹھا اور
... کرنا۔
تضایف (تفعل) ندی کے
دو طرف سے ... ہونا اور ندی
کا تنگ ہونا۔ کشتیوں کا ... پر
دو طرف سے آنا۔
تضایق (تفعل) تنگ ہونا
اور بولتے ہیں تضایق القوم
جب کہ ایک ... نہ سما سکیں
تضبب (تفعل) خوب ہونا
... جانے ...
تضبط (تفعل) کسی کو قہر اور
قید کے ساتھ پکڑنا۔ ...

[illegible]

[illegible] خشک ہونا
[illegible] کا دور [illegible]
[illegible] الٹی [illegible]
[illegible]
[illegible] کا [illegible]
[illegible]
[illegible] ہوا کا [illegible]
[illegible] کر دینا [illegible]
[illegible] اطراف و جوانب
[illegible] گرنا [illegible]
[illegible] پیدا ہونا اور اوسکے
[illegible] مختلف چلنا ۔ عورت کا
[illegible] کو [illegible]
[illegible] کرنا ۔
تصحیل [illegible] پانی سے
[illegible] کرکے نکالنا
[illegible] اطراف [illegible]
[illegible] ایک چیز کو ایک چیز میں ملانا
[illegible] کا [illegible]

تصحیح [illegible]
[illegible]
[illegible]
تصحیف [illegible]
تصحیر [illegible] مشابہ ہونا
تصحیط [illegible] پانا [illegible]
تصحیع [illegible]
[illegible]
تصحیق [illegible]
تصحیر [illegible]
[illegible]
تصحیر [illegible]
ترک کرنا [illegible] عورت
خرما کا [illegible] سے [illegible] ۔
تصحیف [illegible] تصحیر [illegible]
تصحیح [illegible] کو
آفتاب کا خشک کر دینا
تصحیر [illegible] کرنا
تصحیص [illegible] خرما [illegible]
[illegible] لانا ۔
تصحیح [illegible] کتاب کے
[illegible] پڑھنا [illegible]
تصحیف [illegible] کے

تا صیر تا صیص [illegible] صیغ الی صیف ۱۲

تصیر [illegible] (تفعیل) نقصان پانا -
تصرع (تفعیل) خوف سے تحریک
کے [illegible] اور [illegible]
کرنا یا [illegible] نجاست یا پلیدی
سیاہ کا پھرنا [illegible] پڑنا
تصغیر (تفعیل) شیر کی [illegible]
شیر ہو جانا یعنی دلیر
تصفیط (تفعیل) کسی کی
پیٹھ پر بیٹھنا اور دونوں پاؤں
[illegible]
اس کی گردن پر رکھنا -
تضرم (تفعیل) آگ کا بھڑ
کنا [illegible] کرنا
تضریب (تفعیل) [illegible]
کے آگے آنا حمل کے بعد
[illegible] دودھ [illegible] دینا -
[illegible] میں آنکھ [illegible] جانا
ایک چیز کو ایک چیز میں ملانا -
[illegible] کرنا [illegible] کرتی
[illegible] میں [illegible] آتا
تصفف (تفعیل) کسی کو
ایک چیز کی طرف [illegible]
کرنا اور حریص [illegible]

تصیر [illegible] کا گون [illegible]
[illegible] کنارے [illegible]
تضلیع (تفعیل) [illegible]
[illegible]
کو گوشت میں خوب [illegible] کرنا
کو زینت دینی [illegible] رنگنا
کپڑے کو [illegible]
[illegible]
تضمین (تفعیل) مجرب [illegible]
آزمودہ کرنا محکم اور مضبوط کرنا
کسی کو لڑائی کا -
تضطیط (تفعیل) منہ سے
کوئی آواز نکالنی [illegible] سے
کسی سے مسخرا پن کرنا کسی
[illegible] کو [illegible] -
تضریع (تفعیل) آفتاب کا
غروب کرنا یا غروب [illegible]
پہنچنا آفتاب کا سبزہ کو خوب
[illegible] نکالنا [illegible] کا
[illegible] کا وقت آ پہنچنا -
[illegible] قریب ہونا -
تضرم (تفعیل) آگ کو بھڑکوانا
تضغضغ (تفعیل) عاجزی

[illegible]

[illegible]

[illegible]

دو میان میں حائل ہونا کہ وہ
اور اسکو تیر مارنے کا ارادہ تھا
تھا جو پایہ کا چلنے میں ...
کو حرکت دینا
التصحیح رفتنکس ...
... قراری کرنی
التصحیح رفتنکس ...
جانا ... میں ...
... کا ایک ... کرنا

[illegible]

... چاشت کے وقت
وقت ... چاشت کے وقت
فرخ کرنا۔ چاشت کے وقت
کمی کو چرانا
التصحیح رفتنکس حرکت دینی
التصحیح ... جالی
... کی
التصحیح ... ہو جو دہ
... ہونا ... بیت
دینا ...
اور ... کا ... جھنا
وغیرہ کا ... ہو جانا

تضمین (بکسر) ایک چیز کا دوسری چیز میں لا دینا۔ اور دوسرے کی بیت کو اپنے شعر میں داخل کرنا۔ پناہ میں لانا۔

تضوّر (بفتح) تاریکی میں گھر جانا یا کروشنی آتش میں آگ دالون کو دیکھے۔

تضوّج (بفتح) نالے کے دونوں [illegible] ایک دوسرے کا بہت ہونا۔

تضوّر (بفتح) رونے کے لئے آمادہ ہونا۔ فریاد کرنی لیٹنا بھوک درد وغیرہ کے سبب سے اور پیٹ پر لوٹنا [illegible] دونوں بازوؤں کو دامن [illegible] کھولنا تاکہ لہو سے چھٹکارا دیوے

تضوّع (بفتح) اونٹنی کی بو کا پھیلنا بچے کا رونے کے لئے آمادہ ہونا۔ بچے کا ماں [illegible] دونوں بازوؤں کو کھولنا تاکہ چھٹکارا دیوے

تضوّک (بفتح) اپنی پلیدی میں آلودہ ہونا۔

تضوّع (بفتح) [illegible] کے سبب گرانی ہو جانا۔

تضوّی (بکسر) نہایت لاغر [illegible] بچہ والا ہو

تضویۃ (بسکون) ایک چیز کو ایک چیز کی طرف مائل کرنا۔

تضویط (بکسر) جمع کرنا۔

تضہیب (بکسر) جلتے پتھر پر گوشت کو بھوننا یا گوشت کو آگ پر کباب کرنا۔ کمان اور نیزہ وغیرہ کو سیدھا کرنے کے وقت آگ پر رکھنا

تضہیۃ (بسکون) مشابہ و مانند ہونا

تضیّح (بفتح) دودھ کا پتلا ہونا۔ پانی ملے دودھ کو پینا۔

تضیّر (بفتح) بھیڑیے کے شیر کا آواز کرنا۔ بکری کا بھوک کے مارے فریاد کرنا۔ فریاد کرنی بھوک اور درد کے مارے لیٹنا اور تڑپنا آزردہ ہونا۔

تضیّع (بفتح) نافہ کا حرکت کرنا اور اسکی بو کا پھیلنا اور پراگندہ ہونا

تضیّق (بفتح) تنگ ہونا۔

تضیّۃ (بسکون) بہت بچے والا ہونا عورت کا

تضییح (بسکون) پتلا ہو جانا [illegible] ہونا۔ دودھ میں پانی ملانا

کرتی ہے۔ اجسم چھوٹا ہونا کسی کی
طرف نیا بند ہونا۔ بیابان ٹیڑھا ہا
پیر لعینکا گر پڑتا اور ہلنا۔
تضعف (تفعّل) ضعیف گننا
سست جانا خوار و گمنام ہونا
تضعیف (تفعیل) سست
اور ناتوان جاننا سستی اور ضعف
کی طرف ذات کو منسوب کرنا۔
ایک چیز کو دو چند کرنا یا زائد کرنا
ضعیف کرنا۔ کھیا کا کھوٹ۔
تضغیث (تفعیل) مینھہ سے
زمین اور گھاس جو تر ہو جیسے مینھہ
سے زمین اور گھاس کو تر کرنا۔
تضفیر (تفعیل) بال گوندھنے
تضاغنک (تفاعل) گشادہ
روے اور شادمان ہونا۔
تضلال (تفعال) کسی کو
ضلالت کی طرف منسوب کرنا۔
تضلع (تفعّل) اسیری کے
سبب پر شکم ہونا یہاں تک
کہ پانی اضلاع تک پہنچ جاوے
تضلل (تفعّل) باطل ہونا
تضلی (تفعّل) گمراہ ہونا

کی صحبت اختیار کرنی
تضلیع الثوب کپڑے پر
اضلاع کی شکل نقش کرنی کتّا
تضلیل (تفعیل) کسی کو ضلالت
کی طرف منسوب کرنا۔
تضمخ (تفعّل) بوے خوش
سے آلودہ ہونا۔
تضمد (تفعّل) جراحت پر ضماد
باندھا جانا۔ لیپ لگانا
تضمر (تفعّل) پوست کا لاغری
سے سمٹ اور سکڑ جانا۔
تضمن (تفعّل) ایک چیز کا ضمن
ہونا۔ لازم پکڑنا ایک چیز پر احاطہ
کرنا اور مشتمل ہونا۔
تضمیخ (تفعیل) بدن کو بوے
خوش سے آلودہ کرنا۔
تضمید (تفعیل) سر پر پٹی باندھنا
جراحت پر ضماد باندھنا۔ ایک
چیز میں ایک چیز کو آلودہ کرنا۔
تضمیر (تفعیل) گھوڑوں کو
بعد فربہی کے تھوڑا چارہ دینا
ہوے کو دبلا کرنا۔
تضمین (تفعیل) کسیکو چپ کر دینا

[illegible]

| معنی | لغت | ماده |
| --- | --- | --- |
| دیا پر نیفہ بسنا تاکہ فراخ ہو جائے پوشک کی ... کو تسمہ سے سینا | | |
| حرکت کرنا - لڑکے کا چلنا چھوٹا بڑا ہونا | تطلیح (تفعیل) | |
| مٹی سے لیپنا | تطلیس (تفعیل) | |
| ... شک ... ڈھیل ... کرنا ایک چیز کو پھیلانا | تطبیع (تفعیل) | |
| ساری چیز کو گھیر لینا اور اوسکو شامل ہونا - دونوں ہاتھ ٹیک لینا - رکوع میں ہاتھ کے درمیان ہاتھ رکھنا تلوار مارنے کے وقت تلوار کا جوڑ پر پہنچنا اور جدا کرنا - دوڑنے میں گھوڑے کا دونوں پانوؤں کا اٹھانا اور اکٹھا رکھنا - گھوڑے کا چلنے اور دوڑنے میں ... رکھنا - ابر کا مینہ کو سب جگہہ پہنچانا - مینہ سے پانی کا ساری زمین کو گھیر لینا - برابر کرنا موافق کرنا | تطبیق (تفعیل) | |
| ڈھیل بچانا | تطفیل (تفعیل) | |
| آٹا ... بنانا | تطلین (تفعیل) | |
| راگ گانا خوشی میں لانا - شادمان کرنا | تطرب (تفعلل) | |
| مٹی میں آلودہ ہونا - ... تطرحم فی الطین | تطرحم (تفعلل) | [illegible] |
| اطراف ... گھاس توڑنا | تطرطش (تفعلل) | [illegible] |
| کپڑے کا نقش دار ہونا | تطرز (تفعلل) | [illegible] |
| پاک اور نفیس چیز کھانا - بری ہونا - ایک چیز سے پرہیز کرنا | تطرس (تفعلل) | [illegible] |
| بیماری سے اچھا ہونا - چرپایوں کا ناتوانی ... لیجانا | تطرغش (تفعلل) | [illegible] |
| اطراف چراگاہ میں آدمی کا چرنا اور دشمن سے ملنا | تطرف (تفعلل) | [illegible] |
| پوشیدہ بات کہنی | تطرم (تفعلل) | [illegible] |
| خوشی میں لانا - راگ گانا - آواز کا اچھا کرنا - ایک چیز کی طرف کھینچنا - آواز کا لمبا کرنا - قراءت | تطریب (تفعیل) | [illegible] |
| تر و تازہ کرنا - کپڑے کو ... کرنا - خوشبو کو گھولنا اور دوسری چیز میں ملانا تاکہ اوسے معطر کرے - ایک چیز کو بے خوشی میں پیدا کرنا | تطریة (تفعلۃ) | [illegible] |

۱۲

تصفیق (ف) ... [illegible]
... ایک ... اور ... [illegible]
تصفیف (ف) ... صف ... [illegible]
... [illegible] ... لکھنا
... استعمال کرنا
تضییق (ف) تنگ کرنا
... تنگ کرنی
تطابق (ف) اتفاق کرنا
تطارد (ف) آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کرنا
تطارش (ف) اپنے تئیں بہرا ظاہر کرنا۔ اپنے تئیں بتکلف بہرا بنانا
تطارق (ف) ایک دوسرے کے پیچھے چلنا
تطارف (ف) انگلیوں کے اطراف ... [illegible]
تطاطو (ف) سر کو پست کرنا۔ سر جھکا دینا
تطاعم (ف) ہر کبوتر کا ... چونچ ... کے منہ میں ڈال کر ... [illegible]
تطاعن (ف) ایک دوسرے کو نیزہ ... [illegible]

تطاول (ف) ... [illegible] ... کرنی ... [illegible]
تطاوح (ف) ... [illegible]
تطاوع (ف) ... [illegible]
تطاول (ف) ایک چیز کے دیکھنے کو گردن لمبی کرنی۔ گردن کشی کرنی۔ تکبر کرنا۔ بلند ہو جانا۔ زیادہ ہونا۔ درازی ... [illegible]
تطایر (ف) پراگندہ ہونا ... اڑ جانا ... آسمان ... [illegible]
تطبخ (ف) ... [illegible]
تطبح (ف) ... [illegible] ... کی باتیں کہنی
تطبطب (ف) پانی کی آواز کرنا
تطبع (ف) کسی کی خو پکڑنی ... بتکلف اور خلاف طبع ایک کام کو کرنا
تطبیق (ف) برابر ہونا۔ ایک چیز کو ... [illegible]
تطلیب (ف) ... [illegible] ... چوب خانہ پر لٹکا ... جانا

تاکہ بچہ ماں سے جدا ہو جاوے
تطلب (تفعّل) پے در
پے ڈھونڈھنا یا ڈھونڈھنا۔
تطلس (تفعّل) لکھے کا مٹ جانا
تطلع (تفعّل) واقف امر کا
ہونا۔ ناز سے چلنا۔ پیمانہ کا
پر ہونا۔ ہمیشہ ایک چیز میں دیکھنا
اور انتظار کرنا۔
تطلق (تفعّل) سرعت سے
ہرن کا گذرنا کہ منہ بھی نہ پھیرے
۔ گھوڑے کا رفتار کے بعد
پیشاب نہ کرنا۔ کسی کے سامنے
کشادہ روئی کرنی۔
تطلہ (تفعّل) مختلف ہونا۔
تطلی (تفعّل) بازی اور شادی کو
کو لازم پکڑنا۔ قطران ملا ہوا ہونا
تطلیب (تفعیل) کسی کو
بے مہلت چاہنا۔
تطلیث (تفعیل) اونٹ پر قطران
ملنا۔ بیمارداری کرنی۔ دشنام
دینی۔ سیاہی لگانا۔
تطلیح (تفعیل) زیادہ کرنا
تطلیح (تفعیل) جھگڑنا ساقط [illegible]

کو تھکا دینا اور ہلاک کر دینا۔
تطلیس[11] (تفعیل) لکھے کو مٹانا
تطلیع[12] (تفعیل) غدۂ خرابن
نکالنا۔ پیمانہ کا پر ہونا۔
تطلیف[13] (تفعیل) کسی پر زیادہ ہونا
تطلیق[14] (تفعیل) خرابین کو
نہ دینا۔ سانپ کے کاٹے کے
بعد بدن میں ہر طرح کا پھر آنا اور اس کا
سلامت رہنا اور اوس سے آرام پانا
تطلیم[15] (تفعیل) روٹی پہ ہاتھ
مارنا تاکہ برابر اور چکلی ہو جاوے
تطمس[16] (تفعّل) پوشیدہ ہونا۔
خط وغیرہ کا محو اور ناپدید ہونا۔
تطمع[17] (تفعّل) حریص ہونا۔
تطمل[18] (تفعّل) آلودہ ہونا۔
تطمیح[19] (تفعیل) گھوڑے کا
دونوں ہاتھوں کو اوٹھانا۔
پیشاب کو بلند پھینکنا۔
تطمیر[20] (تفعیل) پردہ کو لٹکانا
تطمیع[21] (تفعیل) بمعنی اطماع
تطمیم[22] (تفعیل) شاخ درخت
پر جانور کا آ اوترنا۔
تطمن[23] (تفعّل) چربی ہیت

۲۵



ج

[illegible] تفعیل [illegible] تشدید [illegible]

تفطیر [illegible] کسی کا [illegible]
[illegible]
تفطیر [illegible] کسی کو دور
[illegible] کا [illegible]
تفطیر [illegible]
تفطیر [illegible] کپڑے
[illegible] رنگنا۔
تفطیس [illegible]
سیاہ کرنا [illegible]
تفطیف [illegible]
کنارے پر مارنا [illegible]
[illegible] اونٹ کے [illegible]
[illegible] عورت کا [illegible]
کو رنگنا مہندی وغیرہ سے
اور انگلیوں کو منقش کرنا عورت کا۔
تفطیق [illegible]
خوارے کے توڑنے کا وقت
آپہنچنا۔ اونٹنی یا عورت [illegible]
کا جننا دشوار ہو جانا۔ [illegible]
پھر اقرار کرنا۔ گھاس وغیرہ
اور [illegible] کو روکنا۔ کسی کے
لیے راستہ بناتا۔
تفطیش [illegible] دنیا میں [illegible]

تفطیم [illegible] سمجھنا۔
تفطیم [illegible] ایک شاخ کو
دوسرے درخت کی شاخ میں
پیوند لگانا۔ [illegible] ہونا۔
تفطیم [illegible]
[illegible] ظاہر کرنا۔
تفطیل [illegible]
[illegible] آنا [illegible] ہونا۔
تفطیل [illegible] کرنا۔
[illegible]
[illegible] آنا۔
[illegible]
[illegible] معنوں کو پھیلانا۔
[illegible] کا [illegible]
تفطیل [illegible] حقیقت
کلام کو دریافت کرنا۔ [illegible] کا
نزدیک ہونا [illegible] کا
[illegible] آنا۔ اونٹنی کا [illegible] کی اصلاح
[illegible] کرنا [illegible]
[illegible] میں آنا [illegible]
آفتاب کا [illegible]
[illegible]

ہو جانا ۔ بہا میں ہو حل ہونا ۔
تطوحن (ف نکس) اچھلنا ۔
تطویش (ف نکس) اپنے اوپر
خواہ پر امر فرض واکرنا ۔
تطویع (ف نکس) کسی پر کام
آسان کرنا ۔ کسی کو کام پر تیار
کر دینا ۔ فرمانبرداری کرنی یا دیر
کرنا ۔ اعانت کرنی ۔ متعدی
حکم کو قبول کرنا ۔
تطویف (ف نکس) تطواف
(ف نفس) ایک چیز کے گرد پھرنا ۔
تطویق (ف نکس) کسی چیز کی
تکلیف دینی ۔ یا ایسی چیز کی
تکلیف جو تمہاری طاقت سے
زیادہ ہے ۔ قادر کر دینا نفس کا
راضی ہونا اور اجازت دینی اور
آسان کرنا ۔ والی کر دینا ۔ مین
بانا ۔ کسی کے گلے میں طوق
ڈالنا ۔ گردن میں پہنانا ۔
تطویل (ف نکس) چراگاہ
میں چوپایہ کی رسی کو لمبا کر دینا
مہلت دینی ۔ لمبا کرنا ۔
تطہر (ف نفس) پاک ہونا حیض

تحوین (ف نکس) [illegible] کرنا ۔ [illegible] ہر فعل سے
پرہیز [illegible] ہونا ۔
تطحلب (ف نفس) پانی کا رنگ
اور مزہ بدل جانا ۔
تطعم (ف نفس) کھانے کو کر دو
دہنا ۔ خوش رکھنا ۔ کسی [illegible]
ہونا ۔ کسی کی محبت کرنا خوش رکھنا
تطفل (ف نفس) [illegible]
کے جانا ۔ کسی سے ایک چیز
لینے کے لیے حیلہ [illegible] کرنا
تطہیر (ف نکس) پاک کرنا ۔ [illegible]
معصیت سے پاک ہونا ۔
تطہیم (ف نکس) کمال ہونا [illegible]
کرنی ۔ سب کا سب اکٹھا کام
میں جمع ہو جانا ۔ [illegible]
تطیاب (ف نفس) [illegible]
[illegible] ہونا حلال
تطیب (ف نفس) اپنے میں
خوشبو لگانا ۔
تطیخ (ف نفس) [illegible]
تطیر (ف نفس) [illegible]
تطین (ف نفس) [illegible] سے لیپنا

[illegible]

تطرف
تطری
تطریۃ
تطرّق
تطلّع
تطلّب
تطلّق
تطلیۃ
تطنیب
تطنیز
تطنیف
تطنّش
تطوّح
تطواف
تطوّد
تطوّس
تطوّع
تطوّف
تطوّق
تطویل
تطوّل
تطوّی
تطویح
تطوید

سے جسم کا بھاری ہونا۔
تطلّع (تفعّل) آگاہ ہونا۔
انتظار کرنا کسی کے پاس آنا۔
تطلیۃ (تفعلۃ) طلی کا علاج
کرنا اور کسی کے پہلو میں لٹا کرنا
تطنیب (تفعیل) طناب سے
کھینچنا۔ طناب سے باندھنا۔
خیمے کا اور نصب کرنا ساقا
کرنی ایک جگہ میں سکونت کے
دراز نشست ہونا۔ مشک کو
درخت سے سینا۔
تطنیز (تفعیل) ہضم کر دینا۔
تطنیف (تفعیل) اپنے
نفس کو حرص کے قریب کرنا۔
تہمت لگانی۔ دیوار پر کانٹے رکھنے۔
تطنّش (تفعّل) آواز کرانی۔
تطوّح (تفعّل) ظلم و ستم کرنا۔
تطواف (تفعال) گرد
جسمیں طواف کرنی۔
تطوّح (تفعّل) جہان میں
سرگردان ہونا۔ اپنے تئیں ہر
اور ہر ڈالنا اور مشقت کرنی۔
تطوّد (تفعّل) گرد پھرنا۔

جہان میں پھرنا۔
تطوّس (تفعّل) عورت کا اپنے
تئیں آراستہ کرنا اور زینت دینی۔
تطوّع (تفعّل) از خود توانائی
کرنی۔ نوافل نماز پڑھنی یا روزہ
رکھنا یا صدقہ دینا۔
تطوّف (تفعّل) ایک چیز کے گرد پھرنا۔
تطوّق (تفعّل) گردن میں طوق پہننا۔
تطویل (تفعیل) یعنی رسی جس
سے چوپایہ کو چارہ میں باندھیں
رسی جس سے چوپائے کے پانوں باندھیں۔
تطوّل (تفعّل) احسان کرنا،
فضل اور بزرگی کرنی۔
تطوّی (تفعّل) سانپ کا حلقہ مارنا۔
تطویح (تفعیل) کسی کو ہوا
و ہوس میں ڈالدینا۔ کسی کو
میدان جنگ میں ہلاک ہونے کے
لیے برانگیختہ کرنا۔ سرگشتہ اور
پریشان کرنا۔ جہان میں آوارہ
کرنا۔ ادہر اودہر لیجانا۔ ہلاک کرنا۔
عصا سے مارنا۔ کسی چیز کو ایسی جگہ
پھینکنا کہ ہلاک ہو سکے۔
تطوید (تفعیل) سرگردان

ہونے گھوڑے کو نیلا کرنا۔
تظنی (تفعّل) گمان کرنا۔
تظہر (تفعّل) دوپہر میں کہیں
جانا۔ مرد کا اپنی جورو کو انت
علیّ کظہر امی کہنا۔
تظہیر (تفعیل) فراموش کرنا۔
دوپہر کے وقت میں داخل ہونا
دوپہر کو کہیں جانا۔ مرد کا اپنی
جورو کو انت علیّ کظہر امی کہنا۔
تظئیۃ (تفعیل) غمگین کرنا۔
تعّ (فعّ)، تعۃ (فعلۃ) (س)
بات میں عاجز رہ جانا۔ ریت میں
پھنس جانا چوپایہ کا۔ سست ہو جانا
۔ چھوڑ دینا۔ قی کرنا۔
تعایی (تفاعل) ایک کا ایک قوم
کی طرف اور دوسرے کا دوسری
قوم کی طرف میلان کرنا اور یہ
اوس وقت ہوتا ہے کہ دو قوموں
نے ان میں سے ہر ایک کے
لئے کھانا طیار کیا ہو۔
تعاتت (تفاعل) آپس میں ایک
دوسرے پر غصہ کرنا۔ ناز کرنا
آپس میں غصیلا پن کرنا۔

تعابج (تفاعل) چھوٹی خبریں
خوف اور دہشت بھری۔
تعاثث (تفاعل) زور سے ہنکنا
تعاجل (تفاعل) آپس میں جھگڑنا
تعاجیب (تفاعیل) انوکھی
چیزیں۔ اسکی واحد نہیں ہے۔
تعادی (تفاعل) دور ہونا
کسی کے درمیان میں اختلاف
ہونا۔ آپس میں دشمنی کرنی۔ ایک
کا دوسرے کے بعد مرجانا۔ آپس
میں دور ہونا۔ جگہ کا برابر نہ ہونا۔
دوڑنے میں مقابلہ کرنا۔ ونیز
تعادی (تفاعل) جگہ ناہموار۔
تباہی۔ دوری۔ فساد۔
تعار (تفاعل) بیدار رہنا۔ بستر
پر پہلو بہ پہلو ہونا۔ رات کو کراہنا۔
جرح تعار (تفعال) زخم
جسکا خون نہ بند ہو۔
تعارج (تفاعل) لنگڑے چلنا
تعارز (تفاعل) منقبض اور گرفتہ
ہونا۔ پیچ پیچ ہونا۔
تعارص (تفاعل) خلاف
ایک دوسرے کے جرأت۔

۴۲۹

تعب

[illegible]

تفضیح [illegible] رسوا کرنا [illegible]

تفضیل [illegible]

[illegible] ایسنا [illegible]

[illegible] ہونا

[illegible]

تفطر [illegible] پھٹنا

[illegible]

تفقد (ف) کسی [illegible]

[illegible]

تفقہ (ف) [illegible] سمجھنا [illegible] فہمیدگی

[illegible]

تفکر (ف) [illegible]

[illegible]

تفلسف [illegible]

[illegible]

تاکہ معلوم کریں کہ آپسمیں کون زیادہ ہے بے زری میں شیخی اور قمار میں اونٹ کو ذبح کرنا۔

تعاقل رفصض بغیر عقل کے عقلمندی ظاہر کرنی یعنی اپنے تئیں عقلمند ظاہر کرنا اور عقل نہ رکھنا۔ دیت اور خون بہا کو آپس میں قسمت کر لینا۔

تعاقم رفصض بیہودگی کرنی

تعاکس رفصض قوم کا لڑائی میں ایک دوسرے پر نیزہ مارنا اور آپس میں خلط ملط ہونا۔

تعاکظ رفصض آپس میں جنگ کرنی اور حجت لانا۔ آپسمیں شیخی اور فخر کرنا۔

تعالی رفصت عورت کا نفاس سے پاک ہونا۔ اونٹنی کو اوسکی نہایت رفتار پر ہانکنا۔

تعالم رفصض آپسمیں جاننا۔

تعالی رفصنک بہت بلند ہونا۔ چڑھنا۔ کسی کے اوپر آنا۔

تعامس رفصض ایک چیز میں غفلت اختیار کرنی۔

تعامہ رفصض گمراہی اور حیرت وغیرہ میں سرگشتہ اور متردد ہونا۔

تعامی رفصنک اندھا پن کرنا۔

تعانق رفصض محبت میں ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالنے

تعاود رفصض لڑائی وغیرہ میں ہر فریق کا ایک دوسرے پر پھرنا اور تبدیل کرنا۔

تعاوذ رفصض قوم کا ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں پناہ لے جانا۔

تعاور رفصض ایک چیز کو دست بدست لینا۔ نوبت نوبت ایک چیز لینا

تعاورک رفصض آپسمیں [illegible] کشش کرنا۔

تعاون رفصض ایک دوسرے کی یاری اور مدد کرنی۔

تعاوی رفصنک کسی پر گرد آنا جیسے تعاووا علیہ۔

تعاہد رفصض غمخواری کرنی نگاہداشت کرنی۔ عہد باندھنا۔

تعایر رفصض ایک دوسرے کا عیب بیان کرنا۔

مادہ

[illegible]

عنق
عود
عوذ
عوص
عوک
عون
عوی
عہد

تعارف (رفعضص) ایک دوسرے کو پہچاننا
تعاظل (رفعضص) ایک دوسرے کے آگے پیچھے متصل ہونا
تعاذی (رفعضک) آپس میں مسکرانے کو عمل کرنا
تعاسر (رفعضص) سخت ہونا دشوار ہونا ملتوی ہونا آپس میں شوادی کرنی
تعاشر (رفعضص) آپس میں خلط ملط ہونا قوم کا
تعاشق (رفعضص) عشقبازی کرنی
تعاشی (رفعضک) آپ سے شب کوری کی کرنی
تعاشیش (رفعضک) گھاس بھری زمین کے الگ الگ ٹکڑے
تعاضع (رفعضت) ایک دوسرے کو منہ سے کاٹنا
تعاضد (رفعضص) آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی
تعاطس (رفعضص) تکلف چھینکنا
تعاطف (رفعضص) مہربانی ... سرہلانا نرم چلنا ناز سے چلنا

آپس میں مہربان ہونا
تعاطی (رفعضک) ہاتھ میں لینا ایک چیز کو ہاتھ لینا ایک چیز میں خصومت کرنا ... کی گسنی پکڑنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک چیز کی طرف پاؤں کی انگلیوں کے سر کے کھڑے ہو کر ہاتھ لینا کرنا ایک کام کا مرتکب ہونا یا ایک کام کرنا
تعاظل (رفعضص) ...
تعاظم (رفعضص) ... بزرگ ہونا
تعافر (رفعضص) ... سپید کرنا
تعافس (رفعضص) کشتی کرنی
تعافی (رفعضص) مرض کا دور کرنا ... پیچھے پیچھے دوڑنا
تعاقب (رفعضص) پیچھا پکڑنا
تعاقد (رفعضص) آپس میں عہد و پیمان کرنا ... تلے پھرنا لشکروں کا گھیرا کرنا
تعاقر (رفعضص) ... اپنے چوپایوں پر ... زخمی کرنی

[illegible]

[illegible] کرنا
تعجیل (ف) مص (س) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
تعـ[illegible] (ع) مص (ث) بزرگ [illegible]
کرنی خلاف حضرت —
تعـ[illegible] (ع) مص (ث) فرق [illegible]
[illegible] لیے امر [illegible]
تعقب (ع) مص (ث) [illegible] شخص [illegible]
کرنے میں [illegible] بہت [illegible]
تعقید (ع) مص (ث) بات میں [illegible]
[illegible] جانا [illegible]
[illegible] کہ [illegible] امر [illegible]

[illegible] حرکت [illegible]
[illegible] کسی کے [illegible]
[illegible] ہونا
[illegible] (ع) مص (ث) [illegible]
[illegible] کسی [illegible] ہونا
[illegible] اپنے [illegible] ظاہر [illegible]
[illegible] ہونا [illegible]
[illegible] ایک [illegible] گرنی
[illegible] معلوم [illegible] عقل
[illegible] زندگی [illegible] کرنا
[illegible] ہرگز کرنا
تعـ[illegible] (ع) مص (ث) [illegible]
[illegible] ہونا
[illegible] (ع) مص (ث) آنا [illegible]
تعلیق (ع) مص (ث) [illegible] اور
[illegible] ہونا [illegible] کھانا
تعـ[illegible] (ع) مص (ث) آدمی کے سر
[illegible] حرکت کرنا بعد دور
[illegible] جانا [illegible] رک رہنا
[illegible] جاتی
[illegible] عشا کے وقت
[illegible] پیچھے ہٹنا

تعیّش (بفتحتین) آرام میں یا
عیش کرنا۔
تعاظم (بفتحتین) کام میں بڑا ہونا
[illegible] جانا الغرد و سکو برت
[illegible] عظمت جیسے تعاظم یا
بالامر۔ کسی پر کام کا دشوار
ہونا جیسے تعاظم یا علیہ الامر۔
تعب (بفتحتین) تکان مشقت۔
تعب (بفتح و کسر) تھک جانا
تعبان (بفتح) صیغہ صفت۔
تعبیہ (بفتح) تبیہ لکھا میں امر کرنا
تعبّد (بفتحتین) خدائے تعالیٰ
کی پرستش کرنی۔ اونٹ کا کسی
کرنا۔ اونٹ کو بہا تنگ ہانکنا
کہ عاجز اور تنگ ہو اور تھک جاوے
کسی کو اپنا غلام بنا لینا۔ عبادت
مین تکلف کرنا۔
تعبّس (بفتحتین) ناخوش
اور ترش رو ہونا۔
تعبشم (بفتحتین) عبشمی ہو جانا
یعنی عبد شمس کی طرف منسوب ہونا
تعبعث (بفتحتین) ہلاک کرنا۔
تعبیہ (بفتح) یعنی تعبیہ فستلف

تعبیہ (بفتح) مسلمان لشکر کو
آمادہ اور طیار کرنا۔ لشکر اور سامان
لشکر کو آراستہ اور آمادہ کرنا۔
تعبید (بفتح و کسر) تعریف کرنی بیکہا
جانا سیدہی کرنی۔ غلامی میں لینا
ستانا بیدار کرنا۔ ذلیل اور خوار رکھنا
مہنگ رکھنا۔ تعاقب اضداد سے ہے
تعبیر (بفتح و کسر) خواب کا انجام
کا بیان کرنا۔ پانی سے پار
اوترنا۔ پانی سے پار اوتارنا
جیسے عبر بالماء۔ دل کی بات کو
بیان کرنا جیسے عبّر عمّا فی نفسہ
اور کسی کا پوچھنا لغو اوسکی طرف
سے بیان کرنا جیسے عبّر عنہ غیرہ
کسی کو آنکھ کی گرمی دکھانی۔
جیسے عبّر بہ۔ کسی پر کام کا دشوار
ہونا جیسے عبّر بہ الامر۔ خط کو فکر
سے بے آواز پڑھنا۔ ہلاک کرنا
جیسے عبّرت بہ اپنی طرف سے
یا کسی کی طرف سے بات کہنی جیسے
عبّر عنہ۔ دراہم کو کہ پہلے تیغار یق
رہا جانچ گئے ہوں ایکبار جانچنا
گیہوں وغیرہ کو ناپنا۔

لازم پکڑنا کہ اوس سے بے عورتن
سے لے آوے اور زفاف اونکا
دور کرے سخوان سالا ہونا
بیاہ کا پیغام بر ہونا۔
تعجیب رفشکس کسی کو تعجب
یعنی اچنبھے مین لانا۔
تعجیم رفشکف چہرہ کو سمیٹنا۔
اور ترش ہشاش کرنا۔
تعجیر رفشکس بگھر وغیرہ کو بوئین
سے چکر نا ہوا کا غبار کو اوٹھانا
تعجیز رفشکس ایک چیز سے
روک دینا اور تاخیر کرنی۔ کسی کو
عجز کی طرف منسوب کرنا۔ نہایت
بڈھا ہونا۔ کلان سرین ہونا۔
تعجیف رفشکس اپنے تئین
کھانے سے روکنا حالانکہ بھوکا
ہوتا کہ ہم طعام کو خوب پیٹ بھر
کھلاوے سیری سے بہت کم کھانا
تعجیل رفشکس ہاتھہ کی ہتھیلی
کی دل سکے پار پنیر کو لبنا کرنا
خرما کو کسی کے آگے پیش کرنا
سرعت کرنا سبقت کرنی۔
برانگیختہ کرنا سرعت کا حکم دینا

قیمت بہت جلد دینی۔ گوشت کو
جلد پکانا۔ کسیکو بہت جلد پکڑنا
تعجیم رفشکس آخری انجام آن
تعجیم رفشکس اوسکا عیب بیان
کرنا پھر دونون مین فرق کرنا۔
تعدف رفقص تھوڑا چکھنا
تعدی رفقنک کسی پر ظلم
کرنا۔ ایک امر سے درگذرنا اور
ترک کر دینا۔ کسی کا مہر لینا۔
دودہ پر شرابست سے نے نیاز ہونا
گھاس کی خریداری سے چراگاہ
کا نے نیاز کر دینا۔
تعدیر رفشکف ایک کام سے
کسی کو پھیر دینا۔ روا رکھنا سنا فدکرنا
تعدید رفشکس کسی چیز کے
زمانہ کے لئے ساز و سامان
بنانا۔ ایک چیز کو اوسکی نہایت
تک گننا۔ بہت مال جمع کرنا۔
تعدیق رفشکس اپنی رائے
کو ایک چیز کے انداز اور تخمین
مین ترجیح دینی کہ جسکا یقین ہو
کوئین مین کانٹا ڈالنا تاکہ
اوسمین سے کچھ باہر نکالے

ماده
عجب
عجف
عجل
[illegible]
عدف
عدو
عدر
عدد
عدق
۱۲

... سال ہو جانا - تاخیر کرنی -

تعجیس (تفعّل) آخر شب کے عمیر بل گر پڑنا - کلام میں ناخوش کرنا - تھک کر جانا -

تعشکل (تفعّل) بہت خوش وار ہونا - خاص کر -

تعشلب (تفعّل) مال کا زیادہ ہونا - ہوا کے سبب ... جانا -

تعشیب (تفعیل) آگ میں لکڑی کو خوش کرنا - اچھی طرح سے لگانا

تعشیر (تفعیل) سر کے بل گرا دینا - خوار و ہلاک کر دینا -

تعشین (تفعیل) آگ کا دھواں نکال لانا - جلانا - تباہی اور خرابی کو برانگیختہ کرنا - کپڑے کو دھوئیں کی بو دینی -

تعجیب (تفعیل) تعجب میں آنا ... ڈالنا -

تعجیش (تفعیل) گھر کا دھوئیں سے بھر جانا -

تعجیر (تفعیل) ہمسائے کے سبب پیٹ پر بل پڑنے -

تعجرف (تفعّل) ...

کسی کو زبردستی ایک کام پر چین رکھنا - سنے پاک شتابی ...

تعجبار (تفعیل) اونٹ کے پیٹھ پر سوار ہونا -

تعجیس (تفعیل) ایک کام کے درپے ہونا - ایک کام میں کسی کی پیروی کرنی - بیٹھ کا ادھ تلے پر بسنا - آخر شب میں نکلنا جانا - بند کرنا - روک دینا - توقف کرنا - تنگ کرنا - کسی کو ملامت کرنی تکبیر کرنا - ہر کام کو پیچھے ڈال دینا -

تعجیل (تفعیل) بے انگیختہ کرنا - دوڑ سے ... حکم دینا - تحصیل کے دل کے برابر کر لینا - کرنا - سر دست قیمت سے لینی - دوڑنا - سرعت کرنی - جلد پکڑنا -

تعجلد (تفعیل) کام کا بزرگ اور سخت اور دشوار ہونا -

تعجمش (تفعیل) اونٹ کا موٹا ہونا

تعجیر (تفعیل) اپنے تئیں نادان ظاہر کرنا - کام کا دیر قبول کرنا

تعجیل (تفعیل) عورت کو لاتا ...

علامات اعراب + مفتوح ـَ مکسور ـِ مضموم ـُ ساکن ـْ مشدد ـّ

| مادہ | | |
|---|---|---|
| ع ر ص | سے زبان کو پاک کرنا - ظاہر اور عیاں بیان کرنا [illegible] | تعرص (تفعل) ایک جگہ اقامت کرنا جیسے ٹھہرنا - |
| ع ر ض | کو کاٹنا - چوپایہ کے [illegible] عرقوب نشتر لگانا اور [illegible] دینا کسی کے قول اور فعل کو [illegible] کہنا - | تعرض (تفعل) کسی کے آگے آنا اور پیش ہونا - فرش کا بچھانا - دشواری کی راہ سے ہٹ کر راست چلنا - کج ہونا - [illegible] اور کنایۃً ظاہر کرنا - |
| ع ر ف ج | قوم کی طرف سے کلام [illegible] ادا کرنے کے لیئے حجت بیان کرنی [illegible] یا [illegible] کو [illegible] کرنا یعنی [illegible] کرنا - انکار کرکے پھیر دینا - کلام عجمی کو عربی کرنا - عربی کلمات [illegible] فحش کہنا - بیہودہ بکنا - [illegible] بات زبان پر [illegible] دینا - | تعرفج (تفعلل) اونٹ کا عرفج کھانا |
| ع ر ف | | تعرف (تفعل) ایک چیز کو جاننا چاہنا اور ڈھونڈھنا کہ اوسکو پہچان لیں - معرفت ڈھونڈھنی - |
| ع ر ق | | تعرق (تفعل) زمین پر پھیلنا - ہڈی سے گوشت نوچ کھانا اور کھا جانا - ایک چیز سے منقطع ہونا |
| ع ر ق ب | تعریش (تفعیل) انگور [illegible] کا ٹٹی وغیرہ بنانا - [illegible] کرنا - | تعرقب (تفعلل) پشت کوہ کی راہ پر چلنا - ایک کام سے پھرنا |
| ع ر م | تعریس (تفعیل) [illegible] دینا - [illegible] سواری کو ٹھہرانا وغیرہ | تعرم (تفعل) ہڈی سے گوشت کو جدا کرنا - |
| ع ر ش | مین بند کرنا - بوقت غروب آنا - میلان کرنا - توقف کرنا - | تعروش (تفعلل) ایک کام متعلق ہونا - چوپایہ پر سوار ہونا - |
| ع ر و | تعرید (تفعیل) شکاری سے تیر کا گذر جانا - راہ کو چھوڑ دینا - ستارہ کا بلند ہونا [illegible] آسمان میں اگر غروب کے نزدیک پہنچنا | تعری (تفعل) ننگا ہونا - ایک چیز سے خالی ہونا - تعریب (تفعیل) [illegible] |

۱۲

[illegible]

[illegible] کرنا۔ عیب لگانے

[illegible]

زمین پھٹ جانا [illegible]

[illegible] زمین [illegible]

[illegible] بفتحتین [illegible]

[illegible] گھر کا نشان [illegible]

[illegible] رہنا [illegible]

[illegible] تقلید میں [illegible]

کا [illegible] دشوار ہونا۔ عقدہ اور

[illegible] کرنا۔ بھاگ جانا

[illegible] بفتحتین غصہ کرنا

[illegible] بفتحتین [illegible] قبول کرنی

[illegible] بفتحتین اچھلنے

میں حرکت کرنی

[illegible] بفتحتین [illegible] میں

کھینچنا [illegible] روکنا [illegible] کے

[illegible] بفتحتین [illegible] کسی [illegible]

[illegible] کا

[illegible]

[illegible] مشابہت کرنا

[illegible] بفتحتین اچھا [illegible] گھر

[illegible] کا [illegible] ہونا

[illegible] بفتحتین سخت [illegible] ہونا

[illegible] بفتحتین [illegible]

[illegible]

[illegible] بفتحتین [illegible]

قیام اور ثبات اختیار کرنا

کام کا [illegible]

جماؤ دینا دشوار کرنا۔
تعزیل (تفعیل) ہکسو کرنا جدا کرنا
تعس (فعل) بدی۔ دوری۔
نگونساری۔ ہلاکی۔
تعس (فعل ارفس) ہلاک ہونا
منہ کے بل گر پڑنا۔ ذلیل اور
خوار ہونا۔ ہلاک کرنا۔
تعسر (تفعل) کام کا دشوار ہونا
اور سخت ہونا اور ملتوی ہونا۔
کسی پر بات کا ملتبس و مشتبہ ہونا۔
تعسعس (تفعلل) پوسیدگی کھانا
بھیڑئے وغیرہ کا ناگاہ شکار کو ہونا
تعسف (تفعل) بے راہ پر
چلنا۔ راہ سے خم کھانا۔ ستم
کرنا۔ ایک چیز کے فوت پر لعل ...
تعسق (تفعل) حریص ہونا
چمٹنا اور لازم پکڑنا۔ ایک چیز
کی طلب میں اصرار کرنا۔
تعسن (تفعل) اپنے باپ
کے مشابہ ہونا۔ ایک چیز کے
نشان اور مکان کو ڈھونڈھنا
زمین کا تھوڑی سی گھاس اوگانا
تعسیر (تفعیل) خلاف کرنا۔ بائیں ...

... طرف سے آنا۔ اونٹ کا دودھ کے
وقت دھم اور ٹھانا۔ دشوار
کرنا۔ ضد تیسیر (تفعیل)
تعسیف (تفعیل) ماندہ کر دینا
تعسیل (تفعیل) شہد کے
ساتھ کھانا بنانا۔ شہد کا توشہ
دینا۔ زنبور وں کا گھر میں شہد جمع کرنا
تعسین (تفعیل) تنگی سال کا
آدمیوں کی چربی کو ہلکا کر دینا
تعشب (تفعل) اونٹ کا تر
گھاس کھو جانا اور موٹا ہونا۔
تعشق (تفعل) عاشقی کرنی۔
تعشم (تفعل) خشک ہونا۔
تعشن (تفعل) شاخ خرما بن
کی میل کو تلاش اور تفحص کرنا۔
تعشنط (تفعلل) اجورو کا خاوند
سے خصومت کرنا۔
تعشی (تفعل) طعام شبانگاہی
کھانا۔ شب کھو ہونا۔
تعشیب (تفعیل) زمین کا تر اور
سبز گھاس کو اوگانا۔
تعشیة (تفعلة) گھوڑے بڑا اس کے
پیچھے آگ بھڑکانی تا کہ جانور راغر ...

پیشانی کا ... پھاڑنا
التعریص (ع) مس زمین کو ولیت بنانا
التعریس (ع) مس اخیر رات میں اترنا
[illegible] التعریس مس کیل شب
[illegible] حضرت صلی اللہ علیہ و
سلم [illegible]
التعریش (ع) مس گھر کا
[illegible] کرنا [illegible]
گھر کی چھت بنانی [illegible]
کرنا [illegible] بنانی [illegible]
[illegible]
التعریض (ع) مس [illegible]
[illegible] سے منقطع کرنا
التعریض (ع) مس کنایہ میں
بات کہنی بخلاف تصریح چوڑا
کرنا [illegible]
بھیجنا [illegible]
[illegible] کو طعام
دینا [illegible] ہمیشہ کھانا
صاحب [illegible] کلام ہونا کا
[illegible] میں [illegible] کرنا [illegible]
[illegible]
[illegible] پورا [illegible]

اور [illegible]
چہرہ انسان [illegible]
کا [illegible]
[illegible]
التعریف (ع) مس [illegible] دینا
آگاہ کر دینا [illegible]
کرنا [illegible]
خوشبو کرنا [illegible] کرنا
التعریق (ع) مس [illegible]
[illegible]
کرنا
التعریم (ع) مس [illegible]
التعرین (ع) مس [illegible] کا
کی طرف [illegible] جانا
التعزیۃ (ع) مس مصیبت [illegible]
کو صبر [illegible] کرنا
التعزیر (ع) مس [illegible]
[illegible] بزرگ کہنا [illegible]
کرنا [illegible] کرنا اور
قوی [illegible] کرنا [illegible]
کرنا [illegible]
[illegible]
التعزیز (ع) مس [illegible] کرنا
قوی کرنا [illegible]

حیض کے وقت حبس کیا جانا۔ کیست کا غلاف خوشہ نکال لانا۔

تعصیص [۱] (تفعیل) قرضدار سے جھگڑنا

تعصیل [۲] (تفعیل) ونگ کرنا۔ ایک چیز کی سرشت میں کج کرنا

تعضل [۳] (تفعل) بیماری کا طبیب پر غالب ہونا۔

تعضوض [۴] (تفعل) ایک خرما ہے سیاہ اور شیرین تعضوضۃ (تفعلۃ) ایک اس مین یا وحدت ہے شیرین خرما کہ ہجر کیطرف منسوب ہے

تعضوضۃ (تفعلۃ) تنگ فرج کی عورت مصیبت۔

تعضیۃ (تفعلۃ) جدا جدا کرنا۔

تعضید [۵] (تفعیل) تیر کا چپ و راست یعنی داہنی بائیں جانا۔

تعضیض [۶] (تفعیل) اونٹ کو کانٹے کھلانے اور عضوض کنوئین سے اوسکو پانی پلانا۔ لڑکی سے ٹھٹھا کرنا۔ غصہ کے سبب ہونٹھ کو بہت کاٹنا خوب کاٹنا۔

تعضیل [۷] (تفعیل) عورت کو نکاح سے زبردستی باز رکھنا

جگہ کا تنگ آنا۔ زمین کا اپنے لوگون پر انبوہی کے سبب سختی کرنا۔ عورت اور بکری اور مرغی وغیرہ کے رحم مین سے لڑکے اور بچے اور انڈے کا دشواری سے نکلنا کسی پر کام کو تنگ پکڑنا۔

تعضیۃ [۹] (تفعیل) عضاء کو قطع کرنا

تعطر [۱۰] (تفعل) خوشبودار ہونا۔ اپنے تیئن عطر لگانا۔ عورت کا اپنے مان باپ کے گھر مین اقامت کرنا اور اوسکا نکاح نکرنا۔

تعطش [۱۱] (تفعل) تکلف پیاسا کرنا

تعطط [۱۲] (تفعل) کپڑے کا لنبان مین شگافتہ ہونا۔

تعطف [۱۳] (تفعل) لپیٹنے اور چادر اوڑھنی مہربانی کرنی۔

تعطل [۱۴] (تفعل) عورت کا بے پیرایہ رہنا۔ مرد وغیرہ کا بیکار رہنا

تعطن [۱۵] (تفعل) اونٹون کا سیراب ہو کے سونا۔

تعطی [۱۶] (تفعل) عطا چاہنی ایک کام کا مرتکب ہونا۔ کار مدلول کار ذلت کو شروع کرنا سرعت کرنی۔

مادہ
۱ عصص
۲ عصل
۳ عضل
۴ عضو
۵ عضد
۶ عضض
۷ عضل
۸ [illegible]
۹ عضہ
ادھر
۱۰ عطر
۱۱ عطش
۱۲ عطط
۱۳ عطف
۱۴ عطل
۱۵ عطن
۱۶ عطی

ہو جاوے اور شکار سے گئے جاوے ... سلاح ... کھلانا - رات کے وقت اور دشمن کو ڈرانا - کسی ... ہی اور ... لطف کرنی

تعشیر رشکس ... قوم کے ... سے ... حد ... کر ... ذرا ... سے ... کا ... سے ... ہونا ... کے ... پر ... کے ... بانی

تعشیش رشکس ... کا ... شاخ اور ... ہونا ... گھونسلا بنانا گھاس ... خشک ہونا - ... ہونا - اور ... کا خشکی ہو جانا -

تعکیس رشکس ... سے کہنا - انداز ...

تعقش رشس ... سے ... کا ... پاؤں ... کے ... کا ... جانا -

تعصب رتعس ... باندھنا عصبیت کرنی ... کا ... کرنا کسی چیز ... کا ...

کرنی اور دوسرا معنی ہونا ... کے ... حمایت کرنی

تعصر رتعس ... جانا کسی کی طرف ... لینی

تعصفر رتعصف عصفر کا رنگ ... کرنا ... ہونا

تعصور رتعس آواز کرنی ... آواز کرنی

تعصفر رتعصف ایک جانور ... سفید چمکدار

تعصی ... کا ... دشوار ... ہونا -

تعصیب رتعس ... سر ... باندھنا ... کا ... کرنا ... دینا - کسی کے ... عصب کی ... کرنی -

تعصیہ ... عصا ...

تعصیر رشکس ... عصر کے وقت داخل ہونا - ... کا ... کو ... جانا - ... ہو جانا اور ... ہونا یا اوسکا ... کے قریب ... جانا ... کا

تعفف (تفعّل) حرام سے بچنا لوگوں سے سوال کرنے میں بچ رہنا۔ تکلف کے ساتھ پارسائی کرنی۔ دودھ کو جو تھن میں باقی رہا تھا دوہنا اور پینا۔

تعفق (تفعّل) کسی کی طرف پناہ لانا کسی کے پیچھے چھپنا۔

تعفن (تفعّل) سخت سڑ جانا رسی کا خراب ہونا رسی کا سست

تعفی (تفعّل) ناپید ہونا سست اور ناپید ہو جانا۔

تعفیہ (تفعلۃ) مر جانا۔ نابود کرنا خرابی کے بعد اچھا کر دینا۔

تعفیر (تفعیل) کالی بکریوں کو سپید بکریوں سرخی مائل سے ساتھ ملانا۔ خاک آلودہ کرنا۔ خاک میں لٹانا۔ خاک کے نیچے دفن کرنا۔ کسی کو زمین پر دے مارنا۔ وحشی بچہ کو بھی کبھی دودھ چھڑانے کے ارادہ سے روک لینا۔ بچے دار عورت کا اپنی پستان کو مٹی میں آلودہ کرنا دودھ چھڑانے کے لیے۔

جلتی ریت پر گوشت کو دھوپ میں خشک کرنا۔ سپید کرنا۔

تعفیف (تفعیل) کسی کو عفیف بنانا۔ جو تھن میں باقی رہا تھا

تعفیق (تفعیل) بکریوں کو ادھر ادھر سے ایک دوسرے کے

تعفیل (تفعیل) عفل کی اصلاح کرنا اور عفل ایک چیز ہے جو عورتوں اور اونٹنیوں کی شرمگاہ میں سے نکلتی ہے جیسا کہ مردوں کے خصیوں میں فتق کی بیماری ہو جاتی ہے اور عفل کی طرف منسوب کرنا۔

تعفین (تفعیل) گوشت کے بو اور مزہ کو بدل دینا۔

تعقب (تفعّل) کسی کو گناہ پر مواخذہ کرنا شک کے سبب خبر کو دوبارہ پوچھنا۔ اپنی رائے کے انجام کو تنگی کی طرف پانا۔ کسی کی شرمگاہ اور عیب اور لغزش ڈھونڈھنی۔

تعقیل (تفعّل) کسی کے پیچھے آنا پیروی کرنی۔

— [illegible] ... علاج کرنا —

سر لیتے ہوئے سونا تا کہ خوشبو ابر ...

... ہوجائے — خوشہ انگور کے

... کے ... ظاہر ہونی

تعطف (فتعلف) خدمت گاری

سرعت سے جلدی کرنی —

تعطس (فتعلس) کسی کے

لیے چھینک اٹھانی —

تعطش (فتعلس) اونٹوں

کی پیاس کی مدت سے زیادہ کرنا

اور اونکو پانی سے روکنا —

تعطیط (فتعلس) ایک کو

لینا پانی میں پھاڑنا جدا کرنا

تعطیف (فتعلس) ... کے

کپڑے کی کسی کے لیے چادر بنانا

تکیہ کو دوہرا کرنا — مہربان کرنا —

تعطیل (فتعلس) خالی کرنا

ایک چیز کو ضائع کرنا مہمل کرنا

کسی سے زیور اتار لینا —

تعطین (فتعلس) اونٹوں اور

بکریوں کی خوابگاہ پانی کے

پاس بنانا — اونٹوں کا عطن میں

سیراب ہونا — پوست کو ...

کسی لیے ... دماغ میں کھٹا تا کہ او

بال ... ہو ...

تعظل (فتعلس) جمع ہو آنا —

تعظلم (فتعلس) رات کا تاریک

ہونا اور اوسکا بہت سیاہ ہونا —

تعظم (فتعلس) بزرگی کرنی —

بزرگ ... کرنی —

تعظلت (فتعلس) ایک کام

کرنا جس میں ... الینا —

تعظل (فتعلس) ایک چیز پر

... ساتھ ہونا — گ

تعظیم (فتعلس) بزرگ کرنا — بزر

رکھنا — بزرگی کے ساتھ صفت کرنا

— بزرگ گننا — بکری کی ہڈی ہڈی

کا ٹتنا — امر بزرگ میں داخل ہونا —

تعفج (فتعلس) الوقت کا کج چلنا —

تعفر (فتعلس) خاک آلودہ ہونا

— خاک میں لوٹنا — زمین پر دے مارا

جانا — کسی کا موٹا ہونا —

تعفرت (فتعلس) اسعد میں رسا

اور چالاک ہونا — اسعد میں تیزی خاطر

کے ساتھ مبالغہ کرنا — دو ... بنا

کرنا — ... ہونا —

علامات اعراب ضمہ فتحہ کسرہ سکون ت تشدید وغیرہ

تعاقب (تفاعل) کسی پر ظلم اور ترشح کا پیش آنا —
تعاکس (تفاعل) ایک چیز کا اوپر تلے جمع کر اٹھنا —
تعاکش (تفاعل) شاخ کا خار درخت کے ساتھ آویختہ ہوجانا —
تعاکز (تفاعل) آہن یا چوب دستی پر تکیہ لگا کر آرام کرنا —
تعاکس (تفاعل) سانپ کی رفتار سے چلنا
تعاکش (تفاعل) دشوار ہوجانا — مکڑی کا تاروں کے تننے کے لیے تنے یا شاخوں کو جمع کرنا — ایک چیز کا آپس میں داخل اور کشیدہ ہونا — بالوں کا پیچیدہ اور اوپر تلے جم جانا —
تعاقص (تفاعل) بخیلی کرنا اور ہونا
تعاقط (تفاعل) کام کا دشوار اور پیچیدہ اور سخت ہوجانا — کسی پر دشوار ہونا اور اسکا عدم ہونا — قوم کا اپنے تئیں قید میں رکھنا تاکہ ایک کام میں مشغول رہیں
تعکف (تفعل) اپنے تئیں بند کرنا اور باز رکھنا —

تعکس (تفعل) پیٹ کا شکن سے پیدا ہونا — ایک چیز کا تہ بہ تہ ہونا
تعکیب (تفعیل) آگ کا دھواں نکال لانا —
تعکیة (تفعیل) تلوار وغیرہ کو کھینچنا یا دبنا مرجانا —
تعکیر (تفعیل) الجھانے کو شیرہ ڈالنا یا تیل شیرہ وغیرہ میں ملانا یا پانی کو گدلا کرنا ملیلا کرنا —
تعکیز (تفعیل) نیزہ کی جڑ میں پیچ لگانا
تعکیش (تفعیل) بالوں کا بلبلہ اور گرہ سے لانا —
تعکیظ (تفعیل) پھیر دینا اور حاجت سے روکدینا کسی کی حاجت کو روکنا اور بند کرنا — نصیحت میں زیادتی کرنی
تعکیف (تفعیل) موتی کو لڑی میں پرونا یا بال گوندھنے
تعکیم (تفعیل) اونٹ کا اتنا بوجھ اٹھانا کہ اسکی چربی تہ بہ تہ ہوجاوے
تعکل (تفعل) جلوس کی سوزش
تعلامة (تفعلة) نہایت علامہ
تعلق (تفعل) آویختہ ہونا لٹکانا

| مادہ |
|---|
| [illegible] |

[illegible]



ج

علامات اعراب + مفکیستم ملے جن ضمہ فتحہ کسرہ سکون تشدید

| مادہ | | |
| --- | --- | --- |
| عقد<br>عقب<br>عقر<br>عقص<br>عقف<br>عقل<br>عقم<br>عقی | تعقد (تفعّل) شیرہ کا گاڑھا ہونا۔ قوس قزح کا عقدہ بنا کی مانند ہونا۔ کوئیں کی لمند سفل کا اوپر کو نکل آنا اور لمند اعلیٰ کا کوئیں کی جڑ ائی اور کشادگی میں گھس جانا۔ گاڑھا۔ دلدار ہونا۔ ریت اور ریگے وغیرہ کا گرہ باندہنا۔<br>تعقص (تفعّل) منہہ کا ہمیشہ ترش رہنا۔ ساونتی کی چیزی کا تمام ہونا۔ میں گیٹھا ہوا ہونا۔ گھاس کا لینا ہونا۔<br>تعقف (تفعّل) کج اور خم ہونا۔<br>تعقر (تفعّل) ہلاک ہونا۔<br>تعقل (تفعّل) دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے میں ڈالنا تاکہ کہڑے اونٹ پر سوار ہوجاوے۔ پانوں کو دوہرا کر کے زین یا مقدم زین کے آگے رکھنا۔ اپنے میں ہوش پیدا کرنا۔<br>تعقم (تفعّل) آمدورفت کرنی۔<br>تعقیب (تفعیل) میوہ عرفج کا زرد ہونا۔ کسی کے پیچھے سے آنا۔ دوڑ سے کرنا۔ ایک سال میں دوبارہ جنگ کفار میں جانا۔ | ایک چیز کی طلب میں کوشش کے ساتھ تردد اور دوڑ دھوپ کرنی۔ ایک کام کو دوبارہ کرنا۔ ایک چیز کا بدل لینا۔<br>تعقیب فی الصلوٰۃ نماز کے پیچھے دعا کے لئے بیٹھنا۔ نماز کا انتظار کرنا۔ نماز میں ٹیک کرنی۔ نماز میں التفات کرنا۔ تراویح کے بعد نماز پڑھنا۔<br>تعقیبہ (تفعلۃ) لڑکے کو ایسی چیز کہلانی کہ جس سے اوسکو پیشاب اور پاخانہ آوے۔ تیر کو اوپر کی طرف پھینکنا۔ پرند جانور کا بلند اوڑنا۔<br>تعقید (تفعیل) جوش دینا اور گاڑھا کرنا۔ بنا کو گرہ دار کرنا۔ نے لڑا اور رشتہ قسم کہانی۔<br>تعقیر (تفعیل) ایک چیز کو کج کر دینا۔<br>تعقیل (تفعیل) اونٹ کی ساق اور سُم کو آپس میں باندھنا۔ کسی کو غافل کر دینا۔ کسی کی عقل کی طرف منسوب کرنا۔ انگور کا عقد وغیرہ نکال لانا۔<br>تعقیم (تفعیل) بانجھ کر دینا۔ خاموش کرنا چپ کرنا۔ |

[illegible]

[illegible]

تعمّق (تفعّل) کلام میں [illegible]

کرنا [illegible] کلام کے معنی کو پہنچنا

تعمّل (تفعّل) کسی کے لیے سختی

کھینچنا یا خود ایک کام قبول کرنا

تعمّی (تفعّل) اندھا ہو جانا

تعمیت (تفعیل) [illegible] اور سمجھ کی

بات کے لیے پوشیدہ [illegible]

تعمیۃ (تفعیل) [illegible] بات کو پوشیدہ

کرنا۔ اندھا کر دینا

تعمیل (تفعیل) [illegible] کو عامل [illegible]

[illegible]

اور [illegible] عزت کرنی اور [illegible]

[illegible] اور [illegible] وغیرہ

سے [illegible] کرنا

تعمیش (تفعیل) [illegible] کر دینا

بیمار کے جسم کو [illegible]

کلام میں [illegible] غلطی کرنی [illegible]

کی اصلاح کرنی [illegible]

تعمیق (تفعیل) گہرا کرنا

کلام میں [illegible] کرنی

تعمیل (تفعیل) [illegible]

کسی کام کو مضبوط کرنا

تعلق ... شخص ... اختیار

تعالج ... شخص ... علاج ... کرنا

رنگ کا جمع ہونا

تعاقل ... شخص ... عقل ...

تعلیل ... شخص ... بیماری

سبب ... کرنا

کھانا ... مجبور ... کرنا

تعلم ... شخص ... کام ...

کلام ... پیش کرنا

تعلم ... شخص ... سیکھنا ... جاننا

کام کو ... کرنا

تعلق ... شخص ... ہونا ... چیز

دوسرے ... سبب ... ہونا

تعلیق ... شخص ... ایک چیز کو

دوسری چیز کے ساتھ ... کرنا ... متعلق

تعلیف ... شخص ... اور ... کا

تعلیق ... شخص ... ایک چیز کو لٹکانا

جیسے ... کا ... ہونا

تعلیم ... شخص ... سکھانا ... ایک ... کا خط ...

تعلیل ... شخص ... قطع کرنا

سے نا امید ہوجانا ۔ عنوان کتاب لکھنا ۔ عنان بنانی ۔ نامردی
تعنیث (بفتح) نامردی ۔
تعنیۃ (بفتح) قیدی کرنا ۔ روکنا ۔
خارشتی اونٹ کو اوسکا پیشاب اور گوبر دونون ملا کر ملنا ۔ رنج دینا ۔ سرنامہ لکھنا ۔ کتاب میں نشان کرنا ۔ خارشتی اونٹ کو ملنا ۔
تعویث (بفتح) سرگشتہ و متحیر ہوجانا
تعویج (بفتح) ٹیڑھا ہوجانا ۔
تعوید (بفتح) ایک چیز کی عادت کرنی ۔ خشمناکی کرنی ۔
تعوذ (بفتح) اپنا ہ لیجانی ۔
تعویر (بفتح) اعاریت لینی یعنی پھیر دینے کی نیت سے ایک چیز کو لینا ۔
تعویض (بفتح) عوض لینا ۔
تعویط (بفتح) یعنی گردن کا ہونا ۔ برسون تک اونٹنی کا حاملہ نہونا بغیر بانجھ ہونے کے ۔
تعویف (بفتح) رات کو شکار کے پیچھے پھرنا ۔ بعد اوسکے اوسی جگہ میں فقط شکار کرنے ۔
تعویق (بفتح) ہیا زوجانہ

سے مُہر ہوجانا ۔ مشغول ہونا ۔
تعویۃ (بفتح) پیچیدہ کرنا ۔ حلقہ یعنی شتر مہر اور کمان کو خم دینا ۔ رسی بٹنی ۔ کسی کی بات کو جھوٹ رکھنا اور اوسے رد کرنا ۔
تعویث (بکسر) کسی کو روکنا اور اوسکو تاخیر اور درنگ پر رکھنا ۔ کسی کو کام سے پھیر دینا اتنا کہ سرگشتہ اور متحیر ہوجاوے ۔
تعویج (بکسر) کم کر دینا ۔ عاج سے کسی چیز کو مرکب کرنا اور اوسکے ساتھ مرصع کرنا ۔
تعوید (بکسر) عادہ کھانا کھانا ۔ ایک چیز کی عادت کر لوینی ۔ اونٹ کا کلان سال ہوجانا ۔
تعویذ (بکسر) جو کچھ کہ دعا و آیات قرآن میں سے لکھکر حصول مقصد اور دفع بلا کے لیے اپنے ساتھ رکھتے ہیں ۔ کسی کی روکنا چاہنا ۔ کسیکو ملتجی کر دینا ۔
تعویر (بکسر) کانا کر دینا ۔ سماد کا ازالہ کرنا ۔ کسی کو لوٹنے کے لیے آگے لانا اوسکے احتیاج

| ماده |
| --- |
| ع ن ن |
| ع ن ی |
| ع ن ت |
| ع و ث |
| ع و ج |
| ع و د |
| ع و ذ |
| ع و ر |
| ع و ض |
| ع و ط |
| ع و ف |
| ع و ق |
| ع و ی |
| ع و ث |
| ع و ج |
| ع و د |
| ع و ذ |
| ع و ر |

مادہ

دینا کسی کو امارت دینا اور ایک قوم پر مشغول عہدہ حاکم کرنا۔
تعمیم رفتکس سردار کردینا عمامہ پہنانا۔ سب کو شامل جاننا یا کسی کو گھیر لینا۔ وعدہ کا جھگڑے آنا۔
کسی کو عمامہ پہنانا سر پر عمامہ باندھنا۔
تعمین رفتکس یمن اعمان۔
تعمیہ رفتکس کسی پر امر حق کو پوشیدہ کرنا اور دشمنی اور سختی کرنی۔
تعفص رفتکس اینٹھنا سختی کرنی۔
تعقص رفتکس سخی ہونا۔
شبکی سے بنگی نفتی گہر دن کشتی۔
تعنق رفتعص گردن کسی چیز کا اپنے منہ میں گھسانا۔
خرگوش کا اپنے سر کو گردن میں ہاتھ کرنا۔
تعنک رفتعص ریت کا بلند ہوجانا اور اوسکا بلند ہونا۔
تعنکث رفتعص ایک چیز کا جمع ہو آنا اکٹھا ہو جانا۔
تعلکش رفتعص بالوں کا آپس میں لپٹنا اور جم کر بیٹھنا۔
تعنوق رفتعص آسمان اور نرم زمین۔ تعانیق رفتکس جمع۔

تعنی رفتکس رنج کھینچنا رنج کو کسی کے ساتھ منانا عہد کرنی اور کے لیے دکھ اٹھانا یا سختی اور نب کا رنج میں آلودہ ہونا۔
تعنیب رفتکس انگور کا خوشہ نکالنا۔
تعنیت رفتکس [illegible] کسی کے نزدیک دشوار کام کو کہ جسکو ادا کرنے سکے۔
تعنیس رفتکس لڑکی کا گھر میں بغیر خاوند کے دیر تک رہنا لڑکی کا نکاح نکردینا العزاوسکا گھر میں دیر تک بیٹھا رہنا۔
تعنیف رفتکس سرزنش سخت کرنا درشتی کے ساتھ ملامت کرنی۔
تعنیق رفتکس بلند اور سخت زمین پر چلنا اور سیر چھوٹے رہنا شگوفہ خرما کا پھیلنا اور جا نکلنا تا سر میں رطب لٹنے لگنا وغیرہ انگور کا قمع کی طرف سے اور قمع جانب اسفل خرما ہی کسی کو نصیحت کرنا کسی کی گردن کو پکڑنا۔
تعنین رفتکس قاضی کا کسی نامردی کا حکم کرنا۔ یا کسی کا جادو

تعیین (تفعیل) کسی چیز کا [illegible] ہونا [illegible] ظاہر کرنا۔ ایک چیز [illegible] کے سبب ورنگ کرنی [illegible] کسی یقینا دیکھنا۔ اعانت [illegible] نزدیک آنا۔ [illegible] کا چشمہ ہو جانا۔ مال کو آنکھ میں [illegible] اور تاڑ لینا۔ ایک چیز کا مخصوص [illegible]

تعیّی (تفعّل) کلام میں عاجز ہونا اور راہ میں راہ نہ پانی۔ کلام [illegible] اور درست نہ کر سکنا کام کا دشوار ہونا

تعییب (تفعیل) عیب دار کر دینا کسی کو عیب کی طرف نسبت کرنا۔

تعییر (تفعیل) کلام کا دشوار ہونا

تعییث (تفعیل) تاریکی میں ہاتھ سے ایک چیز کو ڈھونڈھنا۔ کسی میں آمیختہ ہو جانا اور [illegible] میں [illegible] فعل [illegible] کذا [illegible] اوس نے شروع کیا ایسا کرنا۔

تعیید (تفعیل) عید کے دن [illegible]

تعییر (تفعیل) کام کا کسی کو عیب ناک کر دینا۔ سرزنش کرنی ہر ایک جرم کو جدا جدا پہنچانا

[illegible] کا [illegible]

تعیش (تفعیل) زندہ کرنا

تعیّط (تفعّل) [illegible] [illegible]

تعیّع (تفعّل) [illegible] کا [illegible] کرچہ کا [illegible] میں عاجز ہونا

تعیّن (تفعّل) آواز [illegible]

تعییل (تفعیل) عیال داری کی نفقہ دینا کسی کو عیال کر دینا

تعیّی [illegible] چھوڑ دینا [illegible] جنگل میں چھوڑ دینا۔ [illegible] ہونا [illegible] کرنا اس طرح پر کہ [illegible] معلوم نہ ہو سکے

تعیین (تفعیل) [illegible] فرض بے نفع دینا [illegible] کا سبز ہونا اور شگوفے آنا کسی کا میعادی اسباب کو بیچنا اور پھر کم قیمت پر خرید لینا۔ قوم کے درمیان جاسوس کو وا کر دینا۔ موتی میں سوراخ کرنا [illegible] ہونا کسی کے منہ پر اوسکی بدی کو کہنا۔ مشک میں پانی ڈالنا تاکہ اوسکے چشمے بند ہو جاویں۔ معین کرنا۔ تمام میں سے ایک چیز کو مخصوص کرنا۔ صاف صحیح کرنا۔

عیب جھوٹ کہنا الفاظ [illegible]
[illegible] چھپا جانا ـ بانسکہنا ـ بچھیرنا
[illegible] وغیرہ کو انٹ دینا ـ
تعویل (ف) وسکس ـ کسی پر کام
اور [illegible] مشغول لائق ـ
تعویض (ف) وسکس ـ عوض دینا
تعویق (ف) وسکس ـ توقف [illegible]
رکھنا ـ باز رکھنا ـ مشغول کرنا ـ
تعویل (ع) وسکس ـ کسی سے مدد
چاہنی ـ بھروسا اور [illegible] آرام
لانی ـ ناز کرنا ـ کسی پر بوجھ رکھنا
ایک ایسی چیز [illegible] کے ساتھ
[illegible] کر [illegible] سے تسکین
تعویم (ع) وسکس ـ اکٹھی ہوئی
[illegible] کو بستہ [illegible] رکھنا ـ [illegible]
[illegible] برس بھر کا ہونا ـ
تعوین (ع) وسکس ـ مدد کرنی ـ
میانہ سال ہونا گدھے کا [illegible]
[illegible] چڑھنا ـ [illegible] کے
[illegible] میں داخل ہونا ـ
تعویہ (ع) وسکس ـ [illegible]
[illegible] رسیدہ ویران ہونا ـ [illegible]
[illegible] کسی جگہ بند ہو جانا ـ

[illegible] عضو عضو
[illegible] کاٹنا ـ
تعہد (ع) تفعل ـ عہد [illegible] کرنی
پیمان [illegible] عہد کو تازہ کرنا ـ
[illegible] ڈھونڈنا
تعیب (ع) تفعل ـ [illegible] کا عیب
[illegible] بیان کرنا ـ
تعید (ع) تفعل ـ نظر [illegible] نظر
لگانے میں [illegible] کرنا ـ
تعیر (ع) تفعل ـ [illegible]
اور [illegible] حاصل ہونا ـ
تعیش (ع) تفعل ـ تکلف سے
اسباب عیش [illegible] لیے معاش
کو طلب کرنا ـ [illegible]
تعیط (ع) تفعل ـ [illegible] کا ہونا
[illegible] کا [illegible] ہونا
[illegible] پتھر اور لکڑی کا
[illegible] سے پانی
[illegible] نکلنا اور [illegible] جانا یا
[illegible] ہونا [illegible]
[illegible] کا شور [illegible] کرنا [illegible]
تعیل (ع) تفعل ـ [illegible] چلنا
[illegible] ہونا [illegible] میں ناز کرنا ـ

[illegible]

عیب ناک ہونا۔
تعصیب رفعل امر بہ تہمت۔
تعضیۃ رتفعلۃ جھوٹی گواہی۔
تعضیر رتفعیل عورت سے غرض حاصل کرنا۔ تقسیم دو دو کو دو ہنا ایک خیچا باقی سے آگے کو لینا۔
تعضیش رتفعیل جور و ستم کرنا کسی چیز پر دعوا و باطل کرنا۔
تعشیق رتفعیل شام کے وقت رہنا۔
تعقیب رتفعل ایک امر میں مبالغہ کر کے ترک کر دینا جیسے کا بکری سے کے گلے کو پکڑنا تاکہ ہم سے ایک امر کو دور کرنا۔
تعقیۃ رتفعلۃ پوشیدہ ہونا بالوں کا کوتاہ کر دینا اعداوں کو جیسے لوکھا ڈالنا۔
تعقیر رتفعیل ایک چیز کو غبار آلودہ کرنا۔ گرد اور کھانی سے بار بار لا الٰہ الا اللہ کہنا۔ کام پر برانگیختہ کرنا۔ ورغلانا۔
تعقیص رتفعل آدمی کا روٹھ چلے کے وقت اسکی ناک کا آنسو دیکھنا۔
تعقیط رتفعل کسی کو آہستہ آہستہ کرنا۔

تعنیش رتفعل بعض کا بعض کو غش میں ڈالنا۔
تعقیش رتفعل رنگ غشی کی فی النعم رنگ نکلنا خوب ہنسنے کھلکھلانا جیسے کہتے ہیں۔ اقبلوا تغ تغ۔
تعقعہ رتفعلۃ لباس کی آواز ہنسی کی آواز۔ گونگا ہونا۔ بات میں عاجز رہنا کلام واضح کہہ سکنا۔
تعقیث رتفعل اونٹ کا تھوڑا سا موٹا ہو جانا۔
تغدن رتفعل خرم کھانا اور سیلی کرنا۔
تغدی رتفعل چاشت کھانی۔
تغدیۃ رتفعلۃ چاشت کھلانی۔
تغدید رتفعل اونٹ کا ودیا مارا ہونا۔ اپنا حصہ لینا۔
تغذرم رتفعل سوگند کھانی اور اسمیں تردد اور اندیشہ نہ کرنا۔
تغذمد رتفعل کھودنا۔
تغذم رتفعل چکھنا بہت کھانا قطع کرنا۔
تغذمر رتفعل آواز چتر یاد کسی کلام کو درہم برہم کرنا۔

ماده
رعب
تعجب
نعبہ
عضب
نعمہ
نعبش
عبص
نعب
عصب
عیص
اصل
لاغن
لاغی
غزو
لغذ
غذم
غذرم
غذمد
غذمر

مادہ

تغابن (رفسفض) بعض کا بعض کو نقصان میں ڈالدینا۔

تغابی (رفسک) غفلت اختیار کرنی

تغاذّ (رفسض) بہ جز تجاوز (فسض) جرح زخم جسکا خون بند نہو۔

تغارّہ (رفسف) اونٹنی کے دودھ میں جھاگ تھوڑے سے نکلے اور بہت تیز چلے

تغاریز (رفسکس) ہلال غرہ ماہ سے جو چیز کہ لیلی جاوے۔

تغازر (رفسفض) کسی کے ساتھ خصومت بعد لڑائی کرنی۔

تغازل (رفسفض) آپسمین غزل سے بات چیت کرنی آپسمین عشق کرنا

تغازی (رفسک) آپس مین جنگ و جدل کرنی۔

تغاضی (رفسک) ایک چیز سے بیخبری کرنی غفلت کرنی۔

تغاطس (رفسفض) غفلت آشنا کرنی آپسمین ایک دوسرے کو پانی مین نیچے لیجانا۔

تغاطش (رفسفض) غفلت اختیار کرنی اپنے تئین اندھا کرنا۔

تغافل (رفسفض) قصداً غافل ہونا ایک چیز سے چشم پوشی کرنی

تغالی (رفسک) گھاس کا بڑھنا پھولنا اور اوسکا پیچیدہ ہونا اور انبوہ دار ہونا۔ گوشت کا جاتا رہنا۔ اونٹنی وغیرہ کا دبلا ہونا۔ نرخ کا مہنگا ہونا۔ تیر کی دوڑ اندازی مین آپسمین مقابلہ کرنا۔

تغامج (رفسفض) پانی پینا چوسنا۔

تغامز (رفسفض) ایک کا دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرنا۔

تغاور (رفسفض) آپسمین ایک دوسرے پر غارت لانی۔

تغاوط (رفسفض) آپسمین ایک دوسرے کو پانی مین لیجانا۔

تغاوی (رفسک) بدی اور گمراہی پر جمع ہو آنا اور اوسپر مدد کرنی۔

تغایب (رفسفض) غائب ہونا۔

تغاید (رفسفض) نرمی اور نزاکت کے سبب دوہرا ہو جانا۔

تغب (رفف) (رس) ہلاک ہو جانا۔ فاسد ہونا۔ قحط۔ چیز کی گرسنگی۔ عیب۔ چرکین ہونا۔ بھوکا ہونا۔

له عندنا قف ١٢

کردینا۔ کسی کو تاوان زدہ کردینا۔

تغزل (تفعل) بہ تکلف معاملات کرنی اور عشق بازی کرنی۔

تغریۃ (تفعلۃ) دشمن کی جنگ پر برانگیختہ کرنا۔

تغزیر (تفعیل) دودھ کم ہوجانا، ہوت میں ایکبارہ دودھ دوہنا کم شیری اونٹنی کے وقت۔

تغس (فعل) تھوڑا سا ہلکا بادل۔

تغشر (تفعل) کام کا مشتبہ ہوجانا۔ دوسرے کا پیچیدہ اور مبہم ہوجانا۔ لکڑیکا تالاب میں پڑنا۔

تغسل (تفعل) غسل کرنا۔

تغسیل (تفعیل) بہت جماع کرنا۔ بدن دہونے میں مبالغہ کرنا۔

تغشم (تفعل) ستم کرنا۔

تغشمر (تفعلل) قہر سے ایک چیز کو لینا۔ غصہ کرنا۔

تغشی (تفعل) بنگنی وغیرہ کا تالاب وغیرہ کے پانی کے سرپر آنا۔

تغشی (تفعل) ڈہانک لینا۔ کسی کو کام کا دبالینا۔

تغشیۃ (تفعلۃ) پردہ ڈالنا۔

اندہا کردینا۔ کسی کو دبالینا ڈہانک لینا۔ تازیانہ سے کسیکو دبالینا۔

تغشیش (تفعیل) جو کہ دل مین ہے اوسکے برخلاف کرنا۔ خالص نہ لے غرض نصیحت دینی۔

تغضب (تفعل) غصہ مین لانا۔

تغضر (تفعل) ایک چیز سے پہر جانا۔

تغضغض (تفعلل) کم ہونا۔

تغضف (تفعل) رات کا کسی کو ڈہانک لینا۔ کسی پر دنیا کا پیش آنا اور اوسپر اوسکی خیر اور نفع کا زیادہ ہونا۔ جہریان پڑا چہرہ ہوجانا خمیدہ ہونا۔ دوہرا اور کج ہونا۔ کوئین کا ٹوٹ جانا اور پھٹ جانا۔ سانپ کا حلقہ باندہنا۔

تغضن (تفعل) جہریان پڑا چہرہ ہوجانا۔ سمٹے ہوئے پوست کا ہوجانا۔

تغضیض (تفعیل) تازہ چیز کھانی۔ بانازونعمت ہونا۔ کسی کو نقصان اور خواری پہنچنی۔

تغضیف (تفعیل) عشق کا حصول کیسے لے جانا۔

تعجیج (تفعّل) ہکلانا —

تعذیر (تفعّل) جوزش بیج پانا — اونٹ کا پیشاب کو منقطع کر دینا — خون کا رگ سے جاری ہونا

تعران (تفعّل) رات میں اٹھ کر چوپایوں کو مارنا — اور ملنا —

تغرب (تفعّل) مغرب کی طرف سے آنا — سعدی قبول کرنی — دور جانا — جدا ہو جانا —

تغرد (تفعّل) پرندہ کا آواز کو بلند اور طرب انگیز کرنا — اور گلے میں پھرانا

تغرص (تفعّل) شاخ کا شگفتہ ہوتا اور جدا ہو جانا —

تغرغر (تفعلل) حلق میں پانی پھرانا — یعنی غرغرہ کرنا —

تغرف (تفعّل) سب کو گھیر لینا —

تغریث (تفعیل) سفر میں بعد ہو جانا — پوشیدہ اور پنہان اور غائب ہونا — سیاہ بچہ جننا — سپید بچہ جننا — بعد دور ہونا — مغرب کی طرف جانا — برف — کھانی — شہر سے باہر نکالنا — دور کر دینا

تغریة (تفعیل) چسپاں کرنا — ملانا

تغریث (تفعیل) بھوکا کر دینا —

تغرید (تفعیل) پرندوں کا چہچہانا

تغریر (تفعیل) اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنا — کنویں کو گرا کرنا — جانور کا دودھ لینے کے لئے قصد کرنا — اور اس کے بازو پھیلانا — بچہ کے دانت نکلنا —

تغریز (تفعیل) اونٹنی کا دودھ ترک کر دینا — یا اونٹنی کی پستان پر سر باندھنا — اور اسکا دودھ منقطع ہو جاوے — دو نوبت دوہنے کے درمیان ایک نوبت چھوڑ دینا — ٹڈی کا دم کو زمین میں گھسانا تاکہ انڈا دیوے —

تغریض (تفعیل) ایک چیز کو تر و تازہ درخت پر سے توڑنا — یا اوسکا تر و تازہ کاٹنا — بچہ کو دودھ سے باز رکھنا — وقت سے پہلے تازہ گوشت کھانا — اور اس سے نقل کرنا — برتن کو آدھا پر کرنا —

تغریق (تفعیل) ڈبو دینا — کمان کو زور سے کھینچنا — اٹھانا

تغریم (تفعیل) کسی کو قرض ادا

تغالج (تفاعل) جور وستم کرنا ۔ بے فرمانی کرنی ۔ گدھے کا پانی پینا اور منہ میں اوسکا زبان پھرانا ۔

تغاس (تفاعل) بلا وسختی ۔ زشت ۔ زبون ۔ برا ۔

تغالط (تفاعل) غلطی میں ڈالنا ۔ غلطی میں پڑجانا ۔

تغلغل (تفعلل) جدا ہونا ۔ شتابی کرنی ۔ اپنے تئین خوشبو لگانی ۔ درختوں کے درمیان پانی کا جاری ہونا ۔

تغلف (تفعل) غلاف پانا ۔ سالن اور داڑھی کو غالیہ کرنا ۔

تغلل (تفعل) داخل ہونا ۔ سابہنے تئین خوشبو ملنی ۔

تغلی (تفعل) غالیہ کا خضاب کرنا ۔

تغلیث (تفعیل) غالب کردینا ۔

تغلیۃ (تفعلۃ) ہانڈی کو جوش دینا ۔ دور سے سلام کرنا ۔ اشارہ کرنا ۔

تغلیس (تفعیل) تاریکی آخر شب میں جانا ۔ تاریکی آخر شب میں پانی پر وارد ہونا ۔

تغلیط (تفعیل) کسی کو غلط کی طرف منسوب کرنا ۔

تغلیظ (تفعیل) ایک چیز کو گاڑھا کرنا ۔ کسی پر سخت کرنا ۔

تغلیف (تفعیل) شیشے کو غلاف میں کرنا ۔

تغلیل (تفعیل) کسی کے بالوں میں غالیہ ملنا ۔ کسی کو خیانت کی طرف منسوب کرنا ۔

تغماض (تفعال) خواب ۔

تغمد (تفعل) ڈھانک لینا ۔ پوشیدہ رکھنا ۔ آبخورہ کو پر کرنا ۔

تغمر (تفعل) زعفران میں رنگنا ۔ چھوٹے پیالے سے پانی پینا یا سیری سے کم پانی پینا ۔ چارپایہ کا غیر گھاس کو چرنا ۔ عورت کا اپنے چہرہ پر صفائی رنگ کے لیے غمرہ ملنا ۔

تغمط (تفعل) کسی کو خاک میں ڈھانک لینا ۔

تغمغم (تفعلل) ناظاہر بات کہنی ۔ ناظاہر کلام ۔ لڑائی میں دلاوروں کی آواز ۔

تغمل (تفعل) مجلس میں فراخ بیٹھنا ۔ فراخی اور کشادگی ۔

تغمیۃ (تفعلۃ) بالاخانہ بنانا

ماده

غلط

غلظ

غلف

غلق

غلل

مادہ

غضن
غطرس
غطرش
غطرف
غطش
غطغط
غطمط
غطی

۷۵۴

تغضین (تفعیل) اوٹنی کا ناتمام بچہ ڈالدینا ـ جہریان پڑا ہوا چہرہ کردینا ـ

تغطرس (تفعلل) ناز سے چلنا سیدھے راہ چلنا ـ خشمناک ہونا ظلم وستم کرنا ـ بخیل ہوجانا ـ سینگ کا منتشی کرنی ـ

تغطرش (تفعلل) ایک چیز سے اندھا ہون اور کور ہیان کرنا ـ

تغطرف (تفعلل) رگ منتشی کرنی

تغطش (تفعل) اندھا ہون اور کھو پن کرنا ـ آنکھ کا تاریک ہونا ـ

تغطغط (تفعلل) موج دریا کا جوش مارنا ـ ایک چیز کا پراگندہ ہوجانا

تغطمط (تفعلل) دیگ کا جوش کرنا ـ دیگ کا جوش اور خروش ـ موج کا جوش وخروش اور اوسکا اضطراب ـ آواز کہ جسمین رکاپن اور بیٹھاپن ہووے شادمانی کی آواز ـ

تغطی (تفعل) ڈھانک لینا ـ

تغطیہ (تفعیل) رات کا کسیکو اپنی تاریکی مین چھپالینا اور کسی چیز کو ڈھانک لینا ـ

تغطش (تفعل) اندھے جیسی اور تدبیر کرنی علم کی بات سوچنی ـ

تغفر (تفعل) مغفر پہننا اور مغفر ایک قسم کا رشت اور شلغم وغیرہ ہی یا ایک چیز ہی شلغم کی مانند مثل شہد شیرین کہ پیدا ہو عشر اور رمث گیاسون سے پیدا ہوتی ہے ـ

تغفق (تفعل) سالہی رات شراب پینی

تغفل (تفعل) قصداً غفلت کرنی ـ

تغفیق (تفعیل) سکر خوابی مین سونا کہ جسمین آدمیون کی آواز سنی جاوے ـ سانپ کاٹے کا علاج اور اوسکو بیدار رکھنا ـ یا ایک قسم کی خواب وغفلت کہ بیخوابی مین طاری ہووے ـ

تغفیل (تفعیل) کسی کو بیخبر کہنا کسی کو غافل سمجھنا ـ احمق گردانا ـ ڈھکنا ـ چھپانا ـ

تغلب (تفعل) غلبہ تمام سے ایک چیز پر قادر رہنا ـ

تغلت (تفعل) کسی کو غفلت اور بیخبری مین جا پکڑنا ـ

علامات اعراب ضمہ فتحہ کسرہ سکون تشدید

| مادہ | | |
|---|---|---|
| غول<br>غون<br>غوی<br>غوث<br>غور<br>غوط<br>غوغ<br>غنی<br>غیب<br>غیث<br>۷۵۹<br>غیر<br>غیض<br>غیظ<br>غیف<br>غیق<br>غیل<br>غیم<br>غیب<br>غیر | شاخ درخت کا جھکنا ۔ گھوڑے کا<br>چپ و راست مین سے ایک جانب<br>میل کرنا چلنے مین ۔<br>تغیق ۱۳ (تفعّل) آنکھ کا تاریک ہونا<br>تغیل ۱۴ (تفعّل) درخت کا آپس<br>مین شاخ کا لپٹا ہوا ہونا اور سایہ<br>افگن ہونا ۔ قوم کا بہت مالدار ہونا<br>اور اونکا انبوہ ہونا ۔<br>تغیم ۱۵ (تفعّل) ہوا کا ابر پہنچا دینا<br>یعنی ہوا کا ابر لے آنا ۔<br>تغیہق ۱۶ (تفعّل) آنکھ کا سست ہو جانا<br>تغیب ۱۷ (تفعّل) ناپدید ہو جانا<br>تغیر ۱۸ (تفعّل) ایک حال سے<br>دوسرے حال پر پھر دینا ۔ لوٹا دینا<br>تغیض ۱۹ (تفعّل) کم کرنا ۔ اشک<br>کو روکنا ۔ شیر کا جنگل مین جگہ پکڑنا<br>تغیظ ۲۰ (تفعّل) غصہ مین لانا<br>تغیف ۲۱ (تفعّل) بھاگ جانا ۔<br>بزدل ہو جانا ۔ راہ سے گذر جانا ۔<br>تغیق ۲۲ (تفعّل) مال کو تباہ<br>کر دینا ۔ بینائی کو خیرہ کر دینا<br>مختلط رائے ہو جانا اور ایک چیز<br>پر ثابت نہ رہنا ۔ | مین جانا اور قضائے حاجت کرنی<br>تغول ۱ (تفعّل) رنگ برنگ<br>ہونا ۔ ہلاک کرنا ۔<br>تغون ۲ (تفعّل) گناہ پر اصرار کرنا<br>پیش آنا جنگ مین شجاعت کرنی ۔<br>تغویۃ ۳ (تفعیل) گمراہ کرنا ۔ دودھ<br>کو دہی اور گاڑھا کر دینا ۔<br>تغویث ۴ (تفعیل) واغوثاہ کہنا ۔<br>تغویر ۵ (تفعیل) غور مین جانا ۔<br>پانی کا زمین مین گھسجانا ۔ آفتاب کا<br>غروب ہونا ۔ دوپہر مین داخل ہونا ۔<br>دوپہر کے وقت اوتر آنا ۔ دوپہر کے<br>وقت سونا ۔ دوپہر کے وقت جانا<br>شکست کھانی ۔ گذر جانا ۔<br>تغویط ۶ (تفعیل) لقمہ نگلنا ۔ بڑا<br>لقمہ لینا ۔ کوئین کو گہرا بنانا ۔<br>تغیّخ ۷ (تکفّل) بڑے زور کی ہنسی<br>تغیب ۸ (تفعّل) ناپدید ہو جانا ۔<br>تغیث ۹ (تفعّل) موٹا ہونا ۔<br>تغیر ۱۰ (تفعّل) اپنے حال سے بدلجانا<br>تغیظ ۱۱ (تفعّل) غصہ مین ہونا ۔<br>دوپہر کا بہت گرم ہونا ۔<br>تغیف ۱۲ (تفعّل) دائین بائین |

تغیم ۲۰ غیم ۱۲ غیض ۱۲ غیم ۱۲

مادہ

غمد — غمر — غمس — غمض

تغمید (تفعیل) انگ و عیب کو جو اوس سے ظاہر ہوتا ہی پوشیدہ کرنا۔

تغمیر (تفعیل) دور کرنا پھینکدینا۔ عورت کا اپنے چہرہ پر صفائی کے لیئے غمرہ ملنا۔ تنگی آب کے سبب گھوڑے کو پیالہ میں پانی پلانا۔

تغمیس (تفعیل) کم پینا۔

تغمیض (تفعیل) کلام کو بعید اور باریک معنی کرنا۔ کسی سے خرید و فروخت میں آسانی رکھنی۔ آنکھ بند کرلینی۔ گھاٹ سے اونٹ ہنکا ہوئے کا ہنکانے والے پر آنکھ بند کرکے حملہ کرنا اور اوسکا پھر پانی پر پہنچنا۔ ایک کام کی حقیقت کو جان بوجھ کر اوس میں جاری ہونا۔ خراب کرنا۔ مبیع کو کم قیمت کردینے کا قصد یا ارادہ کرنا۔

تغمیم (تفعیل) پوشیدہ کرنا۔

تغنث (تفعّل) ہمیشہ جانا۔ ملانا ہونا۔ بھاری ہونا۔

تغنشر (تفعلل) بے پیاس پانی پینا۔ سر کے بالوں کی کثرت۔

تغنج (تفعّل) ناز و کرشمہ دکھانا۔

تغنیم (تفعّل) غنیمت گننا۔

تغنی (تفعّل) گانا۔ راگ گانا۔ عورت سے عشقبازی کرنی۔ سراہنا یا کسی کی مذمت کرنی۔ بے نیاز ہو جانا۔

تغنیہ (تفعلہ) راگ گانا۔ عورت کے ساتھ عشقبازی کرنی۔ کسی کی تعریف کرنی یا کسی کی مذمت کرنی۔ کبوتر کا آواز کرنا۔

تغنیم (تفعیل) کسی کو غنیمت دینا۔

تغنیق (تفعیل) کسیکو غش کرنا۔

تغوث (تفعّل) (ف) ہنسی کو چاہنا کہ چھپا دیں لیکن ہنسنے کا ہلاک ہونا۔

تغوج (تفعّل) ٹیڑھا ہو جانا۔ خمیدہ ہو جانا۔

تغور (تفعّل) (ف) کود کر نکلنا خون کا رگ میں سے جاری ہونا اور پانی کا مشک کی درز سے بادل کا مینھ کو گرانا۔ کہتے ہیں کا پیشاب کرنا۔

تغور (تفعّل) جمع زمین آنا۔

تغوط (تفعّل) قضائے حاجت کے لیئے کسی گڑھے

تقاعس (فتح) اعراض کرنا، پیچھے ہٹنا۔ تقاعد (فتح) ... تقاعس (فتح) بیٹھ رہنا

تقاسمی (فتح) باہم تقسیم کرنا
جانا ... کی پھیلانا ۔
تقاصح (فتح) پیچھے بننا
تقاضی (فتح) آپس میں ادا ...
... زیادتی ...
تقاطع (فتح) قطع کرنا ایک دوسرے کے
... کا دو دوست چھوڑ
دینے کے بعد پھر ... شیفتہ ہو جانا
تقاطر (فتح) ... قطرہ قطرہ
ٹپکنے ... کا ہو جانا
... کا ... سے کھینچنا اور سرکشی
... ہو جانا ... اور
... پھر جانا ۔
تقاعس (فتح) ایک دوسرے
کی طرف پشت کرنی ۔
تقاعد (فتح) ایک دوسرے کو ... بیٹھنا
تقافش (فتح) ایک دوسرے
کے سر کو نیچے کھینچنا ۔
تقاقع (فتح) آنکھ کا سفید ہو جانا
تقامس (فتح) کام کا ... ہونا
تقال (فتح) بمعنی نقل
تقاکی (فتح) ... ہونا
تقالی (فتح) وقت ۔

تقالی (فتح) ... اور ...
ایک دوسرے کو ... کرنا ۔
تقاوت (فتح) ... و ...
(فتح) دو چیزوں کا آپس میں جدا ہونا
تقاور (فتح) ...
تقاود (فتح) آپس میں ایک دوسرے
... کا قائل دینا ۔ ... تقاول
تقاوص (فتح) ایک دوسرے
... ہونا ۔
تقاوض (فتح) آپس میں کام
میں شریک ہونا ... تقاوض
یعنی برابری شرکت ...
تقاوہ (فتح) آپس میں ...
تقاید (فتح) آپس میں ایک
دوسرے کو فائدہ دینا ۔
تقائم (فتح) چوپایوں کا منہ
سبز گھاس سے پر ہو جانا ۔
تقعص (فتح) ذلیل اور خوار ...
سیاہ گوشت ... بری ۔
تقناق (فتح) جو کہ ... بات
کی باتوں کا تلفظ کرے ...
(فتح) تقاعف ... جمع
تقفتح (فتح) کشادہ ہو جانا ۔

علامات اعراب ف فتحہ ک کسرہ ض ضمہ س سکون ت تشدید م

| مادہ | | |
|---|---|---|
| [illegible] | تغیم رفسکس آسمان کا ابر سے<br>کا انکا ابر کی مانند آنا۔<br>تف رضت ناخن کا میل یا اس کا<br>اُف ہے۔ تفہ رفکف جمع جو کچھ کہ<br>دانتون مین کھانے کی قسم سے<br>رہجاوے۔ اتفاف رفسفس،<br>تفوف رففس جمع۔<br>تفاءل رفسفس فال لینی۔<br>تفاج رفسفس آپس مین<br>پوشیدہ کلام کہنا۔<br>تفاقع رفسفس ایک قسم کا شعر<br>تفاتی رفسکس جوانمردی کرنی<br>فتوے کے لیے مفتی کے پاس جانا<br>تفاج رفسست چلنے مین<br>دونون پاؤن کو کشادہ رکہنا۔<br>تفاجی رفسک شگاف دار ہوجانا<br>تفاح رفسفس سیب۔ تفاحہ<br>رفسفسف ایک سیب۔<br>تفاحتان رفسفسس سرے<br>دونون ران کے سرین کے پاس<br>تفاحش رفسفس فحش کہنا<br>اور اوسکا آشکار کرنا۔ بدی کا<br>حد سے گذر جانا۔ | تفاخیۃ رفسکسف سیب بیچنے والا۔<br>تفاخر رفسفس آپس مین فخر کرنا<br>تفادی رفسک اپنے تئین<br>کسی سے بچانا۔ یکسو ہونا۔ رہائی<br>ڈھونڈھنی۔ ایک دوسرے کی<br>آپس مین جان چھوڑا دینی۔<br>تفارر رفسفس دو گروہ کا آپس<br>مین ایک دوسرے سے بھاگنا۔<br>تفارض رفسفس باجی کی نوبت<br>مقرر کرنی اور نوبت لگنے لیے۔<br>تفارط رفسفس کسی کو غم اوڑ<br>سے آپہنچنا۔ یا غمون کا کسی<br>کی طرف سبقت کر آنا۔ پیشی کرنی<br>دوڑنا۔ ایک چیز کا لینے وقت<br>سے تاخیر کرنا اتنا کہ خواہش کرنے<br>والے کو نہ پہنچے۔<br>تفارز رفسفس دو حریف کا قوم<br>مین سے جنگ کے لیے باہر آنا۔<br>تفاسح رفسفس مجلس مین<br>فراخ اور وسیع ہو کر بیٹھنا۔<br>تفاسد رفسفس قطع ارحام کرنا<br>یعنی رشتہ داری کو قطع کرنا اور<br>رنا ملنا آپس کا۔ |

تحمل کی کوشش

تفضیح رتفعیل رسوا کرنا یا فضیحت کرنا
علانیہ میں رسوا دیکھنا

تفحیش رتفعیل بیہودہ بکنا
تفحص رتفعیل کسی چیز کی تفتیش اور جستجو کرنی

تفحل رتفعیل سانڈ کے ساتھ مشابہ ہونا اور نر اکل و پیشاب میں نحولت ظاہر کرنی - نر اکل اور پیشاب کو سخت کرا دینا -

تفخیم رتفعیل مصالح طعام کو اندر میں ڈالنا - کلام کو ایک مضمون کی طرف لے جانا -

تفخیخ رتفعیل ہاون سے کچھ کو پاش پاش کرنا - اندامیوں کو دھڑ دھڑ رکھنا رفتار میں -

تفحیم رتفعیل تاریکی اول شب میں سیر کرنی - ایک چیز کو سیاہ کر دینا -

تفخت رتفعیل ناخوش کی رفتار سے چلنا - ایک چیز سے تعجب رکھنا -

تفحجم رتفعیل سینگ کی کشادگی

تفحجن رتفعیل اترانا - ہندگی ظاہر کرنی - بھدگی سستی کرنی

تفخل ... رتفعیل ... کا ... دروازہ
کو ... ایک ... کو ... اچھا
... اپنا -

تفخیم رتفعیل بڑا ہو جانا

تفتح ... ایک ... کی طرف

منسوب کرنا - راس میں ... گیا نا

تفخر رتفعیل ایک کو دوسرے پر فخر میں زیادہ رکھنا -

تفخیم رتفعیل بزرگ کہنا - حرف کو بغیر امالہ پڑھنا الف تفخیم جیسے الف اللہ الہ

تفدیہ رتفعیل آپ کے فدا کہنا

تفدید رتفعیل بلند آواز کرنا - رفتار میں اترانا اور ناز کرنا - ایک چیز کے نیچے میں آواز و فریاد کرنی

تفدیر رتفعیل سست ہو جانا اور رنگ بدلنا سانڈ کا جفتی سے - پیچھے سے جدا ہونا -

تفدیع رتفعیل مقدع کر دینا -

تفدیک رتفعیل ... کی ... بھیجنا

تفدیم رتفعیل ... کے لیے سر پوش بنانا چھلنی

تفعثر رسفت ۱ دفتر ... کے نامے

تفقع رفتع شکستہ ہو جانا

تفتق رفتق شگافتہ ہونا پھٹنا فراخ اور کشادہ ہونا۔

تفتک رفتق آپ ہی آپ کسی کام میں داخل ہونا اور کسی سے مشورہ و صلاح نہ کرنا۔

تفتل رفتق تافتہ ہو جانا۔

تفتح رفتک لڑکی کا لڑکپن میں کھیلنے سے رک رہنا جوانمردی کرنی۔ لڑکی کا جوان عورتوں کے مشابہ ہونا

تفتیہ رفتک لڑکی کو لڑکپن میں کھیلنے سے روکنا اور پردہ میں بٹھانا

تفجیر رفتک پھاڑ دینا۔

تفجیح رفتک چوڑا کر دینا۔ انگلیوں کو نرم کر دینا۔

تفتیر رفتک سست کر دینا۔ ابر کا پراگندہ و پریشان ہو جانا۔ ابر کا ٹھہرنا قرار پکڑنا۔ ابر کا برسنے کے لیے آمادہ ہونا۔

تفتیش رفتک ڈھونڈھنا تلاش کرنا۔ کاوش کرنی۔

تفتیق رفتک چیرنا کھولنا۔

تفتک رفتک ہٹنا۔

تفتین رفتک فتنہ میں ڈالنا۔

تفتحی رفتف جو کہ ... کہ ... بعد ... ح کے بجائے ... جیسا ناخن پڑانا سر منڈوانا ... کرانا وغیرہ

تفث رفتف میل کچیل و ... بال بڑھانا۔

تفجیج رفتک بھاری کر دینا۔

تفجید رفتک پردہ کا استر بنانا

تفجر رفتق صبح کا روشن ہونا پانی کا روان ہونا جوانمردی کرنی

تفجش رفتق بندگی کھلی

تفجع رفتق سختی اور غم کے سبب دردمند ہونا۔

تفجیج رفتک کشادہ اور برہنہ کرنا۔ یکسو کر دینا۔

تفجیر رفتک پانی بہانا۔

تفجیع رفتک دردمند کرنا۔ مصیبت زدہ کرنا۔

تفحیل رفتک ایک چیز کو ... برابر کرنا ... کے لانا۔

تفحاج ... پانوں ... کشادہ کر ...

شاعذار ہونا۔ قوم پر چڑھ آنا۔ قوم
مین داخل ہونا۔ ایک چیز سے نکل آنا
تفرعن ؎ (تفعلل) بد خو ہونا۔
ظالم و ستمگر ہو جانا۔
تفرّغ ؎ (تفعّل) ایک کام سے
فارغ ہونا۔ اپنے تئین ایک کام کے
لیئے فارغ کرنا۔
تفرّق ؎ (تفعّل) تفرّق (تفعّل) جدا ہونا
پریشان ہونا۔ تتر بتر ہونا۔
تفرقع ؎ (تفعلل) انگلیونکو چٹکانا۔
تفرکش ؎ (تفعلل) کلام اور رفتار
مین شکستگی پیدا ہو جانی۔
تفرنق ؎ (تفعلل) تباہ ہو جانا
کان کا بلند ہونا۔
تفروق ؎ (تفعلل) خرما کے
پھل کا غلاف۔
تفرّی ؎ (تفعّل) چیرا جانا۔ چشمہ کا
نکلنا اور چیرا جانا۔
تفرّیٹ ؎ (تفعّل) عورت کا ولادت
سے کسی نو تنگ کرنا۔
تفرّیتہ ؎ (تفعّلۃ) ایک چیز کو چیرنا
تفرّیت ؎ (تفعّل) حیوان
زندہ کے جگر پر مارنا۔

تفرّج ؎ (تفعّل) کھولنا اور جانا
غم اور اندوہ کو دور کرنا۔ سیر کرنا۔
تفرّح ؎ (تفعّل) خوش و خرم کرنا
تفرّخ ؎ (تفعّل) کھیت کا خوشہ
کے نزدیک ہونا۔ کھیت کا نئی گھاس
نکال لانا۔ پرندہ کا چوزہ اور بیضہ
باہر نکال لینا۔ خوف اور بیم کا دل سے
باہر نکل جانا۔ ڈرنا۔ رعب تاک ہونا
سست ہو جانا۔
تفرّد ؎ (تفعّل) یکتا ہونا۔ گوشہ
پکڑنا۔ خدا تعالیٰ کے امر و نہی کی
محافظت کے لیئے لوگوں سے
کنارہ قبول کرنا۔
تفرّز ؎ (تفعّل) ایک کام کا کسی
پر جدا کرنا۔ ایک کام کا کسی پر قطع کرنا
تفرّش ؎ (تفعّل) پرندہ کا
ایک چیز پر اوڑنے کے لیئے
بازو پھیلانے اور حرکت دینی
کسی کے لیئے فرش بچھانا۔ صحن
خانہ مین پتھر بچھانے۔ کھیت
کے پتے بچھوانے۔
تفرّص ؎ (تفعّل) جوتی کے
تلے کو داک آہن سے منقش کرنا

ماده
فرج
فرح
فرخ
فرد
۶۴۵
۱۰ فزی
۱۱ فرق
۱۲ فرج
۱۳ فرج
۱۴ فرج
۱۵ فرد
۱۶ فرد
۱۷ فرش
۱۸ فرص
۱۲


ج

[illegible]

کچھ [illegible] گھونگھٹ [illegible] [illegible]

باز رہنا [illegible] بند کر [illegible]

[illegible] رنگ [illegible]

[illegible]

تفریح (ع) [illegible] کا [illegible]

[illegible] کے لیے [illegible]

[illegible] اصلاح [illegible]

آپ بھی ایک کام میں مشغول تھا

[illegible]

تفرقہ [illegible] مرد [illegible]

تفرقہ [illegible] [illegible]

تفرّق (ع) [illegible]

تفرّج [illegible]

میں [illegible]

تفرّد [illegible] ایک [illegible]

[illegible] کا [illegible]

[illegible] کے [illegible]

[illegible]

تفرّس [illegible]

[illegible]

[illegible]

تفرّد (ع) [illegible] تنہا [illegible]

[illegible] ہونا [illegible]

تفرید [illegible]

[illegible]

تفریح [illegible]

[illegible]

تفرّس [illegible]

[illegible] کے [illegible] لوگوں کو [illegible]

[illegible]

تفرّش [illegible]

[illegible] ہونا [illegible]

تفرّس [illegible] ایک [illegible]

کی خواہش کے لیے پرندہ کا

[illegible]

تفریح [illegible]

[illegible]

تفریع [illegible]

ہونا [illegible]

[illegible]

درخواست کرنا [illegible]

تشنج (بفتحتین) [illegible]
[illegible] بچھے [illegible]
تفسخ [illegible]
[illegible]
تفسیر [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
تفشیح (بفتحتین) [illegible] کا ایک
دوسرے سے دور ہو کر [illegible]
[illegible]
تفشیح (بفتحتین) [illegible]
پاؤں [illegible] چلنے
[illegible]
[illegible]

[illegible] (بفتحتین) [illegible]
[illegible]
[illegible] زیادہ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] بیماری کا زیادہ
پھیل جانا - زخم کا [illegible] ہو جانا -
تفشیح (بفتحتین) [illegible]
[illegible] پاؤں کو دور رکھنا -
[illegible] پاؤں کو

[illegible]

[illegible]

سے بہی بہتر ہے یعنی جب لکڑی ٹوٹتی ہے تو سیخین بناتے ہیں اور جب تیخ ٹوٹتی ہے تو گون کی لکڑی بناتے ہیں اور وہ بہی ٹوٹتی ہے تو تیل بناتے ہیں ۱۲

اور تھی کا گرم غصے سے بیتا ہونا
ہر ایک چیز کا کشادہ ہونا
تفقیح [illegible] (تفعیل) خوب سیراب کرنا
تفصیص [illegible] (تفعیل) چاندی کا ملمع کرنا
تفضیل [illegible] (تفعیل) کسی کو فضیلت
دینی اور دوسرے کے فضل پر حکم کرنا
تافضیل [illegible] افزون کر دینا کسی کو
دوسرے سے برگزیدہ کرنا
تفطیح (تفعیل) چوڑا اور کشادہ ہونا
تفطیف [illegible] (تفعیل) [illegible] ہونا
تفطیر [illegible] (تفعیل) کسی کا روزہ
کھلوانا افطار کرانا
تفطیش [illegible] (تفعیل) کسی کے
ستر یا ... کھولنی
تفطین (تفعیل) سمجھانا
تفظیع [illegible] (تفعیل) ایک کام کو رسوا
اور ... یعنی زبون پانا
تفعفع (تفعلل) شتابی کرنی
تفعی [illegible] (تفعلل) بدی اور خباثت
میں افعی کی مانند ہو جانا
تفغم [illegible] (تفعیل) گل کا کھلنا
تفغفغ [illegible] (تفعلل) ایک کیڑا ہے
تفقح [illegible] (تفعیل) کشادہ ہو جانا

گل کا کھلنا
تفقح [illegible] (تفعیل) آگ ہوئے کو ... ہونا
تفقع [illegible] (تفعیل) پھٹ جانا
تفقر [illegible] (تفعیل) کسی کو ... نکالنا
... سے ... کرانا
تفقو [illegible] (تفعیل) ... ہو جانا آنکھ
اور آبلہ وغیرہ کا کشادہ اور شکستہ ہونا
اور کاریگر ... شکستہ ہونا
تفقہ [illegible] (تفعیل) سمجھنا فقیہ ہونا
تفقیء [illegible] (تفعیل) آنکھ اور آبلہ وغیرہ
کو ... کرنا ... کرنا
تفقیح [illegible] (تفعیل) پلے کے بچے
کا آنکھ کھولنا
تفقیر [illegible] (تفعیل) کھودنا بچے وغیرہ
کا آنکھ کھولنا ... میں سوراخ کرنا
تفقیع [illegible] (تفعیل) تکلف سے صحبت
کرنی اور نگلیوں کو خم دے کے
آواز نکالنی یعنی چٹکانا ... گل
کو اور نگلی سے ... تاکہ پارہ
پارہ ہو سے اور آواز دیوے
... کو سرخ کرنا
تفقیہ [illegible] (تفعیل) سکھلانا آگاہ کرنا
تفکر [illegible] (تفعل) سوچنا

فتح فضض فضل فطح فطس فطر فطش فطن فظع فعفع فعی فغم فغفغ فقح فقع فقر فقو فقہ فقی فقح فقر فقع فقہ فکر

[illegible] سر پر سے [illegible] دور [illegible]
[illegible] پھیرنا یا عنبر پھیر لینا
[illegible] (تنکس) بدن کے
[illegible] سے [illegible] کرنا
تفقیح (تفکس) کسی کو دبا لینا
[illegible] لینا دشمن کا غالب ہو
تفصیل (تفکس) عورت کا
[illegible] عورت کا غسل پر بیٹھنا
[illegible] سب میں تا کسی کا ہونا
تفصیح (تفعس) اجنبی کا زبان عربی
میں بات کہنا یا مرد عربی کا زبان
اور بولنا بے تکلف فصاحت کرنی
تفصد (تفعص) ایک چیز کا ہو کر
[illegible] ہونا
تفصفص (تفعص) پراگندہ ہو جانا
تفصم (تفعص) جدائی شکست ہونا
تفصی (تفعل) رہائی پانی ہر چیز
تفصیة (تفعل) رہائی دینی
تفصیح (تفکس) دودہ کا
بے جھاگ ہو جانا
تفصید (تفکس) گھوڑے
پانی میں سیراب ہونا زمین کی
گفتگی سے یعنی زمین کا پھٹنا

تفصیل (تفعص) [illegible] کا کھول لینا
[illegible] کا [illegible] کھینچنا
تفصیع (تفعس) [illegible] گوندھنا
[illegible] کی بات [illegible] سے ذکر کو
[illegible] کا [illegible]
[illegible] ظاہر اور بیان
کرنا [illegible] کلام کو
تفصل (تفعس) [illegible] کا
[illegible]
[illegible] ہونا
تفضلع (تفعس) [illegible] پر زیادتی
چاہنا یا فخر کسی کرنی بھلائی کرنی
[illegible] جس وہ [illegible] کا
دعویٰ کرنا۔ کام کاج کے واسطے
باور روزہ کپڑا پہننا یا ایک کپڑا
پہننا اور اوسکے اطراف کو برخلاف
گنبد سے پر ڈالنا۔
تفقیح (تفکس) بال کی جڑ کا
پسینا لے آنا اتنا کہ بہے نہیں
بدن کا چربی کو خوب ہضم کرنا یعنی
بدن میں خوب چربی اکٹھی ہو جانی
ایسی کہ گوشت کی رگیں ہو کا خلل
جسم میں پھٹ جاویں سکڑ جانا

علامات اعراب جو کہ تم سے بیان ہونے کو ہے ... تشدید

| | |
|---|---|
| ... پستان کی ... لمبا ہونا | تفلیس ... ابھرنا |
| تفلق (تفعل) شگافتہ ہونا دوڑنے میں نہایت کوشش کرنی۔ پارہ پارہ ہو جانا | تفلک (تفعل) پستان ... کا گول ہونا۔ لڑکی کا نوک پستان ہونا۔ ایک کام میں اصرار کرنا۔ سستی کا کوشش خواہ ہونا اور ... لانا اونٹ کے بچے کے لیے ... بند بنانا یا اون اور پشم کا تاکہ دودھ نہ پی سکے۔ |
| تفلقس (تفعلل) خوشخبری دینی | تفلیل (تفعیل) رخنہ کرنا۔ |
| تفلک (تفعل) لڑکی کی پستان کا گول ہونا۔ | تفنن (تفعل) ... |
| تفلل (تفعل) رخنہ ہونا جیسے تلوار وغیرہ کا کند ہو جانا۔ لشکر کا شکست کھانا۔ | تفند (تفعل) کسی سے ایک کام چاہنا پشیمان ہونا۔ |
| تفلیہ (تفعلہ) سر میں سے جوئیں نکالنا ... | تفنخ (تفعل) عورت کا پاؤں کو جماع میں کشادہ کرنا۔ |
| تفلیج (تفعیل) قسمت کرنی | تفنق (تفعل) ناز و نعمت میں پلا پلنا۔ |
| تفلیح (تفعیل) استہزا کرنا فریفتہ کرنا۔ دھوکا دینا۔ | تفنیخ (تفعیل) غالب ہونا ذلیل اور خوار کر دینا۔ |
| تفلیخ (تفعیل) مارنا۔ | تفنید (تفعیل) کسی سے ایک کام چاہنا خراب ... کے سر پر چڑھنا کسی کو جھوٹا اور ... اور دانش کی ضعف اور عجز کی طرف منسوب کرنا۔ |
| تفلیذ (تفعیل) پارہ پارہ کرنا | |
| تفلیس (تفعیل) افلاس کی طرف منسوب کرنا۔ قاضی کا کسی کی مفلسی پر حکم کرنا۔ | |
| تفلیص (تفعیل) چھڑوانا | |
| تفلیع (تفعیل) ایک چیز کو خوب چیرنا خوب کاٹنا۔ | |

ماده
تفکہ
تفکر
تفکک
تفکہ
تفل

تفکہات (تفعّل) آدمی کا میوے
کے قریب بیٹھنا اور پھر اوسکی طرح
کا کرنا اگر وہ خوشتہ اور خشک
ہو جاتا ہے اور اوسکی پستان کا نرم
ہونا سلوک کتے میں تفلاک
جنکا اوس میں حج ح کوک اور ثوبت
ما سکے نہو۔ آدمی کا نر کا خوب
مشتاق اور حریص ہونا۔
تفکر (تفعّل) تعجب میں لانا
سوچنا۔ پشیمان ہونا پچھتانا
افسوس کرنا۔ گذرے ہوئے
اوسکے گمان حصول سے امید قطع ہونا
تفکہ (تفعّل) ایک چیز سے
تعجب میں آنا۔ پشیمان ہونا میوہ
کھانا میوہ سے پرہیز کرنا۔
اضداد سے ہے۔ تمتع پانی۔
تفکیر (تفعیل) اندیشہ کرنا۔
تفکیک (تفعیل) چھوڑوانا
خلاص کرنا۔ رہا کرنا۔
تفکیہ (تفعیل) کلام شیرین و
لطیف سے کسی کے ساتھ خوش
مشی کرنی۔ قوم کے لیے میوہ لانا
تفل (افعل) ارنا تھوک

پھینکنا۔ تشنیہ میں سے کوئی چیز
ڈالنی۔ تفل نہایت برق کی کثرت
ہے سب سے اول تفق ہے پھر تفل
ہے پھر تفت ہے پھر تفخ ہے جو کہ
ترک علت سے پیدا ہو۔
تفل (بضم) تھوک۔ جھاگ۔
تفل (فف / س) بدبو ہونا۔
تفل (نمک) بدبو ہونا
تفلقہ (فقہ) عورت بدبو
تفلت (تفعّل) ایک چیز کا گذر
جانا کسی کے ساتھ جنگ و پیکار
کرنی۔ کسی پر کود جانا۔
تفلج (تفعّل) پانو کا پھٹا ہوا ہونا
تفلحس (تفعلل) اپنے تئیں
کسی کی مہمانی میں کرنا۔
تفلص (تفعّل) یعنی افلاص
تفلطس (تفعلل) آدمی کی
ناک کا فراخ ہو جانا۔
تفلع (تفعّل) چہرہ ہوا اور کٹا ہوا
ہونا۔ پانوں کا پھٹ جانا۔
تفلقل (تفعلل) ہوشتا زمین
پاس پاس قدم رکھنے۔ ناز سے
چلنا۔ مسواک سے دانت ملنے۔

تفہ (ن س) تفوہ (فعل) (ن، س) کھوڑا اور رڈ بلا اور چڑانا ہونا۔
تفقھ (فعلل) فراخ حال ہو جانا
تفہق (فعلل) ابر وغیرہ کا فراخ اور کشادہ ہو جانا۔ خون وغیرہ کا روان ہونا۔
تفہم (فعلل) کھوڑا کھوڑا اچھینا۔
تفہیر (تفعیل) گھوڑے کی سانس چڑھ آنا۔ گھوڑے کا ضعف کے سبب ہانپنا ہونا۔
تفہیم (تفعیل) سمجھانا۔
تفہیر (تفعیل) کلام میں عاجز رہنا
تفہی (تفعلہ) (س) بہت غصہ ہونا
تفیاۃ (تفعلہ) سایہ ڈالنا درخت وغیرہ کا۔
تفیح (تفعلل) خرامان چلنا
تفید (فعلل) ناز سے چلنا۔
تفیش (فعلل) لاف مارنی ایک چیز سے پھر جانا۔
تفیظ (تفعل) جان دینی۔
تفیل (فعلل) گھاس کا نہایت کو پہنچ جانا۔ جوانی کا زیادہ اور افزون ہونا۔ موٹا ہو جانا۔

کسی کی رائے کا ضعیف ہونا۔
کسی کی رائے کا خطا کرنا۔
تفیلق (فعلل) دلال ہونا۔ موٹا ہو جانا۔ دوڑنے میں کوشش کرنی اتنا کہ شدت سرعت سے لوگوں کو تعجب آئے۔
تفیلم (فعلل) لڑکے کا موٹا ہو جانا اور سطبر ہونا۔
تفیو (فعلل) سایہ لینا۔ سایہ کا ڈھل جانا۔ پھر جانا۔
تفیہر (فعلل) فراخ حال ہونا۔ گھوڑے کی سانس چڑھ آنی اور اس کا تھک جانا۔
تفیہق (فعلل) سخن میں فراخی کرنی۔ دہن کو سخن سے پر کرنا۔
تفیئۃ (تفعلہ) وقت۔
تفیئۃ (تفعلہ) داخل ہوئی تفیئۃ فلاں کی بولتے ہیں یعنی اوس کے پیچھے داخل ہوا۔
تفید (فعلل) الو کی آواز سے فال بد لینی۔
تفیل (فعلل) فال لگانی کسی کی رائے کو زشت اور

مادہ
فہر
فہق
فہق
فہم
فہر
فہم
فہی
فی
فیح
فید
فیش
فیظ
فیل
فیل
فیلق
فیلم
فیء
فیہر
فیہق
فیأ
فید
فیل

777

[illegible] ملانا تا اعراض [illegible] کہ [illegible] تشدید

[illegible]

چلنا دینا اور ملا کر دینا - [illegible]

[illegible] کو [illegible]

تفقیس [illegible] رشکس [illegible] کا [illegible]

اندر [illegible] ہونا -

تفقیص [illegible] رشکس [illegible] بالنا

تفقیش [illegible] رشکس [illegible] خلط ملط ہونا

آ [illegible] کو [illegible] ختم کرنا - [illegible]

پڑا ہوا بغیر [illegible] کے

کپڑے کو [illegible] سے پھیلا اور [illegible]

[illegible] گا [illegible] ہا نا

تفقیص التقوب [illegible]

[illegible] کر [illegible]

[illegible] تفقیص [illegible] جیں

[illegible] عنیں [illegible] ہو [illegible]

تفوت رفقس [illegible] کیلی [illegible]

میں [illegible] کے بغیر گذرنا -

تفور رفقس سوختہ ہونا

[illegible] ہونا [illegible] کے [illegible]

تفوق رفقس [illegible]

فراخی [illegible] کا دودھ کھینچا

فواق کے [illegible] دودھ کا

فواق فواق [illegible] ہنا -

تفوت رفقس [illegible] زیادتی [illegible]

زیادتی اور [illegible] ہونا - [illegible]

تفوہ رفقس [illegible] اپنی ایک

جگہ میں [illegible] واصل ہونا -

تفوہ رفقس [illegible] گوش

تفوض رفقس [illegible] ہونا

تفویت رشکس [illegible] کرنا

تفویج رشکس [illegible] کرنا

تفویر رشکس [illegible] کے لیے

[illegible] ہنا [illegible]

تفویز رشکس [illegible] راہ کا

[illegible] چلنا [illegible] گذرنا

[illegible] کے [illegible]

تفویض رشکس [illegible] کا

چھوڑ دینا - بغیر مہر کے عورت دی

تفویف رشکس [illegible] کو

[illegible] کرنا -

تفویہ رشکس [illegible] کو فراخ

[illegible] کر دینا -

تفصی [illegible] ادا [illegible]

[illegible] گوش -

تفصی [illegible] اللہ کی - [illegible]

[illegible] کہنا [illegible]

گردہ آنا۔ کتا جس کا دوسری ...
متقابل ہونا۔ ایک چیز کا دوسرے
سے ہونا یا لانا۔

تقاطع (تفاعل) دو گروہ کا آپس
سے جدا ہو جانا کٹ جانا۔

تقاعد (تفاعل) کسی کے عطیہ
اوسکا حق ذمہ سے نکلنا۔ چنانچہ
تقاعد جو فلان کا ہو سے لیتے ہین

تقاعس (تفاعل) ایک کام
سے پیچھے ہٹ جانا۔ توقف
اور دیری کرنی۔ پیچھے رہجانا
اپنے ... ایک کام سے کھینچ لینا
اور ... کا رکنا۔ سمجھنا

تقافز (تفاعل) آپسمین دو ...

تقافص (تفاعل) ایک چیز
آپسمین داخل ہونا اور گھل مل
جانا اور مشتبک ہونا۔

تقافط (تفاعل) نر اور مادہ
کا جفتی کرنے مین آپس مین
مدد اور یار مندی کرنی۔

تقافی (تفاعل) جھوٹ گھڑنا

تقالس (تفاعل) کم گننا
چڑھ جانا۔ آفتاب کا بلند ہونا۔

تقا[illegible] (تفاعل) نوبت سے لینا

تقامر (تفاعل) آپسمین ایک یا
بعض کی چیز جو بدکر کھیلنا شرط لگا
کر آپسمین مقابلہ کرنا جوا کھیلنا۔

تقاول (تفاعل) گفت و شنید
کرنی کسی کے ساتھ قول کرنا

تقاوم (تفاعل) بعض قوم کا
بعض کیواسطے جنگ کرنا

تقاوہ (تفاعل) آپسمین آواز
کرنا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں

تقاوی (تفاعل) اشتر کو سکا
... ہونا بھوک کے ساتھ اتفاق کی

تقایل (تفاعل) بائع اور
مشتری کا آپسمین عقد بیع کو فسخ کرنا

تقبب (تفعل) قبہ مین داخل ہونا

تقبص (تفعل) جمع ہونا

تقبض (تفعل) منقبض ہونا
کسی چیز کو دیکھنا سے پوست کا سکڑ جانا
اور سمٹ جانا۔ جمع ہو آنا۔

تقبل (تفعل) کار کن کا ضامن ہونا

تقبی (تفعل) قبا پہننی کسی
کے پاس پیچھے سے آنا۔ ایک
چیز کا قبہ کی مانند ہونا۔

[illegible]

[illegible] (تفاعل) [illegible] کرنا

تقاعس (تفاعل) [illegible]

[illegible] آرام

تقاتل (تفاعل) آپس میں [illegible]

تقارب (تفاعل) [illegible] نزدیک [illegible]

تقا[illegible] (تفاعل) آپس میں ایک
دوسرے کو فریب دینا۔

تقا[illegible] (تفاعل) جنگ و کارزار
کرنا۔ آپس میں کشت و خون کرنا۔

تقا[illegible] (تفاعل) [illegible]
ایک دوسرے سے آگے دوڑنا

[illegible] کرنا گویا کہ
ایک [illegible] سبقت ڈھونڈھتا ہے
ایک دوسرے کو روکنا۔ قوم کا
پیچھے سے مرجانا ایک کا سر [illegible]

تقادم (تفاعل) دیرینہ ہونا۔

تقاذف (تفاعل) گھوڑے
دوڑنے میں شتابی کرنی [illegible]
[illegible] ایک دوسرے پر گرانا۔

تقار (تفعل) ثبات اور قرار
اختیار کرنا۔ آرام لینا۔

[illegible]

تقا[illegible] (تفاعل) آپس میں [illegible]
جنگ میں مل جانا۔

تقاعر (تفاعل) آپس میں شعر
پڑھنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
[illegible] کرنا۔ [illegible] سے دیکھنا

تقا[illegible] (تفاعل) [illegible] میں
ایک دوسرے [illegible] اپنا [illegible] کرنا

تقا[illegible] (تفاعل) [illegible]

تقاسم (تفاعل) آپس میں
بانٹنا۔ آپس میں قسم کھانی۔
اپنے درمیان حصہ کر لینا۔

تقاص (تفعل) ایک دوسرے
سے قصاص لینا۔

تقاصر (تفاعل) کوتاہی کا اظہار
کرنا یا ایک امر سے رک رہنا۔

تقاصف (تفاعل) [illegible] جمع ہو آنا

تقاضی (تفعل) قرض کا
تقاضا کرنا۔ قرض یا ادھار پھیر لینا

تقاطر (تفاعل) [illegible] قوم کا گروہ

دھراں گرنا تا کہ شکار شکاری کی
بو دریافت نکرے ۔ کسی کو خاک
غبار وغیرہ پر پچھاڑنا غبار کا برانگیختہ
کرنا ایک دوسرے کے تئیں زمین پر گرا دینا ۔
تقتیل (تفعیل) بہت مار ڈالنا
مروا ڈالنا ۔
تقشر (تفعّل) دور ہونا ۔ ڈرنا
خوفناک ہو جانا ۔
تقحز (تفعّل) سخت اور درشت بات
زبان پر چلانی ۔
تقحم (تفعّل) ایک کام متعلق ہونا
تقحزن (تفعّل) زد و کوب کی
بیتابی سے گر پڑنا ۔
تقحل (تفعّل) پوست کا استخوان
پر خشک ہو جانا خشک بدن ہو جانا ۔
تقحلز (تفعلل) زد و کوب کی
بیتابی سے زمین پر گر پڑنا ۔
تقحم (تفعّل) کسی کو گھوڑے
کا سر نگون ڈال دینا ۔
تقحیب (تفعیل) کھانسی کا زور ہو جانا
تقحیز (تفعیل) بازنا ۔ کودنا ۔
سخت کلام بولنا ۔
تقحیص (تفعیل) دور کرنا ۔

تقحیط (تفعیل) خطابین کو چھوڑ دینا
تقحیم (تفعیل) کسی کو ایک کام
میں بے اندیشہ داخل کرنا ۔ ایک
چیز کو ایک چیز میں بے اندیشہ داخل کرنا ۔ گھوڑے
کا سوار کو منہ کے بل گرا دینا ۔
تقحیہ (تفعیل) [illegible]
تقدہ (کسعۃ) کشنیز وغیرہ یعنی
زیرہ رومی ۔ طعام کا مصالح ۔
تقدد (تفعّل) شگافتہ ہو جانا
ریزہ ہو جانا ۔ قوم کا مختلف اور
متفرق ہونا ۔ ہر ایک چیز کا خشک
ہونا ۔ کپڑے کا پارہ پارہ ہونا
اونٹنی کا دبلا ہونے لگنا یا دبلی
کا موٹا ہونے لگنا ۔ لغات
اضداد سے ہے ۔
تقدر (تفعّل) آمادہ ہونا ۔
تقدس (تفعّل) پاک ہونا ۔
تقدع (تفعّل) بدی کا آمادہ ہو جانا
تقدم (تفعّل) فرمانا ایک امر
میں وصیت کرنی ۔ آگے آنا کسی کی
آگے داستان بیان کرنی ۔
تقدمۃ (تفعلۃ) جنگ میں
پیش گزشتگی ۔

| مادہ | | |
|---|---|---|

تقبیب (بفتح بفتح) خشک ہونا سوکھنا۔ قبہ بنانا۔

تقبیض (بفتح) ایک چیز کو سمیٹنا ایک چیز کے سامان کو آمادہ کرنا کسی پر جور و ستم کرنا۔ قباحت۔

تقبیح (بفتح) کسی کے کام کی زشتی ظاہر اور بیان کرنی۔ نیکی اور خیر سے دور کرنا۔ آبلہ توڑنا کہ پیپ اوس میں سے نکل آوے۔ انڈا توڑنا کسی کو قبیح کہنا۔

تقبیص (بفتح) انگلیوں کے سر سے پکڑنا۔

تقبیض (بفتح) جمع کرانا جمع کرانا۔ ایک چیز کو کسی کے قبضہ اور ہاتھ میں دینا۔ مال کو صاحب قبض کے حوالہ کرنا۔

تقبیط (بفتح) چہرہ کو ترش اور چین بجبین کرنا۔

تقبیل (بفتح) کام کو کسی سے کام میں لینا۔ بوسہ دینا۔

تقتاق (بفتح) بسرعت اور شتاب اور جلد

تقتال (بفتح) مار ڈالنا۔

تقتر (بفتح) غصہ کرنا۔ سانس لینا۔ لڑائی کے لئے آمادہ ہونا۔ کسی کو فریب دینا۔ کسی سے یکسو ہونا اور کنارہ قبول کرنا۔

تقتقہ (بفتح) حرکت بہت تیزی سے سخت رفتار۔

تقتل (بفتح) حاجت کے لیے آنا۔ عورت کا رفتار میں خم کھانا اور مڑنا اور پھرنا۔

تقتیت (بفتح) چغلخوری کرنی۔ ہانڈی کے مصالحوں کو جمع کرنا اور اوسکو پکانا۔ تیل کو پھول میں بسانا۔

تقتید (بفتح) اقتاد کو کاٹ کر جلا کر اونٹوں کو خوراک دینا۔

تقتیر (بفتح) عیال پر نفقہ کو تنگ کرنا۔ دن کے گذارہ کے موافق قوت دینا۔ گوشت کو شیر کے لئے جال میں رکھنا تاکہ اوسکی بو معلوم کرے۔ بہتی ہوئی چیز وغیرہ کی بو کا بلند ہونا اور خط کی ریشم اور صوف میں

مادہ

پیشاب کا علق خشک کھانے سے
گاڑھا غلیظ ہونا—
تقرّش (تفعّل) جمع ہونا۔ امور
غیر مناسب سے پاک ہونا۔ ایک چیز کو
پہلے پہل لینا۔ کمائی کرنی—
تقرّط (تفعّل) کان کا
گوشوارہ ہونا—
تقرطس (تفعلل) رجانا۔ ہلاک ہونا—
تقرطق (تفعلل) کرتہ پہننا—
تقرّع (تفعّل) ایک کروٹ سے
دوسری کروٹ پہ لوٹتے رہنا سونا نہیں
تقرعف (تفعلل) سکڑا ہوا ہونا
اور سمٹ جانا—
تقرّن (تفعّل) سر زخم تازہ ہونا
تقرفص (تفعلل) کپڑے میں
پیچیدہ ہونا۔ تقرفصت العجوز بولتی ہیں
تقرفع (تفعلل) سکڑا ہوا
اور سمٹا ہوا ہونا—
تقرقف (تفعلل) کانپنا اتنا
کہ دانت بجنا کہ آواز نکلے—
تقرّم (تفعّل) پہلے ہی پہل
ستور بچہ کا کھانے لگنا—
تقرّی (تفعّل) سمجھنا—

الجھنا۔ تغیر ہونا—
تقرّی (تفعّل) پانی کی تلاش
میں جانا اور اس کو ڈھونڈھنا—
تقرّئی (تفعّل) عورت کا استبرا
کے لیے بند کیا جانا۔ عورت کا
حیض سے باہر نکلنا۔ مجہولاً آتا ہی
تقرّب (تفعّل) کسی کو کھا دکھیا
ہو جانا۔ نزدیک کر دینا اور اسکو
حیا کر کے اللہ کہنا۔ اور قربت آرک کہنا
گھوڑے کا ایک طرح کا دوڑنا جس میں
سے کہتا اور وہ یہ ہے کہ دونوں
ہاتھوں کو اکٹھا اٹھاوے اور
اکٹھے دونوں رکھے—
تقرّح (تفعّل) کسی کے
حق پر استقبال کرنا—
تقرّد (تفعّل) عجز کے سبب
چپ ہو جانا۔ چیچڑی دور کرنی
چوپایہ سے۔ اونٹ کا خوار اور
تابعدار ہو جانا۔ ذلیل اور خوار کر دینا
۔فروتنی اور تواضع کرنی۔ فریب دینا
تقرّر (تفعّل) اقرار کرانا
قرار اور ثبات دینا—
تقرّس (تفعّل) یعنی اقراس

قرش
قرط
قرطس
قرطق
قرع
قرعف
قرن
قرفص
قرفع
قرقف
قرم
قری



۱۷ قرأ
۱۷ قرب
۱۷ قرح
۱۷ قرد
۱۷ قرر
۱۷ قرس

[illegible]

تقدُّمہ (ضفتک) آگے آگے چلنا
تقدیس (رفتنک) پاکی اور ستائش کرنا
تقذّی (رفتکس) آنکھ میں کوڑے کو
ڈالنا یا آنکھ میں کوڑے پڑ جانا
تقدّد (رفتکس) طول میں چیرنا
یعنی بیچ سے کاٹنا
تقدیر (رفتکس) ایک چیز کو ایک
چیز کے اندازہ کرنا فرمان دینا
رزق کو حصہ کر دینا تنگ کرنا
سوچنا اندیشہ اور فکر کرنا ایک کام
کے برابر کرنے میں فکر کرنی
کسی کو قدرت کر دینا
تقدیس (رفتکس) پاکیزہ کرنا
پاکی کی طرف منسوب کرنا
تقدیم (رفتکس) آگے آنا
کسی کو آگے بھیجنا سوگند کھانی
و تشنیع کر دینا
تقذیع (رفتفس) کسی پر بدی کو
برانگیختہ کرانا
تقذّر (رفتفس) کسی کو پلید سمجھ کر
کراہیت کرنی مکروہ جاننا
تقذّع (رفتفس) کسی کے
لیے بدی پر آمادہ ہونا

تقرّد (ضفتفس) پہاڑ پر چڑھنا
کلائی میں گر کر مر جانا خمیدہ ہو جانا
تقذیہ (رفتکس) آنکھ میں کوڑا
ڈال دینا یا نکالنا یعنی ضد ہے
تقذیع (رفتکس) کسی کو پلید کرنا
تقرّب (فتک) نزدیکی
تقرّب (ضفتفس) قراب کے
کسی کے سبب نزدیکی ڈھونڈھنی
کو تلوار میان میں رکھنا ستائی کرنا
تقرّۃ (فتک) ثبات الوقار اختیار
کرنا ایک کو برقرار رکھنا
تقرّۃ (فتک) بمعنی تقدّۃ (فتک)
تقرّع (ضفتفس) جمع ہونا قوم
کا بھڑ کا اور اوپر افراشتہ ہوئی ہونا
یعنی اوس کا گھر سے نکلنے بالوں کا جھڑ جانا
تقرّح (ضفتفس) کسی کے لیے آمادہ ہونا
تقرّد (ضفتفس) بالوں کا لپٹ
ہو جانا اور اوپر تلے جم جانا
پشم کا نمدہ ہونا
تقرّد (رکسک) تقریر رومی
کھانے کا مصالح
تقرّر (ضفتفس) اونٹ کا اپنے
پانوں پر پیشاب گرانا یا ونٹ کو

دوڑلنے پر گھوڑے کو آمادہ کرنا
گھوڑے کا خوب تیز اور زور سے
دوڑنا۔ کسی کو ایک امر معین کے
لیئے فارغ رکہنا۔
تقعس (فقعص) آواز سُننی
ایک چیز کے قریب ہونا۔
تقسقس (فسفض) آواز کو سننا
تقسّط (فقعض) آپس میں ایک
چیز کا برابر حصہ کر لینا حصہ لینا
تقسّم (فقعض) پراگندہ ہونا
۔ پراگندہ اور پریشان کرنا۔
تقشیش (فنکس) اوشتکو چرانا
تقشیط (فنکس) نفقہ کو عیال
پر کم کرنا۔ بخل کرنا۔
تقسیم (فنکس) حصہ حصہ کرنا
زمانہ کا قوم کو پریشان کرنا۔
تقشّر (فقعض) پوست کا اتر جانا
تقشّط (فقعض) آسمان کا بے
ابر ہو جانا۔ آسمان میں سے
ابر کا پراگندہ ہونا اور کھلجانا۔
تقشّع (فقعض) قوم کا پراگندہ
ہونا۔ ابر کا آسمان میں سے کھل
جانا۔ دل کا غم سے کھلجانا۔

تقصقص (فسفض) چھلکے سے
اچھا ہونا کھجلی اور زخم کا خشک ہونا
تقشیب (فنکس) ایک چیز میں
آلودہ ہونا۔ بدی کے ساتھ یاد
کرنا۔ رنج پہنچانا۔
تقشیۃ (فنکف) سانپ وغیرہ
کا پوست اوتارنا کسی کو حاجت
سے پھیر دینا۔
تقشیر (فنکس) درخت وغیرہ
کا پوست اتارنا
تقشقش (فنکس) کھجلی کا اچھا ہو سکھانا
تقصائد (فنکس) گردن بند
تقاصیر (فنکس) جمع
تقصارہ (کسفف) گردن بند
تقصئۃ (فنکف) اپنے بچے
یا اولاد کا ہو کر یعنی جنّا۔
تقصّد (فقعض) شکستہ ہونا مر جانا
چنانچہ کہتے ہیں تقصد الکلب
وغیرہ یعنی مر گیا کتّا وغیرہ۔
تقصّر (فقعض) ایک کام میں
مشغول رکھنا کفایت کرنا۔
تقصص (فقعض) بات کو یاد
کر لینا۔ پیچھے جانا۔

ماده
۲۸۱


ج

| مادہ | | |
| --- | --- | --- |
| [illegible] | تقریش (فتشکس) بانجھنہ لگانا حریص کو دینا۔ کسب کرنا۔<br>تقریص (فتشکس) خمیر کو پارہ پارہ کرنا۔ خمیر میں سے ٹکڑہ واخذ نکال لینا۔ قطع کرنا۔<br>تقریض (فتشکس) کسی کے حق میں شعر کہنے مدح ہو یا ذم۔<br>تقریط (فتشکس) گیندا کو دیگ میں یا پارہ پارہ کرنا۔ کسی کے کان میں بالا پہنانا۔ گھوڑے کو لگام دینا یا لگام کو اوسکے سر پر ڈالنا۔ چراغ کا گل معدہ کرنا [illegible] تیل کے میل کچیل کو دور کرنا۔ گھوڑے کو سخت ترین دوڑ پر برانگیختہ کرنا۔ گھوڑے ایسی چیز دینا۔<br>تقریظ (فتشکس) زندہ کو سراہنا حق کی راہ سے ہو یا باطل کی راہ سے۔<br>تقریع (فتشکس) قوم کو ایک جگہہ سے اوکھاڑنا اور اونکو مضطرب اور بے آرام کر دینا۔ دودھ دینے والی کا بچہ کے سر کو دودھ سے تھن سے دور کر دینا۔ اسلئے یہ سبب ہوتا ہے کہ جب وہ بہت دودھ یلی ہوتی ہے | کہ ایک تھن سے تو بچہ پلاتی ہے اور دوسرے سے بہ سبب کثرت کے اوسکے سر پر ٹپکاتی جاتی ہے۔ سرزنش اور ملامت کرنی۔ تقریع شتر بچہ کا علاج کرنا۔ سانپ کو بادیں پر چھوڑنا۔<br>تقریم (فتشکس) کھانا سکھلانا۔<br>تقرین (فتشکس) ایک چیز کو ایک چیز کے ساتھ پیوست کر دینا۔<br>تقریح (فتفتق) گھانس کا بہت شاخدار ہو جانا اور اوسکا کھٹنے لگنا۔<br>تقرز (فتفتق) آلایش و عیب اور میل کچیل سے خوب پاک ہونا۔<br>تقرح (فتفتق) گھوڑے کا دوڑنے کے لیے آمادہ ہونا۔<br>تقرقیہ (فتشکف) زمین پر پچھاڑ دینا۔ پٹکے مارنا۔ مار ڈالنا۔<br>تقزیح (فتشکس) ہانڈی میں مصالح ڈالنے۔ ناخن سگ کی مانند ایک چیز ہے جو گھاس کے سر پر یا درخت پر نکل آتی ہے۔<br>تقزیح الحدیث بات کو آراستہ کرنا۔<br>تقزیع (فتشکس) سر کا مونڈنا اور جگہہ جگہہ سے بے مونڈا رہجانا۔ |

موسم بہار میں درخت پر سے شاخ نکلنی
تقفیۃ (تفعلۃ) کسی کی حاجت
کو پہنچنا ادا کرنا۔ بادشاہ کا
کسی کو قاضی کرنا۔
تقضیۃ (تفعلۃ) کسی پر جبر اور
ستم کرنا۔ مغلوب کرنا۔
تقطر (تفعل) ایک چیز کو اور اس کے
گوشہ اور گوشہ پر ڈالنا۔ کسی کی
مخالفت کو چھپے رہنا۔ عود جلا کے
خوشبودار دھوئیں میں بسانا۔ جنگ
اور کار زار کے لیے آمادہ ہونا۔
اپنے دشمن کو پیٹ سے گرا دینا۔ تنہ
درخت کا گر پڑنا۔ ساقط ہونا۔
ٹپکنا۔ پہلو پر گر پڑنا۔
تقطب (تفعل) سر ہلانا۔
قطرب کی مانند ہونا۔
تقطع (تفعل) شراب کا پانی کے
ساتھ ملا ہوا ہونا۔ پارہ پارہ حصہ حصہ کرنا۔
تقطقط (تفعلل) اپنے حسب
خواہش چلا جانا۔ ڈول کا نیچے
گر پڑنا۔ قدم پاس پاس رکھنا۔
دوڑنا۔ سرعت کرنی۔ جہان
میں سیر کرتے پھرنا۔

تقفل (تفعل) کٹا ہوا ہونا۔
تقطل (تفعل) توقف اور تاخیر
کرنا۔ یاروں کو فریب دینا۔ بکھر جانا
مل جانا۔ گھوڑے کی نیچے کی جگہ
بیٹھ جانا۔ پانی کی کثرت کے سبب
ڈول کا کوئیں میں سے تھوڑا نکلنا۔
تقطیب (تفعیل) دو چیزوں کے
درمیان میں ڈالنی اور سرجوڑانا۔
تقطیر (تفعیل) ٹپکانا۔ قطرہ
قطرہ ٹپکانا۔ کپڑے میں اگر کا دھواں
کرنا۔ پہلو پر ڈال دینا اور ایک گوشہ پر
گرا دینا۔ اونٹ کی قطار کرنی۔
پیشانی کا ہمیشہ جاری رہنا ٹپکتے رہنا
تقطیط (تفعیل) ڈنڈا بنانا
اور اس کو تراشنا۔
تقطیع (تفعیل) کسی کو طرح
طرح کا عذاب کرنا جیسا کہتے ہیں
بطور دعا بد کے قطع اللہ علیہ
العذاب۔ شراب میں پانی ملانا۔
کپڑے کا کافی ہونا۔ پارہ پارہ
کرنا۔ گھوڑے کا اور گھوڑوں میں
سے آگے نکل جانا۔ پیٹ کا ایک
درد ہے۔ تقطیع الرجل مرد کی

ماده
ق ض ی
ق ف ع
ق ط ر
ق ط ب
ق ط ع
ق ط ط
ق ط ل
ق ط ی
ق ط ب

483

ق ط ر
ق ط ط
ق ط ع

تقصیح (تفعیل) زخم کا پیپ پکڑ ہونا

تقصیع (تفعیل) شکستہ ہونا

تقصیص آنا۔ طعام میں لہو و لعب کرنا

تقصیم (تفعیل) شکستہ ہونا۔

تقصی (تفعل) نہایت کو پہنچ جانا

تقصیف (تفعیل) گالی دینی

بالون کا قرکل بنانا یعنی چوٹی بنانا

بالون کا پیشوان گھنگریالے بنانا

دونون ہاتھون کو گردن سے

باندھنا کھیت کا بالی نکالنا۔

تقصیف (تفعیل) یعنی تقصیم

تقصیف (تفعیل) ناخن ترشنا

اونٹ کے کان میں سے تھوڑا

سا کاٹ ڈالنا۔

تقصید (تفعیل) لکڑی وغیرہ کو توڑ ڈالنا

تقصیر (تفعیل) ایک چیز کو چھوڑ

دینا جبکہ اوس پر قادر ہون۔ کام مین

سستی کرنی۔ کام سے رک رہنا۔

قرار پکڑنا۔ ٹھہر جانا۔ درد اور غصہ کا دب جانا

بن گردن مین داغ فصاد کا داغ کرنا کسی

دہ چوپایہ کا ایک داغ ہے۔ ناودوش

کرنا کاہ کر دینا۔ کوتاہ کرنا۔

تقصیر الثوب کپڑے کا کوٹنا

تقضیض (تفعیل) کسی چیز کو ریزہ ریزہ کرنا

تقضیض (تفعیل) پانی کا کسی

کی تشنگی کو بجھا دینا اور تسکین دینا

سنگریزہ کو لازم پکڑنا۔ زمین سے

نکل آنا اصفا کے چیز نا شگاف

کوہ سے نکل کے اوترنا بارش ہونا

کپڑے کو لیٹنے میں رشتہ جھنگلی

چیونٹی کا سوراخ میں سے نکال لینا

تقضب (تفعل) کٹا ہوا ہو جانا

آفتاب کا شعاع کو دراز کھینچنا

یعنی اوسکو دور تک پھیلانا۔

تقضض (تفعل) ریزہ ریزہ ہونا

پراگندہ و پریشان ہو جانا۔

تقضقض (تفعلل) پراگندہ ہونا

تقضع (تفعل) کسی کے حسب

فرمایا اور حسب کہنا۔

تقضی (تفعل) پرندہ کا ہوا میں

سے نیچے اوترنا پرندہ کا نیچے

اوترنا چاہنا فیست و نابود

ہونا آخر لعد تمام ہو جانا لمغیر ہو جانا

باز کا اوپر سے اوترنا۔

تقضیب (تفعیل) قطع کرنا۔

آفتاب کا شعاع کو دراز پھیلانا۔

تقفر (ففتض) پیچھے چلنا۔ پیروی کرنی

تقفز (ففتض) عورت کا ہاتھ پاؤں کو مہندی سے منقش کرنا۔ دستانہ پہننا۔

تقفس (ففتض) کودنا۔

تقفص (ففتض) جمع ہونا۔

تقفع (ففتض) سکڑ جانا۔ جمع ہو جانا

تقفقف (ففتض) جاڑے کا خشک ہونا۔ دانتوں کا آپس میں لگنا۔

تقفی (ففتک) کسی سے ہو اور نوازش میں مبالغہ کرنا۔ بہت حال پرسی کرنی۔ پیروی کرنی۔ کسی کے پیچھے چلنا۔ ہاتھ کی لکڑی سے مارنا۔

تقفیۃ (فسکف) کسی کو کسی کے پیچھے بھیجنا اور اسی سے ہے کلام مقفی اور قوافی شعر کی ہی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ وہ ایک کے پیچھے ایک آتا ہے۔

تقفیر (فسکس) خاک وغیرہ کو سمیٹ لانا۔

تقفیع (فسکس) نگاہ رکھنا

تقفیل (فسکس) پوست کا خشک ہونا۔ دروازہ کو مقفل کرنا۔

ایک چیز کو نگاہ رکھنا۔ گیہوں وغیرہ کو جمع کر لانا۔

تقفین (فسکس) سر کا طلب زائل کرنا

تقلب (ففتض) اپنی جگہ سے ایک جگہ میں کروٹ لینا۔ الٹ پلٹ ہونا۔ لوٹنا۔

تقلح (ففتض) اسلی مخلوط میں بھرکوں میں کمائی اور کسب کرنا

تقلد (ففتض) قلادہ پہننا۔

تقلذ (ففتض) اشغا دمانی کرنی خوش ہونا۔ بیر کو سی کا روشنا۔

تقلزم (ففتض) نخے لیجانا بخل اور اپنا کسی اپنا مرجانا۔

تقلس (ففتض) ٹوپی پہننی۔

تقلسی (فسکس) ٹوپی پہننی۔

تقلص (ففتض) آپس میں کھنچ جانا

تقلع (ففتض) جڑ سے اکھڑ جانا

تقلعث (ففتض) بالتفات چلنا یعنی اس طرح سے کہ گویا مٹی میں پھنس جاتا ہو کھڑا ہوتا ہے۔

تقلق (فسکس) ایک جانور ہے آبی

تقلقل (ففتض) حرکت کرنا۔

تقلنس (ففتض) ٹوپی پہننی

چھوٹی بکری اور اوسکا ذلیل ڈلل ۔
تقطیع الشعر شعر کو اجزاے
عروض میں پیوند کرنا ۔
تقطیف (فتکس) خوشہ انگور کا
کاٹنا اور اوسکو توڑنا چھیلنا ۔
تقطیل (فتکس) ایک چیز کو
قطع کرنا کسیکو اوسکے پہلو پر
گرا دینا یا زمین پر پچھاڑنا ۔
تقطین (فتکس) شگوفہ نکال لانا
تقع (فف) بھوکھ ۔
تقع (فف رس) بھوکا ہونا ۔
تقع (فک) نعسکی بھوک ۔
تقعثل (فضسض) اکڑا بنا یعنی
بوجھلوں کی طرح چلنا ۔
تقعد (ففقض) کسی کے امر میں
قیام کرنا کسی کو اوسکی حاجت
سے روکدینا ۔ ایک امر کو چھوڑدینا
اور اوس سے بیٹھ رہنا ۔
تقعر (فضسض) کلام میں بڑھ
چاہیے ۔ اقصی دہان سے کلام
کرنا ۔ ایک کام میں دور تک گھس
جانا تکلف سے فصاحت کرنی ۔
تقعف (فضقض) بمعنی انقعاف

تقعص (فضسض) اونٹ کا سوجانا ۔
تقعقع (فضسض) مضطرب ہونا
حرکت کرنی اور بولنے میں تقعقعت
عمدہم یعنی کوچ کرگئے اور منزل سے
میں تجتمع یتقعقع عمدہ مسر ایک اجتماع
کے بعد پراگندگی ہے یا یہ کہ جب
آدمی جمع اور آپس میں نزدیک ہوتے ہیں
تو ایک شر و فساد ایسا پیدا ہوتا ہے
کہ آخر کو پراگندگی ہو جاتی ہے یا
اوسکے معنی یہ ہیں کہ جو کوئی دنیا میں
کی کثرت پر اور بعض کے امور کی تربیت
پر رشک میں آوے اوسکی عقل
معرض زوال اور اختلال میں چلی جاتی ہے
تقعوس (فضسض) بہت
پرسن کا ہونا ۔ گھر کا ویران ہو جانا ۔
تقعوش (فضسض) بمعنی تقعوس
تقعیب (فتکس) گھوڑے
کے سم کا قبہ دار ہونا قعب کی
مانند ۔ کلام کو تہ تک پہنچانا ۔ اقصای
دہن سے کلام کرنا اور دور فریاد کرنی
تقعیط (فتکس) تنگ کرنا ۔ چوپایہ
کو خوب ہانکنا ۔ گستاخی کرنا
کلام میں فحش و بدکلامی کرنی ۔

| مادہ |
|---|
| قمص ۲ع |
| قمع ۲ع |
| قمل ۲ع |
| قمص ۲ع |
| قمط ۲ع |
| قمع ۲ع |
| قمس ۲ع |
| ۲ع |
| ۱۲ع قمش |
| ۱۳ع قمط |
| ۱۳ع قمع |
| ۱۴ع تقعن |
| ۱۵ع قنب |
| ۱۶ع قنح |
| ۱۷ع قنص |
| ۱۸ع قنسر |
| ع |

تقمص (تفعّل) پیراہن پہننا
تقمع (تفعّل) ایک چیز مین کا برگزیدہ اور سب سے بہتر لینا۔ گدھے کا سر ہلانا اور مکھی اوڑانا تنہا بیٹھنا یا سرگشتہ ہو جانا۔
تقمقم (تفعّل) پانی مین داخل ہونا۔ پانی مین غوطہ کھانا۔ سانپ کا لیٹی ہوئی اونٹنی پر جفتی کے لیے چڑھنا۔ ایک چیز پر چڑھنا۔
تقمل (تفعّل) تھوڑا سا ہونا یا کہ پہلے پہل ظاہر ہووے۔
تقمم (تفعّل) کوڑون سے ڈھونڈھ لینا۔ ایک چیز سر چڑھ آنا۔
تقمن (تفعّل) موافقت ڈھونڈھنی
تقمو (تفعّل) ایک چیز کو تھوڑا کرکے جمع کر لینا۔ بہترین مال اور سمین کا برگزیدہ لینا۔ چاہے کا کسی کو موافقت کرنا۔
تقمہ (تفعّل) دودلہ اور سرگشتہ اور حیران پریشان ہونا۔
تقمیح (تفعیل) کسی کو اوس کے حق سے کمتر دیگر دفع کرنا۔
تقمیش (تفعیل) ایک چیز کو ایک جگہ سے سمیٹ لینا۔
تقمیص (تفعیل) پیراہن پہنانا
تقمیط (تفعیل) قیدی کے دونون ہاتھ پاؤن ایک جگہ کر کے باندھنا۔
تقمیع (تفعیل) غورہ وغیرہ پر سے سری اوٹھا لینی۔ اوسری ایک چیز ہوتی ہے غورہ اور خرما کے سرے پر چھلکے کی مانند۔
تعقن (تفعّل) طبیعت وصل مین ماہر۔ ایک شخص تیر انداز کا نام کہ تیراندازی مین ضرب المثل تھا کوئی کا گا ہوا ہڈی وغیرہ کا کالا پانی جو تہ مین بیٹھا ہو۔
تقنب (تفعّل) گھوڑون کا شمار مین چالیس کوس تک پہنچ جانا۔ مقنب ہونا۔
تقنح (تفعّل) پانی کو سیرابی کے بعد چھوڑ دینا اور اوس سے سر اوٹھا لینا یا سیرابی سے کم پینا۔
تقنص (تفعّل) شکار ڈھونڈھنا
تقنسر (تفعلل) بڈھا ہونا۔ سکڑ جانا۔ خشک ہو جانا۔

تقلیب (تفعیل) الٹ پلٹ
... اوسکے ... کی طرف
... دینا۔
تقلیح (تفعیل) دانتوں وغیرہ
پر سے زردی ... صاف کرنی۔
تقلیح (تفعیل) کسیکو چوب
کوڑے سے مارنا۔ گھاس کا
سخت ہونا اور قوی ہو جانا۔
تقلید (تفعیل) کسی کی گردن
میں قلادہ ڈالنا اور اسی سے ہے
کام کسی کے ذمہ کر دینا۔ قربانی کے
جانور کی گردن میں ہڈی کے
نشان کے لیے ایک چیز لٹکانی
تلوار گلے میں حمایل کرنی۔
تقلیر (تفعیل) بمعنے اقلار۔
تقلیس (تفعیل) ڈھول بجانا
راگ گانا۔ بادشاہوں اور حاکموں کے
آنے کے وقت طرح طرح کے لہو و لعب
سے اونکا استقبال کرنا۔ سر کو جھکانا
ہاتھوں کو سینہ پر رکھنا اور ...
اور عاجزی کرنی۔
تقلیص (تفعیل) رفتار اور ...

... لباس کو سمیٹنا اور
سکوڑنا۔ انقباض کا ہمت آنا
اور سکڑ جانا ...
تقلیع (تفعیل) جڑ سے اکھاڑ ڈالنا
تقلیف (تفعیل) کشتی کے
تختوں کو آپس میں سینا اور اونکی
درزوں کو ... ملنا۔ خرما کے جیسے ہیں
خستہ ... اوپر سے ... اور ...
میں گر کر ... کہتے ہیں خرما
کا خستہ دور کر کے خرما کو درز کرنا۔
تقلیل (تفعیل) گھٹانا۔ کم دکھلانا
تقلیم (تفعیل) ناخن کاٹنا
ناخن تراشنے۔
تقمح (تفعل) اونٹ کا سر اونچا
کر لینا اور پانی پینے سے رک رہنا۔
تقمر (تفعل) قمار میں غالب آنا
عورت کو نکاح میں لانا۔ چاندنی میں
باہر نکلنا۔ شکار کو چاندنی رات
میں ڈھونڈھنا۔ عورت کو فریب
دینا۔ چاندنی رات میں عورت کو گھر میں
بلانا اور اوس سے صحبت کرنا۔
تقمش (تفعل) جو چیز کہ ہاتھ لگے
اوسکو کھانا اگرچہ خراب ہووے

تقوص ۱ (فعیفض) بعض حصہ چیز کا بعض میں داخل ہونا۔

تقوصر ۲ (فسعفف) گردنکی کوتاہی

تقوض ۳ (فعتض) بنا کا ویران ہونا۔ آمد و رفت کرنی۔ حلقہ کا پراگندہ کرنا۔ ہنگامہ کو توڑنا۔

تقوع ۴ (فعتض) زخم کھائے ہوئے چلنا جیسا خارستان میں چلتے ہیں چھپکلی کا درخت پر چڑھنا۔

تقوف ۵ (فعتض) دوڑنا۔ کسیکو بات کہنی سکھانی کہ یوں یوں کہہ

تقول ۶ (فعتض) افترا کرنا۔

تقون ۷ (فعتض) جور و ستم کرنا کسی پر زبان سے تعدی کرنی کہ بدگو جانا۔ کسیکی تعریف کرنی۔

تقوی ۸ (فعتک) قوی ہونا۔

تقویث ۹ (فسکس) زمین کھودنی جڑ سے اوکھاڑ ڈالنا۔ زمین پریشان کرنا۔

تقویۃ ۱۰ (فسلف) طاقت دینی قوی کرنا۔ اور کہتے ہیں ہو لقوی بہذا الکلب یعنے وہ اسکے ساتھ متہم ہے اور گالی دیا جاتا ہے۔

تقویح ۱۱ (فسکس) گھر میں جھاڑو دینی

تقوید ۱۲ (فسکس) چوپایہ وغیرہ کا کھینچنا

تقویر ۱۳ (فسکس) ایک چیز کو گول کاٹنا

تقویز ۱۴ (فسکس) گھاس کا بہت ہونا

تقویس ۱۵ (فسکس) کج ہو جانا۔ پیرانہ سالی کے سبب کبڑا ہونا۔

تقویض ۱۶ (فسکس) بنا کو ویران کرنا بنا کو کھول دینا بغیر ویران کرنے کے یا بنا کی چوبوں اور طنابوں کو نکال لانا۔

تقویف ۱۷ (فسکس) تابعداری کرنی پیروی کرنی۔ ایک چیز کے درپے جانا۔

تقویل ۱۸ (فسکس) کسی پر وہ بات رکھدینی کہ اوسنے نہ کہی ہو۔

تقویم ۱۹ (فسکس) کجی کو سیدھا کر دینا۔ سیدھا کرنا۔ اسباب کی قیمت کرنی۔ مول کرنا۔

تقویہ ۲۰ (فسکس) آواز و فریاد کرنی شکار کے گرداگرد آنا تاکہ دام کے میں داخل ہووے۔

تقہقر ۲۱ (فعفض) اولٹا چلنا۔

تقہل ۲۲ (فعتض) پوست کا

مادہ: قوص، قصر، قوض، قوع، قوف، قول، قون، قوی، قوث، قوی، قوہ
۷۸۹
قوح، قود، قور، قوز، قوس، قوض، قوف، قول، قوم، قوہ، [illegible]، [illegible]

[illegible]

التقصص ... نقفص ... تنگ کا ...
... ہونا مٹنا —
التقمع ... نقمص ... عورت کا ...
... تقیص ... جانا ... ہنکنا
التقفذ ... نقفذ ... پچھلنا ...
التقوقه ... نقفص ... انڈے سے ...
رنگ کرنا — پہاڑ ... ہونا —
التقیح ... نقفص ... خیر وجمع کی
ركھنا القبیلہ آل کو —
التقیف ... نفکس ... حدیث کا
... الا ... کا شخ
... جانا —
... جالا ...
التقشم ... نفکس ... کسی
ایک چیز کو لازم پکڑنا —
التقنیع ... نفکس ... دروازہ پر
... کرنا اور کھیدا ... لکڑی
... سے ... دروازہ پر لگانے کی
التقشیع ... نفکس ... پر ...
... کرنا ... کی ... کرنی —
التقلیط ... نفکس ... کرنا ...
التقنیح ... نفکس ... کی ...
کرنا ... کو ... پہنانا —

کسی ... کے ... مرغ کا
گردن کے پروں کو پھیر آنا اور
جنگ کے وقت پھیلانا کھولنا —
التقنفف ... نفکس ... اٹھنا — پارہ پارہ کرنا
التقنیح ... نفکس ... نہایت سرخ
کر دینا — داڑھی کو سیاہ کرنا — یا
داڑھی کو مہندی سے خضاب کرنا —
التقواد ... نفعیل ... چلنا — کو
آگے سے کھینچنا —
التقویب ... نفعیل ... زمین کی جگہ
سے پوست اوکھڑ جانا — زمین کا
کھلی ... کا ... فتہ
ہونا — جڑ سے اوکھڑ جانا —
التقویت ... نفعیل ... قوت بانی —
التقویح ... نفعیل ... زخم کا سب بھر ابر جانا
التقویر ... نفعیل ... کاٹنا ... گود جانا
... کا الٹنا —
التقویز ... نفعیل ... دانی کرنی
چاہنا ... اور ... سے پیچھے
گرنا — ... ہونا — ... کا ... تہ
ہونا — ... کا دوڑنا —
التقویس ... نفعیل ... کج ہو جانا —
کمان سمت ہونا —

قوز ... قوس ١٢

سے دماغ دینا ۔ کسی کے کمینے ایک
چیز کا سبب وہان سے کہ جہان
اوسکو گمان تھا پیدا کر دینا ۔
دو چیز کے درمیان تخلیہ کر دینا ۔
ایک چیز عوض مین دینی ۔
تقیظ (فتکس) موسم گرما مین
کسی جگہہ اقامت کرنی ۔ ایک چیز
کسی کو گرما مین کافی ہونی ۔
تقییل (فتکس) دوپہر مین
پانی دینا یا اونٹنی کو اوسوقت مین
دوہنا ۔ دو چیز کو اوستو کو پانی میں ملانا
تقیص (فتکس) سنوارنا ۔ یعنی
تاکت (فتحہ بن) قطع کرنا ۔
پامال کرنا یہانتک کہ سر ٹوٹ جاوے
ایک چیز کا ایک چیز مین اثر کرنا
مثلاً نبیذ شراب وغیرہ کا ۔
تکاءد (فتفض) کام کا دشوار ہونا
تکابر (فتفض) تکبر اور غرور
کرنا ۔ بزرگی منسوب کرنی ۔
تکاءة (فتفف) تکیہ جاے
جو بدستی ۔ مرد بہت تکیہ لگانے
والا ایک چیز پر ۔
تکاتب (فتفض) ایک دوسرے کو
خط لکھنا ۔ غلام کی قیمت منقطع کر دینی ۔
تکالع (فتفض) پے در پے ہونا
ایک دوسرے کے پیچھے چلنا ۔
تکافح (فتفض) آپس مین
روبرو تلوار مارنی ۔
تکاثر (فتفض) آپسمین قوم اور مال
کی کثرت مین مقابلہ کرنا اور فخر کرنا ۔
تکالف (فتفض) اوپر تلے جمع
بیٹھنا اور دلدار ہونا ۔
تکادر (فتفض) برابر دیکھ دینا
تکاذب (فتفض) آپسمین دوستی
مین دروغ کرنا ۔ جھوٹ بات کہنی
تکارم (فتفض) لوم اور کمینہ پن
سے دور ہونا ۔
تکارہ (فتفض) ناپسند رکھنا
تکاری (فتفک) کرایہ کو لینا ۔
تکاشف (فتفض) عیب کا ایک
دوسرے پر آپسمین کھلجانا ۔
تکاص (فتفث) آپسمین انبوہی
کرنی ۔ بھیڑ لگانی ۔
تکاظ (فتفت) آدمیون کا
آپسمین دشمنی کو حد سے گذار دینا
تکافو (فتفض) برابر ہونا

مادہ

۱۵۰

ہونا - بے حال ہونا -
[illegible] رکھنا الذین کو
[illegible] نہ کرنا - سمیٹنا اور
[illegible] کا ضعیف و نرم
ہو جانا - حاجت کی شکایت کرنی
تقہوس (تفعلل) دوڑنا
پریشان اور مضطربانہ چلنا -
تقی (ضعف) پرہیز -
تقی (کلفت) پرہیزگار - اتقیاء
(فعلاء) تقواء (تفعلاء) جمع -
تقی (ضعف) تقیۃ (کلفۃ)
تقاء (کفعل) پرہیزگاری کرنا -
تقیۃ (کلفۃ) پرہیزگاری -
تقیث (تفعّل) جمع کرانا -
اکٹھا کرنا - روکنا -
تقیح (تفعّل) زخم کا پیپ بھر ہو جانا
تقید (تفعّل) ایک زمین
ہے کھاری گھاس بھری -
تقید (تفعّل) اپنے تئیں قید کرنا
تقیص (تفعّل) اونٹ کا آواز
کرنا - کوئیں کا پھٹ جانا -
تقیض (تفعّل) کسی کے لیے
آمادہ ہونا - ایک سبب پیدا کرنا -

باپ کے مانند اور مشابہ ہونا - دیوار کا
چر جانا - پھٹ جانا اور بادشاہ کا ویران
ہو کر گر پڑنا - انڈے کا ٹوٹ جانا -
تقیظ (تفعّل) ایک جگہ موسم
گرما میں اقامت کرنی -
تقیل (تفعّل) دوپہر کا سونا -
کسی کے ساتھ مشابہ ہونا - پانی کا
جمع ہو آنا - دوپہر کو شراب پینی -
تقین (تفعّل) آراستہ ہونا -
تقیؤ (تفعّل) عورت کا خاوند
کے آگے آنا اور اپنے تئیں اوس پر
ڈال دینا - گلے میں سے ڈال دینا -
اور بہ تکلف قے کرنی -
تقیئۃ (تفعلۃ) دوا کا کسی کو
قے کرا دینا -
تقیید[12] (تفعیل) قید کرنا - عورت
کا خاوند کو جادو اور منتر سے بند کرنا
کتاب پر نقطے کرنے - کتاب کو
اعراب سے مقید کرنا - روکنا - اندازہ
کرنا - حرف روی کو ساکن کرنا -
تقییر[13] (تفعیل) قیر ملنا - کشتی
اور چوپایہ وغیرہ پر قیر ملنا -
تقییض[14] (تفعیل) اونٹ کو قیضہ

تکلیع ١ (فسکس) خوب قطع کرنا۔
تکبیل ٢ (فسکس) قید خانہ وغیرہ مین کسی کو قید کرنا۔ ادائے دین مین مہلت اور تاخیر دینی۔
تکتہ ٣ (کتف) شلوار بند یعنے ازار بند۔ تکک (کففف) جمع۔
تکتت ٤ (فقتض) مجتمع ہونا۔
تکتف ٥ (فقتض) کودتے ہوئے چلنا
تکتکت ٦ (ففسض) آہستہ اور نرم چلنا یا قدم پاس پاس رکھکر دوڑنا۔
تکتکہ ٧ (فسفف) کسی کو پامال کرنا یہان تک کہ اوسکا سر ٹوٹ جاوے۔
تکتل ٨ (فقتض) بونون کی رفتار کی ایک قسم۔
تکتم ٩ (ضسف) چاہ زمزم کا نام۔
تکتیب ٩ (فسکس) کتیبہ آمادہ کرنا اور جمع کرنا۔ کتیبہ کتیبہ کرنا۔ لکھنا سکھانا۔
تکتیع ١٠ (فسکس) گوشت کو ریزہ ریزہ کاٹنا یعنے بوٹی بوٹی کرنا۔
تکتیف ١١ (فسکس) برتن کو لوہے سے جوڑنا۔ گھوڑے کے شانے رفتار مین بلند ہونے۔

گوشت کو ریزہ ریزہ کاٹنا۔ گھوڑے کا شانہ ہلاتے ہوئے چلنا۔
تکتیم ١٢ (فسکس) خوب پوشیدہ رکھنا۔ پوشیدہ کرانا۔
تکتح ١٣ (ففتض) کنکریونکو حرکت دینی
تکثب ١٤ (ففتض) بہت کرنا۔
تکتم ١٥ (ففتض) ایک چیز مین توقف اور مہلت کرنی۔ سرگشتہ اور حیران ہوجانا۔ دوہرا ہونا۔ پوشیدہ ہوجانا۔
تکثیب ١٦ (فسکس) کمی۔ کم ہونا
تکثیثہ ١٧ (فسکف) بھیجے کتنا ہم ملائی کھانی۔ چوپایہ کا چارہ سروتن کو کھالینا۔
تکثیح ١٨ (فسکس) آشکارا کردینا۔
تکثیر ١٩ (فسکس) زیادہ کردینا۔
تکثیغ ٢٠ (فسکس) دودہ پر ملائی اور چکنائی جمع ہو آنی۔ چوپایہ کے پیٹ کا نرم ہونا اور اوسکا پتہ نکلنا زخم کا اوپر اچھا ہوجانا۔ سنبون مین گھاس کا نکل آنا۔ ہانڈی کا جھاگ پھینکنا۔ ڈاڑھی کا یکبارگی نکل آنا اور اوسکا بہت اور لمبا ہونا۔ مسکہ کے اوپر چکنائی کا کھایا جانا۔

مادہ
٤٩٣

ماده

۷۹۲

برا ہونا پر گھڑا ہونا —
تکاکؤ رتفعُّل) پیچھے ہٹنا ... 
ہونا جمع ہونا — کلام میں توقف کرنا
تکالُب رتفعُّل) آپس میں ...
آپس میں جنگ و بدی کرنی —
تکالُم رتفعُّل) آپس میں بات
چیت کرنے لگنا بعد ترک کلام کے
تکاثُر رتفعُّل) ایک دوسرے
کے بزرگ کو دیکھنا کر کو تسابق کے
تکامُل رتفعُّل) تمام ہونا —
تکاوُح رتفعُّل) شر و بدی میں
ایک دوسرے پر مشقت کرنی —
تکاوُش رتفعُّل) گوشت کا
تہ بتہ ہونا — گھاس اور چارہ کا
بہت اور تہ بتہ جمع کر بیٹھنا —
تکاوُل رتفعُّل) کوتاہی کا
اظہار کرنا — ایک امر سے رک جانا
تکایُد رتفعُّل) آپس میں فریب
دینا اور مکر کرنا — سختی اور دشواری کا
کسی پر کام کا شاق ہونا —
تکامُخ رتفعُّل) آپس میں مانگنا
دشنام اور کینہ میں مقابلہ و معارضہ کرنا
تکبُّب رتفعُّل) اونٹوں کا بیماری

یا لاغری سے گر پڑنا — مرد کا بیماری
یا سردی کے سبب منقبض ہونا اور
سکڑ جانا — پیٹ کا بستہ ہونا
اور تہ بتہ جمع کر بیٹھنا —
تکبُّد رتفعُّل) آفتاب کا بیچ آسمان
میں آنا — کام کا قصد کرنا — دودھ اور
خون کا گاڑھا اور دلدار ہو جانا —
تکبُّر رتفعُّل) بزرگ منشی کرنی
گردن کشی کرنی —
تکبُّج رتفعُّل) موٹا ہونا —
تکبّی رتفعُّل) ... سوز پر گر کر
جھکے ہوئے سکھنا اور لیٹنا —
تکبیث رتفعیل) کباب بنانا
تکبیم رتفعیل) آگ پر لکڑی ڈالنی
تکبیش رتفعیل) ایک کشتی کا
پہلو جھکانا اور اس کا اسباب دوسری
کشتی میں نقل کرنا —
تکبید رتفعیل) آفتاب وغیرہ کا
آسمان کے بیچ میں آنا —
تکبیر رتفعیل) اللہ اکبر کہنا — ایک
چیز کو بزرگ اور بڑا کر دینا — بزرگ
گننا — کسی کو بزرگی کے ساتھ
موصوف کرنا — صفت کرنی —

اعلامات اعراب مختصر یعنی فتحہ کسرہ ضمہ تشدید

نگی — درنگی کرنی جیسے گذرت
ان فعل کذا —
تکرار ۱ (فسفس) حملہ کرنا — میل کرنا — مہربانی کرنی — کئی بار ایک چیز کو پھرانا
تکرارۃ (فسفسۃ) کئی بار ایک چیز کو پھرانا —
تکربث (فففس) بیخ شاخ سے خرما چننا
تکرببش (ففعض) آدمی کے بدن میں جھریاں پڑ جانی اور بدن کا سکڑ جانا —
تکرتت (ففسض) پھر آنا جیسے تکرتت علینا —
تکرشح (ففسض) جلدی سے گذر جانا — چلا جانا —
تکرثو (ففسض) بمعنے کرثاۃ (فسفف)
تکرج (ففتص) روٹی کا خراب ہونا اور اوسکا سبز ہو جانا اور اپنے میں اوسکا گھر میں نکال لانا —
تکرشح (ففسض) گرد پھرنا جلد گذر جانا — چلا جانا —
تکردش (ففسض) بدن کا سکڑ جانا اور سمٹ جانا —
تکردم (ففسض) خوف اور دہشت کے سبب دوڑنا —
تکرر (ففتض) دودلہ ہونا — مکرر ہونا —
تکرشف (ففسض) بعض چیز کا بعض میں داخل ہونا —
تکرش (ففتض) قوم کا جمع ہو آنا — چہرہ کا سکڑا ہوا اور افسردہ ہونا —
تکرع (ففتض) نماز کے لیئے وضو کرنا
تکرفس (ففسض) آدمی کا مجتمع ہونا سمٹنا اور سکڑنا اور اوسکے بعض کا بعض میں داخل ہونا —
تکرفو (ففسض) بادل وغیرہ کا انبوہ اور تہ بتہ تلا ہوا ہونا —
تکرکر (ففسض) ادہر اودہر ہوا میں گرشتا — پانی کا اپنی سیل میں پھر جانا اپنے کام میں دودلہ ہونا —
تکرم (ففتض) لوم اور کمینہ پن وغیرہ سے دور ہونا — بہ تکلف کرم کرنا
تکرمۃ (فسلفۃ) بمعنے تکرم بالش یعنی تکیہ —
تکرہ (ففتض) ناپسند اور ناخوش رکھنا — ایک چیز کو کم گننا — غیر موقع میں رکھنا — منہ چڑھا لینا — غرغروی کرنی —

مادہ
کرز
کرس
کرش
کرع
کرفس
کرفو
کرکر
کرم
کرہ
۱۲

تکحیت (تفعیل) دلدار کردینا۔
تکحل (تفعل) زمین کا گھانس
نکلنے لگنا۔ سرمہ لگانا۔
تکحیب (تفعیل) انگور کے
درخت کا دانہ سبز نکال لینا۔
تکحیص (تفعیل) محو و ناپدید کرنا
تکحص الکتاب فتکحص یعنے خط کو
محو اور ناپدید کردیا پس ناپدید ہوگیا
تکحیل (تفعیل) آنکھ میں سرمہ لگانا
تکدح (تفعل) پوست کا چھلنا
تکدر (تفعل) تیرہ ہونا۔
تکدس (تفعل) جھپٹنا۔ خوب
دوڑنا۔ کندھا ہلاتے ہوئے راہ چلنا
سینا اور دونوں پستان کے
باہیں کو اوٹھاکر راہ چلنا۔ کاہلوں
کی طرح سے چلنا۔ گھوڑیکا چلنا
اس طرح پر کر گویا گرا پڑتا ہے۔
تکدکد (تفعلل) زور سے
ہانکنا۔ دفع کرنا۔
تکدہ (تفعل) شکستہ ہونا۔
تکدیۃ (تفعلۃ) جاڑے کا کھیت
کو زمین پر چھوڑ دینا۔ جاڑا کھانے
کے سبب زمین کا گھاس

کو دیر میں نکال لینا۔
تکلیج (تفعیل) کسی کے منھ کو
چھیلدینا یا اوسکو کسی طور پر مجوب کرنا
تکدید (تفعیل) ہانکنا دفع کرنا۔
تکدیر (تفعیل) دھندلا کردینا اور
بولتے ہیں کدر من العیش ما صفا
فتکدر یعنے اوس نے صافی عیش
کو مکدر کیا پس مکدر ہوگئی۔
تکدیۃ (تفعلۃ) توڑنا۔ بالوں کو
کنگھی سے جدا کرنا۔
تکذاب (تفعال) جھوٹا بولنے والا
تکذب (تفعل) بتکلف جھوٹ
بولنا۔ کسی کو دروغگو خیال کرنا۔
تکذیب (تفعیل) خوب انکار کرنا
کسی کو دروغ گوئی کرنا اور کہنا کہ تو نے
جھوٹ کہا ہے۔ ارادہ سے رک
رہنا۔ اونٹنی کا دودھ جاتا رہنا۔
کسی کو کسی سے پھیر دینا۔ وحشی جانور
کا ایک دو قدم چلنا اور ٹھہرنا تاکہ دیکھے
کہ پیچھے کون ہے۔ اونٹنی کا کاذب
ہونا۔ بزدلی نہ کرنی چنانچہ کہتے
ہیں حمل فلان فما کذب یعنے
حملہ کیا فلانے نے اور بزدلی

[illegible]

تعرّق (تفعّل) گوشت کھانا
تمشّش (تفعّل) گوشت [illegible]
[illegible] کھانا [illegible]
تقشّر (تفعّل) پوست اتارنا [illegible]
چھیلنا [illegible]
تمشیخ (تفعیل) کسی کو [illegible]
پکارنا لکھے گستاخی [illegible]
تشبّث (تفعّل) [illegible] اٹھانا [illegible]
کرنا [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
تقطّع (تفعّل) [illegible] گوشت کھانا [illegible]
کے سبب بلند [illegible] ابھرا ہوا ہونا
تمعّش (تفعّل) ہر دست کا سکڑ
جانا اور جھریاں پڑ جانی –
تمعّث (تفعّل) جال کا ایک
قسم کے ریشم سے بنا ہوا طرف سے
بچھے اور گول ہو جانا –
تمعّع (تفعّل) اُٹھ جانا –
بزدل اور سُست ہونا –
تمعّل (تفعّل) زور سے چھٹ جانا

تملّخ (تفعّل) پرندہ کا جال
[illegible] پھنسانا
تمعّض (تفعّل) ایک چیز [illegible]
[illegible] کی پستان کا
[illegible] کا
[illegible] ہونا
تمغّر (تفعّل) [illegible]
[illegible] کا گرو باندھنا
تمغّط (تفعّل) کسی کو بلانا
تمقّط (تفعّل) کسی کے
آگے [illegible] جال کا [illegible]
تملّف (تفعّل) [illegible]
تملّق (تفعّل) [illegible]
تملّس (تفعّل) [illegible] چلنا
[illegible] چلنا
تملّخ (تفعّل) [illegible]
تملّث (تفعّل) ایک چیز کو
دبا لینا [illegible] پکڑنا
تملّک (تفعّل) ایک چیز کو خرید
کرنا [illegible] کرنا – کسی کے
آگے فروتنی کرنا [illegible] کسی کے
سینہ [illegible] – بادشاہ
کا سر پر ایک [illegible] تاج رکھنا

[illegible]

[illegible] نکال لانا —

[illegible] (ر تفعیل) [illegible] کو مضبوط کرنا

[illegible] رشتہ بنانا —

[illegible] (ر تفعیل) [illegible]

[illegible] کو کرعی کھانا —

تکریع (ر تفعیل) اونٹنی کے رحم میں سے آب منی نکال لانا —

تکریم (ر تفعیل) [illegible] کا بہت [illegible] [illegible] سے [illegible] کرنا —

[illegible]

تکمیم (ر تفعیل) [illegible] منقبض [illegible] کرنا —

تکسب (ر تفعل) کمانا اور جمع کرنا رزق [illegible] طلب کرنا

تکسر (ر تفعل) شکستہ ہونا —

تکسع (ر تفعل) [illegible] اور ریخ رکھ لینا — اپنے اوپر ایک کام بغیر کسی کے فرمانے کے لے لینا —

تکسی (ر تفعل) لباس پہننا —

تکسیر (ر تفعیل) بہت توڑنا — ایک جمع ہے کہ جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے — اسے جمع التکسیر کہتے ہیں —

تکسیف (ر تفعیل) پارہ پارہ کرنا

تکشح (ر تفعل) جماع کرنا —

تکشف (ر تفعل) [illegible] کشادہ ہو جانا — برق کا آسمان کو پر کرنا —

تکشور (ر تفعل) ایک چیز کا اور [illegible] ہونے پوست کا ہونا — طعام سے

تکلیف (بفتح کس) کسی کو اندازہ طاقت سے زیادہ کام فرمانا۔ خدا تعالیٰ کے امر و نہی بندوں پر۔
تکلیل (بفتح کس) کوشش کرنی درندہ کا حملہ کرنا۔ رک جانا اور بزدلی کرنی۔ لغات اضداد سے ہے۔ تلوار اور زبان اور چھری کا دو بنائی کا کند ہو جانا۔ چلا جانا اہل و عیال کو زیان و ہلاکت میں چھوڑ دینا۔ کسی کو اکلیل پہنانا۔
تکلیم (بفتح کس) کسی کے ساتھ بات چیت کرنی۔ زخمی کرنا۔
تکلی (بفتح کس) پہچان لینا۔ کشتی کو کنارہ پر پہنچانا۔ کشتی کا لنگر ڈالنا۔
تکمش (بفتح قفش) شتاب کرنا بلوست کھڑا ہوا ہونا۔
تکملم (بفتح فسفس) گول ٹوپی پہننی کپڑوں میں گھس جانا۔ سر کو ڈھانک لینا۔ چھپا لینا۔
تکمل (بفتح قفعل) تمام ہونا۔ تمام کرنا۔ انجام کو پہنچانا۔
تکمم (بفتح قفعل) ایک چیز کو دبا لینا ڈھانک لینا۔ مدہوش اور عقل فوت ہونا۔ مجہولاً مستعمل ہوتا ہے۔
تکمو (بفتح قفعل) ایک چیز کو بری اور ناپسند رکھنا۔ کسی کو زمین کا پوشیدہ اور پنہاں کر لینا۔
تکمہ (بفتح قفعل) سرگشتہ ہونا۔
تکمیل (بفتح فسفس) جمع ہو آنا۔
تکمی (بفتح قفعل) پوشیدہ اور پنہاں ہونا۔ پوشیدہ رکھنا۔ بیان کو تازہ کرنا۔ دلاوران لشکر کا مارا جانا۔ مجہولاً مستعمل ہوتا ہے۔ فتنہ کا سبب کو گھیر لینا۔ کسی کا قصد کرنا۔
تکمیت (بفتح کس) گھوڑے کو صنعت سے کمیت کر دینا۔ غصہ کو پنہاں رکھنا۔
تکمید (بفتح کس) سینکنا۔ گرم کرنا۔
تکمیش (بفتح کس) سرعت کرانی اونٹوں کے ہانکنے میں شتربان کا خوب کوشش کرنا۔
تکمیل (بفتح کس) تمام کر دینا اچھا کرنا۔ کامل کرنا۔
تکمیم (بفتح کس) درخت کا شگوفہ نکال لانا۔
تکنبث (بفتح فنعل) سکڑا ہوا ہونا

[illegible]

[illegible] ستنبط [illegible]

[illegible] کرنا

تکفین (رفتعیل) مردہ کو کفن

پہنانا [illegible] کے لیے کفن مہیا کرنا

تکلا [illegible] (رفعیل) [illegible] ہونا

تکلام (رفعیل) [illegible]

[illegible] فصیح [illegible]

تکلان (رفعلان) [illegible] اور

[illegible] سپرد کرنا

تکلیف [illegible] علیحدہ کر لینا

[illegible] اپنے اوپر

اور [illegible] ہو سکے -

تکلیع (رفعیل) [illegible] ترش روئی

[illegible] ترش روئی

کرنی - بجلی کا بہت چمکنا -

تکلیش (رفعیل) سیراب ہونا -

تکلیع (رفعیل) جمع ہو آنا -

[illegible] سوگند کھانی -

تکلیف [illegible] اپنے اوپر ایک

کام کو لے لینا بغیر کسی کے

[illegible] رہنا

[illegible] خودی

[illegible] لینا

[illegible] کے

سبب [illegible]

تکلیم (رفعیل) [illegible]

[illegible]

تکلیو (رفعیل) [illegible] ہمیانہ

قبول کرنا - [illegible]

تکلیل [illegible] (رفعیل) [illegible] پھیلی وصف

[illegible]

[illegible] کا اطراف ہے

تکلیفہ [illegible] تیکیلی -

ایسی جگہ [illegible] آنا کہ [illegible] ہوا گر

[illegible] باز رکھنا

روکنا - تامل کرنا - آگے آنا -

ایسی جگہ جہاں داخل ہونا کر اوس

میں چھپ رہنے کی جگہ ہو -

تکلید (رفعیل) ایک چیز کو ایک

دوسرے پر جمع کر لانا -

تکلیز (رفعیل) جمع کر لانا -

تکلیس (رفعیل) کسی پر حملہ کرنا

کوشش کرنا - بزدلی کرنی -

بھاگ جانا - سیراب ہو جانا -

تکو[illegible] ہونا۔ تنک جلد میں الرسیلر ہوا ہونا اور منقبض ہونا۔ کسی کے بدن کی گرمی سے گرم ہونا۔

تکویب (تفعیل) ایک چیز کو سنگ کف سے کوٹنا۔

تکویث (تفعیل) کھیت کا چار پانچ پتوں والا ہونا۔ خرگوش کے مینگنے کے مانند پاخانہ پھرنا۔

تکویخ (تفعیل) جنگ اور کارزار میں غالب ہونا۔ ذلیل اور خوار کرنا۔ پھیر دینا۔ لوٹا دینا۔

تکوید (تفعیل) گرہ نکال لانا۔ تودہ بنانا۔ ڈھیر لگانا۔

تکوید (تفعیل) انار کا ذرہ تک سرک آنا۔ جماع کرنے والے کا اطراف کس پر کوچے لگانا۔ لکڑی سے کون پر مارنا۔ کاذہ گوشت کنارہ کس۔

تکویر (تفعیل) سر پر پگڑی کا لپیٹنا۔ ہر ایک چیز کا لپیٹنا۔ جمع کرنا۔ اسباب کو جمع کرنا اور اسکو باندھنا۔ گرا دینا یا نیزہ مار کر گرا دینا۔ کشتی وغیرہ میں کسی کو زمین پر پچھاڑ دینا۔

[illegible] نشیدہ کرنا۔ دبا لینا۔ زیادہ کرنا۔ رات کو دن میں یا دن کو رات میں داخل کرنا۔

تکویش (تفعیل) اندھانا۔ پلٹنا۔

تکویع (تفعیل) کسی کو اتنا مارنا کہ اسکی ساق دست کی ہڈی کج ہو جاوے۔

تکولف (تفعیل) قطع کرنا۔ کاٹنا۔ لکھنا۔ کو فرہیں جانا۔

تکویم (تفعیل) خاک کو تودہ تودہ کرنا۔ تودہ کو بلند کرنا۔

تکوین (تفعیل) ہست کرنا۔ ایک چیز کو نیا پیدا کرنا۔ خداوند تعالی کا موجودات کو پیدا کرنا۔

تکہف (تفعّل) پہاڑ کا کھف دار ہونا۔ کہف بمعنی غار۔ پانی کا جوانب چاہ کو کھودنا اتنا کہ اسکی جنبش کی آواز سنی جاوے۔

تکہل (تفعّل) کہل مرد کی مانند ہونا۔ اپنے تئیں کہلان کی طرف نسبت کرنا۔

تکہن (تفعّل) فال گوئی کرنی۔ فال گو ہونا۔

تکہیف (تفعیل) کہف کی

تکفیف (تفعل) قوم کا ہر ایک
[illegible] لوگوں سے خلط ملط ہونا
[illegible] (تفعل) بڑا اور موٹا اور
[illegible] ہونا۔ اور اٹھا ہوا ہونا۔
تکمن [illegible] (تفعل) خیمہ میں داخل ہونا
[illegible] داخل ہونا عورت کا [illegible]
[illegible] میں پوشیدہ ہونا۔
[illegible] (تفعل) کام کا کسی پر پوشیدہ
[illegible] کردینا۔ [illegible] کرنا۔
[illegible] (تفعل) کسی سے ڈرنا [illegible]
ہونا۔ قیدی کا قسم میں [illegible]
[illegible] ہوا اور [illegible] ہوا ہونا۔
[illegible] (تفعل) احاطہ کرنا۔
[illegible] (تفعلہ) کسی کی [illegible]
[illegible] (تفعیل) مسخرا پن کی
[illegible] ناک کو حرکت دینی۔
[illegible] (تفعیل) کسی سے پھر جانا
اور عدول کرنا۔ کسی کے ہاتھ
کو [illegible] اور تباہ کردینا۔ کسی
کو تلوار سے مارنا۔ کسیکو [illegible]
میں لانا۔ کسی کے پاؤں کو
تسمہ سے باندھنا۔
[illegible] (تفعیل) احاطہ کرنا۔

ایک [illegible]
تکنیف [illegible] (تفعل) [illegible] لینا
تکوثر (تفعل) غبار کا بہت
ہوجانا اور [illegible] بیٹھنا۔
تکود (تفعل) ایک چیز میں تکلف
کرنا۔ ایک چیز کا [illegible] کھینچنا۔
کلام کا کسی پر پوشیدہ ہونا۔
تکور (تفعل) [illegible] پر گر پڑنا۔
[illegible] دامن کا [illegible] کے اوپر
کو اٹھا ہوا ہونا۔
تکوش (تفعل) قوم کا جمع ہوآنا
تکوس (تفعل) اوندھا ہوجانا۔
تکوع (تفعل) [illegible] دست
کا [illegible] ہوجانا۔
تکوف (تفعل) گرد پھرنا۔ [illegible]
کے ساتھ اپنے تئیں مانند کرنا
اور اوس کی طرف منسوب کرنا۔
تکوک (تفعل) [illegible] احمق ہوجانا۔
تکول (تفعل) جمع ہوآنا۔ کسیکو
دشنام اور ضرب سے پیش آنا۔
تکون (تفعل) ہونا۔ حرکت کرنی۔
تکوہ (تفعل) کسی بات سے کام
پراگندہ اور پریشان ہوجانے

تلاطم (تفاعل) آپس میں تھپڑ مارنا

تلاطم (تفاعل) ایک دوسرے پر حملہ کرنا

تلاطخ (تفاعل) اوپر سے [illegible] کی طرف پانی کے [illegible]

تلاحوت (تفاعل) [illegible] کرنی

تلاعن (تفاعل) آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینی - آپس میں [illegible] - ایک دوسرے پر لعنت کرنی

تلاعق (تفاعل) [illegible]

تلافی (تفاعل) [illegible] ایک [illegible]

تلاغیف (تفاعل) آپس میں [illegible] لپٹی ہوئی ایک گھاس [illegible]

تلافیف (تفاعل) آپس میں [illegible]

تلاقی (تفاعل) دیدار کرنا - ملاقات کرنی - آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا

تلاکن (تفاعل) آپسے لکنت ظاہر کرنی تاکہ لوگ ہنسیں

تلالؤ (تفعلل) بجلی کا چمکنا

تلام (تفعل) [illegible] تلاحی (تفاعل) [illegible]

تخفیف [illegible] (تفعیل) [illegible]

تلان (تفعل) اب

تلاوت (تفعل) پڑھنا [illegible] کا [illegible] قبول لینا

تلاؤم (تفاعل) ایک دوسرے کو ملامت کرنی

تلاہی (تفاعل) آدمیوں کا جمع ہونا

تلاہی (تفاعل) آپس میں کھیلنا - کھلونے کے ساتھ کھیلنا - جماع کرنا

تلائیس (تفاعل) [illegible] ختم [illegible] کرنی

تلثث (تفعل) زبان [illegible]

تلبب (تفعل) دامن [illegible] - [illegible] ایک کام پر آمادہ ہونا

تلبث (تفعل) توقف کرنا

تلبخ (تفعل) اپنے تئیں مشک [illegible] آلودہ کرنا - بنانا

تلبد (تفعل) پشم اور صوف وغیرہ کا آپس میں داخل ہونا - چمٹنا - پرندہ کا زمین پر سینہ رکھنا اور جگہ کو لازم پکڑنا - زمین کا مینہ سے سخت ہو جانا

تلبس (تفعل) کام کا خلط ملط [illegible] مبہم ہو جانا - کھانا [illegible] میں الجھانا

[illegible]

[illegible] اڈار بندہ بچنے والا
[illegible] والا
[illegible] تحلیف [illegible]
[illegible] ظرافت کرنی
[illegible] رفتکس عیب بھرا کرنا
[illegible] رفتکس برتن کو بھرنا
[illegible] سامان کو آسمان
اور [illegible] کر دینا
[illegible] رفتکس [illegible] کرنا
[illegible] رفتکس قطع کرنا
[illegible] رفتکس بزدلی کرنی
[illegible] تودہ [illegible] کا
[illegible] رفتکس جمع [illegible]
[illegible] زمین پر دے مارنا
یا گردن اور سر کے بل زمین پر [illegible]
[illegible] تہمت لگانی
[illegible] میں ڈال دینا
[illegible] پہننا اگر
پڑتا [illegible] سینے کے آنا [illegible]
[illegible] میں
تلاتم رفعسم [illegible] بیان [illegible]
[illegible] جانے [illegible]

تلاتو [illegible]
تلاہ [illegible] طرف کی
بہت [illegible] کرنے والا
تلاہنہ رفتکس [illegible] کا
تلاحم [illegible] ہونا [illegible] بدن
تلاخر رفعسس [illegible] ایک دوسرے
کے خلاف آنا آپس میں ایک دوسرے
پر کلام [illegible] کرنی [illegible] کا
قافیہ کو ایک دوسرے [illegible] کرنا
تلاحق رفعسس [illegible] ایک دوسرے
[illegible] جانا
تلاحک رفعسس [illegible] چیز کی
پیوستگی کو [illegible] کرنا
تلاحم رفعسس آپس میں جنگ
اور کارزار کرنی خصومت کرنی
دشنام [illegible] گالی دینی
تلاد رفعسس [illegible]
تلازم رفعسس آدمیوں کی
[illegible] کرنی اور [illegible] پر [illegible] ہونا
تلاطم [illegible] آپس میں
مارنا - ایک دوسرے کو [illegible]
[illegible] طمانچہ مارنا
تلاطف [illegible] آپس میں [illegible] کرنی

تلاتل (ففسک) جمع۔ حرکت دینا بے آرام اور بے قرار کرنا۔ لرزہ مین ڈالنا۔ تیز چلنا۔ تیز ہانکنا۔ تا ر تفعلون کو کسرہ پڑہنا۔

تلتیب (فسکس) گھوڑے پر جھول باندھنی۔

تلثلث (ففسض) کام مین دو دلہ ہونا۔ خاک مین لوٹنا۔

تلثم (ففتض) دہان بند رکھنا۔

تلثی (ففتک) درخت سے گوند لینا۔

تلثیق (فسکس) خراب کر دینا۔

تلج (فضف) عقاب کا بچہ۔ بچہ عقاب۔ اصل اسکی ولج ہے۔

تلجج (ففتض) کسی کی متاع کا دعوے کرنا۔

تلجف (ففتض) کوئین کے گرداگرد ایک گڑہا کرنا۔ کوئین کے کنارہ پر ایک گڑہا ہونا۔

تلجلج (ففسض) دودلہ اور متردد ہونا۔ حرکت کرنا۔ کلام کو منہ مین پہرانا۔ کسی سے ایک چیز لینی۔

تلجم (ففتض) حائض عورت کا لجام باندہنا۔ یعنے لنگوٹی باندہنی۔

تلجن (ففتض) چپکنا۔ گٹہا ہوا ہونا۔ سر کا میل کہل سے دہونے مین صاف نہونا۔ چوپایے کے چارہ کے لئیے خستہ خرما کے ساتھ پتے کوٹنے

تلجیب (فسکس) بکری اور بہیڑ کا بہت دودہ والا ہونا اور کم شیر ہونا لغات اضداد سے ہے۔

تلجیئہ (فسکف) کسی کو ایک کام پر جبر ارکہنا۔ ایک چیز جہوٹ اور دروغ سے بیچنا۔

تلجیج (فسکس) لجہ مین داخل ہونا

تلجیف (فسکس) کوئین کے کنارہ پر ایک گڑہا کرنا۔ اطراف کس مین ذکر کو داخل کرنا۔

تلجیم (فسکس) پانی کا منہ تک پہنچنا

تلجین (فسکس) خطمی اور پہول وغیرہ کو گہولنا تاکہ گاڑہا ہوجاوے پتے کو کوٹکر آٹے یا جو مین ملانا۔

تلحز (ففتض) بخیل اور بدمزاج ہونا پیچہے رہنا۔ توقف اور درنگ کرنا انار ترش وغیرہ کہانے کی حرص مین دہن مین پانی بہرلانا۔ جنگ اور سفر کے لیئے دامن سمیٹنا۔

[illegible]

٨٠٥

[illegible]

١٢



ج

[illegible] ہونا

[illegible] ہونا۔ خاک پر لوٹنا کسی [illegible] ہونا۔

تلبک (فتفتین) ملا ہوا اور درہم وبرہم ہونا کام کا۔

تلبن (فتفتین) توقف کرنا۔

تلبیب (فنکس) گریبان پکڑنا۔ اور [illegible] مین کھینچنا تا فی کرنی۔ [illegible] کا [illegible] ہونا۔ دو دل ہونا۔ سینہ بند

تلبینۂ (فنکسفہ) مادین کا بچہ کو بیوسی کھلانا۔ مادین کا بیوسی تھنون مین اوتارنا۔ حج مین لبیک کہنا حج مین لبیک پکارنا۔

تلبیث (فنکس) مہلت کرنے کا حکم دینا کسیکو مہلت اور توقف پر رکھنا۔

تلبیخ (فنکس) بڑا ہونا۔

تلبید (فنکس) بالون مین سریش لگانا تاکہ بال بستہ ہوجاوین اور ایسا محرم لوگ کرتے ہین کہ بال نہ ٹوٹے کیونکہ بالون کے ٹوٹنے مین فدیہ دینا پڑتا ہے۔ پشم کو دھنکنا اور صاف کرنا پشم کو تر کرکے کمانی شمشیر کی حفاظت کے کے لیئے میان پر سینا۔

[illegible] نرم کا زمین کو سخت [illegible]

تلبیس (فنکس) الجھانا گھٹ جانا۔ کسی سے مکر اور عیب پوشیدہ رکھنا۔ لباس اس سے صیغہ نعت ہے۔ نہ طبس (فنکسہ)

تلبیق (فنکس) نرم کردینا۔

تلبیک (فنکس) ایک چیز کا ایک چیز مین ملانا۔

تلبین (فنکس) [illegible] اور بولتے ہین [illegible] اپنی حاجت کو چاہتا ہے۔ ایک آش ہے کہ بھوسی اور دودہ اور شہد کا بناتے ہین یا صرف بھوسی سے بناتے ہین۔

تلبینۂ (فنکسفہ) یعنی تلبین (فنکس)

تلتۂ (فتفتہ) طلع کے پوست کا کوزہ۔ ایکبار بہنا۔ ایکبار گر پڑنا۔

تلتۂ (کتفہ) گر پڑنے کا طور ڈھنگ صورت۔ تری۔ کاہلی۔ حالت۔

تلتیخ (فتفتین) آلودہ ہونا۔

تلتلت (فتفتین) سختی۔ زلزلہ۔ پوست طلع کا کوزہ۔ [illegible]

تلدید ۱ (رفنکس) آشکارا اور فاش کرنا۔ متفرق اور پریشان کرنا۔

تلدیس ۲ (رفنکس) چوپایہ کے نعل باندھنے۔ موزہ پر پیوند لگانا۔

تلدیم ۳ (رفنکس) کپڑے کو پیوند لگانا۔

تلدین ۴ (رفنکس) نرم کر دینا۔ کپڑے کو نمناک کرنا۔

تلذذ ۵ (رفقتض) ایک چیز کو خوش مزہ اور لذیذ پانا۔

تلذع ۶ (رفقتض) چپ و راست دیکھنا دوڑتے ہوئے خوش سیر کرنا۔

تلزج ۷ (رفقتض) لمسدار ہونا۔ گھاس کا آسیمین چاٹنا۔ پیوسنے سے سر صاف نہ ہونا۔ چوپایہ کا گھاس کے درپے جانا۔

تلزح ۸ (رفقتض) انار اور آلو کھانے سے منہ کا پانی بہانا۔

تلزز ۹ (رفقتض) حرکت کرنی

تلزو ۱۰ (رفقتض) پیر ہونا۔

تلزیب ۱۱ (رفنکس) مٹی کا چمٹنا اور اوسکا سخت ہونا۔

تلزیۃ ۱۲ (رفسکغ) بخشنا۔ اونٹوں کو خوب چرانا۔

تلزیز ۱۳ (رفنکس) مضبوط کرنا۔ گول بدن اور مضبوط پیدائش کا کر دینا۔

تلسن ۱۴ (رفقتض) اونٹ کے بچہ کا غیر کی اونٹنی کو دودھ پینے کے لیئے عاریت دیا جانا۔ آگ کا شعلہ مارنا آگ کا مشتعل ہونا۔

تلصص ۱۵ (رفقتض) دزد ہونا۔

تلصیص ۱۶ (رفنکس) مضبوط کرنا

تلطخ ۱۷ (رفقتض) آلودہ ہونا۔

تلطع ۱۸ (رفقتض) بڑہاپے سے اونٹ کا دانت گرا دینا۔

تلطع (رکسک) اونٹ جسکے بڑہاپے سے دانت گر گئے ہوں۔

تلطف ۱۹ (رفقتض) ایک دوسرے پر نرمی کرنی

تلطم ۲۰ (رفقتض) چہرہ کا خاکی رنگ اور تیرہ رنگ ہونا۔

تلطی ۲۱ (رفقتک) کسی کے حق کا منکر ہونا۔ دشمن کی غفلت کا انتظار کرنا یا کسیکے پاس سے جو کچھ پاتا تہا وہ اوسکے مال میں سے لے لینا۔ سبقت کرنی۔ پیشی کرنی

تلطیخ ۲۲ (رفنکس) ایک چیز کو آلودہ کرنا

مادہ
۱ لدد
۲ لدس
۳ لدم
۴ لدن
۵ لذذ
۶ لذع
۷ لزج
۸ لزح
۹ لزز
۱۰ لزو



۱۱ لزب
۱۲ لزا
۱۳ لزز
۱۴ لسن
۱۵ لصص
۱۶ لطخ
۱۷ لطع
۱۸ لطف
۱۹ لطم
۲۰ لطی
۲۱ لطخ

تلحظ (بفتحتین) تنگی۔ تکلیف۔ تنگ ہونا۔ چمٹ جانا۔

تلحف (بفتحتین) لحاف بنانا۔

تلحلح (بفتحتین) بانون کا جگہہ رہنا۔ اور اپنی جگہہ کو نچھوڑنا۔

تلحی (بفتحتین) عمامہ کو جبڑے کے نیچے لاکر باندھنا۔

تلحیب (بفتحتین) تلوار سے مارنا ایک چیز مین نشان چھوڑنا۔

تلحیج (بفتحتین) درہم اور خلط ملط کرنا ایک چیز کو۔ دل کے بر خلاف ظاہر اور آشکار کرنا۔

تلحیص (بفتحتین) خبر کو انتہا کو پہنچانا اور خبر کو تھوڑا تھوڑا ظاہر کرنا۔ تنگ کرنا۔ کسی پر تنگ گیری کرنی۔ ایک کام مین سختی کرنی امور مین تفتیش دینی۔

تلحیظ (بفتحتین) آنکھہ کے نیچے ایک داغ ہے۔

تلحیف (بفتحتین) ناز سے دامن کشان چلنا۔

تلحین (بفتحتین) اچھی آواز سے اور نغمہ کے ساتھ پڑھنا۔ خطا کی طرف منسوب کرنا۔

تلخیص (بفتحتین) بیان کرنا ظاہر کرنا اور روشن کرنا۔ خالص اور بے ملاوٹ کرنا۔

تلد (بفتحتین) عقاب کا بچہ اور بمعنے تلد (بفتحتین)

تلد (بفتحتین) جو عجم مین پیدا ہو اور عرب مین پیرورش پائی ہو وبمعنی تلد۔

تلد (بفتحتین) اقامت کرنی۔

تلد (بفتحتین) مال قدیمی موروثی چوپایہ کہ اپنے مالک کے آگے پیدا ہوا ہو۔

تلد (بفتحتین) اقامت کرنی۔

تلدغ (بفتحتین) کسی کو سانپ اور بچھو کا کاٹ کھانا۔ بات مین کسی پر طعن کرنا۔

تلدد (بفتحتین) دائین بائین پھر کر دیکھنا۔ سرگشتہ اور متحیر ہونا توقف اور مہلت کرنی۔

تلدم (بفتحتین) کپڑے اور موزہ کا پرانا ہونا۔ کپڑے اور موزہ کا پیوند کے لایق ہو جانا۔ کپڑے کو پیوند لگانا موزہ پر پیوند لگانا۔

تلدن (بفتحتین) دیر کرنی۔

رکلتفس) تلعاتہ رکلتفسف) بمعنی تلعاب رکشفس) تلعین رفسکس) شکنجہ میں کھینچنا ردکنا۔

تلغب رفقتض) تھکا دینا۔ دور لینا ہانک دینا۔

تلغف رفقتض) شیر اور بھیڑیا کا کسی کے سر کو پکڑنے کیلئے آمادہ ہونا۔

تلغم رفقتض) ملاغم میں خوشبو آلودہ کرنا۔ بات کہنے کے وقت ہاتھ ہلانے۔ ملاغم گرد لگرد دہن۔

تلغیب رفسکس) بہا تیجھکا دینا۔

تلغیظ رفسکس) آواز اور فریاد کرنی۔ خروش کرنا۔

تلف رفف) رایگان۔

تلف رفف، رس) ہلاک ہونا۔

تلفت رفقتض) خوب مڑ کر دیکھنا۔

تلفظ رفقتض) بات کہنی۔

تلفع رفقتض) کپڑا اپنے میں لپیٹنا۔ عورت کا سر پر کپڑا کھینچنا۔ آگ کا لو نکالنا۔ بڑھاپے کا مرد کو دبا لینا۔ پتے کا درخت کو دبا لینا۔

تلفف رفقتض) اپنے کپڑوں میں لپیٹنا۔

تلفق رفقتض) کسی کے ساتھ پیوستہ ہونا۔

تلفم رفقتض) عورت کا روبند باندھنا۔ مرد کا دہن پر عمامہ باندھنا نقاب کی شکل کا ایسا کہ ناک کی نوک تک پہنچ جاوے۔

تلفیۃ رفسکف) کسی کے حق کو گھٹانا اور کم کرنا۔

تلفیع رفسکس) سر کے سفید بالوں کو چن لینا۔ سرو ہانکنا۔ بہت کھانا۔ توشہ دان کو اولٹا کرنا اور اسکے تسمہ کو درمیان میں لانا اور کبھی شکستہ اور کھلا ہوا رکھتے ہیں اور کبھی سیتے ہیں۔ اپنی طرف عورت کو کھینچنا اور اسکو دبا لینا۔

تلفیف رفسکس) زور سے لپٹنا۔ پیچک لپیٹنی۔ ایک چیز کو جگہ جگہ سے جمع کرنا۔

تلفیق رفسکس) دو دو درز کو یا دو بات کو آپسمیں ملانا۔

تلقار رکسفسم) دیدار سطرف برابر مقابل۔ اس وزن پر سوا تبیان کے اور کوئی نہیں آیا۔

تلقاع رکتفس) بڑا باتونی مرد

مادہ

٨٠٩

[illegible] کتاب پر مہر کرنی۔
[illegible] تھپڑ مارنا۔
[illegible] (فتفعل) سانپ کا حرکت کرنا۔ سانپ کا اپنے سر کو شدت غضب سے ہلانا۔
تلظّی (تفعّل) آگ کا لو نکالنا
تلظیہ (تفعلۃ) آگ کو بھڑکانا اتنا کہ لو اوٹھ آوے۔
تلمّح (تفعّل) بھرا ہوا ہونا۔ جو بائین دائین بہت دیکھے۔
تلمع (تفعّل) دراز گردن ہونا گردن کی درازی اور سختی۔ پر ہونا۔
تلعابہ (تفعال) تلعابۃ (تفعالۃ) بہت بازیگر مرد۔
تلعّب (تفعّل) بہت بازی کرنی
تلعثہ (تفعلۃ) میلا۔ نسیان۔ لغات اضداد سے ہے۔ پانی کا رستہ وادی کا دہانہ فراخ۔ مثل ہے لاتیع ذنب تلعۃ ذلیل اور حقیر کے حق مین بولی جاتی ہے۔
تلعثم (تفعلل) بمعنے لعثمۃ یعنی درنگ اور توقف کرنا۔ اوسے پاؤن چلنا خوب دیکھنا تامل کرنا۔

تلعج (تفعّل) عورت کا تیز شہوت ہونا
تلعذم (تفعلل) کھانا۔
تلعس (تفعّل) بہت کھانا۔
تلعص (تفعّل) کسی پر تنگ گیری کرنی۔ دشوار کرنا۔
تلعف (تفعّل) شیر یا اونٹ کا کسی کا سر کرلینے کے لیئے آمادہ ہونا
تلعلع (تفعلل) شکستہ ہونا۔ ہڈی کا شکستہ ہونا۔ بھوک کے مارے لوٹنا۔ بے آرامی کرنی۔ بھوک وغیرہ سبب آنکھ سیاہ ہونی۔ پیاس کے سبب زبان باہر نکالنی۔ سراب کا چمکنا۔ بیماری کے سبب سست اور بے قرار ہونا۔ سختی۔ تعلع کہنا۔
تلعلم (تفعلل) کام مین درنگ اور توقف کرنا۔
تلعی (تفعّل) لعاع گھاس کو توڑنا علف یعنی چوپایہ کا چارہ توڑنا۔ ہلکی گھاس توڑنی۔ ہلکی گھاس کا چرنا چاٹنا۔ لعاع گہاس توڑنی۔ شہد کا جم جانا اور گرہ باندہ لانا۔
تلعیب (تفعیل) بازی کرنی
تلعیبہ (تفعیلۃ) تلعاب

علامات اعراب ضمہ فتحہ کسرہ سکون تنوین تشدید مد | مادہ

تلل رفف، نرمی اور نمناکی۔
تلم رفف، زمین میں گڑھا جو پانی نے کھود دیا ہو یا زمین میں لنبا شگاف۔ اتلام رسفف، جمع۔
تلم رکس، لڑکے کا سبزہ آغاز۔ کسان۔ سونار یا سوناروں کی لینی پھنکنی۔ تلام رکفس، جمع۔
تلم رفس، رض ن، زمین کو گاہنا۔
تلماک رکتفسم، رنگ بدل جانا یا گندم گون ہونا۔
تلماح رکلتفس، چمکنا۔
تلماظ رکلتفس، جو کہ کسی کی دوستی کا بیڑہ ٹھہرے۔
تلماظہ رکلتفسفہ، بیہودہ بکنے والی عورت بڑی باتونی یاوہ گو۔
تلمج رفقتض، ناشتا کرنا۔ ہونٹھ چاٹنا۔
تلمح رفقتض، تیزی بات بھونڈی ظاہر کرنی۔
تلمز رفقتض، ایک دوسرے کے پیچھے کودنا۔ رفتار میں شتابی اور سرعت کرنی۔
تلمس رفقتض، بار بار ڈھونڈھنا ایک دوسرے کے پیچھے ڈھونڈھنا۔

تلمسان رسکفس، ایک تختگاہ ہے مغرب میں درخت اور نہریں اور قلعے اوس میں بہت ہیں۔
تلمظ رفقتض، کھانے کے بعد منہ کے گرد زبان پھرانی۔ ہونٹھ چاٹنا کھانا منہ میں پھرانا۔ مزہ دریافت کرنا۔ سانپ کا زبان نکالنا۔
تلمع رفقتض، اوچک لیجانا۔
تلموق رفقتض، کھانا۔
تلمک رفقتض، کھانا۔ چکھنا چاٹنا۔ اونٹ کا ٹھوڈی لپیٹنا۔ کھانے کے بعد زبان منہ کے گرد پھرانی۔
تلمل رفقتض، کھانے کے بعد دہن کے گرد زبان پھرانی۔
تلمود رفقتض، زمین کا کسی کو دبا لینا اور پوشیدہ کر لینا۔ اپنے لیئے ایک چیز کو برگزیدہ کرنا۔
تلمیج رفسکس، ناشتا کرنا۔
تلمیذ رفسکس، شاگرد۔ تلامیذ رفعفکس، تلامذہ رفسکف، جمع۔
تلمیط رفسکس، کسی کا حق دور کو دینا۔ ایک چیز کو چھپانا۔
تلمیع رفسکس، ہرن کا ابلق ہونا

ملل
لمس
لمی
لمج
لمظ
لمح
لمخ
لمن
لمس
لمظ

۸۱۱

لمع
لمق
لمک
لمل
لماء
لمج
لمذ
لمظ
لمع
۱۲

تلقاع ع ر ک مضمف ہ بمعنے تلفاع
کم (مضمف) آدمیوں کو لقب دیہے نے
والا ۔ احمق اور سست ۔
تلقامہ ر ک مضمف ہ بڑا لوالہ ۔
تلقامہ ر ک مضمف ہ بڑا نوالہ ۔
تلقب ر مفتعل ہ با لقب ہونا ۔
تلقح ر مفتعل ہ اونٹنی کا حاملہ دکھلائی دینا ۔ کسی کو گناہ کا کرنے کی طرف منسوب کرنا ۔
تلقط ر مفتعل ہ خرما وغیرہ کا جابجا سے اٹھا لینا ۔
تلقع ر مفتعل ہ گالی دینی بات چلانی ۔ ذکر کرنا ۔
تلقف ر مفتعل ہ حوض کا نیچے سے ڈھا ہوا ہونا ۔ کھانے کو نگل جانا ۔
تلقلق ر مفتعل ہ حرکت کرنی تقلقل کا مقلوب ہے ۔
تلقم ر مفتعل ہ پانی کی کثرت کے سبب آواز کرنا ۔ لقمہ کو مہلت کے ساتھ نگلنا ۔
تلقن ر مفتعل ہ دریافت کرنا ایک چیز کو لے لینا ۔
تلقی ر مفتعل ہ ملاقات کرنی دیکھنا ۔ سامنے آنا ۔ ایک چیز کو لے لینا عورت کا حاملہ ہو جانا ۔
تلقیب ر مفعل ہ کسیکا لقب رکھنا
تلقیف ر مفعل ہ ایک چیز کسی کی طرف پھینکنی ۔
تلقیت ر مفعل ہ ملانا ۔
تلقیح ر مفعل ہ خرما بن کو نر دینا ہوا کا درخت کو حاملہ کر دینا ۔
تلقیف ر مفعل ہ طعام کا گلے سے نگلجانا ۔ نگلوانا ۔ گھوڑے کا زمین کو دنے سے پہلے پکڑنا کودنے میں یا گھوڑے کا کودنے میں اگلے زانو ہاتھ کو خوب اوٹھانا گویا کہ لمبا کرتا ہے ۔ یا اونٹ کا سیر میں ہاتھوں کو سینے پر مارنا ۔
تلقیم ر مفعل ہ نگلوانا ۔
تلقین ر مفعل ہ سمجھانا ۔ تفہیم کرنا
تلکد ر مفتعل ہ کسی کی گردن میں ہاتھ ڈالنا ۔ دلدار گوشت والا ہو جانا ایک چیز کے بعض کا اوسکے بعض پر چپکنا ۔ ملجانا ۔
تلکو ر مفتعل ہ پیچھے ڈالدینا توقف اور تاخیر کرنی ۔

۱۰ م

سفرا ور میاس کا آدمیون سے کے
رنگ کو بدل دینا۔
تلویص (فسکس) شہد خالص کھانا
تلویق (فسکس) طعام کو روغن یا
مسکہ کے ساتھ درست کرنا۔
تلویم (فسکس) بہت ملامت
کرنی۔ لام لکھنا۔
تلوین (فسکس) طرح طرح کا کرنا
تلہ (فتحہ) بھول جانا۔
تلف (فتح) بیخودی۔ سرگشتگی
بسبب عشق کے۔
تلہب (فتقض) بھڑکا ہوا اور
روشن ہونا آگ کا۔
تلہجم (فقسض) راہ کا روشن ہونا
چلنے والے کا راہ کو داغ داغ کرنا
ایک چیز کی طرف شیفتگی کرنی۔
تلہذم (فقسض) قطع کرنا۔ کھانا
تلہع (فتقض) کلام مین زیادتی کرنی
تلہف (فتقض) افسوس کرنا
تلہق (فتقض) نہایت سفید ہونا
تلہلو (فقسض) اوسلے پانون
چلنا۔ بددل ہونا۔
تلہلہ (فقسض) تھوڑی سی

گھاس ڈھونڈھنی کی طرح
تلہم (فتقض) ایکبارگی کھا لینا۔
تلہن (فتقض) ناشتا کرنا۔
تلہوج (فقسض) گوشت کا بھار کھانا
تلہوق (فقسض) ترک مبالغہ کرنا
تلہی (فتقک) کھیلنا۔ کسی چیز
کے ساتھ زمانہ گذارنا۔ فراموش
کرنا۔ غفلت کرنی۔ ترک کردینا۔
تلہیب (فسکس) آگ کا خوب بھڑکانا
تلہیتہ (فسکف) کسی کو ایک چیز
مین مشغول رکھنا۔ کھلوانا۔
تلہیج (فسکس) تھوڑی کھلانا
کسی کو ناشتا کرانا۔
تلہید (فسکس) ہاتھ سے توڑنا
کسی کو ذلت اور خواری سے پانو
سے دبانا۔ یا بن پستان یا چھاتی
یعنی مونڈھے پر مارنا۔
تلہیز (فسکس) سینہ پر لات مارنی
تلہیف (فسکس) افسوس کرنا
تلہین (فسکس) کسی کا ناشتا
توڑنا۔ مسافر کا تحفہ لانا۔
تلی (فتقف) بکری ذبح کی ہوئی
تلی (فتقف) زمین پر پڑا ہوا۔

تلوّن [illegible] تلون
تلوّی
تلوّث
تلوّح
تلوّد
تلوّذ
تلوّس
تلوّص
تلوّط
تلوّع
تلوّل
تلوّم
تلوّی

۸۱۲

تلوین
تلویت
تلویث
تلویب
تلویذ
تلویح
تلویق
تلویج
تلویح

[illegible] بیرخی الف رنگ کے [illegible] شکل [illegible]

تلمّع رتفعّل) رنگ اور [illegible]

تلمّق رتفعّل) جو اتباع کرتا ہے

تلوّس ایک چیز کے پیچھے چلنے والا ربخیل اور بلند - اونٹنی کا بچہ کہ مان کے پیچھے چلے - تلامذ رتفعّل) جمع گدھے اور خچر کا بچہ

تلوّ رتفعّل) کسی کے دریپے چلنا چھوڑ دینا - لغات اضداد سے ہے

تلوّذ رتفعّل) آبحسین پناہ لینی

تلوّہ رکسعت) بھیڑ کا بچہ کہ بدل جنے سے سوا کا ہو - بکری کر قبل متفرقہ کے جنے -

تلوّث رتفعّل) آلودہ ہونا -

تلوّد رتفعّل) رعن ان) کہنہ اور قدیمی ہونا مال کا -

تلوّص رتفعّل) لینا - پھر جانا

تلوّط رتفعّل) قوم لوط کا کام کرنا

تلوّع رتفعّل) دن چڑھ جانا - دھوپ کا پھیل جانا -

تلوّل رتفعّل) جو بہت دیر مین تابعدار ہو -

تلوّم رتفعّل) انتظار اور توقف کرنا - انتظار اور توقف - زخم کا اکھٹا ہونا [illegible] اور متبدل ہو جانا

تلوّن رتفعّل) حاجت -

تلوّن رتفعّل) طرح طرح کا ہونا

تلوّہ رتفعّل) سراب کا چمکنا - سراب کی چمک اور اسکی نمائش -

تلوّی رتفعّل) ٹیڑھا ہوا اور پٹا ہوا اور دوہرا ہو جانا - خم کھانا - منہ پھیر لینا - پراگندہ ہونا - ابر مین بجلی کا چمکنا -

تلوّی رتفعّل) ایک قسم کی چھوٹی سی کشتی -

تلویب رتفعیل) عطیہ کو ملائے مین ملانا

تلویذ رتفعیل) زور سے چلنا -

تلویث رتفعیل) ملنا - آلودہ کرنا - ملانا - آمیختہ کرنا - پانی کو تیرہ کر دینا - یعنی دیگر غیرہ [illegible] خراب کرنا - بچے کا اپنی انگلی چبانا -

تلویج رتفعیل) ٹیڑھا کر دینا -

تلویح رتفعیل) آگ مین گرم کرنا - آفتاب کا چہرہ کے رنگ کو جلا دینا - بڑھاپے کا کسی کو سفید بالون والا کر دینا - بقدر حاجت قوت دینا - کپڑے کو چمک دینی - تلوار چمکانی -

دوسرے کو سراہنا۔
تمافخ (ف ع ص) نافرمانی کرنی
سستی اور کاہلی کرنی۔ ایک کام
سے پیچھے رہ جانا۔
تمادی (ف ع ک) ایک چیز میں
اصرار کرنا۔ ہٹ کرنا۔
تمازر (ف ع ص) خرما فروشی۔
تمارش (ف ع ص) آپس میں
جنگ و پیکار کرنی۔
تمارض (ف ع ص) اپنے تئیں
بے علت بیمار دکھانا۔
تمارن (ف ع ص) اونٹنی کا دودھ نہ چلانا
تماری (ف ع ک) شک میں ہونا
آپس میں خصومت کرنی۔ تماری ایک دوسرے
تمازح (ف ع ص) خوش طبعی کرنی
تمازر (ف ع ص) نیت کا دور ہونا
تماس (ف ع ت) جماع کرنا۔
تماسح (ف ع ص) گفتگو میں آپس
میں راست و درست ہونا۔ خرید و
فروخت میں آپس میں ہاتھ مارنا۔
تماسک (ف ع ص) چنگل مارنا
اپنے تئیں حرکت سے رکھنا۔
تماشی (ف ع ک) پارہ پارہ کر دینا

تماشق (ف ع ص) گوشت کو
آپس میں کھینچنا۔
تماشی (ف ع ک) آپس میں چلنا۔
تماصع (ف ع ص) جنگ میں آپس میں
جانفشانی اور مشقت کرنی۔
تماض (ف ع ت) اصرار کرنا۔
تماظ (ف ع ت) آپس میں بیکار
لڑنی۔ ایک دوسرے کو دانت سے کاٹنا
تماقل (ف ع ص) آپس میں
ایک دوسرے کو پانی میں غوطہ دینا۔
تماکس (ف ع ص) آپس میں ایک چیز
کے خریدنے میں حرص کرنی۔
تمالح (ف ع ص) ہنسی کرنی۔
تمالک (ف ع ص) مالک ہونا۔
تمالؤ (ف ع ص) جمع ہونا۔ اکٹھا
ہونا۔ انبوہی کرنی۔
تمام (ف ع س) پوری پیدائش۔
تمام الشیٔ تمامی اوسکی۔
تمامہ (ف ع ص) کسی چیز کا بقیہ
تمانی (ف ع ک) ایک چیز کو انگلی سے
نکالنا جسکو چاہتے ہیں اور ایک اور
دوسرے شخص کا اوسکی مانند کرنا۔
تماور (ف ع ص) فخر کرنا۔ ناز کرنا۔

مادہ
مخ
مدی
مذر
مرس
مرض
مرن
مری
مزح
مزر
مس
مسح
مسک
مسی
۸۱۵
مشق
مشی
مصع
معض
مظظ
مقل
مکس
ملح
ملک
ملا
تم
[illegible]

تلی (رفعف) ادھر باقی رہنا۔
تلیل [illegible] سوگند کھانے
والا [illegible]
تلبیس (رتفعیل) [illegible]
تلبیسہ (رتفعیل) [illegible] ہوا [illegible]
بین شیر کی مانند ہونا۔
تلبید [illegible] جمع
کی پیدائش اور جسم کا پرورش یافتہ
تلبید (رتفعیل) اعلام میں سے۔
تلبیسہ [illegible] خصیہ [illegible] گیند
کی مانند [illegible] بنانے میں
حساب کی تفصیلی۔
تلبیغ (رتفعیل) گردن لینی۔
تلبیغ (رتفعیل) اپنے تئیں [illegible]
دکھلانا اور ظاہر کرنا۔
تلیل (رتفعیل) گردن اور منہ کے
بل پچھاڑا ہوا۔ تل (رفعل) [illegible]
[illegible] (رفعلف) جمع۔
تلیین (رتفعیل) نرم ہو جانا۔
یا [illegible] کرنی۔
تلبیث (رتفعیل) [illegible] ہوسکے
بیں شیر کے مشابہ ہونا۔
تلبیط (رتفعیل) چسپاں کرنا۔

تلیف (رتفعیل) [illegible] بنانا [illegible]
درخت خرما کا [illegible]
تلبیس [illegible] کر دینا۔
تم (رفعل) تمام (رفعل) تمامہ
(رفعلہ) [illegible] ہونا۔
تمام کرنا۔ [illegible] کی۔
تم رکت (تمام۔ پوری پیدائش
کا [illegible]
تماسر (رتفاعل) [illegible] ہوا ہونا۔
آپس میں کھینچا۔ حقائق میں سے
پے درپے [illegible]
تماسع [illegible] دور ہونا۔
تماثل (رتفاعل) ایک کا شفا کے
نزدیک [illegible] ہونا۔ بیماری سے اچھا
ہونا۔ ایک دوسرے کی مانند ہونا۔
تماجد (رتفاعل) کسی کے مجد کا
ذکر کرنا۔ آپس میں بزرگی کے اندر ناز
و فخر کرنا۔ آپس میں مجد آشکار کرنا۔
تماجح (رتفاعل) آپس میں ویسی باتیں
کرنی اور [illegible] بکنا۔
تماحک (رتفاعل) آپس میں جھگڑا
اور اصرار کرنا۔ خصومت کرنی [illegible]
تمادح (رتفاعل) آپس میں [illegible]

عورت کو طلاق کے بعد متعہ دینا۔ نفع دینا۔ لنبا بنانا۔ تعمیر کرنا۔ ایک چیز کو باقی رکھنا اور اوسکو انتہا اور کمال پر پہنچانا۔

**تمتین** (فسکس) خیمہ کی ڈوری آ

**تماتین** (ففسکس) جمع۔ ڈوری سے خیمہ کو بخیہ کرنا۔ آگے جانے والے کو یہہ کہنا کہ تقدمنی الی موضع کذا ثم الحقک یعنے تو مجہہ سے فلانی جگہہ تک آگے بڑہ جا مین تجہہ سے آ ملونگا۔ طرایق خیمہ مین باون کے ڈورے ڈالنے تا کہ ستون کا سر اخیمہ کو نہ پہاڑے کمان کو پیٹھے سے مضبوط باندہنا۔ مشک کو تیل دینا اوسکی اصلاح کرنی

**تمثال** (فسفس) تصویر بنانی۔

**تمتع** (ففتفض) گفتار کا چلنا۔

**تمثل** (ففتفض) کسی سے قصاص لینا۔ ایک بیت کو دوسری بیت کے پیچھے پڑھنا۔ حجت لانی۔ مثل ظاہر کرنی۔ داستان کہنی ایک چیز کی مثال پر ہونا۔

**تمثیل** (فسکس) مثل لانی تصویر بنانی۔ کسی کی ہیکل کی صورت باندھنی لکھہ کر یا اور طرح سے اسطرح پر کہ گویا اوسے دیکھہ رہا ہے۔ عقوبت کرنی اور اونکے لیئے عبرت دینا

**تمجج** (ففتفض) بزرگ منشی کرنی۔

**تمجس** (ففتفض) مجوسی ہونا۔

**تمجع** (ففتفض) خشک خرما کو دودہ کے ساتھہ پینا۔ یا خرما کے بعد دودہ پینا۔ ہمیشہ تھوڑا تھوڑا دودہ پینا اور اوسپر خرما کھانا۔

**تمجمج** (ففسفض) کسیکا عیب کرنا چاہنا یا پینا۔ حرکت کرنی۔

**تمجیج** (فسکس) کسیکا عیب کرنا چاہنا

**تمجید** (فسکس) بزرگ کرنا۔ سراہنا بزرگی کے ساتھہ نسبت کرنی۔ بہت بخشنا۔ اونٹوں کو پیٹ بھر کر کہلانا یا پُر شکم یا نیم شکم چارہ دینا۔

**تمجیس** (فسکس) مجوسی کر دینا۔

**تمحق** (ففتفض) مٹنا اور پاک ہونا گھٹنا۔ جلا ہوا ہونا۔

**تمحک** (ففتفض) جھگڑنا۔

**تمحمح** (ففسفض) جگہہ پکڑنی۔ اور آنا۔ عورت کا جننے کے قریب پہنچنا۔

مادہ

تمن

تمس

تمع

تمل

مجج

مجس

مجع

مجمج

مجج

۸۱۷

مجس

محق

محک

مح

۱۲

تمادی رفتفض ۔ حد سے بڑھنا
تماکس رفتفض ۔ آپس میں جھگڑنا
تماخی رفتفک ۔ پوست وغیرہ کا
کھنچنے سے فراخ ہو جانا ۔ عمر دراز ہونا
اور فتنہ کا قوم میں فاش کرنا ۔
تماسح رفتفض ۔ بیچ اور بیچائی میں چلنا
جیسے طرف سے تھر تے چلنا ۔
تمایر رفتفض ۔ لوگون کے درمیان
تباہی پڑنی اور فتنہ کو گھٹانا ۔
تمالط رفتفض ۔ آپس سے دور ہونا
قوم کا ایک دوسرے سے جدا ہونا ۔
قوم کے درمیان تباہی پڑنی ۔
تمایل رفتفض ۔ جھکتے تھرتے چلنا
تمنت رفس ۔ ایک بوٹی ہے
جسکے پھل کو نہیں کھاتے ۔
تمتہ رضتعف ، تمتی رضتعف ، کپہڑہ تہبند کے
بال وغیرہ کرکسی کو دیوین اور وہ اپنا مال
درست کرے ۔ تمم رضنف ، جمع ہے
تمتام رفسفس ۔ جو تتلا یا میم بہت
بولے ۔ توتلا جسکی بات سمجھ
مین نہ آوے ۔ یا وہ جو بات کو
اوسکے جلسے میں چبا وے ۔
تمتامتہ رفسفسہ ۔ مونث تمتام

تمتان رفسفس ۔ خیمہ کی ڈوری ۔
تمتخ رفتفض ۔ آلودہ ہونا ۔
تمتع رفتفض ۔ نفع پانا ۔ حج کے
ساتھہ عمرہ ملانا ۔
تمتک رفتفض ۔ شراب کو گھونٹ
گھونٹ پینا ۔
تمتم رفسفس ۔ اسحاق کرنا سی میں تم کہنے
تمتمہ رفسفسہ ۔ اس طرح بولنا کہ جس مین
ت بہت ہو یا تم بہت ہو ۔ بات
کو چبانا اوسکے جلسے مین ۔
تمتہ رفتفعل ۔ تعریف کرنی اپنی
تعریف مین تکلف کرنا ۔ اوس چیز
کے ساتھ اپنی تعریف چاہنی کہ
جو اوسمین نہین ہے ۔ محنت اختیار
کرنی ۔ ناز سے چلنا ۔ ایک چیز مین
مبالغہ کرنا ۔ ناز فرمائی ۔ خوبانیت ۔
تمتی رفتفک ۔ لنبا ہونا ۔ کسی پر
اعتماد کرنا ۔ کسی کو پانوں کے
نیچے رکھنا تاکہ اوسکو قطع کرے ۔
کمان کھینچنے میں پشت کو لنبا کرنا ۔
تمتیح رفسکسن ۔ ڈھیلا کا زمین مین
ایذا دینے کے لیئے وہم گردنا ۔
تمتیع رفسکسن ۔ توشہ دینا ۔

علامات اعراب صفکستم یعنے ضم فتح کسرہ سکون حروف تشدید

| | | ماده |
| --- | --- | --- |
| تمدد رففتعض کھینچا ۔ کھینچا ہوا ہونا۔ | تمذقر رففسعض پانی کا بدل جانا | مدد |
| تمدرع رففسعض مدرعہ پہننا۔ | تمذیمہ رفسکف گھوڑے کو | مدرع |
| تمدل رففتعض سر پر پگڑی یا دستار | چراگاہ مین چھوڑنا۔ | مدل |
| تن پر مندیل باندھنی۔ | تمذلیح رفسکس ایک چیز کو فراخ کرنا | |
| تمدہ رففتعض تعریف کرنی اپنی | تمذیر رفسکس پراگندہ کر دینا۔ | مدح |
| تعریف مین تکلف کرنا۔ | تمزر رفش خرما تمرة رفسف ایک | مدہن |
| تمدہن رففسعض روغن دان بنانا۔ | تمرات رفعض تور رضفعس تمراق | مدح |
| تمدیح رفسکس مدح کرنی۔ | رضبفعس جمع۔ | مدد |
| تمدید رفسکس کھینچنا۔ | تمر رضن ز ان مض خرما کھلانا۔ | مدر |
| تمدیر رفسکس مکان کو مٹی سے | تمرادر رکسف کبوترون کے گھر مین | مدن |
| لینا۔ یا خانہ بھرنا۔ | انڈا دینے کے لیئے چھوٹا گھر۔ | مدی |
| تمدیش رفسکس تھوڑا دینا۔ | تمراد رضفعس کبوترون کے لیئے | 819 |
| تمدین رفسکس شہر کر دینا۔ ایک | تمرادبنانا۔ | مذح |
| جگھہ مین ثابت و مقیم کر دینا۔ | تمرة رضتعف ایک جانور ہے | مذر |
| تمدین رففسعض نازپلا ہوا ہونا۔ | چڑیا سے چھوٹا جسے فارسی مین | مذقر |
| تمذج رففتعض خربزہ کا پک جانا۔ | ترند کہتے ہین تماسیر جمع۔ | مذی |
| برتن کا پر ہونا۔ ایک چیز کا متموج | تمرة رضسف سوفار کا باریک پٹھا | مذح |
| جانا اور اوسکا فراخ ہو جانا۔ | تمرد رففتعض تھوڑے دنون | مذر |
| تمذح رففتعض خوشنا سوج جلنا | امرد رہنا اور پھر ڈاڑھی نکال لانا۔ | مرد |
| سیرابی کے سبب کوکھہ کا نکل آنا۔ | سنتیزہ اور سرکش ہونا۔ | مرد |
| تمذر رففتعض گوٹی کا خراب ہو جانا | تمزر رضفک ٹھنگنے قد کا مرد | مرد |
| جی متلانا۔ پراگندہ ہونا۔ دودھ کا | تمرس رففتعض گھسا ہوا ہونا۔ | مرد |
| پھٹ جانا۔ | تمرص رففتعض ایک چیز کا | مرز |

[illegible]

تمحیق (فتکس) پاک کرنا مٹانا ۔ کسی کو محیق بنانا اور وہ یہہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جبکہ روز محاق ہوتا تو ایک آدمی دوسرے آدمی کے پانی پر اوسکے غیبت میں آتا اور وارد ہوتا اور اپنے اونٹوں کو سیراب کرتا جب روز سلخ ہوتا تو اوسکا مالک اول ہی اوسکا مستحق تر ہوتا پس اسلیئے وہ شخص محیق کہلایا گیا ۔

تمحین (فتکس) نرم کرنا یا پوست کو او کھاڑنا ۔

تمخج (فتقص) ڈول وغیرہ سے پانی کو حرکت کرنا ۔

تمخخ (فتقص) گودے کا ہڈی مین سے نکالنا ۔

تمخر (فتقص) ہوا کے مقابل کھڑا ہونا پشت ہوا کی طرف منسوب کرنا ۔

تمخش (فتقص) بہت حرکت کرنی ۔

تمخش (فتقص) بہت حرکت کرنی ۔

تمخض (فتقص) دودہ کا مخض دہی بلونی مین حرکت کرنا ۔ دودہ کا دہی جما ہوا ہونا ۔ مادیان کو جننے کا درد لگنا بکری وغیرہ کا حاملہ ہونا ۔ زمانہ کا فتنہ و فساد کو جننا ۔ ماں کے پیٹ مین بچہ کا حرکت کرنا ۔

تمخط (فتقص) ناک سنکنی ۔ گھبرائے ہوؤن کی مانند گرتے پڑتے چلنا

تمخی (فتقک) کسی سے بیزار ہونا اور کنارہ قبول کرنا ۔ شکایت کرنی عذر چاہنا ۔

تمخیت (فسف) کسیکو ایک امر سے دور کر دینا

تمخیخ (فتکس) گودے کا ہڈی مین سے نکالنا ۔

تمخیض (فتکس) عورت وغیرہ کو جننے کا درد لگنا ۔

تمخیط (فتکس) بکھیرنا ۔ بچھڑے کے بچہ کی ناک پر جو کچھہ ہے اوسکو دور کرنا

تمدح (فتقص) تعریف کرنی ۔ اپنی تعریف مین تکلف کرنا اور فخر کرنا جو چیز کہ اپنی نہین ہے اوس سے اپنے تئین تکلف پر آراستہ کرنا ۔ زمین اور کوکھہ کا فراخ اور کشادہ ہونا

تمدلخ (فتقص) ناقہ کا سانپ کی رفتار پر چلنا ۔ آدمی کا بزرگ منشی کرنا ۔ موٹاپے کے سبب اونٹ کا چربی بھرا ہونا ۔

ہو جاوے۔ بال اوکھاڑنے۔
تمرّغ رفسکس، چوپایہ کو خاک مین لٹانا۔ طعام مین بہت گھی ڈالنا۔
تمرّق رفسکس، کینوکا رگ گانا۔
تمرّن رفسکس، کام پر چہرہ کا سخت ہو جانا۔ نرم کردینا۔ زمین پردے مارنا۔ کسیکو ایک چیز پر خوگر کردینا۔
تمرّی رفسکس، کسیکو مرض کا طعام کھلانا۔
تمزّز رفقتض، باقی دودہ دوہنا۔ ایک ایک چوسنا۔ شراب کا تھوڑا تھوڑا پینا۔ ایکبارگی پینا۔
تمزّز رفقتض، شراب کو ذرا ذرا پینا۔ ایک ایک چوسنا۔
تمزّع رفقتض، غصہ کے مارے پارہ پارہ ہونا۔ ایک چیز کو آپس مین حصہ حصہ کر لینا۔
تمزّق رفقتض، کپڑے کا پارہ پارہ ہونا۔
تمزّمز رفسفس، حرکت کرنا اوٹھنا۔ نفرت کرنا بھاگنا۔ پراگندہ ہونا۔
تمزّن رفقتض، جانا اور اپنے ارادہ پر جاری رہنا۔ ایک چیز کی خوبیگی۔ افزون اور زیادہ ہونا۔

کسی پر افزونی کرنی۔ برکنار رہنا۔ یا طرفہ چیز لانی۔ تکلف جوانمردی کرنی جتنا ہو اوس سے زیادہ ظاہر کرنا۔
تمزّیتہ رفسلف، تعریف کرنی۔
تمزّیج رفسکس، دینا۔ خوشہ کا سبزی سے زردی پر آنا۔
تمزّیح رفسکس، انگور کا رنگ پکڑنا۔ انگور کا پھل لے آنا۔
تمزّیر رفسکس، مشک کو ہموار کرنا۔
تمزّیع رفسکس، روئی کو اوٹھنا اور اوس مین سے بنولے نکالنے ایک چیز کو جدا کرنا۔
تمزّیق رفسکس، کپڑا پارہ پارہ کرنا۔
تمزّین رفسکس، تعریف کرنی۔
تمشّاح رفسفس، جھوٹ موٹھ بولنا۔
تمسّح رفقتض، ہاتھ پھیرنا اور مسح کرنا۔
تمسّک رفقتض، چنگل مارنا۔ ایک چیز سے رک رہنا۔
تمسکن رفسفس، درویش ہونا یا درویش کے مانند ہونا۔ خوار و حقیر ہونا۔
تمسلم رفسفس، مسلمان کہلانا۔
تمسور رفقتض، کپڑے کا پھرانا اور پھٹا ہوا ہونا۔

ماده
مرغ
مرق
مرن
مری
مزز
مزز
مزع
مزق
مزمز
مزن
۸۲۱
مزی
مزج
مزح
مزر
مزع
مزق
مزن
مسح
مسک
مسکن
مسلم


ج

| ماده | | |
|---|---|---|
| ۵۰ مرض | اوڑجانا جاتا رہنا۔<br>تمرّض ‌ رففتض، ایک کام میں سستی کرنا<br>تمرّط ‌ رففتض، بال جھڑ جانے<br>تمرّع ‌ رففتض، دوڑنا سرعت کرنی یا چراگاہ کو ڈھونڈھنا۔ غصہ کے مارے ناک کا ہلنا۔<br>تمرّغ ‌ رففتض، خاک مین لوٹنا درد کے مارے اپنے اوپر لیٹنا۔ بدی سے دور ہونا۔ موںہہ مین سے رال بہانی۔ اونٹون کو مرغزار مین دیر تک چرانا۔ کام مین دو دلہ ہونا درنگ و توقف کرنا۔ اپنے تئین تیل ملنا اور بدن کو چمکدار اور پہلوان کرنا<br>تمرّق ‌ رففتض، کسیکی ہنسی پکڑنی<br>تمرّق ‌ رففتض، بال گر پڑنے باہر نکلنا۔<br>تمرمر ‌ رففسض، حرکت کرنی سردی کے سبب کانپنا یا مطلق کانپنا ریت کا حرکت کرنا۔<br>تمرّن ‌ رففتض، زیادہ ہونا کسی افزونی کرنی۔ کنارہ پر ہونا۔ ایک چیز کی خود عادت پکڑنی۔<br>تمرّو ‌ رففتض، بتکلف جوانمردی کرنی | تمرّی ‌ رففتک، آراستہ ہونا۔<br>تمرّی ‌ رفسکت، جو خرما کو بہت دوست رکھے اوسکو اوسے بہت کھاوے۔<br>تمریث ‌ رفسکس، بکری کے بچہ پر اوسکے عرق کی بدبو کے سبب مہربان نہونا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔ توڑنا۔<br>تمریج ‌ رفسکس، گیہون کو جھاڑو سے خاک سے صاف کرنا۔ پوست کو روغن ملنا۔ نئے توشہ دان کو پانی سے پر کرنا تاکہ درزون کے سوراخ بند ہو جاوین۔ جنگ پر جانا۔<br>تمریخ ‌ رفسکس، تیل وغیرہ اپنے اوپر ملنا<br>تمرید ‌ رفسکس، بنا و عمارت کو ہموار اور پہلوان اور چمکتی بنانا۔ کبوترون کے لیئے تمراد بنانا۔ درخت پر سے پتے دور کرنے۔<br>تمریر ‌ رفسکس، کڑوا کرنا۔<br>تمریش ‌ رفسکس، تھوڑا سا مینہہ<br>تمریض ‌ رفسکس، بیمارداری کرنی سستی کرنا۔ گیہون کو ہوا مین اوڑانا ایک کام مین کوتاہی کرنی۔<br>تمریط ‌ رفسکس، جامہ کی آستین کو کوتاہ کرنا یہان تک کہ چادر کی مانند |
| ۵۰ مرط | | |
| ۵۱ مرع | | |
| ۵۱ مرغ | | |
| ۵۱ مرق | | |
| ۵۲ مرر | | |
| ۵۳ مرن | | |
| ۵۴ مرو | | |
| ۵۸ مری | | |
| ۶۰ | | |

رنگ کرنا۔ کسی کی آبرو و عزت کو
آلودہ اور مکدر اور معیوب کرنا۔
تمشیل[۱] رفنکس، ناقہ کا تھوڑا دودھ
اوتارنا یا ناقہ کا شیر دوہنے مین کاہلی
کرنا۔ میان سے تلوار سونتنی۔
تمشین[۲] رفنکس، پستان کا سارا
دودھ پینا۔ ناقہ کا کراہیت سے دودھ دینا
تمصح[۳] رفقتض، الجھ لینا۔
تمصر رفقتض، اونگلیون کے
سرون سے یا پہلی اونگلی اور
انگوٹھے سے دوہنا۔ باقی دودھ
کو دوہنا۔ کم ہونا۔ پیروی کرنی۔ لشکر
پراگندہ ہونا۔ جگہہ کا شہر ہونا۔ ہر ایک
چیز کا جمع ہو آنا۔
تمصص[۵] رفقتض، ایک ایک چوسنا
تمصیح[۶] رفسکس، بیماری سے اچھا کر دینا
تمصیر[۷] رفسکس، کم کرنا۔ کم بخشش
وسخاوت کرنی۔ جگہہ کو شہر بنانا۔
جگہہ مین اوسکے لوگون کو جمع کرنا۔
بھیڑ بکریون کا تھوڑی دودھ والی ہونا۔
تمصیع[۸] رفسکس، درخت اور لکڑی
کٹی ہوئی کو پوست سمیت رکھنا
کہ خشک ہو جاوے۔

تمضر[۹] رفقتض، مضریون پر غصہ کرنا۔
اپنے تئین مضریون کے مانند کرنا یا
مضریون کی طرف منسوب کرنا۔
تمضمض[۱۰] رفسفس، وضو کے لیے
پانی منہہ مین پھرانا اور کلی کرنی۔
وضو کے وقت پانی منہہ مین داخل
ہونا۔ نیند کا آنکھہ مین داخل ہونا کسی
کے پیچھے کتے کا بھوکنا۔
تمضی[۱۱] رفقتک، گذرنا۔
تمضیر[۱۲] رفسکس، کسیکو مضریون کی
طرف منسوب کرنا۔
تمضیض[۱۳] رفسکس، نہایت کھاری
پانی پینا۔
تمطر رفقتض، ملک مین پھرنا۔ پرندہ
کا اوترنے کے وقت شتابی کرنا۔
گھوڑون کا ایک دوسرے پر سبقت
کرتے ہوئے آنا۔ مینہہ کے پیش آنا
مینہہ مین جانا یا اوسکی سردی مین داخل ہونا
تمطط[۱۵] رفقتض، النبا اور کھینچا ہوا
ہونا۔ ابرو اور رخسار کا کھینچا ہوا ہونا
رنگ برنگ کی بات کہنی۔
پانی کا گاڑہا ہونا۔
تمطق[۱۶] رفقتض، تھوڑا تھوڑا چکھنا

ماده
ع مشل
ع مشن
ع مصح
ع مصر
ع مصص
ع مصح
ع مصر
ع مصع
ع مضر
۸۲۳
۱۰ مضمض
۱۱ مضی
۱۲ مضر
۱۳ مضض
۱۴ مطر
۱۵ مطط
۱۶ مطق
۱۲

| مادہ | | |
|---|---|---|
| لا مسی<br>عا مسو<br>عا مسح<br>لا مسک<br>عا مسک<br>شا مشن<br>عا مسی<br>عا مسح<br>شا مشق<br>عا مشج<br>شا مشق<br>لا مشی<br>۸۲۲<br>مشنع<br>مشط<br>مشع<br>۱۵ | تمسیّ رفعتک ہ پارہ پارہ کرنا۔<br>تمسیتہ رفسلعف ہ کسیکو کیف<br>امسیت کہنا یعنے یہہ پوچھنا کہ<br>یہہ شام کے وقت کا مزاج پوچھنا ہے<br>جیسے کیف اصبحت صبح کے وقت کا<br>کیونکہ شام کی تونے کسیکو مساک اللہ<br>جیسے صبحک اللہ بالخیر صبح کے وقت<br>کا سلام یا دعا بالخیر کہنا یعنے خیر کے<br>ساتھہ شام کرے تیری خدا تعالے<br>تمسیح رفسکس ہاتھہ ملنا۔ ایک<br>روغن چیز یا آلودہ پر ہاتھہ پھیرنا کہ<br>اوسکی آلودگی دور ہوجاوے۔ فریب<br>دینے والے کا اچھی اچھی بات<br>کرنا۔ اونٹ کو سارے دن چلانا<br>اور ماندہ کردینا اور اوسکو پشت الٹی<br>کردینا اور دبلا کردینا۔<br>تمسیک رفسکس ہ مشک سے<br>خوشبو کرنی۔ بیعانہ دینا۔ جنگل مارنا۔<br>تمسیش رفسس (ان) اکٹھا کرنا سمیٹنا<br>تمشایر رسفسم چلنا۔<br>تمشیر رفقتص درخت کا برگ<br>وشاخ کو نکال لانا یعنی سبزوا نکری<br>کا اثر ظاہر ہونا۔ پتے کا سبز ہونا۔ | آدمی کا کپڑا پہننا۔ کچھہ کمانا کہ جس سے<br>اپنے عیال کے لیے کپڑا خریدے۔<br>تمشیش رفقتص ہڈی کے<br>اطراف کو گھسنا۔ ہڈی چبانی۔<br>تمشیع رفقتص ہلیدی سے<br>استنجا کرنا یا پتھر سے خاص استنجا<br>کرنا۔ پیالہ میں جو چیز تھی اوسکو کھا لینا<br>تمشیق رفقتص رات کا آخر ہوجانا<br>سپیدی صبح کا آشکار ہوجانا۔ شاخ<br>کا پوست اوکھڑا ہوا ہونا اور اوسکا<br>برہنہ ہوجانا۔ کپڑے کا پارہ ہونا۔<br>تمشّی رفعتک ہ شراب وغیرہ کی<br>تپش کا اعضا میں جاری ہونا۔<br>تمشیتہ رفسلعف چیلیا ہانکنا۔<br>تمشیر رفسکس درخت کا پتے اور<br>شاخ نکال لانا اور اوسکو آشکار کرنا۔<br>جماع پر شادمانی کرنی۔ ایک چیز کو<br>حصہ حصہ کرنا۔ جدا کرنا۔ کسیکو لباس پہنانا<br>تمشیش رفسکس ہ گودے کا ہڈی<br>سے نکالنا اور اوسے کھانا۔<br>تمشیط رفسکس پہلوی شتر میں<br>کنگھی کے مانند چربی کا ظاہر ہونا۔<br>تمشیع رفسکس اگل سرخ سے |

تمعزز (ففکف) جھوٹی کا نرم ہی اور الگ الگ ہونا۔

تمعیر (فکسکن) ابن معزا کا شعر پڑھنا عبد الملک بن مروان نے جریر سے کہا کہ مجھے ابن معزا کا شعر پڑھو۔

تمغفت (ففکفض) دشمن بنالینا

تمغحس (ففکفض) جی متلانا۔

تمقس (ففکفض) جی متلانا۔

تمقق (ففکفض) شراب کو تھوڑا تھوڑا پینا۔ عرب میں بولتے ہیں امامۃ جعبر بحج تمقعۃ یعنی اوسکے زخم لگا اور اوسنے اوسکی پرواہ نہ کی اور زخم نے اوسے کچھ ضرر نہ پہنچایا۔

تمقیت (فکسکن) دشمن بنالینا

تمقیش (فکسکن) تھوڑا تھوڑا پانی گرانا

تمقیط (فکسکن) کسیکو غصہ دلانا

تمقیق (فکسکن) اپنے عیال پر سختی اور تنگی کرنی۔ پرندہ کا اپنے بچہ کو چونچ سے خوراک دینا۔

تمک (فض) [illegible]

تموک (ضفس) لینا اور پر گوشت ہونا کوہان کا شتر کا۔

تملث (ففکفض) توقف کرنا ایک کام میں [illegible]

تملحل (ففکفض) [illegible] بنانا

تملک (ففکفض) بوسہ [illegible]

تملکنا [illegible] کا گودا [illegible]

تملق (ففکفض) [illegible] کے نزدیک [illegible] ہونا ایک [illegible]

تملی (ففکفض) سینے میں [illegible] ہونا کھوڑے کا [illegible] کو [illegible] سے کھانا

تملیر (فکسکن) [illegible] مکھنا [illegible]

تملاق (ضفضجی) جمع تملاقات

(ضفضفس) جمع [illegible]

تمالح (ففکفض) موٹا ہونا

تملز (ففکفض) [illegible] من [illegible] ایک کام سے رہائی لینی

تملص (ففکفض) رہائی پانی

تملط (ففکفض) تیر کا بے پر اور جھگڑا ہونا

تملع (ففکفض) اپنے تئیں جھوٹا ظاہر کرنا

تملق (ففکفض) چاپلوسی کرنی

تملک (ففکفض) زبردستی سے ایک چیز کو ملک کرنا

تملل (ففکفض) [illegible]

[illegible] زبان سے آواز نکالنی
[illegible] نا۔
[illegible] رتفعّل) کا ڈرنا ہونا۔
[illegible] رتفعّل) [illegible] وغیرہ کا [illegible]
[illegible] سے جینا۔
[illegible] رتفعّل) گالی دینی
[illegible] رتفعّل) چاٹنا۔ سایہ کے
[illegible] جابجا جگہ بہ جگہ پھرنا۔ چرانے
کے وقت سے درنگ کرنا۔
تمغلّج رتفعّل) کمان کے چلّہ [illegible]
کو نرم اور چکدار کرنا۔ چوب [illegible]
سخت سے بنے دینا تاکہ [illegible] ہو جائے
پوست کو روغن پلانا۔ اشکنہ کو [illegible]
سے تر کرنا۔
تمعّج رتفعّل) لپٹنا۔ دوہرا ہونا۔
جگہ بہ جگہ پھرنا۔ چرانے کے وقت
سے درنگ کرنا۔
تمعدد رتفعّل) معدّ کے لباس میں
ہو جانا۔ لڑکے کا جوان اور سخت ہو جانا
معدیوں کی روش اختیار کرنی معدیوں
کے ساتھ مشابہ ہونا شدت عیش
اور سختی زندگانی میں۔ دو [illegible]
بیمار کا اچھا ہونا۔ دبلے کا موٹا ہونے لگنا

[illegible] رتفعّل) [illegible] سے چہرہ
[illegible] کا [illegible] کا گر پڑنا۔
تمعّر رتفعّل) [illegible] جانا۔ چہرہ کا
[illegible] کا خوب درد کرنا۔
[illegible] رتفعّل) [illegible] کو دردینا
[illegible] رتفعّل) [illegible] کا گر پڑنا
تمعّق رتفعّل) بہت گھبرا ہونا
[illegible]
[illegible] رتفعّل) خاک میں لوٹنا۔
[illegible] رتفعّل) [illegible] سے چلنا۔ [illegible]
[illegible] کا [illegible] ہونا۔
[illegible] رتفعّل) [illegible] منقطع ہو جانا
[illegible] کو [illegible] کر دینا۔
تمعّض رتفعّل) خشمناک کرنا
کام کا کسی پر دشوار کرنا۔
تمعّک رتفعّل) خاک میں لوٹنا
تمعشر رتفعّل) معشور توڑنا [illegible]
تمغّص رتفعّل) پیٹ کا درد میں آنا
تمغفر رتفعّل) مغفار توڑنا۔ [illegible]
مغفار [illegible] ہے کہ جو لفظ
[illegible]
تمغّع رتفعّل) [illegible] گھاس [illegible]
پہنچنا۔ [illegible] کا [illegible] ہونا

ریشم کو گرانا۔ بالون کا اور ریشم کا نیچے ور است جانا۔ جھکنا۔

تمول رفتقض رہت مال ہونا۔

تموع رفنفک رہتر ون سے مشابہ ہونا۔

تمون رفتقض عیال کو بہت نفقہ دینا۔

تموص رفسکس کپڑا دہونا اور اسکو پاک کرنا۔ کھس جانا۔

تمول رفسکس مالدار کر دینا۔

تمویہ رفسکس خبر جہی ہونی کے برخلاف خبر دینی۔ جگہ کا تر ناک ہونا۔ یا اندنی مین پانی بہت کرنا۔ ایک چیز پر سونے یا چاندی کا ملمع کرنا اور تلبیس کرنا۔

تمہ رفف، تمایہ رفسعف دودہ کا بدلنا اور بد مزہ ہو جانا۔

تمہد رفتقض ہموار ہونا۔

تمہر رفتقض ماہر و رسا ہونا۔

تمہص رفتقض پانی مین نیچے جانا جو طے کھانا۔

تمہق رفتقض شرب کو عشت ساعت پینا۔

تمہک رفتقض کاغذ کو اچھا اور آراستہ کرنا۔ مرد کا ناتھہ مین نقش کرنا۔

تمہل رفتقض توقف کرنا۔ خیر اور بھلائی مین پیچھے آنا۔

تمہلد رفتقض ظہرانا۔ بدل جانا۔

تمہم رفسکع ایک چیز کو پانی مین دینا۔

تمہید رفسکس بچھانا۔ کام کو سہل اور اچھا کرنا۔ عذر کو بیان کرنا۔

تمہیر رفسکس مہر مانگنا۔ مہر دینا۔

تمہیص رفسکس کپڑے کو پاک کرنا اور اسکو سفید کرنا۔

تمہیق رفسکس کھجور کا خراج اندر سے بیہودہ دینا۔

تمہیک رفسکس زور سے گھسنا۔

تمہیل رفسکس مہلت دینی۔

تمیال رفسفس پھر جانا۔ خم کھانا۔

تمیح رفتقض ناتوان چلنا۔ جیسے رسی کے ٹوٹے چلنا۔

تمیخ رفتقض مٹک کر چلنا۔

تمیر رفتقض جلا ہونا۔ غصے کے مارے اپرا پانہ ہونا۔

تمیس رفتقض ناز سے چلنا۔

تمیع رفتقض پانی بہنا۔ پگھلنا۔

تمیلہ رضفسعہ جانا۔ جل اسا جانور ہے بلی کی مانند۔

[illegible]

[illegible] سے

لینا - شعر کا ایک مصرع کہنا اور دوسرے

شخص کا اوس کا دوسرا مصرع کہنا -

[illegible]

آپس سے بھاگنا و نفرت کرنی۔ تنافی لفظ سے کہتے ہیں بعض اہل اللسان
تنادس رفسفض ایک دوسرے کو لقب دینا
تنادم رفسفض مجلس شراب میں آپس میں ہمنشینی کرنی۔
تنادی رفسفک آدمیوں کا جمع ہونا۔ ایک دوسرے کو پکارنا۔ آپس میں ایک مجلس میں بیٹھنا۔
تناذر رفسفض ایک دوسرے کو ڈرانا
تنازح رفسفض شور بنانے والا
تنازب رفسفض ایک دوسرے کا لقب رکھنا
تنازع رفسفض خصومت کرنا گروہ کا آپس میں ایک چیز کو لینا
تنازق رفسفض ایک دوسرے کو گالی دینی
تنازل رفسفض آپس میں کشتی و جنگ و پیکار کرنی۔
تناسخ رفسفض میراث کی تقسیم سے پہلے ایک وارث کا بعد ایک وارث کے مر جانا اور ایک بعد دوسرے زمانہ کا پھرنا اور نقل کرنا ارواح کا طرف اجساد کے
تناسف رفسفض بھید اور پوشیدہ رکھنا بات کا۔
تناسق رفسفض ایک دوسرے کے ساتھ منتظم اور آراستہ ہونا۔

تناسخ رفسفض ایک دوسرے سے خوش ہونا
تناسی رفسفک کسی کو فراموش کرنا
تناشب رفسفض قوم کا اکٹھا ہونا اور ایک دوسرے میں متعلق ہونا اور نزدیک ہونا
تناشد رفسفض آپس میں شعر پڑھنا
تناشیر رفسکسں اطفال مکتب کی سیر مشقیں واحد اس کا ...
تناصر رفسفض ایک دوسرے کو مدد دینی بعض چیز کا بعض کی مدد کرنا
تناصف رفسفض ایک کا دوسرے کو انصاف دینا
تناصیب رفسکسں راہ کے نشان کہ پتھر کے بنائے ہیں۔
تناضل رفسفض تیر اندازی میں جنگ و معارضہ کرنا۔
تناطح رفسفض آپس میں سینگ مارنا مینڈھوں کا
تناطی رفسفک آپس میں سبقت پکڑنی۔ کلام کو لینا اور اوس کو کھینچنا کسی کے ساتھ جا لفشانی کرنی
تناظر رفسفض ایک دوسرے کو دیکھنا۔ مقابلہ کرنا۔ کام میں مشقت اور ریاضت کھینچنی


ج

تمیمہ [illegible] ۔ [illegible]
کردہ [illegible] سے میں [illegible] گردن میں [illegible]
لٹکانے [illegible] لیے ۔ [illegible]
[illegible] جمع ۔
تمغ [illegible] گرد آلودہ [illegible] ۔
[illegible] ناجڑا کرنا ۔
تمکن (رفعکس) [illegible] اس [illegible] کرنا
تملل (رفعکس) بچھونا [illegible] کرنا
شکایت کرنی [illegible] کے درمیان
[illegible] ہونا ۔
تمنع (رفعکف) آمادہ ہونا ۔ [illegible]
[illegible] سے [illegible] آگاہ کر دینا ۔
تن [illegible] (رکت) [illegible] وغیرہ
[illegible] جمع ۔
تنا [illegible] جمع [illegible] ۔
تناوہ (رفعف) کسی جگہ
میں اقامت کرنی ۔
تنابز (رفعفض) ایک دوسرے
کو عیب کرنا ۔ آپس میں ایک دوسرے کا لقب کہنا
تناقف (رفعفض) [illegible] کا
[illegible] اچھا ہونا ۔
تناتل (رفعفض) [illegible] کا دراز
ہونا اور [illegible] ہونا ۔

تنافر (رفعفض) پراگندہ ہوجانا
لوگوں کا [illegible] ہونا ۔ مرجانا ۔
تناقل (رفعفض) کسی کی طرف
جھکنا [illegible] ۔ [illegible]
تناجب (رفعفض) آپس میں [illegible] پراگندہ کرنا
تناجح (رفعفض) خوابوں کا
پے در پے [illegible] آنا ۔
تناجح (رفعفض) آپس میں ناز کرنا
پانی کا [illegible] ایسا کہ پانی کے گڑھا
میں نشان چھوڑ جاوے ۔
تناجر (رفعفض) کشت و خون
آپس میں جنگ و [illegible] کرنی ۔
تناجش (رفعفض) بیع وغیرہ
میں زیادہ کرنا ۔
تناجی (رفعک) آپس میں بھید کہنا ۔
تناحب (رفعفض) قتال وغیرہ میں
ایک وقت تک آپس میں پیمان اور
وعدہ کرنا ۔
تناحر (رفعفض) قوم کا ایک امر پر
حرص کرنا اتنا کہ کشت و خون تک نوبت
پہنچے [illegible] قریب ہو دو گھروں
کا آپس میں مقابل ہونا ۔ راہ سے عدول کرنا
تناد (رفعفض) پراگندہ ہونا ۔

تناہد رفقعض، ہر کسی کا ایک دوسرے
کے برابر نفقہ یا چیز لانا۔
تناہز رفقعض، دو شخصوں کا ایک
شہر کی امارت کے لیے ایک دوسرے
پر سبقت کرنا۔ آپس میں فرصت پانی
تناہض رفقعض، جنگ میں دو
دشمنوں کا ایک دوسرے پر پڑنا
اور قصد کرنا۔
تناہی رفقعکہ، ایک چیز کا حد پر
پہنچنا۔ کام وغیرہ سے رکے رہنا
ایک دوسرے کو باز رکھنا۔ پانی کا حوض
میں ٹھہرنا۔ آرام و قرار پکڑنا۔
تنائف رفقعک، تنوفہ
فراخ جنگل بعید الاطراف۔
تناوس رفقعض، خواب آلودہ
ہونا۔ خواب کا غالب ہونا۔
کا ایک دوسرے پر جم جانا۔
تناوی رفقعک، ہونا۔
تناوح رفقعض، کئی
اور لوگ اور سانپ کا آواز کرنا۔
تنبال رفقعض، ٹھنگنا۔
تنبالہ رفقعفہ، ٹھنگنا۔
تنبب رفقعض، پانی کا

تنبج رفقعض، ہڈی کا سوج جانا
اور اسکا بلند ہونا۔
تنبط رفقعض، نبطیوں کے مانند ہونا
اپنے تئیں نبطیوں کی طرف منسوب کرنا
بات نکالنی۔ کوئیں سے پانی کا نکالنا
تنبع رفقعض، پانی کا تھوڑا تھوڑا نکلنا
تنبل رفقعض، کسی کے پاس جو کچھ ہو
اسکو لے لینا۔ آگاہ و تیز خاطر ہونا
گرامی ہونا۔ پتھر اور ڈھیلے سے
استنجا کرنا۔ تیز دستی کرنی۔ اچھے
اپنے ساتھ تیر رکھنا۔ اپنی طرف سے
فضل ظاہر کرنا۔ اونٹ اور مویشی
وغیرہ کا مر جانا۔ سخت تیر کو ایک ایک
کرکے لینا۔
تنبل رکسف، تنبال رکسفس، ٹھو
ٹھنگنا تنابیل رفعکس جمع
تنبل رکسف، تانبول رکسفس
بمعنی تامول۔
تنبی رفقعض، نبوت کا دعوی کرنا
تنبہ رفقعض، بیدار رہنا۔
تنبیت رفعکس، گھاس کا
انبوب رضمفس، نکالنا۔ گھاس
کا یا انبوب ہونا۔

۱۲

[illegible] ظاہر کرنا۔

تناعس (تفاعل) زمین سست ہو جانا آسیا کا (؟) آہستہ آہستہ گھومنا۔

تناعی (تفاعل) لوگوں کا ایک دوسرے کی موت کی خبر دینا۔

تنافس (تفاعل) کسی ایک چیز پر دو شخصوں کا رغبت کرنا۔

تنافر (تفاعل) ایک دوسرے سے بھاگنا، نفرت کرنا۔

تناغی (تفاعل) آپس میں باتیں کرنا۔

تنافذ (تفاعل) آپس میں حاکم کے پاس مقدمہ لے جانا۔

تنافر (تفاعل) ایک دوسرے کا فخر کرنا — قوم کا آپس میں حاکم کے آگے جانا۔

تنافل (تفاعل) آپس میں تحفے دینا۔

تنافس (تفاعل) بطور مقابلہ کے ایک چیز میں رغبت کرنی۔

تناقط (تفاعل) وستر سے مال اٹھا کر کھانے کے لیے ایک سے بانٹ لینا۔

تناکر (تفاعل) آپس میں ایک دوسرے کو نفی کرنا۔

تناکح (تفاعل) آپس میں نکاح کرنا اور رسی وغیرہ کو کھولنا۔

تنازع (تفاعل) آپس میں جھگڑنا — عہدو پیمان توڑ ڈالنا۔

تناکر (تفاعل) آپس میں دشمنی کرنا — راز داری کرنی۔

تناکر (تفاعل) اپنے تئیں نادان ظاہر کرنا، نہ پہچانے ہوئے لانا، نہ پہچاننا۔ قوم کا ایک دوسرے پر دشمنی اختیار کرنا۔

تناکف (تفاعل) کلام کو نوبت بنوبت کہنا۔

تناوح (تفاعل) عاجز و قاصر ہونا، سست اور فروماندہ ہونا۔

تناوب (تفاعل) پانی کو سنگریزہ قسمت سے آپس میں تقسیم کرنا — پانی کو آپس میں نوبت بنوبت لینا۔

تناوح (تفاعل) پہاڑ کا مقابل ہونا، چھوڑ دینا۔

تناوح (تفاعل) آپس میں روبرو ہو جانا۔

تناوش (تفاعل) گھیر لینا، پیچھے رہنا، دور ہونا، ہاتھ پھیلانا اور کسی چیز کو لینا — کھل جانا۔

تناول (تفاعل) لے لینا۔

تناوم (تفاعل) جھوٹ موٹ سونا، سوتا ظاہر کرنا۔

تناہب (تفاعل) اونٹوں کا اپنے سموں کے نیچے بہت زمین لے لینا۔

تنجیخ (تفعیل) حرکت کرنی شتر کا — ہونا درست اور متوازن ہونا یا تکبر کرنا
تنجیز (تفعیل) نظر بد لگانی —
تنجیس (تفعیل) ایک قسم کا پرندہ
تنجیک (تفعیل) زمین بلند کو ڈھونڈنا کسی کو نظر بد لگانے کے واسطے ناآشنا بنا کرنا —
تنجیب (تفعیل) درخت سے پوست اتارنا —
تنجیعہ (تفعیل) رہائی پانی — رہائی دینی — زمین کی بہتر ... اور ...
تنجید (تفعیل) روندنا — گھر کو آراستہ کرنا — آزمانا — مضبوط ہونا — عقل والا ہونا —
تنجیس (تفعیل) ناپاک و پلید کرنا — جو چیز کہ نظر بد کی دفع کے لیے کرتے ہیں تعویذ گنڈہ وغیرہ — پلیدی — سامنے کی ہڈی حیض وغیرہ کا لتہ
تنجیع (تفعیل) چارہ کا چرانا — اثر کرنا اور سخن پند کا آدمی میں اثر کرنا
تنجیف (تفعیل) ہوا کا قبرہ کو اڑا دینا کسی کے لیے چھوٹا سا حصہ دودھ میں سے جدا کرنا —
تنجیم (تفعیل) ستارہ کا وقت پہچاننا

قرض کو یا ... کو ... کر ادا کرنا —
تنحس (تفعّل) خبر پوچھنی اور اوسکی جستجو کرنی — بھوکا ہونا — دارو کھانے کے لیے بھوکا رہنا — ... کا گوشت کھانا چھوڑ دینا —
تنحل (تفعّل) دوسرے کے شعر کو اپنا بنا لینا
تنحنح (تفعلل) سینہ میں آواز کا پھرنا — گلا صاف کرنا —
تنحی (تفعّل) یکسو ہونا — ایک چیز کا زائل ہونا — دور ہونا —
تنحیب (تفعیل) کام میں سخت کوشش کرنی — منادی کو نذر کے واسطے ... اونٹ کو زور سے ہانکنا اور ماندہ کر دینا — سفر کا کسی کو مشقت میں ڈالنا —
تنحیۃ (تفعیل) زائل کرنا — یکسو کرنا — دور کرنا —
تنخ (فعل) بدہضمی ہو جانی —
تنخس (تفعّل) حرکت کرنی میلان کرنا
تنخخ (تفعّل) رنگ گرانا — ابر کا سارا پانی بہانا —
تنخل (تفعّل) چھاننا — بہترین چیز کو چھانٹنا —
تنخم (تفعّل) سینہ یا ناک سے بلغم کھینکنا

مادہ
[illegible]

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] نکالنے کے لیے |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] کھنگھنا |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] اچھی طرح سے نہنا |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] خبر کو بیان کرنا |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] حال اور گھٹانے |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] قد کا مرد |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] چیز کو بدبو کرنا |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] ہو جانا |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] پراگندہ کرنا |
| [illegible] | [illegible] بہت سے کو ماننا لکھنا | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] کر دی |
| [illegible] | تبر دینا | [illegible] |
| [illegible] | تنفیشہ (ف کس) بیدار کر دینا | [illegible] |
| [illegible] | خبر سے واقف کرنا [illegible] | [illegible] علاج اور دوا کی چاہنی |
| [illegible] | [illegible] گناہ سے [illegible] | [illegible] ہونا |
| [illegible] | [illegible] رنگ دلپار نا [illegible] | [illegible] ہوا کی چاہنی |
| [illegible] | ہمیشہ جاری رہنا اور منقطع ہونا | کو ڈکارنا [illegible] پراگندہ کرنا |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] ناپاک ہونا |
| [illegible] | عجب کو پوشیدہ کرنا | [illegible] کام کرنا [illegible] نکلے |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] خواہش یا عشق |
| [illegible] | کے بعد پلید ہونا | [illegible] |

[illegible] نجم ۱۲

ماده

[illegible]

۸۲۵

[illegible]

کسی چیز کو سونگھنا۔ کسی چیز کا خوشبو آلودہ ہونا۔ علم جاننے میں تیزی کرنی۔ ہوا کا نرم چلنا۔ [illegible]
تنشیط (رفتفس) ہانکنا۔ [illegible] پر آواز [illegible]
[illegible] (رفتفس) بچہ [illegible] کھینچنا کہ [illegible] چوپایہ کو [illegible] میں لانا۔
تنشیع (رفتفس) [illegible] دہان کا [illegible]
[illegible] (رفتفس) [illegible] کی جگہ کا سر [illegible] ہونا۔ درخت کا کانٹے کے نیچے پھر درخت سے نکل آنا۔ خرما کے درخت کا شاخ [illegible] نکالنا۔
[illegible] (رفتفس) [illegible] مرتب دینا
[illegible] (رفتفس) ایک کام کا [illegible] ہونا اور [illegible] جمع کرنا [illegible] لفظ کو [illegible] نہیں کرنے [illegible] آزاد کرنا۔ گوشت کی [illegible]
[illegible] (رفتفس) [illegible] جرب [illegible] باطنا۔

حمل میں خون لانا۔
تنزلق (رفتگس) چوپایہ کو [illegible] کود کروانی۔
تنزیل (رفتگس) پیچھے بھیجنا۔ ترتیب دینا۔ نیچے لانا
تنزیہ (رفتگس) [illegible] اور بدی سے اپنے تئیں دور رکھنا۔ بدی اور پرہیز کرنا۔
تنس (رفعت) کسی سے بھلائی کی بو پانی
تنساس (رفتفس) شتاب چلنا۔ پانی میں گھسنا۔
تنسب (رفتفس) کسی کی خویشی اور قرابت کا دعوی کرنا۔
تنشر (رفتفس) رسی کا بکھر جانا۔ زخم کے ٹوٹنے سے پیپ کا پراگندہ اور منتشر ہو جانا۔ کپڑے اور کاغذ کا پارہ پارہ نیچے گرنا۔ نعمت کا پراگندہ اور متفرق ہونا۔
تنسف (رفتفس) دشمن سے دونو ہاتھ پکڑ کر اپنے پانوں سے اوسے کشتی میں پھسلانا۔
تنسق (رفتفس) بمعنے تناسق
تنسک (رفتفس) پوجنا۔
تنسم (رفتفس) سانس لانا۔ سانس [illegible]

[illegible]

تنحنح رفتفعل ۱ بات تھی

تنحنح رفتفعل سیری اور بہی شکم کے سبب بکریون کا متفرق ہونا —

تنشع رفتفعل ۱ اپنے تئین اوس چیز سے کہ اپنے مین موجود نہیں ہے سیر کرنا —

تنمش رفتفعل ۱ زمین پر گر پڑنا اور وہین پر ہاتھہ رکھنا — خبرون کو پوچھنا - اطراف و جوانب سے آب چاہ جاری ہونا —

تندل رفتفعل ۱ مندیل سے ہاتھہ پاک کرنے اور ملنا —

تندم رفتفعل پشیمان ہونا —

تندی رفتفعل بتکلف جوانمردی اور سخاوت کرنی - افزون تر ہونا - چوپایہ کا دو نوبت آب کے درمیان چرنا —

تندیہ رفتفعل چراگاہ ترش سے چراگاہ شیرین مین اونٹون کا لانا - دو نوبت آب کے درمیان اونٹون کو اور وہ یہہ کہ اونٹ کو تم پانی پر لاؤ اور وہ ذرا سا پیوے پہر تم اوسے ذرا چراؤ اور پہر پانی پر لاؤ - سرا بچہ ناک کرنا

تنزر [illegible] کسی کے عیبون کا آشکارا کرنا اور اوسکو بد سنوانا - اونٹون کو پراگندہ کرنا —

تنزبغ رفتفعل ۱ بچے کو تجبر پر گرانا

تنزر رفتفعل ۱ کم ہونا - نبی نزار کی طرف اپنے تئین منسوب کرنا یا اپنے تئین نبی نزار کی مانند کرنا یا نبی نزار مین داخل ہونا —

تنزع رفتفعل ۱ سرعت کرنی —

تنزل رفتفعل ۱ توقف اور مہلت سے نیچے اوترنا —

تنزہ رفتفعل ۱ دور ہونا جلال الدین صاحب قاموس کہتا ہے کہ تنزہ کو پانیون اور سبزہ زارون اور روضون کی طرف نکلنے مین استعمال کرنا غلط فیح ہے —

تنزیہ رفتفعل ۱ بمعنے تنزیہ —

تنزی رفتفعل ۱ سرعت کرنی - کودنا —

تنزیتر رفتفعل ۱ کودنا اور اچہل کود کروانی - نر کو مادہ پر بنرم جفتی کروانا —

تنسر رفتفعل ۱ گم کرنا —

تنسر رفتفعل ۱ ایک چیز کو ایک سے پاک کرنا - ہرنی کا اپنے بچہ کو پالنا —

تنسیف رفتفعل ۱ عورت کا

[illegible]

[illegible]

کسی کے نزدیک [illegible]

[illegible]

تنضال [illegible]

[illegible]

تفضل [illegible]

[illegible]

ہونا العیدا [illegible]

[illegible]

ستون [illegible]

[illegible]

تنفخ (تفعل) پھولنا۔
تنفط (تفعل) غلو مائی کرنی
تنفل ... ہلنا۔ ... کا اور وادی
بیابان سے گذر جانا۔ ناقہ کا
... ہونا۔
تنفیع (تفعل) ... ہنا اور سینہ
میں گریہ بھر آنا تاکہ ہچکی سی کے
... ہو جاوے۔
تنفق (تفعل) ... کا پانی
... کا سیاہی کو اندر گرے
... لینے کو اپنے اندر مخفی لینا۔
تنفتح (تفعل) ایک کام کو شروع
کرنا۔ عمر جانے میں نرمی کرنی
تنشوی (تفعل) اپنی حاجت کے
لیے جانا اور کو بیچ کرنا۔
تنشق (تفعل) سونگھنا مست ہو جانا
تنشیف (تفعیل) ...
... ایک چیز میں نکل
جانا ... کے کام میں پڑنا
تنشیر (تفعیل) ... کرنی
... نشو و نما کروانا۔
تنشیل (تفعیل) بچھانا۔ چادر

کرنا۔ نشر و لکھنا۔
تنشیط (تفعیل) ... گرہ کو ہو ناکرانا
آسان گرہ باندھنی۔
تنشیف (تفعیل) ... کپڑے سے
... پانی لینا۔ دونت کا
... ہونا۔
تنشیل (تفعیل) ... آشنا کرانا
تنشیم (تفعیل) ایک امر کو شروع کرنا
بدی میں داخل ہونا اور اس میں پڑ
جانا۔ گوشت کا بدل جانا اور اسکا
بدبودار ہو جانا۔ زمین کا پانی ... سانا
کسی کے ذکر کو بلند کرنا۔
تنصب (تفعل) پاؤں پر اور ہونا
غبار کا بلند ہو جانا۔ شر کے گرد و
گردہوں کا کھڑا ہونا۔
تنصح (تفعل) کپڑا سینا۔ ناصحون
کے ساتھ مانند ہونا۔
تنصر (تفعل) نصرانی ہونا۔ کسی کی مدد
میں جانفشانی اور شفقت کرنی
تنصف (تفعل) عورت کا ... کو
اوڑھنا۔ خدمت کرنی۔ خدمت
چاہنی انصاف ... سے جوہر کر
کسی کے پاس پہنچ اور اسکو چاہنا

ویرانگندہ ہونا۔ صبح و شیحال کا چلنا۔
تنغیر (تفکس) تیر کا نقش پر پھر پھر انا تاکہ اوسکی چال درستی اور صحتی معلوم ہو جاوے
تنعس (تفکس) سو لانا۔
تنعل (تفکس) جوتا پہننے اور پاؤں میں نعل لگانے اور قدم کے سم کو خرابی سے باندھنا۔
تنعم (تفکس) فراخ اور آسانی کا گذرانا۔ نعمت کرنا۔
تنغمر (تفکس) کا طرح بچے کا ایک درخت
تنغر (تفقض) کا گرمی بیل جانا اور غصّہ کا ڈرانا۔ پرغشم ہونا کسی بچے حلق میں انگلی ڈالنی۔
تنغش (تفقض) کا پھیلنا پرندہ اور چارپایہ وغیرہ کا اپنی جگہ پر حرکت کرنا۔
تنغص (تفقض) زندگانی کا مکدر ہونا۔
تنغض (تفقض) حرکت کرنی اور مضطرب ہونا۔
تنغم (تفقض) آہستہ آہستہ گانا۔ آہستہ گانا۔
تنغیر (تفکس) کسی پر آواز کرنی کچھ تو نرم ملت

تنفص (تفکس) عطا کی بخشش کو کدر کرنا
تنفج (تفقض) اپنی شیخی سے زیادہ دعویٰ کرنا
تنفذ (تفقض) ایک چیز کا ایک چیز سے گذرنا اور ایک بعض سے رہا ہونا۔
تنفس (تفقض) سانس لینا۔ صبح ہونا۔ کھینچنا۔ صبح کا پھولنا۔ کمان کا چرخنا۔ دن کا کھلنا۔ دریا کا نہر کے سبب پانی چھڑکنا۔ برتن کو بغیر موہنہ سے جدا کئے پانی پینا۔ یا الگ الگ تین سانس میں پانی پینا۔ اور ایک صورت سے
تنفش (تفقض) یعنی انتفاش روئی اور کیشم اور بالوں کا ایک بعض سے جدا ہونا۔
تنفض (تفقض) جگہ میں جو کچھ ہو اوسکو دیکھنا تاکہ پہچان لیوے۔
تنفط (تفقض) غصہ کے مارے جوش مارنا اور غصہ میں جلنا۔ آبلہ کرانا
تنفع (تفقض) ہاتھ کا کام کے سبب آبلہ ناک اور سست اور تنگ ہونا
تنفق (تفقض) جنگلی چوہے کو سوراخ میں سے باہر نکالنا۔
تنفل (تفقض) غنیمت میں سے

مادہ
نعب
نعس
نعل
نعم
نغر
نغش
نغص
نغض
نغم
نغر
۸۳۹
نفص
نفج
نفذ
نفس
نفش
نفض
نفط
نفع
نفق
نفل

[illegible]

تنطّس رتفعّل خوب پاکیزہ ہونا طہارت میں خوب احتیاط کرنی ـ کلام اور طعام اور لباس اور تمام امور میں خوب احتیاط کرنی ـ خوب جاننا ـ [illegible] میں باریک چلنا ـ خبر کی جاسوسی کرنی

تطلّع رتفعّل سمجھ کر [illegible] دور سے دیکھنا ـ بات کو تاڑ لینا ـ کہنا اموروں میں زیرکی اور باریکی کرنی ـ

تنطّف رتفعّل کان میں بالا پہننا عیب میں آلودہ ہونا ـ خبر کا انتظار کرنا ایک چیز سے پرہیز کرنا ـ

تنطّق رتفعّل اپنی کمر پر پٹکا باندھنا

تنطّط رتفعّل دور ہونا ـ

تنطّف رتفعّل کسی کو متہم کرنا عیب ناک کرنا ـ دوسرے کے کان میں گوشوارہ کرنا ـ

تنطیق رتفعیل پٹکے کا کسی کی کمر پر باندھنا ـ پشتہ [illegible] کے آدمی

تنظّر رتفعّل ایک چیز کی طرف دیکھنا ـ درنگ کرنا ـ مہلت دینی ایک چیز کی امید رکھنی

تنظّف رتفعّل پاکی کرنی پاکیزہ ہونا

تنظّر رتفعّل امید کا [illegible] ہونا بعد [illegible] ہونا

[illegible] رتفعّل [illegible] کرنا

تنظّف رتفعّل [illegible]

تنظّم رتفعّل بہم پیوستہ ہونا ـ اور موتی کا لڑی میں پرونا ـ جمع ہونا ـ موتی کا نظم [illegible]

تنعّب رتفعّل کوّے کا آواز کرنا یا آواز کرنے کے وقت گردن لمبی کرنی اور سر ہلانا

تنعّل رتفعّل جوتی پہننی ـ

تنعّم رتفعّل فراخ اور آسائش زندگانی ہونا ـ نرم ہونا ـ ننگے پاؤں چلنا ـ [illegible] پر اصرار کرنا ـ موافقت کرنی ـ

تنعنع رتفعلل دو بدو ہونا ـ مضطرب

ردی زمین سے پانی کی ندی سواد کی
کے پانی سے لبریز ہونے کی جگہ تنانیر
رفضکنیس جمع تنور فعن اردو میں تنور ہے
ایسے پر قطرات اور چونا ملنا تنوم
کا شکست کھایا ہوا ہونا آگ
کو دور سے دیکھنا
تنوبی رفتضسک ستارہ
تنوش رفتفض رومال سے
ہاتھ ملنا پاک کرنا
تنوط رفتفض جیسے تنوط
تنوط رفعتک ایک پرندہ ہے
چھوٹا چڑیا کے برابر کہ جنگلوں میں
برگ درخت کے تاروں سے
گھونسلا فانوس کی شیشی کی شکل کا بناتا
ہے اور بالائی شاخ میں لٹکا
دیتا ہے ہندی بیا
تنوع رفتقض طرح بطرح کا
ہونا شاخ کا حرکت کرنا چلنے وغیرہ
میں آگے اور متقدم ہونا
تنوفہ رفعلہ جیسے تنوفیہ
بیابان یا زمین فراخ بعید الاطراف
دشت بے آب و دم میں اگرچہ گیاہ
ناک ہو جمع تنائف

تنوق رفتعل اچھی تنوق
تنوم رفتفعس خواب دیکھنے
یا خواب میں جماع کرنا
تنوم رفتفس روز گرد
رفعلہ جیسے تنوم رفتصف ایک
تنومہ رفعلہ درخت تنوم
کو کھانا اونٹ کا
تنوی رفعلت قصد کرنا
تنویۃ رفعلہ حاجت کا جاری
کرنا خرما کی گٹھلی بلند ہو جانی
خرما کی گٹھلی کو پھینکنا ایک کام کو
کسی کی نیت پر سونپ دینا
تنویح رفعلس زمین کو پانی
اور کھاد کے لیے قوت بخشی
تنویر رفعلس کسی پر کام مخلوط اور
مشتبہ کرنا کسی کے ساتھ نورہ
کا عمل کرنا روشن ہو جانا
روشن کرنا صبح کا روشن ہونا
خرما میں گٹھلی کا ظاہر ہونا درخت
کا پھول سے آنا سوئی سے
ہاتھ گودنا اور نیل یا سیاہی چھڑکنا
تا کہ نشان رہ جاوے شکست کا
پانا عورت کو تہمت سے دور رکھنا

[illegible] تیز [illegible] کرنا

[illegible] غصہ کرنا [illegible] غصہ ہونا

[illegible] متغیر ہونا

تمضمض (ف ن ع) [illegible] دوسرے

[illegible]

[illegible] (ف ن ع) [illegible]

[illegible] داخل ہونا

[illegible] (ف ن ع) باز کا ایک جگہ سے

دوسری جگہ جانا، بلند ہونا

تمہید (ف ن ع) بچھانا، پھیلانا، بڑھانا

[illegible] کسی کی طرف [illegible] کرنا

[illegible]

[illegible] کے ساتھ سخن پہنچانا

[illegible]

[illegible] (ف ن ع) غصہ کرنا، تند خو ہونا

[illegible] (ف ن ع) کسی کا مکر و عیب

پوشیدہ رکھنا

تنمیش (ف ن ع) بھید کا چھپانا

سخن چینی کرنا

[illegible] (ف ن ع) [illegible]

[illegible]

[illegible] (ف ن ع) ایک چیز کی طرف [illegible]

[illegible] کرنی

[illegible] (ف ن ع) [illegible]

[illegible]

[illegible] (ف ن ع) کتاب کو خوب

[illegible]

[illegible] منقش کر ڈالنا

تنوع (ف ن ع) [illegible] قسم ہونا

[illegible]

تنواط (ف ن ع) [illegible]

[illegible]

تنوب (ف ن ع) ایک قسم کا بڑا

درخت [illegible] جس کی [illegible] سے قطران

لیتے ہیں

تنوخ (ف ن ع) [illegible]

[illegible] ثابت [illegible]

تنوج (ف ن ع) [illegible]

[illegible] کرنا

[illegible] (ف ن ع) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

تنور (ف ن ع) جیسے [illegible]

تنشیّتہ رفسکفنہ کام کو منضبط نکرنا۔
تنیشیح رفسکس ہڈی کا سخت و
قوی سا کر دینا ۔ ہڈی کا ریزہ ریزہ
کرنا اضداد سے ہے ۔ بخشنا ۔
تنیگیر رفسکس نقش و نگار کرنا ۔
تنیشیف رفسکس ایک چیز پر افزون نا
توز فت ، اکیلا چھلکا ۔ ایک لڑ
کی رسی ۔ اتواور رفسفسم جمع ۔ مرد
دین و دنیا سے بے پروا ۔ گھڑا
خیمہ سا ۔ ایلغار ۔
توزنک تا وقسک ہلاک ۔
تواکم رکفسم ایک داغ جلیبا کی
شکل کا جو لڑکی گردن و رانوں پر
توا باسان رفسففسکتفس ،
جو بانسے اگلے ٹھنٹو کے دوسر
توابل رفسک جمع تابل ۔
تواتر رفسفعل ، پے درپے آنا
یا ایک دوسرے کے پیچھے
تواثب رفسففس آپس میں ایک
دوسرے پر حملہ کرکے کودنا ۔
تواتیر رفسکس ، پیادے
خدمتگار ۔ تورز تو رفسفس
کی جمع ۔

تواخیہ رفسفس آپس میں بھائی بند ہونا
توادد رفسفس ایک دوسرے کو دوست رکھنا
توادع رفسفس آپس میں صلح کرنا
توارک رفسفس سرین پر تکیہ کرنا
تواری رفسک پوشیدہ ہونا
توازف رفسفس بمعنے موازفت
یعنی ہر ایک کا نفقہ میں خرچ سے بچا
کچھ ایک دوسرے کے لیے نکالنا ۔
توازن رفسفس باہم وزن ہونا
آپس میں تول کرلینا ۔
تواشظ رفسفس بمعنے مواشظہ
یعنی دو شخصوں کا اجماع کا آرزو مند ہونا
اور ان کا آپس میں ایک دوسرے
کے پیچھے ذکر کو ترک کرنا اور چھپانا
تواشق رفسفس گوشت کو
قیمہ کا وشیق بنانا ۔ قطع کر تقسیم
تواصف رفسفس ایک چیز کی
آپس میں صفت بیان کرنی
تواصل رفسفس پیوستگی کرنی
تواصی رفسک ایک دوسرے کو
وصیت و نصیحت کرنی ۔
آپس کا ہیچ بیچ او لنا ۔
تواضح رفسفس پانی چھینا ۔

١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢



ج

[illegible] تنفس رفتکس [illegible] کرنا —
[illegible] رفتکس [illegible] اٹکنا [illegible]
[illegible] ناست کرنی —
تنزلیق رفتکس خوشخبری دینی
تنضیض رفتکس اڑنے کو رنگ کرنا
تنقیط رفتکس مشک کو ملانا
یا کہ روغن سے ملے —
تنوالیح رفتکس حرکت دینی
ہوا کا ایک چیز کو مارنا —
تنویل رفتکس دینا —
تنویم رفتکس سلا دینا —
تنوین رفتکس اسم کو نون کی [illegible]
یعنی دو زبر یا دو زیر یا دو پیش جیسے
جیسے [illegible] زید زید زیداً نون [illegible]
جو اسموں کے آخر میں پڑھتے ہیں
تنویہ رفتکس ایک کو پکارنا
اور بلند نام کرنا — ایک چیز کو اوٹھانا
اور بلند کرنا
تنہا ر فتح آب رود بار کے
[illegible] کی جانب و کنارہ پر جگہہ
تنہار رکسفس خاک وغیرہ کہ
[illegible] سے سیل کو روکیں —
تنہکہ رفتکس عقوبت [illegible] دینی

تنہمی [illegible] کام سے [illegible] جانا
تنہیہ [illegible] ایک چیز کو حد
پایان پر پہنچانا — ایک چیز کی حد
پایان پر پہنچانا — [illegible] کی
[illegible] کرنا [illegible] منتہی ہو
[illegible] جمع —
تنہید رفتکس عورت کی پستان کا
بلند نکلنا — عورت کا پستان [illegible] ہونا
تنییب رفتکس [illegible] کا خبر [illegible] جانا
تنییق رفتکس [illegible] خوراک [illegible]
کو جیا دار اچھا کرنا — کام [illegible]
تنین [illegible] رکتکس [illegible] بجھنے [illegible]
تنین رکتکس [illegible] جمع
ایک سپید [illegible] ہی آسمان میں
کہ جسکا تنہ چھٹے برج تک پہنچتا ہے
اور اوسکی دم ساتویں برج میں اور
یہہ ستارہ کواکب ستارہ کی مانند
پھرتا ہے اور [illegible] نحس ہے —
تنییب رفتکس [illegible] کو [illegible]
لے کا [illegible] کہ اوسکی [illegible]
سختی معلوم ہو [illegible]
[illegible] نشان کرنا — [illegible] کا [illegible]
بڑی عمر کا ہونا — [illegible] کا جز [illegible] نکال لانا

علامات اعرابی نفخ کسرہ ضمہ حرف بحرکت ساکن کسرہ حرکت مین وقار اخذ کیا

مشتابہ ہونا لپٹنا ہے اور دونچے جو آنکھ
میٹی سے اٹھے ایک سا تھے نکلین حرکت
قسم کی سوئی عورتون کی کمادی میں
بنا کر ہین ہر تو تہمات رفقس جمع
تو امیتہ ضعف عتف رہوئی کلوانہ
تو لش زفصسکس ماندہ اور متفا
ہو جانا تو تا ہی کترنا
تو اوص رفقص محکم ہونا
پانی بہر کر لگانا
تو سیب رفعفل ایک دوسرے کو بخشنا
تو ایحر رفقص سخت کرنی
تو اہوق رفعفص قوم کا عمل میں
برابر ہو جانا اونٹون کا اکٹھا چلنا
تو ایل رفعفص ایک دوسرے پر دولی کرنی
تو اخم رفعفص تو اوم رفعفص
جسم تو اعم
تو اتم التجم مستعد کے لیئے ہونے ہو
تو احی رفعفک جمع ہو آنا
توث الیمن تو سمہ رفعفہ تابنہ
رفعفہ تو بیجہ رفعف گنا
سے رکھ رہنا تو یہ کی توفیق
دینی یا وعظ دعی کو آسان کرنا
یا پھر مہربان ہونا

تو بال التجاعن والتجاہدت ایک
چیز سے کر لو سیدھا اور تا پیچ مین سے
اور ایک کھینچے وقت گری جاتی ہے
تو بتہ رضعف عادت لگانا
تو بیح رفعض گرم مصالح وغیرہ جو
ہانڈی مین ڈالتے ہین تو ابل جمع ہے
تو بلہ رفعفہ ہنڈیا مین گرم
مصالحہ وغیرہ ڈالنا
تو بیت رفعف آمادہ کرنا
تو بیخ رفعکس ملامت کرنی
سرزنش کرنی
تو بیر رفعکس خرابن کا گشنی ہونا
جانا چھپانا مستعمل ہوتا ہے
شتر مرغ کا چھوٹے بال زیر نکلنے
آدمیون کا بھاگنا نفرت کرنا
دیکھانی کرنی ایک جگہ اقامت
کرنی اونٹ اور لومڑی اور خرگوش
کا زمین سخت مین چلنا تاکہ پاؤن کا
نشان پوشیدہ رہے کہتے ہین کہ
خرگوش اور سیاہ گوش کے سوا اور
میں سے اور نے اپنے پاؤن کے
نشان کو نہ چھپایا
تو بیش رفعکس جنگاری کی

[illegible]

[illegible] اور [illegible] کرنا

توا [illegible] بفتحتین [illegible] فروتنی کرنا

[illegible] تواضع کرنی [illegible] دور ہونا

توا [illegible] بفتحتین آپس میں [illegible]

کرنی [illegible] دکھانا [illegible] آپس میں

جنگ کرنی [illegible] کا [illegible]

توا [illegible] بفتحتین [illegible] ایک چیز

[illegible] لینا

تلاطم [illegible] موج کا بلند ہونا اور [illegible] طمانچہ مارنا

تواطو [illegible] ایک [illegible]

[illegible] اتفاق کرنا

توا [illegible] آپس میں ایک

[illegible] دوسرے کو وعدہ دینا اسکا استعمال

خیر میں ہے اور شر کے لیے ایعاد

توافق [illegible] آپس میں [illegible]

[illegible] کرنی

توالی [illegible] قوم کا [illegible]

پیچھے ہونا

توا [illegible] [illegible]

توا [illegible] دو گروہ کا آپس میں جنگ کے لیے [illegible]

توا [illegible] کلام کا [illegible]

[illegible] ہونا

توالف [illegible] آپس میں [illegible]

[illegible]

توا [illegible] ایک دوسرے [illegible] کرنا

ایک [illegible]

توا [illegible] [illegible]

[illegible]

توالد [illegible] بچوں کا [illegible]

ہونا [illegible] میں جننا

توا [illegible] [illegible]

ایک دوسرے کی مدد کرنی آپس میں

[illegible] کرنا

توالی [illegible] [illegible]

اور پیچھے یا [illegible] اور دوسرے کے [illegible]

[illegible] ہونا [illegible] لگنا

توام [illegible] جوڑا [illegible]

[illegible] یا زیادہ [illegible] ہونا یا وہ

[illegible] توام [illegible]

ایک [illegible] میں [illegible]

دوسرا [illegible]

[illegible] ایک [illegible]

توامان [illegible] ایک چھوٹی

گھاس کہ اوسکا پھل [illegible]

علامات اعراب ضمه فتحه کسره نون تنوین شد و مد

تو حین رفقتقن یا ضعف اعضا و ذلیل ہو جانا
مرو تنی کرنی
تو جو رفقتقض ہاتھ اور چھری سے
تو حیر رفقتقض کسی کی طرف منھ
کرنا شکست کھانی منھ پھرنا
بڑا نام ہونا
تو حی رفقلعہ گھٹنے کا پھوڑا ہونا
تو حیث رفسکس لازم کرنا
نفس ابو عقل اور گھوڑے کی بات
میں ایک بار کھانے کی عادت ڈالنی
رات دن میں ایک بار کھانا سات دن
میں نادر کو ایک سدو بھتیجا ہونے کو
تھکا ہوا ہونا پستان ناف میں پیٹ
کا بندہ جانا زمین پر پیٹ مارنا
تو صلیق رفسکس اکیلے ہیں یا
آدمی ہی آنے امین و حجن و المجلہ ہو جانا
یعنی میں نہیں جانتا کہ وہ کون آدمی ہے
تو حیثہ رفسکس کسی کی طرف متوجہ
کرنا کسی کو ایک کام کی طرف بھیجنا
بزرگ و باقدر کر دینا بیٹھنا میں
کو ایک روش پر کرنا نکلنا کو دلیل تھوڑا
لگانا کہ درست و درست ہو تے
گھوڑے کے ہاتھ پاؤں کا

نال ہونا کھوڑے کے بچے کی ماں کے
پیٹ میں سے جننے کے وقت دونوں
ہاتھوں کا پہلے نکلنا دونوں پنڈو
میں ایک پیچیدگی ہے چوپایہ کے سم
کا باہر کی طرف کو میل کرنا
تو جیثی رفسکس گوشے کو خشک پانا
تو حح رفقعن ہر ان کا مادہ بچہ ہونا
تو حدا رفقتقض یگانہ ہونا گلہ رکھنا
تو حشی رفقتقض گھر اور جگہ کا
ویران ہونا بے اہل اور خشک ہونا
پژمان ہو جانا خالی پیٹ ڈالا ہو جانا
پیٹ خالی کرنا
تو حل رفقتقض جگہ کا کلنا کھولنا
تو حمن رفقتقض پیٹ کا بڑا ہونا
تجارت بے قدر ہو جانا کالا کسہ ہونا
تو حوح رفقتقض شتر مرغ کا انڈا
کے پیالے ہونا اور پھر ایسی حرکت کرنا
تو حی رفقتک اس سے عیب کرنی دوڑنا
تو حیثہ رفسکف اس سے حشیانی کرنی
تو حیات رفسکس یگانہ کر دینا
علی الانفراد سلسلہ شرح
درمیں کرتے ہیں یگانہ جانا
خدا تعالیٰ کو ایک کہنا اور عقل


ج

جھلک کا اوسپر ہوا جلنے سے انگارا
ہوجانا۔ یہ جڑ کا ایک کام میں بعد لوگ کتے ہو
توبیغ (رفعکس) سے گنتے بے لڑکا
ایکپہ کھولنا تھوڑی سی چیز دینی۔
توبیخ (رفعکس) گوز مارنا۔
توتیہ (رضبل) توت۔
توہ (رتفعہ) ساعت۔
توشیح (رفعص) شراب میں سے تھوڑا پینا
توسکر (رفعص) بیٹھے اور گردن
کا سخت ہوجانا۔
توتیا (رضکفسم) سنگ سرمہ۔
توشیح (رفکس) دہشت کرنا
توبید (رفکس) بیخ قایم کرانی
کسی کو ثمرا کرنا۔
توتیر (رفکس) کمان کے چلہ کو سخت
کرنا یا اوسکو چلہ دار کرنا۔
توثب (رفعص) کودنا کسی چیز
پر اور طلب غالب ہونا۔
توتق (رفعص) استوار کاری کرنی
اچھا اوس میں قہقہہ لینا۔
توذر (رضفص) ایک لوہا ہے
جس سے ادھڑ کے باطن سم کو
صاف کرتے ہیں تاکہ اوسکا نقش

تو سیٹے اور اوسکا لطف جل سکے
سیاہی اور خود کا نشان ۔ لوافر جمع۔
توشیہ (رفکس) زنانمین پر کسیکو
بٹھانا۔ زنانمین کسی کے درد پیڑ لیتی
تاکہ اور بن میں بیٹھے۔
تومیر (رفکس) پیالہ در ترم کرنا۔
توشف (رفکس) ہانڈی کے
لیے دیگ پاسبانا۔
توثیق (رفکس) استوار کرنا معتمد
رکھنا۔ کسی کو ثقہ کہنا۔
توتیل (رفکس) محکم اور مستوار کرنا
قوی و توانا کرنا۔ مال کو جمع کرنا۔
توبیخ (رفعص) رسی یا کسی چیز میں پھول پڑی
اور سرم میں اونگلی کا گھس جانا۔
توبج (رفعت) ایک بیشہ جس میں
توجد (رفعص) بیخوابی و وجع کی
شکایت کرنی۔ اندوہگین ہونا۔
توجر (رفعص) دوا کو نگل جانا
کراہیت کے ساتھ پانی پینا۔
توجز (رفعص) حاجت روائی چاہنی
حاجت روائی ڈھونڈھنی۔
توجع (رفعص) درد مند ہونا جو رنج سے جلا
مردہ کا مرثیہ کہنا۔

علامات اعراب ضفکستم یعنی ضمہ فتحہ کسرہ سکون تشدید مادہ

سبب ہلاکت مین پڑے۔ فاسد
بھیجنا۔ یکسو اور دور کرنا۔ فتور فساد
کو دفع کرنا۔ گمراہ کرنا۔ مال کو بیہودہ
و پریشان کرنا۔ اور اوسمین اسراف کرنا
تودیس[٢] (فسکس) پنہان ہو جانا
زمین کا گھاس کو اوگانا اتنا کہ روئے
زمین کو ڈھانک لیوے۔
تودیع[٣] (فسکس) رخصت کرنا
جنتی کے لیئے سانڈ کو ذخیرہ کر رکھنا
چھوڑ دینا۔ کپڑے کو کپڑے مین رکھنا
ایک چیز مین کوڑی لٹکانا۔
تودیک[٤] (فسکس) ہاتھہ کو
چکنائی بھرا کر دینا۔
تودین[٥] (فسکس) تر کرنا۔ پانی وغیرہ
مین بھگونے کو رکھ دینا۔ ایک چیز
کو کوتاہ کرنا۔ عصا سے مارنا۔
تودیی[٦] (فسکس) کسی پر زمین کو
برابر کرنا۔ قوم کو ہلاک کرنا۔
توذف[٧] (ففتض) بمعنی توذلیف
توذل[٨] (ففتض) گوشت کو [illegible]
تقسیم قطع کرنا۔
توذن[٩] (ففتض) حیلہ کرنا۔ اپنے
تئین فضیلت دینی۔

توذیر[١٠] (فسکس) عورت کے فرج
کے گوشت زائد کو قطع کرنا۔ گوشت
کو پارہ پارہ کرنا۔ زخم مین نشتر گھسانا
توذلیف[١١] (فسکس) قدم پاس پاس
رکھکر اور کندہا ہلاتا ہوا خرامان چلنا
توذیم[١٢] (فسکس) گردن سگ پر
تسمہ باندھنا کہ معلوم ہووے کہ
معلم ہے۔ زیادہ ہونا۔ قطع کرنا
وذم مین ناقہ کا علاج کرنا۔
تورر[١٣] (فسکس) ایلچی قوم کے درمیان
ایک برتن ہے جس سے پانی پیوین
اور ہاتھہ منہہ دھو دین۔ شمع کا
طباق۔ اتوار جمع (ن) جاری و روانی
تورۃ (فسعف) عورت کہ درمیان
عاشقون کے ایلچی گری کرے
یعنی کوٹنی۔
تورخ[١٣] (ففتض) زمین کا تر ہونا
خمیر کا نرم ہونا۔
تورد[١٤] (ففتض) درد ڈھونڈھنا۔
شہر مین کم کم داخل ہونا۔ پانی پر آنا
تورس[١٥] (ففتض) اپنے تئین
ورس مین آلودہ کرنا۔
تورط[١٦] (ففتض) کار دشوار مین پڑنا

مادہ
١ ودی
٢ ودس
٣ ودع
٤ ودک
٥ ودن
٦ ودی
٧ وذف
٨ وذل
٩ وذن
١٠ وذر
[illegible]

٨٥١

١١ وذم
١٢ ور
١٣ ورخ
١٤ ورد
١٥ ورس
١٦ ورط

... زبردستی اختیار کرنا —
توسع (فتکس) بھاگ گئے میں
شلانج جانا اپنے اوپر سے پھینک
توسیف (فتکس) اونٹ کا
اپنے تئیں زمین پر دے مارنا —
اور فتکرنا — عصا سے مارنا —
توحم (فتکس) ریج کرنا — حاملہ
عورت کو اوسکی آرزو کی چیز کھلانی
انگور کی ٹہنی ہری شاخ کے پانی ٹپکنا
توخ (فتس رف) بمعنے توح —
توخم (فتفعض) طعام وغیرہ کا
گران اور ناگوار ہو جانا —
توخن (فتفض) ایک چیز کی طرف
قصد کرنا شر ہو یا خیر —
توخی (فتفک) امر صواب ڈھونڈھنا
خوشنودی چاہنی —
توخیتہ (فتلف) کسیکو ایک کام
متوجہ کرنا کہ کسیکی رضامندی ڈھونڈھی
توخیص (فتکس) سخاوت کو
کم کرنا — تشقیق کسی کے لیے اٹھا
... لینا اور اوس کی خواہش ڈھونڈھنی
توخیص (فت) ایک درخت ہے
تودد (فتفعص) آہستہ چلنا چھپنا

تودک یعنی کا مخروطی سر ... دوست رکھنا
تودر (فتفعص) مال کا اسراف کے
سبب جاتا رہنا — اور پریشان ہونا
کار و شتر واپس پھیرنا —
تودس (فتفعص) اودس گھاس
میں اونٹ کو چرانا —
تودع (فتفعص) پوشش میں نگاہ رکھنا
پیرزیکا ... اپنے استعمال میں گھسنا ... صدا دا ...
تودف (فتفعص) اجیر کی تفتیش
کرنی ... گوہان کا ... جڑھنا —
تودن (فتفعص) ... کا نرم ہو جانا
تودہ (فتفعص) ... زمین کا برابر
ہونا یا گھیر لینا یا ... تکبر کرنا یا توڑ
ڈالنا — ... اور پوشیدہ ہونا اخبار کا
مال لے لینا — ہلاک کرنا —
تودیتہ (فتلفعہ) ودی ڈالنی
ایک لکڑی جو پستان ناقہ پر دودھ
کم ہو جانے کے وقت باندھیں تاکہ
دودھ کم ہو جاوے — تواد ی (فتفکس)
جمع — کوتاہ مرد —
تودیج (فتکس) رگ گردن قطع کرنی
تودیر (فتکس) کسیکو ہلاکت میں
ڈالنا یا اوس چیز پر فریفتہ کرنا کہ جسکے

علامات ... باب ... تفضیل ... [illegible]

نور ... رقعنکس ... اندر رکھنا ... کو پانی سے ... [illegible]

نور ... رقعنکس ... [illegible]

نور ... رقعنکس ... [illegible]

نور ... رقعنقص ... [illegible]

نور ... رقعنقص ... [illegible]

[illegible]

... بچہ ... مالات

... کا ... رکھنا اور ... ز ...

... تشکیل ...

... نا ...

... لیے پاؤن کو

... جانا ... ساعت میں آنا اور

... میں ... انگلی لگانی ۔ اپنی بیوی

... ہونا ۔ مکان میں آنا ست

اختیار کرنی ۔ سرین پر بیٹھنا سرین

... کرنا ۔ لڑکے کو بغل کے نیچے

لینا ۔ ماں کا بچہ کو ایک سرین پر

بٹھانا ۔ ایک سرین پر سونا ۔ زمین

پاؤن ... نماز میں سرین کو رکھنا یا

دونون سرین یا ایک سرین زمین پر رکھنا

ایک کام پر کا ... ہو جانا ۔

تورّم (فتفعل) سوج جانا ۔

تورّی (فتفعل) بہت روشن

ملنا ۔ تانے سے پالنا ۔

تورّد (فتفعل) زمین کا کسی کو گھیر لینا

تورودہ (فعلعلہ) کوتوال

کا پیادہ ۔ بادشاہ کے پیادے کہ

نے شہزادہ ہمارا ... ہو جاتے ہیں ۔

تورّک (فتفعل) کام میں آلودگی ...

... استعمال ... کی ۔

توریث (تفعیل) ... معافات مباح

... ایک چیز کو ... کرنا ۔

... میں کسی سے نگاہ

بلند کرلینی اور اوٹھالینی ۔ ...

سے انگلی اٹھالینی ۔ حقیقت چھپانی

اور غیر اسکا ظاہر کرنا ۔ ... جرأت

کا ... اسکا ... کرنا ۔

توریخ (تفعیل) کتاب کی تاریخ لکھنی

توریع (تفعیل) درخت کا پھول

لے آنا ۔ خسار کو ... کرنا ۔

توریس (تفعیل) ... رنگ کرنا

توریش (تفعیل) ... اور ... نا ۔

توریص (تفعیل) مرغی کا انڈے کی

... اور ... دینا ۔ ... مرغ کا پاخانہ

پھر دینا ۔ ... مرغی کا انڈے

... کر ... کر دینا ۔

توریض (تفعیل) پتلا پاخانہ پھر

... کا ... کی ... اور

اور ... رات کو

روزہ کی نیت کرنی ۔

توریط (تفعیل) اونٹ کو ...

اونٹوں میں پوشیدہ کرنا ۔ ہلاکی میں ڈالنا

توشیتہ (فتعلعن) کرٹے کو منقش کرنا اور اسکے بیوٹے نالا ویا چھا کرنا

توشیح (تفعیل) خوش نفی الشعر اکسکو آلسیمی روپیہ کمر دینا۔ کیا وہ کو تسمون وغیرہ سے آلسیمین باندھنا تاکہ اوس میں کچھ گرنے پھیکے

توشیح (تفعیل) دو کمر چھکانا کمر میں پٹی حمایل کر ڈالنا

توشیع (تفعیل) کپڑے کو منقش کرنا۔ روئی کے فتیلے کے بیچ پوٹی بنانی یا انگلے اور مختصر میں ڈورے کو لپیٹنا اور اسکے اور غیرہ میں داخل کرتے۔ بالون کی سفیدی کا بتدریج نکلنا

توشیع (تفعیل) کپڑے کو خون میں آلودہ کرنا اتنا کہ خطوط پیدا ہو جاویں

توشیق (تفعیل) بدمیارہ قطع کرنا۔ پراگندہ کرنا

توشیک (تفعیل) سرعت کرنی

توشیم (تفعیل) دشمن کرنا۔ گمان کا لگانا

توصب (تفعل) بیمار ہو جانا

توصل (تفعل) بہ لطف پیوستگی کو ہونڈ ھنی

توصم (تفعل) تپ کے سبب سے بچو ڑ اور کاہل ہونا

توصیب (تفعیل) بیمار ہو جانا

توصیت (تفعیل) نصیحت کرنی

توصید (تفعیل) ڈرانا خوف دہ بیم کرنا

توصیص (تفعیل) عورت کا اپنے روسے بند کا تنگ باندھنا ایسا کہ سوائے آنکھوں کے اور کچھ نہ دکھلائی دے کام کو محکم کرنا

توصیل (تفعیل) ایک چیز کو ایک چیز کے ساتھ پیوند کرنا

توصیم (تفعیل) تپ کا جسم کو درد مند کرنا۔ اعضا کو توڑنا سست ہونا۔ کاہلی

توضح (تفعل) ظاہر اور آشکار ہو جانا

توضر (تفعل) رمناک ہونا

توضع (تفعل) جماع کرنا

توضن (تفعل) خوار ہو جانا

توضو (تفعل) وضو کرنا۔ لڑکے اور لڑکی کا بالغ ہو جانا

توضیح (تفعیل) ظاہر کرنا

توضیر (تفعیل) رمناک کرنا

توضیع (تفعیل) فرد نما پیدا کرنا

12[illegible]

توسیع رفتفعیل) فراخی کا حاصل
[illegible] فراخ ہونا —
توسعف رفتفعیل) [illegible]
پوست کھل جانا — اور [illegible] پیدا
ہونا [illegible] کا داخل ہونا [illegible]
اور [illegible] ہو جانا — [illegible]
کرنا اور [illegible] کا نکلنا —
توسل رفتفعیل) ایک چیز کے
سبب [illegible] جوڑی [illegible]
توسم رفتفعیل) ایک چیز کو دیکھنا
[illegible] کرنا اور فراست لیجانا —
سے ایک چیز پر [illegible] لیجانا —
[illegible] تکلف ڈھونڈھنا — [illegible] لگانا
توسن رفتفعیل) ناقہ خوابیدہ کو
ساندھ کا جفتی کرنا — زن خوابیدہ
سے جماع کرنا —
توسیخ رفتکس) [illegible] کرنا
توسید رفتکس) کسی کے
لئے ایک چیز کو تکیہ کی جگہ
اور بالین بنانا —
توشیط رفتکس) ایک چیز کو [illegible]
[illegible] — ایک چیز کو نصف قطع کرنا
توسیع رفتکس) فراخ کرنا ضد

تفسیق [illegible] اور فراخ دست کر دینا
توسیق رفتکس) [illegible] کی گون گون [illegible]
توطیل رفتکس) ایک چیز کے
سبب [illegible] سا ایسا
کا [illegible] کے [illegible] اور
تقرب اور منزلت حاصل [illegible]
توسگن رفتکس) [illegible]
توشیح رفتفعیل) [illegible]
[illegible] کرنا
[illegible] کرنا —
توسیع رفتفعیل) ایک چیز کے لئے
توشیح رفتفعیل) [illegible] کر لینا
[illegible] کا [illegible] ڈھونڈھنا — [illegible] کے
چپ [illegible] کر لینا — افزون
ہونا — پراگندہ ہونا —
توشیع رفتفعیل) [illegible] چھوڑا
کر دینا — پیدا کرنا —
توشق رفتفعیل) [illegible] کا کم ہونا
توشش رفتفعیل) [illegible] کی حرکت
کرنا — اور [illegible] پیچھے
[illegible] ہونا —
توشیح رفتفعیل) بطور نقش کے
بالوں کی سپیدی نمایاں ہونی

توفاق رفسفر جیسے تری نزدیک
توفیۃ رنسف العرش خطا ۔ توفاح
توفہ رنسف عیب یا زیادتی یا
حاجت یا ڈھنگ وکاہلی ۔
توفد رفتعض ایک چیز پر آجانا ۔
توفر رفتعض کسیکی حرمت کو نگاہ رکھنا
توفز رفتعض ہی کے لیئے آمادہ ہونا
توفق رفتعض ایک کام پر قدرت پانی
توفق رفسف اتیناک لتوفق الہلال
یعنی مین تیرے پاس آیا ہلال نکلنے کے وقت
توفن رفتعض ہر ایک چیز کا کم ہو جانا ۔
توفی رفتعک روح قبض کرنی
حق کو پورا اور تمام لینا ۔
توفیۃ رفسکف کسی کے
حق کو باتمام ادا کرنا ۔
توفید رفسکس بھیجنا ۔
توفیق رفسکس کسیکی ایک کام پر مدد کرنی
توفیل رفسکس زیادہ ہونا ۔ ایک
گھاس ہے جسے مرد کہتے ہین ۔
توق رفس ، تووق رضفس ،
تیاقۃ رکفسف ، توقان رففس ،
آرزومند ہونا ۔ تیر قمار کا وقت
اوٹھانے کے نکلجانا ۔ ایک چیز کے

لینے کا قصد کرنا ۔ جگھہ سے نکلنا
دور نہ پہنچنا ۔ سبک ہونا ۔ قریب مرگ
کے پہنچنا ۔ آنکھون مین آنسو بھر آنا ۔
زور سے کھینچنا کمان کو ۔
توق رضس ، کجی عصا ۔
توقہ رنسف جو کہ بیماری سے
اچھے ہوئے ہین اور ابھی اون
مین ضعف ہے ۔
توقد رفتعض آگ بھڑکانی ۔
آگ کا افروختہ ہونا ۔
توقر رفتعض آہستگی کرنی ۔ بردبار بنانا
توقش رفتعض حرکت کرنی
توقص رفتعض گھوڑے کا
کودتے ہوئے راہ چلنا یا میانہ رفتار
پر عنق اور خبب کے درمیان چلنا
یا رفتار مین سخت پامال کرنا گویا کہ
اوس چیز کو کہ جسپر ہو کر گذرتا ہے
توڑتا ہے ۔
توقع رفتعض ایک چیز کے
واقع ہونے کی امید رکھنی ۔
توقف رفتعض تاخیر کرنی
انتظار کرنا ۔ ایک چیز پر ثابت رہنا
توقل رفتعض پہاڑ پر چڑھنا ۔

مادہ
۱ وفق
۲ وفی
۳ وفہ
۴ وفد
۵ وفر
۶ وفز
۷ وفق
۸ وفن
۹ وفی
۱۰ ایضا
۱۱ وفل
۱۲ وقی
۸۵۷
۱۴ وقی
۱۵ وقہ
۱۶ وقد
۱۷ وقر
۱۸ وقش
۱۹ وقص
۲۰ وقع
۲۱ وقف
۲۲ وقل

۱۲ ایضا
۱۸ ایضا
۱۷ ایضا ۱۵ ایضا

[illegible]

[illegible] ہوجانا

[illegible] کے بعد [illegible]

[illegible]

[illegible] اور [illegible]

[illegible]

[illegible] ایک چیز [illegible]

[illegible]

[illegible] ۱۲

توکُّد رتفعّل) استوار ہو جانا، اعتقاد
توکُّر رتفعّل) مشک اور شکم کا پُر ہونا
پرندہ کے سنگ دان کا پُر ہونا
توکُّز رتفعّل) بڑی کے لئے متعد
ہونا۔ تکیہ لگانا۔ پُر ہونا۔
توکُّف رتفعّل) بچہ جد باندھنا
کسی کی خبر گیری کرنی۔ خیر و سگی کی
امید رکھنی۔ کسی کے متعرض رہنا
تاوقتیکہ ملاقات ہو جاوے۔
توکُّل رتفعّل) کسی پر اعتماد اور
تکیہ کرنا۔ اپنے عجز کا اقرار کرنا۔
توکُّن رتفعّل) جگہ پکڑنی۔
توکُّو رتفعّل) تکیہ کرنا۔
توکوُّک رتفعلل) چلنے میں کول اچھلنا
توکیُّث رتفعیل) خرما پک جانے
کا رنگ ظاہر کرنا۔ خرما کوٹنا۔
توکیتہ رتفعلہ) مشک کو پُر کرنا
توکیت رتفعیل) پُر کرنا۔ عوروہ
خرما کا سیاہ نقطے نکال لانا اور پختگی
کا رنگ ظاہر آنا۔
توکید رتفعیل) اگر وہ اور عہد اور زین
اور پالان کو پشت اسپ و شتر وغیرہ
پر مضبوط کرنا۔

توکیر رتفعیل) پرندہ کو پُر کرنا۔
پرندہ کی مہمانی کرنی۔
توکیس رتفعیل) کم کرنا۔ زجر و
سرزنش کرنا۔ خوف و بیم کرنا۔
توکیف رتفعیل) گھوڑے کا ادھ کھڑا ہونا
توکیل رتفعیل) وکیل کر دانتا کسیکو
ایک چیز پر معین کرنا گماشتہ کرنا۔
کسی پر کام کو چھوڑ دینا۔
تولُّع رفعل) جادو کرنا
جادو کا علاج کرنا۔
تولب رفوعل) گدھے کا بچہ یا گورخر کا
تولتہ رفعلہ) بلا و سختی و حدث
تولتہ رفعلہ) جادو۔ تعویذ۔ دوستی
کا منتر۔ جادو کا مہرہ کہ عورتیں خاوند
کو اس سے اپنا شیفتہ کر لیتی ہیں۔
تولہ رفعلہ) بمعنے تولہ۔ بلا و
سختی۔ تولات جمع۔
تولج رفوعل) وحوش کے رہنے کی جگہ
تولُّد رتفعّل) ایک چیز کا ایک چیز
سے پیدا ہونا۔
تولُّہ رتفعّل) مصیبت کے وقت
آواز کو فریاد کے ساتھ اٹھانا۔
تولُّہ رتفعّل) اندوہگین ہونا۔

مادہ
وکد
وکر
وکز
وکف
وکل
وکن
وکو
وکک
وکث
وکب
وکت
وکر
وکس
وکف
وکل
ولع
ولب



ولت
ولس
ولہ
ولج
ولد
ولہ

مادہ

۱ وقل
۲ وقم
۳ وقن
۴ وقی
۵ وقت
۶ وقع
۷ وقح
۸ وقر
۹ وقص
۱۰ وقض
۱۱ وقط
۱۲ وقع
۱۳ وقف

[illegible] پہاڑ پر چڑھنے والا گھوڑا۔

توقّم (تفعّل) ڈرانا۔ ایک کام کا قصد کرنا۔ دور و دراز جانا۔ شکار کا مار ڈالنا۔ بات کو یاد کرنا۔

توقّن (تفعّل) پہاڑ پر چڑھنا۔ گھونسلے میں کبوتر کو شکار کرنا۔

توقّی (تفعّل) پرہیز کرنا۔

توقیت (تفعیل) وقت پیدا کرنا۔ وقتٌ موقّتٌ یعنے وقت مقرر کردہ۔

توقیۃ (تفعلۃ) نگاہ رکھنا۔ نفط

توقیح (تفعیل) ڈھیلوں یا پتھر سے حوض کو سنوارنا۔ سُم کو پگھلی ہوئی چربی سے استوار کرنا۔

توقیر (تفعیل) بزرگ رکھنا۔ حلیم گننا۔ آزمانا۔ چوپایہ کو آرام دینا۔ بوجھ کی گرانی کا کسیکو خستہ کر دینا یا عام ہے۔ بردبار کر دینا۔ کسی کے لیے آثار و نشان کر دینے۔

توقیص (تفعیل) خادی اور کودنے والا ہونا۔

توقیض (تفعیل) آگ میں چھوٹی لکڑی ڈالنی۔

توقیط (تفعیل) پتھر کا زمین کو اور پانی کا جو اوپر سے ٹپکے گڑھیلا کرنا۔ پتھر کا گڑھیلا ہونا۔

توقیع (تفعیل) نشان۔ نامہ پر نشان کرنا۔ ایک چیز میں گمان لیجانا۔ تیر کو نزدیک پھینکنا گویا چاہتے ہو کہ ایک چیز پر پھینکو۔ میقعہ سے تلوار کے تیز کرنے یا صیقل کرنے کا متوجہ ہونا۔ انگور کی ٹٹی بنانی۔ چوپایہ کی پشت زخمی کرنی۔ متفق و پریشان مینہ کے سبب زمین کی گھاس کا پارہ پارہ ہونا۔ پتھر کا سُم کو تیز اور پتلا کرنا۔ گھوڑے کی ایک قسم کی رفتار تقریب کے مشابہ اور وہ گھوڑے کا دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا۔

توقیف (تفعیل) کھڑا کرانا۔ ٹھہرانا۔ ہاتھ میں کنگن پہننا۔ ہاتھ میں حنا کے نقطے لگانے۔ خانہ کمان پر خون آلود پٹھا لپیٹنا۔ گھوڑے کو وقف کر دینا۔ زمین کی اصلاح کرنی۔ زمین کو اس طرح بنانا کہ پشت زخمی نہ کرے۔ حدیث کو بیان کرنا۔ کسیکو ایک خبر سے واقف کرنا۔ نص کرنا۔ حج میں ایک دوسرے کے پیچھے (توقف) لانا۔ لشکریوں کا کھڑا رہنا۔ دست برنجن کی جگہہ کا لٹی۔ تیر قمار کا ایک نشان ہے۔

[illegible] بچپن میں پہنایا جاتا ہے ۱۲

مادہ

بوی خوش کا فاش ہو جانا۔ گوہر کا چمکنا
توبکر رفتعفعل ہو وقت سے جلدی کرنا
توٹہر رفتعفعل رات میں سے زیادہ
گذر جانا۔ جاڑے میں سے زیادہ
گذر جانا۔ کسیکو کلام میں ایک نعیبی
چیز کے ساتھ مضطر کرنا اور اسمین متحیر
توہری رفتفعلت اونٹ جس
کا کوہان لٹکا ہو۔
توٹہز رفتعفعل کودنا۔ شتر گردن
کا پامال کرنا۔
توہش رفتعفعل اسکی رفتار میں پاؤن زمین میں گھسانا
اونٹ کا اچھی طرح سے چلنا۔
گران بار کی رفتار
توہش رفتعفعل آسودگی سے
کفشی پائے رفتار گرانبار۔
توہسطر رفتعفعل کیچڑ میں اوندھا
بچھونا بچھانا۔
توہعق رفتعفعل کسیکو کلام میں ایک
چیز حیرت ناک کی طرف متحیر اور مضطر
کر دینا۔ لشکری کا سخت گرم ہونا۔
توہل رفتعفعل تعریض کرنی کسیکے
ساتھ مبہم کلام کہنا تاکہ غلطی میں پڑجائے

توہم رفتعفعل گمان لیجانا۔
توہن رفتعفعل سست ہو جانا۔
توہوہ رفتعفعل فقیر کا کوچنا۔ چلانا
توہید رفتفعیل فرش بچھانا۔
توہیل رفتفعیل ڈرانا۔
توہیم رفتفعیل گمان میں ڈالدینا
غلطی میں ڈالنا۔
توہین رفتفعیل سست کر دینا
توہی رفتفعلت ہلاکی۔
توہی رفتفعلت مقیم کا سے [illegible]۔
توہی رفتفعل تواہوف ہلاک ہونا
توہیج رفتفعلت بمعنے تابع النجم
توہل رفتعفعل شے نازل کے سبب
دبل دبل ہو کے لگنا۔
توہیر رفتفعیل کسیکو بدی میں ڈالنا۔
توہیل رفتفعیل دولا آتر بہت کہنا۔
توہیم رفتفعیل بڑے سر کا
بڑی صورت کا کر دینا۔
تہاتر رفتفاعل ایک دوسرے
پر دعوی باطل کرنا۔ ایک دوسرے
کی تکذیب کرنی۔
تہاتر رفتفاعل ہمکو اہی کرا ایک
دوسرے کو کاذب کرے۔



ج

[illegible] ہو جانا
تولہ (رفتنکف) ترجیح نی دادوی
[illegible] لیے دادی ہلاک ہو جانا
توقع (رفتنکث) روالی کرنا ایک
[illegible] سبب لے لینا اور کسی
کے کام پر جلد اعتراض کرنا ۔ [illegible] کسی
کسی سے کام کر دینا پھر جانا
منہ پھیر لینا ۔ کسی کے [illegible]
تولیہ (رفتکعف) اعراض کرنا دو
ہو جانا ۔ والی کر دینا ۔ کسی کو
کام [illegible] ہیچ کو بہلی عقد
دشمن پر قتل کر دینا ۔ ایک
اور ایک کام کی طرف توجہ کرنی
منہ پھیر لینا ۔ پچھہ دینی ضد ۔
[illegible] خرما کا خشک ہونا ۔
تولیج (رفتکس) اپنی زندگی میں
بعض فرزند کو مال بخش دینا تا کہ
لوگ سن رکھیں اور سوال سے باز رہیں
تولید (رفتکس) زائیدہ کر دینا ۔
تولیع (رفتکس) ابلق کر دینا ۔
چوپایہ میں ہر ایک رنگ ملانا ۔
تولیہ (رفتکس) بچہ کو ماں سے جدا کرنا
تومتہ (رفتسف) موتی کا دانہ

چانا [illegible] (رفتنحس) قوم رضعف
[illegible] میں دانہ پڑا ہو
[illegible]
توفر (رفتعل) [illegible] نی غرسالی
کے سبب بڑھاپے میں نکو ہونا ۔ سبز کر
کا [illegible] اور آگر
[illegible] کی
تومق (رفتعمی) دوست بنا لینا
تومن (رفتعمی) [illegible] کا افزون ہونا
تومو (رفتنس) [illegible] کہ
وغیرہ [illegible] ہیں ۔
تا [illegible] جمع [illegible] کوئی ۔
تومیہ (رفتعفہ) اشارہ کرنا
تومت (رفتکس) [illegible] کرنی
[illegible] ملامت کرنی ۔
تونیہ (رفتعفہ) کسی کو بیکار پانا
یا کام میں سست پانا ۔
تونیر (رفتکس) بلند کرنا ۔
تووہ (رفتس) ہلاک [illegible] ہلاک و تباہ ۔
توشر (رفتس) [illegible] ہلکا ہونا ۔ جانا
تکبر کرنا ۔ پریشان عقل ہونا ۔ دیکھنا
توہت (رفتعض) ایک کام میں غور
توہج (رفتعف) آگ کا فروختہ ہونا

اور دعوا فیصلہ کرنی —
تہبیب (ففتفض) کپڑے کا کہنہ ہونا
کپڑے کا پھاڑنا —
تہبیج (ففتفض) سوج جانا —
تہبید (ففتفض) حنظل کو درخت پر سے
توڑنا۔ حنظل کو توڑنا —
تہبیش (ففسفس) ناز سے چلنا —
تہبیش (ففتفض) جمع ہونا۔ کمائی کرنی
تہبیط (ففکسم) ایک پرندہ ہے
خاکی رنگ کا اپنے دونوں پاؤں سے
لٹک جاتا ہے اور ایک ایسی آواز
بولتا ہے گویا انوت انوت کہتا ہے
تہبیل (ففتفض) اہل و عیال کے
لیے کمائی کرنی —
تہبیث (ففسفض) حرکت کرنی
تہبیغ (ففتفک) دست کو جھاڑنا
ایک کام سے فارغ ہونا —
تہبیث (ففسکس) خوب پھاڑنا
تہبیج (ففسکس) ناقہ کی پستان
کو سوجا دینا —
تہبیش (ففسکس) جمع کرنا
تہبیل (ففسکس) اہل و عیال کے
لیے کمائی کرنی [illegible]

تہتار (ففتفض) احمق ہو جانا اور نہ جاننا
تہتان (ففتفض) ایک ساعت کا
مینہہ کہ پھر اوس کے بعد سست ہو جاوے
اور پھر پہلا سا برسنے لگے —
تہتر (ففتفض) نہ جاننا —
تہتک (ففتفض) پردہ کا پھٹنا
ہوا اور چرا ہوا ہو جانا — رسوا ہونا
تہتم (ففتفض) دانت کا شکستہ ہونا
تہتہ (ففتفض) بار بار پلہ ہونا [illegible]
تہتہ (ففسفس) ایک کلمہ ہے [illegible]
کو اوس سے ڈانٹیں اور کتوں کو اوس سے
بلاویں — تتلاہٹ کی نقل
تہتہہ (ففسففہ) لکنت کرنی —
باطل میں دو دلہ ہونا —
تہتیر (ففکسس) کسی کی عزت و
آبرو کو عیب لگانا —
تہتیک (ففکسس) پردہ پھاڑنا
تہتیم (ففکسس) سست کرنا [illegible]
تہجاع (ففسفض) رات کو سونا
تہجج (ففتفض) بچہ و [illegible] کے
قریب ہو جانا ناقہ کا
تہجد (ففتفض) رات کو سونا بیدار
رہنا اضداد سے ہے اسی سبب سے

تہاتر رفعضض ایک دوسرے ... [illegible]

تہاجی رفعضض باہم ہجو کرنا

تہاتر رفعضک شہادات کا باطل ہونا —

تہاجر رفعضض آپس میں ایک ... [illegible]

تہاجی رفعضک آپس میں ہجو کرنی

تہادر رفعضست قوم کا ایک دوسرے کے پیچھے نکلنا —

تہادر رفعضض خون کا آپس میں ... [illegible]

تہادم رفعضض خون کا ... [illegible] میں الکالی و مباح کر دینا —

تہادن رفعضض سیدھا کھڑا ہونا — کام کا درست و درست ہونا —

تہادی رفعضک ایک دوسرے کو تحفہ دینا — نرم چلنا — رفتار میں خرام کرنا — دو شخصوں کے سہارے سے چلنا

تہادش رفعضض کتوں کا ایک دوسرے پر انگیختہ کیا جانا —

تہارط رفعضض ایک دوسرے کو گالی دینی

تہارم رفعضض اپنے تئیں پیر زائل العقل ظاہر کرنا

تہافت رفعضض گر پڑنا — پارہ پارہ کرنا — پے درپے آنا — ... پر ٹوٹ پڑنا — کپڑے کا پرانا ہو جانا —

تہاش رفعضض آپس میں جنگ ... خصومت کرنی —

تہالک رفعضض بستر بیماری پر پڑنا — عورت کا خرامان چال چلنا —

تہالک رفعضض ... ایک میں سے ... مشہور

تہامس رفعضض آپس میں ایک دوسرے سے چپکے کہنا —

تہامش رفعضض ایک دوسرے میں ... آپس میں حرکت کرنی

تہانف رفعضض ... [illegible]

تہاون رفعضض ... [illegible]

تہاون رفعضض ہلکا سمجھنا —

تہاوی رفعضک ایک دوسرے کے پیچھے گر کے ... میں ... گرنا —

تہاویل رفعضک واحد تہویل ... یعنی ... طرح طرح کے رنگ — تصویروں کی ... کی ...

تہایج رفعضض جنگ کے لیے آپس میں ایک دوسرے پر کودنا —

تہایط رفعضض جمع ہونا — قوم کا اپنے درمیان امور کی اصلاح کرنی — خلاف تہایط —

تہایو رفعضض آپس میں سلوک ... [illegible]

بہلانا — آہستگی — کلام سے باز رکھنا
تہذار رفسفس، بیہودہ بولنا —
تہذخر رفسفص، عورت کا ناز سے چلنا
تہذکر رفسفص، گوشت اور ہڈی کا
کانپنا رفتار میں — خرسند و شادمان ہونا
تہذور رفقفص، زخم کا تباہ ہونا
اور اوسکا پارہ پارہ ہو جانا —
تہذیب رفسکس، پاکیزہ کرنا — درستی
و اصلاح کرنی — اوڑنے اور دوڑنے
اور کلام میں سرعت کرنی —
تہریش رفقفص، ابر کا کھل جانا —
تہرشف رفسفص، تھوڑا تھوڑا پینا
تہرشع رفقفص، نیزہ کا کسی
کی طرف سیدھا ہونا —
تہرور رفقفص، گوشت کا خوب پختہ ہونا
تہرور رفسفس، بمعنے بیہودہ —
تہری رفسکس، چوبدستی سے مارنا
تہریت رفسکس، بھگونا —
تہریتہ رفسکس، گوشت کو
خوب پکانا —
تہرنیتہ رفسکفس، کپڑے کو ہری
بنانا یا اوسکو زرد کرنا —
تہرنج رفسکس، ادنٹ کو خوب

ہانکنا اتنا کہ بشدت گرمی سے تعب
سرگشتہ ہو جاوے — آواز مارنی — دور دور
کو زجر کرنا — نبیذ کا شارب کو پہنچ جانا —
تہرید رفسکس، گوشت کو خوب پکانا
اور اوسے ٹھرا کر دینا — بیہودہ کپڑا پہننا
تہریس رفسکس، گوشت کو خوب پکانا
اتنا کہ گھل مل جاوے —
تہریش رفسکس، لوگوں کو ایک
دوسرے پر برانگیختہ کرنا — لوگوں کے
درمیان شر و فساد ڈالنا —
تہریص رفسکس، بدن کا خشک
کھجلی سے خشک اور سوختہ ہونا
تہریع رفسکس، سید کا نیزہ
لیکے گذر جانا —
تہریف رفسکس، نخل کا پھل کو
جلد پکا لانا — شتابی کرنی —
تہریق رفسکس، اپنی جا سے ہمیشہ
برپا رہے و ثابت رہنا —
تہریم رفسکس، ازال العقل
کمر دینا — بزرگ کر دینا — ٹکڑے ٹکڑے
ریزہ ریزہ قطع کرنا —
تہزج رفقفص، کا نام — کمان کا
چلہ کھینچنے کے وقت آواز کرنا —

[illegible]

[illegible] کے ساتھ [illegible] ہونا

تجحج (فسکس) طریق [illegible]

تجحجی (فتفس) حروف کی ہجا کرنی — [illegible] تہجی —

تجحجع (فسکس) [illegible]

تجحجف (فسکس) [illegible]

تجحجیج (فسکس) انگشتوں کا گرشے [illegible] ملا —

تجحجید (فسکس) بیدار کرنا — سلانا

تجحجیر (فسکس) وقت ہجر کہیں جانا — نماز کے لیے اول وقت میں جانا

تجحجیع (فسکس) خوب سونا — سلانا

تجحجین (فسکس) کسی کی عزت و آبرو کو برا اور بھونڈا کرنا — فحش سنانا دشنام دینا — بے عزتی کرنی — عیب و طعنہ پھینکنا —

تجحجیق (فسکس) ابھوٹا عیب پاک کر دینا — ہجو بنانا —

تہدار (فسفسہ) کبوتر کا آواز کرنا — شعلہ کا جوش کرنا —

تہدج (فتفس) یا آواز لرزہ کا منقطع ہو جانا — آواز کا [illegible] ہونا —

تہدر (فتفس) [illegible] ہونا —

تہدک (فتفس) کلام میں سختی کرنی — [illegible] ہانا —

تہدگر (فتفس) دودھ کو سیر ہو کر پینا اتنا کہ سو جاویں — [illegible] چلنا —

تہدل (فتفس) پوست جسم کا فرو شستہ ہونا — سلب کا شستہ ہو جانا — درخت کی شاخوں کا نیچے گرنا —

تہدم (فتفس) ویران ہونا — غصہ کا سخت ہونا — غصہ میں دھم دھم کرنا — ڈھانا — [illegible] سخت [illegible] ہو جانا —

تہدی (فتفسکس) ہدایت پانی —

تہدیر (فسکس) تحفہ بھیجنا — تحفہ دینا — جدا کرنا —

تہدید (فسکس) ڈرانا — بکریوں کو ایک دوسرے کے پیچھے چھوڑ دینا

تہدیر (فسکس) اونٹ کا [illegible] آواز کرنا — کبوتر کا آواز کرنا —

تہدین (فسکس) [illegible]

تہدئین (فسکس) [illegible] آرام دینا — عورت کا بچہ کو باتوں میں [illegible]

[illegible]

آگے پڑ جانا۔ کمینہ پن کرنا۔ بزرگ نفسی کرنی۔ امر زشت و بد۔ سفاہت سنوائی۔ قوم کا مجتمع ہو کر پانی پر آنا۔ نگونسار ہونا یا بیماری کا پھر جانا مجہولاً مستعمل ہے۔

تہقل ر فقتض گرانبار رفتار پر چلنا۔

تہقم ر فقتض کسی پر غالب ہونا۔ طعام کے بڑے بڑے نوالے کھانے۔

تہکر ر فقتض تعجب کرنا۔ سرگشتہ ہونا۔

تہکک ر فقتض عورت کے جوڑوں کا فرو ہشتہ ہونا اور اسکی پستان کا ڈھیلا ہونا ولادت کے وقت۔

تہکم ر فقتض شکستہ و ویران ہونا۔ کوئیں وغیرہ کا گر جانا۔ تمسخر کرنا۔ پیدرپے نیزہ مارنا۔ ناز سے چلنا۔ تکبر کرنا۔ سخت غصہ میں ہونا۔ کسی کے ساتھ بدی سے پیش آنا۔ ایک کام کے فوت ہو جانے پر افسوس کرنا۔ رنگ گانا۔ بہت میٹھا کہ بردبار ہو۔

تہکن ر فقتض پشیمان ہونا۔

تہکید ر فسکس قرضخواہ کو سخت تقاضا کرنا۔

تہکیل ر فسکس عورت کا ناز سے چلنا۔ اچھے اور نجیب گھوڑے کا چلنا۔

تہلکم ر فسکس کسی کے نیچے رنگ گانا۔ مخفی کر دینا۔

تہلب ر فقتض اور کھڑے ہوئے بالوں والا ہونا۔

تہلز ر فقتض دامن سمیٹنا یا بلند سے چلنا۔ آمادہ ہونا۔

تہلق ر فقتض سرعت کرنی۔

تہلک ر ضفکستم باطل و ناچیز۔

تہلکہ ر فسضف حسین چیز کا انجام ہلاکت ہو وہ۔ نیستی۔ مرجانا۔ نیست ہونا۔

تہلل ر فقتض ابر و رعد برق کا چمکنا۔ چہرہ کا شادی سے چمکنا۔ اشک کا رواں ہونا۔

تہلیب ر فسکس بال اکھاڑنے۔ ہجو کرنی اور دشنام دینی۔

تہلیس ر فسکس لاغر ہونا۔

تہلیک ر فسکس موت دینی۔ نیست کرنا۔

تہلیل ر فسکس لا الہ الا اللہ کہنا۔ پیچھے ہٹنا اور بزدل ہونا۔ بھاگ جانا۔ خط لکھنا۔ پیچھے ہٹانا۔ گالی دینے سے مکھر جانا۔

تہزز (بفتحتین) حرکت کرنی۔
تہزع (بفتحتین) ناخوش اور ترش رو ہونا [illegible] سستی پر [illegible] کرنا۔ عورت کا پریشان چلنا۔ [illegible] اونٹ کا رفتار میں شادمانی کے سبب حرکت کرنا۔ نیزہ اور تلوار کا حرکت کرنا۔ لکڑی وغیرہ کا شکستہ ہونا۔
تہزم (بفتحتین) کمان اور بجلی کا آواز کرنا۔ عصا کا شکستہ ہونا۔ ابر کا بانگ و آواز کے ساتھ [illegible] خشکی کے سبب شکستہ [illegible] رعد کا آواز کرنا۔
تہزؤ (بفتحتین) مسخراپن کرنا۔
تہزہز (بفتحتین) شادمان [illegible] ہونا۔
تہزیج (بفتحتین) گانا۔
تہزیز (بفتحتین) حرکت دینی۔
تہشع (بفتحتین) لکڑی وغیرہ کا توڑنا۔
[illegible] (بفتحتین) ڈھیلا کر دینا۔
[illegible] (بفتحتین) [illegible] سستی [illegible]
تہشم (بفتحتین) شکستہ ہونا [illegible] ٹوٹنا [illegible] مہربان ہونا [illegible] خوار و نحیف ہو جانا۔ ٹوٹنا اور خوار کرنا۔

تہشیش (بفتحتین) کسی کو سست گننا شادمان کرنا۔
تہشیل (بفتحتین) ناقہ کا تھوڑا سا دودھ تھنوں میں اوتار لانا۔
تہشیم (بفتحتین) گرامی کرنا۔ بزرگ کہنا۔
تہصیص (بفتحتین) آنکھ کو خوب کھولنا۔ تیز دیکھنا۔
تہضم (بفتحتین) جور و ستم کرنا۔ منقاد ہونا۔ [illegible] سے نکلنا۔
تہضیج (بفتحتین) اونٹ کی خوب [illegible] لمبا [illegible]
تہطال (بفتحتین) مینہ کا اور آنسو کا [illegible] سے برسنا۔
تہطر (بفتحتین) گوہ میں کا غراب [illegible] اور حیران ہونا۔
تہطرس (بفتحتین) خرامان خرامان چلنا۔ ناز سے چلنا۔
تہطلس (بفتحتین) چور کا حیلہ و فریب کرنا۔ طلب میں بیماری سے اچھا ہونا اور افاقہ پانا۔
تہطی من المرض بیماری سے اچھا ہونا۔
تہقع (بفتحتین) ناقہ کا نہایت آرزومندی کے سبب کشش [illegible]

تہوّر (فتقص) دیوار کا پھٹ جانا۔ ایک چیز مین بیباکی کے ساتھ گر پڑنا۔ تپ کا قوم کو گھیر لینا۔ رات کا گذر جانا یا اوسمین سے زیادہ جاڑے مین سے زیادہ گذر جانا۔ جاڑے کا ٹوٹنا۔

تہوّش (فتقص) آمیختہ ہونا۔ انبوہ

تہوّع (فتقص) زبردستی قے کرنی

تہوّک (فتقص) بے باکی سے ایک چیز مین گر پڑنا۔ متحیر ہونا۔

تہوّل (فتقص) کسی کے مال پر نظر بد لگانی۔ اپنے تئین ہیبتناک صورت بنا کر اوس کو ڈرانا۔ تعجب مین لانا

تہویت (فسکس) آواز کرنا۔

تہوید (فسکس) یہودی کر لینا۔ حق حق الیسمین جواب دینا۔ نرمی کے ساتھ گلے مین آواز پھرانی۔ آواز کو اچھا کرنا۔ راگ گانا۔ راگ کے سننے مین مشغول ہونا۔ شراب کا کسی کو مست کرنا۔ نرم آواز کرنی۔ سیر اور کلام مین آہستگی کرنی۔ نرم چلنا۔ سو جانا۔ کوہان کا گوشت کہانا

تہویر (فسکس) کسی کو نیچے مین پڑ دا رنا

دیوار وغیرہ کو گرا دینا۔

تہویز (فسکس) مر جانا۔

تہویس (فسکس) آدمیون اور بات وغیرہ کا ملانا۔ ہوا کا گرد اور خاک لانا

تہویع (فسکس) قے کرانی۔

تہویک (فسکس) کوان کھودنا۔

تہویل (فسکس) ڈرانا۔ اپنے تئین زیور و لباس سے سنوارنا۔ کام کو برا اجھوند اکر دینا۔ وہ چیز کہ جس سے ڈراوین۔ ایک آگ کہ جسے زمانہ جاہلیت مین قسم کہایا کرتے تھے۔

تہویم (فسکس) نیند کے سبب سر کو نیچے ڈالنا اور ہلانا۔

تہوین (فسکس) کسی پر آسان اور سبک کرنا۔ کسی کو سبک اور حقیر اور ہیچ سمجھنا۔

تہیّب (فتقص) آپسمین ڈرانا

تہیّت (فتقص) دینا۔ بخشنا۔

تہیّج (فتقص) برانگیختہ ہو جانا۔ حرکت کرنا۔

تہیّر (فتقص) دیوار کا پھٹ جانا تہور کا مترادف۔

تہیّض (فتقص) شکستہ ہونا۔

ماده
ہور
ہوش
ہوس
ہوع
ہوک
ہول
ہوت
ہود
ہور
ہوز
ہوس

٨٦٩

ہوع
ہوک
ہول
ہوم
ہون
ہیب
ہیت
ہیج
ہیر
ہیض
١٢

تہجم (فتح) گرمی کی شدت - ہوا کا تند ہونا
تہجم (فتح، س) متغیر و بدبو ہو جانا
تیل و گوشت وغیرہ کا - عاجز اور
متحیر ہو جانا - ناپسند کہنا اونٹ کا
چراگاہ کو -
تہجم (ضمہ) انگوروں کی قسموں میں سے
تہمتہ (فتحہ) گوشت کی بدبوی -
زمین کہ اوس سے دریا کی طرف اوترا جاوین
تہجم (ضمہ) شہر سیلدہ - بنگالی
تہرش (فتح) حرکت کرنی -
تہمش (فتح) گوسپند کے
چشمہ کا سوراخ ہونا -
تہمط (فتح) جور و ستم سے لے لینا
تہمک (فتح) اصرار کرنا - کوشش
کرنا - اپنے تئین تباہی بطالت مین ڈال دینا
تہمم (فتح) ایک چیز کو ڈھونڈھنا
اور تجسس کرنا - کسیکے سر مین جوئین ڈھونڈھنی
تہموہ (فتح) کپڑے کا جرا ہوا
اور پرانا ہونا -
تہمیز (کسر) سست مینہہ -
تہجع (فتح) سونے والا -
تہجع (فتح، س) سو جانا -
تہنبس (فتح) خبر ڈھونڈھنی

تہیج (فتح) شتر بچہ کا پیٹ مین
حرکت کرنا اور اوسمین جان پڑ جانی
تہنئہ (فتح) گوارندہ ہونا -
تہنی (کسر) بمعنے تہنیہ -
تہنیہ (کسر) مبارکباد دینی
خلاف تعزیۃ و لیہنئک الامر کیسیکو
کہنا یعنے چاہیئے کہ تجھکو گوارا ہووے یہہ امر
تہنید (کسر) جھوٹھ کہنا -
یا توقف و تاخیر کرنی - عورت کا کسیکو
اپنے اوپر نرمی و ملاطفت سے مبتلا
کر لینا - کام مین کوتاہی کرنی - چغد
کے مانند آواز کرنی - برا کہنا -
گالی دینی - گالی کی برداشت کرنی
گالی دینے والے کا زبان کو دشنام
سے بند کرنا - تلوار کو تیز کرنا
تہنیف (کسر) عشرہ دستیابی کرنی
تہو (فتح) (ان) غافل ہونا -
تہواء (ضم س) رات کا ٹکڑا -
تہواد (فتح) نرم آواز کرنی
نرم چلنا -
تہوود (فتح) کلام مین آہستگی
کرنی - جہر ہونا - قرابت کے سبب
اتصال ڈھونڈھنا - توبہ کرنی - اچھا کام کرنا

دائین ہاتھہ پر لیجانا—
تیلیس فسکس (ص) بیخ کرنا
تیتار کسففض جو وقت جماع
گوز کرے — یا وہ جو انزال سے
پہلے منزل ہو جاوے—
تیتیم فسکس یتیم کرنا—
تیتین فسکس عورت کا متوتن ہو جانا
تیتیح فسکس (ص) مہیا اور مقدر
ہونا—مٹکتے چلنا—
تیتیح فسکس (ص) جو بتی سے ملنا
تیید فسکس نرمی و آہستگی کرنا
تیدک فسف نرمی و آہستگی
اسم فعل ہے—
تیدیع فسکس کپڑے کو
ایدع سے رنگ کرنا—
تیہر کس صحرا و بیابان—
تیہر فک مضبوط پیدائش کا گدھا
تیہرز فکس سخت الواح—
تیہز فس (ص) غلبہ کرنا—کا بینا
تیر کا نشانہ مین—
تیزان فففس مرجانا—
تیس فس بوک — ہرن نر یا وہ
جسپر ایک سال گذرا ہو جمع تیوس ففس

تیمۃ کفف، اتیاس فسفس
مقیوستہ ضفسف جمع—
تیس فف بھیڑ کے دونون سینگ
بزکوہی کے سینگ کے مشابہ ہونا
تمیساء فسفسم بھیڑ جسکے دونون
سینگ بزکوہی کے سینگ کے مانند ہون
تیسر ففقض آسان ہونا—دن
کا سرد ہو جانا—آمادہ و مہیا ہونا—
تیسور فسفس بولتے ہین دابۃ
حسن التیسور چوپایہ ہاتھہ پانون خوب
اوٹھانے والا—موٹا چوپایہ—
تمیسوشیتہ فسفسکتف تکبر
و بزرگ منشی—
تیسیر فسکس آسانی سے جننے
والی بکریون اور اونٹنیون والا ہونا
بکری کا بہت دودہ والی یا بہت
بچہ والی ہونا—آسانی کرنی—آسان
کر دینا خیر و شر دونون مین مستعمل ہے
توفیق دینا—دابۃ حسن التیسیر
اچھی طرح پیر اوٹھانے والا چوپایہ
ہاتھہ پانون کو—
تیصیص فسکس ہٹنے کے
بلۃ کا آنکھہ لنا یہ تجصیص مین

مادہ
سے یمن
عے تیمم
سے تیمن
عے یمن
عے تیمم
عے یتیم
عے تیہ
عے ایضاً
عے تیہ
عے یتمن
عے یمن
۸۷۱
علا تیز
علا ایضاً
علا ایضاً
علا تیس
علا ایضاً
علا ایضاً
علا یسر
علا ایضاً
علا تیس
علا یسر
علا یعص

تہییع (فقتص) پھیلا ہوا اور منبسط ہونا
تہییعر (فقسفص) عورت کا ایک جگہہ
قرار نہ پکڑنا —
تہییف (فقتص) لو کا مارا ہونا
تہییل (فقتص) خاک اور ریت وغیرہ
کا ریختہ ہونا اور بکھرنا —
تہییم (فقتص) ایک اچھی رفتار ہے
تہییم (فقس) تہمت رکھا ہوا —
تہییو (فقتص) ایک کام کے
لیے آمادہ ہونا —
تہییب (فسکس) کسی کے نزدیک
ایک چیز کو مہیب کر دینا —
تہییت (فسکس) آواز کرنا — پکارنا
تہییئہ (فسکفہ) تہییئ (فسکس)
کام کو راست و درست کرنا —
تہییج (فسکس) برانگیختہ کرنا
حرکت دینی — ہوا کا گھاس کو خشک کرنا
تہییخ (فسکس) ہریسہ میں چکنائی
کو زیادہ کرنا — لوگ کو آپس پر انگیختہ کرنا
تہیید (فسکس) اصلاح کرنی
حرکت دینی — رنج پہنچانا — خوف
و بیم کرنا — سرعت کرنی — زجر کرنا
تہییر (فسکس) دیوار وغیرہ کا گرا دینا

تہییغ (فسکس) ہریسہ کا زمین کو
اچھا کر دینا — ہریسہ میں چکنائی
کو زیادہ کرنا —
تہییک (فسکس) سرعت کرنی
کنواں کھودنا —
تہییل (فسکس) خاک اور
ریت کو نیچے گرانا —
تیاح (فتعف) تیحان (فتعفس)
تیحان (فسفس) دل ہر چیز کی
طرف میلان کرنے والا —
تیار (فتعفس) دریا کی لہر — مرد متکبر
پریشان عقل شیخی باز — سریع الجریان
تیار (فتعفس) خفتنا مرد مضبوط
بدن — کسان بونے والا —
تیاس (فتعفس) بکرے کا نگہبان — ولید
بن دینار کا لقب —
تیاسق (فعفس) دفع کرنا دور کرنا —
تیاسان (فعفس) دو ستارہ ہیں
تیاشر (فعفض) گوشت جزور کو حصہ
کرنا — آپس میں ایک دوسرے کو آسان
پکڑنا — بائیں طرف لینا خلاف
تیاسر —
تیامن (فعفض) یمین میں داخل ہونا



ایضاً — ایضاً — تیسر — یمین

جوزا کے ستارے نہ مین جسمین گمراہ ہو جاوے
نہ پاوے آدمی دیکھے جاوین لامکان ہالک
ہو جاوین۔ یا زمین فراخ و وسیع۔
تیمۃ (کسف) بکری جسے بھوک کیوقت
مین ذبح کرین۔ بکریان چالیس سے زیادہ
یہانتک کہ دوسرے نصاب کو پہنچ جاوین
دودہ والی بکری جسے گھر مین باندہ رکھتے
جنگل مین چرنے نہ دین۔ بچہ کا تعویذ۔
دودہ والی بکری کہ عورت کی ملک سے
ہو اور وہ اوسے ذبح کرے۔
تیمّم (نفتفض) قصد کرنا۔ خاک سے ہاتھ
اور منہ ملنا عبادت کی نیت سے۔
تیمّن (نفتفض) تبرک کرنا۔ مبارک ہونا
مرجانا۔ گور مین مردہ کو دائین طرف رکھنا
اپنے تئین یمن کیطرف منسوب کرنا۔ کسیکے
لیئے برکت کی دعا کرنی۔
تیمیم (فسکس) قصد و ارادہ کرانا۔ نماز و
عبادت کے لیئے تیمم کرانا۔
تیملین (فسکس) دائین ہاتھ کیطرف
چلنا۔ یمن مین داخل ہونا۔ کسی سے
برکت کی دعا کرنی۔
تین (کسن) انجیر۔ اسم جنس تینۃ۔

اور یمن سے ایک۔
تیّان (فسکن) بھیڑیا۔ یا کسی چیز کے شل
تیہ (فس) زمین جسمین آدمی گم ہو جاوین۔
تیہ (فس) (مص) تکبر یعنی محل کا بلند
ہونا۔ شیخی مارنی۔ تکبر کرنا۔ گمراہ ہو جانا
ہر جگہ سرگردان پھرنا۔
تیہ (کس) شیخی اور بزرگ منشی۔ جنگل
جسمین مسافر ہلاک ہو جاوے۔ اتیاہ
(فسفس) اور تیہ (فسکف) جمع۔ گمراہی
تیہاء (فسفس) زمین جس مین
آدمی گم ہو جاوین۔
تیہان (نفتفس) (مص) گمراہ ہونا
ہر جگہ سرگردان پھرنا۔
تیہور (فسفض) زمین سخت چکنی و ہموار۔
مرد متکبر بزرگ منشی۔ ساونچی لہر دریا کی
یعنی موج۔ ریگ تودہ جسکے اطراف کو
پانی نے کھود دیا ہو اور بخار ریگ تودہ
ریگ تودہ مین سے جو کچھ کہ شکستہ ہو جاوے
پست زمین ہموار۔ بیابان ناہموار۔
تیاہیر (فسکس) تیاہر (فسک) جمع حلق کی
کے اعلی اور اسفل کے درمیان۔
اعلے کوہ اور اسفل کے درمیان۔

ت ی ہ
ت ی م
ت ی ن
ت ی ہ
ت ی ن
ت ی ن
ت ی ہ
ت ی ہ
ت ی ہ
ت ی ہ
ت ی ہ

۸۶۷
۱۲ الیضا
۱۳ ہر
۱۲

ایک لغت ہے کہ بعض عرب جیم کو
یا پڑھتے ہیں شجر کو شیر کہتے ہیں
زمین کا گھاس اوگنے کے سبب
کشادہ اور پھیلا ہوا ہونا — نبات کا
شگوفے کے سبب پھیلا ہوا ہونا حمل کا
تیضیض (فیکس) کتے کے پلے
کا آنکھ کھولنا تیصیص بالصاد میں
ایک لغت ہے —
تیع (فک) تیعان (تفعلن)
ہو جی کی طرف دوڑنے والا ہر چیز کی طرف
تیع (رس) یا تیع (فعف) تیعان
(تفعلن) قے کا باہر نکلنا یا کسی
چیز کا جاری ہونا — راہ طے کرنا
کسی کی طرف دوڑنا — روٹی کے
ٹکڑے سے گھی اوٹھانا — پکڑ لینا
کسی چیز کو —
تیعۃ (کسف) چالیس بکری
گنتی کی یا چالیس سے کم حیوان
کہ جس میں زکوٰۃ واجب ہے
تیعیط (فیکس) زجر کرنا اور ہلاکرنا
تیغار (کسفس) تغار —
تیفاق (کسفس) بمعنے توفاق
تیفاق الکعبۃ کعبہ کا سامنا

تیغیۃ (فلتف) وقت —
تیفع (فقعض) الشتہ پر چڑھنا —
تیفوق (فک) جو بدی کی طرف جھک
جاوے — گھوڑا جوان پر نشاط —
تیق (فعف، رس) پانی سے
مشک کا پر ہونا — پر خشم ہونا
یا اندوہناک ہونا —
تیقان (فکفس) مرد شدید الوثب
تیقظ (فقعض) بیدار و ہوشیار
رہنا — نیند سے بیدار ہونا —
تیقن (فقعض) بے گمان جاننا
تیقور (کسفس) بردبار مرد باوقار
وآہستہ تا سمین واؤ کا بدل ہے
جیسا کہ تراث میں واؤ اصل ہے
تیقیط (فیکس) بیدار کرنا —
گرد اوٹھانی —
تیک (فعس، رض) احمق ہونا —
تیم (فس) غلام —
تیم (فس، رض) غلام و بالعذار (?) بنالینا
تیمم (کس) ہمزاد یعنے ایک بچہ
جو پیٹ سے نکلنے میں شریک
ہو دوسرے بچہ کا —
تیماء (فسفسم) دشت و بیابان

[illegible]

دوست اور [illegible] کا [illegible]
ہونیوالا صفت [illegible] شکل ہے
تکلوں [illegible] (عکس) [illegible] صفت [illegible]
[illegible] صفت مونث
تالث (فشک) تیسرا
تالثہ (فشک) ایک حصہ [illegible]
حصہ [illegible] کا [illegible]
تالثۃ الاثافی ایک پتھر کا ٹکڑا [illegible]
لگا ہوا کر [illegible] پتھر کے
ٹکڑے [illegible]
[illegible]
[illegible] جو برابر ہو
[illegible]
[illegible] وہ کہ [illegible]
ہو [illegible] ہے
تالث [illegible] تین میں کا تیسرا
تالثہ (فشک) [illegible] سے پہلو [illegible]
جسم کا [illegible]
تاعد (فشک) [illegible] کا بچہ کہ
چارہ کھانے لگے
تاغر (فشک) [illegible] جسکے مینہ سے
[illegible] ہونا [illegible]
[illegible] کا [illegible]

تاثیر (فشک) [illegible] اور [illegible] سے
[illegible]
تاثیر (فشک) [illegible] -
[illegible] (فشک) دوسرا -
[illegible] (فشک) [illegible] ثانی [illegible]
حصہ [illegible] کا [illegible] ثانی (فشک) [illegible]
[illegible] کے گرد [illegible] کرے
[illegible] سے [illegible]
تاثیرہ (فشک) [illegible]
[illegible] میں سے جو [illegible] باقی رہا ہو
تاثیر (فشک) [illegible] ہونے والا - مقیم -
تاثیر (فشک) حلق - یا حلق کا [illegible]
دل کا غلاف -
تاثیر (فشک) زخم کا نشان -
تاثی (فشک) تاثی (فشک) [illegible] شکل ہوتا
[illegible] - مجروح ہونا - [illegible] جانا -
تاثیب (فشک) تیز ہوا جو پانی ہر سے
[illegible] چلے - دریا جو بعد بھر جانے اور
لبریز ہونے کے جاری ہو بعد جانے [illegible]
[illegible] جمع ہو [illegible] ہونیوالا [illegible]
[illegible] کہ ہر [illegible] منہ سے چلتی ہے
تاثیر (فشک) پتھر [illegible] کا [illegible]
[illegible] برابر [illegible] جنگل میں [illegible]

[illegible]

[illegible]

## باب [illegible]

نا [illegible]

نا [illegible] عجبا [illegible]

نا [illegible] (ف) [illegible] عورت

[illegible]

نا [illegible] (فسف) [illegible]

[illegible]

نادہ (فسف) [illegible]

پیاسا [illegible]

آگ کو بجھانا [illegible]

ایک جگہ سے [illegible]

ناشتہ (فسکف) [illegible]

نا [illegible] (ف) [illegible]

ناو [illegible] (ف) امرد [illegible]

[illegible] تر و تازہ مکان [illegible]

ناک [illegible]

ناواہد (فسفسم) [illegible] عورت [illegible]

نادہ (فسف) عورت بہت گوشت والی

نا [illegible] (فسک) [illegible] والا

[illegible] والا [illegible]

نا [illegible] قاتل دوست کا یا

[illegible] دشمن [illegible]

[illegible]

ناممہ (فسف) عورت بہت بولنے والی

نا [illegible] (فسفسم) [illegible]

[illegible] صفت میں [illegible]

نا [illegible] (فسف) [illegible] چھوٹا سا جانور

[illegible] جمع

نا [illegible] (فسف) [illegible]

ناعق (فسک) گالی دینے والا

[illegible] کی تہمت لگانے والا

ناغر (فسک) سپید رنگ

نا [illegible] (فسک) [illegible]

ناقل (فسک) [illegible]

ناقب (فسک) [illegible]

[illegible] روشن اور چمکدار

ناقل (فسک) [illegible]

[illegible] نواقل (فسک) جمع

ناقل (فسک) [illegible] (فسمس) کم کرنیوالا

ثبرۃ (فسف) زمین نرم - زمین کا گڑھا
چھوٹا گوان - ایک خاک ہے جو چونے کے مشابہ
ثبرۃ (ضسف) اناج کا ڈھیر جو صاف
کیا رکھا ہو کھلیان میں -
ثبط (فکس) بوزن کتف اپنے کام
مین احمق - بہرضعیف اور بوجھل - گھوڑا
بھاری اور سست - اثباط (فسفس)
ثباط (کفس) جمع -
ثبط (فس) (ن) کام سے روکدیا -
ڈھیل میں ڈالدینا - بوجھ سوج جانا
واقف کر دینا - جتا دینا -
ثبط (فف) (س) واقف کر دینا - بوجھ
سوج جانا - سست بوجھل ہو جانا -
ثبق (فس) (ض) ندی مین بہت
پانی ہو جانا اور تیزی سے چلنا - جلد
آنسو بھر آنے آنکھ مین -
ثبل (فس) برتن کی پیندی میں بچی ہوئی
ثبن (فس) ثبان (کفس) (ض)
لپیٹنا کپڑے کو اور اوسکو سینا - دامن
مین کسی چیز کو بھر کر بغل میں لینا - اگلے
سرے کو نیفے کو سینا -
ثبنۃ (فسف) دامن وغیرہ جسمین خرما
وغیرہ بھر کر بغل مین لے لین -

ثبور (ضفس) ہلاکی - عذاب - زیان -
ہلاک ہو جانا - ہلاک کر دینا - لازم و متعدی
دونون آتا ہے -
ثبی (فس) (ض) جمع کرنا -
ثبیت (فکس) مرد بہادر اور اپنی جگہ پر
قائم - قائم عقل والا - گھوڑا - اسپ تیز رو
ثبیتین (فکس) ہمعنی ثبان (کفس)
ثت (فت) جو کہ وقت جماع کے کوئی
کرے - یا ادخال سے پہلے منزل ہو جائے -
چشمہ کا شگاف -
ثتم (فس) سیون کھول دینی - جو کچھ پیشہ
مین ہے اوسکو ڈالدینا -
ثتی (فف) خرما کا پوست - یا وہ خرما
کہ خراب ہو کر درخت سے گر پڑے -
خراب چھوہارا - گھاس کے ریزے
چیزین کہ جس سے کنوئین وغیرہ کو بھر دین -
ثج (فت) پانی کا بہنا - پانی بہانا -
جیسے قربانی کا بہانا -
ثجاج (فقف) وہ مرغزارین جس مین
پانی کے چشمے ہون -
ثجاجۃ (فقف) منہ سے گرنے والا -
ثجۃ (فقف) چراگاہ جسمین تالاب ہو
ثجات (فقف) جمع -

اقامت کرنی جگہ کے بیٹھنے کی
میں ہوا گھر کے پاس ...
تابجہ (رسفل) بکری کی آواز کرنا ...
... (فسک) ... [illegible]
تاکید ... خوار کرنا ... [illegible]
... سے ہمیں خرچ کرے -
تابستہ (رسفل) غصہ
... الکسر ... گھر سے ...
ثبت (رفت) ... ثبوت ...
... ہونا کام کا -
ثبات (فس) ہر چیز کا بند ... میں
ثبات (فس) بیماری جو بلنے جلنے
سے عاجز کر دے -
ثبات (فس) ثبوت (فس) ٹھہرا رہنا
اپنی جگہ پر رہنا - برقرار رہنا -
ثبات (فس) ... (رسفل) شجاع
ابتدا سے ہونا - ثابت رائے ہونا -
... ثبات (فس) یعنی قریب ہی کر
اوسکا کام بر آوے -
ثباط (فس) ... یعنی اپنے
کام میں ... ضعیف - بوجھل
... ضعیف اور سست -
ثبان (فس) یعنی ... (رسفل) یعنی

... میں ... بھارے باندھکر
... میں رکھ لے -
ثبت (فس) ... جگہ پر قائم
... ثابت ... ثبوت کی ...
ثبت (رفت) باندازہ ... مقام ...
اثبات (فس) جمع
ثبنہ (رسفل) ... حوض کا ... جسمیں پانی جمع
ہو کر گرے - ... باعث ...
ثبات (فس) ثبوت (فس) جمع -
ثبنہ (رسفل) یعنی ثبت (رفت)
ثج (فس) ... [illegible]
... کا بیچ ... [illegible]
بڑی جگہ ... [illegible]
ثبجہ (فس) ... کسی چیز کے بیچ میں ...
ثبجا (رسفل) عورت جسکی ...
یا باہر نکلی ہو عورت بڑے پیٹ کی
ثبجارہ (رسفل) گڑھا جیسے موری
کے پانی سے کھود لیا ہو -
ثبجہ (رسفل) اچھے اور برے کے
درمیان یعنی متوسط -
ثبر (فس) ... اسکو کسی چیز سے روکنا
... ناامید کرنا - دریا کا اوتر جانا -
ثبر (رسفل) ... گھاٹی کا کھلنا ... جانا

درخت ہی سے استان سے مشابہ مزہ
مین کھٹا اوسے اونٹ بکری کھاتے ہین
ترمدة (فسنفف) ایک کھاری گھاس
ہی۔ اچھا نہ پکانا گوشت کو۔ یا راکھ
مین آلودہ کردینا۔
ترمطار (کسک) آواز سے چبانے والا
ترمطة (فسعفف) گاڑھا پتلا کیچڑ۔
ترمکة (فسفف) آواز سے چبانا۔
کیچڑ ہو جانی۔
ترملة (فسفف) دست آنا۔ اودھر کا
گوشت کھانا۔ کچا رکھنا طعام کو۔
راکھ بھری روٹی مہمان کی جلدی سے
لے آنا۔ بے تمیزی سے کھانا کہ
ڈاڑھی مونچھ بھرتی جاوے۔ کام
مین بدیکی کرنی۔ کرنا
ترنج (فف) دوست ہمسایہ کو آنند
ترنطی (فنفف) بڑا بھاری احمق۔
تروان (ففس) مرد بہت مال والا۔
تروب (ففس) جمع ثرب (فس)
چربی کی چادر جو اوجھ پر ہوتی ہے۔
ثروة (فسف) بہت سا مال اعداد کی
وہ رات جسمین چاند اور بعدین جمع ہوئین
ثرودة (فضمف) روٹی سالن

مین چوری ہوتی۔
ثرور (ففس) معدھ چار جسکے
تھنون کے سوراخ کشادہ ہون۔
ثروی (فنم) بہت مال والی عورت۔
ثری (ففنا) تری ونمی۔ خاک نمناک
یا خاک کہ اگر تر ہو تو چپکے نہین مین
پسیجنا۔ تہ خشکی سے تر و نم ہو جانا۔
ثری (زکت) بہت مال بہت مال والا۔
ثریا (فسنم) خاک کہ اگر اوسے تر کرین
تو چپکے نہین۔ خاک نمناک۔
ثریا (فنفف) تصغیر ثروی (فسف)
ثریاطة (کسعفف) گاڑھا کیچڑ
ثریان (فحس) تر۔
ثریتة (ففتف) زمین تر
ثرید (فکس) ثریدة (فکسف) روٹی
شوربے مین چورسی ہوئی شوربا کا چھا
ثش (فتف) بو کو کہین سے نکالنا۔
ثطأ (فت) مرد بھاری پیٹ کا کہ
راستہ چل سکے۔ چمک ٹھہرا۔ یا وہ
جسکی ڈاڑھی مین بال کم ہون جھک
ڈھیلا ہو جانا بھاری پیٹ کا
ہونا۔ دست پھرنا۔
ثطا (فس ف) پامال کرنا۔ کوٹنا

۸۸۱


نج

پیالے کی پینیدی مین -

شرثار (فسفس) بیہودہ بکنے والا بہت فریاد کرنے والا - شرثارۃ (فسعسفہ) مونث ہے عورت بہت بولنے والی - چشمہ جسمین پانی بہت ہو -

شرثرۃ (فسفعت) پراگندہ اور پریشان کرنا - بہت کھانا - کھانے کا ملانا بہت بکنا بیہودہ بات کہنی -

شرد (فف) ہونٹھ کی پھٹن -

شرڈ (فس) ہلکا میوہ - ایک گھاس ہے -

شرید مینی سالن بنانا - تنگ مین کپڑے سے غوطہ دینا - خصی کرنے کی جگہ سے عضو کو ملنا - کند چیز سے ذبح کرنا تاکہ رگین اچھی طرح سے نہ کٹین - میدان کی لڑائی مین سے کسی کو گھائل اٹھانا کہ ابھی زندہ ہو -

شرذوۃ (فسعف) روٹی سالن مین چوری ہوئی -

شرط (فس) اسم - سرزنش -

شرط (فس) مصدر - عیب کرنا - احمق ہونا - احمقاپن -

شرطلہ (فسعفت) ڈھیلاپن سستی -

شرطمۃ (فسعفت) بہت موٹا ہو جانا سر جھکانا از راہ غضب و تکبر -

شرعبۃ (فسکفت) شکست بھنگنا احمق مرد ہو یا عورت -

شرغ (فف) قوم کا طفیلی ہونا -

شرعطا (فسعن) شرعطاط (فسفسف) شرعطۃ (فسفعہ) شرعطاط (فسفعن) شرعطۃ (فسفعہ) شرعطیطۃ (فسکفت) پتلی چیز پینے کی

شرعلۃ (فسعف) مرغ کی گردن کے پر -

شرغ (فس) ڈولکا سوراخ - سوراخ کا فراخ ہونا - شروغ (فعس) جمع -

شرعامۃ (فسعفت) مرد یا عورت -

شرعل (فسفس) لومڑی -

شرغول (فسعفس) ایک گھاس ہے -

شرقبیۃ (فسفلعت) ایک قسم کے کپڑے سفید مصر کے کہ کتان کے بنے ہوئے ہوتے ہیں -

شرم (فف) (س) اشرم ہو جانا - جسکا دانت اگلا گرا ہوا ہو -

شرم (فس) (ض) دانت توڑ ڈالنے

شرماء (فسعنم) عورت جسکے دانت جڑ سے گر گئے ہون - یا جسکے چار اگلے دانت گر گئے ہون -

شرماخ (فسعنس) ایک گھاس کا

ثغرال (ضفس) ثغروران (ضسفس) پچوپایہ کے ذکر کے غلاف کے یا بکری کے تھن کے دو سے —
ثغرۃ (ضفف) ناک کا پھٹ جانا —
ثغرور (ضفس) ٹھنگنا — طرثوث درخت کا سر اور اوسکا پھل — دونون گھاس کا پھل — حتہ — چھوٹی لکڑی — جنگلی پیاز — ثعارید (ف ف) جمع —
ثغط (فف) گوشت کا سڑجانا یا پنیر کا بدبو ہونا — چمڑے کا بدبو ہونا — پارہ پارہ ہو جانا — لیکا سوج جانا پھٹنا —
ثغطرۃ (ضکف) گندہ ابدا —
ثعل (ضف) دانتون کے پیچھے دانت زائد نکلنا — یا دانتون کا آگے پیچھے نکلنا — کیڑا جو شراب کے مشکیزہ مین بعد سڑجانے کے پڑ جاتا ہے — کمینہ پاجی —
ثعل (ض، ضض، وفف) اونٹنی کا بکری کے تھن کے سرے کی زیادتی — ثعول (ضفس) جمع —
ثعلاثہ (ضفم) عورت جسکے دانت ایک دوسرے سے پھنسے ہوں — یا دو سے کے پیچھے دانت زائد ہون —
ثعلب (ضسف) لومڑی مادہ یا نر — ثعالب (ففسک) ثعالی (ففسک) جمع — پانی کا رستہ حوض کیطرف — مینہ کے پانی کا بدرو — خرما کے خشک کر نیکی جگہ — نیزہ کا سرا جسمین سنان ہو — خرما کے درخت کی جڑ —
ثعلبان (ضفس) لومڑی نر —
ثعلبۃ (ضسفف) لومڑی مادہ — دگزہ کی ہڈی — سرین —
ثعلبیۃ (ضسکف) گھوڑے کی ایسی چال جو لومڑی کی رفتار کی مانند ہو —
ثعکول (ضفس) ضعیفہ بھیڑ جس کی بکری سوا دو دانتون کے پیچھے — یا دانت کی کج و راست پر آمدگی —
ثعم (فس) کھینچنا —
ثعو (ضس) ایک قسم کا خرما — بڑا خرما — لعد خرما جو نرم ہو گیا ہو —
ثعوب (ضفس) جو گیہون مین سے نکلتا ہے —
ثعول (ضفس) اونٹنی وغیرہ کہ جسکے تھن پر ایک چھوٹا تھن زائد ہو — جسکے تھن کے سر

[illegible]

ف (ن ...) [illegible] ہونا۔
[illegible] جو سختی [illegible]
[illegible] ایک جانور [illegible]
ثعالی (فصس) [illegible] ۔
ثعالبی (ضرب) [illegible]
[illegible] (فسفف) [illegible]
(فسفف) [illegible] ہونا
[illegible] ہست آ۔
[illegible] (ضصس) [illegible] ظاہر ہونا
[illegible] زرد ہونا [illegible]
[illegible] تر زبانی۔
[illegible]
ثعلق (فف) کھانے پینے کی [illegible]
شراب۔ اندازی۔ کشایش فراخی۔
[illegible] (فت) [illegible] کرنی۔
ثعابین (فسکس) جمع ثعبان
(فسفس) یعنی اژدہا۔
ثعاریر (فسکس) ایک گھاس ہے
گھاس [illegible] یعنی [illegible] کی مانند
[illegible] کی پھنسی۔
ثعالک (ضفس) [illegible] لومڑی مادین۔
ثعالب (فسکس) ثعالبی (فسک)
جمع ثعلب (ضفف) یعنی ثعال (فصس)

[illegible] لومڑی مادین۔
ثعالبة (ا [illegible]) خشک گھاس ہے
ثعب (فس) جاری پانی۔ وادی
میں پانی کا راستہ۔ ثعبان (فسفس)
یعنی اژدہا۔ ثعابین (فسکس) جمع الجمع
ثعب (فت) جاری کرنا۔
ثعبہ (فسف) چھپکلی سبز سر کی خبیث
ثعب (فسف) جمع۔ چھپکلی کی جنت۔
ثعبیر (فسکس) صاف [illegible] کے تار
[illegible] رستے کے۔
ثعثع (فسفس) موتی سیپ سرخ [illegible]
ثعثعہ (فسفف) [illegible] بولنا جس
[illegible] بہت جہان سے فصیح کرنے
والے کی آواز۔ پے در پے قے کرنی۔
ثعج (فف) مسافرو نکالے گروہ۔
ثعجرہ (فسفف) بہانا۔ جاری کرنا
ثعد (فس) بکی یا گدری کھجور نرم۔
ثعدة (فسف) ایک۔ تر و تازہ و نرم
[illegible] تھوڑا۔
ثعرر (فس ضس) گوندکی یا تنا کہ جز
درخت ریستان کی جڑ سے نکلتی ہے
[illegible] ہوتا ہے۔
ثعر (فف) مشعل کی کثرت۔

ثفینہ (فتح) ... [illegible]
ہونا۔ خالی ہو جانا ... [illegible]
سے

ثفاء (ضم) مادہ کا جوش ... [illegible]
ثفاف (ف) ایک قسم کی جنگلی بلی
ثفاء (ضم) سپند رائی یا سرمئی رائی
ثفاءۃ (ضم) ایک
ثفاجۃ (ف) احمق
ثفافی (ضم) ... [illegible]
... [illegible] ایک قسم کا ... [illegible]
... [illegible] کے گرد
ثفال (فتح) ... [illegible]
چھال ... چکی کے نیچے ... [illegible]
کے گرد خاک آلود ہونے کے لئے۔
چکی کے نیچے کا پاٹ۔ اور جو دستہ
ڈال کر چکی کے گرد چلاتے ہیں اور ... [illegible]
گرتے ہیں۔ (ضم) چکی کے
نیچے کا پاٹ
ثفنج (فتح) احمق ہونا
ثفنز (ضم) ... [illegible] اور شکاری پرند
ثفروج (ف) زمین کی دھنی
ثفروق (ضم) خرما کے سر کا چھلکا
... [illegible] خرما کی ... [illegible]

ثفاریق (فتح لس) جمع ... [illegible]
ثفل (ضم) ... [illegible] تلچھٹ۔ دانہ۔
دسترخوان کہ آٹے کی حفاظت کے لئے
چکی کے نیچے بچھاتے ہیں (فف)
نشست چیزوں اونٹ وغیرہ ... [illegible]
... [illegible] (حس) ... [illegible]
کر دینا۔ چکی کے نیچے دسترخوان
بچھانا۔
ثفنۃ (ف) اسم ... [illegible] سے کلائی
... [illegible] ران اور سینہ وغیرہ جو بیٹھنے میں
زمین سے لگتے ہیں پیدا ہوتی اثر
(س) ... [illegible] کام کرنے سے ہاتھ
میں گھٹے پڑ جانے (ض) ... [illegible]
... [illegible] پیچھے چلنا۔ پیچھے سے آنا۔
اونٹنی کا ... [illegible]
سے جو بیٹھنے میں زمین سے
لگتے ... [illegible] مارنا۔
ثفنات (فکف) اونٹ کے اعضاء جو
زمین پر لگتے ہیں بیٹھنے میں۔ ... [illegible]
لوگوں کے گروہ۔ ہاتھ پاؤں۔
ثفنات (ضم) جمع۔ دسترخوان اور
توشہ دان کا کنارہ۔
ثفن (ضم) جمع۔

دہوان ... مین جبر کی ...
... (رضف) بھوک مین ہمیشہ کھانا
... خالی ہو جاتا -
... (رکس) ہلکا ریت جسے ہوا
... سے کہیں لیجاوے -
... (رضم) بکری اور بھیڑ اور گاے
وغیرہ کی آواز چھینکنے کے وقت - بکری
کے بچہ کی ... آواز دکھانا
... (رکس) ... (رضض)
... پانی جو ... مین رہ گیا ہو -
... (رکس) درمنہ سفید کی ایک قسم
کی ہوا کی گھاس ہے - ... (رفت)
ایک - اشغار و شکفہ (جمع) -
... (رکس) (ن) نیزہ مارنا - ذبح
کرنا - پانی جو وادی مین رہ گیا ہو -
... (رفت) جو مثل پہاڑ کے سایہ
مین ہو اور پانی اوسکا ٹھنڈا ہو ...
کا گھٹنا - ہلاک ہونا -
... (رضض) ... (رسسف) ...
دانتوں کے درمیان مین بلند کرنے
... (رسسف) دانتونکو بیچ مین
سے باتکی ابتدا مین ...
مسوڑھے سے کاٹنا بچہ کا - کلام پڑھنا

... کرنے ... کا اضطراب اور
... کا آنا -
... (رکس) ایک درخت ہے جسکی کلی ...
ہوتی ہے - ثغرة (رسفت) ایک - کلی
کو ... - رخنہ سوراخ - گھاٹی فراخ -
... - دانت کے آگے والے دانت - دانت جو
ابھی مسوڑھوں مین ہون - ملک کفار
کی سرحد - خوفناک جگہ - شہر کے تنگ کوچے
... (رضض) ... (رکس) (ن)
متفرق و پریشان ہونا - رخنہ کر دینا
رخنہ کو بند کر دینا - ... اضداد سے
ہے - کسی کے دانت ٹوٹنا - ... اسکے
دانت ٹوٹنے ... دانت ...
... مستعمل ہے - ... کیا جاتا -
... (رکسک) ... دانت -
... (رسسف) ایک گڑھا جسکے گرد
مین - رخنہ - ثغر (رضف) جمع - زمین کا
کنارہ - راہ زمین - ... کا گڑھا
کہ ... کی جگہ ہے گھوڑے کے سینہ
کے اوپر کا گڑھا -
... (رضض) ... جانب سے خوف
... ملک کے گلیون مین سے -
... (رکک) ... شکاری کتا -

ضم)، بہت ... مسافری۔
اثقال (فتحتین) جمع ... بوجھ ...
... بہت بھاری ہونا۔
اثقلان (فتحتین) آدمی اور جن۔
اثقلة (ضمہ، بفتح ... یا کسر ...) ...
اثقلة (کسرہ ...) ... متاع
اثقلة (ضمہ) ... کھانے کی گرانی۔
ثقوب (ضمتین) ... ہو گئے۔
ثقوب (ضمتین) ... آگ
بجھ کر ... بہت ... ہونا ... کا
پھیلنا ... کا ... ہونا۔
ثقیب (کسر) بہت ... دو دھ ...
ثقیف (کسر) ... بہت ...
... بہت ...
ثقیل (کسر) ... بہت ...
ثک (فت) ... سپاہی کرنی۔
ثکلة (فتحتین) ... ہونا ... سستی کرنی
اسم۔ عورت بہولی احمق۔
ثکل (ضمتین) اسم موت۔ ہلاکت۔ بچہ فرزندی
مصدر ... دوست اور فرزند کا گم کرنا۔
ثکم (فتحتین) پانو کے نشان پر چلنا۔ لازم پکڑنا
مقیم ہونا (فتحتین) لازم پکڑنا۔ مقیم ہونا
ثکم الطریق (فتحتین) راہ کا بیچ

الثلب (ضمہ) ... گوند۔ ... جھنڈا ...
قبر ... کالکوان ... گروہ۔ کبوتروں کی
... ایمان کی یا کفر کی نیت۔ ... تھوڑی سی ... کر ... گلے میں ... لشکر کا درمیان۔ ثکن (ضمتین) جمع

ثلل (فتحتین) بیابان کہ مسافر اوس میں
گم اور ہلاک ہو جاوے (ن)
ثل (فت) کوئیں میں سے مٹی نکالنی۔
ہلاک کرنا۔ ہلاک ہونا
ثلاث (ضم) تیسرا (ضمتین)
تین تین۔
ثلاثون (ضمتین) تیس اعداد
سے ہے۔
ثلاثی (ضمتین) وہ لفظ جسمیں
تین تین حرف ہوں۔ تین تین والا
منسوب ثلاث
ثلاج (فتحتین) برف بیچنے والا۔
ثلاجی (ضمتین) خوب سفید۔
ثلال (ضمتین) ہلاکی۔
ثلب (فتحتین) اسم ... عیب۔
ثلب (فتحتین) ... سرزنش کرنا۔ عیب
بیان کرنا۔ ہانک دینا۔ پھیر دینا۔

مادہ
[illegible]

[illegible] وصیل ہونا

[illegible] جمع
[illegible] کی [illegible] جمع
[illegible] کرنا [illegible] کرنا
[illegible] (مصدر) بے وقت [illegible]
[illegible] کرنا
[illegible] (فنس) دھو کنے [illegible]
[illegible] آگ دھو کنے کا [illegible]
ثقاف (فنس) عورت دانا [illegible]
[illegible] وستاد (فنس) وہ چیز جس سے
نیزہ اور تیر کو سیدھا کریں
ثقف (فنس) جمع ایک [illegible]
[illegible] جو عقل [illegible]
یعنی ثقاف ہی آگیا ہو ۔
ثقال (فنس) بھاری سرین والا ۔ آہستہ
چلنے والا ۔ بھاری ۔
اثقال (فنس) [illegible] جمع ثقل
وہ کہ جسے نفرت کریں ۔
ثقالہ (مصدر) (کسفی) بھاری ہونا
ثقب (فنس) (۱) اسم + سوراخ ۔
ثقوب (فنس) اثقب (فنس)
جمع (ن) سوراخ کرنا ۔ [illegible] اور [illegible] ۔

۸۸۷

[illegible] (صنف) جمع
[illegible]
[illegible] (فنس) [illegible]
[illegible] (فنس) یعنی [illegible] آتش فروز
[illegible]
[illegible] اظہار کرنا ۔
[illegible] نباتات کہتی
[illegible] عقلمند
تیز چالاک ہونا ۔ کسی چیز [illegible] فتح پانی اور
[illegible]
ثقف (فنس) [illegible]
ثقف (فنس) [illegible] تیز [illegible] پکڑنے والا
تیز و شمشیر زن [illegible] اور تیز
اور چالاک ہونا [illegible] دوسرے پر
ثقل (فنس) ۔ بھاری بوجھ [illegible] زمین
کا دفینہ [illegible] اثقال (فنس) جمع
اثقال (فنس) جمع [illegible] بھاری
ثقل [illegible] بھاری ہونا ۔ بھاری اور غلبہ ہونا
[illegible] ہونا ۔ بیمار ہو جانا ۔
ثقل (فنس) [illegible] ایک چیز [illegible] کو
ناپنا ۔ ایک چیز کا دوسری چیز سے وزنی ہونا

تلخ (فص) ... [illegible] ... بدمزہ
کرنا [illegible]

تلخ رفت (ف) [illegible]
تلذ (فس) [illegible]
تلطف (فس) [illegible]
[illegible] کرنا [illegible]
[illegible] کسی [illegible]

تلع (فس) [illegible]

تلع (فس) [illegible]
تلف (فس) [illegible]
[illegible] کرنا [illegible]
[illegible]
[illegible]
تلقف (فس) [illegible]
[illegible]

تلمذ (فس) [illegible] کرنا

تلمیذ وصف [illegible]

تلمظ (فس) [illegible]
تلمطہ [illegible]
تلون (فص) [illegible] رنگ بدلنے والا
تلوح (فس) [illegible]
تلیث (فس) [illegible]

[illegible] ایک قسم کی گھاس [illegible]
تمثیث (فس) تین [illegible] میں ایک
تمتم (فس) [illegible] آواز [illegible]
[illegible] کرنے کی [illegible]
تمجد (فس) [illegible]
تمجید (فس) [illegible] بیان کرنا کسی چیز کو
اچھی طرح سے [illegible] کسی چیز کرنا
استعمال [illegible] گھاس میں آتا ہے
[illegible] میں [illegible]
[illegible] کھانا [illegible] کو اچھا [illegible]
سب کھانا کھا لینا
تمجم (فس) [illegible] پانی کی [illegible]
یعنی [illegible]
تماثل (فس) [illegible]
[illegible] میں [illegible]
[illegible]
تمام [illegible]
مثل [illegible] پانی سے
[illegible] میں [illegible] پانی
یا [illegible] ہو جانا [illegible]
میں خشک ہو جانا
تماثیل (فس) [illegible] تمثال کی اقسام
تماشا (فس) [illegible] سیر و تفریح

[illegible]

بھیڑ بکری وغیرہ کی اون

صال اور ریشم سے تیار ہوتی

ماند جنگل میں

کرین بعد دو روز کے

دونوں کی پانی کی نوبت کوئیں کی

نکالی ہوئی

تلل (ضعف) جمع تکنف یعنی

تلل (کسر) جمع

تلل (کسر) ایک بار پانی دیری

نحوی کا ترجمہ

۔

کو سوکھی گھاس

کوہ

سیر کو بلا لانا

تلچ (فتح) اسم ہمیرف

تلوج (ضمن) آب خنک

خوش ہونا

خنک دل ہونا۔ دل کا آرام

علامات اعراب ... [illegible]

ثمر اثمر (ف مث) درخت کا پھل میوہ ۔ ثمر من [illegible]
جس میں میوے بہت ہوں ۔
ثمرۃ (ع مث) درخت ۔ ثمرۃ اللسان [illegible]
سر کا چمڑا ۔ زبان کا کنارہ ۔ کوڑے کی گرہ
نسل ۔ فرزند ۔ ٹھیک عہد و پیمان
ثمرۃ (ع مث) حلاوت عشق
ثمط (ع مث) پتلا گارا ۔ بہت پتلا [illegible]
ثملہ (ع مث) [illegible]
ہو جانا [illegible] اپنے بچے ۔
ثمعد (ع مث) خوبصورت لڑکا ۔
ثمغ (ع مث) سفیدی کو سیاہی سے
خوب خضاب کرنا ۔ [illegible] خوب
[illegible] کرنا کپڑے کو سرخ رنگ [illegible]
ثمغۃ الجبل پہاڑ کی چوٹی
ثمل (ع مث) زیست کی سوکھی [illegible]
[illegible] اقامت کرنی [illegible]
کھلانا پانی پلانا ۔ غمخواری کرنی ۔ پانی
پینے سے پہلے کھانا کھانا ۔ [illegible]
ثمل (ع مث) [illegible] عقل [illegible]
ثمل (ع ف) مستی [illegible]
مست ہونا ۔ اقامت کرنی
ثمل (ع مث) مست ۔
ثملہ (ع مث) برتن [illegible]

[illegible] پانی ۔ [illegible]
کا بقیہ ۔ ثمل (ع مث) [illegible]
ثمالۃ (ع مث) [illegible]
[illegible]
[illegible] (ع مث) [illegible]
ثملہ (ع مث) [illegible]
میں بچا ہوا پانی ۔ بچا ہوا خرما ۔ [illegible]
[illegible] ۔ ثمل [illegible]
ثمرا جس سے کہ مشک [illegible]
ثمن [illegible]
ثمطۃ (ع مث) ڈھیلا ہونا ۔
ثمن (ع مث) مول قیمت ۔ [illegible]
اثمان (ع مث) [illegible]
ثمن (ع مث) آٹھویں بات [illegible]
[illegible] آٹھویں دن میں پانی پینا [illegible]
ثمان (ع مث) آٹھواں حصہ ۔
ثمن (ع مث) آٹھواں حصہ لینا ان میں سے
آٹھواں ہو جانا ۔ [illegible] کر دینا
ثمود (ع مث) وہ جو وقت [illegible]
[illegible] کر دے ۔
[illegible] (ع مث) [illegible]
[illegible] چرنے والی بکری
ثمیۃ (ع مث) [illegible]

[illegible]

ثمال (ع رفتن) [illegible]

[illegible]

[illegible] پانی [illegible]

[illegible]

ثمامہ (رفتن) ایک گھاس ہے جسکے [illegible]

میں نرم [illegible] ہیں ثمامہ (رفتن)

ایک [illegible]

یعنی ہے ایک چیز کہ جس [illegible]

اور [illegible] شکل اوس چیز [illegible]

جیسا کہ آسمان ہے

ثمانی (رفتن) ایک گھاس ہے

ثمانی [illegible] آٹھ عدد ہیں

ثمانیہ [illegible] آٹھ مرد

ثمانین (ع رفتن) ایک بستی ہے ایک شہر

حضرت نوح علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے [illegible]

واسطے نام ہوا [illegible] کے ساتھ اسی تھے

تھے اوسی شہر کا ہی عمر بن ثابت ثمانینی

نحوی مشہور [illegible] صاحب [illegible]

ثمانین (ع رفتن) [illegible] ایک اعرابی نے

کسری کو آکر ایک خوشخبری دی تب

کسری نے اوس سے خوش ہو کر [illegible]

کیا مانگتا ہے تب اوس احمق نے کہا کہ

[illegible] شکل [illegible]

ثمانا [illegible]

[illegible] کرنے

ثمر [illegible]

[illegible]

ثمر [illegible]

[illegible] بیجا

[illegible]

سو [illegible] ہونا پھیر جانا۔

[illegible]

ثمد (رفتن) تھوڑا سا پانی یا زمین ہموار

اور سخت میں کچھ تھوڑا پانی رہا ہو وہ پانی جو

جاڑے میں ظاہر ہو جاوے [illegible] گرمی

میں خشک ہو جاوے۔ [illegible]

مانگنے کسی کو [illegible] کر دینا۔ خالی

کر دینا۔ موٹا ہو جانا۔

ثمر (رفتن) پھل آجانا درخت پر [illegible]

مالدار ہونا [illegible] جمع کرنا

ثمر (رفتن) میوہ۔ مال کی اقسام [illegible]

ثمرة [illegible] ثمار (رفتن) ثمر [illegible]

جمع [illegible] جمع الجمع۔ زر یعنی

سونا۔ چاندی۔

ثمر [illegible] ایک [illegible] ہے

ثج

ثنن (رمنف) جمع ثنہ (ضنف)
یعنی سُم کے بال
ثنوئیہ (ضکلتف) المکروہ ہے کہ
خدائے عز و جل کو دو کہتے ہیں
ثنی (کس) ابل کہی ہلی چیز کا اثنا
(مستفعم) جمع ثنالہ کا موڑ پہاڑ کا
موڑ غلطی تہ دوسرا۔ دوسرا بچہ
اونٹنی اور عورت کے دوسرا بچہ دینے والا
سپید دار سردار میں پہلے حصہ اُنکا
ثنی (التحیۃ) سانپ کی کھوم یا موڑ
ثنی (رکف) کا دوبارہ پھیرنا دن
اثنار (مستفعم) جمع سفر سرا پیر دوسرا
ثنی (ملف) یعنی ثنی (رکف)
ثنی (رقلت) اونٹ کہ چھٹے سال میں
لگا ہو ثنیان (مستفعل) ثنار (مستفعم) جمع
ثنی (رفس) (ف) دوہرا کرنا پھیر دینا
آستین اور دامن میں شکن دینی حاجت
سے روک دینا۔ دوسرا ہونا۔ رسی پائی
باندھنا اونٹ کا دوبارہ گاہنا زمین کو
ثنیان (رمستفعل) دبے اور بیعقل
خراب العقل ثنیۃ (رکسف) جمع
ثنیۃ (رکسف) کمینہ
ثنیۃ (ضکلتف) ثنیتہ ثنایا (ضفسف) جمع

ٹیلے کی گھاٹی پہاڑ کیطرف رستہ
پہاڑ میں رستہ وہ شہید کہ جنکو اللہ تعالی نے
نے مستثنی یعنی صدمہ صور کی بیہوشی اور
موت سے استثنا کیا ہی اگلے چار دانت دو
اوپر کے دو نیچے کے اونٹنی کے پیچھے
پستان میں لگی ہو گھوڑی کہ چھٹے برس
لگی ہو۔ گائے جو دوسرے سال میں
لگی ہو ثنیت (رفتقس) جمع تعریف
مدح کے ساتھ ہو یا مذمت کے ساتھ
کھجور کا درخت جسکو بیع سے استثنا کیا
ہو جوڑے کے لونٹ کے سر پانو
استثنا جسکو استثنا کریں۔
ثوا (رفسم) اقامت اترنا ٹھہرنا
ثواب (رفقس) شہد۔ بلا شہد کی مکھی
ثواب (رفقس) کپڑا بیچنے والا جامہ دار
ثواج (صفقس) بکری کی آواز و فریاد
ثوار (رفقس) گوالا
ثوارۃ (رتفسف) گون اُتری
ثواط (صفقس) زکام
ثوالۃ (رتفسف) بیر کا دل
ثوام (رفعس) ن بیچنے والا
ثوب (رفس) ثوب (رفس) ثوبان
لوٹ آنا جمع ہو آنا موٹا ہونے لگنا

مادہ
ثنی
۹۲
۱۱ الفا
۱۲ ثوی
۱۳ ثوب
۱۴ الفا
۱۵ ثاج
۱۶ ثاب
۱۷ ثور
۱۸ الفا
۱۹ ثاط
۲۰ ثال
۲۱ ثوم

[illegible] (ر مس) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

زمین پر ڈال۔

تمیلہ (ر کسف) [illegible]

ہر تن میں [illegible] ہوئے [illegible]

[illegible] سا پانی [illegible]

[illegible] (ر کس) [illegible]

پانی [illegible] کا [illegible] پیٹ میں [illegible] پانی

[illegible] کی [illegible] میں [illegible]

[illegible] کی [illegible]

کی دیوار پانی ہونے دی

[illegible] (ر کسف) سر [illegible]

[illegible] (ر کس) [illegible] کا ایک [illegible]

[illegible] کا قیمتی

[illegible] (ر کسف) [illegible]

[illegible]

ہوا [illegible] کی [illegible]

[illegible] (ر مس) [illegible] سر [illegible]

[illegible] پانی [illegible] کی

[illegible] کا

[illegible]

[illegible] (ر مس) [illegible] اس

[illegible] میں [illegible]

[illegible] (ر کسف) [illegible] پانی [illegible]

[illegible] (ر ف) [illegible] ہو جانا [illegible] کا

[illegible]

[illegible] (ر کسف) [illegible] پانی [illegible]

[illegible]

[illegible] (ر مس) [illegible]

[illegible] (ر کسف) [illegible]

[illegible]

[illegible] (ر کسف) [illegible]

[illegible] بلند ہو جانا۔

[illegible] (ر کسف) [illegible] کے

[illegible] سے [illegible]

[illegible] (ر کسف) [illegible] کا

[illegible] کی [illegible]

[illegible] (ر مس) [illegible] دینا۔

[illegible] (ر مس) [illegible]

اور بکریوں کی ... [illegible]
ثولل (زنک) ... بکری کا
ثولاء (فسفس) ... کی بکری
ثولول (ضسفس) پستان
ثوم (ضس) لہسن یا ... چوڑائی
ثومة (ضسفف) ایک ... کی
کی تلوار کا بند۔
ثومة (زکف) ایک درخت جو ... ہے
پھول آس سے بھی زیادہ خوشبودار
اوسکی مسواکیں بناتے ہیں اور وہ
زمین ... میں اوگتا ہے۔
ثوّة (فسفف) ... کی چیز جو
... نیچے بچھاتے ہیں۔
ثوّہ (فسف) اٹھا ہوا ... بلغ
ثوی (زکت) مہمان سرائے۔ مہمان
قیدی۔ سالثویا (فسکفسم) جمع
ثوی (ضنکت) عرصہ تک ٹھہرنا
اور ... دفن کیا جانا۔
ثویة (زکتف) جو رو پتھر کا تودہ جو کہ
صحرا میں نشان کے لئے بناتے ہیں اونٹ
اور بکری کی خوابگاہ۔ ... جگہہ
ثولیل (زکسف) ... گھاس کے ... کرنے
کی جگہہ متفرق ... لوگوں کا گروہ۔

ثہبت (فف) ثہات (فس)
... آواز کرنی۔
ثہثہة (فسفف) برف کا گھلنا۔
ثہلی (فف) (س) زمین پر پھیلانا۔
ثہمد (فسف) ... عورت بڑی عمر کی
ثہو (فس) احمق ہو جانا۔
ثیاب (فس) جمع ثوب (فس) ...
ثیابی (فسک) جامہ دار۔
ثیب (زنک) عورت جسکو مرد چھینچ
گیا ہو۔ مرد جسکو عورت کھینچ گئی ہو۔
مذکر اور مونث برابر ہے۔
ثیتة (کتف) بکریوں کی خوابگاہ۔
ثیتل (فسف) نامرد۔ بزکوہی بڑی
عمر کا بزکوہی۔ پہاڑی بکرا۔ ایک قسم
کی جنگلی گائے۔ موٹا آدمی جس سے
بھلائی کی امید ہو۔
ثید (زنک) مکان۔ ثمناک ... مارا
ثیدہ (زکف) تازی ران پر گوشت
ثیر (کس) آنکھ کا پردہ۔
ثیط (فف) (س) بدبو ہو جانا گوشت کا
اور ... ہو جانا مرد کا ... مستعمل ہے۔
ثیل (کس) اونٹ کے ذکر کا غلاف
اونٹ کا ذکر۔ ایک گھاس۔

مادہ
[illegible]
۸۹۵
[illegible]

[illegible]

[illegible] سلطان کا [illegible] تنخواہ

[illegible] پانی کا جاری ہونا

[illegible] کا گروہ

[illegible] لونڈا کا

[illegible] شور [illegible] جیسے

[illegible] احمق ہونا۔ دیوانہ ہو

[illegible] دینا

[illegible] کا ڈھیلا

[illegible] عارض ہوتا ہے [illegible]

[illegible]

اور [illegible]

[illegible]

[illegible] ہوتی ہے [illegible]

جاجتہ (ضفت) ہر ایک ناچیز بے قیمت۔
جاجخ (فتس) بچوہ۔
جاجاءۃ (ضفف) چی چی کہہ کر
اونٹون کو پانی کی طرف بلانا۔
جاحر (فسک) بہت پیچھے رہا ہوا کہ
ساتھ نہ مل سکے۔
جاحظ (فسک) وہ جسکی آنکھین
ہون باہر نکلی ہوئی جحاظ (فتس) جمع
جاحظتان (فتفتس) آنکھ کے
دونوں ڈھیلے۔
جاحم (فسک) آگ کی چنگاری بہت
بھڑکتی ہوئی۔ میدان جنگ کا بیچ
لڑائی میں بہت کشت و خون کی جگہ
بہت گرم۔ موت۔
جاحمۃ (فسکف) کھلی آنکھ۔
جاحی (فسک) ہر دانا ۔ نماز بھی
طرح سے ادا کرنے والا۔
جاخر (فسک) وادی فراخ۔
جاذر (فسف) طالب یا صیغہ منی
جاذب (فسک) کاذب عیبوتا
عیب کرنے والا۔
جادۃ (فستف) شاہراہ بڑا
جواد (فتفس) جمع۔

جادس (فسک) زمین بے آرائش
و بے زراعت۔ نقصان کہ مٹ گئے
ہون۔ ہر چیز سخت۔
جادستہ (فسکف) زمین بے عمارت و بے
زراعت یعنی میدان۔ وہ زمین جسمین
کچھ پیدا ہو۔ وہ زمین جسمین کچھ نہ پیدا
ہو سکتا ہو جوادس (فسک) جمع۔
جادل (فسک) ہرن وغیرہ کا بچہ جسمین کچھ
قوت آگئی ہو اور چلنے لگا ہو۔ غلام
جادل (...) کا ہو جو ضعف یا قوت ہو گیا ہو۔
جادی (فسک) بخشش چاہنے والا
جداۃ (فتفس) جمع۔
جادی (فسک) زعفران۔ شراب۔
جادی (فسکت) زعفران۔
جادیاء (فسکفر) زعفران۔
جادر (فتس) (رت) پانی وغیرہ کو
کھنبہ میں الٹ کر پینا۔
جاذب (فسک) کھینچنے والا۔ خبیث
کر نیوالا۔ خشک کرنیوالا۔
جاذبۃ (فسکف) قوت کھینچنے والی جذب
کرنے والی خشک کرنے والی۔
جاذل (فسک) ہنوز بکی مانند جگہ پر سیدھا کھڑا
ہونا۔ جوش و خروم۔ جذلان (فتفس)

جاذب (ع) ...
جاذبہ ...
جاذبی ...

مخرج ... (عربی) دریا میں سے عرق
کے نکالنے کی جگہہ ۔ سالفہ اوسی

[redacted] ...ستعمال کیا ۔

باب

جاگار (سنسک) جاگنے والا ۔
جار (عجب) ہمسایہ ۔ ہم پہلو ۔
جاشب (فرس) گدہا ۔ گورخر ۔ مینا ۔
جوب جاو (جمع) نعف شیر سا ایک
جانور ... ور منحوس ہو ۔ ایک سرخ
خاک کہ روم سے آتی ہے رنگ ہال
کماتا ۔ سرخ خاک جسے فارسی میں
گل مغرہ کہتے ہیں اوسکو ہچپا ۔
جابہ (فرسی) گوکھہ ۔
جابیۃ الکند (عربی) ماوین بہرنی
جسکے سینگ نکلے ہوں ۔
جابر (سنسک) گہٹے کو جوڑنیوالا ۔
جابزہ (سنسکت) گریز کو نقش ۔
جاثمہ (سنسک) وہ جو آنیوالا جانور پر
یا درندہ کہ اوسکو منحوس جانتے ہیں ۔
جالی (سنسک) ٹیڑی ۔
جابیہ (سنسکت) بڑا حوض پانی کے
جمع ہونے کی جگہہ ۔ نشیب ۔ معلوبی
(سنسک) جمع ۔ جماعت ۔

جاث (فرس) بچھلا ہوا الفظ کا
چلنا ۔ سرخ جانا کی نقل کرنا ۔
جاث (فرسی) بخو ۔
جاثلیق (سنسکس) تہہ سایہ نکانشردلی
بلاد اسلام میں جیسے بغداد کے اور یہہ
بطریق انطاکیہ کے زیر دست ہوتا ہے
اور اوسکا ماتحت مطران بعد اوسکے
اسقف کہ ہر شہر میں ہوتا ہے اوس
ماتحت قسیس اوسکے ماتحت شماس ۔
جاثوم (سنفس) جو فے والا کہ مار
نیند کے بل پڑنے کا بوس ایک مرض
کہ آدمی کو سونے میں معلوم ہوتا
ہے کہ کسی نے دبا لیا ہو ۔
جاثی (فسک) زانو پر بیٹھنے والا یا پانوں
کی انگلیوں پر کہڑا ہونے والا ۔
جاثیہ (فسکت) ایک سورہ کا
نام ہے قرآن شریف میں سے ۔
جاج (فرس) نکاح کے سبب ٹھہر جانا ۔
جاجز (فسغم) ہزیمت شکست ۔

وغیرہ سانپ کا بچہ ۔ غیر [illegible] ہر یا [illegible]

چارُود (ف) مرد شوم بد فال [illegible] سخت مکال

چارُور (ف) بہار کے پانی کا راستہ

چاروش (ف) بہت خوراک والا

چاروف (ف) بد فال ۔ [illegible] مرد بہت جماع کرنے والا ۔ خوش [illegible] میں کہ بستر کو بہا لیجاوے

جاری (ع) بہنے والا [illegible] سب بہنے والا ۔

جاریہ (ف) آفتاب کشتی [illegible] کی [illegible] چھوٹی لڑکی ۔ جواری [illegible] جمع بہت اور بہ جاری ہ بہنے والی ۔

جاز (ف) پانی کا گلے میں لگنا ۔ اچھو آجانا ۔ پانی کا پھندا پڑ جانا ۔ گلے میں ۔

جازح (ف) بخشنے والا [illegible]

جازع (ع) بخشش

جازع (ف) میووں کی لکڑی جس پر انگوروں کی شاخیں بندھی ہوتی ہیں [illegible] جو دو چیزوں کے درمیان میں [illegible] اور [illegible] جمع جزوع ۔ کرنے والا ۔ بے صبری اور زاری کرنے والا ۔ بہت [illegible] والا ۔

جازم (ف) [illegible] [illegible] معمور [illegible] [illegible] ساکن کرنے والا [illegible]

جازم مضارع ہی یعنی مضارع کو ساکن کرنا ہی جیسے لَم جوازم (ف) جمع

جازی (ف) کافی

جازیہ (ف) بدلہ ۔ جزا ۔ جوازی (ف) [illegible]

جاسو (ف) خون جما ہوا [illegible]

جاسع (ف) سخت [illegible]

جاسوس (ف) خبروں کی جستجو کرنیوالا بدی کے لیے ۔ جواسیس (ف) جمع

جاسی (ف) سخت درشت

جاسیاء (ف) سختی ۔ بچہ کا [illegible]

جاش (ف) لڑکوں کا دل اور اوسکا ڈر سے دہڑکنا ۔ جوش (ف) جمع

جاش (ف) مائل ہونا دل [illegible] اور ڈر سے ۔

جاشر (ف) [illegible] کو [illegible] کے ساتھ [illegible] بین ہے ۔ جشار (ف) جمع

جاشریہ (ف) پیشکی [illegible] پہر یا خاص [illegible] کے [illegible] ساتھ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] آدہا دن [illegible] ایک قسم کا طعام ۔

جاص (ف) جانی بیٹا ۔

[illegible] ہوتی ہیں

[illegible] تھا

جاذبی (ف) کشش [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

چپقلش [illegible]

جاغرض (ف) حواصل [illegible]

[illegible] والا [illegible]

گھاس [illegible] ہوتا [illegible]

گھاس [illegible] ہوتا

[illegible]

جار (ف) زور [illegible] والا [illegible]

جار حروف [illegible] دینے والا [illegible]

اسکو اسطرح جو حروف والے بولتے

ہیں جیسے [illegible]

لکھا جاتا ہے اسیطرح حروف [illegible]

جار و مجرور بولتے ہیں

جار (ع) ہمسایہ ظلم سے پناہ دینے والا

چاہ [illegible] بیٹھنے والا

سوداگری کا شریک [illegible]

[illegible]

یعنی ایک [illegible]

[illegible]

جیرہ (ف) [illegible]

جادہ (ف) [illegible]

[illegible]

[illegible]

جادہ (ف) [illegible]

کون سونٹ

جا [illegible]

[illegible]

جا [illegible]

[illegible]

[illegible]

جار [illegible]

جراثیم [illegible]

جار (ف) [illegible]

[illegible]

جار [illegible] والا [illegible]

[illegible] والا [illegible]

جراثیم [illegible]

جارن (ف) [illegible]

ثابت اور قائم ہو ۔

جاشع (فسکن) اگلنا کے والا پھیلا ہوا جوان گردن کا بال ہوا ری ہوگیا ہو ہندی یا سنسکرت میں پہلے ہی پہل جا بہ رق

جامعان (ضکغس) بُغلہ ...ا ایک کپڑا ہے نفیس جامعین (فسکن) جمع ۔

جامعہ (فسکف) طوق ۔

جامل (فسک) اونٹ کا گلہ شتر بسیت ۔ اسباب ۔ بڑا قبیلہ ۔

جاموس (فضص) بھینسا ۔ گی کھال

جاموس (فضص) گاو میش کا معرب ہے یعنی بھینس ہے جاموسہ (فضفص) مونث ہے جوامیس (فکضص) جمع ۔

جان (فتص) اسم جمع جن سانپ کے رجال سپید سانپ جان (فقص) جمع ۔

جانب (فضک) پہلو ۔ جوانب (فسکم) جمع ۔ کنارہ ۔ بیگانہ ۔ پردیسی ۔ نافرمان ۔

جناب (فقص) جمع ۔ جس سے ... کرین گھوڑا جس کے پانوں کشادہ ہوں ...

جانب (فنص) گگوں اور گھوڑوں میں سے چھوٹا اور عراب ۔

جانبا الانف ناک کے دو پہلو ۔

جانق (فسکہ) جاسے تر ...

جانف (فسکہ) جنف (زمک) بمعنی نفت از جنف (زفس) یعنی راہ حق سے میل کیا وصیت میں ۔

جانی (فسکہ) گنا ہگار میوے کا توڑنے والا ۔ جناۃ (ضفعس) جنا (فضفم) اجناء (فقفم) جمع ۔

جاو (فس) جو ہی ہونا گھوڑے کا یعنی کمیت ہونا ۔ پیوند لگانا ۔ درست کرنا ۔ تکا بہا کی ... چھپانا پنہان کرنا ۔ رو کردینا ۔ گھسنا ۔ کپڑے میں پیوند لگانا ہاتھ ملنے کا ۔

جاواء (فضم) مونث اجوی (فضسم) گھوڑی کہ اوس کے رنگ کی سرخی مائل بسیاہی ہو یعنی کمیت گھوڑی جیسے احوی کمیت گھوڑا ہے سیاہ جیسے کتیبہ جاواء یعنی لشکر کہ کثرت ہتھیار سے سیاہ معلوم ہو ۔

جاہ (فس) بزرگی مرتبہ ۔

جاہشہ (فسف) بزرگی مرتبہ ۔

جاہ جاہ (فسک فسک) ایک کلمہ ہے کہ اس سے خاص زاد بگو ... میں جاہد (فسک) طعام وغیرہ کا آنندہ شد ۔

جہد (فس) جاہد (فسک) مبالغہ کے صیغہ یعنی بہت ... شمند ۔

جا ألقي (فسنکس) پھینکنے والا۔
جا أس ... (فنفس) جمع
جا ألح ... (...) مرد بے شرم۔ ننگا عورت
جاعر (فسنک) جسکا بہر کھلا ہو ننگا ہو۔
جا العہر (فسنکف) عورت بے حیا ننگی
بیٹا بگا جنگلی ہوئی۔
جالفۃ (فسنکف) سر کی چوٹ جسکے
سبب پوست اور گوشت سب جاتا رہا
... سالی ... چوپایوں کی حرامزی زخم
کہ اندر کو نہ گذر گیا ہو۔
جا ... (فسنکف) ... سے نکلا ہو کے ...
جام (فس) پیالہ جام ... شیشہ وغیرہ کا
(فسنف) ایک پیالہ جام ... جوام
(فنفس) جامات (فنفس) جوم (فس) جمع
جامح (فسنک) متکبر۔ فخر کرنے
والا۔ جمع (فنتف) جمع
جامد (فسنک) زمین جکی حد ... جمع
... جس سے اور کلمہ مشتق نکر سکیں مشتق
کی ضد۔ سونا چاندی اور اکور مال
جسے صامت کہتے ہیں۔
جامد العین جسکی آنکھ سے آنسو نہ نکلے
جامس (فسنک) جر جائی ہوئی گھاس
جامشہ (فسنکف) ... جو اپنی جگہہ پر

... بہت شرمیلا ہونا۔
جاعورہ (فسنکف) بہت ...
... گوشت ...
جاعرتان (فنفس) دو کنارہ چوپایہ کی
ران ... اور کنارہ چوپایے کے سرین ...
ران ... آدمی کے دو سرین۔
جاعف (فسنک) ایسا کہ زمین کو کھود ڈالے
اور سب چیز بہا لیجاوے۔
جاعل (فسنک) دینے والا۔
جاعیۃ (فسنکف) احمق عورت۔
جاف (فنفس) بہت فریاد کرنیوالا۔
جاف (فس) (ت) زمین پر پچھاڑ دینا
ڈرانا خوف سے ... الٹا ... ہونا۔
اس معنی میں مجہول استعمال ہے۔
جافل (فسنک) جگہہ سے اوکھڑا ہوا۔
جافلۃ (فسنکف) تیز۔
جافی (فسنک) سخت بدکار ... سے
جائل (فس) آمد و رفت۔ اکٹھا ہونا
اکٹھا کرنا۔ جمع کرنا۔
جالال (فنفس) ڈر۔
جالان (فنفس) لنگڑا ہونا۔
جالیۃ (فسنتف) خانمان سے گیا ہوا
جوال (فنفس) جمع۔

[illegible]

چھپر تا تیلا جو اکثر رفشک ۔ جمع ۔
جائلہ رفشکات یہ کام میں مشغول ہونا
جائیۃ رفسکن) بیپ پیٹھ خون ۔
جب (رضت) کنواں ۔ گہرا کنواں جس میں
بہت پانی ہو جیسے مرغزار میں ۔ یا کنواں
جسکا سر نکلا ہوا ہو یعنی زمین وزہو ۔ یا
کھودا ہوا کنواں ۔ اجباب جباب رکھنس) جباب
رکعنس) جبۃ رکعنہ) جمع ۔
جب (افت) جباب رکعنس) غلبہ کرنا
برتر نکلنا حسن میں خصیہ کو کاٹنا اور
نکالنا کہجور کے درخت کو نر دینا
جُبّار رفت) کنویں جسکے گرد کی جگہ
پانی اکٹھا کیا ہو ۔ دشمنوں کے قتل
اونکے کرنے کے ۔ تم ابجاب یعنی
ہونٹ نکلیہ ۔ اجیار رفتسف) جمع ۔
جُبار رفس) جبو رفعس) رفس
ٹھہر جانا ۔ اپسمرک نا ۔ نکلنا چھپ جانا
معززہ کر صبح شنی کی اوسکو چھپانا کرنا
اوچٹ جانا کاٹ کر نہ ہونا تلوار کا
جُبّاء رفتم) عورت دسبے ہوے سرین
والی یا عورت پست سینہ والی یا عورت
پست پستان والی ۔ یا عورت
باریک ران والی ۔ او مٹنی جسکا کوہان

جسکا سر نکلا ہوا ہو ۔
جبا (فتم) ہو دل سا ایک قسم کا ...
بدصورت عورت ۔
جُبّاء (فتم) گاسے کے سینگ کا سرا
جُبّاءۃ رفتسف) بدصورت عورت
جُبّاءۃ رکعنف) جباۃ رفسف
جمع جب رفس)
جباب (فس) قحط سخت ۔
جباب (فس) قحط ۔ باطل ۔ ریگا
اونٹ کے دودھ کا جھاگ کہ مسکہ
کے مشابہ ہو جا
جباب (فتس) جبہ بنانے والا ۔
جبہ بیچنے والا ۔
جباب (کعس) حسن میں طعام وغیرہ
میں مقابلہ اور جنگ کرنا ۔ غلبہ کرنا ۔
خصیہ کا کاٹنا اور نکالنا ۔ چھوارے کے
درخت کو نر دینا ۔
جُبّابیر (فسکس) جمع جبار (فتسف)
کی بمعنی موٹی اونٹنی ۔
جُبّاءۃ (فسف) جوتی سینے کا تسمہ ۔
اونٹ کی پسلی کی ہڈی کا سرا ناف کی
طرف کا ۔ پستان ۔
جباجب (فسکس) اسکے کے پہاڑ یا

۱۲

جب

[illegible]

…کے رنگوں میں سے ایک رنگ…

[illegible]

جُلاب جنبہ (فتنہ) بچھڑا (اشتکرنا)۔

جَنب رفتہ) پہلو کا زانو۔

جَنبیَت (شفقت) گوہان شتر کو کاٹنا یا کوہان گوندھی کردیا۔

جَنبہ جیر کتنہ) قسم ہونا۔

جَنبَت رکسی) جہنا۔ کاہن مثال کو ہاتھ میں بت جنہیں ہووے سواے خدا کے کہ کسی کی پرستش کریں۔

جُنبہ (فتنہ) ایک قسم کا لباس جیسے رضائی جبابہ کُرتی یا کُرتہ۔ کسی سیرجبی جیسے کلاہین۔

یا قسم کا سر پوش ہو یا ہاتھ کے سر کا پھندنا ساطی ہو یا تسمہ جس میں کسی چیز کا سرا گھسایا جاتا ہو۔ کمرکا یا جو پائے کے ہاتھ یا پاؤں کی سپیدی گھٹنوں سے نیچے تک ہو۔

جُنباں (بفتح) جیدل۔

جُنجنج (کسر) ران) بد شعت سے پن بھی مرعی ہوتا۔

جنجاشب (بفتح) بہت تار جنجات ہیں یعنی بیشتہ نال۔

جنجیب (فتح) زمین ہموار۔

جنجبہ (فتحہ) جنبا پتھر کی گھوٹی [illegible]

اور جسے اونٹ کی چھلی یعنی پہلو کا جب کرتو ہیں گوشت کا قیمہ اور بکری کا گھونٹ وغیرہ بھرتے ہیں۔ ایک چیز جو کہ پوست وغیرہ سے بناتے ہیں اور اس میں اونٹ کو دانہ پانی دیتے ہیں۔ زمین میں سیاہی کرنی۔

جنجنبہ (فتح) چمڑے کی زنبیل اور جسے یا اونٹ کے پہلو کی چھلی اور کیں گوشت کا قیمہ اور بکری کا سوجن وغیرہ بھرتے ہیں۔

جنجح (فتح) شہد کی مکھی کا چھتہ جس میں شہد ہوتا ہے۔ جنجح (فتح) جاہل رسفلس) جنج ہی۔

جنجنج (فتح) (ان) کھتین پھینکنا کہ معلوم کریں کہ کون شخص جیتا۔

جنجنج (فتح) (ان) کعتبین کا ہاتھ میں پھرانا نا کے وقت۔

جنبد (فتح) بدن ہتھنا

جنبذ (فتح) درخت خرما کی پھیلی کا جما ہوا اور سکا عرق یا سوجن۔

جنبر (فتح) درشتگی۔ اکلا۔ فہیم۔ ناتوانہ اور مستحکم ہی۔ مرد ولاور۔ خلاف قد۔ کالر ۔ کالدیان کرنو سے

[illegible] یا ... یعنی ایک ...

[illegible] ... اور ... ایک

... اور شتابی ... ساز

جباب جیب ... بے انتہائی ... 

جباجزر ... رنگ ایک ... کی ... 

... والی۔

جبابر ... جنگل کا ... ۔

جبائر ... سلطان ... 

... ہو۔ ... اور ... 

... تباہ۔ ہلاک۔ جو ایک چیز

سبی ... ہو جنگل کے ... 

جبابر رفتقس بادشاہ۔ خدا تعالیٰ

جو اسکے ناموں میں سے ایک نام

... سخت ... حق ... 

والا۔ ... میں ... کا ... ۔

... درخت ... اور سبزہ پہنچے

... کا حق ... دیوے۔

جبابرہ رفتقس ... اور ... ۔

جبابیر رفتقس جمع۔

جباتہ رکفسن کنکھی ... 

جس سے ... ہوئی ... کو باندھین

جبابیر رفتقس جمع۔

جباج رفتقس ... مرد یا عورت

... جسکی ... تیر اندازی ...

... جسکی ... سر پر ہو

اور ... بڑی ہو۔

جباعت رفتقس ... ۔

جباجر رفتقس ... عورت۔

... نپھلی ... 

جبال ع رکفسن جمع جبل (قف)

یعنی بہت سے پہاڑ ... ۔

جبان رفتقس ... والا ... 

... جنگل ... ۔ چراگاہ ۔ زمین

ہموار۔ جبانین رفتقس جمع ... 

جبان رفتقس ... مرد یا عورت۔

جبانہ رفتقس ... عورت۔

گورستان جنگل جنگل میں عیدگاہ۔

چراگاہ ۔ زمین ہموار بلند۔ جبانات

رفتقس جمع۔

جبانہ رفتقس ... ہونا ...

جباوۃ رکفسن حوض میں پانی اکٹھا

جباوۃ رکفسن محصول اکٹھا کرنا۔

جبای رفتقس عورت جسکی پستان

کھڑی ہوئی ہوں۔

جبایا رفتقس گڑھے جس میں

... انگور کی لگائیں۔

جَبِیل (فتح) قبیلہ ۔ ہماشش کا سخت ۔ بلیم
چیز سخت ولادالین سیاران غم نہیں کی
جَبلہ [illegible] ۔ اوشی جس کا لفیان یا ہ
چہرہ یا چہرہ کا پوست یا چہرہ کی کھال
عورت سخت پیدائش کی عجب سی سخت
زمین کی سختی ۔ عورت جنگ کلفت
جَبلۃ (کسرف) اُمت ۔ جماعت ۔ اصل
پیدائش طبیعت ۔
جَبلۃ (فسف) کمان
جُبلۃ (ضمف) پیدائش طبیعت
جِبِلّۃ (ضفتف) قبلا ۔ پیدا کیے ہوئے
اصل ۔ ہر چیز میں سے بہت ۔
جُبُلّۃ (ضفتف) ہر چیز میں سے
بہت ۔ اصل ۔
جِبِلّۃ (کگتف) پیدائش طبیعت
درخت خشک ۔ لوگوں کی جماعت سخت
گروہ ہر چیز میں سے بہت ۔ اصل بغل [illegible]
جبلات (کگتفس) جمع ۔
جُبُن (ضعف) جبن (فضس) بیہد
بزدلی ۔ ڈرپن ۔
جُبُنّ (ضفنت) امیرت
جُبُنّۃ (ضفتف) ایک قسم کی پنیر کی ۔
جبوب (فضس) زمین یا ہے زمین

یا سخت سنگین یا اکن بغیر ۔
جَبُوب (فضس) اکھاڑا جو ہمیشہ ۔
جِبُوۃ (کفس) پانی جو حوض میں اکٹھا
کیا جاتا اونٹوں کے لئے ۔
جَبُوش (فض) مرد کینہ
جَبْہ (فف) پیشانی کی کشادگی ۔
جُبّہ (ضفف) بزدل ۔
جَبْہۃ (کس) (ف) پیشانی جھکانا ۔ روکنا
کرنا ۔ بدی سے پیش آنا ۔ پیچھا ۔ سب
بات ڈالنی کسی پر ۔ سے فعل ہونا
کرو میں پر آنا ۔ بکا یک جا پڑی کا ہو جانا کر
اسباب اس کا ابھی موجود نہ ہو ۔
جَبْہا (فسم) اگستہ پیشانی کی فراخ
جَبْہۃ (فسف) پیشانی ۔ قوم کا سردار ۔
چاند کے منازل میں سے ایک منزل یا
دو ستارے جس میں چمکتے ہیں ۔ واحد ایسا
تمام قوم کے سردار ۔ خونبہا اور تاوان
کی پرداشت میں سعی کرنے والے لوگوں کا
گروہ ۔ منھ خواری ۔ ایک بت کا نام
جَبِیل (فسف) ہم سخت ۔
جِبْی (کفس) پانی اکٹھا کیا ہوا حوض میں
اونٹوں کے لیے ۔ مال جمع کیا ہوا ۔
جَبی (کفف) زمین جمع اصل اکٹھا کرنا ۔

[illegible]

جبرئیل ... [illegible]

... جبروت (رفسفس) [illegible] ...

... کشتی کا ... [illegible]

... کشتی ... [illegible]

کشتی ... [illegible]

... سے کا ... [illegible]

جبر ... (رفسفس) ... سخت ...

جبرئیل (رفسلک) ... [illegible]

... معنی ... [illegible]

بہت سے لغات ہیں جیسا کہ لکھے

جاتے ہیں جبرئیل (رفسلس) جبرئیل

(رفسلس) جبرئل (رفسلک) جبرعیل

(رفسلس) جبرائل (رفسلک) جبرائیل

(رفسلس) جبرائل (رفسلک) جبرائل

(رفسفس) جبرال (رفسفس) جبرئیل (رفسفس)

جبریل (رفسفس) جبرئیل (رفسلس)

جبرین (رفسلس) جبرین (رفسلس) جبر...

تجبرة (رفسکتف) ... [illegible]

... [illegible]

جبریة (رفسکتف) ... مثل

... جبرۃ ... [illegible]

(رفسکتف) جبروۃ (رفسفس) جبروت

(رفسفس) جبروتی (رفسفسف) جبریۃ

[illegible]

جبروت ... [illegible]

جبیر ... [illegible]

یا جیسے ہو دل -

جُبرۃ (رفسفس) ... [illegible] -

... [illegible] -

... [illegible] -

بچہ کا ... جیسا جبس (رفسفس)

جبس ... [illegible]

جبش ... [illegible] -

جبل (رفسن) ... [illegible]

انگنائی - درخت خشک - لوگوں کا گروہ

... جوان -

جبل (رفسن) ... [illegible]

... -

جبل (رکس) بہت -

جبل (رفس) درخت خشک جماعت قوم

جبل (رفسفس) درخت خشک جماعت قوم

جبل (رفسنت) جبل ... درخت

خشک ... گروہ کی جماعت -

جبل (رفت) پہاڑ جمع ... جبل

... جبال (رفسفس) اجبال (رفسفس)

... قوم کا ... اور زمین کا ... [illegible]

یا کنکر پوشنے ملی ہوئی ہو۔

جشط (رفس) چیتا پاخانہ پھرنا کہ زمین پر پھیل جاوے۔

جثل (رفس) گھاس یا بال بہت ہونا یا چوٹی کا بہت کثرت سے پیدا ہونا یا گھاس کا سیاہ رنگ کی ہو جانا بہت گھنی ہونا اور الجھانا۔

جثل (رفف) مان۔ یا جورو۔

جثلة (رفسف) بڑی چیونٹی کالی

جثل (رفس) رخت دار بہت تیون والا

جثم (رفسف) نیند کا بہر کرنا رے نیند کے تکیہ سے بل لٹکے۔

جثمان (رفسغس) بدن۔ تیلا۔

جثمثة (رفسف) یعنی جثم زمین پر جمہ خیرہ کا شتہ

جثمة (رفسف) پشتہ۔

جثو (رفسف) جثی (رفسکت) (ان من) زانو پر بیٹھنا۔ یا دو نگلیوں کے سرے پر کھڑا ہونا۔ اور شو تن کو اکٹھا کرنے کا

جثی (رفسکت) ان فعل۔

جثوة (رفسف) پتھر کا ڈھیر تن بدن یا کنکر کی پکار۔ جثی (رفسف) جمع۔

جثوم (رفسف) جثم (رفس) (ان من) سینہ زمین پر لگانا اور زمین پر پڑے رہنا اور بیٹھی ہی رہنا جثوم (رفس) کشتی

جثوم (رفسس) (ان من) آدمی یا جاننا اور کھیتی کا الٹا ہو جانا خوشہ خرما کا موٹا بڑا ہونا اپنی ہی اکتھی کرنی

جثی الحرام پتھر کے ٹکڑے جو حد حرم پر ایک جگہ اکٹھے رکھے ہوئے ہیں یا بت اور پتھر گرا گرد حرم کے جنپر ذبح کرتے تھے۔

جثیث (رکس) کھجور کا پودہ۔

جثیثة (رکسف) ایک پودہ۔

جثیل (رکس) یعنی جثل (رفس)

جح (رمت) خربزہ یا اندراین۔

جح (رفت) کسی چیز کو پھیلانا اور کھینچنا۔ جح کا کھانا۔

جح جح (رفس مس) ایک کلمہ ہے جس سے بکریون کو بلاتے ہیں۔

جحاد (رفتفس) وہ جو دیر میں منزل پہو

جحاد (رکس) یعنی جحد (رفک)

جحادری (رفسکت) بزرگ۔

جحادی (رفسکت) ہر چیز دلدار۔

جحادیة (رفسکت) مشک دودہ ہے ہری ہوئی۔ گون جو خرما یا گیہوں سے بھری ہوئی ہو۔

۹۰۹

ایضاً

ایضاً

ایضاً



ج

[illegible]

[illegible]

[illegible]

علامات اعراب ضم کسرہ یعنے ض من فتحہ ف ک کسرہ س سکون ت تشدید مد — مادہ

جحدرۃ (فسفف) زمین پر دے مارنا اور لڑھکانا۔

جحدل (فسفف) لڑکا گول بدن کا موٹا۔

جحدلۃ (فسفف) شتربان ہونا۔ دولتمند یا فقیر کے بعد زمین پر بچھا دینا یا باندھ دینا۔ پر کرنا لوٹ لوٹ کو کرایہ پر دینا۔ اکٹھا کرنا مالکو۔

جحدمۃ (فسفف) بہت تیز دوڑنا۔

جحر (فس) غار بڑا گہرا۔

جحر (فس) (ف) سوراخ میں داخل ہونا۔ سوراخ میں گھسانا۔ بلند ہونا آفتاب کا۔ بے باران ہونا موسم کا۔ آنکھ کا اندر کو گھس جانا۔ پیچھے رہجانا۔

جحر (فس) درندہ اور زمین میں رہنے والے جانوروں کے بل۔ جحرۃ (فکف)

جحران (فسفس) احجار (فسفس) جمع۔

جحرا (ضسفم) آنکھ جو اندر گھس گئی ہو۔

جحران (فسفس) بمعنی جحر (فس)

جحرب (فسفف) چھوٹا دلدار گھوڑا بڑے ہاتھ پانو کا۔

جحربان (فسفس) دو رگیں ہیں نو او بھا زمین جو گھوڑے کے کان کی لو کے نیچے ہیں۔

جحرۃ (فسف) تنگی سال سخت بے باران خشک سال۔

جحرۃ (فکف) جحران (فسفس) جمع

جحر (فس) بمعنی سوراخ۔ بل۔ بیش

جحرش (فسفف) گھوڑا سخت بینا گول بدن کا۔

جحرط (کسک) عورت بڑھیا پرانی۔

جحرم (فسف) بدخو۔

جحرمۃ (فسفف) بدخوئی۔ بدخلقی۔

جحرط (کسک) بمعنی جحرط (کسک) بڑھیا

جحس (فس) حیلہ و فریب۔

جحش (فس) (ف) داخل ہونا۔ چھیلنا۔ مار ڈالنا۔

جحش (فس) گدہے کا بچہ۔ جحاش (کفس) جحشۃ (فکف) جحشان (کسفس) جمع جحشۃ (فکف) موش۔ ہرن۔ گھوڑے کا بچہ۔ موٹاپا۔

جحش (فس) (ف) چھیلنا۔ ستم کرنا۔ کوشش کرنی۔ سخت ہونا۔

جحشۃ (ضسف) پشم کہ ہاتھ پر لپیٹ کر کاتیں

جحشر (فسف) موٹا بڑا گول دلدار بڑی پیدایش کا۔ گھوڑا کہ اوسکے پہلو کی ہڈیاں کوتاہ ہوں۔

91

مجاذیب (فغ فغ فتح نک) جمع مجذوب
مجاذم (فغ فغ فتح نک) بدخوت
مجازیر (فغ فغ فتح نک) وحشت کول بنگالا
مجازیب (فغ ضمہ فتح) جھگڑنا یا کھینچنا
مجاسش (فغ فغ فتح) لڑائی میں کوشش
کرنی اور مقابل کو شکست میں ڈالنا
مجاشش (فغ فغ فتح) یعنی مجاس (فغ فتح)
مجاشر (فغ فغ فتح نک) یعنی عشیر بنگال بنگالہ
مجاطر (فغ فغ فتح) آنکھ کا گوشہ کنارہ چشم
مجاعاف (فغ فغ فتح) موت پیٹ کا پھول
بدہضمی سے سیل کہ زمین کو کھود
ڈالے اور ہر چیز کو بہا لیجاوے۔
مجاعفہ (فغ فغ فتح) کسی کو زحمت دینی
لڑائی کرنی۔ لڑنا۔ ہجوم کرنا۔ سند دیکھ
کرنا۔ شغل کا کوئیں میں گرنا یا گرانا
اس طور پر کہ پانی گر جاوے یا ڈول
پھٹ جاوے۔
مجالع (فغ فغ فتح) زہر
مجالم (فغ فغ فتح) ایک بیماری ہے کہ جس کی
آنکھ اور سر پر ہو جاتی ہے اور کبھی منہ کو
عارض ہوتی ہے
مجالم (فتح فتح فتح) بخیل ملہ
مجامر (فغ فغ فتح نک) جمع مجمر (کسر فتح فتح)

پڑھیا عورت بد چہرہ
مجانسہ (فغ فغ فتح نک) ہمشکنا
مجاجح (فغ فتح فتح) سردار۔ مجاحیج (فغ فتح نک)
مجاحمہ (فغ فغ فتح) جمع
مجحمہ (فغ فتح فتح) ہلاک کرنا۔ تردد کرنا
آمد و رفت کرنی۔
مجحجا (فغ فتح فتح) سردار۔ مجاجح (فغ فتح نک)
جمع۔ سگینہ مرد ہندالہ۔
مجحجر (فغ فتح فتح) پڑا اگر۔
مجحجہ (فغ فتح فتح) کمال کوشش کرنی
اور مبادرت کرنی۔ ایک کام سے دور
رہنا۔ زمین پر سے اٹھانا۔
مجحد (فغ فتح) کم خیری۔ کم خیر۔
مجحد (فغ فتح) کم خیری۔
مجحد (فغ فتح) کم خیری اس جنگ جوش ہونا
کم بارش ہارش۔ کم رہنا گھاس کا
کم خیر ہونا۔
مجحد (فغ فتح) کم خیر گھوڑا گنہیلا گرا
مجحدہ (فغ فتح) الصفیہ سال خشک۔
مجحد (فغ فتح) جحود (ضمہ فغ) جان بوجھ کر
انکار کرنا۔ تجاہل عارفانہ کرنا بخیل ہونا
مجحدب (فغ فتح فتح) پست قد ٹھگنا۔
مجحدر (فغ فتح فتح) یعنی مجحدب (فغ فتح)

دودھ پینے والی ۔ سانپ جسکا بچہ بہت چھوٹا ہو ۔ بڑا چھوٹا کم

جحمش (فتحہ) جحموش (ضمہ) عورت بہت بوڑھی پوپلی ۔

جحمظہ (فتحہ) چیتر ہاکہ جس سے چھوٹے بچے کو گہوارہ سے باندھیں رستی جیسے بکری کے ہاتھ پانوں ذبح کے وقت باندھتے ہین

جحمظہ (فتحہ) باندھنا ۔ جلد چڑھانا ۔ پنیر ۔ لڑکے کے دونوں ہاتھ اسکے دونوں شانوں پر تادیب کے لیے باندھ دینے ۔ تیز دوڑنا ۔ جھکنے کو چلنا

جحن (فتحہ) جو دیر مین جوان ہو ۔ کھا مرا چھوٹی کمزور نے آپ چھیری

جحش (فتحہ) تنگ گیری کسی سبب فقر کے سکا کہ ۔

جحن (فتحہ) (ن) بچھی ہوئی ۔

جحنب (فتحہ) گھنگنا ۔ یا کم گھٹنا ۔ بچی جھڑیا ۔

جحنب (فتحہ) بمعنی جحب (فتحہ)

جحنبا (ضمہ) موٹا آدمی ۔ بزرگ پیدایش کا ۔ پتیل لانبا ۔ یا گھٹنا فراخ شکم کا ۔

جحنبارہ (ضمہ) بمعنی جحنبار

جحنبرہ (فتحہ) گھٹنی عورت ۔

جحنش (فتحہ) عظیم اکھوڑا ۔

جحنشہ (فتحہ) لڑکے کا پیٹ بڑھ جانا

جحنفل (فتحہ) جسکا ہونٹھ موٹا ہو کالرہ

جحنقہ (فتحہ) چھیری جیسے بکری کہتے ہین

جحوش (ان) جڑ سے اوکھاڑ ڈالنا مستقیم ہونا ۔ چلنا پھرنا ۔

جحوہ (فتحہ) ایک گام بدوی یعنی

جحوش (فتحہ) لڑکا جو ابھی تولد ہوا ہو

جحوظ (فتحہ) آنکھ کا بڑا ہونا لعو یا کر نکل پڑنا کام مین عیب جوئی کرنی ۔

جحوف (فتحہ) اشکنہ پیالے مین باقی رہی ہوئی چیز ۔ ڈول یا نی سمیت

جحوم (فتحہ) آگ کا افروختہ ہونا

جحیش (کسرہ) کنارہ ۔ ناحیہ ۔

جحیم (کسرہ) دوزخ کے ناموں مین سے ایک نام ۔ آگ بھڑکتی ہوئی ۔ آگ تہ بہ تہ آگ بڑی جیسے گڑھے مین جلا سے ہوں ۔ جگہ بہت گرم ۔

جح (فتحہ) احمق ۔ گزاف جان

جخو (فتحہ) (ن ض) گھین سے کھینچ جانا

جشن (مذکر) ... ومنش

جشن ... سنت ... کا جو ...

... جحود ... (ف) ...

جحوق (مذکر) ایک لکڑی ہے جس سے

گیہوں کوٹتے ہیں

جحیم (مؤنث) بڑا گہرا

جحف (ف) پوست ...

جحیم (مذکر) اکٹھا کرنا ... سائل ...

کاگز ... سائل ہونا کھانا ...

گیند ... اچک لینا گیند بازی کرنی۔

گیند کو اچک لینا۔

جحفۃ (مؤنث) کچھ تھوڑا سا ...

بچا ہوا پانی ... حوض میں ...

کی تہ داری

جحفۃ (مؤنث) کوئیں کا نکلا ہوا پانی

یا پانی کھینچ لینے کے بعد جو کچھ تھوڑا

کنوئیں میں رہ جاوے تھوڑا بچا ہوا

کھانا برتن میں تھوڑا سبزہ ...

ایک ... تھوڑا سا طعام

جحفل (مؤنث) بڑا لشکر۔ ...

جمع۔ مرد شریف ... ۲۔ سردار

جوانمرد۔ چوڑا چکلا۔

جحفلہ (مؤنث) ... اور بچھر اور

گدھے کا ہونٹ ... خشک (جمع

... جانوروں کے ...

جحفلہ (مؤنث) ... زمین پر دے

... کے کلام ...

... گیا

جحل (مذکر) ... جس ...

... سردار۔ بڑی مشک

... جحل (مذکر) ...

... [illegible] ...

... پچھاڑ دینا

جحلمہ (مؤنث) رسی اور مٹی۔

جحلمہ (مؤنث) زمین پر دے مارنا۔

جحم (مذکر) (ف) آگ جلانا ... آنکھ

... آنکھ کھلی رہنی ...

جحم (مذکر) جحوم (مذکر) ...

... آگ ... [illegible]

جحمرش (مؤنث) ... لوگ۔

جحمۃ (مؤنث) آگ ... آنکھ۔

جحمرش (مؤنث) عورت ...

... عورت ...

[redacted] کسی چھوٹی آنکھ ۔ جیسے گڑھی ۔

تخفف (فس) سونے والے کے خراٹے یا ادس سے اونچی آواز ۔ ہلکا پن ۔

تخفف (ضفف) جمع خفیف (کس) خراٹے کی آواز ۔ ہلکا پن ۔ جان ۔ سوح ۔ بڑا لشکر

تخففن (فس) خفیف (کس) الخ ۔ فس (اپنی حد سے زیادہ) فخر کرنا ۔

سو جانا ۔ دبکانا ۔

تجفۂ (فسف) عورت ۔ خشکی ۔

تجفۂ (فسفف) ۔ بد طبع ۔

تجخو (فس) کو زہ وار ہوا کر دینا ۔ پوست کا فراخ ہونا اور ڈھیلا ہو جانا ۔ ران کا ڈھیلا پن ۔

تجخوذہ (فسفف) دوڑنا ۔

تجخیف (کس) یعنی تجف (فس) اور جان ۔ سوح ۔ بڑا لشکر ۔ چھٹکنا ۔ تجفف (فسفف) جمع ۔ متکبر ۔ فراخ ۔

جُدفت (فت) داداسا ۔ جدو (فس) ضمیر و حصص (فسف) اجداد (فس) جمع بخت ۔ دہر و نصیب ۔ عنی ہونا ۔ خنکی ۔ بے نیازی ۔ دولتمندی ۔ نہر کا کنارہ ۔ جو سے زمین ۔ مرد بجائے دو ۔

جُدفت (ان) قطع کرنا ۔ گھر کا ٹپکنا ۔

[redacted] ۔ جنرتی ۔ رہ ۔ رنج بخی ہو جانا ۔ پھولا مستعمل ہے ۔ بڑا اور بزرگ معلوم ہونا ۔ صاحب نصیب ہونا ۔

جُدّ (فت) مرد بجائے ۔ نصیبہ ور ۔ نہر چھوٹی کی جانب دکنارہ ۔ گوشت کا موٹا پا ۔ بور بڑا پن ۔ ایک میوہ کیلے کے مشابہ ۔ چراغ کا کوان ۔ گہرا کوان ۔ تھیلا کوان ۔ تباعات اضداد سے ہے ۔ آب قدیم ۔ تھوڑا پانی کہ نہ جنگل بیابان میں پانی ۔

جُدّ (کت) نہر کا کنارہ ۔ نیک کام ۔ کوشش ۔ سعی ۔ صدق ۔

جُدّ (کت) (ان) من کوشش کرنی کام کو درست کرنا ۔ گھر کا ٹپکنا ۔ صاحب نصیب ۔

جُدّاو (ضفسم) نفع بخشش ۔ دولتمندی ۔

جُدّاو (ضفسم) حاصل ضرب ۔

جُدّار (فت) مینہ جو عام ہو بخشش یا مینہ بہت ہے جو ۔

جُدّاو (فس) کھجوریں تو کر دینی ۔ خدمت سے کچھ ہیں توڑنے کا وقت ۔

جُدّاو (فسفس) شراب بیچنے والا ۔ شراب بنانے والا ۔

جُدّاو (فسفس) کپڑے سے برلنے پارہ پارہ ۔ جو کچھ باقی رہ گیا اور ریزہ ہو کر نکل گئی ۔

مادہ

بے خف ۔ بے خفس ۔ بے خفش ۔ بے خفیف ۔ بے خفن ۔ بے خنو ۔ بے خفن ۔ بے خفف ۔ بے خنث ۔ بے خضض ۔ بے خنفس ۔ بے خنش

۴۱۵

۱۱ ایضاً

۱۳ جمو

۱۲ جدی

۱۴ ایضاً

۱۴ جمو

۱۵ ایضاً

۱۵ ایضاً

۱۲

[illegible] سے [illegible]
[illegible] کا [illegible]
[illegible]
[illegible]
جگار [illegible] بکسر [illegible]
[illegible] (فتح) [illegible]
جگاد [illegible] (فتح) جگاو تیر (فتح) [illegible]
[illegible] (فتح) جگاو [illegible]
(فتح) شیر [illegible] سخت [illegible]
[illegible] شیر [illegible] ایک قسم کی [illegible]
[illegible] بال و کی [illegible]
جگادگی (فتح) بیا پیالہ [illegible]
[illegible] وہی [illegible] تھا
[illegible]
جماف (فتح) [illegible] سے زیادہ فخر
کرنے والا [illegible] لینے والا سونے میں
جحیث (کسر) [illegible] کا ڈاک -
جحیث (کسر) بڑا اونٹ [illegible]
جحوشہ (فتح) [illegible] عمل کرنی [illegible]
دل کی بات کو پوشیدہ کرنا [illegible]
بیچ کرنا - کسی چیز [illegible] میں
پڑنا - جماع کرنا - سینہ پر سے مارنا -
جحدب (فتح) شیر دلاور سخت لبنا

[illegible] رفتار نا ایک قسم
[illegible] سبز [illegible] پانی کی ہوتی ہے
[illegible] گھاس [illegible] جحادب
(فتح) [illegible]
جحدبہ (فتح) [illegible] سرعت -
جلدی چلنا -
جحدر (فتح) [illegible] کا -
جحدر (فتح) [illegible] جحادر (فتح) [illegible]
[illegible] دلاور [illegible]
جحدل (فتح) [illegible]
جحدلج (فتح) [illegible] ہونا -
جحدلہ (فتح) [illegible] میں
[illegible] میں -
جحر (کسر) بہت کھانے والا [illegible] دل
[illegible] والا [illegible]
[illegible] جسکو جلد جلد [illegible] لگے -
جحرز (کسر) [illegible] کرنا -
جحر (فتح) کنویں کا پیٹ فراخ ہونا
خالی پیٹ میں [illegible] پیٹ کا
[illegible] ہونا [illegible] کا منہ کا
[illegible] ہو جانا - کنویں کا فراخ ہونا - پیٹ
کا خالی ہونا -
جحر (فتح) [illegible] گنندہ فرج فراخ

جُلدۃ (کف) پانا۔

جَدَث (فف) قبر۔

جَدثہ (فسف) گھوڑے کے ٹاپوں یا اونٹ کے سم کی آواز۔ گوشت کا چبانا۔

جُدجُد (فس ضس) زمین چٹیل۔

جُدجُد (فس ضس) ایک چھوٹا سا جانور ہے ٹڈی کی مانند۔ چھوٹا سا آبلہ کہ خانہ چشم پر نکلے۔ جداجد (فضسک) جمع

بڑ گھرا۔ اندارکوان۔ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے ٹڈی کی مانند کالے سر کا۔

جُلدح (کس) ایک کلمہ ہے جس سے بکریوں کو ڈانٹتے ہیں۔

جَلدح (فس) ستو گھولنا۔

جَدد (فف) سوسنے زمین۔ ایک غدود کی مانند اونٹ کی گردن میں چٹیل زمین۔

جِدر (س) ایک گھاس ہے۔

جَدَر (فف) (س) درخت انگور پر نئی آنا۔ چیچک کا نکل آنا۔ غدود گلٹی کہ گوشت میں مارنے سے یا زخم سے یا پیدائشی ہو۔ اجدار (فسفس) جمع۔ ایک سوجن ہے حلق میں یا گدھے کی گردن پر کا آبلہ یا کاٹنے کا نشان۔

جُدر (ضف) گوشت کا غدود۔

جَلدر (فس) دیوار۔ جدران (ضسفس) جمع۔ ایک گھاس ہے ریت کی۔ جدور (ضفس) جمع۔ حطیم کعبہ۔ دیوار کی جڑ۔

جَدر (فس) (ن) چیچک کا نکل آنا۔ لائق کر دینا۔ چنے کے برابر پھل لے آنا درخت کا۔ گھاس کا سر چیچک کے برابر نمودار ہو۔ کام کے سبب ہاتھوں میں آبلے پڑ جانے۔ چار دیواری بنانی۔ دیوار میں پنہاں ہو جانا۔

جَدرای (فسفسم) بکری آبلہ زدہ۔

جُدری (ضفکت) چیچک۔

جَدش (فف) زمین سخت۔ اجداش (فسفس) جمع ہے۔

جَدش (فس) (ض) کسی چیز کے پکڑنے کا ارادہ کرنا۔

جَدع (فس) بدہضمی۔

جَدع (فس) (ف) ناک کاٹنی یا کان یا ہاتھ یا ہونٹھ۔

جَدع (فف) ناک وغیرہ کی بریدگی۔

جَدع (فف) (س) بری طرح سے کھانا بچے کا۔

جَدعۃ (ففف) ناک کٹنے کے بعد جسقدر باقی رہے۔

جَدف (فف) گور۔ اجداف (ضفس) جمع۔ شراب جسکا برتن سر کھلا ہو۔ ایک



ایضا
ایضا
۹۱۷
ایضا
ایضا
ایضا
ایضا
ایضا
ایضا
ایضا

درخت کی شاخیں چھوٹے درخت
جسکی لکڑیاں چھوٹے پہاڑ
جداء (ض) عورت جسکی پستان چھوٹی
ہون اور کان کٹے ہوئے ہون - وہ عورت
جسکا دودھ خشک ہو گیا ہو - جنگل
جس میں پانی نہو
جدار (کسر) دیوار - جدر (ض) جدور
جدارہ (ض) لایق ہونا - لگا ہی کا
چیچک کی مانند دانے نکلنا
پھول کلی کی مانند ظاہر ہونا -
جداع (کسر) گالی گلوچ
کرنا - آپس میں گالیاں بکنا
جداع (ض) [illegible]
جداء (ض) [illegible]
ہوئی گھاس
جدا (ض) گوشت کا مال
[illegible]

چھوٹے بالون نکلے ہون -
جداما (ض) [illegible] کا درخت جب پھولا ہو
جدادہ (ض) گیہون اور جو وغیرہ کا
خوشہ کہ جسکو کھلیان سے [illegible]
کے وقت دوسرے بار کوٹنے کے
لیے نکال لیتے ہیں
جدامی (ض) ایک قسم کا خرما -
جدایہ (ض) ہرن کا بچہ
جدب (کسر) نام ہے سال قحط -
جدب (ض) زمین خشک سال عیب
خشک جگہ بے روئیدگی -
جدب (ض) ارض خشک سال
ہونا عیب کرنا -
جدبار (ض) زمین خشک بے نبات -
جدبہ (ض) روئیدگی - جدبدس
جدب (ض) جمع
[illegible]

جدول (فسف) چھوٹی نہر جداول (فففسک) جمع۔ ایک نہر ہی۔

جدول (ففضس) (ن) سخت اور درشت ہو جانا۔

جدوی (فسف) بمعنی جد (فف)

جدی (ففت) جدی کے بجائی کا نام کہ جسکے باپ کا نام اخطب تھا اور منجموں کے نزدیک وہی ستارہ جدی ہے برج جدی سے امتیاز کے لئے صیغہ تصغیر پر بولتے ہین۔

جدی (فس) بھیڑ کا بچہ نر۔ جداء (کفضم) اجدر (کسسک) جدیان (کسفنس) جمع۔ ایک ستارہ ہی بنات النعش صغری کے پیچھے قطب کے پاس۔ ایک برج کا نام کہ برج دلو کے متصل ہی۔

جدی (فس) (ض) بخشش چاہنی۔

جدیب (ففس) جائے خشک۔

جدیۃ (فکتف) زین اور پالان کا نمدہ

جدایا (فسف) جمع۔ خون جاری سنا جسم طرف تھوڑے مشک۔ رنگ چہرہ۔

جدیۃ (فسف) زین اور پالان کا نمدہ اور وہ دو جو سے ہین۔ جدیات (فففس) جمع

جدید (فکس) روے زمین۔ جدود (ففسس) جمع۔ مرد صاحب نصیب۔ مرگ

جدیدان (فکسففس) رات دن۔

جدیدۃ الشرج یہہ لفظ مولد ہی اور عرب بولتے ہین جدیۃ الشرج اور جدیۃ الشرج

جدیر (فکس) چار دیوار۔ لائق جدیرون (فکسففس) جدراء (فففسم) جمع۔

جدیرۃ (فکسف) حظیرہ پتھروں کا بنا ہوا طبیعت

جدیل (فکس) مہار پوست سی بٹی ہوئی رسی چمڑے کی یا بالون کی اونٹ کی گردن مین پیرتلہ۔ جدل (ففس) جمع

جدیلۃ (فکسف) قبیلہ۔ خو۔ کنارہ۔ کبوتروں کی کابک۔ طریقہ۔ حالت ایک پوست کی چیز جو لڑکے اور حائض عورتین پہنتی ہین۔

جذ (فت) ٹکڑا ہر چیز کا۔ جذاذ (فسفف) جمع۔

جذ (فت) (ن) جلدی کرنی۔ توڑنا۔ پارہ پارہ کرنا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

جذاء (فقفسم) کٹا ہوا۔ جڑ سے گرا ہوا

جذاب (ففس) مرگ۔

جذاب (فکفس) بمعنی جذب (فف)

جذاۃ (فقفسف) بال پرکار گھوڑے کی دم کے جس سے چکاوک کو شکار کرین

| مادہ |
|---|
| جدل |
| ایضا |
| جدو |
| جدی |
| ایضا |
| ایضا |
| جدب |
| جدی |
| ایضا |
| جدر |
| ایضا |
| 919 |
| ایضا |
| جدر |
| ایضا |
| جدل |
| ایضا |
| جذذ |
| ایضا |
| ایضا |
| جذب |
| ایضا |
| ایضا |

[illegible] بڑے [illegible] کھانے سے

اونٹون کی بیاری جاتی رہتی ہے۔ جھاگ

کیچڑ میل کچیل جو شراب سے نکال کر

پھینک دیتے ہیں

جَدَف رفض (ض) کاٹنا۔ برف برسنا

دونون ہاتھون سے مارنا کشتی کو

چپوسے ہانکنا۔ جدا رمین آواز کو قطع کرنا

جَدفا رفسفم بکری جسکا تھوڑا

سا کان کٹا ہوا ہو۔

جَدفہ رفعف شور۔ دوڑنے کی آواز۔

جَدل رفس سخت ذکر۔ بڑی پیچ کی

خالی۔ ہاتھ پانون اور اندام۔ بڑی مضبوط

اجدل رفسض جدول رضمس جمع

جَدل رفس (ن) ہرن کے بچہ تو یکا

اپنے مان کے بس و ہو جانا۔ دانہ کا خوشہ

مین بستہ اور قوی ہو جانا۔ زمین پر پچھاڑ دینا

(ن ض) مضبوط بٹنا۔

جَدل رفت تبر جھگڑا۔ جھگڑے کی قدرت

جَدل رفک ہٹ جھگڑالو۔

جِدلاء رفسفم عورت اچھی پیدایش کی

زرہ مضبوط بناوٹ کی۔ جدل رفیس

جمع بکری جسکے کان جھکے ہوئے ہون

جَدلان رفس (اسم ظرف

جَدالہ رفسف ادھکلی ہوئی مٹی۔

جَدم رفف ایک جانور ہے سرخ چونچ کا

چڑیا کے برابر۔ جدمر رفعف ایک۔

ایک قسم کا خرما۔

جَدم رفس (ن) درخت کا پھل لے

آنا اور اوسکا خشک ہو جانا۔

جَدمۃ رفعف ٹھگنا مرد۔ جدم رفف

الجمع۔ بکری خراب نکمی کئی خرمے کے غورے

جو ایک شگوفہ مین سے نکلین۔ نہ کوٹا

ہوا نہ ملا ہوا خوشہ۔ کھلیان کو ہوا پر

اوڑانیکے وقت خوشے باہر نکالے ہوئے

کہ اونکو دوسری بار کوٹین۔

جَدن رفف خوش آوازی۔

جَدو رفس (ن) عطا کرنا۔ حاجت کسی کا

کے آگے لیجانی ہو اوس سے عطا چاہنی

جَدوب رفضس اجاے خشک بے روئیدگی

جَدوبۃ رفسسف خشک بے روئیدگی ہونا

جَدود رفعس املی گدہی۔ جداد

رکفس جمع بکری کم دودہ دینے والی

جدائد رفسک جمع الجمع۔

جَدوف رفعس چھوٹے چھوٹے قدم

رکھنے اور تیز چلنا۔ بازو کٹے جانور کا

اوڑنا اور اوسکا دوڑنا۔

۲۵ ایضا
۲۵ ایضا
۲۵ ایضا
۲۵ جدول
۲۵ ایضا
۲۵ ایضا
۲۵ ایضا
۲۵ ایضا
۲۵ ایضا
۲۵ ایضا
۲۵ ایضا
۲۵ ایضا
۲۵ جدم

۹۱۸

(ضسفس) جذاع (کفس) جمع۔
جذعات (فسفس) مؤنث۔ جذعان
(ففس) جمع۔ جوان ہونا۔
جُذ عمان الجبال چھوٹے پہاڑ۔
جذعمة (فسفف) لڑکا چھوٹا۔
جذف (سق) (ص) کاٹنا۔ تیز
اڑنا جانور کا۔ پاس پاس قدم
رکھکر چلنا۔ عمدہ کشتی کو چپو سے ہانکنا۔
جذل (کس) درخت کی جڑ اور
اوسکا تنہ بے شاخ۔ سوکھی لکڑی کا
کندہ۔ جذال (فس) جذول (ضس) جمع۔
جذولة (ضسف) جمع۔ بڑی جڑ
درخت کی جس کا سوکھی جانب نکل
سر کو چھوٹا یا ان کے۔ اجذال (فسفس)
جمع۔ چھوٹا اسطبل۔ لکڑی کہ شتر خانہ
میں او سے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ
خارشی اونٹ اوس سے کھجا دیں۔
جِذل (ک) رئیس۔ صاحب رائے
جذل الطعام جو کہ مال کی خبرگیری
اور سیاست کرے۔
جذل (فف) (س) خوش و خرم ہونا۔
جذل (ذکف) جذلان (فسفس)
خوش و خرم۔ جذلان (فسفس) جمع۔

جذلة (فف) گرہ۔ جذل انگور کی
بیخ یعنی انگور کی بیل شاخ۔
جذم (کس) ہر چیز کی جڑ۔ گروہ قبیلہ
اجذام (فسفس) جذوم (ضسفس) جمع۔
جذم (فس) ہاتھ کا کاٹنا۔
جذم (فف) (س) ہاتھ کا کاٹا جانا
اور انگلیوں کا سر اگر پڑنا۔ مرض جذام
میں مبتلا ہونا۔
جذم (ذک) تیز اور جلد چلنے والا۔
جذماء (فسفس) ہاتھ جسکی
انگلیاں گر گئی ہوں۔
جذمار (کسفس) کھجور کا ٹکڑا کہ جب
قطع کرے تنہ درخت پر باقی رہ گیا ہو۔
جذمان (ضسفس) ذکر یا ذکر کی جڑ
جذملة (ضسفة) میگنی یا قمادی انگشت کی
جذمور (کسف) ٹکڑا رسی وغیرہ کا کہ اوسکا
سر اوسی میں رہے اور جڑ موٹی ستانا زیادہ
یعنی کونڈا۔ جذم (کف) جمع۔
جذمیر (فسف) جہان سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے
جذمور (ضسفس) ہر چیز کی جڑ یا او کا
اول یعنی جذمار۔ جذامیر (فسفس) جمع۔
اخذ کرو جذ سے ورجدا میرو یعنی اوس
چیز کو سب کا سب لے لیا۔

مادہ
۹۲۱
۱۱ ایضاً
۱۲ ایضاً
۱۳ ایضاً
۱۴ ایضاً
۱۵ جزم
۱۶ جزم
۱۷ ایضاً
۱۸ ایضاً
۱۹ ایضاً
۲۰ جزم


ج

جذاذ (فس) ایک درخت کی جڑ
لکڑی کا ٹکڑا۔ جذاذ اور جذاذ جمع ہے۔
جذاذ (فس) ایک چیز کی دوسری پہلو
جذاذ (ضفس) ٹکڑا ہر چیز کا ریزہ۔
سونے کی کنکریاں جذاذۃ (ضفسف) ایک
جذاذات (ضفسفس) سونے کے ٹکڑے
جذام (ضفس) ایک بیماری ہی جس سے
اعضا گل جاتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں
خدا بچاوے۔
جذامۃ (ضفسف) کھیت کٹے میں
سے جو کچھ جھڑ کر بچ رہے۔
جذامر (ضفسک) جو بہت قول و قرار توڑے
جذاش (فقفس) نرم کنکریاں۔ جذاشۃ
(فقفسف) ایک کنکری۔
جذب (فس) اسریع۔ سیر جذب بولتے ہیں
جذب (فس) (ف) غلبہ کرنا منا محبت
میں اور جذب کرتا۔
جذب (فس) (ض) کھینچنا ایک چیز کو
اوسکی جگہہ سے کھینچنا۔ کم شیر ہونا اونٹنی کا
۔ مہینے میں سے بہت گذر جانا بچھڑے
کو دودہ سے چھڑا دینا منہہ کا خشک
ہونا۔ ایک سانس منہہ کو ڈالکر پانی پینا
جذب (فف) خرما کی چربی۔

۹۲۰

جذبات (فس) بولتے ہیں فلاں
اخذ فی الوادی جذبات یعنی راہ گم کر دیا
اور منزل مقصود کو نہ پہنچا۔
جذبان (فکتفس) چمڑے کا تسمہ کہ درمیان
پانو کے انگوٹھے اور پہلی انگلی کے ہوتا ہے
جذبۃ (فسف) دو سنگی مسافت ڈورہا کے
کا ایک بل کہ عورتیں تکلے میں ڈالتی ہیں
جذۃ (فسف) کپڑے وغیرہ کی شی قلیل
جذجذۃ (فسفف) جڑ سے کاٹنا۔
جذر (فس) جڑ زبان کی یا ذکر کی عدد
جسے فی نفسہ ضرب دیں۔ گردن کی جڑ
جذور (ضفس) جمع۔ کعبہ کا بڑا پردہ۔
جذر (فس) (ن) کاٹنا جڑ سے اکھاڑنا
جذع (فکس) کھجور کے درخت وغیرہ کا تنہ
متفرق اور پریشان جذع مذع دونوں
ایک ساتھ بولتے ہیں۔
جذع (فس) (ف) چوپایہ کو بغیر چارہ
گھاس باندھنا۔ دو اونٹ کو ایک
رسی سے باندھنا۔ قید خانہ میں رکھنا اور
ذلیل اور حقیر رکھنا۔
جذع (فف) گاے بکری جو دوسرے
سال میں لگی ہو۔ گھوڑا جو تیسرے میں
اور اونٹ جو پانچویں لگا ہو۔ جذعان

جراضی (فض) جلال ... [illegible]
جرادر (فض) ... نہ ہو یا ... [illegible]
جرادق (فض) ایک ... [illegible]
جراد (فض) ... [illegible]
جرادہ ... ایک ... [illegible]
جرادہ (فض) ... [illegible]
... [illegible] ... ہون
جرار (فض) ایک قسم ... [illegible]
کہ ... [illegible]
... [illegible] ... آہستہ چلے
جرانہ (فض) ایک بوٹی کی
جرانز (فض) ... کے کانٹے کی
تلوار ... [illegible]
جرادہ (فض) بہت کھانیوالا
اور بہت جلد کھانے والا ہوجانا
جراشتر (ضفسف) ایک چیز کے
کوٹنے میں سے جو کچھ اوچٹ جائے
جراصل (فضسک) پہاڑ
جراضیہ (ضفسکف) مرد والا
اونٹ نر سخت
جراضن (فضس) اونٹ بلا گردن کا
اونٹنی کہ اپنے بچہ پر مہربان ہو
جراعن (فضس) ... پیٹ کا شیر

جراضن (فضس) یعنی ... [illegible]
جراضم (فضسک) یعنی جو جسم ... [illegible]
جرافت (فضس) ایک قسم کی بیمار ... [illegible]
... کہ سب چیز کھا لیتا ... [illegible]
بہت کھاوے کہ سارا کھانا کھا جاوے ... [illegible]
بہت جلد کرنیوالا خوش و خرم
جرافر (فضسک) ... [illegible]
جرافس (ضفسک) یعنی ... [illegible]
جرافض (فضسک) ... [illegible]
جراقم (ضفسف) ... [illegible]
جرام (فضس) جرام (فضس) ... [illegible]
اور خرما کے کاٹنے کا وقت
جراع (فضس) خشک خرما
خرما کی گٹھلی
جرام (فضس) مچھلی
جرامنہ (ضفسف) گیہوں جو وغیرہ کا
کفر یعنی وہ جسے کھلیان کو ہوا پر
اوڑانے کے وقت نکال لیوین
تاکہ اوسے دوسری بار کوٹین وہ
چیز کہ وقت کاٹنے کے خرما انگور سے
گر پڑے۔ کٹا ہوا خرما
جرامز (فضسک) وحشی جانور کے
ہاتھ پانون اور اوسکا بدن ... [illegible]

ج

[illegible]

[illegible] (فتسف) [illegible]
[illegible] اور نا بہت ہونا
[illegible] (فتس) [illegible] چیز کی [illegible]
[illegible] (فتس) [illegible]
[illegible] (فتسف) درخت کی [illegible]
[illegible] (فتس) پست [illegible]
[illegible] (فتسف) پست —
جرشوا (فت) پہاڑ کی جڑ کھنا اور
[illegible] کا سوراخ چھلنی وہ چیز کہ جس
[illegible] کی ہڈی کی کھال سے بناتے
ہیں [illegible] عورتیں وہ گوشت جسکو
مصالح لگاکر بکاتی ہیں [illegible]
[illegible] چھوڑتی ہیں [illegible] وغیرہ
[illegible] لٹکا دیتی ہیں اور وہ وہاں
لٹکتا ہوا [illegible] کی حرکت
— تو شہر وان — ران کھینچنا [illegible]
[illegible] چلتے چلتے چرنا اونٹ کا

[illegible] جھڑ دینا [illegible]
[illegible] ہونے حمل کے
[illegible]
[illegible] حمل کے
[illegible] گذر جانے
[illegible]
جراز (فتس) [illegible] جمع
[illegible] لیے گیا —
جراب (فتس) [illegible] جرب
[illegible] (فتسف) جمع غلاف
غلاف [illegible] —
جرابی (فتس) [illegible] —
جرءة (فتسف) دلیری [illegible] جرءة
(فتف) جرارة (فتسف) جرائیہ (فتسف)
جرارة (فتسف) دلیر ہونا —
جراجب (فتسک) [illegible] اونٹ
جراجر (فتسک) [illegible] اصل
جراجر (فتسک) اونٹ بہت بلند
آواز والا [illegible] آواز
جراجم (فتسک) [illegible] آواز [illegible]
جراح (فتس) [illegible] کرنیوالا —
جراحة (فتسف) زخم جراح (فتس)
جراحات (فتسف) جمع —

نکلا ہوا یا ہو یا کہ کوئیں کی منڈیر پر ڈال دیتے
ہیں تا کہ پانی کوئیں کے اندر بہہ جانے
پاوے اور کوئیں کی منڈیر ٹوٹنے پاوے یا
وہ پتھر وغیرہ کا ٹکڑا ہی کہ نہر میں
ڈال دیتے ہیں تا کہ اوس پر پانی بہے۔
جَبْذَۃ (فتح فتح) ایک طرح کی اونٹ
کی چال یا گھوڑے کی چال یا [illegible]
بھاری پُشت [illegible] یا سر شرم کا
زمین سے نزدیک ہونا اور اوسکا بلند ہونا
جَبَرِیْز (فتح فتح) فریب دینے والا
[illegible] گرگٹ کا۔
جَبْرِیَّۃ (فتح فتح) فریبی ہو جانا چلا
جانا [illegible] مستقیم ہونا۔
جَبْرِیَا (فتح کسرہ) اوتر کی ہوا یا اوسکی
سردی یا وہ ہوا جو جنوب اور صبا کے
درمیان یا با فکبار جو شمال اور دبور
کے درمیان سے چلے یہ ضعیف۔
جُرْزَۃ (فتح فتح) گٹھڑا جر (فتح) حرار
(کسرہ) جمع سعتی یا ردی [illegible] گرم
پھولوں میں نکال دیں۔
جَحْرَۃ (فتح فتح) کھینچنے کا طور جو چیز
کہ اونٹ جو گال [illegible] سے
نکالے ایک لقمہ کہ جس سے اونٹ

اپنے تئیں بہلا وے جاڑے کے وقت
تک۔ لوگوں کا گروہ کہ اقامت
کریں اور پھر سفر کر جاویں۔
جَرْرَۃ (فتح فتح) ہرن کا جال جسمیں وے
پھنساتے ہیں بولتے ہیں [illegible]
الجَبْرَۃ ثم [illegible] یعنی جب ہرن
جال میں پھنستا ہی تو پہلے تو جال
سے گریز اور نفرت اختیار کرتا ہے
پھر لاچار ہو کر قرار پکڑتا ہی گویا کہ اوس
سے صلح کرتا ہی اور وہ یہ کی [illegible]
اوسکی جڑ میں Dig ہوتا ہے [illegible]
سے گیہوں بوتے ہیں شنا یا [illegible]
اور وہ بالنسا کہتے ہیں [illegible] بالنسا
جَرْثُمَۃ (فتح فتح) اقتب سے [illegible]
جَرْثُمَۃ (فتح فتح) ہر چیز کی جڑ۔
جُرْثُومَۃ (فتح فتح) یعنی جرثومۃ
(فتح فتح) جراثیم (فتح کسرہ) جمع
خاک جسے ہوا اٹھا لیجاوے یا خاک
جو درخت کی جڑ میں جمع ہو جاوے
چیونٹیوں کا گھر۔ نر خرے کا سرا۔
جَرْشَل (فتح فتح) ایک قسم کا انگور۔
جَرْشَمَۃ (فتح کسرہ) نرخرا۔
جَرْج (فتح) زمین سخت پتھریلی۔

[illegible]

[illegible] اوس کی گردن کا

[illegible] ہے [illegible] جہان

[illegible] (فتح سکون) شیر [illegible]

[illegible] دلدار [illegible]

جریب (فتح سکون) ظاہر اور آشکار

[illegible] رنگ

[illegible] (فتح) [illegible]

[illegible] (فتح) [illegible] جاری

[illegible] (فتح) [illegible] کا مادہ

جر العیص (فتح سکون) یعنی [illegible] اوس

العیص اور [illegible] درخت کو وات

سے پکڑ کر گھسیٹ لیجاوے

جرب (فتح) رنگ شتر ایک

کیڑا [illegible] کے اندر

ہو جاتی ہے اور اوس سے آنکھ میں

پانی بہنے لگتا ہے خارش سی

جرب (فتح) وہ خارش ہوتا سی

کی [illegible] من کا [illegible]

اور [illegible] کا خارشی ہو جانا ہے

جرب [illegible]

[illegible] جریب (فتح) [illegible]

جر [illegible] کی جمع

جر [illegible] (فتح) [illegible]

جر [illegible] (فتح) [illegible] پہچانا

[illegible] اسما [illegible]

[illegible] ذکر کرتے

[illegible] کی [illegible]

جر [illegible] بیان

جر [illegible] (فسفف)

جر [illegible] السیف تلوار کی تیزی

[illegible] تلوار کا [illegible]

[illegible] القمیص [illegible] بیان کرنے کا

پیراہن [illegible]

جر [illegible] بہت فریاد کرنے

والی [illegible] بکنے والی

جر [illegible] (فتح) [illegible] آدمی [illegible]

سخت اور قوی [illegible] ہون یا ذکر بہت

سا اولاد جو کمانے کو قوی ہون اور کچھ

کام کے نہیں

جر [illegible] (فسف) [illegible] زمین [illegible]

گھاس [illegible] کھیت اور درخت

کے لیے [illegible] اور [illegible]

ہوئی ہے جمع [illegible] کا

ماده

چوپایے کے پیٹھے کی سوجن اور سینگ
ہرن کی مانند پیچھے۔
جرد (کمس) (ف) کم ہونے ہونا
گھوڑے کا سینے نبات ہونا ٹڈی
کھانے سے آدمی کے پوست کا
ورم سے آنا۔ دردگین ہونا پیٹ کا
ٹڈی کھانے سے۔ ٹڈی کھایا ہوا
ہونا کھیت کا۔ ان دو اخیر معنی میں
مجہول استعمل ہے۔
جرد (زکف) جرد الزرع جاسے بو
نبات یعنی اوسرزمین۔
جرداء (فسضم) سخت پتھر چمکدار۔
زمین بے نبات۔ شراب صاف جو کہ
جسے پر بال چھوٹے۔
جرداب (کسفس) دریا کا بھنور۔
معرب ہے گرداب کا۔
جرداح (کسفس) پشتہ زمین۔
جردان (فسفس) چوپایہ کا ذکر
یا عام۔ جرادین (فسکس) جمع۔
جردبان (کسفس) روٹی کا نگاہبان
۔ وبمعنی جردبی (فسکت)
جردبۃ (فسفف) مارے حرص کے
سارا کھالینا کھانے پہ ہاتھ رکھ لینا

تاکہ دوسرا نہ کھانے پاوے یا دائیں
ہاتھ سے کھانا اور بائیں سے منع کرنا
جردبی (فسکت) طفیلی یعنی جو بن بلائے
ضیافت میں آوے۔ جو کہ کھانے پر
ہاتھ رکھ لے تاکہ دوسرا شخص کھانے
نہ پاوے یا جو دائیں ہاتھ سے کھائے
اور بائیں ہاتھ سے روکے۔
جرجبیل (فسکس) یعنی جرجبان زہر
جردۃ (فسف) چادر سی ہوئی پرانی
جردۃ (فسف) زمین ہموار بے گیاہ
اور بولتے ہیں المرأۃ حسنۃ الجردۃ
یعنی عورت برہنگی کے وقت پتلے پوست
بھرے ہوئے گوشت کی ہو۔
جردحۃ (فسفف) گردن لمبی کرنی۔
جردحل (کسفس) وادی۔ اونٹ
بڑے بدن کا نر ہو یا مادین
جردلۃ (فسفف) گر پڑنے کے قریب ہونا
جردم (فسف) ٹڈی کا لے سرکی
ہری۔ مرد بہت بولنے والا۔
جردمۃ (فسفف) سب کا سب کھا
لینا جو برتن میں ہو و بمعنی جردبۃ
(فسفف) ساتھ سے بڑھ جانا۔
سرعت کرنی۔ بہت بولنا۔

۹۲۷
جرد ل
جردم
ایضا

... راہ کا بیچ -
جرجح (ف) اوس ... چلے ہیں سے
سے ... سخت پر چلنا - یا راہ
کے درمیان میں چلنا -
جحجح ... کھلا فراخ -
جحجابہ ... گھاس خوشبودار
... آواز کرنیوالا - گھنگھرو کی آواز
... (مف) ...
جحجب (مف) ہیبت ...
جحجبان ... رخصت
... (مف) ... میں کی
... جیسے کہتے ہیں
...
جرجر (مف) شاہراہ - راہ کا بیچ -
جرجرہ (مف) ... جرجی جمع ... بیچ -
جرجور (مف) ... کوٹے کا ...
جرجیر ... یا ...
... بلنے والا سبزہ ... وغیرہ -
جرجرہ (مف) ایک گھاس خوشبودار
... کی آواز -
جرجرہ (مف) شراب کی آواز گرنی
- آواز دار شراب ... گلے کا آواز کرنا
... کو آواز سے حلق کے نیچے اوتارنا

جرجس (ف) ... پشہ ... موم
... جیسے ... کہتے ہیں کتاب -
جرجمان ... کھانیوالا -
جرجمہ (مف) ... کھانا ... پچھاڑ
... کرنا ... ڈھیر کرنا -
جرجور (مف) ... گروہ - اونٹ بڑی قوی ...
... کامل و تمام -
جرجوم (مف) ...
جرجیر ...
جرجیح ...
... دینا -
جرح (ف) ... زخم جروح جمع ...
جرح ... زخمی ہو
جرحت شہادتہ نامقبول ہوئی
گواہی اوسکی -
جرد (ف) ... ننگا کرنا - اجرد ...
جمع ... ذکر ... مال -
سوار و ... گروہ کہ دشمن کی لڑائی کے
لئے جدا کیا جاوے جگہ بے گھاس
جرد (ف) ... بے گھاس کر دینا
قحط کا زمین کو جیسے جرد القحط الارض
ایک چیز کا ایک چیز سے پوست دور کرنا
جرد (مف) جنگل جسمیں گھاس نہو -

بعض سے کہا جاتا ہو۔
جرش (کس) جرش (ضس) جرش (نف) جرش (ضن) بمعنی جرش (د)
جرشب (ضن) گھٹنا۔
جرشبۃ (فسف) جیسے بیماری یا دبلاپے کے اچھا ہونا۔ زخم کھرا ہو جاتا یا بڑھاپے کو پہنچ جاتا یا پچاس برس کا
جرشع (ضس) اونٹ یا گھوڑا جسکا سینہ بڑا ہو۔ اونٹ جسکا پہلو نکلا ہو۔ جنگل وسیع یا الجھا ہوا گہرا۔ پہاڑ چھوٹا سخت والدار جواشع (فضک) جمع۔
جرشمۃ (فسف) بیماری سے اچھا ہونا۔ گھور کر دیکھنا کسی کے چہرہ کو ناپسند کرنا۔
جرشی (کلتف) آدمی کا بدن نفس۔
جرض (فت) تھوک نہار منہ کا تھوک
جرض (فف) جرض بس غم میں تھوک نگلنا جیسے جرض بریقہ جرضنا گلے میں کھانا اٹک جانا ایسا کہ مرنے کے قریب ہو جاوے۔
جرض (فرض) گلا گھونٹنا۔
جرضم (فسف) بڈھا جو اپنی جگہ سے بسبب لاغری کے ہل نہ سکے۔

منہی شتابیت بچہ۔
جرضم (فسعن) بہت کھانے والا
جرضم (کسفت) بہت کھانے والا۔ بکری بڑی موٹی۔
جرط (فف) غم جو گلا روک دیوے
جرط (فت) اس سے گلے میں پھنسا اٹکنا
جرع (فف) زیادہ بٹا جانا رسی لون میں سے ایک بل کا گھونٹ گھونٹ پینا۔ بالفعل میں سے
جرع (فک) رسی جسکا ایک بل زیادہ بٹا گیا ہو۔
جرع (فس) (ف س) پینا۔
جرعا (فسفسم) بمعنی جرعۃ (فسفت)
جرعب (فسف) مردے کو خوے۔
احمق سخت۔ بلا سے سخت۔
جرعلۃ (فسف) اچھی طرح سے پانی پینا
جرعیل (فسکس) گھوڑا سخت خراج
جرحۃ (فغف) ریت ہموار جسمیں روئیدگی بھی ہو اور وہاں سے گذرنا آسانی سے ہو یا سخت زمین جو ریت کے مشابہ ہو۔ یا ایک تودہ ملکا سپیر کچھ نہ اسکے سیاہ یک تودہ کا ایک طرف گھاس اور ایک طرف نہ گھاس ہو

جَحْجَوَر (س) (ن) خم کا بستہ لوہے کی مانند ہو جانا۔
جَحْرَذ (ف) جنگلی چوہا جمع جُحْذَان (ج)
جَحْرَذ (ف) چوپایہ کی ایک بیماری مانند سوجن وغیرہ کے۔
جَحْرَذانہ (س ف) ایک قسم کا خرما۔ جراذین (ف ش ک س) (ج)
جَحْرَذة (ف) زمین جس میں جنگلی چوہے بہت ہوں۔
جَحْرَفَة (س ف) معرب گردہ۔
جَحْرُوَمَة (س ف) دوڑنا سرعت اور شتابی کرنی۔
جَحْرَز (ف) معرب گرز۔
جَحْرَز (ض) زمین بے نبات کہ کچھ نہ اوگاوے اُو سر۔
جَحْرَز (ک س) زنانی پوستین۔ اجراز (ف ف) جروز (ف ف) (ج)
جَحْرَز (ف) سال قحط کا۔ بدن اندام۔ آدمی کا سینہ یا اوسکا بیچ۔ اونٹ کی پیٹھ کا گوشت۔
جَحْرَز (س) (ن) جلدی سے کھا لینا۔ مار ڈالنا۔ گمائل کرنا۔ کرو ی سے قطع کرنا۔ کاٹنا۔

جَحْرَز (ف ف) (ک) صیغہ ماضی یعنی بہت کھانے والا ہو یا جلد کھانے والا ہو۔
جَحْرَزة (ف ف) بہشت کی ایک گذشتی ایک گھاس ہوتی ہے۔
جَحْرَزة (ف) ہلاکی۔
جَحْرَزم (ف ف) روکھی سوکھی بے سالن کی۔
جَحْرَس (ف) ہر چیز کا ٹکڑا۔ نرم آواز۔
جَحْرَش (ف) (ن) زبان سے چاٹنا۔ زنبور کا گل کو کھانا۔ [illegible] کا لانا۔
جَحْرَش (ک س) ہر چیز کی جڑ۔
جَحْرَش (ف) کھنبہ۔ کٹھیال۔
جَحْرَشام (ک ف) بچّا منم کی بیماری۔
جَحْرَشمة (ف ف) گھور کر دیکھنا۔
جَحْرَش (ف) رات کا کچھ حصہ کہ اول شب سے ثلث شب تک ہے۔
جَحْرَش (ف) (ن) کھجلانا۔ لکڑی پوست دور کرنا۔ اور اوسکو لکڑی چاپ ملنا تاکہ وہ نرم اور چکدار ہو جاوے۔ اور کھلا کرنا دانوں وغیرہ کو۔ کنگھی سے سر کھجانا تاکہ اوس میں سے دفا جاتی رہے۔ آہستہ آہستہ دوڑنا۔ جَحْرَشَق الافعی۔ سانپ کی کینچلی میں سے باہر نکلنے کی آواز جبکہ وہ اپنے بعض بدن کو

زنکف) ہونٹ ناچراں (فعفعل) جمع
جَرَم (رفس) گرم کا معرب ہے ضرمین ہست
گرم - ایک قسم کی ندوی - جرُوم
(ففعُل) جمع (رکن) کاٹنا درخت سے
خرما کا گتا اور اعزاز حاصل کرنا - لینا -
جِرَم (رفس) جرام (رفعال) (فعول)
خرما توڑنا درخت پر سے - جرام (رفعال)
جرمانا - کمائی کرنی اپنے کنبہ کے
لئے - جرم لنا کبیر ہوتے ہیں یعنی اپنے
لوگوں کے واسطے کمائی کی - کسی کے
ذمہ گناہ لگانا جیسے جرم علیہ او الیہ
بکری کی پشم کو کاٹنا - جرم جرم
بولتے ہیں یعنی لیا اوس سے
جُرم (رفس) گناہ - جروم (فعول) جمع
جِرم (رفس) بدن - جروم (فعول)
جرم (رفعل) اجرام (رافعال) جمع جلد
جسم - نرخرا آواز یا آواز کی بلندی -
جُرّم (رفعل) صیغہ ماضی جو کسی
خرما کو کھالیا -
جرمُوق (رفعول) ایک جوتا کہ جس کو موزہ پر پہنتے ہیں
جرمان (رفعلان) بدن -
جرمتر (رفعلل) خرما یا انگور کے کاٹنے
والے - جرم (رفعل) جمع اونٹ کا ریوڑ

جسمیں تیس عدد ہوں - گوشتنے
والے خرما کے درخت پر
جرمتر (رفعلل) گناہ -
جرمزہ (رفعللہ) (انفعلال) اور پیچ جانا
سکڑنا سمٹنا پیچھے ہٹنا بھاگ جانا -
جرموز (رفعلول) چھوٹا سا حوض
اور جانب کا نکلا ہوا حوض - کنوان
چھوٹا سا گھر بھیڑیے کا بچہ نر -
جرامیز (رفعالیل) جمع
جرموق (رفعلول) ایک قسم کی جوتی
کہ موزہ پر پہنتے ہیں فارسی میں
اوسے خوش کہتے ہیں
جرن (رفعل) کھلیان کی جگہ خرما
کے خشک کرنے کی جگہ - ایک برتن
ہے سنگین کہ اوس سے وضو کرتے ہیں
جرن (رفعل) زمین سخت سخت -
جرنبتر (رفعنلل) بیت -
جرنبذ (رفعنلل) سخت - موٹا
جرنبذہ (رفعنللہ) وہ جسکی ماں خصم رکھے
جرنفش (رفعنلل) موٹا - قوی -
جرنفش (رفعنلل) مرد بزرگ یا
بڑے پہلو والا -
جرثوم (رفعلول) ضس (در) ندہ کا کیمہ

٩٢١

جرع (رفت) جرعان (ر) سنفس (ا) جمع
جرعة (رفسع) ایک گھونٹ کو کہتے
یا پانی لینا
جرعة (رفست) ایک گھونٹ پانی وغیرہ کا
جرعک (ن) ... ہم معنی
جرعوب ... بمعنی ...
پانی پینے والا
جریعک ... جیسے ...
جرف (رحسن) ... جیسا ...
بستی ... پانی ... ہوتا ہو
فراخ ... گھاس ... بھی ہوتی
درخت ... بہت ... قسم کا
انجیر ... ہو
افانیہ ... جو ایک گھاس ہو
جرف (س) جرفة (رفسع) ران ...
چیز لینا ... ...
کھودنی ... سے خاک زمین کھودنی
جرف (س) ... ...
پانی ... (ا) جمع
جرف ... (ن) ... ایک گوشت
وہ جگہ جہاں ...
جرفن ... جرعة ...
جرفاس ... پانی ...

جرافیس (نفسکس) جمع ... شیر درندہ
جرفة (رکسف) ... کا پہاڑ جرف دکو ...
جرفة (رفسف) ایک ... کر جو پایہ
کی ران یا بدن ... کرتے ہیں جرفت
رفس (ا) جمع ... کی کھال کھو
... کر ... دیتے ہیں تا کہ خشک
ہو جاوے ... کی ... کے مشابہ
... لگتا ہوا ... کی ران یا
بدن میں جیسے کہ ... رکھتے لگا
ہو ... دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں
... جرفة ... دین ... مختلف
جرفة (رفسف) کھال ... لگتا
کہ ... کی ران پر ... دکھے لیے
لگتا رہتا ہے
جرفة (رفسف) زمین پر ... لینا
سب ... لینا ... سے ادھکا ... نا
... سے کھانا
جرل (رفت) سنگستان جہاں درخت
بھی ہوں ... جگہہ سخت
اجرال (رفسفس) ا جمع
جرل (رفت) زمین ... سخت ... پتھر
ہو جگہہ کا
جرول (رکسا) سخت جگہہ پتھریلی جمع

وہ مونث پر آتی ہے۔ اچھی ۔ مزدور ۔ قربان

اجبار (زفتح) جمع

جبری (زفتح) جبریان (زکسف) اجیر ستہ

(زکسف) پانی وغیرہ کا بہنا۔

جبری (زفتح) جراید (زفتح) زفتح

گھوڑے کا چلنا ایک کام کو دو گھڑی میں کرنا

جریار (زکسف) روش اور عادت

خوے طبیعت۔

جریاض (زکسف) یعنی جریاض کعیر اور

غم کا مارا ہوا۔

جریال (زکسف) لال رنگ ایک

طرح کا زر یعنی سونا ۔ رنگ کہ کسم سے

نچوڑا جاوے ۔ ہر رنگ خالص شراب

شراب کا رنگ۔

جریالۃ (زکسف) شراب پیر کا رنگ

جریب (زفتح) چار قفیز کی مقدار

اور قفیز ایک وزن ہے آٹھ مکوک کا

اور ایک مکوک تین کیلجہ کا اور کیلجہ ایک

من اور سات آٹھواں حصہ من کا

زمین ایک سو چوالیس گز کی ۔ جریۃ

(زکسف) جریان (زکسف) جمع

کمیت ۔ سندی ۔ ساکمیہ ندی کا نام ہو۔

جریۃ (زکسف) پانی وغیرہ کا بہنا۔

جریرۃ (زکسف) جانور کا سنکلانہ

جرنیت (زکسر) مار یا بی

جریح (زکسر) زخمی مرد ہو یا عورت

جرحیٰ (زفتح) جمع

جرید (زفتح) تمام مرد کامل ۔ یوم تمام

کہتے ہیں ۔ تمام جریدہ بولتے ہیں ۔

جرید (زکسف) پٹھے کا پیچ

جریدان (زکسف) دوون یا دو مہینے

جریدۃ (زکسف) یعنی کھجور کی تر ہو یا

خشک ۔ جرید (زکسر) جمع ۔ سواروں کا

گروہ کہ دشمن کی لڑائی کے لیے جدا

کیا جاوے ۔ بقیہ مال ۔ نوشتہ صاف

لکھا ہوا ۔ جرائد (زفتح) جمع ۔

جریر (زکسر) مہار اور چمڑے کی رسی

اونٹ کے گلے کی یا وہ رسی جو اونٹ

کے لیے بجائے فسار یعنی چمڑے

کی ایک چیز جو گھوڑے کے سر پر باندھی

جاتی ہے ۔ اجرۃ (زکسف) جمع

جریرۃ (زکسف) گناہ ۔ جرید (زکسر)

جرائر (زفتح) جمع اور بولتے ہیں

فعلتہ من جریرتک یعنی میں نے

اسکو تیرے لیے کیا ۔

جریۃ (زکسف) بکری کہ رات کو

مادہ

ج ر ب

ج ر ب

ج ر ب

ج ر ب

ج ر ب

ج ر ب

ج ر ج

ج ر ب

ج ر ب

ج ر ب

ج ر ب

۹۲۲

ج ر د

ج ر د

ایضا

ایضا

ایضا

ج ر

ایضا

ج ر س

1

2

12

... جمع ... انچھی طرح شب کے —

جحرب (بفتحتین) ایک چھوٹا قسم کا جحر ہ

جحاف (بفتحتین) ایک قسم کا چیونٹی جمع ...

جحوف (بکسر) ایک ... سے ... شہر

جحوش (بفتحتین) ایک قسم کا ... گندم

... کا غلاف جب تک کہ

... کے سر ... کا ... لگا ہوا کہ جاتی

... ہیں ...

جحر واضح (بکسر) شخص (بمعنی) جراحی

(بفتحتین) (بمعنی) ... شیر

جحر واط (بکسر) شخص لینا —

جحر واق (بکسر) شخص (بمعنی) شراب —

جحر واں (بفتحتین) اترا ہوا بچہ —

جحر وہ (بکسر) ایک چھوٹی لومڑی لنگڑی

جحر وتہ مع ... الامر اوس وقت بولتے

ہیں کہ ایک کام پر صبر کرے —

جحر ود (بفتحتین) ایک پرانا گھسا ہوا —

جحر در (بفتحتین) کوہان بڑا گہرا عورت

... کی اپنی جگہہ سے ہل نسکے اونٹنی

کہ اوسکے ... کے دن گنتے گذر گئے ہوں

اونٹ بہت کھانے والا — سرکش

گھوڑا ہو یا اونٹ —

جحر مز (بفتحتین) بہت کھانے والا

کہ ... کے ... کھا جاوے ... پھر ... چھوٹا

جحرش ... کا ... الاقامت ہو یا مرد —

جحرول (بکسر) ... پتھر ... زمین ... سال

... کا پتھر ... زمین ... سکے ... کا سکے

یا تمام ہو — جحارل (بفتح) شکستہ جمع —

جحرول (بفتح) پتھر ... زمین

جحر علی (بفتح) ... حوکر ہونا —

ایک کام کی عادت پکڑنی — نرم اور

گھسا ہوا کپڑے کا ... پہنا —

جحر ... (بکسر) جسیم تناور —

شیر ... قوی —

جحرہام (بکسر) شیر — مرد دلیر لڑائی

وغیرہ میں کوشش کرنیوالا —

جحر ہتہ (بفتح) طرف و کنارہ —

جحر ہتہ (بفتح) خرما کے چند خوشے

ایک غلاف میں — جحرۃ (بفتح) جمع —

جحر ہد (بفتح) جلد چلنے والا خوش خرام

جحر ہدۃ (بفتح) جلد چلنا — پانی کا گھڑا

جحر نی (بکسر) ایک قسم کی مچھلی لمبی

اور چکنی کہ اوس پر چھلکا نہیں ہوتا اور

یہودی اوسکو نہیں کھاتے —

جحر نی (بکسر) ایک قسم کی مچھلی —

جحر نی (بکسر) ... واحد جمع ذکر

کترنے کاٹنے۔ گھاس کاٹنا۔ پھل
توڑنے کے وقت پر پہنچ جانا درخت کا
گیہون خرما وغیرہ کو کاٹنا۔

جزا (نف) بدلہ۔

جزا (نف) (ص) بدلہ دینا۔ کفایت
کرجانا ایک چیز کا۔ بدلہ ہونا اور کرنا

جزا (نسم) بدلہ دینا۔

جزات (فسفسم) چھری اور اسی طرح
کا دستہ۔ الجزات ... کرانگور
کی بیل کو ... زمین سے اوٹھانے

جزاجز (نفسک) ذکر وخصیہ۔

جزار (نفس) کھجور وغیرہ سے میوہ
توڑنے کا وقت۔

جزار (نفس) قصاب۔

جزارہ (نفسف) جہان اونٹ ذبح کرین

جزارہ (نفسف) اونٹ ذبح کرنے
والے کی مزدوری اور وہ ہاتھ یا پیر
سری گردن وغیرہ ہے۔

جزار (نفس) پھلون اور پشم کے
کاٹنے کا وقت۔

جزاز (نفس) (ص) گیہون خرما وغیرہ کو کاٹنا

جزاز (نفس) جو کچھ چمڑے کا غذ
وغیرہ کے کاٹنے مین گر پڑے۔

ہر چیز کٹی ہوئی۔ جزازہ (فسکسہ) جمع

جزازۃ (فسفسف) یعنی جزاز (نفس)

جزاف (نفس) مچھلی پکڑنے والا۔

جزاف (نفس) تخمین سے خریدنا۔

جزاف (نفس) بے وزن وپیمانہ
تخمین سے خرید وفروخت کرنی تخمین
کے ساتھ بے وزن اور پیمانہ کے
خرید وفروخت معرب گزاف ... سلہ ... طباس

جزافۃ (فسفسف) یعنی جزاف (نفس)

جزالۃ (فسفسف) کام کی مضبوطی پختگی

جزالۃ (فسفسف) (ک) بزرگ ہو جانا
عقل کا ہونا۔

جزائر الخالدات یہہ چھ جزیرہ ہین
بحر محیط مین غرب کی طرف ... ہین
جزائر السعادۃ بھی کہتے ہین منجمین طول
بلاد یہین سے لیتے ہین اِس مین طرح
طرح کے میوے خودرو ہوا کرتے ہین۔

جزب (کس) حصہ۔

جزب (فس) غلام۔

جزۃ (کسف) پشم کٹی ہوئی اور آپس
مین لپٹی ہوئی۔ جزات (کسفس) جزز
(کک) جمع۔ بکری کی پشم کٹی ہوئی کہ
اور پشم سے مخلوط ہوئی ہو۔ بکری کی

۹۳۵

ایضا
ایضا
جزن
ایضا
ایضا
ایضا
جزل
ایضا
جزر
جزب
ایضا

کی کوئی چیز ہے۔

[illegible] جگس [illegible] آدھا کٹا ہوا [illegible]

مروت [illegible] جوشس ہنسایا ہوا۔

مجروح [illegible] غم کا مارا ہوا مجروح

[illegible] جس سے گلا [illegible]

جارہے [illegible] سے [illegible] مال [illegible]

مجروح القلب [illegible] اور [illegible] سے [illegible]

میں [illegible] ہی [illegible] سے ایک [illegible]

[illegible] سے [illegible] اور کی

[illegible] جب [illegible] کلابی [illegible] اور [illegible]

[illegible] نے شعر کہنے سے منع کیا تو

[illegible] غم کے بیمار ہوگیا اور قریب

ہلاکت [illegible] تب [illegible] نے

مہربان ہوکر کہا کر [illegible] سو کہو

تب اوس نے یہ مثل کہی۔

مجروح [illegible] (عربی) جراحی [illegible]

مجرب [illegible] (صفت) [illegible]

مجرف (اسم) بہت سے [illegible]

خشک [illegible] ایک قسم کے انجیر [illegible] خشک

مجرم (اسم) گناہگار [illegible]

[illegible] والا [illegible] خرما یا انگور کا [illegible] خشک

خرما [illegible] کی گٹھلی [illegible]

ایک [illegible] بدن کا [illegible]

مجرد [illegible] جمع

مجرہ (صفت) [illegible]

[illegible]

مجرش (اسم) [illegible]

[illegible] کی جگہ۔

[illegible] جمع

مجرمو [illegible] کو

[illegible] جمع

مجری (اسم) [illegible] اجرا

(صفت) [illegible]

جمع [illegible]

مجزیہ (اسم) [illegible] پرند جانور

کے پیٹ کی چیز - علق -

مجزیہ (اسم) [illegible]

مجزور (اسم) پارہ پارہ کرنا حصہ

کرنا - شعر میں سے پورا ایک جز ساقط

کردینا - اکتفا کرنا - مضبوط باندھنا -

مجزی (اسم) ٹکڑا - حصہ [illegible]

مجزوع [illegible]

اکتفا کرنا اور قناعت کرنا -

مجزن [illegible] کا حصہ -

[illegible] بہت [illegible]

درخت ... نکلے ... کی ... 
جحزعۃ البیت ... گھری کا ... 
جحزف رفتن ... آسمان ... نام ...
جحزفۃ رکسف ... پانی کا ...
جحزل رفس ... لکڑی والا ...
جیزبہت ... بڑا دانا عقلمند
عقل کا ... لفظ درست ... ایک
کبوتر کی آواز
جحزل رفس ... کر دینا ...
کوہان شتر ... جو ... گر
گرا دینا اور ... کو ... کر دینا
جحزل (رفف) کوہان ... کا ... کر
پالان سے ... گیا
جحزل رفس ... ہو جانا اور
کے کندھے ... کہ ... کی ہڈی
نکل آوے ... ہو جاوے
جحزل رکس ... کا
جحزل ... جحزلۃ (نسف)
(رفس) قطع کرنا
جحزلا ... اونٹنی ... کا ...
جحزلیہ ... عورت ... سے سرین
... ڈول ... کی مشک
... سے ...

جحزالجوہ رکسف ... ٹکڑا ... کا
جحزم رفف ہو ... اپنے وقت سے
... قلم سے ... قطع دیا ہوا
محزوم ... جیزہا جیسے
... ہاتھ میں ... کا ... بچہ
کے سوا ... ہو
جحزم (رفف) رض قطع کرنا ... سا ... ست
... سکون ... کو منقطع اور یکسو
کرنا کام کو ... حرف ساکن کرنا خاموش
رہنا ... اسکا صلہ علی ... ایک کام کا ...
کرنا ... بزدلی کرنی اور عاجز ہو جانا
(رس ع ن) ہو ... مشک کو بھرنا
تھوڑا سا ... کرنا ... اسکا صلہ ب ...
پیٹ بھر کر کھانا ... تمام رات دن میں
ایکبار کھانا سیراب ہونا اور اونٹ کا ...
... حروف لکھنے ... اندازہ کرنا
پھل کا درخت پر
جحزمازج (نسف) ... درخت کا
... کا معرب
جحزم رکس حصہ
جحزمتہ (نسف) ایکبار کھانا
جحزمتہ رکسف ... ٹکڑا ... چیز کا ایک
... اونٹ کا ... گا

جِزع (رکسن) ... کاٹے ... ہیں یا ...
کاٹنے کے ... مستعمل ہوتی ہے
جَزرَة (رتف) ... زمین ... کا نام ...
ہے وہاں خروج ...
جَزجَزَة (رسکون) ... عتیقی ...
رنگین ... پشمی ... لٹکا ...
جَحَح (رفت) لڑکا جو کسی چیز ...
کرے ... ظاہر کرے۔
جَزَع (رفس) سخاوت ...
جَزع (رفس) ... اپنے کام ...
سخاوت ... بے شادرت ...
۹۳۴ اپنے رہنے کی جگہہ میں آجانا ... کا۔
درخت کو ... کرکے ...
جَزر (رفس) ... شہد توڑنا۔
جَزَر (رفت) گاجر کا ... 
بکری ... جزرہ (رفت) ایک ...
جَزر اسباع گوشت ...
جَزر (رفس) جزر اور نفس ...
درخت پر سے میوہ اتارنا ...
کرنا اونٹ کی کھال ... سے اتارنی
دریا کا پانی اتر جانا خلاف مد ... میں
میں پانی نیچے چلا جانا۔ قطع کرنا۔
جَزر (رفت) اشیم اور گھاس وغیرہ کی ...

جَزع (رفس) ... پوٹھوہن کی سی گھونگی
... سیاہی اور سپیدی کے ساتھ تشبیہ دانتوں
جَزع (رفس) ... میں قطع
کرنا وادی کو۔
جَزع (رفس) جَزوع (رفس) جُزاع
(رفس) بے صبری اور بیزاری کرنیوالا۔
جَزع (رفس) جزوع (رفس) ...
بے صبری کرنی۔
جَزع (رفت) بے صبری۔
جِزع (رکسن) وادی کا موڑ ...
موڑ ۔ وادی جہاں منقطع ہوتا ہے یا وادی
کا فراخ جو درخت اوگا دے ۔ یا وادی
میں وہ جگہہ جو درخت نہ اوگا دے اور
وہاں ریت نہو وے قوم کا محلہ انکی
زمین ... زمین ...
... جیسیں شہد جمع کرتی
ہیں ...
جُزع (رفس) ...
... ہی۔
جزعة (رکسر) ... تھوڑا سا مال
... تھوڑا سا پانی اور دودھ یا ہر چیز کی
باقی ... تھوڑی سی رات آدمی سے کم
اول سے یا آخر سے ۔ ...

اور تحسین کرتے وقت ان کلمے کا استعمال
بہت کیا کرتا ہے
جُسّام (ضمعن) ہر جسم دار بچھونا ... والا
جسامت (فسعف) موٹاپن
جَسامت (فسعف) بھاری اور بڑا
جسان (منقص) دف بجانے والے
جسد (فک) خون خشک گلی چپکا ہوا
جسد (فتعا) بدن آدمی ... خون
خون خشک۔ خون ... زعفران ... وغیرہ۔ اجساد (منقص) جسود (منقص) جمع
جسد (فتعا) ... خون چپک جانا۔
جسر (ضس) پل جسور (منقص) اجسر
(فسعص) جمع۔ بڑی دلیل کا اونٹ
وغیرہ۔ جسرۃ (فسعف) اونٹنی۔ دلیر
اونچے قد کا آگے بڑھ جانے والا
اونٹ یا لمبا اونٹ سیر میں قوی
ہر چیز دلدار بڑا بعض ...
جسرب (فسعف) ... لمبا ...
جسرۃ (فسعف) اونٹنی دلاور چالاک
آگے نکل جانے والی۔
جشم (فکس) بدن اور اعضا آدمی
اور مخلوقات ... کے اجسام (فسعص) جسوم (منقص)

جسمانی ... اصطلاح میں وہ جو
مرکب ہو طول عرض عمق سے اور وہ
بعض کے نزدیک وہ چیز ... جو
دو یا زیادہ سے مرکب ہو۔
جُسمانی (فسعس) یعنی جسم کے
جسمور (فسعمس) آدمی جسکے
سے کھڑا ہو جیسے پیٹھ اور ...
جسمتر (فسعف) ایک مچھلی ... کی
بچھو کی طرح دو سینگ ... ہوتی
جسو (فکس) ... خشونت ...
جسور (فسعس) دلیر ... ہونکا۔
جسیر (ضس) جمع ...
جشو (فسعس) اجساد ... (فسعس)
اس ... کرنا ... وغیرہ۔
دلیری کرنی عبور کر جانا ...
جشوع (فسعس) ... کرنی
جو کالی پیٹ میں سے منہ میں ...
اتھار تک ... کر جانا۔
جشیت (فکس) خون خشک۔
جسیس (فکس) ... اور فساد کے
لیے خبر پوچھنے والا۔
جشیم (فکس) یعنی جسام (ضمعس)
جسمۃ (فسعف) ... اونچی زمین

جرّار (ف) بیل یا اونٹ جو کھیتی [illegible]
[illegible]
جرّاحی (ف) [illegible] کرنا
جمع [illegible] جس [illegible] بچے [illegible] کرن
[illegible] جس کو سینے [illegible] کرین
جشن جشنی (ف) خوشی کی [illegible] کری
جس کی [illegible] جیسے [illegible]
[illegible]
جُز [illegible] (ف) [illegible]
جانا [illegible]
جُزو (ف) [illegible] جُزدان (ف)
جرع (ف) [illegible] کی [illegible]
جزو (ف) [illegible] وہ کتاب کا حصہ
[illegible] سے [illegible]
جُرم [illegible] نکلنا [illegible]
جُزیہ (ف) زمین کا محصول جو کہ
زمین سے لیوین [illegible]
جزیرہ (ف) وہ شخص کہ [illegible]
[illegible] سے اوس شخص کی
مہمانی کے لیے مقرر کرین کہ [illegible]
کی طرف سے آیا ہو
جُزّ [illegible] (ف) [illegible] ہو
جُز [illegible] جسکا ہو [illegible]
جز [illegible] (ف) [illegible]

جز [illegible] (ف) [illegible] کے [illegible]
جز [illegible] (ف) [illegible] ہونا
جز [illegible] (ف) [illegible] اور بڑا
جسم [illegible] (ف) [illegible] پست یا نیچا
[illegible]
جسیم [illegible] جیسے [illegible] جسامت
(ف) [illegible] کرنے [illegible]
سخت ہو جانا سخت اور گڑھ دیر ا ہو جانا
جلس (ف) [illegible] جسن
[illegible]
جسن (ف) [illegible] کو
دیکھنا [illegible]
[illegible] کام کرنے
کرنے [illegible] ہو گیا ہو
جسامت (ف) [illegible] کام کے ہاتھ
کی [illegible] سختی کہ پہلو میں کھال
کے پاس ہو جاتی ہے
جسا د (ف) زعفران
جسیا د (ف) پیٹ کی [illegible]
جسا من (ف) بہت [illegible]
[illegible] والا
جسا [illegible] جانور ہے
جز [illegible] کو [illegible]

جشرہ (فسف) سینہ کی گھر دہراہٹ
خشک کھانسی آواز میں سختی۔ کھانسنا
جشع (فف) حرص غالب۔
جشع (فف) (س) دوست کی جدائی
سے ڈرنا۔ بڑا لالچی ہونا۔ اپنا حصہ
لیکر دوسرے کے حصہ میں لالچ کرنا۔ تجشع
(رفس) اسی معنی میں۔ جشعون (فسق) جمع
جشم (فف) بھاری ہونا۔ پایا
جشم (فف) سینہ یا پہلو کی
ہڈیاں کہ سینے کے تمام ان میں بند
بھاری پن۔ جسم
جشم (فض) موٹے
جشم (فس) جشامۃ (فض) (س)
ایک کام کو تکلیف سے کرنا اور اس کی
مشقت کھینچنی۔
جشمش (کسف) خشمش کا معرب
اور یہ ایک دانہ ہے برابر کے
اور کالا رنگ کا آنکھ کی دوا میں مستعمل ہے۔
جشنۃ (فسف) ایک جانور ہے
جشو (فس) ہلکی کمان۔ جشوت (فض) جمع
جشوب (فض) جیسے کہ تھکی
عورت بیل کی سخت
جشوش (فض) [illegible]

اور گھبراہٹ جوش میں ہونا۔
جشوء (فض) (ف) غم سے یا ڈر
سے جان نکل جانی۔ دل گھبرانا اور قے
آنے کو جی ہونا۔ کسی چیز کی کراہت
یا بدبو کا لینے حلق سے آواز نکالنا۔
ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانا۔
صبح کا ہونا۔ تمام ہونا۔ [illegible]
چوپائے کو چراگاہ میں چھوڑ کے رکھنا
رات دن۔ جانور کو چراگاہ میں رہنا
ایک قوم کا چراگاہ میں رہنا اور
گھر سے نکلنا اور چھلنا اور گھوڑے کو
گھر کے آگے چھوڑنا اور چھوڑنا۔
جشیب (فکس) ہر ایک کھردری چیز
ہر چیز کھردری
جشیب (فکس) کل بڑا اور سخت
غذا کھانے والا۔
جشیر (فکس) چمڑے کا تیروں کا
موٹی گون جس میں چوپائے۔
جشیش (فکس) گیہوں وغیرہ کے
ستو۔ ایک قسم کا کھانا کہ گیہوں کے ستو
گوشت اور خرما سے بناتے ہیں۔
جشیم (فکس) [illegible]
جص (فس) گچ کا ہے جو ہر [illegible]

[illegible]

جشن [illegible] جس [illegible]

جشن [illegible] خوشی [illegible]

جشن [illegible] دن [illegible]

[illegible] جہاں [illegible]

[illegible]

[illegible]

جشن [illegible]

[illegible]

[illegible]

جشن [illegible]

جشن [illegible]

[illegible]

جشن [illegible]

جشن [illegible]

[illegible]

[illegible]

جشن [illegible]

[illegible]

جشن [illegible]

جشن [illegible]

[illegible]

جشن [illegible]

جشن [illegible]

[illegible]

جشن [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

جشن [illegible]

[illegible]

جُحَاف (فتحہ) اغنی جاعف (فسک)
جِعَال (کفس) مزدوری ۔ ہنڈیا کا رومال ۔ بہت جُعَل (ضمہ) وجع مگر نسل جسمیں جانور اپنے انڈے رکھے
جِعَالَۃ (کفسف) رومال جس سے ہنڈیا کو اوتارین ۔
جُعَالَۃ (ضفسف) مزدوری جعالہ (فسک) جعالات (فسک) جمع
جُعَالَۃ (ضفسف) جھگڑا ۔ جھگڑنا کہ جب کہ وہ کسی کہ طرف سے لڑے مزدوری ہے
جُعَام (ضفس) ایک مرض ہے کہ اونٹ کو ہوتا ہے جسکے سبب سے اوس سے کھانس کر دوبارہ سبزی ہوتی ہے اونٹ کو ہوتا ہے
جَعَامِش (فسک) لمبا یا خاص ۔ جعموش ...
جَعَامِیش (فسک) بھوک سے ...
جَعَانِس (فسک) گوہ کہ گردوں ... گوبریلا بہت سے ۔
جَعْبٌ (فس) الٹ پھیر دینا ۔ اولٹ دینا یعنی اکٹھا کرکے پچھاڑ دینا اونٹ بکری کی مینگنی کا ڈھیر
جَعْبٌ (فس) اچھا کہ زیر ناف سے ... کی مینگنی ہوئی ہو ۔

جَعْبَاء (کسفس) پچھاڑ دینا ۔
جِعْبَاء (فسفسم) دُبر ۔ موٹی دلدار بری عمر کی عورت ۔
جَعْبَاء (کسف) حلقہ دُبر ۔
جَعْبَۃ (فسف) تیر دان ۔ جعاب (کفس) جمع
جُعْبُرَۃ (فسف) ٹھگنا دلدار ۔ جعبرۃ (فسف) اسکی مونث ۔ جعابر (فسک) جمع ۔ دلدار پیالہ کہ گہرا اچھا ۔ نہ تو شاید ...
جُعْبُرَۃ (فسفسف) پچھاڑنا ۔ ٹھگنی جھوٹی جعبرہ مونث
جَعْبَرِیَّۃ (فسکسف) ٹھگنی عورت یا مونث
جَعْبَس (فسفس) احمق ۔
جُعْبُلَۃ (فسفسف) سرعت کرنی ۔
جَعْبُوب (فسفس) ... حقیر بے خبر
جُعْبُوبَۃ جعابیۃ (فسکف) جمع
جُعْبُوس (فسفس) احمق
جَعْبِیّ (فسک) لال چیونٹی جعبیات (فسفس) جمع
جَعْبِیّ (کسف) حلقہ دُبر
جَعْتَر (کف) جو کا نبیذ ۔
جَعْثِیَۃ (فسفف) لالچی ۔ لالچی ہونا
جَعْثَرَۃ (فسف) اکٹھا کرنا ۔
جُعْثُل (فسف) ... دلدار بد خو
جُعْثُم (کسک) ...

بڑی ہڈی ہوا [illegible]

[illegible] ہوتے ہیں

جغش [illegible] آہو و شیر [illegible]

جغا [illegible]

جغار [illegible] بچہ گرانے والا

[illegible] و سے گا

[illegible] بچہ گرین

جفا [illegible] ضعیف ہو کر گرتا ہے

[illegible]

[illegible]

جفش [illegible]

حملہ کرنا کسی پر تلوار سے

جفندر [illegible] مرد بالاکلب

جفنم [illegible] بہت کھانے والا

جفنگ [illegible]

جفلح [illegible] ایک کلمہ ہے جس سے [illegible]

[illegible] تاکہ دو [illegible]

[illegible] یا جھڑ کے بچہ کو

[illegible] یا جھڑ کو

جفلوا [illegible]

[illegible] کرنا [illegible]

پچھاڑ دینا [illegible]

[illegible] کرنا

جفالا [illegible] جوتی بڑی عمر کی نرم

[illegible] کی ایک طرح پر بچھا دے

[illegible] گمانی [illegible]

[illegible] کسی کا

جعاب [illegible] تیر ڈالنے والا تیر

[illegible] جعابیات [illegible] جمع

جعابہ [illegible] بنانا

جعاجبہ [illegible] ایک قسم کا کھانا ہے اور

[illegible] کی تھیلیاں

[illegible] کے شہر میں

[illegible] حجرۃ [illegible] ایک

جعادید [illegible] ایک چیز ہوتی

[illegible] کچھ نرمی

[illegible] کے نکلنے [illegible]

میں سے نکلتی ہے

جعار [illegible] چوپایے کی دوران کا

داغ - رسی کہ [illegible] ایک سرا تو اس کا

میخ میں [illegible] اپنی کمر میں

کنوئیں میں اترنے کے وقت

جعار [illegible] جانور کا نام

[illegible] جعار [illegible]

چیز کی [illegible] وقت

[illegible]

جھنڈ (بفتح) بہت گھاس ...

جھنڈ (بالضم) جڑ ...

جھگڑو ... جھگڑا کرنے والا

جھڑ ... الف ...

جھڑ ... لوگوں کا گروہ

جھڑ ... کا انتقال

گر پڑنا ...

جو سپید ... دانہ کا

جھک ...

جھوٹا سا ...

جھڑی ... کلمہ ...

کیونکہ ...

... اس طرح کہ ایک ...

اپنے ہاتھوں ...

جھڑ ... پانی ...

جھٹ ... پانی ...

جھٹ ... کی ...

جھنگ ... مرد ...

جنا سبیس ...

جھنکار ... آواز

جھنجھنا ... آواز ...

سکتا ہو ... آسے ہو

جھنجھلا (بفتح) ... میانہ

جھنجھوڑنا ...

جھنجھلانا ...

اضطراب ...

جھڑ ... کرنا ...

بد خو کہنا ... غصہ کرنے

جھڑک ... ڈانٹ ...

کر ... دینا

جھٹکا ...

جھٹکا ...

جھٹکارا ...

جھٹکنا (بفتح) ...

میں ...

جھٹکنا (بفتح) ...

بد خو ہونا ...

جھٹپٹ ...

جھٹکا ... ساتھ ...

جھجک ...

بانکا ... پچھاڑ ...

مکالمہ ...

جھجھکنا ...

[illegible]

تجلیات ج تجلی صفت کما تیں
تجسیم ع مصدر بمعنی جسم دار کرنا
تجشم ع ... مص بمعنی رنج اٹھانا
تجمع ع مص ... ... ... رونا دو گنا
تجمل ع بمعنی زینت
تجمیع ع مص زمین جگہ ... ...
... بمعنی ... جگہ دیتوں ...
... کی کہ وہاں لوگ ... ...
... بمعنی آواز کا
تجنب ع مص ... ... بچنا ... جگہ ...
تجنیس ع مص ... ... ... ...
... ... شش ... ... ...
... ... آواز ... ... ...
... ... دیکھتا ہے ... ... ...
... ... ہیں ... ... ... ...
... ... پر ... ... ... ...
... ... ہیں بھی کہتے ہیں کہ ... ...
... ... کو ... ... ... ...
کی آواز ... تو ... کی آواز جیسا ...
ہوں ... ... ... کہ ... ...
یا ... ... ہوں ... آرام ...
... ... کا سر ... اندر ...
... ... کو ایک جگہ ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...

تجعد روش ... کے بال پیچ ...
بال ... بال ... ... گون
... تجعد ع ... ... کا مونث
تجاد ... ... مرد ... مرد بخیل
... ... ... سو
تجعد الیدین مرد بخیل
... ... ... ... ... ... بخیلی
... ... ... ... ...
تجعد الاقفا ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
تجعد ... ... ... ... ... کی
... ... ... ... ... والا
تجعد ... ... ... ... جسکے ...
... ... تو ... ہوں
... ... ... ... کا
تجعد ... ... ... پانی کا ... ... کا
... ... ... کہ ... ... ... پر ...
ولادت کے ... ...
تجعد ... ... ... ... ... توری
... ... ... ... ... ... خوشبو دار
... ... ... ... ... ...
تجعد ... ... ... ... کا

جھانا (فتح) [illegible] انگوروں کا گچھا
جھموس (ضم س) [illegible] بالی وغیرہ کی [illegible]
جالیس [illegible]
جھمکی [illegible] اور جسم کا [illegible]
[illegible] چھوڑ
جھنجھل (فتح) چھوٹا
جھنکار [illegible] الایچی بہت [illegible]
[illegible] مرنا
جھنجھر (فتح) بہت [illegible] ہونا
جھوٹ [illegible] گبری وغیرہ کی
جنگلی کا ڈھیر
جھونو (فتح) جادہ [illegible]
پشوان ہونا بال کا
جھول (فتح) شتر مرغ کا بچہ
جھونسر (فتح) مرد چھوٹا ہونا
جھیلہ [illegible] دوسری [illegible]
جھٹکا [illegible] شعب [illegible]
ساتھ [illegible] جائیں
جھک [illegible]
جھک [illegible] اکٹھا کرکے لیجانا
جھنک [illegible] زمین پر گرا دینا
ہاتھی کو جھکانا تاکہ اس کی پیٹھ پر [illegible]
میں آرام سے [illegible]

جھانسہ [illegible] کرنا
[illegible]
[illegible]
جھف (فتح) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
مانند [illegible]
[illegible]
عمر کا [illegible]
جونکی مانند [illegible]
[illegible] قبیلہ کے درمیان [illegible]
جھف [illegible] مال [illegible] رکھنے والا
اور اس کی درستی کرنے والا
جفا [illegible] پانی [illegible]
پانی وغیرہ کا [illegible]
جفا [illegible] بدی [illegible]
جفا (فتح) [illegible] اپنی جگہ [illegible]
نہ پھرنا [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ہونا - اچھے [illegible]
[illegible]

[illegible]

ثابت [illegible]

[illegible] نفس [illegible]

[illegible] خلق سے [illegible]

[illegible] کے سبب [illegible]

[illegible]

[illegible] دنیا [illegible]

[illegible]

[illegible] عشق [illegible]

[illegible]

جفرنی (ضتف) انگور کے [illegible]
جفر (رض) [illegible] سدی
جفس (رکس) سست تھلا کمینہ احمق
جفس (رف رس) بدہضم ہونا۔
جفش (رض ادمن) آہستہ سے کھینچنا بالو لکیونکے سرے سے دوہنا۔
جفط (رض) موٹا رسا کشتی کا۔
جفط (رض ادن) پیٹ پھولنا۔
جفع (رفس رت) زمین پر پچھاڑ دینا
جفل (رض) تمر بری کہ ہر چیز سے رم کرے۔ بادل جو برس چکا ہو۔ کالی چیونٹیاں کشتی جفول (رفس ج)
جفل (رفس ادن) پوست اوتارنا بیلچہ سے مٹی کھودنی۔ ہاتھی کا گوبر کرنا گوشت کو ہڈی سے جدا کرنا۔ دریا کا مچھلی کو کنارہ پر پھینک دینا۔ ہوا کا بادل کو لوٹا لیجانا حرکت دینی اور ہانکنا زمین پر پچھاڑ دینا۔ دوڑانا سرعت کرانی۔
جفل (رکس) ہاتھی کا گوبر جفال (ر ج)
جفلہ (رسنف) بہت بیوقوف ادلاد رخت
جفلہ (رسنف) صوف [illegible]
جفلق (رسنف) بڑا جسکے بدن

من گوشت بہت ہو۔
جفالقہ (رسنف) گلانے کے لیے بات کہنی پھیلانا۔
جفلی (رفف) مہمانی عام
جفن (رض) آنکھ کی پلک۔ تلوار کا میان۔ انگور کی جڑ یا اوسکی شاخیں ج
جفن (رض ادن) اونٹنی کو ذبح کرنا اور اوسکا گوشت پیالہ میں ہلانا۔ اپنے تیئں بائیوں سے روکنا۔
جفنۃ (رسنف) مرد سخی چھوٹا سا کنواں۔ بڑا پیالہ جفان (رکس) جفنات (رنف ج)
جفوۃ (رسنف) ہی ظلم۔
جفور (رنفس) (ادن) بہت جفتی کرنے کے سبب تھک جانا سانڈ کا۔ چار مہینے کا ہونا بزغالہ کا اور دودھ سے رک رہنا اور اوسکی کوکھ کا فراخ ہونا بھیڑ بچہ کا اچھا۔
جفوف (رنفس) جفاف (رض) رمن وس خشک ہو جانا۔
جفول (رنفس) پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہونا بالونکا۔ ہوا کا تیز چلنا دوڑنا اور چلا جانا۔
جفول (رنفس) بڑی عمر کی عورت ہو نیز بادل کو لوٹا لیجاوے۔ جفل (رض ج)

[illegible]

اور گول ہو ... [illegible] ... تھا

سبب خوف ... [illegible]

[illegible]

دو جگہ ایسی کہ ... [illegible] ... کرے

جفار (کفس) جفرۃ (ضعف) احفاد

جفال (فتحتین) دودھ کا جھاگ ... [illegible]

... [illegible] ... اور کھڑا ہوا ہو

وسعت کردن ... [illegible] ... فراخ ہو ... تھوڑا سا نکلا ہوا ہو

جفرہ ... [illegible] ... پانی ... [illegible]

[illegible]

جفرتک (اا) وشنفس ... تیرے واسطے

تو تیرا - زمین چار کر کشادہ ہو ... جفرک (اا) وشنفس ... تیرے واسطے

۱۰۱

جلامات لغوات ... مفتاح ... [illegible]

لوگوں کا لقب کہ ہر وقت تعظیم اس کی [illegible]

سے جلا پیکر کرنے ... ان کے

جلاب (بضم) ... سے ... کا

[illegible] ... والا ... [illegible]

جلاب (فتحتین) معروف گلاب

جلاجل (فتحتین) عورت بہت ... والی بہت ... [illegible]

جلاجب (فتح) ... البتا ... یعنی

جلباب (بکسر) ...

جلاجل (بفتح) گھنگرو ... آواز

جلاجل (بضم) ... دل کے خطرات

جلاح (بفتح) سیل کہ سب چیز بہالیجاوے

جلاخ (بفتح) سیل کہ نالہ کو بھر دے اور سب چیز بہالیجاوے

جلاد (بفتح) ... مارنے والا

جلاد (بکسر) تلوار سے ایک ... سر کہ ... تا

جلادة (بفتح) جلودة (بضم) ...

جلد (فتح) جلدة (بضم) ...

چست و چالاک ہونا

جلاوح (بفتح) ... جلا ... [illegible]

جلاوزی (بفتح) یعنی جلاوزی

... جلاوزی (بفتح) ...

جلاز (بکسر) ... جو ... کے ... [illegible]

... سر ... [illegible]

جلانز (بفتح) ... [illegible]

جلالة (بضم) یعنی جلاز (بکسر) ...

جلا عد (بفتح) ... مضبوط

جلاعد (بفتح) ...

جلاف (بضم) ...

جلاق (بفتح) ... ول

جلالقة (بفتح) ... [illegible]

جلاقیة ... سبز ... گوشت ... [illegible]

زمین یعنی ...

جلال (بفتح) ... حقیر ہونا

... سے ...

جلال (بضم) جلالة (بفتح) ...

بڑی عمر کا ہونا ... بزرگ ہونا

جلال (بفتح) ہر چیز کا ... [illegible]

... [illegible]

جلال (بفتح) ... بزرگ ... مرتبہ

جلالة (بفتح) ...

جلال (بفتح) ... ایک ... [illegible]

... [illegible]

جلالة (بفتح) ... سے ... [illegible]

[illegible]

جھنجھر (رقص) یعنی جھونہ (بضم) [illegible]

جھنجھر (بکس) بڑے کا تیر دان جس پر

لکڑی ہو سو تیر دن لگا کا تیر جیسے

جھنجکن (بکس) کمینہ

جھنجھوڑ (بکس) جس کا منہ گیا ہو

جھنجھ (بکس) خراب چارہ

جھنجل (بکس) بہت سوف ہر چیز کا

جیسا بہت کمینہ یعنی کہیں

[illegible] بہت کمینہ جس سے جو کچھ

کہا اسے وہی [illegible]

جھنجھ (فسف) بولتے ہیں العام جھنجھ

ابنا یعنی جب کے برس ہمارے اوپر

سے لگ کر چہرہ یا۔

جھوق (رفت) بیٹ کرنا جانور کا۔

جھقعہ (کعف) بڑی عمر کی اونٹنی۔

جلجلہ (فسف) لو سب سے پہلے

کے گرنے کی آواز۔

جلحز (بکس) جا جمع ہونا۔

جلح (فسف) حاجت۔

جل (رفت) کشتی کا بادبان جل

(بکس) بڑی ہر گہر [illegible]

[illegible]

ہاتھ میں التمی کی لمبی لکڑی کرنا جس کا

پیچ لینا یا جس میں بوجو

جلح (کف) بہت خشبوی

بیاد سے کھیت کل جانے بیج کی گیہوں

وغیرہ کی بیجھاسے کی چیزیں جبل غیرہ

جزیر گیہوں بزرگ مرتبہ

جل (فسف) پیر پاہوں کی چیل جلاد

(بضم) جلال (بکس) جامعہ وسعت

جمع بیاجمعیں کا پھول جبیبہ چھول

جمع چھول جیسے بلبلہ فسف ایک

ایک پھول ہو واقعہ کے پاس سب

جل الشی چیز جہاں سے وہ بڑی

معلوم ہوتی ہے

جل البیت خیمہ گاہ سجا بنا سے خانہ

جلا (فف) سرمہ کہ آنکھ کو صاف کرے

جلا (فف) اس سر کے آگے کے بال

جلنے رہتے

جلاء (فسم) اصلی اور کھلا ہونا بات

دن کی سپیدی

جلاد (فسم) جلادت (فسف)

صورت ہیں بچھایا دینا سپیر [illegible]

جلا (کف) سر بھیلا ایک قسم کا [illegible]

ایک چیز چھوٹی کی مانند چمڑے کی - غلاف کہ تلوار کو میان میں کر کر اوس میں رکھتے ہیں - نخود کا دانہ اور وہ ایک قسم کا اناج ہے مسور کے مشابہ ہوتا ہے -

جلبتہ (فسفف) چادر اوڑھانی -

جلبۃ (فسفف) زخم کی کھال کہ خشک ہو گئی ہو - ایک ٹکڑا - اوپر کے چمڑے ہوئے گرد وبال سے چوپایہ جل کے - ایک ٹکڑا ابر - گھاس کا سخت سال - ہرے درخت خاردار - زمانہ کی سختی - بھوک - کچا چمڑا کہ زین اور پالان پر کھینچیں - ایک لوہا جو پالان میں - لوہا جس سے ٹوٹے پیالہ کو جوڑیں - تعویذ چمڑے میں سیا ہوا - چھری کہ جسکا دستہ اوسکے لوہے میں جڑا ہو - شیر - باقی سخت سال -

جلبتہ (فسفف) مارنا -

جلبح (کسسک) باوجود صورت ہو سیاہ -

جلبدہ (تخییل) گھوڑوں کی آواز -

جلبز (فسکک) خوب سخت -

جلبصۃ (فسفف) بھاگ جانا -

جلبقۃ (فسفف) شور وغوغا -

جلت (فش) مارنا

جلۃ (کسف) بڑی عمر کا آدمی جو یا اوس - مذکر و مونث واحد و جمع اسمیں یکساں ہے - اونٹنی چھ برس کی کہ ابھی نویں برس میں لگی ہو - یا اونٹ نچھیں کا -

جلۃ (فسفف) مینگنی - ایک مینگنی یا نہ ٹوٹی ہوئی مینگنی - ایک قسم کا برتن کھجور کے رکھنے کا - ایک برتن چمڑے کا بنا ہوا - جلال (کسس) جلیل فخنا جمع

جلباب (فسسفن) جلباب (کسسفف) پیر مرد گنجا - جو سکے سر کے آگے کے بال گر گئے ہوں -

جلبب (فسفف) بمعنی جلباب بکسر -

جلجب (کسفت) مرد دراز طویل

جلجلۃ (فسفف) سر - سر کی کھوپڑی - پانی کا بلبلا - جلج (فسف) جلاجل (فسس) جمع

جلجل (فسفف) گھنٹہ - جلاجل (فسسس) جمع - بے تکلف سازوں کے در میان کام میں خوش خرم آ دل

جلجلان (فسفف) تل کے دانے

جلجلۃ (فسفف) ہلا دینا - گھوڑے کی آواز روشن ہونی - جلجلہ گو سخت گھنٹا گھنٹہ کی آواز - گرج کی آواز و غیرہ - آواز کی سختی کسی چیز کو کسی

[illegible]

[illegible]

جلاب مستہ و شمس ... کی [illegible]

... کر باغ ... میں ... کے

جلاب ... سے ... [illegible]

جلاب ... [illegible] ... جلوہ ... [illegible]

جلاب ... [illegible] ... شست

جلاب حق و شمسکا [illegible]

جلاب ... ایک شہر سے

... سے شہر کو ... کے ... [illegible]

... و غیرہ کے ... شہر ... [illegible]

... سے ... کو ... یہ کو ایک شہر سے ...

... کھینچ کر لیجا دیں ... کے لیے

جلاب ... اکٹھا ہوتا ... [illegible]

... کے ... ایک جگہ ... [illegible]

... حکم ... [illegible]

... کے ... سے ... [illegible]

... سے ... کا ... [illegible]

... سے ... چلا جاتا ... [illegible]

... کے ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... تا ... [illegible] ... کرکے ... لاتا ۔

... سے ... کے ... [illegible]

... آئے گے ... [illegible]

جلاب ... بنا ... [illegible]

جلاب ... ارنی ... گا ۔

جلاب ... پالان ... [illegible]

... کی ... پالان کی لکڑی

... تنگ ۔

جلاب ... رات کی ... [illegible]

... پانی ... [illegible]

جلاب ... عورتون

کی ... [illegible] ... اپنے ... [illegible]

... سے ... ہوا ... تھی میں

... ایک ... کا ... [illegible]

جلاب ... تلوار میان کی

... تلوار کی ... [illegible] ۔

جلاب ... [illegible] ... کر

... سے ... [illegible]

جلاب ... [illegible] ... کی گھاس

سخت اور سین پھیرا ہوتا ہوں ۔ کبھی جیسا
بکھر جاتے وقت مر جاوے ۔ برچھے پر کے
اونٹ نشانیاں جیسے جلد سے کے [illegible]
۔ جلد ۃ رضف اکیلا [illegible]
جلد رفت زمین ہلکی [illegible] ہوتی کا
جلد [illegible] بہت [illegible]
جلد [illegible] زمین جیسے ہموار [illegible]
[illegible] جیسے وقت مر جاوے آدمی
وغیرہ کی جلد [illegible] تیری ۔
جلد ۃ رضعف [illegible] درخت سخت [illegible]
بڑا کہ بے پانی [illegible] اونٹنی بہت [illegible]
[illegible] بہت [illegible]
اونٹنی بہت [illegible] شیر جلد [illegible]
جلد ۃ رکسف پوست
جلد [illegible] چھچھوندر رات کو نکلتی ہے
[illegible] اونٹنی [illegible] غیر [illegible] سے
جلد [illegible] زمین سخت
جلد [illegible] ایک [illegible]
[illegible]
جلد [illegible] اونٹ سخت مضبوط
[illegible] تیز رفتار [illegible]
صاحب [illegible]
جلد [illegible] مضبوط سخت

جلد [illegible] رضس کو گوشت کے [illegible]
بچے ایسی ہوئی ۔ گھوڑے کا پیچ گول
حلقہ نیزہ کے لوہے کے اصل میں
کو لوہے کا دستہ
جلد [illegible] رضس تہ کرنا [illegible] کھینچنا
۔ اکھاڑنا ۔ چھری وغیرہ کے دستہ [illegible]
جلد [illegible] جلنز رکس رضس [illegible]
جلس [illegible] رکس [illegible] تو [illegible]
جلس [illegible] رضس زمین سخت [illegible]
[illegible] مضبوط موٹا [illegible]
[illegible] بہت [illegible]
[illegible]
[illegible] سخت عورت [illegible]
مجلس کے لوگ [illegible]
[illegible] شراب [illegible]
جلس [illegible] زمین [illegible]
جلسام [illegible]
جلستان [illegible]
جلستہ رضعف بہت [illegible]
جلستہ رکسف ایک [illegible] نشست
جلستہ رکسف [illegible]
جلسی [illegible]
کا [illegible] اگر وہ ۔

[illegible] دیکھنا [illegible] ہونا [illegible]

[illegible] چوپایہ کا [illegible]

[illegible] ستارا [illegible]

[illegible] کی [illegible]

[illegible] سر کے آگے کے

[illegible]

[illegible] تعبیر [illegible]

[illegible] سرین [illegible]

[illegible] مال [illegible]

[illegible] بال [illegible] کے

[illegible]

[illegible] جس

[illegible] تعبیر زمین جس [illegible]

[illegible] آدمی جس کے

[illegible]

[illegible] تعبیر [illegible]

[illegible]

[illegible] رسی [illegible]

[illegible] ہرا

[illegible] میں [illegible]

[illegible] سیل کا [illegible]

زمین [illegible] مارنا پھیلانا

جماع کرنا [illegible] اگر [illegible]

[illegible] گزشتہ

کا [illegible]

جلد [illegible] زمین [illegible]

جلد [illegible] تعبیر [illegible] فائدہ

جلد [illegible] زمین جس زمین

[illegible] زمین [illegible]

جلد [illegible] زمین [illegible]

جلد [illegible] حیوان کا نا جلا

[illegible] ذکر

جلد [illegible] پانا

[illegible] ایک کام زبردستی

سے [illegible] جماع کرنا

[illegible] مستعمل ہو

[illegible] جلد

[illegible] اسلام میں سے ہی

جلد [illegible] فرزند ہونے [illegible]

سے [illegible] لی

جلد [illegible] کے [illegible]

اور [illegible]

[illegible] کے سامنے [illegible]

ہو [illegible] اپنے [illegible] ہے

مہربان ہو کر [illegible] زمین [illegible]

ہے اُئے خم کے نیچے کا نصف - مانند ہی
ہاسن - ہر چیز کہ اوسکا بیچ خالی ہو - جلوف
(منفس) جمع - کہجور کے درخت - نر سوکہی
ہوئی ملدار - روٹی بے سالن - روٹی کا
کنارہ - سکڑی جسکی کہال اوتاری ہو - نر
اور پانو کٹے ہوئے ہون پیٹ چیر کر
خالی کی ہوئی - ایک پرندہ جانور ہی - سر
پانو کٹی ہوئی پوست اوتری ہوئی مشک
جلف (فس) (ن) کہال اوتارنی -
تلوار سے مارنا - مٹی صاف کرنی - کہجور کی [illegible]
کاٹنا - اوچک لیجانا - اوکھاڑنا - جڑ
سے نکال لینا -
جلف (فس) جلافۃ (فنسف) (س)
اکل کہرا روکہا اور احمق ہو جانا -
جلفاط (کسفس) جو کہ نئی کشتی کے
درزون کو دہاگا اور رال ہرے چیترون
سے بند کرے -
جلفاظ (کسفس) بمعنی جلفاط (کسفس)
جلفۃ (کسف) روٹی کا ٹکڑا روکہا بے
سالن کے - ہر چیز کا ٹکڑا - قلم کا میدان
یعنی جہان سے تراشتے ہین یا سے لوانک [illegible]
جلفۃ (فنسف) اونٹ کی رانکا داغ -
جلفۃ (ضسف) پوست مین سے

ایک ٹکڑا چھیلا ہوا -
جلفۃ (ففف) پیشانی کہ جنکے بال
چھوٹے چھوٹے نکلے ہون -
جلفدۃ (فسفف) شور اور آواز
سوا ے گانے کے -
جلفر (فسف) گلبر کا معرب -
جلفز (فسف) سخت اور مضبوط اونٹنی
مضبوط سخت اور قوی -
جلفزیز (فسفکس) بہت بڑہی عورت
سکڑی ہوئی کام کرنے والی - بوڑہی
اونٹنی لدو - بہاری اونٹنی سخت مضبوط
جلفطۃ (فسفف) نئی کشتی کی درزونکو
دہاگون اور رال ہرے چیترون سے بند کرنا
جلفق (فسف) دارزین یعنی دکانکا
تکیہ جو دروازہ وغیرہ کے آگے بناتے ہیں
جلق (کنک) دمشق - غوطہ دمشق -
ایک دانہ ہی یمن مین گیہون کی مانند -
ایک کلمہ ہی جس سے نر اونٹ کو ڈانٹین
جلق (فس) صلیح -
جلق (فس) (ض) سر مونڈنا - دانت
کہولدینے ہنسنے کیوقت ظاہر ہونا
کہلجانا - منجنیق سے کسی پر کچھ پھینکنا
جلقۃ (ففف) ہنسنے کے وقت دانت

مادہ
جلف
۹۵۶
جلفز
جلفط
جلفق
جلق
ایضا
ایضا
ایضا
۱۲

... بھوسہ ... بولنا ...

کھال اتارنا ... پوست اتارنا

...

جلمعا (رنفسنس) کھلی ... اور سست

... ہے ...

...

جلنفا ... سخت

جلنجع ... ایک ... سے ... ہو جانا ... لڑکے کا ... سے ... باہر نکالنا

جلنفع ... بے شرم اور فحش گو ... ہو جانا ... [illegible]

جلعا ... بنا

جلعابہ (رنفسنعنف) مرد بد خو بڑا شریر اونٹ لمبا ... جلدی کا مارا

جلنفع (رنفسنف) ... [illegible] ... جلدی کا مارا ہوا

جلعباۃ (رنفسنفس) اونٹنی ... عورت ... بڑی عمر کی ... سے ... [illegible]

جلعبا ... العین تیز نظر عورت ۔

جلعبا ... (رنفسنف) عورت بڑی جھگڑنے والی ... بدخو ۔

جلعبۃ ... جلعبی (رنفسنف) مرد ... بڑا شریر اور ... لمبا ... جلدی کا مارا ۔

جلعبی العین مرد تیز نظر ۔

جلعم (رنفسنف) ... کے وقت ... دانت نکلنا ...

جلعد (رنفسنف) سخت اور مضبوط ... گرہا ۔ عورت بڑی عمر کی ۔

جلعدۃ (رنفسنف) اپنا ... تیز ...

جلعلع ... گاڑھا دہی ۔

جلعلع (رنفسنف) اونٹ تیز ... خارپشت گوہ گردن یا گوہ گردن آدھا تو جاندار ہو اور آدھا ابھی مٹی ہو کرپتا رجانور یعنی کیچو ۔

جلعلعہ (رنفسنف) گوہ گردن ۔

جلعم (رنفسنف) مرد ... بے شرم فحش بکنے والا

جلغ ... گوشت کا ...

جلغا (رنفسنف) ... ہوئی ...

جلف (... ) ... احمق ... خالی ...

اور بلق الگ ہی -
جلنذح (فسف) بھاری اور سست
جلنذحة (فسسف) اونٹنی سخت اور
قوی یہ لفظ خاص ہی اونٹوں کے ساتھہ -
جلنزی (فسف) اونٹ ضعیف سخت
جلنطی (فسف) دلاور کنندہ کا -
جلنفاۃ (فسفس) کھاتا ہے سالن کے
جلنفاط (کسفس) بمعنی جلفاط
جلنفع (فسف) تونلا احمق کمینہ -
جلنفعة (فسسف) اونٹنی بڑے
بدن کی کشادہ پیٹ کی - اونٹنی بڑی
عمر کی جسمیں تھوڑی قوت رہی ہو یا
اونٹنی کہ جسکی ناک میں مہار کی بہت
سی لکڑیاں داخل ہوئیں ہوں -
جلو (فس) جلاء (فسم) ان گھر بار
سے نکالدینا گھر بار سے نکلنا -
مکھیوں کو دور کردینا تاکہ شہد تھوڑے
ظاہر ہوتا کام کا -
جلو (فس) جلاء (کفسم) تلوار کو جلا
دینی - چاندی کو جلا دینی - آئینہ کو جلا
دینی - غم دور کرنا - ظاہر کردینا کام
کسی پر - کپڑے اوتار ڈالنے اور پہنا ہونا
جلواء (فسفسم) خوبصورت عورت

جسکی پیشانی کے بال جاتے رہے
ہوں - کشادہ پیشانی - آسمان ابر
جلواخ (فسفس) زمین کشادہ -
جلواخ (کسفس) نالہ جو بڑا پانی سے بھرا
جلواز (کسفس) وہ شخص کہ جب
تحصیلدار تحصیل کے لیئے ایک جگہہ
جاوے تو وہ لوگوں سے زر تحصیل
کرکے تحصیلدار کو دیتا جاے -
جلوبة (فسف) جس چیز کو شہر
کھینچنے کے لیئے پھرین مثل گھوڑے وغیرہ کے
جلولی (فسف) ہر دبہت کھینچنے والا بلا
جلوة (کسف) جو کچھہ دلہن کو خاوند
جلوہ کے وقت لونڈی وغیرہ سے دیتا ہے
جلوة (فسف) جلاء (کفسم) دلھن کو
خاوند کے آگے پیش کرنا - وقت جلوہ
کے دولہا کا دلھن کو لونڈی وغیرہ دینا
جلوذ (کسفس) سخت کھردرا
جلوز (کسفس) چلغوزہ - مرد موٹا دلاور
جلوذة (فسفف) تیز آنا - چلاجانا -
جلوس (فضس) بیٹھنا -
جلوط (فضس) عورت کم حیا -
جلوع (فضس) (فف) کھلا ہوا چہرہ ہونا
عورت کا ہر جگہہ -

[illegible] کی جگہ جہان سے [illegible]

[illegible] عورت بہت بوڑھی

اور [illegible] عمر کی -

جلالک (فضعف) تیرے واسطے

جلل (فت) بڑا کام - آسان کام

لغات اضداد سے ہے -

جلالک (فضعف) تیرے واسطے

جلمر (فس) (ض) قطع کرنا - بکری کی

ہڈی کی ہڈی پر کا گوشت پکڑنا قسیم کہا

جلم (کف) سدوہ جس کی چربی بکریکا او

جلم (فت) ایک قسم کی طائف کی

بکریان کہ اونکے پانو لمبے ہوتے ہیں

اور بال اونکے نہادرد بکریون اور

ہر نیون کا بوک - جلام (کفس) جمع

بال کاٹنے کی چھری - چیچڑی اونٹونکا

ایک داغ ہے چاند یا چاند بھیڑ کا بچہ

جلام (کفس) جمع -

جلماظ (کسفس) ہر چیز کا آرزو مند

جلمباق (کسفس) اپے کہ کمانیں لپٹین

جلمة (فسف) سب -

جلمة (ففت) بکری کی کھال اوتاری

ہوئی جسکے اندرکی آلایش و سر اور

اور پانو اوسکے کٹے ہون -

جلمد (فسف) سر موندنا -

جلمد (فسف) بڑا بھاری پتھر - مردوں کی

بیگار دینے والا اور پھاڑنا اونٹ بڑی

عمر کا بکریونکا گلہ سو سے زیادہ -

جلمد (کسک) دھونیونکا پتھر -

جلمدة (فسف) مرد قوی پتھریلی زمین

جلمز (فسفکس) اونٹنی سخت اور قوی

جلمطة (فسفف) سر موندنا -

جلمق (فسف) قبا جلامق (فسک) جمع

جلمقة (فسفف) کمانیں لپٹنا -

جلمود (فسفس) بڑا پتھر بڑی عمر کے اونٹ

جلنبلق (فت) دروازہ کی آواز جسمین

دو پٹ ہون جب انمین سے ایک کو

بھیڑین تو جلن آواز اوسمین سے

پیدا ہوتی ہے اور جب دوسرے کو ٹھوکین

تو اوسکی آواز کا نام بلق ہے -

جلنار (ضتففس) گل انار یہ

معرب ہے گلنار کا -

جلنباة (ففسفس) موٹی عورت -

اونٹنی جو سیر و سفر مین ہو -

جلنبط (ففسفف) شیر -

جلنبلق (ففسفت) دروازہ کی آواز

جب کھلے اور مونہہ سے جلن الگ ہے

زمین نرم کی جیسے فارسی مین شحرم کہتے ہین او سکے تلیکا غلاف دانو نسے جو چنے کے مشابہ ہوتے ہین بھرا ہوا ہوتا ہی اور وہ بکریکو موٹا کرتا ہی۔

جلیفۃ (فکسف) قحط سالی جسنے مالو نکی مار دی۔ جلائف (ففسک) جلف (ففس) جمع ہی۔

جلیل (فکس) بڑی عمر کا آزمودہ کار۔

جلۃ (کتف) اجلۃ (فکتف) جمع جلیلۃ (فکسف) مونث۔ بزرگ مرتبہ بزرگ وعظیم مصیبت بڑا کہ جس سے خیمہ کا اوزار باز۔

جلائل (ففسک) جمع۔

جلیلۃ (فکسف) مونث جلیل اونٹنی کہ ایکبار سے زیادہ نہ جنی ہو۔ نیز کا درخت جلائل (ففسک) جمع کھجور کا درخت بہت پھل لانے والا۔ جلال (فض) جلیل (فکس) جمع۔

جلیہۃ (فکسف) خرما کہ دودہ کے ساتھ ملا یا گیا ہو۔ جگہہ جہان سے کنکریان جھاڑدی ہوں اور دور کر دی ہون۔

جمم (فرس) کالبد۔

جمم (کرفف) اس کسی پر غصہ کرنا۔

جمم (کت) شیطان ایک یا بہت۔

جمم (رفت) ایک قسم کی سیب

جمم (رفت) بہت۔ جمام (کفس) جموم (ففس) جمع سب کوئین مین پانی اٹھا آیا ہو۔

جمم الظہیرۃ گرم گاہ مین وہ جگہہ جہان گرمی بہت ہو۔

جمم الماء پانی مین وہ جگہہ جہان سب سے زیادہ گہراو ہو۔

جمام (ففسم) ہموار۔ لوہے کا خود۔ بکری بے سینگ کی۔ سب۔

جمام العظام موٹی عورت پر گوشت۔

جمام (فسم) کالبد۔

جمام (فسم) جمادۃ (فسف) ہر چیز کا کالبد اور جسم۔

جماجم (ففسک) سردار۔ بہت بہت سے قبیلے۔

جماح (فتفس) جنہوں نے جنگ مین شکست کھائی ہو۔ تیر جسمین بھال نہو۔ ایک لکڑی جسکے سرے پر چراغ ہوا ہو اور لڑکے اوس سے بازی کرین۔

جماح (کفس) گھوڑے کی سرکشی۔

جماد (ففس) زمین جسپر مینہہ نہ برسا ہو۔ برس جسمین مینہہ نہ برسا ہو۔ مونثی سست چلنے والی۔ لونڈی کہ

مادہ
جحجف
جحلب
جحمیہ
جحجیہ
جحیجحا
جحلنہ
جحجبی
جحلیہ
جحلیہ
جحلنہ

۹۶۱

علامات اعراب ف فتحہ ض ضمہ ک کسرہ س سکون تّ تشدید م

جلول (ضفس) جل (فت)
گھربار سے نکل جانا-
جلولاء (فسفسم) فقیر ہے ایک عراق
ایک جگہ بیان کی لڑائی مشہور ہے
جلولی اوسکی طرف منسوب ہو سر
جگہ (فت) جلہتہ (فسف) (س) سر
آگے کے بال جاتے رہنے کنگر یا
جگہ سے جھاڑ دینی - کام دشوار سے
کسی کو روک دینا ظاہر کرنا کسی چیز کو
پیشانی سے عمامہ کو اونچا کرنا-
جلہاء (فسفس) سیلاب-
جلہتہ (فسف) بڑا پتھر گول محلہ
نالہ کا کنارہ - جلاہ (کفس) جمع - خرما
کہ دودہ کے ساتھ ملایا گیا ہو-
جلہزہ (فسفت) جان بوجھکر چشم پوشی کرنی
جلہص (فسفس) بڑا چوہا-
جلہمہ (فسفف) سیل کے نالہ کا
کنارہ - سختی - بڑا کام -
جلہوب (فسفس) عورت جسکا
زہار کشادہ اور بڑا ہو-
جلہوم (فسفس) بہت بڑی جماعت
جلی (فتف) بڑا کام جلل (فنف) جمع
جلی (فکس) ظاہر اور کھلا-

جلی (کس) تابداں کہ چھت میں بنا ہو
جلیح (فس) (ص) چاند کو چلا دینا-
جلیان (فتفس) ظاہر اور کھلا -
جلیب (فکس) بمعنی جلوبۃ (فسف)
جلبی (فسف) جلباء (فسفسم) جمع-
جلیبۃ (فکسف) بمعنی جلوبۃ (فسف)
جلائب (فسک) جمع - خر اونٹ بہت
سے زیادہ اونٹ کہ جسپر لوگونکا اسباب
لادیں - اسمیں واحد و جمع برابر ہے-
جلیت (فکس) مرد تیز چالاک و جسیت
جلیبۃ (فکتف) یعنی خبر-
جلیحۃ (فکسف) مسکہ اوتارنیکے لیئے
دودہ کی مشک کا ہلانا-
جلید (فکس) تیز و چالاک ہر چیز میں سے
جلاد (فسفس) جلداء (فسفسم) جمع - سنگینی
جلیز (فسک) ٹھنگنی عورت-
جلیس (فکس) ہمنشین - جلساء
(فسفسم) جلاس (فتفس) جمع -
جلیط (فکسف) تلوار جسکا غلاف اچھا ہو
جلیع (فکس) عورت کہ اپنے تئیں
خلوت میں خاوند کے ساتھ ڈہانکتی نہیں
جلیف (فکس) کھال اوتارا ہوا-
مرد اکل کہرا کھا احمق - ایکگہاس ہے



۹۶۰

ج

جمالۃ (فتفسف) شتربان لوگ۔
جمالی (فففسکت) مرد مضبوط پیدایش کا
جمالیۃ (ففسکتف) اونٹنی مضبوط
پیدائیش کی مثل تراونٹ کے۔
جمام (فتفس) پیمانہ جو بعد پری کے
چربی دار ہو۔
جمام (ففس) آسایش گھوڑے کی
آسودگی بعد تھکنے۔ بعد بھر جانے کے
جو کچھ پیمانہ کے سرے پر ہو۔
جمام (ففس)، جمم (فت) سترک کھرنا
جفتی کرنے کے سبب آب منی سپ کا
جمع ہو جانا۔ بہ سبب سواری نہ کئے
جانے کے آسودہ ہونا گھوڑے کا۔
بہت گوشت دار ہونا ہڈی کا۔ سیالی
بھرنا چھوڑ دینا تا کہ جمع ہو جاوے۔
جمامیش (ففسکس) ایک قسم کی ہما سوغ ہے
جمان (ففس) موتی۔ عوزہ نقرہ
یعنی چاندی کا گول دانہ۔ جمانۃ (ففسفت)
ایک ایک قسم کا عورتوں کا ہار کہ چمڑے
کے دھاگوں سے بناوین اور اوسمین
طرح طرح کے مہرے ٹانکتے ہیں یا چاندی کی
سے ملمع کیا ہوا اسکا۔
جمان (فقس) پیمانہ جو پری کے
بعد چربی دار ہو
جمانی (فتفسکت) جسکے سر کے بال
اوگ رونے سے لپٹے اور گھنے ہوں
جمۃ (فتف) کنوان بہت پانی کا۔
لوگوں کی بڑی جماعت کہ خونبہا طلب کرین
جمۃ السفینۃ کشتی میں وہ جگہہ کہ
جہاں درز زمین سے پانی نکلا ہوا
اکٹھا ہوتا ہے۔
جمۃ الظہیر بمعنی جم الظہیرۃ
جمۃ الماء بمعنی جم الماء۔
جمشورۃ (فسفس) خاک کا ڈھیر
جمجم (فسفس) کیوہ لورہ ایک لکڑی
ہوتی ہے کہ جولاہے اور بننے والے بننے
کے وقت پانوں اوسپر رکھتے ہیں اور
اوٹھاتے ہیں معرب جمجم۔
جمجمۃ (فسفسف) سر کی کھوپڑی۔
یا وہ ہڈی جسمین دماغ ہے۔ جمجم (فسفس)
جمع۔ ایک قسم کا پیمانہ۔
جمجمۃ الجمجمی بھرا ہوا پیالہ۔ کنوان
کھاری جگہہ میں۔ لکڑی کا پیالہ۔
ہل کی لکڑی جسمین لوہا جڑا ہوتا ہے
جماجم (فعنک) جمع۔
جمجمۃ (فسفف) ظاہر اور صاف باتن

مادہ
جمب
ایضا
ایضا
جمب
ایضا
ایضا
ایضا
جمب
جمبن
ایضا
ایضا
جم
۹۶۳
ایضا
ایضا
ایضا
جمجم
ایضا
ایضا
ایضا
ایضا
۱۲

... ہے ...
... جگہ جان ... ہین —
جماؔ الکف ہتھیلی — اور ہتھیلی کو کہتے ہیں ...
... یعنی ہمیشہ ... —
جماد (بفتح) ... 
جمادیٰ (بضم وفتح) دو مہینونکا نام
جمادی الاولیٰ — جمادی الآخرۃ — جمادیات
(بضم فتح) جمع سا آنکھ سے آنسو —
جمادی خجستہ جمادی الاولیٰ کا مہینا
جمادی سیتہ مہینا جمادی الآخرہ
جمار (بکسر) کنکریان (جمرۃ (بفتح) اسکا واحد ہی —
جمار (بضم) خرما کی چربی —
جمارۃ (بضم وفتح) ایک —
جمار (بفتح) جماعت —
جماری (بفتح) سب —
جماز (بفتح) اونٹ بہت تیز چلنے والا — گدہا کودنے والا —
جمازۃ (بضم وفتح) صوف کی زرہ کہ آستین اوسکی تنگ ہون —
جمازۃ (بضم وفتح) اونٹنی بہت تیز چلنے والی —
جماسیتہ (بفتح) ہات جو بہت سرد ہو

جماش (بتشدید) مرد کہ عورتونکا مشعر ...
جماش (بفتح) وہ چیز کہ کوئین کی مینڈ اور کوئین کے سرے کے درمیان میں ہو —
جماع (بکسر) ایک چیز کی جمع — بڑی ہونا — عورت کے ساتھ صحبت کرنی — ایک کام پر کسیکے ساتھ اکٹھا ہونا —
جماع (بضم) ہر چیز کی اصل کے اکٹھی ہونے کی جگہ —
جماع الناس ہر قبیلے کے لوگ ملے جلے
جماعۃ (بفتح) ایک چیز کا سب لوگونکا گروہ — جماعۃ علی اقذار یعنی بدلوگونکا اجتماع ہی اور لوگونکا افتراق ہی یہہ مثل اوس شخص کے حق مین کہتے ہین کہ جو آزار دہی تو دل مین رکھے اور صفائی ظاہر کرے
جمال (بفتح) خوبصورت اور خوب سیرت ہونا صورت اور خصلت کی اچھائی
جمال (بضم) خوبصورت اور خوب سیرت —
جمال (بتشدید) خوبصورت خوب سیرت
جمالۃ (بضم وفتح) نر اونٹون کا گلہ یا اونٹونکا گلہ اوسمین نر ہو گھوڑے

جمش (ضش) کو عین کا جماش بنانا۔
جمشی (فف) (ان مف) سر مونڈ نا یا مونڈا ہوا
او نگلیوں کے سرے سے وہ دو دوسرے تونکے ساتھ بات چیت کرنی اور
ملاعبہ کرنی سنا ایک آواز ہی اور مثل مشہور
ہے لا یسمع فلان الا جرس لا جمش یعنی
نصیحت کو قبول نہیں کرتا یا وہ تیری
طرف سے اوراوس چیز سے جو اوسکو
لازم ہی پھر اپنا ظاہر کرتا ہی۔
جمشانر (فسفسم) عورت جسکی فرج فراخ ہو
جمص (ضس) ایک قسم کی گھاس ہی
جمع (ضس) مکہ ہاتھہ کا۔ پوشیدہ
گواہی۔ بکہ سب تمام۔
جمع (فس) کھجور کا درخت پھل لانیوالا۔ یا ایک قسم کا خرما نا کارہ۔ یا خرما کا درخت جو کہ گٹھلی سے نکلے اور یہی
معلوم ہو کہ کس قسم کا ہی۔ قیامت
سرخ گوند۔ لوگونکا گروہ۔ جموع (ضفس)
جمع۔ سب۔ اونٹنی کا دودھ۔ بکری جسکی
پستانکو باندہ دیا ہو۔
جمع (فس) (ف) اکٹھا کرنا۔ واحد
کی جمع بنانی۔ لڑکی کا جوان ہو جانا
اور اوس سے صحبت کرنی۔

جمعاد (ضفسم) اونٹنی بڑی عمر کی پرانی
جو بالیقین صحیح و سالم کہ کوئی نقصان
اوسکے بدن میں نہو۔
جمعاظ (سفس) بدو کہار اکل کہر احمق
جمعۃ (ضسف) ایک مٹھی خرما کی۔
جمعہ کا روز۔ جمعات (ضسفس) جمع۔
جمعد (فسف) پتھر جمع کئے ہوئے
جمعر (فسف) پتلی مٹی جو کوئیں میں سے کھودنے وقت نکلے۔
جمعرۃ (فسفف) ٹیلا سخت اور اونچا
یا پتھر کا ڈھیر اونچا۔ خرگوش کا اپنے
تئیں سمیٹنا کسیکو کاٹنے وقت اکٹھا کرکے
جمعلۃ (ضسفف) شہد مسکہ وغیرہ
میں سے بقدر ایک جوز کے۔
جمعلیل (ضسفکس) ہر چیز کا اکٹھا کرنا
جمعلیلۃ (ضسفکسف) کفتار جانور
اونٹنی بڑی عمر کی پرانی۔ اونٹنی سخت
اور مضبوط یا وہ اونٹنی جو لاغری اور سستی
کے بعد قوی ہو گئی ہو۔
جمعور (ضسفس) بڑی جماعت
جمعورۃ (ضسفسف) اونٹنی کے و مر
کے پاس ایک چیز ہو کڑی سے کے بچہ ہو ۔ ایک بہت بڑی پنیر کی کہ اوسکا دنبچا ہو

مادہ
[illegible]
۹۶۵
[illegible]
۱۲

نہ کہنی دل میں چھپا رکھنی بات کی کہ نہ کہنا۔
جمح (فس) جموح (ضفس) جماح
(کفس) (ف) سرکشی کرنی گھوڑے
کی عورت کا اپنے خاوند کے گھر میں سے
بے اجازت نکل کر باپ کے گھر میں
چلا آنا قبل طلاق کے۔ گھوڑے کا
دوڑنا۔ اُلٹا پھینکنا۔
جمحطہ (فسفف) چھوٹا جسمیں چھوٹے
بچے کو لپیٹ کر گہوارہ میں ڈالیں
رسی کہ جس سے گائے اور بکری کے
ہاتھ پاؤں ذبح کرنے کے وقت باندھتے ہیں
جمحل (ضفسفس) پیٹ کے اندر کا گوشت
جمخ (فس) بزرگی اور فخر۔
جمخور (فسفف) بانسلی کی مانند ہڈی
جسکا بیچ خالی ہو۔
جمخور (فسفس) کھوکھلا بیچ کا خالی
جمد (فس) اونچی زمین سخت جگہ
(فسفس) جماد (کفس) جمع
جمد (فف) برف۔ پانی جما ہوا۔
جمد (فس) (ن) کاٹنا قطع کرنا بخیل
ہونا ثابت اور واجب ہونا حق کا۔
جمد (فس) جمود (ضفس) (ن) (ک)
پانی کا بستہ ہو جانا۔

جمر (فس) (ن) اکٹھا ہونا ایک کام پر
قید میں کو رکھنا گھوڑے کا۔ آگ کی
چنگاری پھینکنی کسی کو۔ دوڑنا ایک طرف کرنا
جمرہ (فسف) آگ کی چنگاری۔ جمر
(فس) جمرات (فففس) جمع۔ زمین
کی تپش۔ ہزار سوار۔ قبیلہ کہ ایک کی
مدد کرے اور دوسرے قبیلہ سے
لڑے یا وہ قبیلہ کہ جس میں تین سو سوار
ہوں ایک جگہ ہی۔ ایکبار پتھر پھینکنا
جمر (فس) جمزی (فسف) (فس)
چلنا۔ ایک قسم کی رفتار جلدی کہ
خفر سے کم اور عنق سے زیادہ۔
جمز (فس) گھٹنا کا بقیہ
جمز (فس) (ن) گھٹہ کرنا۔
جمزان (فسفس) ایک قسم کا خرما۔
جمزہ (فسف) خرما کا ٹکڑا۔ جمز (ضف)
جمع۔ ایک بڑی بیر کی گھاس کی
کلی جس میں دانہ ہو۔
جمزرہ (فسفف) پیچھے ہٹنا اور بھاگ جانا
جمزی (فسف) گدھا تیز چلنے والا۔
جمستہ (فسف) آگ
جمستہ (ضسف) لونموکا کلہ سوکھا
خرما۔ آدھا پکا ہوا غورہ خرما جس میں

ایک چیز کی ایک طرف سے خبر دینی اور
جو اوس سے مقصود ہو اوسکو چھپا رکھنا
جمہور (ضفس) بہت کا لوگ اور
سب لوگ۔ چیز جہان سے وہ بڑی
معلوم ہو۔ عورت شریف بڑے گھرانے کی
جمہوری (ضفسکت) شراب نشہ
کر دینے والی یا انگور کی نبیذ کہ اوسپر
تین برس گذر گئے ہوں۔
جمی (فتف) باقی۔
جمی (فف وضف) ایک قسم کی پتیاں
کی سوجن۔ پتھر جو زمین پر نکل آیا ہو
اور بلند ہو گیا ہو۔ چیز کی مقدار۔ ہر چیز
کی پشت۔ پیٹ کے بچہ کی حرکت۔
ایک قسم کی بدن کی سوجن۔
جمیجمہ (ضفس) ڈگر۔
جمیر (ضکس) لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ
جمیرہ (ضفف) بٹے ہوئے بال۔
جمیشر (ضتکس) ترانجبیر۔
جمیز الفواد مرد تیز ذہن۔
جمیش (ضکس) زیر ناف کہ موسکے
بال مونڈے ہوئے ہوں۔ جگہ بے
گھاس۔ نورہ جو بال مونڈ دے۔
جمیع (ضکس) اکٹھی ہوئی چیز۔ لشکر

قبیلہ جو اکٹھا ہو گیا ہو۔ سب لوگوں کا
گروہ۔ ہر اونٹنی کا دودھ۔ بکری جسکے
تھن باندھ دیئے ہوں۔ مرد جو کمال
جوانی کو پہنچگیا ہو اور ڈاڑھی نکال لی ہو
جمیل (فتکس) بلبل۔
جمیل (ضفس) بلبل۔ جعلان (کسفس جمع)
جمیل (فکس) پگھلی ہوئی چربی۔
جملا (ضفسم) جمع خوبصورت۔
خوب سیرت۔
جمیلانۃ (ضفسف) بلبل۔
جمیلۃ (فکسف) ہر فن کا گروہ۔
کبوتروں کا گروہ۔ عورت صاحب جمال
جمیم (فکس) بہت گھاس جو کہ
یا گھاس جو چھپی ہوئی پراگندہ یا گھاس
آدھی پکی ہوئی یا جمام (ضکتفسم جمع)
جمیمۃ (فکسف) پندرہ دن کی
اوگی ہوئی گھاس کہ چوپائے کا
منہہ بھر دے۔
جن (کت) پری۔ ضد انس جنی
(کنکت) ایک فرشتے۔ ہر چیز کا
اول۔ گھاس کا شگوفہ۔ جن اللیل
رات کی تاریکی۔ جن الناس
لوگوں کا گروہ۔

باب الجیم ...

جَمل (فتح) درخت زرسات برس کا
... بچہ ... کا یا بچہ کا ...
(ضمہ) اجمال وضمتین جماجل
... جمیل (فتح) جمال (کسر)
... (ضم) جملات (فتح فتح)
جمال (فتح) ... جمع - خوبصورتی
... جمل ... تین گز کا ...
... جمل ... کہتے ہیں -
جمل (فتح) ... چربی پگھلا ...
جمع کرنا ... کرنا
جُمّل (ضمہ) لوگوں کا گروہ -
جُمَّل ... جُمْل ... جُمُل
(ضمتین) موٹا رسا کشتی کا -
جُمَل (ضم فتح) موٹا رسا کشتی کا -
جملی ... ترلونٹ دلدار -
جُملا (ضم فتح) صاحب جمال ہر حیثیت
سے بے عیب ہوئی پیدائش کا -
جُمّانہ (ضمہ فتحتین) بلبل -
جُملہ (ضم فتح) ایک چیز کا سارا پن
سب - جُمل (ضم فتح) جمع - چند کلام
جس سے سامع کو تسکین ہو جاوے
جُمجُم (فتح) ... کے ...
کھیجانہ کے سر پر ہو یعنی چوٹی -

جَمَّم (فتح) [illegible] لے نیزہ ہونا مرد کا
بے سینگ ہونا بکرا کا - بہت گوشت دار
ہونا عورت کا - بے کنگرہ دار ہونا گھر کا -
جموح (فتح) سرکش گھوڑا - تیز رو
گھوڑا - خوش [illegible] - وہ شخص کہ اپنے
ہوائے نفس سے نہ پھر سکے -
جمود (ضمتین) آنکھ خشک بے آنسو -
جمود (ضمتین) [illegible] بستہ ہو جانا
روغن اور چربی کا اور پانی کا یا اکثر
پانی کی بستگی کو جمود بولتے ہیں اور
روغن وغیرہ کی بستگی کو جمس -
جموس (فتح) [illegible] جو بال [illegible]
کہ پانی [illegible] طرف سے نکلے
خشک [illegible] جو گھاس جلا دے -
جمول (فتح) چربی گلا دینے
والا - موٹی عورت -
جموم (فتح) بہت ہونا کوئیں کے
پانی کا - کھینچے کے پھر آ جانا پانی کا
قریب آ لگنا ایک کام کا -
جموم (فتح) کنواں بہت پانی کا
گھوڑا کہ ہر وقت نئی چال چلے -
جمہرۃ (فتح) ریت کا ڈھیر اکٹھا
کرنا - ڈھیر ڈھیر کرنا - بلند کرنا ایک

لیجاوین جنبلہ زفسک یا جنبع - جو چیز کہ
موزہ لیجانیکی اور دشوار ہو - بیمار -
قراب کی مشک - و تر کی ... جنابہ یعنی
مرگیا اور اتنا ہی ... کی جنازہ ...
جنا ... زفسکا ... پہلو میں ...
قسم کا کھجور کا درخت کہ ... نیچے
بیٹھ جاتے ہیں -
جنابی ... زفسک ... [illegible]
... [illegible]
جنابیح زفسین ... [illegible]
... [illegible]
پاؤں میں ... کی جگہ ... جنابی
... [illegible]
لوگوں کی جماعت
جنابی ... ۔۔۔ [illegible]
جنابہ ... [illegible]
جنا ... [illegible]
کسی ... جیسے ... [illegible]
... [illegible]
جنب ... [illegible]
جنب ... [illegible]
ہاتھ کی ... جیسے ... جنب ...
جنگا ... [illegible]

کی طرف ... قت کہ اگر
اوسکا گھوڑا سستی کرے تو اوسپر سوار
ہو جاوے - دفع کرنا پہلو توڑنا -
جنب زفت ... پہلو کی طرف سے
... اونٹ کا - نہایت پیاس کے
مارے اونٹ کے پھیپھڑے کا پہلو کو
چمٹ جانا متصدق کا دور جگہ میں ...
اور صاحبان مواشی کو حکم دینا کہ اپنے
اپنے مواشی کھینچ لاؤ تاکہ اونمیں سے
زکوٰۃ لیجاوے یا صاحبان مواشی کا
اپنی جگہ سے دور چلا جانا اور متصدق کو
تکلیف دینی تاکہ اوسکے پاس جاوے
جنب ... فی الدین ... کسی کی طرف
بیقرار ہونا جیسے جنب الیہ
جنب ... جو کہ مہمانوں کے دور
... ہو کر جاوے
جنب زفس پہلو ... جناب ...
جنیب ... جنائب ... جمع
کنارہ - ایک ... وہ جگہ جہاں ...
بہت اور ... ہو ... [illegible]
... پہلو ... [illegible]
جنب ... [illegible]
... جناب ... [illegible]

۴۹۹

۱۲

جناب ... حیوان (فتح) [illegible]
[illegible] کان کا اندر کا نمک لینا مروہ
[illegible] ہو جانا شگوفہ کا نکلنا
[illegible]
جناب (فتح) ... کے سینگ
[illegible] گئے ہوں ۔
جناب (فتح) [illegible]
جناب (فتح) ... (ف) [illegible]
... کے بل گر پڑنا ۔
جناب (فتح) ... لاغ کشتی کے پہلو پہ
[illegible] بعد ہونا بلحاظ [illegible]
[illegible] ہے ۔
جناب (فتح) ... کی تنانی
جناب (فتح) ... چلنے میں [illegible]
جناب (فتح) ایک طرح کا [illegible]
ایک کھیل ہے ۔
جناب (فتح) (ان) آزردہ مند ہونا ۔
پریشی ہونا ... دور کیا [illegible]
جناب (فتح) ارکان سی [illegible]
جناب (فتح) العیٰ ۔
جناب (فتح) ... کی [illegible]
اسلام ... (کسکف)
جناب (فتح) گناہ ۔ میلان ۔

جناح (فتح) بالضد [illegible]
(کسکف) [illegible] چل ۔ جا
[illegible] قسم کا [illegible]
[illegible] میں پہ دے ہوئے
[illegible] ہر چیز کا گروہ
وہ گروہ جو ... کے واسطے لشکر کے دو
طرف ہوتا ہو ... بکری کالی
جناح جناح ایک کلمہ ہے جس سے
بکری کو دو ہنے کے لئے بلاتیں ۔
جناح (فتح) [illegible] حشرات زمین مثل
[illegible] اور ... وغیرہ ۔ بلا
[illegible] سخت ۔
جناد (فتح) ... آدمی اور اونٹ
والا ... ہو ... دیکھے ۔ وہ جو
چلنے میں ... چھوٹا دلدار ۔
[illegible] ہوئی ۔
جناد (فتح) ... قوی موٹی
[illegible] قوی [illegible]
اس سے ... کر سکے ۔
جنادل (فتح) قوی و بزرگ ۔
جنادرہ (فتح) [illegible]
جنائز (فتح) [illegible]
جنائب (فتح) [illegible]

کنانہ - بات کا تکرار -
جنجاث (ضفنس) چھوٹا گول ہونا -
جنجل (فعفف) اچھے سے چولا -
جنبذ (فعنس) ایک گیہوں کا یا اس کا شہر -
ہر طرح کی ... جنود (فعفس)
اجناد (فعفس) جمع -
جنبذ (فعنل) زمین سخت ... کی ...
جنبشار (فعنلہ) ایک قسم کی ...
جنبخ (فعنس) ... -
جنبلتہ (فعنلہ) ... ہونے
ہو ... لوٹنا ... کرنا ... سے
... کی کوشش کرنا -
جنبلتہ (فعنلہ) پانی کا ... جاو
(فعنلہ) جمع جانور زمین میں گھسنے
والا - سوئی یا ہر جانور کہ اوس سے
نقصان اور زحمت پہنچے -
جنبل (فعنل) پتھر جیسے او ... ہیکیں
جنبل (فعنلک) چھوٹی جگہ -
جندلہ (فعنلہ) پتھریلی زمین -
جندی (فعلی) مرد لشکری -
جنبز (فعنس) مٹی کا گھر چھوٹا -
جنبش (فعنس) رقص چھپانا جمع کرنا
جلنس (فعلس) آدمی ... ہر چیز کی

جشم - اور ہر نوع سے ... یا جمار
(فعنس) جنبوش (فعنس) جمع -
جنبش (فعنلہ) ان ... پانی وغیرہ کا ... ہونا
جنبش (فعنلہ) (فعلس) ... قریب پیش
جمع ... جمع سلاسی بیکاری -
آئندہ ... خوف -
جنبشار (فعنس) ... کوئیں کا سارا
پانی کھینچ لینا یا ایک گروہ کا ایک ...
... (فعنلہ) - ... کار ہونا آئندہ ...
جنبش (فعنس) ... تنگ ہونا -
دل کا ... اور شور ... کرنا -
جنبشہ (فعنلہ) ... جس ... میں
جمع (فعنلہ) ریزہ گھاس -
جنعاظ (فعلال) احمق بدخو کے
طعام پر سب کو دشمن بنا لیوے -
جنعاظہ (فعنلہ) بہت کھانے
والا بدخو کہ طعام پر سب سے ناراض ہو -
جنعدل (فعنلل) مرد بیکار
والا سخت قوی -
جنعظ (فعلل) ... الاحمی سکینہ
بدخو یا احمق ... خوف -
جنعیط (فعلیل) مرد جسکے چھوٹے
پانوں ہوں بہت کھانیوالا -

پہ سبب کمی ... ہونے کے ہا ...
ہوا اور ... بیں ... نکہ ... ش والا اور
... ہے۔
جھنکا (سنسکرت) ... ات پرند کا بچہ۔
جھنکار (سنسکرت) ... ات پرند کا بچہ۔
جھنجر (سنسکرت) پیالہ گلی پر لیسی ... ہا
ناندہ۔ گرشتہ ... سی ... اور ... سے
پر بیر کرنا ... سے ... شعر کا ... ہے
... جرت کہ ... ری ... ہوتا ہے
اور ... ل الا سے ... ہو ... گنے کی ...
... کر ... سال سے زیادہ ... درخت سے کم ...
جھنجر (سنسکرت) ... اور کنارہ۔
جھنڈا (سنسکرت) ... سے کہ پہنچ کر ...
جھنجنا الا الف تک کے مو ... ا۔
جھنجھنا (سنسکرت) ... ہوں ... ت۔
جھنجھوڑ (سنسکرت) ... ت ... ہوت
... الی ... ت۔
جھنجھو (سنسکرت) ... والا اور لمبا اور ... چا
ہر چیز ... ہو ... سے۔ ... جی جھل۔ ... جھنڈ
(سنسکرت) ایک ۔ تا ... ہو ...
جھنڈ (سنسکرت) ... لکی ... کی ... ہر ... درخت
کی ... کی ... اکیلی ہوئی گنبد۔
جھنجنا (سنسکرت) گنبد۔

... (سنسکرت) ...
جھنجر (سنسکرت) ... ازلوچ ... ولد ... جہاں
... رنا ... بچہ ... کا بچہ۔
جھنجھنا (سنسکرت) ... جو عورت۔
جھنجل (سنسکرت) ... گیا ... طلار۔
... کا ... ل ...
جھنجھیر (سنسکرت) ... الی ... پر وہ ... ایک
... کا ... گر جس سے ... سوا
کر کے ... سیکھ ... تا ہے
... (سنسکرت) ...
جھنجر (سنسکرت) ... جو ... ل کا
... ہو ... گی۔
جھنجھ (سنسکرت) ... مہینے ... جہاں
... پا ... عکس ...
جھنڈ (سنسکرت) ... جری کی ... ل۔
جھنجھر (سنسکرت) ... بر ... نا۔ جھانا ... جسم
جھنجھو (سنسکرت) ... خاک کا ڈھیر
جھنجھیر (سنسکرت) تلوار بنانے والا
... بنانے والا ... سا ... گوڑا۔
جھنجل (سنسکرت) ایک ساگ ... ن
کی ... سے ... کر کے کہاتے ہیں۔
جھنجھور (سنسکرت) ... بعنی ... ہا۔
جھنجھکار (سنسکرت) ... جب ... پا۔ ... ت

بدلیسی - دو دا اور یعید ایک قسم ہی اچھے
خرما مین کی - مرد جسکے پہلو مین دو
جلیبۃ (رکسف) چھ برس سے اونٹ کا
صدف - اونٹنی جو کسی کو دو بہون سے
دیوین تاکہ دو دا دیبہ علۃ الولادۃ سے
بجنبیا البعیر - بوجھ کہ اونٹ سے
دو پہلوؤن پر ہو -
جنیبہ (رکلتف) ایک قسم کی پشمین چادر ہے
جنیش (رکس) ہم جنس -
جنیش (رکس) ایک طرح کی مچھلی
کہ اوسکا رنگ سندوری کے بیچ
بیچ مین ہوتا ہے -
جنیص (رکس) مردہ -
جلیع (رکس) بمعنی جمع (رفف)
جنیش (رکس) پیٹ کا بچہ - اجنۃ
(رکلتف) اجن (رضفس) جمع - گور کا
مردہ - ہر چیز پوشیدہ -
جنیبۃ (رکسف) ایک طرح کی چادر پشمی
بالائی جو پانی بدبودار گندہ -
جور (رفت) زمین و آسمان کا بیچ -
نیچی زمین - جواء (رکفسم) جمع گھر کے
اندر کا صحن - ندی کی کشادگی - جواء
(رکفسم) جوا ہر (رفضسم) جمع -

جواء (رکفسم) زمین گہری یا ہیلی کشادہ
ندی - ایک طرح کا چمڑا ہوتا ہے توشہ
دان یا تابہ کی مانند کہ جسمین اپنا
اسباب رکھتا ہے گھر کے اندر کا
صحن - اجویۃ (رفسکف) جمع - ہانڈی کا
غلاف - یا وہ چیز چمڑے وغیرہ کی
کہ جسپر ہانڈی رکھیں -
جواب (رفس) جواب - اجوبۃ (رفسکف)
جوابات (رفسفس) جمع -
جواب اللیل جو شخص کہ تمام
رات راستہ چلے -
جواۃ (رفس) ہانڈی کا غلاف -
جواخر (رفسک) سوراخ اور پوشیدہ
جا ہے مین گھسنے والے -
جواد (رفس) سخی ہوا مذکر و مونث
برابر - جودا (رضففسم) جودۃ (رضفف)
جود (رفس) اجواد (رسفس) اجاود
(رفسک) جمع - گھوڑا تیز رو - جیاد
(رکفس) اجیاد (رسفس) اجاوید (رفسکس) جمع
جواد (رضفس) پیاس کی شدت یا
جواذی (رفسک) اونٹنیان تیز
چلنے والی گویا کہ زمین پر پانو نہیں رہتا
جوار (رضفس) گلے کی آواز سے

علامات علاج [illegible]

[illegible] جس میں [illegible]

[illegible]

[illegible] بازو [illegible]

[illegible]

جَوَانِی (فسک) گھر کا اندر اور اوسکا صحن۔
جَوَائِث (فسک) دور کی خبرین جو تم تک پہنچین ہ اسکا واحد جائبۃ ہے
جَوَائِرُ الاَشعَار وَالاَمثَال جو اشعار اور امثال کہ شہر بشہر گذرین ہے
جَوْب (فس) بڑا ڈول۔ عورتوں کا شامیہ یعنی سینہ بند۔ ڈھال۔ آتشدان۔
اَجوَاب (فسفس) جمع۔
جَوْب (فس) (ن) مسافت طے کرنی۔ راہ کاٹنی۔ گریبان بنانا کپڑے مین پھاڑنا۔ قطع کرنا۔
جُوبَۃ (فسف) زمین کا گڑھا۔ زمین سخت جلے برابر۔ گھرون کے درمیان کی کشادگی۔ یا دو زمین کے درمیان فضائے ہموار۔ ابر اور پہاڑ کے درمیان کی کشادگی۔ جُوَب (فسف) جمع۔
جُوَرَۃ (ضف) یعنی جائی (فسف) مشک کا پیوند۔
جُوَرَۃ (فسف) زمین نشیب و پست۔
جُورَۃ (ضسف) مشک کا پیوند سخت زمین کا ٹکڑا پہاڑ وغیرہ مین گڑھا۔ ایک طرح کا رنگ گندم گونی کے قریب
جُوتْ جُوتْ (فس فس) ایک کلمہ

جس سے اونٹ کو پانی کی طرف بلاتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں۔
جُوث (فسف) قبہ۔
جَوَث (فف) (س) اعلائے شکم کا بڑا ہونا اور اوسکے اسفل کا لٹک آنا۔
جَوثَاءُ (فسفس) عورت جسکا پیٹ بڑا اور لٹکا ہوا ہو۔
جُوجَاۃ (فسفس) اونٹونکو آواز دینی۔
جُؤجُؤ (فسفس) سینہ۔ یا سینہ کی ہڈی۔
جُوح (فس) تربوز۔
جَوح (فس) جیاحۃ (کغسف) (ن) ہلاک کرنا جڑ سے اوکھاڑنا۔ سیدھے رستے سے میل کرنا۔
جُوجَم (فسفس) گلاب کا پھول گل صد برگ
جَوخ (فس) (ن) سیل کا نالہ کے کنارے کو توڑ دینا۔
جُوخَان (فسفس) خرما خشک کرنیکی جگہہ
جُوخَۃ (ضسف) گڑھا۔
جَوَخِی (فسف) لونڈیونکے لیئے اسم ہے
جَوْذَر (فس) نور کا بچہ۔ یا وہ بچہ کہ اوس سے بڑا اور بچہ نہو۔ جمع جآذر (فسک) کی ہے۔
جُوذر (فس) جُؤذُر (ضفس) (ان) بہت

| مادہ |
| --- |
| [illegible] |
| ۹۷۵ |
| ایضاً |

[illegible] آدمیوں کی —

جوار (فتحتین) ہمسایگی کرنی یعنی کسی کی پناہ میں آنا

جوار (فتحتین) پانی بہت گہرا لگر [illegible] نگہبان —

جوار (فتحتین) نگہبان —

جوار (کسر) کسی کو پناہ دینی پناہ اور امان پانا —

جوارح (فتحتین) گھوڑیاں آدمی کے ہاتھ پاؤں جن سے کام کرتے ہیں جو شکاری جانور پرندہ اور درندے جمع ہیں جارحہ (فتحتین) کی مانند بولتے ہیں

۹۲۸

[illegible] والکاتمہ [illegible] جوارح الکمال یعنی سب اوقات اور گوندی جو اولاد بچہ دینے والی ہو —

جوارس (فتحتین) ہاضمہ — یعنی [illegible]

جواز (فتحتین) روا ہونا اور ہو جانا پروانہ بادشاہ کی طرف سے جو مسافر لیتے ہیں کہ راہ میں کوئی روکنے والا تعرض نہ ہو پانی جو مواشی اور کھیت کو دیویں

جواز (فتحتین) جوز فروش

جواز (فتحتین) چابک [illegible]

جواط (فتحتین) [illegible] مرد [illegible]

[illegible] جو [illegible] فتنہ و فساد کا شور و غل [illegible] بہت چیخنے والا [illegible] سخت خو — بہت کھانے والا —

جواظ (فتحتین) [illegible] جو بھیڑیا —

جواظہ [illegible] بہت قرابت کھانے والا [illegible]

جواف (فتحتین) ایک قسم کی مچھلی جسے جوفی بھی کہتے ہیں —

جوالتہ (فتحتین) اچھی اور بہتر چیز —

جوالحم (فتحتین) ذرہ کی مانند چیزیں جو سفید اور سرخ گھاس کے سرو زمین سے ہوا میں اڑتی ہیں — اور سرخ ایک گھاس ہے کہ پانی میں اگتی ہے —

جوالق (فتحتین) جوال اور وہ ایک پوشش ہے قلندروں کی اور ان سے بنی جاتی ہے جوالیق (فتحتین)

جوالقات (فتحتین) جمع —

جوامع الکلم قرآن مجید —

جوانح (فتحتین) [illegible]

جوانح (فتحتین) کوکھیں جو پہلو کی پسلیاں سینے کے پاس سے — ایک

جوانی (فتحتین) جوانب —

جوزاة (ف‌س) ستونوں کے دو پوست کے درمیان میں جو گڑھے پڑ جاتی ہیں -
جوزاهنج (ف‌س‌ف‌س) ایک ہندی لاہور
جوزة (ف‌س‌ف) کالی بکری جسکا بیچ سفیدی مائل ہو اکیبار پانی دینا چوپایہ اور کھیت کو - پانی کا ایک گھونٹ - ایک قسم کا انگور -
جوزق مالقطن (ف) روئی کا غورہ کہ ابھی اس میں سے روئی نہ نکالی ہو -
جوزل (ف‌ف) کبوتر کا بچہ جو ان - زہر - اونٹنی کہ لاغری سے گر گئی ہو -
جوسان (ف‌س) جوسان (ن‌ف‌ف) (ن‌س) گھروں میں لوٹنے کے لیے پھرنا اور چیزوں کو ڈھونڈھنا اچھی طرح سے ڈھونڈھنا - پامال کرنا کسی کو دبا لینا رانگو پھرنا بسبب دیری کے -
جوسق (ف‌س‌ف) چھت -
جوش (ف‌س) سینہ - رات کا ٹکڑا اول سے ہو یا آخر سے - آدمی کی کمر - رات کا بیچ -
جوش (ف‌س) (ن) ساری رات چلنا -
جوش (ف‌س) آدمی کا سینہ -
جوشن (ف‌س‌ف) سینہ زرہ کا نیچ

جوشوش (ف‌س‌ف‌س) سینہ یا پوش سینہ - سخت مرد - رات کا حصہ لوگوں کا گروہ
جوط (ف‌س) جوطان (ف‌ف‌ف) (ن) مٹک مٹک کر چلنا اندوہگین کرنا -
جوع (ف‌س) (ن) بھوکھا ہونا - پیاسا ہونا مشتاق ہونا -
جوع (ض‌س) بھوک -
جوعة (ف‌س‌ف) ایکبار بھوکا ہونا -
جوف (ف‌ف) فراخی - فراخ
جوف (ف‌ف) (س) بیچ کا کھوکھلا ہونا
جوف (ف‌س) زمین پست وہموار پیٹ ہر چیز کا اندر - عالموں کا خیمہ
جوف (ف‌س) (ن) پیٹ پر مارنا - اندر تک پہنچ جانا زخم کا -
جوفاء (ف‌س‌ف‌م) ڈول کشادہ - جوف (ض‌س) جمع جسکا بیچ خالی ہو جیسے درخت وغیرہ -
جوفان (ف‌س‌ف‌س) گدھے کا ذکر -
جوفر (ف‌س‌ف) جوہر -
جوفی (ف‌س‌ک‌ت) فراخ - بیچ کا کھلا ہونا - ایک طرح کی مچھلی -
جوق (ف‌ف) (س) چہرہ ٹیڑھا ہو جانا
جوقة (ف‌س‌ف) لوگوں کا گروہ -

ایضا ایضا ایضا ایضا ایضا ایضا ایضا

[illegible] کا - مرنا یا قریب
مرگ ہونا بوڑھے جاندار کا بہ تقسیم یعنی
گرنا بہت پانی بہ رسنا غالب آنا -
[illegible] ہونا -
جوُد (رس) بخشش - سخاوت کرنی -
جوُد (فس) جیسے عکس [illegible]
جُودہ (فسف) گھوڑے کی تیز روی -
جُودہ (فسف) (ان) جید ہو جانا -
خوب کہنا اچھا کلام بولنا تیز رو ہونا
گھوڑے کا -
جُودہ (فسف) ایکبار پیاسا ہونا گھوڑ[illegible]
جوُذیا (فسکفسم) کمبل -
جُوذاب (فسفس) ایک کھانا ہی کہ چاول
اور شکر اور گوشت کا بنتا ہی -
جوُذر (فسف) گوزن کا بچہ - جَآذر (فسک) جمع
جوُذی (فسکت) کمبل -
جوُذیا (فسکفسم) ایک جامہ ہے
پشم کا ملاحوں کا -
جُور (رس) ظلم - ستم اور راستی سے مائل
جوُر (رس) (ان) حکم میں ظلم کرنا -
جیسے جار علیہ راہ اور راستی سے
میں کرجانا جیسے جار عن الطریق
چنانچہ جا ہی -

جوز (کفت) یعنہ جزی بحث گچ کا -
جوُرب (فسف) پاتابہ جوارب فسک جمع
جوربہ (فسفف) پاتابہ پہنانا -
جوُزف (فسف) کدو - شتر مرغ -
گھوڑا اور تیز رو سیل کہ سب چیز بہالیجا(ے)
جوزق (فسف) شتر مرغ -
جوز (رس) ایک چیز کا بیچ اور جہاں
وہ بہت ہو - جواز (فسفس) جمع - معرب
گوز کا یعنی گول - جوزہ (فسف) ایک -
جوزا (فسفس) بیچ بجاز -
جوز لوا جوز بویہ -
جوز البقی (فسفس) ایک درخت کا
پھل ہی خاص بلاد میں ہی اور ہندوستان
میں لوبے بین پھل کہتے ہیں -
جوز ماثل (رس فسک) . تار تورہ
ایک چیز ہی لوہے اور سوت کی ڈوری کی
کہ شوخ گھوڑے اور شوخ خچر کے ہاتھ اور
پانو پر باندھتے ہیں - دھتورہ -
جوز (رس) جوُز (فسفس) جواز (فس)
(ان) جگہ سے گذرنا - روان ہونا - پانی پینا
جوزا اور (فسفسم) آسمان کے بیچ میں
سے ایک برج کا نام - کالی بکری جسکا
بیچ مال لسیاہی ہو -

جوطوہ (ضس) بولتے ہیں نطفہ کو جو وہ
استوار یعنی ناخوشی سے دیکھا اوسکو
اور ایسے ہی نطفہ بچہ کے سنوار —
جوطوہ (ضس) (ن) ناخوشی سے
کسی کے سامنے آنا —
جوجوہ جوجوہ (ضس ضس) یعنی جاہ جاہ
جوہر (بفتح) ہر پتھر کہ اوس سے
منفعت حاصل ہو جیسا ہیرا یا قوت
لعل وغیرہ — معرب گوہر — جوہر فرد (بفتح)
اوس میں سے ایک — جواہر (فتحتین)
جمع — اصل اور پیدایش اور مادہ ہر چیز کا
— وہ جو اپنی ذات میں قائم ہو — ضد
عرض ہے — ولاور —
جوہر فرد وہ ٹکڑا جسکا ٹکڑا نہو سکے
جوہری (بفتح) گوہر بیچنے والا —
جوئی (بفتح) بیدار یا پالی گندہ غم
کی سوزش — سل کی بیماری — طول
مرض — ایک طرح کی سینہ کی بیماری —
جوی (بفتح) (س) بدبودار ہو جانا
مشک شراب کا — ناپسند رکھنا —
عشق کا غم — غم کی سوزش —
ناموافق آنا —
جوی (بفتح) گیر کہ اپنا مال بیان کر سکے

جوئبار (بفتحتین) بلفظ فارسی
بمعنی چھوٹی نہر کے —
ارض جوجیہ زمین ناموافق
جویل (بفتح) جسکو ہوا اور مینہ گیلی ہو
مثل تنکے پتے وغیرہ کے
جہاد (بفتح) زمین سخت اور ہموار بے
گھاس کی — پیلو کا پھل —
جہاد (بکسر) خدا کی راہ میں دشمنان
دین سے لڑنا —
جہار (بفتح) سامنے روبرو دیکھ کر لڑنا
آواز سے پڑھنا — دشمنی کسی کی نکالی
دینی ظاہر کرنا — بے پردہ دیکھنا — آنکھ بند
جہاز (بفتح) وہ کچھ کہ اونٹ کے
اوپر ہو — عورتکی شرمگاہ —
جہاز (بکسر) مردہ کا اسباب جو اوسکے
ساتھ کر دیں — دلہن کا اسباب —
مسافر کا اسباب — اجہزہ (بفتح)
جمع — اجہزات (بفتحتین) جمع الجمع —
جہاض (بفتح) پیلو کا پھل کہ سبز ہو
جہاضتہ (بفتح) یعنی جہاضتہ
جہاضتہ (بفتح) گدھی پرانی —
جہام (بفتح) ابر جسمیں پانی نہو
یا برس چکا ہو —

[illegible] جوہ
[illegible] بفتح
[illegible] بفتح
جوہ [illegible]
[illegible] بفتح
جو [illegible]
٩٧٩
جول [illegible]
جد [illegible]
ایضاً
جہ [illegible]
ایضاً
ایضاً

[illegible]

[illegible] گھوڑے [illegible]

[illegible] پسینہ یا پاس گھوڑے۔

[illegible] بزرگی کی تصغیر

گی۔ ایک ملیح کا درخت سیاہ گرد و غبار۔ خاک۔ مٹی۔

جَوْل (ن س) جولۃ (س ف) جوول (ف ع س) جولان (ف ع س) جیلان (ک ف س) (ن) گرد پھرنا۔

جَوْل (ف س) عقل مستعملہ۔ جھونڈ کا گروہ۔ قبر کا کنارہ۔ کنوئیں (ف) اندر کا گرد اگرد سرنگ۔ دریا کا کنارہ پہاڑ سے او ٹہون کا شتر مرغون کا بکریون کا گلہ ریوڑ۔

جولانج (ف ع س) خاک اور کنکریان که ہوا کہیں سے کہیں لیجاوے۔

جولان (ع) المحرم محرم کا اول یا آخر

جولان (ف ع س) چھوٹے چھوٹے چوپائے خراب ناکارہ۔

جولہ (س ف) جدا ہو کر حملہ کرنا۔

خاک کا دریچہ آنا ایک چیز کو چھا منا پھیر دینا۔ لوٹا دینا۔

جولق (س ف) ایک درخت ہے خاردار

[illegible] آسمان سمجھے۔

جحم (ف س) جحیم جسکا کام ایک ہو۔

جوم (ف س) (ن) ایک چیز کو طلب کرنا جسپر ہو یا نہ ہو۔

جَوْن (ف س) ہری گھاس مائل بسیاہی سرخ۔ سفید۔ سیاہ۔ دن۔ جون (ف س) جمع۔ نہایت کالا اونٹ اور گھوڑا۔

جونۃ (ف س) آفتاب۔ ہنڈیا کالی اوزمنی

جونالی (ف س) کنپٹی کی دو طرفین۔

جونۃ (س ف) چشمہ آفتاب سرخ سیاہ۔ خم جسکو رال ملی ہوئی ہو۔

جونۃ (س ف) عطر کا ڈبا جمع جون (ف) جمع

جونۃ (س ف) گھوڑے کی سیاہی عطارون کی چمڑے کی پٹاری۔ جون (ف) جمع۔ چھوٹا پہاڑ۔

جونۃ (س ف) (س) سیاہ ہونا۔

جونی (س ک س) ایکطرح کا شکوار جانور کہ اوسکا سینہ کبود یا زرد و سیاہ ہوں

جوہرۃ (ف س) ترش ہو سے یعنی منہ کا چڑھا ہونا۔

جوشا (ف س) رات گئے تھوڑا مستعمل ہے

جوۃ (س ف) یعنی جاگئی (ف س) سخت زمین که مائل بسیاہی ہو۔

جہر (ف س) مرد کا حال اور راز معلوم کرنا

ہونا۔ ...

جہر (ک ب) ... دیکھنے کے لائق خوبصورت

جہرا (ف ر س) آنکھ کا آفتاب

میں چوندھیا جانا۔

جہراء (ف ع م) عورت خوبصورت دیکھنے

کے لائق ہے جیب پوسی پیدائش کی

احوال ... دیکھنے کے لائق ... وہ عورت

کہ آفتاب میں دیکھنے سے ...

سپیدی پیشانی سے اوسکا تمام چہرہ

گھیر لیا ہو ... زمین ہموار کہ اوسمین

درخت اور ٹیلا ہو ... آنکھ کہ کوئی

ڈھیلا ... سے اوگلا پڑتا ہو

قبیلہ کے بزرگ لوگ۔

جہرۃ (ف س ف) آشکارا۔

جہرمیتہ (ف سکلتف) ایک قسم کا فرش

ہے کہ منسوب ہے شہر جہرم کیطرف۔

جہز (ف س) (ف) گھائل کو مار ڈالنا

جیسے جہز علی الجریح ۔

جہراء (ف ع م) اونچی زمین یا کھمب

اوسکا ڈھیلا باہر کو نکلا پڑے ۔

جہش (ف س) جہوش (ف ع م)

جہشان (ف ع م) ... کیطرح جسے

اپنے طرف رونے کے لئے آمادہ ہو

... زمین میں ... پھیرنا۔

جہشان (ف ع م) ... ڈرنا اور بھاگ جانا

جہشتہ (ف س ف) آنسو۔ لوگوں کا گروہ

جہض (ک ف) (ن ک) یعنی جہیض (ک س)

جہض (ف س) (ف) کسی پر ایک

کے رہائی ... کے لئے غالب ہونا

شکار کو باز کے چنگل سے یا کسی شکاری

سے چھڑا دینا۔

جہضم (ف سف) مرد بڑے سر کا گول

چہرہ کا کشادہ پہلو کا فراخ سینہ کا شیر

جہل (ف س) جہالۃ (ف سف) (ص) ...

سمجھانا ... نادانی سے ... جہل علیہ اپنے تئیں

نادان ظاہر کیا۔

جہم (ف س) عاجز ضعیف شیر ... لغات

اضداد سے ہے۔

جہم (ف س) (ف س) کسیکو منہ چڑھانا

جہم (ک ف) چہرہ چڑھا ہوا بھونڈا۔

جہمۃ (ف سف) رات کی اخیر چوتھائی کا

شروع۔ اول شب سے چوتھائی تک

یا آخر شب کی سیاہی کا بقیہ۔ ...

جہمیۃ (ف سکلتف) مسلمانوں کے بہتر

فرقوں میں سے ایک فرقہ جہم بن

۹۸۱

ماده

[illegible]

جُماَّتہ (فسف) جھو متہ (فضسف) رنگی) شہد چرہا ہو جانا۔

جُماّنہ (فضس) جوان لڑکی۔

جہنک (فس) بڑا باجرہ جھونڈا۔

جہبذ (کسک) عقلمند یا کو پرکھنے والا

جَحیل (فسف) بزکوہی بڑے سر کا یا بڑی عمر کا۔ یا بزکوہی نر بانا۔

جحشلہ (فسف) عورت بھوتلی موٹی

جُہشتہ (کعف) کنارہ۔ ناحیہ طرف۔

جہات (فض) جمع۔

جہجہت (فس) (ف) اٹکانے و قر ہو جانا غصہ یا خوشی سے۔

جہجہہ (فسفف) درندہ پر آواز مارنی تاکہ اوسے روکے۔

جہد (فس) (ف) کوشش کرنی آزردہ ہونا جیسے جہد جہد طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا اور اوسکو رنج دینا جیسے جہد دابتہ۔ آزمانا جیسے جہد بہ بیماری کا او بلا کرنا جیسے جہد المرض فلانا معدہ میں سے سنا یا اسکو نکال لینا جیسے جہد اللبن۔ طعام کا آرزومند ہونا اور بہت کھانا جیسے جہد الطعام۔

جہد (فضک) (س) زندگانی کی سختی اور ناخوش ہونا جیسے جہد عیشہ

جہد (فس) قوت کوشش رنج و مشقت

جہد البلاء یمان بڑی پکی قسم

جہد البلاء وہ حالت کہ اوسمین موت کو زندگانی پر اختیار کریں ۔ کنبہ کی بہتات اور مفلسی۔

جہر (فس) سخت گیلا۔ بہس زمانہ کا ٹکڑا

جہر (فس) (ق) آشکار ہونا جیسے جہر جہرا۔ کلام کو آشکار کرنا جیسے جہر بالکلام و بالکلام سلازم اور متعدی دونوں آتا ہے۔ پڑھنے میں آواز بلند کرنی جیسے جہر الصوت۔ لشکر کو بہت گننا جیسے جہر الجیش۔ بے جانے چلے جانا زمین میں جیسے جہر الارض۔ بے پردہ دیکھنا مرد کو اور اوسکو قابل دیدار پانا جیسے جہر الرجل۔ دودہ کی مشک کو ہلانا تاکہ دہی ہو جاوے جیسے جہر السقاء۔ کنواں پاک کرنا یا سارا پانی کھینچنا یا کوئیں کے پانی تک پہنچ جانا جیسے جہر البئر۔ ایک شی کو کشادہ اور برہنہ کرنا جیسے جہر الشی۔ کسی کی بزرگی کرنی۔ ایک چیز کا اندازہ کرنا۔ صبح ہی صبح بے اطلاع کسی کے پاس جانا

جَجِیّ (فس) طعام و شراب کی طرف بلانا۔

جُجَیار (کفسم) جنگ کا غلاف۔

جَیّاءٌ (فقفس) آنے والا۔

جُجَیابِر (کفسم) جواور (کفسم) ہنڈیا کا غلاف چمڑے وغیرہ کا۔

جُجَیاء (فسم) جِیاءَۃ (فسعف) (ض) آنا۔ آنے میں کسی پر غالب آنا۔

جَیّاءَۃ (فسعف) ہیپ خون لگانا۔

جُجَیاءَۃ (کسعف) جِیئَۃ (کتف) یعنی جِیئَۃ (کف) یعنی پانی ٹھہرنے کی جگہہ۔

جُشّار (فقفس) چونا اور چیزوں سے ملا ہوا کہ حوض وغیرہ پر ملتے ہیں عنصر اور بھوک کیسب دل کی گرمی۔

جُجَیاش (فقفس) گھوڑا جو ذراسی پاؤں کی حرکت میں تیز چلنے لگے۔

جُجَیاط (فقفس) صیغہ نعت از جیفان (فسفس) ناز سے چلنے والا جسکی قبا کے دامن زمین سے رگڑتے جائیں۔

جَیّاع (فقفس) بعنی جائعہ (فسکف) بمعنے زن گرسنہ۔

جَیّاف (فقفس) کفن چور۔

جَیّال (فسعف) گفتار جانور بجو جس کی مثل ہے ہو امشی من جیأل اسمین

دو لغت اور بھی ہین جیئل (فعف) ہمزہ اولا جَیْل (فسف) الف لام سے ساتھ جیائل (فعفسک) جمع۔

جُجَیالہ (فسفعف) یعنی جیال (فسف)

جُجَیابۃ آمدہ بُجرح زخم کی پیپ لہو سیل

جُجَیاوَۃ (کفسف) ہنڈیا کا غلاف

جَیْب (فس) گریبان جیوب (فقفس) جمع۔

جَیْب (فس) (ض) کُرتے مین گریبان بنانا

جَیْبُ الاَرض زمین مین آنے کی جگہہ

جِیئَۃ (فسعف) جواب۔

جِیئَۃ (کف) پانی بیہودار گندہ ٹھہرا ہوا بندپانی۔ چہہ جیئہ کہ جسمین سڑھیلا کچیلا پانی جمع ہووے۔ گو ان بدبو گندہ۔ پانی ٹھہرنیکی جگہہ۔

جِیئَۃ (کف) جوتی کا پیوند تسمہ جس سے جوتی سیوین۔

جَیْبَر (فسف) لھنگا مرد۔

جَیَّثَ (فعف) (س) اوٹھنے کے وقت یا بھاری چیز کو اٹھانیکے وقت بھاری ہونا

جَیْبَر (فعف) (س) غمگین اور خاطر افسردہ ہونا۔

جِیْتلوط (فقفس) ایک گالی ہے عورتوں کی مخترعات سے کسی سے

جمہور ... منسوب -

جمہوری (ن) ... کی مٹھائی ...

جمہوری (ن) ... دریا کی ریل ... ایک

... سے جنگل تک ...

... جنگل کے متصل ہو گئی ہے

اوسے ... کہتے ہیں

جمہم ... بڑا گہرا کنوان -

جمہمہ (مفتف) ... کی آخیر جو چھائی گئی

شروع یا آخر شب کی سیاہی کا ... -

جمہند (فسف) ایک قسم کا خرما -

جمہنم (فتف) دوزخ کا نام ... بجھانے

... جمہنم بہت گہرا کنوان -

جمہوا (فسم) کوئی برہنہ ... آسمان

صاف بے ابر -

جمہوۃ (فسف) کوئی برہنہ - ٹیلا -

اونٹنی ... -

جمہور (فسف) مرد دلاور -

جمہور الصوت بلند آواز بلند سخن ہونا

جمہورۃ (فسف) سخن بلند کہنی -

جمہورۃ (فسف) جمارۃ (فسف)

... دیکھنے کے لائق ہونا مرد کا -

بلند سخن ہونا - بلند ہونا آواز کا -

جمہوری (فسف) مرد خوبصورت

... دیکھنے کے لائق -

جمہوری الصوت بلند آواز مرد -

جمہوش (فضس) جو کہ ایک جگہہ قرار

نہ پکڑے اور ... جگہہ پھرتا پھرے

جمہوضۃ (فسف) ... کی تیزی ...

جمہول (فضس) ناداں ... جمع

جمہم (فضس) عاجز ضعیف -

جمہون (فضس) ... نزدیک ہونا -

جمہ ... منع کرنا روکنا - گھر کا

جمہی (رفف) ... خراب و ویران ہو جانا

جمہید (فکس) ... یعنی جو پانی

بہت ... عرس ... یعنی

تیز رو گھوڑا ... دوڑنے والا -

جمہیدی (فسف) کوشش -

جمہیر (فکس) مرد دیکھنے کے لائق خوب

صورت اور لائق احسان کرنے کے

جمہیراہ (فسم) ... - دودہ خالص بے

پانی کے - اونچی آواز کی بات -

جمہیر (فکس) ... - ... جمہیر ...

جمہیرۃ (فکسف) بھیڑیئے کا نام یا مادہ ...

کفتار یا بچھو کی مادہ یا بچھو کا بچہ -

جمہیض (فکس) پیٹ میں سے جو

بچہ گر پڑا ہو پورا ہو یا ناقص -

جیشان (فقفس) [illegible] جوش
دریا کا ہانڈی کا آنکھ کا - دل کی شورش
اور نکلا پڑتا مارے [illegible] کے
جیشت (فسفت) ایک جبشی [illegible]
جیص (کس) [illegible] کے لوگوں کا ایک
کھیل ہے کہ [illegible] گٹیوں سے کھیلتے ہیں
جیص (فس) [illegible] پھر جانا
جیص (کفت) [illegible]
جیض (فس) یعنی جیص (فس)
جیضی (کلف) یعنی جیض (فس)
جیظ (فس) ہاتھ سے [illegible] ہوئے
چلنا [illegible]
جیظان (فقفس) [illegible]
چلنا - گرانا [illegible] چلنا -
جیعر (فسف) کفتار جانور -
جیعم (فسف) بچھو کھانا -
جیف (فس) [illegible] سڑ جانا مردار کا
جیفان (فسفس) یعنی [illegible]
جیفۃ (کسف) [illegible]
(کف) جاجیاف (فسفس) [illegible] جمع -
جیفر (فسف) شیر قوی -
جیفل (فسف) ذیقعدہ مہینے کا نام -
جیل (کس) لوگوں کا ایک گروہ کہتے

[illegible]
و جیش ہے - اجیال (فسفس) [illegible] جمع
جیشی (فس) [illegible] جیال (فس) [illegible]
جول (فس) [illegible]
جیلان (فقفس) [illegible]
ہو [illegible]
جیلانی (فسففات) [illegible]
[illegible]
جیلم (فسف) [illegible]
جیم (کس) [illegible]
مستان ہے - دریا [illegible] ایک قسم کا [illegible]
معروف تہجی میں سے ایک حرف
ہے لفظ [illegible]
جیم جیما یعنی [illegible]
جیوہ (کفف) قحط -
جیوزہ (ففس) [illegible]
[illegible]
جیوق (فسفس) [illegible]
جیہر (فسف) ایک قسم کی مکھی کہ
گوشت کو [illegible] دیتی ہے
جیہل (فسف) [illegible]
[illegible]
جیہلہ (فسففہ) یعنی جیہل [illegible]

[illegible]

جیحون (فتح عسف) ایک دریا ہے ... کا
[illegible] سے کہاں بتاتے ہیں -
... سنی -
جیحون (ضم فسف) ... کی ہر کہ ...
... ہے -
... ایک کا بالا کو توڑ دینا
جیدر (کس) گندہ - جیود (فتحس)
اجیاد (فسفس) جمع - سینہ بند -
جید (فت) اچھا - جیاد (کس) جیادات
(کفسفس) جیاد کی جمع -
جید (فعا) گردن کی لنبائی اور خوبصورتی
جیدا (فسم) جیدانہ (فسفس)
عورت جسکی گردن لنبی اور خوبصورت ہو
جیدلہ (فسفس) چھوٹے قد کا مرد -
جیدان (فسفس) بمعنی جیدی -
جیدرہ (فسف) چھوٹے قد کی عورت
جیدری (فسفف) چھوٹے قد کا مرد

[illegible]
دلدار ... اور ...
[illegible]
... ایک ... ہے ...
کا ... نگی -

جیر (کف) ... مبہم
جیر (فس) ... بمعنی ... وفا دیکھی -
جیر (فت) ...
جیر (ف) ... ذلیل ہونا
جیرہ (کف) ...
جیرن (کس) ... دیکھا کنارہ -
جیرہ (کسف) ... جیرہ جیر (کس)
جیر (کف) جمع - سند یکا کنارہ - ایک
رات دنکا توشہ کہ مسافر کو دیوین -
جیسوان (فسفس) ایک قسم ہے اچھی
کھجور کے درختوں میں سے معرب ہے
گیسوان بمعنی زلف کا -
جیش (فس) لشکر - مددگار - جیوش
(فسفس) جمع -
جیشہ (کس) شنلید گھاس کہ جسے
حلبہ بھی کہتے ہیں -
جیفق (فس) جیوش (فسفس)

حاقی (فتک) بہت شراب پینے والا
حاشیاد (فسکفسم) جنگلی چوہے کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ یا اوسکے سوراخ کی خاک۔
حاج (فس) ایک خار دار درخت ہے۔
حاج (فست) حاجی (فسف) حج کرنے والا۔ حجاج (فتفس) جمع حُجّاج (فکس) حج (فت) جمع۔
حاجیة (فسکتف) حج کرنے والی عورت۔ حواج (فتفس) جمع۔
حاجب (فسک) روکنے والا۔ پردہ دار۔ دربان۔ حجبة (ففف) حجاب (فتفس) جمع۔ بھوں کی ہڈیاں مع گوشت اور بال کے اور وہ دو ہیں بھوؤں کے پاس
حواجب (فقسک) جمع۔ آفتاب کا کنارہ جو پہلے ہی نکلتا ہے۔ ہر چیز کا کنارہ۔
حاجة (فسف) احتیاج۔ نیاز۔ حاج (فس) حاجات (فسفس) حوائج (فکفس)
حوائج (فقسک) جمع۔
حاجر (فسک) اونچی زمین کہ اوسکا بیچ پست ہو۔ نالے کے گڑھے کا کنارہ کہ پانی اوسمیں سے باہر نہ نکلے۔ حجرات (فسفس) جمع۔ وہ جگہہ جہاں زمین گھاس اوگے اور اکھٹی ہووے۔
حاجبو ایک منزل ہے بادیہ میں
حاجر (فسک) حاجب حائل حائط۔ حجرة (ففف) جمع۔
حاجلات (فسکفس) اونٹ جنگلی گائیں کاٹ ڈالی ہوں اور وے ایک پانوں پر کود کر چلیں۔
حاجم (فسک) خون نکالنے والا۔ پچھنے لگانے والا۔
حاجور (فسفس) نالے کے گڑھے کا کنارہ کہ پانی اوس سے باہر نکلنے پاوے۔ حرام۔
حاجورة (فسفسف) لڑکوں کا ایک کھیل ہے اسطرح پر کہ ایک مدور خط کھینچتے ہیں اور اوسکے درمیان ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے اور اوسکے پکڑنے کے لیئے اور لڑکے چار طرف سے اوسے حلقہ میں گھیر لیتے ہیں۔
حاحاة (فسفف) لوگوں کو بلانا یا گانا
حادثة (فسکف) یعنی حدثان
حادر (فسک) مرد گول بدن کا سیر جوان نئی اوٹھتی جوانی کا موٹا خوبصورت با جمال۔

# باب الحاء المہملہ [illegible]

حاجز (ش) ایک نوع حنظل میں سے
حاثیر (ش) گناہ بکسر یا یک [illegible] جس سے اونٹ کو باندھتے ہیں —
حاجب (مف) تیر کہ نشانہ کے گرد جا پڑے حواب (مف) مستعد جمع —
حاثمہ (مف) گناہ —
حاجس (مف) سوچنے والا —
حاجیہ (مف) تیر کہ پھینکنے والے کے آگے ہی گر پڑے —
حابل (مف) جال پھیلانے والا باندھنے والا جادوگر ایک زمین ہے — حابلہ اور حابل کہتے ہیں بانہ کو سو سمار جیسے خوار یعنی انگور وخار دار درخت جو [illegible]
حابلہ (مف) حاملہ عورت حبالہ (مف) جمع ہے —
حانوت (مف) شراب نوشوں کی مجلس یعنی خرابات مے خانہ —
حاجول (مف) رسی کہ جس سے کبوتر پکڑتے ہیں —

حاتج (مف) مرد جسکا کنبہ بڑا ہو [illegible] ہر [illegible] جسکا چھوٹا زمین میں نشانہ پر [illegible]
حاجر (مف) [illegible] ایک گھاس ہے —
حاشیہ (مف) وہ ریت جس میں گھاس اگے —
حاصل (مف) شہد ہے جنگل پہاڑ کا —
حاتم (مف) قاضی حتوم (مف) جمع — کالا کوا کہ جسکے پانوں اور چونچ سرخ ہوں جسکو غراب البین کہتے ہیں اسلئے کہ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جدائی کا حکم کرتا ہے جہاں وہ بولا اور فراق ہوا —
حاتم طائی بن عبداللہ بن سعد ایک سخی عرب تھا سخاوت میں خوب ضرب المثل ہے کہتے ہیں کہ وہ حاتم سے بھی زیادہ سخی ہے —
حاتن (مف) دن جو گرمی میں اول سے آخر تک یکساں ہو یعنی بادسموم کی گرمی یکساں ہو —

بسبب کلان سالی کے جسکا بدن گل
گیا ہو اور اوس مین سوا سر اور
جان اور زہر کے کچہہ نرہا ہو۔
حَازِر (فسکت) کلکا کو جو اوسکے
سینہ کی چکتی مین ہو اوسکے ہاتہہ کی
کُہنی کی ہڈی سے ہو جاتا ہے۔
حَازِبٌ (فسکک) سخت امر
دشوار کام جزب (فضتس) ہوا
(ففسکک) جمع حُزب
حَازِرٌ (فسکد) کہتّا دودہا
کہتی ہوئی ناخوشی عالم چہرہ ہا
چہرہ - جرد کا آنا کہ بولا اوسکی اچہا ہو
حَازِقٌ (فسکک) جسکے پانوون
کو تنگ موزہ نے بہینچ دیا ہو۔
حَازِقَۃ (فسککف) جماعت گروہ
حَازِیٌ (فسکک) جو ہتہیلی اور
تل دیکہہ کر فال نکالے۔
حَاسِبٌ (فسکک) حساب لینے والا
حَاسَّۃ (فسیتف) پانچ حواس
مین سے ایک حاسّہ جو جلا ہو
حَاسِدٌ (فسکک) صیغہ اسم فاعل
یعنی حسد کرنے والا حسد (ضفف)
حسّاد (فتفس) حسدۃ (ففف)
جمع حُسّدٌ و (ففضس) حَسَدی صیغہ
لغت ہے بمعنی حاسد (فسکک)
حُسّد (ضفض) جمع۔
حَاسِرٌ (فسکک) ننگا جنگی مرد
کہ زرہ اور خود نرکہتا ہو حُسّر جمع
سر کہلنے سے تہک گیا ہو۔
حَاشٌ (فسکک) چاند حاسن
(فسکک) حسین (ففف) حسان
(ضفض) خوب اور نیک مرد
خوبصورت مرد حسان (فضکک)
جیسا ہون ہالکسفیس) جمع۔
حَاسُوسٌ (فضلقس) جاسوس
سخت کال کا سال۔
حَاسِی الذَّہَب ابن جدعان کا
لقب اسلئے کہ وہ اپنے ایک سونے
کے برتن مین پانی پیا کرتا تہا۔
حَاشَ لِلّٰہ معاذ اللہ۔
حَاشَا (فسفسم) صعتر کے
مشابہ ایک گہاس ہے جسے شہد
کی مکہی کہاتی ہے۔
حَاشَاکَ (فسفسف) حاشا لک
(فسفسفف) دور رہو تم۔
حَاشِدٌ (فسکک) وہ جو ناقہ کو

[illegible]

حادث [illegible]

[illegible]

مین [illegible] نشیب

حافر (بفتح) [illegible] اسپ [illegible]

حافظ [illegible]

حاق [illegible]

[illegible]

حادثہ (بفتح) حالت۔

حاذر (بفتح) ڈرنے والا

حاذق (بفتح) [illegible] ہوشیار کامل

حاذلہ (بفتح) [illegible]

[illegible] آنکھ کی۔

حاذورہ (بفتح) [illegible]

[illegible] ہوشیار پرہیزگار۔

حار (بفتح) گرم [illegible]

کے [illegible] کا بال۔

حارہ (بفتح) چھوٹا گانو جس کے

گھر ایک جگہ ہوں۔

حارث (بفتح) شیر۔ کسان

حارج (بفتح) مرد گنہگار۔

حارس (بفتح) نگہبان۔ حرس

(بفتح) احراس [illegible]

[illegible]

[illegible] بچھڑا [illegible]

[illegible]

حارض (بفتح) [illegible] مرد [illegible]

[illegible]

حارش [illegible]

حارق (بفتح) [illegible]

حارقہ (بفتح) [illegible] عورت جس کی

[illegible] مرد کے [illegible]

[illegible] جماع [illegible]

[illegible] کام [illegible]

عورت [illegible] شہوت۔ عورت [illegible]

[illegible] عورت کو [illegible]

[illegible]

حارقتان (بفتح) [illegible]

[illegible] یا دو [illegible]

[illegible]

حارکہ (بفتح) چوپایہ کے شانہ کا

سرا اونچی ہڈی [illegible] جاب

گھوڑے کی پیٹھ کی طرف سے بال

لگنے کی جگہ [illegible]

حاروف (بفتح) [illegible] جماع۔

حاریہ (بفتح) بہت [illegible] سانپ

**حاطورۃ** (فسفسف) تیز تلوار کاٹنے والی۔
**حاطوم** (فسفضس) قحط سال ہضم کی دوا حواطیم جمع۔
**حاظب** (فسک) صیغۂ نعت خظوب سے۔
**حاف** (فست) ایک چیز کو گرد اگرد سے گھیرنے والا سبزی نظر بد لگانے والا۔ ستو کہ لتھے ہوئے نہوں۔
**حافان** (فسفسک) دو سبز رگین کہ زبان سے نیچے ہوتی ہین
**حافۃ** (فسف) حاجت۔ شدت اناج گاہنے کا بیل کہ کھلیان کے کنارہ پر ہو اور بہ نسبت اور اپنے ہمراہی بیلون کے زیادہ گردش کرے۔
**حافتا الوادی** نالہ کے دو کنارے
**حافات** (فسفس) جمع۔
**حافد** (فسک) خدمتگار مددگار حفدۃ (ففف) جمع۔ صیغۂ نعت ہے حفد وغیرہ سے۔
**حافر** (فسک) چوپایہ کا سُم حوافر جمع

**حافرۃ** (فسکف) ہر چیز کا شروع پہلی پیدائش۔ پہلی حالت۔
**حافز** (فسک) دو جگہ جہان کنج دہن چہرہ کیطرف دوہرے ہوتے ہین۔
**حافشۃ** (ضسکف) پانی کا رستہ حوافش جمع۔
**حافظ** (فسک) بمعنی حفیظ حفاظ حفظۃ جمع۔ کہلا سید ہارستہ۔
**حافظ العین** جاگتا مرد جسپر نیند غلبہ نکرے۔
**حافظان** (فسکفس) گرسنگی و برہنگی۔
**حافل** (فسک) پستان جسمین دودھ بہت ہو اور دودھ بھری ہو حفل جمع۔ بکری بہت دودھ دینے والی۔ بڑے سیل کا نالہ حافلہ (فسکف) ناقہ جسکی پستان مین دودھ بہت ہو۔
**حافی** (فسک) قاضی۔ ننگے پانو پانو اور کہر گہسا ہوا حفاۃ جمع
**حافیرۃ** (فسکسف) ایک مچھلی ہے کالی۔

۹۹۱

فی موضعہ - خوشہ جس میں
خوشے کے غنچے ہیں پھل ہوں - حشف
(ضمتین) جمع
حاشر (فتح) جمع کرنے والا
حاشکۃ (فتح) ابر تلے آنے
والا حاشک جمع [illegible]
حاشیہ [illegible] الاستغنی [illegible]
حاشیہ (فتح) [illegible]
پھوڑا [illegible] کپڑے کی
[illegible] سرخ کے [illegible]
آدمی کا ہمسایہ [illegible] (فتح) جمع
۹۹۰ حاشیتان (فتح) اونٹنی
کا بچہ ابن مخاض اور ابن لبون
حاصب (فتح) تیز ہوا جو
کنکری [illegible] اڑا لیجاوے - سرخ
کے کنکر [illegible] ہو کر گرتی
بادل جو [illegible] طرف برساوے -
کنکری
حاصد (فتح) کھیتی کاٹنے والا
حصدۃ (فتح) حصاد (ضم) جمع
حاصل (فتح) ایک چیز میں
سے جو کہ جدا جاوے اور [illegible]
کے ثابت اور باقی رہے -

حاصن (فتح) جاصنة
(فتح) حصنا [illegible] صیغہ
نعت ہے حصین (فتح) سے حواصن
(فتح) حاصنات (فتح) جمع
حاصۃ [illegible] وہ بیماری جو
سر کے بال گرا دے -
حاضر (فتح) حاضر ہونے والا
حضر (فتح) حضور (فتح) جمع
شہری مرد ضد بدوی - پانی میں آنے
والا حضار (فتح) حضرۃ (فتح)
جمع [illegible] پہاڑ
[illegible] کا ایک -
حاضر [illegible] (فتح) شہر خلاف بادیہ
ہاتھی کا کان -
حاضن (فتح) صیغہ نعت ہے
حضن (فتح) سے حضان (فتح)
جمع - حاضنۃ (فتح) دائی
اور وہ عورت جو بچہ کی خبر گیری میں
رہے گود میں لینے والا بچہ کو - کھجور
کا درخت جس [illegible] خوشہ لگیں
حاطب اللیل جو رات کو لکڑیاں
اکٹھی کرے - وہ جو بری بھلی بات
لا کرے -

خلیتہ (فلف) عورت بازیور زیور پہننے والی۔

خالات الدہر زمانہ کی گردشیں

خالب (فسک) رانکی جڑ کی رگ کہ اوسکے رستہ سے گردہ میں سے مثانہ مین پیشاب آتا ہے اور وہ دو ہین۔ دودھ دوہنے والے مرد حلبتہ جمع۔

حالۃ (فسف) ہو ایک چیز کی گردش۔ آدمی کی کیفیت۔ وہ کہ جسپر آدمی ہے۔ حال حالات جمع

حالز (فسک) تنگ حلب جانتے بولتے ہین۔

حالق (فسک) بھرا اور بہرا ہوا پستان دودھ سے بھری خلق حوالق جمع۔ انگور کی بیل جو درخت پر پڑ گئی ہو۔ کوہ بلند۔ جاے بلند۔ بے برکت شخص۔ سر مونڈنے والا حالقۃ جمع۔

حالقۃ (فسکف) قرابت شکنی کو قطع کرنا۔ عورت جسنے مصیبت پڑنے کے وقت سب اپنے سرکے بال مونڈ ڈالے ہون۔

بے برکت۔

حالک (فسک) بہت کالا۔

حالم (فسک) محتلم۔ بالغ۔

حالوقۃ (فسفسف) بڑے کاٹ کی تلوار۔ مرد جو کام کاٹ دے

حالوم (فسفس) ایک طرح کا پنیر ہے یا اچھا ہوا گاڑہا دودہ کہ تازہ پنیر کے مشابہ ہو۔

حالیۃ (فسکف) ایک سانپ جو بڑا موذی بدذات۔ عورت جو چمڑے کے فرش پر سے چرک دور کرے۔

حامتۃ (فستف) چنا ہوا اور چھٹا ہوا شخص اپنے کنبے اور اولاد مین سے چنے ہوئے چھٹے ہوئے اونٹ۔

حامت (فسک) بہت شیرین خرما۔

حامر (فسک) گدہے والا۔

حامرۃ (فسکف) جو کہ گدہے کو کرایہ کو دیوے۔

حامز الفواد مرد تیز فہم عقلمند خوشطبع سخت دل۔

۹۹۳

حاق (فتحہ) ہر چیز کا بیچ اور درمیان

حاق الجوع بہت بہوکہہ ہے

حاق الرجل جو اکثر وہی ہین پورا مرد

حاق الشجاع پورا شجاع

حاقب (فسک) جسکے پیٹ میں قبض ہو

حاقر (فسق) ہلاک کرنے والا

حواق جمع قیامت

حاقۃ الرجل پورا مرد جو اکثر

حاقۃ الشجاع شجاعت مین پورا

حاقرہ (فکفۃ) عورت پاؤن سے دبانے والی

حاقف (فسک) ٹیڑہا

حاقن (فسک) جسے پیشاب جلدی لگتا ہو سنیا چاند جسکے دونون کنارے ٹیڑہے ہون

حاقنہ (فسکف) معدہ۔ گڑہا جو چنبر گردن اور شانہ کے درمیان مین ہے اور وہ دو ہوتے ہین زیرین شکم کو اقن جمع

حاقورہ (فسفسس) جو ہاتھ

حاقوا (فسفسس) ایک

جیل ہے جمع ...

حاکۃ (فتعف) دانت

حاکل (فسک) دشوار پوشیدہ

حاکم (فسک) حکم کرنے والا قاضی احکام (فتفسس) جمع خدا تعالیٰ کے نامون مین سے ایک نام ہے

حال (فس) آدمی کی کیفیت وہ چیز کہ جسپر آدمی ہے۔ ہر ایک چیز کی گردش۔ وہ وقت کہ جسمین تم ہو احوال احوالۃ جمع کالی مٹی خاک۔ سبز درخت کے پتے کہ کپڑو نمین انکو ڈالا ہو جوروہ دو وہ سبز بودار کیچڑ پنگوارہ بچکی گاڑی جسکے سہارے سے وہ چلتا ہے۔ گہوڑے کی پیٹھ پر غدہ کی جگہہ۔ ریڑہ کی ہڈی گرم راکہہ۔ چادر جسمین بچہ رکہکر باندہا ہو

حالّ (فسعت) اوترنے والا حلول (ضفسس) حلال (ضفسس) حلل (ضتعف) جمع۔ واجب

حال (فس) حالیۃ (فسکف)

گیہون بہت ہون۔ غضا درخت
کا پہل۔ اخضر کی تاکید یعنے نہایت
سبز۔
حانظ القصرة بڑی تہیلی والا۔
بہت درہم والا۔
حانظ الی کذ میرا دشمن سخت
مجہسے کینہ رکہتا ہے۔
حانک (فسک) اسود کی تاکید
کے لیے آتا ہے یعنے نہایت کالا۔
حانوت (فسفس) می فروش
کی دوکان حوانیت جمع۔ می فروش
حانوت (فسفس) حانیة
(فسکف) حاناة (فسفس)
شراب فروش کی دوکان۔
حانی (فسک) یہہ لفظ اخضر کی
تاکید کے لیے آتا ہے یعنی نہایت سبز
حانیة (فسکف) عورت کہ بچون پر
مہربانی کے سبب سے خاوند نکرے
بکری کہ بغیر علت کے اپنی گردن
کو کج کرے۔
حانیة (فسکتف) شراب۔
شراب بیچنے والا۔
حاو (فسک) حوار (فتفسم)

سانپ پکڑنے والا سنپیرا۔
حاویة (فسکف) حاویا (فسکفسم) چکنی انتڑی حوای جمع
حائت (فسک) بہت ملامت
کرنے والا۔
حائج (فسک) ایک خاردار
درخت ہے۔
حائر (فسک) سرگشتہ مرد کہ
اخروج کارکو نہ جانے۔ پانی جمع ہونے
کی جگہہ۔ گڑہا جسمین مینہہ کا پانی
جمع ہو جاوے۔ نشیب۔ باغ۔
حوران (فسفس) حیران (کسفس)
جمع۔ گوشت کی چکنائی۔ کربلا۔
دبلا۔ چکنائی۔
حائر بائر [illegible] دہالک وکاسد
حائرة (فسکف) بکری اور
عورت کہ ہرگز جوان نہون۔
حائش (فسک) درختونکا انبوہ
حائص (فسک) ناقہ جس سے
نر بسبب اوسکی تنگی اندام
کے جفتی نکر سکے
حائض (فسک) حائضة (فسکف)
صیغہ لغت یعنے بے نمازی عورت

حَامِزَۃ (فسکف) کھٹا انار ترش
حامز جو بولتے ہیں
حَامِض (فسک) کھٹا ترش
حامض الفواد جسکا دل متغیر
اور فاسد ہو
حَامِل (فسک) لغت مذکر حمل سے
حَمل (کف) اور غلا ننا ابر انگیختہ
کرنا — حاملہ ہونا عورت کا — پھل
دار ہونا درخت کا — اپنے چوپایہ
پہ سوار کر لینا کسی کو — لڑائی مین
دشمن پر حملہ کرنا — ضامن و کفیل
ہونا — غصہ ظاہر کرنا —
حَامِلَۃ (فسکف) جھولیان جسمین
انگور بھر کر کھلیان کیطرف لاوین
پھلدار درخت —
حَامِلَۃ (فسکف) لغت مونث حمل
حَامِی (فسک) پرانا سانڈ جسکے
دس حمل رکھے ہون اوسکو
آزاد کردیتے ہین اوس پر سوار
نہین ہوتے اور اوسکے بال اور
پشم نہین کاٹتے اور اوسے چھوڑ
دیتے ہین جہان چاہے چرے —
تشبیہ

حَامِی الحقیقہ وہ شخص جو اپنے
احاطہ کی حمایت کرے —
حَامِی الصنا وہ سخت گرم دن
حَامِیَۃ (فسکف) ایک مرد یا ایک
گروہ جو اپنے لوگون کی حمایت کرین
چولھا — پتھر کہ جس سے کوئین کی
منڈیر بناوین اور بولتے ہین ہو
علی حامیۃ القوم یعنے وہ سب مین
آخر شخص ہے کہ قوم کے کام مین
حمایت کرتا ہے — اور بولتے ہین
نصیحت علی حامیتی یعنے مین اپنی
جہت اور مقصد پر جاری رہا —
حَامِیَتَان (فسکففس) گھوڑے
کے سُم کے دو کنارے دائین
اور بائین سے حوامی جمع
حَامِیم (فسکس) سات سورتین
قرآن شریف کی کہ جنکا شروع حم کے
ساتھ ہے —
حَانِیَۃ (فسکف) شراب کی دکان
حانات جمع —
حَانِتَۃ (فسکف) ناقہ
حَانِط (فسک) مرد جسکے پاس
گیہون ہون — مرد جسکے پاس

چار چوبہ ... [illegible]
اور ادنی ... ہوا [illegible]
ذکر ... [illegible] ... راست
سر ... [illegible] ... ہیں ... [illegible]
سکھانا ... [illegible]
میں ... [illegible] ... اور
مرغوب ہوا [illegible]
حبا ... [illegible] ... ہوا ہے
حبا ... [illegible] ... نفس ... [illegible]
سخاوت ... [illegible]
ہاتھ ... [illegible] ... کرنا
حبا ... [illegible] ... کسی کی
طرف ... [illegible] ... سے بدلہ
اور احسان ... [illegible] ... کرنا
حبا ... [illegible] ... بادشاہ ... [illegible]
اور ... [illegible]
احباء ... [illegible] جمع
حباشہ (بضم) ... [illegible]
کی ... [illegible]
حباب الماء وہ جگہ جہاں
پانی ... [illegible] ... پانی ... [illegible]
جو ہوتے ... [illegible] ... ظاہر ہوتی
ہیں بلبلہ

حباب ... [illegible] ... گوشوارہ
ایک ... [illegible] ... آیس
[illegible] ... کی جمع
حباب (بضم) دوستی ... [illegible]
سانپ - دوست - حبابہ
(بفتح) ... [illegible]
حبابہ (بفتح) ایک ... [illegible]
جانور ... [illegible] ... کا ... [illegible]
حباب (بضم) جمع
حباتہ (بفتح) ... [illegible] ... کا ... [illegible]
... [illegible]
حباد (بفتح) ... [illegible] ... کا ... [illegible]
... [illegible] ... والا
حبا ... [illegible] ... یعنی ... [illegible]
(بفتح) یعنی ... [illegible]
حبال (بفتح) یعنی ... [illegible]
... [illegible] ... گوشت ... [illegible]
حباج (بضم) ایک درخت ہے
... [illegible] ... درخت
حبا ... [illegible] ... ہوتا
حبا ... [illegible] ... کا
حبا ... [illegible]
حبا ... [illegible] ... ایک ... [illegible]

حوائض (فسک) حیض (فتف) جمع
حائط (فسک) دیوار حیطان
حیاط جمع - باغ جسکی دیوار ہو جمع
حوائط (فسک) جمع -
حائط (فسک) کہانا جس سے
پیٹ پھول جاوے -
حائف (فسک) ظالم حق اور
راستی سے پھرا ہوا حائفۃ (فتف)
حیف (فتف) پہاڑ کا کنارہ -
حائک (فسک) جولاہہ حاکۃ
حوکۃ جمع مذکر حوائک (فسک)
جمع مؤنث -
حائل (فسک) جسکا رنگ بدلا
ہوا ہو - اونٹ کا بچہ مادین جو اونٹنی
کے پیٹ مین سے نکلے - کہجور کا درخت
جسمین ایک برس پہل لگے اور
ایک برس پہل نہ لگے - ناقہ کہ
نر پانے سے حاملہ نہوئی ہو یا وہ
ناقہ کہ ایک سال یا دو سال یا
کئی سال حاملہ نہوئی ہو - یا ہر جانور
نہ جننے والا حیال حول (فسس)
حول (فتف) حوائل (فسف)
جمع - حائل (فسک) حول (فسک)
اور حائل (فسک) حولل (فسف)
بطور مبالغہ کے بولتے ہین یا وہ
ناقہ کہ جو ایک سال حاملہ نہوا اُسے
حائل کہتے ہین اور جو دو سال
حاملہ نہوا اُسے حائل حول اور
حائل حولل کہتے ہین -
حائن (فسک) احمق -
حائنۃ (فسک) بلاے مہلک
حوائن جمع - شراب -
حب (فت) دانہ حبۃ ایک دانہ
حبوب حبان (فتفس) جمع -
حب الرشاد ہالون -
حب القطن بنولہ -
حب الغمام پانی کا اولا -
حب المزن پانی کا اولا -
حب قر پانی کا اولا -
حب (کت) دوستی - دوست
حبۃ مؤنث حبان (فتفس)
احباب (فسفس) حبوب (فضض)
حببۃ (فتفف) حب (فت) جمع
دوست دار - ایک دانہ کا گوشوارہ
حب (فت) دوستی - گہڑا یا
بڑا گہڑا حببۃ حباب احباب جمع

ایک جماعت ہے
حبالة رکفیعت) شکاریکا جال
حبائل رفتک) جمع ہے
حبالة رفتعت) جانا ایک
چیز کا وقت گرانی
حبالیٰ رفتک بعد) ونسکا
جتھا ایک ہما لعدا دیجا یک
کے سبب سے یا ہنگام الہی
حبائل الموت مرگ کے اسباب
حبشی رفتح) ہاتھوں کی چڑیاں
اور دوسرے معنی نہا جو ہوں
حبلا بروزن جعفر ایک شخص
دوست ہوجاتا ہے
حب البقا تو بانی میں دیکھیں
جہان بانی بہت ہو
حبہ رفتح) ایک دانہ حباب
رفتفس) جمع حاجت ہر
چیز کا ٹکڑا ایک میانہ جو کی
مقدار اور دو جو کی مقدار کو طسوج
کہتے ہیں یعنی طسوج چار جو کی
مقدار اور دو طسوج مقدار آٹھ
جو اور درہم مقدار اڑتالیس جو
اور مثقال مقدار ساٹھ جو

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جو
مثقال کا اور آدہا ایک ہے ایک
استار اور درہم استار اور رطل
بارہ اوقیہ کا اور من دو
رطل کا اور کہتے ہیں ایک من
کا رطل کا سیکڑا حبہ ایک
سیرہ ہے چھوٹا جسے فارسی میں
بیج کہتے ہیں حبة العروس
حب لا دالہ حبة القلب دل
سیاہ نقطہ دل کا خون دل کا
دانہ یا وہ جو دل میں ایک
حبة الخضرا بطم کے سیاہ
دانہ جو مرگ کے بیج حب
جمع یا ایک گھاس بڑی چھوٹی
ہر طرح کے دانے اور بیج جن
سے غذا ہو سکے حبہ رفتح
ایک تمام بیج نباتات کے جو
چھوٹے ہوں اور وہ بیج جسکو
گھوڑے کھاتے ہیں اور جسکو حبہ رفتح
ہیں خشک گھاس یا ہر چیز
سوکھی ہوئی حبہ رفتح جمع
حبہ رفتح ہندوستی سوفت
انگور کی گٹھلی حب رفتح جمع

[illegible]

بچے جو [illegible] طلوع سہیل [illegible]

جبار [illegible] نشان

جبابح [illegible] سرخاب ہے

جباری [illegible] سرخاب

[illegible] قرار [illegible]

یہ جانور بہت قوی اور بہت [illegible]

[illegible] المثل ہے [illegible]

[illegible] لیکن اپنے

بچہ کو شل اور چھلانا ہے دوست

رکھتا ہے اور اسکو [illegible]

چنانچہ مثل میں کہتے ہیں [illegible]

[illegible] کہ لیکن [illegible]

ہر ایک اپنے بچہ کو دوست رکھتا

ہے حتی کہ حباری بھی

حباشات الطعام جو کھانے

میں سے کھایا جاتا ہے

حباشہ [illegible] لوگوں کی

جماعت ہر قبیلہ کی۔

حباشہ [illegible] عقاب

حباض [illegible]

حباط [illegible] اونٹ کے پیٹ

کے ورم کی بیماری بسبب

حد سے زیادہ کھاس کے یا زہر کھانے

[illegible] شب

حباق [illegible]

حباق [illegible] لفظ کا

استعمال [illegible]

[illegible] کرے اس

لفظ سے [illegible] ہیں اور

[illegible]

حبالہ [illegible] میں

[illegible]

[illegible]

[illegible] کا

[illegible] کی

[illegible]

[illegible]

[illegible] کے

اوپر کی سیاہی

حباگری [illegible] بدکا

حبال [illegible] سباب

[illegible] کی

[illegible]

حبال [illegible]

[illegible]

حبال [illegible] والا۔

آگ کی بھڑک - آگ کا بھڑکنا ۔ لاغر

حبجبی (فسعلت) یعنی حبحب (فعفا

حَبّذا (فتقس) اچھا ہے -

حبذا الامر اچھا ہے یہ کام -

حبر (فف) نشان - شادی و

خوشی - (س) بدن کے زخم اچھے

ہوجانے اور نشان باقی رہنا -

زرد ہونا دانتوں کا - بہت

گھاس دار ہونا زمین کا -

حبر (لگ) دانت کی زردی -

حِبر (مک) نیا اور نرم -

حبر (فس) جہودونکا دانشمند

نیکوکار - دانتوں کی زردی

شادمانی نعمت (ن) بات کو سنوارنا

اچھا کرنا اور درست بنانا -

دوات میں سیاہی ڈالنی نشان

باقی رہنا -

حبر (فس) حبرۃ (فسف)

حبور (ضفس) حبر (فف)

(ن) خوش کرنا -

حبر (کس) دوات کی سیاہی

جہودونکا دانشمند - نیکوکار احبار

حبور جمع - نشان یا نعمت کا نشان

خوبی - زینت - دانت کی زردی

- مانند و ہمشکل - صورت - رنگ

حبر حبر (ففسف) نراونٹ چھوٹا

سرخاب کا بچہ - کمینہ ٹھگنا تھوڑی

چیز -

حبر حبرۃ (ففسفف) عورت

ٹھنگنی ذلیل وخوار بولتے ہیں

ما علی راسہ حبر حبرۃ یعنے اوسکے

سر پر ایک بال بھی نہیں -

حبر بور (فسفس) سرخاب

کا بچہ -

حبرۃ (ضسف) درخت کی گرہ

کہ کاٹ کر اوس سے برتن بناتے

ہیں - دانتکی زردی -

حبرۃ (فسف) دانت کی زردی

نعمت - بہشت کا راگ - اچھا

راگ - اچھی چیز میں مبالغہ کرنیکو

خوشی و فراخی عیش -

حبرۃ (کسف) ایک قلعہ ہے

مدینہ منورہ میں اور وہان

آل بنی قینقا کا ایک مال ہے

حبرۃ (کفف) ایک طرح کی یمن کی

چادر - ایک محدث -

مادہ

۱۰۰



ج

[illegible] (فتح) [illegible]

[illegible] (ضمہ) [illegible] جمع

[illegible] (فتح) [illegible] ٹھکنا

[illegible] (فتح) جمع

[illegible] (فتح) [illegible] اور [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (فتح) [illegible]

[illegible] (فتح) [illegible]

[illegible] (فتح) [illegible]

[illegible] (ضمہ) ایک [illegible]

[illegible] کو [illegible]

[illegible] اونٹ سے

[illegible] (س) [illegible]

[illegible] سے [illegible]

[illegible]

[illegible] (کسر) [illegible]

[illegible]

جمع (فتح) [illegible] جمع

(فتح) [illegible] (کسر)

[illegible] (ضمہ) جمع

[illegible] (فتح و ضمہ) [illegible] نمودار ہونا

[illegible] ہونا [illegible]

ہونا۔ [illegible] احاطہ کرنا

[illegible] سے مارنا۔

[illegible] دنا۔

[illegible] بارلا گھی

[illegible] جمع

[illegible]

[illegible] اور

[illegible] ہو جسے

سرخاب [illegible]

[illegible] (فتح) [illegible] ٹھنگنا مرد

[illegible] کا [illegible] اور

[illegible] (فتح) [illegible] چھوٹا بیڑہ

جا [illegible] (فتح) جمع۔

[illegible] (فتح) [illegible] طاقت

[illegible]

[illegible] (فتح) [illegible]

(فتح) جمع۔ آہستہ چلنا

[illegible] ضعف سے

اور [illegible] کھسکنا۔

قید کرنا — بچھونے کو گرد پوش سے
ڈہانکنا — گھوڑے کو وقف کرنا —
خوف کی جگہہ مین دلیری کرنی —
حبس (کس) لکڑی یا پتھر کہ
رستے پر جہان پانی اکھٹا ہو گیا ہے
رکھہ دیتے ہین تاکہ وہان سے گ
اور چوپایہ گذر سکے — گرداگرد جسکے
سینہ کا پانی جمع ہو جاوے — سپرد
کا سیان بند — بچھونے کا گرد پوش
کپڑا کہ بچھونے پر ڈال کر اوسپر
سوتے ہین — اکھٹا پانی کہ پچھہ
مادہ نہر کہ — ایک سپاہ اندھی کی کالی
گہ پردہ منقش کہ بیچ مین رکھہ
دیتے ہین —
حبس (ضس) وقف جو چاہے
استعمال کرے —
حبس (ضض) پیادے —
کھجور کے اور انگور کے درخت
کہ اونکے مالک نے اونکی اصل
تو اپنے ملک مین رکھی ہو اور
اونکا پھل اور آمدنی وقف
کر دی ہو —
حبس (ضتف) پیادے —

حبسۃ (ضسف) بات کرنیکے وقت
بات کی رکاوٹ — پیشاب کی
رکاوٹ —
حبش (فف) حبشیونکا ایک
گروہ سوائے ہند کے حبشیون
کے حبشان جمع —
حبش (فس) حباشۃ (ضفف)
(ض) جمع کرنا —
حبشان (ضسفس) ایک
طرح کی ٹڈی —
حبشۃ (ففف) ایک گروہ
ہے حبشیونکا — حبشیونکے شہر
حبشیۃ (فغکتف) بہت کالے
اونٹ جنمین گھاس بہت اور
لپٹی ہوئی —
حبشیۃ (ضسکتف) ایک
قسم کی چیونٹیان بڑی اور کالی
اونٹ بہت کالے —
حبض (فس) پتلی جہین آجانی
حبض (فس) حبوض
(ضفس) (ض) مرنا — حق کا
باطل ہونا — لوگون کے نیک
گمان کے خلاف نکلنا لڑکے کا —

مادہ
جمع
جمع الصفحہ
جمع ایضاً
جمع ایضاً
جمع ایضاً
جمع حبش
جمع ایضاً
جمع ایضاً
جمع ایضاً
جمع ایضاً
جمع ایضاً
حبض
جمع
جمع ایضاً
۱۰۲

| جبر (الف، واحد جنس، ترمی) | حرف ... کے پیچھے یعنی چھوٹے پانو |
|---|---|
| جبرج (فسعف) ایک قسم کی خربوزہ، جبارج جمع | جبرت |
| جبرجل ... خوش ہونا ... | جبرہت (فسعف) اناز کے دانوں میں سے نیرہ کا لنا۔ |
| جبرجبر (فسعنفس) ایک کلمہ ہے جس سے بکریوں کو دوہنے کے لیے بلاتے ہیں۔ | جبرور (فسعنفس) سرخاب کا بچہ جبابیر (فسعلک) جمع۔ |
| جبرش (کسک) کینہ رکھنے والا | جبروت (فسعفس) مرد جو اپنے گھنے کے لیے کمائی کرے۔ |
| جبرقس (فسعف) گوبلی اور باریک جو رتوں میں سے اور بکریوں کے بچوں میں سے۔ | جبرون (فسعفس) نام مدینہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام |
| جبرقش فسعف اشتر سرزن ... | جبری (کسکت) سیاہی فروش ... گنہگار درست نہیں۔ |
| جبرقص (فسعف) اشتر سرزن مرد ٹھگنا چھوٹے جثہ کا ... جو گذر گیا۔ آستین لپٹا ہوا گوشت | جبربی (الفکت) جبیرہ فروش اور جبار نہیں کہتے۔ |
| جبرقوس (فسعفس) کا بچہ اور روم ایک جانور ہے پسو کی مانند کودنے والا۔ | جبرئی (فسعف) بمعنی حیران ... |
| جبرقصۃ (فسعف) ٹھنگنی عورت چھوٹے جثہ کی ناکاری۔ | جبریت (کسکس) خالص بے ملاوٹ۔ |
| جبرکی (فسعف) چھیڑی جیسے کلی ... جسکی گردن موٹی پانو ضعیف | جبریر (کسکس) سغوات یعنی سرخاب پرندہ کا بچہ جباریر جمع ایک پہاڑ ہے۔ |
| | جبس (فس) قید قید خانہ۔ دلاوری۔ |
| | جبرا پہاڑ (ضی) بدگمانی |

جبق الشیوخ مرو خوش کو اور مرو راشک بھی کہتے ہین اور وہ خوشبودار گھاس ہے۔

جبق صعتری اور جبق کرمانی سبز برم جیسے ریحان کہتے ہین۔

جبق القران جبق الفیل مرزنجوش کہ ایک قسم کی ریحان نہایت سرد اور خوشبودار ہے

جبق التمساح پودینہ نہری

جبق زنک اگوز یعنے پاد اس لفظ کا استعمال اکثر اونٹون اور بکریون مین ہے۔

جبق (ضف) مرد کم عقل۔

جبقہ (فسف) ایک گوز یعنے پاد۔ ایک بار پاد مارنا۔

جبقۃ (ففف) نادان احمق

جبقۃ (ضفف) عورت کم عقل۔

جبقۃ (کلتف) ٹھنگنا۔

جبقم (ففتض) اولا۔

جبقی (کلتف) تیز اور جلدی کی رفتار۔

جبک (فف) انگور کی جڑ۔

جبک (کفت) کمینہ پنچ۔

جبک (ضفف) سخت۔

جبک (فس) اض گوز مارنا۔ بیچ کو رد کر دینا۔ کپڑے کو اچھی طرح سے بننا۔ باندہنا۔ مضبوط اور درست کرنا ہر چیز کو قطع کرنا گردن مارنی۔

جبکۃ (ففف) انگور کی جڑ۔

جبکۃ (ضسف) ازار بند کے باندہنے کی جگہہ۔ ازار کا نیفہ۔ کمر بند کی رسی۔ تسمہ کہ جس سے زین کے سرے کو یا لان کی پچھون سے باندہتے ہین۔

جبکرۃ (فسفف) جمع کرنا۔

جبکل (فسف) ٹھنگنا۔

جبل (فس) وہ کہ جس سے باندہین حبول جمع۔ رسی۔ رگ یا تو وہ جو لنبا چلا گیا ہو اور رسی کی مانند زمین پر ہو۔ عہد و پیمان۔ امان و پناہ۔ بہاری بن۔ بلا۔ حبول حبال جمع۔ وصال۔ ملاپ ضد ہجر۔ شانہ یا وہ گردن اور سر شانہ کے درمیان ایک

1005

... شتقشدہ بہم

خفقان ہونا۔ دل کا دھڑکنا
... ٹیڑھا ہونا۔ کونین کا بالکل ...
حبض ک رفس ا حبض رفعا
... کمان کا جلد کھینچ کر چھوڑ
دینا تاکہ اوس میں سے آواز نکلے
تیر انداز سکے آگے ہی گر کر گرنا
حرکت کرنا۔ رگ کا زیادہ نبض سے
حبض ش رفعہ حرکت۔ آواز
کمان کے چلہ کی آواز۔ رگ کی
حرکت حرکت نبض سے زیادہ
[illegible] مان۔
حبط عمر رفف ا زخم یا کوڑے کا
نشان بعد نیز دے نقصان کرنا
سوجے ہوئے ہوں اور بچھے
ہوئے تھن وس ا اونٹ کا
پیٹ اپھر جانا اور درد کرنے
لگنا بسبب بدہضمی یا بسبب
کھا لینے فند قوی گھاس کے
پستان وغیرہ کا سوج جانا۔ زخم کا
تازہ ہونا گھاؤ کا نشان رہنا
بعد اچھے ہو جانے کے۔
حنبط رفک ا اونٹ جسکا پیٹ
اپھر گیا ہو بسبب بدہضمی یا بسبب

کھا لینے فند قوی کے حباطی (رفسف)
ج ح
حبط عمر رفس ۱۲ اس عمل باطل
اور ناچیز ہونا۔ رائگاں ہونا۔
حبطہ رفسف ا حوض میں جو
آخر پانی باقی رہتا ہو۔
حبلیطہ رفسف ا جھوٹی چیز
حبق رقس ا ... درخت کی
شاخ اور رسی اور کوڑے سے
مارنا۔
حبق رقس ا حبق رفف ا ...
رفس ا اوس کو نکالنا یا پادمارنا۔
حبق رفف ا پودینہ
حبق البقر ۱۱ بابونہ۔
حبق الراعی ۱۲ ایک سفید
گھاس ہے جسکو فارسی میں گوسپند
بادران کہتے ہیں جب اوسے
گھوڑے کھا لیتے ہیں تو سارے گرنے
بھاگ جاتے ہیں
حبق ریحانی ۱۳ نقل کی ہیں
جو کھانے کے لائق ہیں
حبق فرنفل ۱۲ قرنجمشک۔
حبق الماء ا پودینہ نہری۔

سا جانور ہے کہ مر جاتا ہے اور مینہ سے زندہ ہو جاتا ہے۔

حبن (فس) دفلی کا درخت کہ ایک کڑوی گھاس ہے رس

احبن (فسف) ہو جانا کسی پر غصہ کرنا۔

حبن (فف) پیاس کا مرض جسے استسقا کہتے ہیں پیٹ کی کلانی۔

حبن (کس) بندر جانور۔ دمل۔ ہر ایک چیز جو بدن میں پھول آوے اور سوج جاوے اور اوسمین پیپ پڑ جاوے

حبون (ضفس) جمع۔

حبنار (فسفسم) عورت جسے استسقا ہوا اور پیٹ بڑا ہو گیا ہو۔ کبوتری جو انڈا ندیوے

حبن جمع۔ پاؤنکا آگا بہت گوشت کا۔

حبنبر (ففسف) تھوڑی چیز

حبنہ (کسف) دمل۔ بدن کی پھول جو سوج جاوے اور اوس مین پیپ پڑ جاوے۔

حبنطار (ففسفسم) حبنطارة (ففسفسف) ٹھنگنا موٹا بڑے پیٹ کا

حبنطاة (ففسفس) عورت ٹھنگنی بڑے پیٹ کی بدصورت۔

حبنطی (ففسف) ٹھنگنا مرد بڑے پیٹ کا۔ غصہ میں بھرا ہوا

حبو (ضفت) (ان) نزدیک ہونا۔ لنبا ہونا اور متصل ہو جانا پہلو کی ہڈیوں کا۔ ریت کا بلند ہونا۔ پہلو کی ہڈیوں کا بہت سے متصل ہونا۔ پیٹ کے بل چلنا کشتی کا رواں ہونا۔ اونٹوں کا زمین پر پڑے رہنا اور بسبب لاغری کے کھڑا نہ ہو سکنا۔ پھر آنا

حبو (ضس) (ان) گھٹنیوں چلنا بچہ کا اوسکا سینہ کا بلند کرنا۔ پہلی بار تیر کا زمین پر ٹکرانا اور پھر اوس سے اوچٹ کر نشانہ پر پہنچنا۔ حمایت کرنی اور روکنا۔

حبوة (فسف) سخاوت۔ بخشش۔ ایک طرح کا بیٹھنا اور وہ اسطرح پر ہوتا ہے کہ پیٹھ اور پنڈلیوں کو ایک کپڑے مین فوطہ پر باندھ کر بیٹھنا۔ وہ

۱۰۰۷

عیب ہے جو رستی کی مانند ہو
ہے۔ یا ایک پٹھا جو گردن اور
کندھے کے درمیان میں ہے
ایک رگ پہنچے میں ایک رگ
پنڈلی میں۔ وحش کا نام۔ گھوڑ دوڑ
کے گھوڑوں کے ٹھہرنے کی جگہ
اور دوڑنے سے پہلے۔ جال سے شکار
پکڑنا۔ شکار کے لئے جال پھیلانا
رستی سے باندھنا۔

حبل (کس) سختی۔ بلا۔ مجنون
(ضفس) جمع عقلمند ہوشیار۔

حبل المتین رستی مضبوط۔

حبل حصد مضبوط رستی بٹی
ہوئی۔

حبل (فف) درخت انگور بیٹ کی گرانی
کہانے کی غصہ۔ (س) شراب سے
بھر جانا۔ حاملہ ہونا عورت کا۔

حبلان (فسفس) مرد شراب
اور پانی سے سیراب۔ غصہ ور

حبلانۃ (فسفسف) غصہ ور
عورت۔ حاملہ عورت۔

حبلبس (فسفس) ایک قسم
کا مقیم کہ اوس سے نہ ٹلے۔

... اور

حبلۃ (فسف) انگور کی جڑ یا
شاخ۔

حبلۃ (ضسفہ) انگور انگور کی
جڑ۔ خاردار درختوں کا میوہ
حبل جمع۔ ایک ساگ ہے
درخت سلم اور طلح کا پہل
پھلیاں کہ ایک قسم کا درخت خاردار
ہے۔ ایک قسم کا لباس کہ ملک
یمن میں ہوتا ہے حبلات جمع۔

حبل حبل (فف فف) ایک کلمہ
ہے جس سے بکریوں کو
ڈانٹتے ہیں۔

حبلق (فففف) چھوٹے قد کی
بکریاں کہ آگے کو بڑی نہوں
کمینہ۔

حبلی (فسفس) عورت شراب
اور پانی سے سیراب۔

حبلی (ضسفس) حاملہ عورت
حبلیات حبالی حبالیات جمع۔
سالم بن غنم بن عوف کا لقب اسلئے
کہ بڑے پیٹ کا تھا۔

حبلیل (فسکس) ایک چھوٹا

رستہ جسپر سے اونکی سیرگاہ ہے
حبک (ضفض) جمع - پانی اور زرہ
اور بال اور ریت کی شکن - ریگ
تودہ مین کا رستہ - بال کے جوڑ سے
سے ملی ہوئی مانگ سر کی - یا بعینہ
حبیک حباک حبک جمع ہے
حبیل (فکس) شکار جسکے لئے
جال پھیلا ہو اگرچہ ابھی وہ اوس
مین آکر نہ پھنسا ہو -
حبیل براح دلاور اور شیر کو
کہتے ہین اسواسطے کہ جگہہ سے
نہین ہلتے ہین گویا کہ رستی سے
بندھے ہین -
حبین (فکس) درخت دفلی
حبینۃ (ضفسف) ایک چھوٹا
سا جانور نیچے بڑے پیٹ کا گرگٹ
کے مشابہ -
حت (فت) گھوڑا اور اونٹ
اچھا چلنے والا - دوڑنے والا
شتر مرغ - اشراف بھلا مانس
میان آدمی - مری ہوئی ٹڈی
خرما جو جسکے نہین تھوڑی چیز ان
اوچک لیجانا - دور کرنا - سوکھی

ہنی کپڑے سے کھرچنی - پتے
شاخ سے پراگندہ کرنے - پوست
اوتارنا -
حت (فس، اف) کپڑا سینا
چادر کے پہلو بننے - گرہ
باندھنی - دیوار وغیرہ کو مضبوط
کرنا - مارنا - جماع کرنا - برابر
دیکھتے رہنا - متاع کا اونٹون
پر سے اوتارنا -
حت (فتک) ایک کلمہ ہے
جس سے پرندون کو ڈانٹتے
ہین -
حت (ضت) سقوط کئے ہوئے
اور لٹتے ہوئے -
حتات (ضفس) ہر چیز کا تراشہ
اور ریزہ - بصرہ مین ایک قطیعہ
اور قطیعہ اوس جگہہ کو کہتے ہین
کہ جسے بادشاہ لوگ بطور تحفہ
کے کسیکو دیدیتے ہین -
حتات (ضفس) چیخین اور
شتع -
حتار (کفس) ذکر کے سر کا
غلاف - کپڑے کی شکن - سرخ لیط

مادہ
۱۰۰۹

جبجبص (ضفضفس) گرسنہ جنگی جمع
جبجو (فس) احبار (فعس)
جبجبات جود اور بے احسان بخشش
کرنی (ضفس) نکسنی لغت اضداد
جبجوبر (ضفضس) سرخاب کا بچہ
یا اوسکا بچہ جمع
جبحبر (ضضفس) شادی
و فراخی عیش –
جبجوحتہ (ضفسفہ) ایک گاؤن
شام کے پاس –
جبجوط (ضفضس) باطل و ناچیز
ہونا –
جبجوکر (ضفسف) ریگستان
جسمین مسافر گم ہو جاوے –
سختی و بلا – ولدار گول بد نکا
دبلا مرد کہ چلنے مین پاس پاس
پاؤن رکھے حبا کر (فغسک) جمع
جبوکری (ضفسففس)
سختی سگذری ہوئی لڑائی
کا میدان چھوٹا لڑکا – شتر
اونٹ سخت ولدار بدن کا گول
جبوکلش (ضفسف) بمعنی جبوکر (ضفضف)

جبجول (ضفس) سختی و بلا –
جبجح (فکت) بمعنی حبا (فف)
جبیب (فکس) دوست حبیبۃ
(فکسف) معشوق احباب (فسفس)
احبۃ (فکفف) جمع –
حبیبۃ (فکسف) دوست کہ عورت
ہو – مدینہ منورہ کے ناموں
مین سے ہے –
حبیبۃ (فکسف) بمعنی جبوۃ کہ ایک
طرح کی نشست ہے –
حبیر (فکس) اکلوق ابر سپید
پانی کی گفوت کے – نقشی چادر
حریر کی چادر – نیا کپڑا حبر جمع
ایک کنبہ کا باپ –
جبیس (فکس) وہ گھوڑا جسے
راہ چلتا مین وقف کریں –
جبیش (ضفس) ایک جانور
پرندہ ہے –
جبیط (ضفس) مرد کوتاہ کلان
شکم –
جبیق (ضفس) ایک قسم کا
ناکارہ خرما –
جبیکتر (فکسفہ) ستارون کا

دودہ پینا۔

حَقْرَۃٌ (ضسف) تہوڑی چیز وہ پیوند کہ دامن خیمہ مین لگاتے ہین جبکہ وہ زمین سے اونچا ہوتا ہے اختار جمع۔ سونہنے یا پہونکنے کے ملنے کی جگہہ سے مکان یا گہر کی چہانی۔ جو گہہ پر جو چہین گہتا کی جگہہ۔

حَرْشٌ (کسک) ٹہکنا جسکا چہوتا۔

حَشْشٌ (فسفف) مُکّی کے کہایے کی آواز۔

حَرْفَۃٌ (فسفف) آنکہہ کا کہیرا پن اور سرخی۔ کسی چیز کو اوسکی جگہہ سے ہلانا۔

حَرَوْرَشٌ (ضسفس) بمعنی حَرْشِش۔ لڑکا سیدہا سادہ بے تکلف خوش وخرم چست و چالاک کم عقل یا لڑکا سخت و درشت کم گوشت۔

حَتْشٌ (فس) (ن) جمع ہو آنا۔ آمادہ ہونا۔ ایک چیز کو برابر دیکہتے رہنا۔

خوشی کیطرف برانگیختہ و آمادہ ہوجانا مجہولاً مستعمل ہے۔

حَتْفٌ (فس) (موت) حُتُوف (ضض) جمع

حَتْفَ اَنْفِہٖ اپنے کی موت بدون قتل اور ضرب اور غرق اور حرق کے یعنے بے سبب مرجانا اسکا استعمال ہر حیوان مین ہے اور اس معنی مین حَتْفَ اَنْفِیہِ اور حَتْفَ فِیْہِ بہی مستعمل ہے اور لفظ انف یعنے ناک کی اسواسطے خصوصیت ہے

۱۰۱۱ کہ ایسے شخص کی روح سانس لیتے لیتے ناک کے رستے نکل جاتی ہے اسلئے کہ عرب کے گمان مین یہہ تہا کہ مریض کی روح تو ناک کے راستے نکل جاتی ہے اور زخمی کی روح زخم کے راستے اور یہہ مثل حَتْفُہَا تَحْمِلُ ضَاْنٌ بِاَظْلَافِہَا اوس شخص کے حق مین بولتے ہین کہ اوسکی بد تدبیری اوسکے ہلاک کا باعث ہووے اصل اسکی یہہ ہے کہ ایک شخص شہر خشک قحط ناک مین بہوکہا تہا

مادہ

لغ
آتن
لغ
لغ ص
لغ ص ایضاً
لغ ایضاً حرز
لغ ایضاً
لغ ایضاً
لغ حرز
لغ ایضاً حرز
1010
حت
مع

داخن کا گرداگرد ۔ کان کا کنارہ ۔ جو چیز کہ ایک چیز اوسکے گرداگرد گھیرے حتر جمع ۔ آنکھ کا پانی ۔ اونٹ کے مونہہ کے اندر ایک گوشت ہے کچلی کے مانند ۔ رسّی کے حلقے خیمون کے کنارون میں کہ طنابون کو اوس سے باندھتے ہین ۔ کون کا حلقہ یا وہ چیز جو دبر اور قبل کے درمیان مین ہے یا وہ خط جو دو خصیونکے درمیان مین ہے ۔

حتارش ( فضبک ) بچہ کی حرکتین ۔

حتام ( فتفس ) کب تک ۔

حتامۃ ( ضفسف ) کہانا جو خوان پر بچ رہے یا جو کہاتے وقت گرتا جاوے ۔

حتحات ( فسفس ) جلد باز ۔

حتحتۃ ( فسفف ) شتابی ۔

حتد ( ضفض ) سلاق والی آنکہین اور سلاق ایک بیماری ہے کہ آنکہ مین ہو جاتی ہے پپوٹونکو غلیظ کر دیتی ہے پلکونکو گرا دیتی ہے ۔ حتکی جمع ہے اور اوس آنکہ کو کہتے ہین کہ جسکا پانی بند نہو ۔

حتد ( فک ) خالص الاصل چیز ۔

حتد ( فف ) ( ص ) خالص الاصل ہونا ۔

حتر ( کس ) اونچی اور لنبی زمین وہ پیوند کہ دامن خیمہ اور خرگاہ مین لگاتے ہین جبکہ وہ زمین سے اونچا ہوتا ہے ۔ بخشش ۔ تہوڑی بخشش ۔

حتر ( فس ) ( ن ض ) مضبوط گرہ لگانی ۔ گہور کر دیکہنا یا دنبال چشم سے دیکہنا ۔ کنبہ پر خرچ کی تنگی کرنی ۔ زور سے چبا کر کہانا ۔ تہوڑا دینا ۔ چکہنا کہانا کہلانا ۔ نئے گہر بنانے کی مہمانی کرنی ۔ دامن خیمہ مین پیوند لگانا ۔ گہر کے لئے حتار بنانا ۔ اونچی زمین اور لنبی ۔ تہوڑی چیز ۔ نر لومبڑی ۔

حترب ( فسف ) ٹہنگنا ۔

حترۃ ( فسف ) ایکبار تہن مین

حنوت (فضس) کہجور درخت
جسکے پہل کے غورے گر گئے ہون۔
حتود (ضفضس) راستے۔
حتود (ضفضس) (ض) ایک
جگہہ مقیم ہونا۔
حتور (ضفضس) کنبہ پر خرچ
کی تنگی کرنی۔
حتوختہ (ضفضسف) کہنا سن
حتی (کت) مقل۔ مقل کے
ستو۔ ناکارہ مقل خشک۔
زنبیل کی متاع خرما کے پتہ
کا بنا ہوا بوریہ جس سے زنبیل
بناتے ہین۔ خرما کا ثفل یعنے ہٹی
وغیرہ جو پہوکنے سے دور ہو جائے
خرما کا پوست۔ گوبر لینگنی جو ایک
جگہہ جمع ہو گئی ہو۔ مکہی کے پیر
وغیرہ شہد مین۔
حتی (فتف) حرف انتہا ہے تک
کے معنے ہین جیسا آگرہ سے
اوجرتی ہوئی دہلی تک۔ اور
بمعنی مگر کہ حرف استثنا ہے۔
حتی (فس) (ض) سینا ضبط
کرنا۔ بٹنا

حتی (کس) بر وزن امیر
مقل کے ستو۔
حترۃ (کفسف) نئے مکان بنانے
کی مہمانی۔
حتف (ضفت) بہس کا تنکا
ریت اور خاک باریک۔ یا خشک
اور درشت ریت۔ روکہی روٹی
بے سالن۔ سوکہے ستو جو
پانی مین تر اور لت نہ کئے گئے
ہون۔
حتث (فت) (ن) برانگیختہ کرنا
حثاث (فضس) تہیلہ۔ تہوڑی
سی چیز۔
حثاثرۃ (ضفسف) بہس کا
تنکا۔
حثارم (ضفسک) جسکی ناک
کی پہونگل ہوتی دلدار ہو۔
حثا فیر الامر کام کا آخر۔
حثالۃ (ضفسف) تلخ گہاس
کا دانہ اور چیزین جو گیہون
مین ملجاتی ہین۔ جو چاول
کٹے ہوئے خرما وغیرہ کا پوست
کہلی۔ ہر چیز ناکارہ۔

الٹا اوسکے ہاتھہ ایک بکری
لگی اور اوسکے پاس کوئی چیز
ایسی نتہی کہ جس سے ذبح کرے
تئے مین بکری نے اپنے کہر سے
زمین جو کہودی تو وہان سے ایک
چہری نکل آئی اور اوس نے
اوس سے ذبح کرڈالا —
حتفقع (فسف) سانپ کی ایک
صفت ہے جیسے حتفقہ بولتے ہین
یعنے بڑا زہردار سانپ کہ اوسکا
کاٹا ہوا فورًا ہلاک ہوجاے —
حتفل (فسف) شوربا کا بقیہ
یا روٹی چوری کا بقیہ شوربے
کے نیچے — روغن کا تلچہٹ —
ردی اور خراب مال بچہ دان
کا پیپ خون وغیرہ نیچ لوگ ہانڈی
کے پیندے مین گوشت کے ریزے
حتک (فف) شتر مرغ کے بچے —
حتک (فس) حتکان (فقس)
(فعن) جلد چلنا اور پاس
پاس قدم رکہنا — شتر مرغ
کا ریت کو کہودنا — چلا جانا —
حتکل (الکلفس) تہنگنے مرد کی
رفتار —
حتل (فس) بخشش — ناکارہ
چیز — مانند و ہمشکل برابر کا —
حتم (فس) خالص بے ملاو
حتم (فعس) قطع — وہ
چیز جسکا کرنا واجب ہو (فعس)
واجب کردینا — حکم کرنا — کام کو
پکا اور مضبوط کرنا —
حتمہ (فسف) سیاہی —
حتمہ (ففف) شیشہ ریزہ ریزہ
سیاہی —
حتن (فس) مانند ہمشکل برابر
کا ہمسر حریف احتان (فسفس) جمع
حتن (فف) پہاڑ کے کنارے
(فس) گرمی کا تیز ہونا —
حتنبر (فسفسم) او ونٹ جسکے
بال نہون —
حتنان (فسفس) چارہ حیلہ
تدبیر —
حتنی (ففف س) برابر و مساوی
حتو (فس) تیز دوڑنا
کپڑے کے ریشونکو اندر رکہکے
سینا —

[illegible]

ناکارہ اور بری چیز

حشل (کسر) دبلا۔ بدن کا ہونا

حشل (فتح) بیٹھا ہونا۔

حشلت (کسر) حوض اور ہسکل کی [illegible]

حشات (کسر) حوض میں تھوڑا پانی

حشلب (کسر) [illegible] حلب۔

حشم (فتح) [illegible] دبا [illegible] کرنا اور قابو میں کر لینا۔

حشما (فتح) نالہ میں جو کچھ ریت باقی ہو۔

حشمہ (فتح) پتھر [illegible] نیلا سرخ ہو یا سیاہ۔ ناک کی ہو نکلی۔ چھوٹا سا پہیرا [illegible]

حشمہ (فتح) پانی گرانے کی جگہ دیوار کے پاس۔

حشو (فتح) حشو (فتح) ان ص کسی پر خاک ڈالنی کسی پر خاک گرانی۔ [illegible] سا دینا

حشوا (فتح) [illegible] خاک بہت ہو

حفوہ (فتح) [illegible] تھوڑی سی خاک [illegible] جمع۔

حفیث (فتح) [illegible]

حثاث (فتح) جمع۔

حثی (فتح) خاک گرانی [illegible] خرما کے پوست [illegible] اور [illegible] ایک جنس یا باریک جنس کا تنکا یا وہ چیز کہ اناج اوسے الگ کر لیے ہوں

حثی (فتح) وہ چیز جسے آدمی اپنے دونوں ہاتھوں میں لیکر ہاتھ کو بلند کرتے ہیں [illegible]

حثیہ (فتح) ایک [illegible] (فتح) جمع

حثیث (فتح) [illegible]

حثیثی (فتح) [illegible]

حثیل (فتح) تنگنا ایک قسم کا پہاڑی درخت سے [illegible] (فتح) جمع۔ [illegible] بچہ کہ اوسے [illegible] اور تباہ حال ہو۔

حج (فتح) [illegible] بہت آمد و رفت کرنی۔ قصد کرنا۔

[illegible]

خجل (فسفس) [illegible]

خشخشہ (فسففہ) [illegible]

[illegible] بیرق کا [illegible]

خحوش (فسفس) [illegible]

[illegible] ہیری [illegible]

[illegible]

خصرم (فف) [illegible] پہلو کے

سخت کا پھل۔ انگور کا دو [illegible]

[illegible] کا دوُ رقہ۔ خوشہ انگور میں

سے دانے نکلے ہوے۔ ایک

قسم کی کھیتی کہ وہ جو کی سو [illegible]

[illegible] کے مانند ہوتی ہے [illegible]

[illegible] بھو دتے ہیں تو اوسکے [illegible]

[illegible] سے ریت نکلتا ہے حَضَرُ ایک

[illegible] رس سخت اور دلدار ہو جانا

[illegible] شہد میں دانے بندہ جانے

[illegible] تنگ کر بگڑ جاوے پوست

[illegible] آبلے نکل آنے۔ سرخ دانہ

[illegible] نکل آنے آنکھہ میں یا پپوٹے کا

[illegible] کے سبب سوج جانا چیز کا

فراخ اور کشادہ ہوجانا۔

حشفر (فس) تھوڑا سا کھلا

ہا چیز۔

حجر [illegible] (فسفس) [illegible] گھاس

[illegible] کہ نم زمین میں ہو گئی ہے

کا [illegible] بالی۔ [illegible] کی چیدی [illegible]

بھی ہاتھی [illegible]

حشبتہ (فسفف) پانی کا گدلا

ہو جانا۔ [illegible] پانی کا کالی

مٹی سے ملجانا اور گدلا ہو جانا۔

حشترشتہ (فسکعف) بمعنی حشربتہ

(کسکف) یعنے ناک کی نوک اور

اوپر کے لب کا گڑہا۔

حشفتہ (فسف) ہونٹھ کی

[illegible] کی دلداری۔

حشفن (کسن) اوجہہ کا ہزار خانہ

حشفر (فسفن) روغن وغیرہ

[illegible] کی گاد جو تہ میں بیٹھی ہوتی ہے

[illegible] کا یہ مال۔

حشفرۃ (فسفف) بھس کا

تنکا۔ پانی کی گاد کہ گھڑے کی

پیندی میں بیٹھجاتی ہے۔

حشفلیتہ (فسفف) ہانڈی میں

سے حشفل کو بیننا۔

حشفل (فسن) تبراد و دہ

پینا بچہ کا اور تلچھٹ۔

[illegible]

ج M ا

اونٹ کا موتھہ باندھ دین تاکہ کاٹے نہین —
حجامٌ (ففعس) سینگی سے خون نکالنے والا —
حجامۃٌ (کفسف) حجامی کرنی —
حجبٌ (ففف) سانس کے نکلنے کی جگہہ —
حجبٌ (فس) ان وارث کا حصہ کم کرلیا وارث کو حصہ سے محروم کرنا —
حجبۃٌ (فک) ٹیلہ —
حجبۃٌ (کسف) دربانی —
حجبتانٌ (ففعفس) اسرین کے اوبہار کو کہون پر جھکے ہوئے ہین یا زہار کے اوپر کی دو ہڈیان کہ دائین بائین سے پیٹ پر جھکی ہوئی ہون سرین اسپ کی دو ہڈیان کہ اوسکے پیٹ پر جھکی ہوئی ہون —
حجۃٌ (ضت) کلام راست و مستقیم برہان دلیل حجج (ضف) جمع —
حجۃٌ (کتف) ایکبار حج کرنا — برس — کان کی لو حجج (کف) جمع

حجبۃٌ (ففف) ایک مہرہ ہے یا موتی کا دانہ جسے کا نین ڈالتے ہین —
حجۃ اللہ خدا کی قسم —
حججٌ (ضفض) کہودے ہوئے رستے — زخم جسکا گہراؤ سلائی سے معلوم کرین —
حجحجٌ (فسفس) کمینہ —
حجحجۃٌ (فسفسف) ٹہرجانا — اقامت کرنی پیچھے ہٹ جانا بات کہنے کا قصد کرنا اور رک جانا
حجرٌ (ضفض) ناخن کے گرداگرد کا گوشت —
حجرٌ (فف) پتہر حجر (فس) حجارۃ (کفسف) حجار (کفس) احجار (فسفس) جمع — زر وسیم ان دو کو حجران (ففعس) کہتے ہین — ریت — حجر اسود —
حجر الارض زمین کی بلاؤن مین سے سخت تر بلا —
حجرٌ (فس) ریت کا ٹیلہ تودہ آنکھہ کا گہر — روک — آدمی کی گود حجور (ضفس) جمع — حرام

۱۰۱۷

[illegible] تا [illegible]
[illegible] حجت [illegible]
[illegible] غالب [illegible]
[illegible] نیت سے [illegible] قصد کرنا
[illegible]
حجج [illegible] حجت [illegible]
[illegible]
حجار [illegible]
[illegible] خوش [illegible]
[illegible]
[illegible] روک دینا [illegible]
حجا [illegible]
[illegible]
حجاۃ ایک [illegible] بہت [illegible]
[illegible] آہستہ [illegible]
حجا [illegible] (الفس) [illegible]
[illegible]
[illegible]
حجاب (الفس) پردہ [illegible]
حجب [illegible] زمین کی
جائے [illegible]
مین سے جو کچھ بلند ہے [illegible] آفتاب
کی روشنی یا اوسکا کنارہ

ہر چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل
ہے [illegible] ایک پہاڑ ہے [illegible] کوہ
قاف کے [illegible] کی [illegible]
[illegible]
حجاب (الفس) [illegible]
پردہ [illegible] کرنا [illegible] سے روک دینا
حجابۃ (الفسف) دربانی حجبی
[illegible] اوسکی طرف منسوب
حجاج (الفس) [illegible] بھون
کی ہڈی [illegible] آفتاب کا کنارہ
حجاج (تفقس) بہت حج کرنے
والا
حجاج (الفس) حجت لانی
[illegible]
حجاز (الفس) [illegible] اور تہائی
کے وقت جس سے کمر باندھیں
دو چیز کے درمیان کی حد فاصل
مکہ و مدینہ و طائف اور انکے
قصبات
حجاف (ضفس) بدہضمی کے
سبب سے دست آنے
حجال (فقس) [illegible]
حجام (الفس) [illegible] جس سے [illegible]

حجز (فف) جمع - تہیگاہ -
شدید الحجزۃ سختی اور محنت
پر بڑا صابر -
حجفۃ (ففف) ڈہال جسمین لکڑی
اور پٹے نہو اور پوست اور چمڑا
ہو - سینہ - حجف (فف) جمع -
حجل (فس) پاے بند یعنے
پازیب احجال (فسفس) حجول
(ففس) جمع - (ض) درمیان
مین حائل ہونا - پہدکتے پہدکتے
چلنا - ایک پاؤن پر کود کر چلنا -
اوٹہائے ہوئے پاؤن کو دیر مین
رکہنا چلنے مین - مٹک کر چلنا -
حجل حجل (فس فس) ایک
کلمہ ہے جس سے بکریون کو ڈانٹتے
ہین یا دوہنے کے لئے اوٹہاتے
ہین -
حجل (کس) پازیب حجول (ففس)
جمع - بند - پاے بند یعنے بیڑی
حجل (مک) خلخال یعنے پازیب
حجل (کت) بمعنی حجل (کک)
حجل (فف) کبک - حجلۃ (ففف)
ایک - حجلی (کسفس) جمع - اسم

وزن پر سوائے ظربی (کسفس)
کے اور جمع نہین آئی
حجلاء (فسفس) بکری جسکی
پنڈلیان سفید ہون -
حجلان (ففس) پہدکتے
پہدکتے چلنا - ایک پاؤن سے
کود کر چلنا - اوٹہائے ہوئے
پاؤن کو دیر مین رکہنا چلنے
مین - ناز سے چلنا -
حجلۃ (ففف) ایک گول مدور
عمارت کنبد کی مانند - گہر جو
دلہن کے لئے تخت اور کپڑے
اور پردہ وغیرہ سے آراستہ
کرین حجال (کفس) حجل (فف)
جمع - ناکارہ اونٹ - کمینہ نیچ
حجل (فف) جمع -
حجم (فس) چیز کا ابہار
جو ہاتہہ پہیرنے سے محسوس
ہووے حجوم (ففس) جمع
(ن ض) روکدینا - ماں کی پستان
کو چوسنا بچہ کا - لڑکی کی پستان
نکل آنی - کہانے کے وقت
ہڈی سے گوشت جدا کرنا -

حجز
ایضاً
حجف
حجل
ایضاً
ایضاً
ایضاً
ایضاً
ایضاً
ایضاً
ایضاً
ایضاً
حجم

قطع رحمی یا قاضی کا زر دکر دینا کسیکو
تصرف سے ... زمین مینا رکهی
کرے اور ونکو تصرف سے روکدینا
حجر (کس) عقل هوش [illegible]
... کے [illegible] شمال کی جانب
سے [illegible] شام مین ثمود کی بستیان
اور شہر رکاوٹ آدمی کی گود
حرام [illegible] حجر (فض)
حجرة (فضسف) احجار (ففف)
حجار (فس) جمع [illegible] سنگ
[illegible] آدمی کی گود کا [illegible] عورت
و مرد کی شرم گاه حفظ ستر
حجر (فس) رکاوٹ آدمی
کی گود حرام امرؤ القیس
شاعر کے باپ کا نام
امرؤ القیس کے جد اعلی
کا نام
حجران (ضسفس) روک
منع
حجرة (فسف) گهر کا کونہ حجرات
(ففف) حواجر (فضسک) جمع
حجرة (فسف) چهوٹا گهر
بالاخانہ [illegible] کا احاطہ گهیرا

حجر (فلف) حجرات (فففس) جمع
حجرة (ففف) ارض حجرة یعنی
زمین بہت پتهر والی
حجروف (فسففس) ایک چهوٹا
سا جانور ہے اپنے پاؤن کا چینوٹی
سے بڑا
حجشی (فسکت) حق وحرمت
حجز (فف) ایک طرح کی بیماری
ہے جسمین انتڑیان پیاس کے
مارے سکڑ جاتی ہین اور اوسمین
کہانا پینا نہین ہوسکتا (س)
بیماری حجز مین مبتلا ہونا
حجز (فس) حجیزی (افکسفس)
حجازة (فضسف) (ن ض) منع
کرنا روکدینا
حجز (فس) (ن ض) اونٹ
کو بٹها کر اوسکا سم کمر پر باندہنا
علاج کے لئے دو چیز کے بیچ مین
آجانا
حجز (کس) اس مرد کی اصل
اقارب سناجیہ
حجزة (فضسف) کمر پر ازار
باندہنے کی جگہ نیفہ سبب

جحی [illegible]

[illegible]

جحاب [illegible]

ابر [illegible]

دیا لغت اضداد سے ہے

جحجا (فتح فتح) چیتلون

جحجح (فکس) [illegible]

[illegible]

مرد جیسے [illegible]

جحیش (فکسق) [illegible] جشین

تنہا [illegible]

بولتے ہیں

جحیزی (فکسم) [illegible]

ایک دوسرے سے [illegible] جانا

سکے کا دن دونوں میں جنگ

واقع ہوئی تھی

جحیف (فکس) آواز

جو پیٹ میں سے آتی ہے

جحیل (فکس) گھوڑا تین

عضو کا تحجیل [illegible]

جحیلاء (ضفسفسم) پانی جیسے

دھوپ آفتاب کی نہ پہونچے

جحیمی (فکس) لائق پناہ لینے

والا [illegible]

حجز (فتح) دو چیز کے درمیان

میں کی حائل ہونا [illegible] کرنے والا

اور چیز کی انتہا [illegible] چیز کی تیزی

لوگوں کی [illegible] کی

تیزی [illegible] آدمی کا بے

[illegible] ہونا [illegible] تعالے کا

اندازہ [illegible] ہوا [illegible] جمع

(ن) تیز کرنا چھری وغیرہ کا [illegible]

[illegible] سے [illegible] کسی پر

غصہ کرنا [illegible] واضح کرنا - حد

شرعی مارنی - اندازہ کرنا کسی

چیز کا کنارہ ظاہر کرنا - ایک چیز

کو دوسری چیز سے فرق کر دینا -

حرام کرنا -

حداد (فت) حداد (فکس)

(ض ن) سوگ کے کپڑے پہننے

عورت کا بعد وفات خاوند کے

حد (ضت) نصیبہ اور نیکی وغیرہ

سے جو محروم ہو -

حدر (فکس) (ف) پھیر دینا

حدر (فف) (س) مدد کرنی

اور ظلم سے روکنا (ص الی علے

١٠٢١

[illegible]

[illegible] جگہ [illegible] پرین [illegible]

[illegible] کی [illegible]

[illegible] ملنا۔ اوسکی [illegible]

[illegible] کو [illegible] تانا [illegible]

[illegible] ہونا [illegible] پیشانی کیطرف مائل ہو [illegible] نکلنا

[illegible] ایکطرف ہونا [illegible]

[illegible] حرفین [illegible] نونتا [illegible]

[illegible] طرفین [illegible] دونون [illegible]

[illegible] فتحتین [illegible] جگہ [illegible]

اوسکی دونون طرفون بین [illegible] جب ایک پیشانی کیطرف مائل ہویا

دونون طرفین اوسکی ایک ہو [illegible] پیشانی کیطرف مائل ہون کچھ

جمجمۃ الغزال ایک لمبا [illegible] ہے اکثر [illegible] کے سر [illegible] پیر ہوتا ہے۔

جمجمۃ الشام [illegible] سبز گہاس [illegible] کا ہے

جمجم [illegible] (فتحتین) [illegible] جگہ

اقامت کرنی۔ ہوشیاری اور چیستان مین غالب آنا [illegible]

[illegible] کو

[illegible] کا [illegible] کو

[illegible] واز کو چھپانا مگر

[illegible] طرف مائل ہونا۔

[illegible] بنا۔ [illegible] سے

ایک [illegible] کرنا۔

[illegible] (فتحتین) [illegible] کہین سے

[illegible] کہین سے [illegible]

جحجوزۃ (فتحتین) بمعنی جائیجوزہ

[illegible] ایک قسم کا [illegible]

جحجوش (فتحتین) دور و بعید

جحجول (فتحتین) آنکھہ کا گرہے مین اندر گھس جانا [illegible]

جحجم (فتحتین) بمعنی جاجم افسکا

[illegible] عورت کی شرمگاہ۔

جحجوق (فتحتین) سستی کاہلی

ہر غزوہ کہ پہلے اوسکا خلاف ظاہر کرین اور بعد آخر کو اوسی جگہہ جاوین یا غزوہ دور و دراز

جحجی (فتحتین) ہوشیاری مین غلبہ۔

جحی (فتحتین) [illegible] جح (فتحتین) احجا (فتحتین) لائق۔

جالا ہے کی شہوت ۔ اپنی زمین
پتھرا ور مٹی سے ملی ہوئی حداب
الفسس) جمع ۔ اور جو تل ہونا
پانی کا جیسے بین ۔ پوست مین
کا نشان ۔ ایک گہاس ہے
یا نفی گہاس ۔ زمین اکبرا ہو جانا
مہربان ہونا ۔ دوسرا عاوجنا
نکرنا عورت کا اور اپنے بچون
پر جہکا لی رہنا اور بڑہنے بچے
کی طرف جہکانا ۔
حدب (فعفہ) کبڑا مرد ۔
حدبا (ففتفس) کبڑی عورت
دشوار کام حدب (فعص) جمع
حدبۃ (ففف) کبڑا پن ۔
حدبۃ (فکعف) زمین جسمین
نفی گہاس بہت ہو ۔
حدبد (ضفنک) گاڑھا دلدار
جما ہوا لبن حدبد یعنے دودھ
گاڑھا دلدار جما ہوا ۔
حدبدبی (ففسففس) ۔
نبطیون کا ایک کہیل ہے ۔
حدبق (فسعس) ٹھنگنا
گول بدن ۔

حذشیر (کسس) ... بی ادا
جسکا پوست ہڈی پر چپک گیا ہو
حدرۃ (فتف) تہوڑا دودھ
پانی وغیرہ سے چیز کا نکلنا ۔
حدرۃ (کتف) غصہ کے سبب
بے قرار ہونا آدمی کا ۔ لوہے
کی تیزی کا (ض) تیز ہونا چہری
تلوار وغیرہ کا ۔
حدرۃ (کعف) اکیلا اور تنہا رہنا
بولتے ہین اغد کل واحد منہم
علے حدرۃ یعنے ہر ایک کو ان مین
سے الگ الگ دے ۔
حدث (نفہ) نئی چیز بری کے جیسے استعمال کی
عادت ہو ۔ وہ جو منو توڑ دی
احداث جمع
حدث السن جوان احداث جمع
حدث (فض) مرد بہت بات
کرنے والا خوش تقریر ۔
حدث (کسس) بمعنی حدث خدمز
حدث الملوک جو بادشاہون
سے بات چیت کرے ۔
حدثان (ففعن) انی چیز جو
پہلے نہ تہی ۔

[illegible]

[illegible] حدا ۃ (کفسحہ) [illegible]

[illegible] حدا و (کفس) [illegible]

حدا [illegible] (فغف) تبرجیکے [illegible]

[illegible] سر استیر کا پیکان

حداء (فغف) احداء (کفس) جمع

حداث (ظفسکہ) جبر وندن

[illegible] گدھا کا سبر رنگ

حدا [illegible] (فضسف) شروع جوانی

حداثۃ الامر شروع کام

حداجۃ (کفسعہ) عورتون کی ایک طرح کی سواری ہے محافہ کے مانند۔ پالان [illegible]

حداد (ضففس) تیز چھری

[illegible] والا۔

[illegible] ہو جانیوالا

[illegible] تیز چھری

[illegible] کے کپڑے

[illegible]

حدا [illegible] (ضفس) [illegible] لوہار۔ قید خانہ

[illegible] دریا۔

[illegible] والا۔

حدا [illegible] کلمہ ادس [illegible] کہتے ہین کہ [illegible] اور ناپسند کرتے ہین

حدادۃ (کفسحہ) لوہار رہنا۔

حدا [illegible] (ضفسف) جورو۔

حدا ردۃ (ضفسف) موٹا یا سختی کے ساتھ [illegible] بدن کی گولائی [illegible] موٹا ہونا۔ گول بدن کا ہونا

حداش (کفس) ہر چیز کی نہایت

حدال (ضفس) چکنا۔ ہموار۔ کمان جیسے مڑے ہوئے سر دن [illegible] سے ایک سرا سید ہا ہو گیا ہو

حدال (ضفس) ایک درخت ہے

حدب (فف) پیٹھ کا کبڑا پن یعنی کہا ہس کہ گر کر تو بتو ہو جاوے

زمین ملتصق [illegible]

حدرۃ (فسفعہ) [illegible]

[illegible]

عین حدرۃ [illegible]

[illegible]

حدقہ [illegible]

[illegible]

حدرج (فسفعہ) [illegible]

[illegible]

حدرجان (فسفعلان) ٹھنگنا

اعلام [illegible]

حدرجۃ (فسفعہ) مضبوط بٹنا

حدرد (فسفف) ٹھنگنا۔

حدرس (فنعلس) بڑی آنکھ یا دلدار سخت ٹھوس نظر کی تیز

حدس (فف) بمعنی غدس یہ ایک قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں تھی وہ بہت سختی کرتے تھے یہانتک کہ عرب انکے ذکر سے بھاگتے تھے حتی کہ یہہ

[illegible] کا ہو گیا

حدس (فس) [illegible] کے سینہ میں چھری مارنی۔ تیر مارنا۔ ذبح کرنا۔ گمان سے بات کہنی [illegible] ہو جانا۔ پھینکنا۔ [illegible] کرنا [illegible] غالب کرنا۔ جلدی کرنا دوڑنا۔ بے رہبر کے راستہ چلنا۔ طریقہ جاری پر چلنا۔ بکری کو ذبح کرنے کے لیے پچھاڑنا۔ اونٹ کو بٹھا دینا

حدق (فف) بادنجان

حدق (فس) حدوق (فعول) احاطہ کر لینا۔ کسی کیطرف دیکھنا آنکھ کھول کر بند کر لینا۔ حدق چشم پر مارنا۔

حدقلۃ (فسفف) دیکھنے کے وقت آنکھ پھرانا۔

حدقۃ (ففف) سیاہی چشم

حدق (فف) حداق (کعنس) جمع

حدل (فس) مرد کہ راست و درست نہو غیر عدل۔

حدل (فس) حدول (فعول) [illegible]

[illegible]

... عربانی کی [illegible]

[illegible]

... جھینی [illegible]

... آبونیہ [illegible]

... داری ہے [illegible]

... جمع [illegible]

رسب اجمع

... ایک بختی [illegible]

... ایک جنگل

... کا نام اور

... ایک کہا بن ہے ـ

... اور [illegible]

... تیر مارنا ـ مارنا

کسی پر آنکھ ڈالنی ـ بیچ مین غمین

کا نام گری ـ کسی پر تہمت لگانی

حدجة (ففف) ایک جانور ہے

حدرجة (ففف) بہنگی عورت

حدحد (فسف) ٹہنگنا

حدد (فف) تدبیر و چارہ

روک ـ باطل ـ حرام ممنوع

(ن) غصہ کرنا ـ روکنا دفع کرنا

حدر (ضفت) دلدار ـ

حدر ... زمین یا وہ جگہہ

کہ جہان سے نیچے کو جاوین ـ ان

... کو اتر جانا ـ بھینگا ہونا حدور

... (فسفف)

حاحدرہ ... خاص باللعد

... بنگی گولائی دراز

... جانا کیطرف

... کو جانا ـ ... زخم

کا جلد ... نشیب

مین اوترنا ـ جلدی جلد ... زوان

کہنی ـ قرآن شریف جلد جلد پڑہنا

... کے ... ـ جاری

کر دینا ... ـ ایک

چیز کا احاطہ کرنا اوپر سے

کہینچنا (ن ک) موٹا سخت

گول بدن کا ہونا پر گوشت ہونا

چشم خانہ کا ـ

حدرا (فسفسم) وہ عورت

کہ ایک کو دیکھے یعنے بہینگی ـ

وہ عورت کہ اوسکی انیپر گوشت

ہوا اور ادبیر کا بدن باریک

ـ ایک عورت کا نام جسپر فرزدق

شاعر نے تشبیب کہی ہے ـ

حدولق (فضسسہ) جھگنا اولا
بدلگانا (فضسسہ) [illegible]
حدبی (کفس) ابرا ہونا دہیشہ
مکان میں رہنا اجڈا و سکے گہر کا
حدبی الدہر ہمیشہ -
حدباء (فضسف) کبڑا ہونا اور
مقابلہ [illegible] ایک اونٹنی
حدیث (کفس) نئی چیز ضد
قدیم رسول علیہ الصلوٰۃ
والسلام کی خبر احادیث (فضسس)
حدثان (کسفس) جمع -
حدیث السن مرد جوان
حدیث (فکس) یعنی حدث
حدیثۃ العشیج پہلی عورت
جوکسی کے ساتھہ بیاہی گئی ہو
حدیثی (کسفس) خبر -
حدید (فکس) لوہا تیز
جہری حدیدات (فکسفس)
حدائد (فضسک) حداد (فض)
جمع و یعنی حداد (فضفس) آہار
(فضسفسم) احدۃ (کلفف) حداد
(کفس) جمع - احد بولتے ہیں
ہو محدید فلان جبکہ اوسکی

زمین اونچی زمین [illegible] ہمیلو ہو
حدیدۃ (فکسفہ) ایک خاص
لوہا ہے [illegible] چھری - اور اوسکو
ہیں [illegible] حدیدۃ [illegible]
[illegible] گہرا اوسکے گہرے [illegible]
حدیقۃ (فکسف) چراگاہ جسمیں
درخت بہی ہوں حدائق (فضسک)
جمع گہرا اور درختوں کا باغ
باغ وغیرہ کا احصار یا دیوار گلستان
کا قطعہ اگرچہ احاطہ دار ہو
حدیقۃ الرحمن مسیلمہ کذاب
کے باغ کا نام جب وہ وہاں مارا
گیا تو اوسکا نام حدیقۃ الموت
ہو گیا -
حدیل (فکس) ٹھٹھکنا -
حدیہ (فت) ان اجڑے کا [illegible]
حذاء (کفسم) مقابل برابر
جوتی - اونٹ گہوڑے وغیرہ
کے سم مقابل ہونا کسی کے
برابر گر پڑنا -
حذاء (کفسم) موچی جوتی بنانے
والا حذاؤن (فضسفس) جمع
تیز رو چالاک -

[illegible]

آدمی کا ... [illegible] ... ہونا۔

[illegible]

[illegible] (ضفس) کمان جھکے
موڑے ہوئے سروں میں سے
ایک سرا سیدھا ہو گیا ہو۔

خدلقہ (ضفلف) بڑا حدقہ
آنکھ کا۔ آنکھ۔

خدلقہ (فسعف) دیکھنے کے
وقت آنکھ پھرانی۔ گھور کر دیکھنا

خدم النار آگ کا سیکو
بہت جلانا اور اوسکی گرمی۔

خدمہ (فعف) آگ۔ ... [illegible]

[illegible]
... تاج ہونا ... [illegible] ... کے۔

خدوار (ضفسم) آئمالی ہوا۔

خدوث (ضفس) حداثۃ
(ففسف) (ان) ایک چیز کا ہونا
کہ پہلے نہ تھی۔

خدوثۃ (ضفسف) جوانی

خدور (ففس) زمین نشیب

خدور (ضفس) (ان ص)
لکڑی کے زخم سے پوست بدن کا
کھنچ جانا۔ اور پھر سے نیچے گرانا

خدولۃ (ضفسف) کمان کے
موڑے ہوئے سروں میں سے
ایک کی سطح ہموار۔

ایک [illegible] چھوٹی [illegible]
ہوتی ہے -
حذاریہ (فسفعہ) [illegible] کے
دامن کا کنارہ - ایک طرح کا لال
گوند ہے جس کا نام [illegible]
حذام (فعک) حذام
(فضی) سنت کا ال -
حذامر (فعکس) سب کا
سب تمام
حذالیہ (فعفعہ) [illegible]
حذق (فت) گوشت کا ٹکڑا -
حذۃ (کف) مقابل برابر -
حذحاف (فسعس) [illegible]
حذذ (فف) دم کی چھوٹائی
اور ہلکاپن -
حذر (فف) ڈر بچاؤ پرہیز
(س) پرہیز کرنا - ڈرنا -
حذر (فک) مرد بچاؤ کرنیوالا
دل کا جاگتا - ڈرنے والا حذرو حذر
(فکفس) حذاری (فعفس)
حذرفوف (فسففس)
ناخن کا تراش - تھوڑی چیز
حذرفۃ (فسففعہ) ایک

طرح کا [illegible] اوسکو [illegible]
بھی کہتے ہیں -
حذرمۃ (فسففہ) بہت بولنا
حذرنحی (فسففس) باطل
حذریار (فسکفیم) سخت زمین
کا ٹیلا -
حذریان (فسکفس) مرد ہشیار
نہایت ڈرپوک اور بچاؤ کرنے والا -
حذریۃ (فسکفہ) سخت زمین
کا ٹکڑا حذاری (فففس) جمع
[illegible] زمین سخت میں کا ٹیلا - مرغ کی گردن
۱۲۹ کے پر - حذاری (فففس) حذار
(ففسک) جمع -
حذف (فف) ایک قسم کی چھوٹی
بطک - یا ایک پرندہ ہے - ایک
قسم کی کالی بکریاں چھوٹی ناکاری
بے کان بے دم کی - حجازیوں کی
بکریوں میں سے ہے اور جرش
کا چھوٹا کوا جسے کہاتے ہیں
حذفۃ (ففعہ) ایک -
حذف المحب درخت کے پتے -
حذف (فس) (ض) اگرا دینا
- گھوڑے کی دم میں سے پکڑ کر

[illegible]

[illegible]

حذار (فتس) ایک درخت [illegible] کو مرانا

حذار حذار (ضم فتح کسر) [illegible] بروزن قطام یعنی بچ بچ -

حذار ہمت (ضم فتح کسر) بہت [illegible] ہونے والا -

حذار یات (ضم فتح کسر) [illegible] ڈرنے والے -

حذافہ (ضم فتح) جو چیز کر ڈال دیجاتی ہے جیسے چھلکے [illegible]

[illegible] گون کا حلقہ

[illegible] انگوٹ [illegible]

[illegible]

حذاق [illegible] قطع کرنا -

[illegible] وغیرہ ہے -

حذاقی (ضم فتح) تھوڑی چیز [illegible]

حذاری (ضم فتح) گدھے کا بچہ - [illegible] سیتنر کی ہوئی چھری -

حذال (فتح) چوٹیان - سرخ پانی کہ [illegible] کے درخت مین گوند کی مانند ہوتا ہے یا ایک چیز ہے کہ شلم کے درخت سے نکلتی ہے اور اوسے زودہ [illegible] کہاتے ہین -

حذال (ضم فتح) زعفران کی مانند

حذلقہ (فعللہ) اپنی لیاقت اور ہوشیاری ظاہر کرنی اور حذاقت میں شیخی مارنی اور دوسرے کو پکڑ لینا۔

حذلم (فعلل) ٹھنگنا بدن کا گول پیٹ والا کا مضبوط۔

حذلمہ (فعللہ) دوڑنا۔ گھوڑے کو شائستہ اور نیک کرنا۔ لکڑی کو تراشنا اور چکنا کرنا۔ مشک کو تیز کرنا۔

حذلوم (فعلول) ہلکا پھلکا جلد چلنے والا۔

حذم (فعل) ہر جانور کا لوہو۔

حذمر (فنعل) خرگوش چالاک۔ چور چالاک۔

حذم (فعل) ٹھنگنا مرد کہ قدم پاس پاس رکھے۔

حذم (فعل) قطع کرنے والا۔

حذم (فعل) کاٹنا یا جلد کاٹ ڈالنا۔ جلد پڑھ لینا آہستہ چلنا۔

حذمان (فعلان) تیز رو سست روی۔ لغات اضداد سے ہے۔

حذر (فعل) ٹھنگنا مرد۔

حذرن (فعلن) ازار کا نیفہ لباس کا نیفہ۔

حذنّہ (فعلّہ) ٹھنگنا مرد جسکے کان چھوٹے ہوں۔ اونٹ جسپر بچپنے ہی سے سواری ہوئی ہو جسکے سبب اوسکا پیٹ بڑا ہوگیا ہو اور کوہان جاتا رہا ہو۔

حذنان (فعللان) عورت کی شرمگاہ کے دو کنارے۔ دو خصیے۔ دو کان۔

حذو (فعل) مقابل برابر عروض کی ایک اصطلاح۔

حذو (فعل) حذا (فعل) جوتی کا اندازہ کرنا اور اوسکا قطع کرنا۔ جوتی کی برابر جوتی کرنی جوتی بنانی۔ جوتی پاؤں میں پہنانی۔ کسی کے مونہہ پر خاک ڈالنی۔ سر کی تیزی کا مونہہ کاٹ لینا۔ بخشش کرنی۔ کسی کے برابر بیٹھنا۔ کسی چیز کے برابر گرنا۔

حذوہ (فعلہ) بخشش گوشت کا ٹکڑا مقابل برابر۔

۱۰۳۱

بال و قد لیف کو زمین پر گرا دینا۔
نشانہ اور سرین ہلا کے ہو سے
چلنا یا قدم پاس پاس رکھنا۔
جلد فرنا ... اور مختصر سلام
کرنا یا تہ پہیلانا نہیں۔ کلمہ میں سے
ایک حرف گرا دینا۔ کچھ کسی کی
طرف پھینکنا۔ تلوار یا اور چیز کے زخم
سے سر کا ٹکڑا اور اڑا دینا۔
حذفار (بفتح) مکان کے کونے میں
سے کچھ گرا دیا ہو۔
حذفار (بفتح) خصلت طریقہ
حذفار (بکسر) طرف اور
کنارہ حذافیر (بفتح) جمع سب
کا سب تمام۔
حذفة (بفتح) ٹھنگنی عورت
حذفرة (بفتح) بہنا اور
تیز کرنا۔
حذفور (بضم) طرف اور
کنارہ۔ شریف۔ بڑی جماعت
حذافیر (بفتح) جمع۔
حذق (بکسر) حذاق (بکسر)
حذاقة (بکسر) ...
سیکھ جانا پڑھنا یا کام اور اوسمین

ماہر ہونا ... بوجھ جانا کا ...
یا ... سے کاٹ کے لیے ...
حذرقة (بفتح) بنگالا حذاق
(بکسر) جمع
حذل (بکسر) سبق اللغات
حذل (بکسر) اصل۔ بوجھ
جس سے بڑ چیلون کی طرح چلیں۔
حذل (بفتح) اصل۔ کپڑے کا
پلہ۔ ازار کی گود کمر بند کے نیچے
کا سرا۔ یعنی ازار کا اسفل۔
حذل (بضم) اصل یعنی ازار
لباس کا کنارہ اور پلہ۔
حذل (بفتح) ایک قسم کا ...
ہے اور اسکی رنگی لکڑی ہے۔ دامن
پیراہن کا کنارہ۔ آنکھ کی سوجن
اور سرخی جسکے ساتھ پانی بھی
بہتا ہو (س) آنکھ کی پلکیں گر
پڑنی۔ اور اوسمین سے پانی
جاری ہو جانا اور اوسکا سرخ
ہو آنا اور پلکوں کی جگہ سوج
آنی
حذلاق (بکسر) تیز و تیز
حذلقة (بفتح) یعنی حذلقة

جوان مرد سخی - ہر چیز کی اچھی اور
چھٹی ہوئی چیز - اچھا گھوڑا - احرار
(فسفس) احرار (کفس) جمع -
کبوتر کا بچہ - ہرن کا بچہ - سانپ
کا بچہ - اچھا کام - رطب آزاد کہ
ایک قسم کا خرما ہے - چرغ جانور
باز - گھوڑے کے کان کی اوپر
کی سیاہی -
حر الدار گھر کا بیچ -
حر الرمل ریت کا بیچ اور سادہ کا
اچھا -
حر الطین گارے کا بیچ -
حر الوجہ رخسارہ -
حر البقل ساگ جو کچھ کھایا جائے
حرا (ففف) لائی -
حرا (فف) حراۃ (ففس) ناحیہ
کشادگی - گھر کا بیچ - جانوروں کا
شور و غوغا - ہرنوں کے رہنے
کی جگہ جہان آرام پاوین شتر
مرغ کے انڈے رکھنے کی جگہ
احرار جمع -
حراء (کفسم) حری (ففس)
ایک پہاڑ ہے مکہ مین اور اسی

مین ایک غار ہے جسمین نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے عبادت کے واسطے
گوشہ نشینی اختیار فرمائی تھی -
حراب (کفس) ایک دو جگہ
سے لڑنا -
حرابۃ (ففقف) لڑائی کے
ہتھیار والے -
حراۃ (ففس) آگ بھڑکنے
کی آواز - درخت پر ہوا کے چلنے
کی آواز - پانی کا چلنا -
حراث (ففس) کمان کا سوفار
جسمین چلہ ہوتا ہے -
حراث (کفس) تیر ہونا
تیر شا ہوا احرثۃ (ففسکف)
جمع - تیر کے پہال کی جڑ - تیر
کے سوفار مین چلہ کے جانے
کی جگہ -
حراث (ففقس) کسان -
حراج الظلماء تاریکی
و تاریکی -
حراجل (ضفسک) لمبا -
حراجلۃ (ففسکف) گھوڑے
کے سوار رہتے ہین جاؤ حراجلۃ

[illegible]

ہیں۔
[illegible] (ضفس) [illegible]
[illegible] بہت تیز ہونا
[illegible] ریشم کا کپڑا [illegible]
مین نقشان کر دینا جیسے ریشمی جو
نقشان ڈالے [illegible]
[illegible] کاٹ لینا۔
[illegible] (ضفس) ایک [illegible]
حذرمی (ضس) (اضل) دودھ
وغیرہ کی تیزی کا زبان کو کاٹنا
پوست کو بہت پھاڑنا۔ چیزی
ہاتھ کا کھلنا۔ محبت کرنی۔
(س) درد شکم مین مبتلا ہو جانا
بکری کا بسبب گھاس کھا جانے [illegible]
پیٹ مین۔
حذریا (ضسفس) لوٹ کا حصہ
حذیحیا (ضفقفسم) خوشخبری۔

[illegible] میرا بیہ۔
[illegible] گوشت کا ٹکڑا
[illegible] لوٹ کا حصہ
[illegible] گوشت کا ٹکڑا
[illegible] ایک پتھر کا ٹیلہ
[illegible] لوٹ کا حصہ۔
[illegible] اڑانے اور [illegible]
[illegible] ہے۔
[illegible] قطع کرنے والا
[illegible] (ضفس)
اجارر (ضفسات جمع) اور اس
حفظ سے اوٹنی کو داغتے ہین
(ن) گرم کرنا۔ حریرہ پکانا۔ آزاد
اور اصیل ہونا۔
حر (فت) حرور (ضفس
(ن ض س) گرم ہونا۔
حرۃ (س) حرۃ (کف) عورت
کی شرمگاہ احراح حرون جمع
حر (کت) عورت کی شرمگاہ۔
حر (صفت) آزاد آدمی جو غلام ہو

چقماق سے جلی ہوئی چیز۔ گہوڑا
بڑا اور ہٹیلو والا۔ فسادی آدمی
جو ہر چیز مین فساد ڈالے جس
سے کہ کہجور کے درخت کو زرد کر دے۔
حُرَاقَہ (ضفسفہ) چقماق سے
جلی ہوئی چیز۔ جلے ہوے کپڑے
مین سے جو باقی رہا ہو۔
حَرَاقَہ (فتفسفہ) بڑی تیز تلوار
حَرَّاقَہ (فتفسفہ) کوئلے بنانے
والا اور گچ کرنے والونکی بناہ جگہ
حَرَّاقات (فتفسفس) جمع۔ ایک
قسم کی بصرہ کی کشتیان جس سے
دشمن کی طرف آتش اندازی
کرین۔
حُرَاقِد (فضسک) اصیل و نجیب
اونٹ۔
حُرَاقِم (فضسک) لال چمڑا۔
ایک طرح کی سرخی ہے جس سے
جلد کے تسمہ کو رنگتے ہین۔
حَرَاک (فضس) جنبش۔
حَرَام (ففس) جو چیز کہ نہ چاہئے
کرنی اگر نہ کرے واضد حلال مفرد
احرام بند حرم (ففس) جمع۔

حَرَامُ اللہ قسم خدا کی۔
حِرَام (کفس) کتیا خواہشمند
نر کی کتیا وغیرہ کا نر کا خواہش
کرنا اور ہر حیوان مادہ کا نر کی
خواہش کرنا کہ جسکا جسم بیچ مین
سے چیرا ہوا ہے جیسے گائے
بکری وغیرہ۔
حَرَامِش (ففسک) کال پڑے
برس واحد اسکا حرمش ہے
حِرَان (کفس) چوپایہ کی سرکشی
حَرَّان (فتفس) پیاسا مرد
حِرَار (کفس) جمع۔
حَرَارَہ (ففسف) گرمی
فلفل اور ترب وغیرہ کی تیزی
حَرَائِث (ففسک) کمائیان
حَرِیثَہ (فکسف) کمائی جس سے
اوقات بسری ہو۔ اونٹ جو سفر
مین لاغر ہو گئے ہون۔
حَرَائِز (ففسک) چھٹے ہوئے
اونٹ جنہین بسبب اونکی نفاست
کے بیچ نہ سکین۔
حَرْب (فس) لڑائی جنگ
مونث بھی آتا ہے اور کبھی نر کبھی

مادہ
[illegible]

[redacted]

حرائج (فکس، اونٹیون کی کم نشستی۔ کم دودھ ہونا اونٹنیون کا۔ یا انکا دودھ جاتا رہنا بند ہوجانا۔ کم آب ہونا برس کا۔

حراوی (فسکت، بانس کے ٹکڑے جنہین چہت کی کڑیون پر باندھتے ہین حرد ی ایک ہے۔

حرادید (فسکہ، پہاڑ کے سرے۔

حرار (فعس، آزادی۔ آزاد مردی۔

حرارة (فسف، گرمی۔

حرازة (فسف، جگہہ کا مضطرب ہوجانا۔

حراسن (فسک، ایک قسم کی مچھلی ہے۔

حراسیش (فسکس، بوڑھے اونٹ۔ کال پڑی برس۔ واحد اس لفظ کا نہین آیا۔

حراش (فسس، کالا سانپ بڑا اسکا نام اسکا اسواسطے ہے۔

ر ... کو شکار کرتا ہے۔

حراض (فقس، اشنان گہاس کا جلانے والا۔ قلعی اور گچ کے لیے چونہ پکانے والا۔

حرضان گہاس بیچنے والا۔

حراضة (فسفہ، اشنان گہاس کا بازار۔

حراضة (فسف، غم و بیماری کی درازی۔ جگہہ پر تہکے تھڑے۔

حرافة (فسف، زبان کی جہلجہلاہٹ۔

حرافد (فسک، اصیل و نجیب اونٹ۔

حرافش (فسک، بمعنی حرفش (کسک، یعنے خبیث سانپ۔

حرافص (فسک، اونٹ جوبے کو ہونٹ لگے ہوئے تابعدار اس لفظ کا واحد نہین آیا۔

حراق (فس، جو ہر چیز مین فساد ڈالے جس سے کہجور کے درخت کو نر ... ی

جلانے والی جو کچہہ باقی نہ چہوڑے

حراق (فسس، پانی بڑا گہار ی

ح

علامات اعراب ضمہ فتحہ کسرہ سکون تشدید

| | | مادہ |
|---|---|---|
| اکل کہری۔ | دردناک۔ بہت اندہیرا پیاسا | |
| حَرِبَصۃ (فسفف) زمین کو | ہونا۔ | |
| پانی دینا۔ | حُرَّۃ (فت) عورت بی بی بڑے | |
| حَرِبِیصۃ (فسفکسف) ایک | گہرانے کی شریفہ نجیبہ۔ اچھی نجیب | |
| قسم کا زیور ہے۔ | اونٹنی۔ بہت دودہ دینے والی | |
| حَرْبی (فسکف) دارالحرب | اونٹنی حرائر (ففسک) جمع | |
| کیطرف منسوب۔ | سَحابۃ حُرَّۃ بولتے ہیں یعنے بہت | |
| حربیۃ الرجل مرد کا چہینا ہوا مال | مینہہ کا ابر۔ | |
| یا وہ مال جس سے زندگانی بسر | رملۃ حرۃ ریگ بے گل۔ | |
| کرے حرائب (ففسک) جمع۔ | لیلۃ حرۃ ہر مہینے کی پہلی رات | |
| حربیش (کسکس) گہردرا | شب زفاف کہ جسمین عورت | |
| اکل کہرا۔ | کی بکارت زائل نہو سکے۔ اچھا | ۱۰۳۷ |
| حرت (فس) چوپایہ کے | ریگ۔ گوشوارہ کے پہرنے کی | |
| گہاس چبانے کی آواز (ن)، | جگہہ کان کی اوپر۔ | |
| اچھی طرح سے ملنا۔ ایک چیز کو | حُرَّۃ (کت) پیاس۔ | |
| گول تراشنا۔ | حَرْتَتَۃ (ففسف) بہت کہانے | |
| حَرِث (فف) بدخو ہو جانا۔ | والا مرد۔ | |
| حَرَّۃ (فت) پتہریلی زمین جلی | حرتتۃ (ضسف) رائی کے | |
| ہوئی جیسے (فت)، حرار (کفس) | جہاگ اور اوسکی ناک مین تیزی | |
| حرات (ففس) حرون (فتفس) | حرتک (فسف) دبلا باریک | |
| احرون (ففتفس) جمع۔ | بدن | |
| پیاس۔ چہوٹا سا دانہ کہ آدمی | حرث (فس) رستہ چوپایوں | |
| کے بدن سے نکلتا ہے سلاب | کے سمون سے روندا ہو۔ | |

[illegible] تشدید م

[illegible] گرو [illegible]
[illegible] چند [illegible]
حرث [illegible]
[illegible] غصہ [illegible]
حرب (فتحتین) خرما کا شگوفہ جو کلی مین سے نکلے حربۃ (فتحتین) اوسمین سے ایک (اس مال) چھین لینا پھر نہ چھوڑنا سبب غصہ مین ہونا
حربا ہر (کسفہم) زرہ کی کین یا چھوٹی سے سر کے زرہ کے حلقون مین بیٹھ پیچھے کا گوشت یا جو [illegible] کا اور بہار سر مین سخت — آم حبین کا شراور
آم حبین ایک چھوٹا سا جانور ہے بڑے پیٹ کا خربا کے مانند گرگٹ آفتاب پرست یہہ جانور رنگ بدلنے مین ضرب المثل ہے چنانچہ کہتے ہین میان وہ تو گرگٹ کے سے رنگ بدلتا ہے گھڑی مین کچھہ گھڑی مین کچھہ حرابی (فتحتین) جمع —
حرباج (کسفہس) یعنی ہجج

[illegible] بمعنی حافظ (کسفہس) کمان مین سخت چلہ ڈالنا —
حربۃ (فتحہ) لڑائی کا ہتھیار — ہاتھہ کی چھوٹی سی تازیانہ یعنی کوڑا — حراب (کسفہس) جمع — دین کا فساد — نیزہ زنی — کسی کا مال چھین لینا — جمعہ کے دن کا نام حربا (فتحتین) حربات (فتحتین) جمع
حربتۃ (فتحہ) ایک برتن ہے گون کی مانند — غرض وہ یہہ بھی ایک ظرف ہوتا ہے کہ جیسی جالی کی مانند سوت سے بنتے ہین اور اوسمین روئی اور ریشم اور گوبر اور بھس وغیرہ بھرتے ہین —
حرشبتہ (کسفہ) لڑائی کی ہیات
حربث (فتحہ) نرم زمین کی گہاسون مین سے ایک گہاس ہے حرابث (فتحتین) جمع —
حرنج (فتحہ) [illegible]
حرلبش (کسفہ) افعی یا بڑا افعی یا دہ افعی جسکے چلنے مین بڑی سخت آواز نکلے — عورت بہت بوڑھی

حرجلۃ (فسفف) گہوڑون کا ایک گروہ۔ ٹڈیونکا ایک گروہ۔ زمین بے میل۔ لنگڑاپن۔ لنبا ہونا۔ نماز وغیرہ مین صف کو پورا کرنا۔ داہنے بائین دوڑنا

حرجمۃ (فسفف) اونٹونکو ایک دوسرے پر گرتے ہوئے پہیر لانا۔

حرجوج (فسفس) موٹی ناقہ۔ ناقہ سخت یا ناقہ دبلی پتلی دل کی روشن حرجج (فسفض)

حرابیج (فسکس) جمع۔ ٹھنڈی اور تیز ہوا جو پے در پے چلے۔

حرح (فک) وہ مرد جو عورت کی شرمگاہ کا حریص ہو۔

حرح (فس) (ف) عورت کی شرمگاہ پر مارنا۔

حرد (فس) (ض) قصد کرنا روک دینا۔ سورا خدار کر دینا ایک ٹکڑا کاٹ لینا۔ غصہ کرنا۔

حرد (کس) ہکوہان کا ٹکڑا۔ اونٹ کی انتڑیان حرود (ضض) جمع۔

حرد (ضس) قطا حرد یعنے شتاب رو سنگ خوار۔

حرد (فف) ایک بیماری ہے جو اونٹ کے ہاتہہ پانو مین ہو جاتی ہے۔ یا اوسکے ہاتہون کے پٹھے کا خشک ہو جانا بسبب زانو بند کے اور اس سبب سے وہ رفتار مین زمین پر ہاتہہ دے دے مار کر چلتا ہے (اس از رہ کے) بوجہہ سے بوجہلون کی طرح چلنا۔ کمان کے چلہ کے بعض تار بعض سے زیادہ لنبے ہونے۔

حرداء (فسفم) مادہ چوپایہ جو مرض حرد مین مبتلا ہو کر جسبب سے زمین پر ہاتہہ دے دے مار کر چلتا ہے۔

حردب (فسعف) عشرق گہاس کا دانہ۔

حردبۃ (فسفف) ہلکاپن۔

حردہۃ (فسفف) کام مین بجاجت اور ردالی۔

حردون (کسفس) نر سوسمار یا ایک جانور ہے حربا کے مانند

ج

[illegible] جر - یعنی حر[illegible]

(ضفس) جمع - ثواب [illegible]
[illegible] جو پایہ کو دو بلا کر دینا -
[illegible] کے لیے زمین کا ہر طرح کمائی
کر لی - حصول کر لینا - مال جمع کرنا
- جلدی جلدی جمع کرنا - تلاشی کر لی - کہیتی
کر لی - آگ جلوائی - کہودنا - قرآن
کو پڑہنا اور راہ میں تفتیش کی ج
پہ سیکہنی - کمانوں میں سوفار بنانا
حرث (ضف) ایک زمین ہے -
حُرُثہ (ضسف) کمان کا سوفار
جسمیں چلہ ہوتا ہے - ذکر کا سوراخ
حرج (فف) تنگ جگہہ بہت درخت
والی کہ جسمیں چوپایہ پہنچ نہ سکے
تنگی - گناہ - سختی - دبلی پتلی ناقہ
- ناقہ کہ لنبی ہو - چار لکڑیاں
بندہی ہوئیں کہ جسپر مردہ کو رکہیں
اور یہہ طریقہ گبروں کا ہے - حرج
ناقہ کہ جسے سر سے دور رکہیں
اور اوس پر سوار نہوں تاکہ موٹی
ہوجاوے (س) حرام ہونا - کسی
چیز میں تنگہہ جیسا جانی تنگ ہونا -
حرج (کس) گناہ - رسیاں جو

ور زمینوں کے شکار کے لیے
پہیلا دیں شکار پہسے جو سوکہنے
کے لیے طناب پر بچہا دیں حرج
(کفس) جمع - چہلی کا کان کہ نظر
گذر کی دفع کے لیے گلے میں
ڈال دیتے ہیں - کتے کا پٹہ شکار
میں سے جو کچہہ کہ شکار کتے کو
دیویں -
حرجج (فک) بہت تنگ جگہہ
گنہگار مرد - جو کہ لڑائی سے
منہہ نہ پہیرے -
حُرجُمَہ (ضسف) چہوٹا ڈول
حُرجُمَہ (ضف) جہاں درخت
ہوں - اونٹوں کا ایک گروہ
حرج (فف) حرجات (ففعس)
حراج (کفس) جمع -
حرجف (فسف) ٹہنڈی ہوا
جو تیز چلے حراجف (ففسف) جمع
حرجل (فسف) گہوڑوں کا ایک
گروہ
حرجل (فسعف) لنبے قد کا آدمی
حراجل (ففسک) جمع - جلد چلنے
والا -

حرشفہ [illegible] گہوڑے [illegible]
حرشف (فتحتین) حشرۃ الارض
مین کا ایک کیڑا [illegible] جانور چہوٹے چہوٹے ہوتے ہین۔
حرشف (فتحتین) مچہلی کے چہلکے۔ چہوٹی چہوٹی جانورون شترمرغ کے بچون اور ہر چیز مین کی۔ زرہ کی سلوٹین۔ ضعیف گاہ [illegible] بڑے [illegible] تلوار کے پہلو سے اور [illegible] درمیان مین ایک [illegible]
حرشف (فتحتین) زمین کہردری
حرشفہ (فتحتین) زمین سخت کہردری۔
حرشون (فتحتین) ایک قسم کا چہوٹا کانٹا کہ سخت ہوتا ہے اور بکریون کی پشم مین چپٹ جاتا ہے حراشین (فتحتین) جمع
حرص (بفتح اول) (ض) کپڑا دہونے والے کا کوٹتے وقت چہیلنا [illegible] پوست اور تار [illegible] مین سے کچہہ گہاس چہوڑنی اس معنی مین مجہول مستعمل ہے۔

حرض (کرس) [illegible] [illegible] ہونا
حرض (مثل حرض) ہر چیز کا [illegible] اور [illegible]
حرضہ [illegible] کہ سر کے پوست کو تہوڑا سا چیر دے دو معنی مین پراگندہ [illegible] کا سبب فراخ ہو جانے سوراخ [illegible] بند سے زخم سے۔
حرصیان (کسفعس) پیٹ کے پوست کا باطن۔ ہاتہی کے پوست کا باطن۔ ایک پوست ہے کہ جسے لہو اور کہال کے بال کے چہیلا [illegible] ہین حرصیانات (کسفعس) جمع۔
حرض (فتحتین) جسم کی گدازگی مذہب کا فساد۔ عقل کی تباہی بیمار درد جگہ پر تہکا پڑا ہوا۔ [illegible] ہوا عاجز مردہ تہکا ہوا قریب بہلاک۔ مرد [illegible] یا وہ جس سے امید خیر و شر اور [illegible] کی نہو وے اسمین مذکر و مؤنث واحد و جمع برابر ہے اور کبہی جمع اسکی احراض (افسفس)

۱۳۲۱

نواحی مصر مین ہوتا ہے-

حرذی (فسکت) حرذیتہ (فسکتف) سرے یا سے کا ایک مشبہ کہ جسپر بردی گہاس لپیٹکر کہوسن دیوار پر باندہ دیتے ہین تاکہ کسی صدمہ سے گرنے نہین-

حرذون (کسفس) یعنی حردون-

حرز (کس) تعویذ مضبوط جگہہ

حرز (فف) وہ چیز کہ جسپر شرط لگاوین اور وہ ایک جوز ہوتا ہے ہموار تراشا ہوا اور لڑکے اوس سے بازی کرتے ہین- ہر چیز جسے نگاہ مین رکہین اور غیر سے بچاوین احراز (فسفس) جمع -(س) بہت پرہیزگار ہو جانا

حرز (فس) (ن) نگاہ مین رکہنا

حرزۃ (ففف) اچہا اور چہنتا ہوا مال حرزاۃ (فففس) جمع

حرزقۃ (فسفف) تنگی کسی پر قید تنگ کرنی-

حرزمۃ (فسفف) لعنت کرنی پر کرنا برتن کو-

حرس (فس) زمانہ احرس (فسف) جمع (ض) چرانا-

حرس (فس) احراستہ (فسف) نگاہبانی کرنی-

حرس (فف) بادشاہ کے دربار کے نگاہبان حرسی (ففکت) ایک (س) دیر تک جینا-

حرسم (فسف) گوشہ-

حرسم (فسکف) زہر مرگ

حرش (فس) نشان جراحت حراش جمع (ض) سوسمار کو شکار کرنا چہیلنا- چت سوئی ہوئی لڑکی سے جماع کرنا-

حرش (فک) جسکی آنکہہ مین نیند نہ آوے یا جو کہ مارے بہوکہہ کے سووے نہین-

احرش (فف) کہردرا پن

حرشاء (فسفسم) ایک گہاس ہے- خردل بری- ناقہ کہجلی دار- سانپ جسکی کہال کہردری ہو

حرشاف (فسفس) دبلی ٹنڈی بہت کہانے والی حرشافۃ (فسفسف) اسمین سے ایک-

پھیر دینا۔
حرف الوصل (و مصرفاً) کے بعد حرف روی کے
آئے یہہ نام اوسکا ہے اصطلاح میں اکی
حرکت حرف روی سے پیوست ہے
یہہ بحث فن قافیہ و علم شعر سے متعلق ہے
حرف (فس) بے نصیبی۔
حرفة (ضسف) ایک۔
حُرفة (ضسف) بے نصیبی۔
حِرفة (کسف) خوراک پیشہ
جس سے روزی ہاتھ لگے۔
حُرفة (فسف) اسر پہ لگانا۔
حُرفذة (فسعف) اصیل ناقہ
دبلی کہ گہہ لگی ہوئی حرافذ ضکم
جمع
حرفش (کسک) بڑا بد خوا
سانپ۔
حُرفصة (کسکف) اصیل نجیب ناقہ
حَرق (فس) دہوبی وغیرہ
کی کندی کرنے سے کپڑے کی
سوختگی (ن) سوہان کرنا کسی
چیز سے چھیلنا (ض) آگ مین
جلانا۔
حَرَق (فف) آگ ہے آگ کی لو

(س) دہوبی وغیرہ کی کندی
کرنے سے کپڑے کا روان
جلجانا۔ جس سے کہجور کے
درخت کو نر دیوین۔ بال جہڑ
پڑنے۔
حَرَق (فک) مرد جسکے اطراف
و اعضا چہرے اور پیٹ ہون۔
بادل بڑی چمک کا۔ چقماق سے
جدا ہوا ایک قسم کا آتشگیرہ اور
وہ ایک نرم گہاس ہوتی ہے کہ
چقماق سے آگ اوسمین جلد لگی
حَرق (فس) حروق (فض)
(ن ض) غصہ مین دانت پیسنے
سے ایکہ آواز آنے لگے۔
حَرقان (فسفس) دونون
رانون کی رگ چلنے مین۔
حرقانیة (ففسکتف) خاکستری
رنگ کا عمامہ۔
حُرقة (فسف) سوزش
گرمی۔
حِرقد (کسک) زبان کی جڑ
حُرقدة (فسفف) گلے کے نرخرہ
کی خشک گرہ سا اصیل ناقہ [illegible]

[illegible]

[illegible] ہو جاتا [illegible] اور [illegible]

[illegible] کا ہونا چھینا [illegible]

[illegible] ہونا

حرض [illegible] حرض [illegible]

[illegible] ہر بیماری کا طول کھینچ

جانا اور مرگ کے قریب ہو جانا

اور ناکارہ ہو جانا

حرض [illegible] زنگ مرد جگہ [illegible] کا

[illegible] ہوا بدن کا کھلا ہوا اور [illegible]

[illegible] ہے

حرض [illegible] اشنان گھاس

حرضہ [illegible] جوار بونکا

امانت دار [illegible] جسکا [illegible]

[illegible]

گرد کھاوے ہاں اگر [illegible]

[illegible] کا حبر بوار

[illegible] میں نہ رکھی

حرض [illegible] وہ کہ جسکی

[illegible] طول کھینچا ہو

حرض [illegible] جمع

حرض [illegible] اشنان

[illegible] والا ـ

حرف [illegible] بمعنی جانب طرف

کنارہ [illegible] حرف

الف ب ج [illegible] جمع حروف

[illegible] الف آتی

ہے اور کسی کی نہیں آتی ایک

حرف حروف ہجا میں سے ـ

[illegible] جسکی کو کہیں

اندر گھس گئی ہون [illegible] سبزی

[illegible] کی ناقہ مضبوط ـ پانی کا رستہ

نحویوں کے نزدیک وہ ہے

جو اپنے معنی کے لئے آیا ہو کہ

نہ تو معنی اسم کے ہوں نہ فعل

کے حروف [illegible] احرف

[illegible] جمع ـ قرأت ـ لغت

[illegible] اپنے کہنے کے کنارہ کرنی ـ

حَرَم (کسر) حرام ہونا و احرام
(ضفض) جمع – مرد احرام بند –
واجب –
حُرم (ضس) حج کا احرام – بعض
مرد کا اہل و عیال – حرمت کہ جسکی
حفاظت واجب جانین –
حُرُم (ضفض) جمع حرام – احرام
باندہنے والے – چہار مہینے ذوالقعدہ
– ذوالحجہ محرم رجب –
حُرْم (کسر) ناامیدی بے نصیبی
حُرم (ضس) حرمت (ضسف)
حرامکم (فس) احرام ہوجانا
حرامس (کسفس) ہموار
پہلوان زمین سخت –
حرمان (ضفضس) مکہ و مدینہ
حُرمۃ (کسف) کتیا اور گرگ مادہ
اور ہر حیوان شکم چرے ہوئے
کے شہوت کا غلبہ – نا امیدی
بے نصیبی –
حُرمۃ (ضسف) وہ کہ جسکا توڑنا
روا نہو – آبرو ج – حرمات
(ضفضفس) جمع – قول و قرار –
دہشت – کسی چیز مین کا حصہ

حرمۃ الرجل مرد کا اہل و
عیال –
حرمد (فسف) کالی مٹی گندی
رنگ بدلی ہوئی –
حرمزۃ (فسفف)
لعنت کرنی – ذہن کی تیزی
حرمل (فسف) سپند لیبے مزائی
حرملۃ (فسفف) ایک گہاس
ہے یہہ گہاس سب قسم آتش
مین بہتر ہے –
حرمی و اللہ خدا کی قسم
حرن (فس) ان ہمعنی اشکنی
– پیچ مین نہ گہستانہ بڑہنا –
حرفش (فسف) ولدار پہلو
کا بڑا – بڑا – کہر دبر اولدار سخت
پیدائش کا –
حرقفۃ (فسکف) ٹہنگنی
عورت –
حروۃ (فسف) حلق اور سینہ
اور سر کی گرمی بسبب غصہ اور
درد کے – رائی وغیرہ کی جیسا کچ
– گندی بو تیزی کے ساتہہ جو ...
وغیرہ مین ہوتی ہے –

حرقفہ (رفسفہ) ... کو منہ سے پکڑ لینا ۔

حرقلہ (رفسفف) ایک ...

حرقوقہ (رفسفف) حلق کا ... سور کے سر کی ہڈی ۔

حرقوص (رضمضم) ایک جانور ہے پسو کی مانند ... اس کے ڈنک کے مانند ہوتا ہے یا وہ جانور کلی کی مانند ہے یا ایک اور جانور ہے گوہ کی گردن سے چھوٹا ۔ غورہ سبز خرما کی گٹھلی ۔

حرقوف (رضمضم) دبلا چوپایہ ۔ ایک جانور ہے حشرات الارض ہو ...

حرک (رفک) پھرتیلا ہلکا تیز خرد

... ہونا جارک

... کے سرے

پہاڑ ... عاشق جو دم

... سے سر پھیرنا ۔

حرکت ... قہقہہ آنا ۔

حرکت رفت ... ہو جانا ۔

... جنبش ۔

حرکت ... اندر خشک ...

... سرے ۔

...

حرکلہ (رفسفع) ایک جانور کی رفتار ۔ چہار دونوں کی ایک قسم کی رفتار ۔ شکاری کا بے شکار پھر جانا ۔

حرکوک (رضمضم) چوپایہ کے ٹخنوں کا پیچ ۔

حرم (رفف) کعبہ اور مکا گرد اگرد مدینہ کا گرد اگرد محفوظ جگہ ۔ حرمت و عزت و آبرو ۔ حرام

... جوئے میں ہار جانا جھگڑنا

حرم (رفس) (ن) جوئے میں غالب آنا ۔

گہوڑیوں کا نام —

حَرُون (ضففس) حران (کفس) اڑن ک۔ چوپایہ کی سرکشی کرنی اور چلنے سے رک جانا یہ لفظ خاص ہے اون چوپایوں سے کہ جنکا سم چلا ہوا ہو —

حَرِی (فکس) لائق —

حَرِّی (فتفس) پیاسی عورت

حَرِی (فس) (ض) گہٹ جانا ناقص ہو جانا —

حَرِّی (فکت) حرہ کیطرف منسوب ہے — اونٹ کہ پتہر کی زمین میں چرے —

حَرِیب (فکس) جسکا مال چہین لیں — حربائ (فسفس) حربا (ضففسم) جمع —

حُرِّیَّۃ (ضسکتف) آزادی آزاد مردی — نرم ریتلی زمین عرب کے اطراف —

حَرِید (فکس) دور — اکیلا — خشک کی ہوئی مچہلی —

حُرَیْبار (ضفسفسم) ایک ریت ہے بلاد بنی ابی بکر بن کلاب میں

ایک چوپایہ ہے زانو بند کی جگہ کہ جو چوپایہ کو حرداہ کر دیتا ہے

حَرِیر (فکس) ریشم — ریشمی کپڑا — حریرۃ (فکسف) اوسمین سے ایک — مرد جو غصہ وغیرہ میں گرم ہو جاوے —

حَرِیرَۃ (فکسف) ایک قسم کا بیمار کا کہانا ہے اور وہ آٹا ہے جسے دودہ اور گہی میں پکاتے ہیں حرایر (فکس) جمع —

حَرِیز (فکس) خوب مضبوط —

حَرِیسَۃ (فکسف) بکریاں رات کی چرائی ہوئی — حرائس (فسکس) جمع — پتہر کی دیوار جو بکریوں کے لیے بنا دیتے ہیں —

حَرِیش (فکس) اونٹ بہت کہانے والا ہو — بہتا حروش (ضفص) جمع — گینڈا — ایک دریائی چوپایہ — ایک جانور ہے انگلی کی برابر کہ اوسکے پانو بہت ہوتے ہیں یعنے کہنکہورہ — ایک قسم کا ابلق سانپ — ایک قبیلہ ہے بنی عامر میں کا —

[illegible]

خر ورسنگرہی علم غضب کو [illegible] کو

[illegible]

خر ورہ رفضسف آزادی

آزاد مردی [illegible]

تیزی

خر ورسیتہ رفضسکت آزادی

آزاد مردی

خر وحض رفضس غم وبیماری

کالمول (از غم) بلا اور ناطاقت

ہونا بہ سبب بیماری کے

خر شوصنتہ رفضسف بہتی

خر و حلق رفضس پہچہ

حرف ہین ہمزہ عین ہا حا

خروق رفضس آتشگیرہ

وہ ایک سوختہ ہے کہ اوسمین آگ بہت

جلد لگتی ہے یعنی چقماق کا سوختہ

خر وحق رفضس جس سے

[illegible] رگے ور [illegible] کو تر دیوین

چقماق کا سوختہ آتشگیرہ

خر وقاہ رفضسفسم چقماق

کا سوختہ

خر وقیہ رفضسف ایک طرح کا

کہانا ہے گاڑہا اوسے پیتے ہین

یا ایک پانی ہے کہ اوسمین تہوڑا

سا آٹا چہڑک دیتے ہین تاکہ

جوش مین پہول جاوے

خر وم رفضس ناقہ کہ برسون

حاملہ نہو بغیر اسکے کہ بانجھ ہو

خر ون رفضس سرکش چوپایہ

کہ جسکا سم چرا ہوا نہو۔ شکار کہ

پہاڑ کی چوٹی پر سے نہ اوترے

وہان ہی بیٹہا رہے چند اشخاص کے

کرنا کسی چیز مین رخنہ ڈالنا ـ

و کرم مین زیادہ ہونا ـ

حزر (فس) رف ہمارہ کا اطراف

کسی کو اپنی طرف سے دشمنونکو جمع

کرکے ہانکنا ـ جماع کرنا ـ

حزا (ف) ایک گہاس ہے

حزاة (فس) حزارة (ففس)

ایک ـ

حزاء (فتفسم) نجومی ستارہ

کا پہچاننے والا ـ

حزابی (ففسک) حزابیہ

(ففسکف) تہنگنا بدن کا کچھ سا

حزاز (ففس) سخت غم غصہ

وغیرہ کے سبب دلکی سوزش

ـ مرد بہت دفع کرنے والا ـ مرد

سخت عمل ـ طعام کہ معدہ مین

گہٹا ہو گیا ہو ـ

حزاز (ففس) سرکی خشکی

یعنی بہوسی جسے دفا ہی کہتے ہیں

ـ مرد سخت عمل ـ

حزاز (کفس) تمام و کمال کوشش

کرنی ہتر گمنہ حزازہ وہ شرکت

کہ جسمین ایک کو دوسرے

پر استعلا ہو ـ

حزازة (ففسف) غصہ وغیرہ

کے سبب دلکی سوزش حزازات

جمع ہو تا اس لغت کے معنی

کہین کتاب مین نہین پائے

حزازی (ففسکت) مرد

سخت عمل ـ

حزاق (کفس) کنگن ہونا

ـ جو چیز کہ جس سے باندہین

حزاقة (ففسف) گروہ جماعت

حزاقة الناس (ففسکف)

بیچ لوگ ـ

حزام (کفس) جس سے

باندہین کہ چوپایہ کا تنگ ـ

جس سے لڑکے کا گہوارہ مین

ہاتہہ باندہ دیتے ہین حزم

(ضفس) جمع ـ

حزامة (کفسف) بمعنی حزام

(کفس) ـ

حزانة (ضفسف) عرب

کی پہلی تاخت جو عجم پر ہوئی تہی

اور اوسمین وہ بہت سی چیزین

اپنے تصرف مین لائے تہے ـ

[illegible]

حرلوق (فکس) سوزش
آگ کا جلا ہوا حرقی (فسفس)
جمع - سوراخ ہونے کی آواز -
حرقلقتہ (فکسف) گرمی یعنی
حرورقتہ (فسسف) حرارت [illegible]
جمع -
حریکۂ (فکس) نامردہ جو
عورت کے کام کا نہو وہ جو
ناطاقتی کے اپنی کو کہہ کو [illegible]
ہوا چلے حریکۃ (فکسف) اسکی [illegible]

[illegible] چیز
[illegible] نہین
[illegible] وحرت و
[illegible] کا گردا
[illegible] جمع
[illegible] بے نصیب کردی
[illegible] گردا گرد جتنے
ہوتے [illegible] اور منافع ہین -
[illegible] (سفس)
[illegible] (فکس) [illegible] کسف)
[illegible] (فکف)
[illegible] (کسف) جو چیز
[illegible] کردی ہے -
حرملہ (فسسفہ) ایک درخت
جسکی روئی نہایت ہلکی اور نرم
ہوتی ہے بادشاہوں کے تکیوں
مین پڑتی ہے -
حرز (فت) رخنہ اور چیزین کا
کاٹنا و حرۃ (فتف) ایک خروز
(فسفس) جمع - وقت گری ہیلی
زمین - ایک موضع ہے سراۃ
مین - مرد سخت کلام ان تلوار
سے گلا کاٹنا - دلمین کھٹکنا اثر

ج

خزر (فعنہ) سختی —

خزفرۃ (فسعفعنہ) ہتہیلی زمین ہموار کشادگی ہو — پہر کرنا — انجانا کو مضبوط باندہنا — مستعد اور آمادہ ہونا —

خزفۃ (کسفتفہ) سخت جگہہ

خزق (فعف) بخیلی —

خزق (کس) ایک قسم کی کانہی ہے چہوٹے یا لال کی مانند

خزق (کس) خزقہ (کسفہ) آدمی اور جانوروں اور شہد کی مکھیوں وغیرہ کا گروہ خزق (لکف) جمع —

خزق (منفت) خزقہ (ضفضتف) ٹہنگنا — جو بسبب ضعف بدن کے قدم پاس پاس رکہے — بڑہیا — جہنجہناکر چلنے مین سرین ہلاوے — سخت بخیل — بدخو مرد — تنگ کار — ایک قسم کا کہیل ہے —

خزق (فس) (ضق) اندر کو خوب گہنچنا اور تنگ کرنا — پادر مارنا — لپیٹنا — پہینچنا — رسی سے

مضبوط باندہنا —

خزقمہ (فنتف) ٹہنگنا جو ایسا کہ چلنے مین سرین ہلاوے

خزمیل (کسکس) ریا —

خزمیل (کسکس) ایک پیغمبر کا نام علیہ الصلوۃ والسلام —

خزقیل (کسک) بدخو —

خزک (ضض) (ض) لپیٹنا — پہنچنا — رسی سے باندہنا —

خزم (فف) اس آدمی کے گلے مین کوئی چیز اٹک جاتی گہوڑے کی کو کہہ تحمل پڑتی

خزم (فس) خزامۃ (ففسک) خزومۃ (ففسفک) اپنے کام مین ہوشیار ہونا

خزم (فس) اونچی اور سخت زمین خزوم (ضفض) جمع — کام مین ہوشیاری رکہنا — ہی مضبوطی —

خزم (فس) (ض) مضبوط باندہنا کہوڑے پر تنگ باندہنا

خزمۃ (فسعفنہ) لکڑی کا ادہ چارہ کا اور تانہ کا گٹہا —

١٠٥١

خرت ... (بفتح) ...

خرب (بکسر) خربا ...

... لغت ...

... بکسر ...

... (بکسر) ...

... ایک ... کا ... جمع

غمگین ہو جاوے

خرتوتہ ... وغیرہ

خرطوم (بفتح) ... ازار کا نیفا

گردن لگوشت کا ٹکڑا ہو جیسا

کٹا ہوا ہو

خرخرہ (بفتحتین) ... آواز

... کے سبب بہت ... کا

دکھی ... سر ... کا ... کے

... کو ... مین ... کو

پھوڑنا

خرد (بفتح) ... ایک

گہاس ہے یا خشک گہانس

... بوٹہ مین نقاشی

تیار کی ...

... (بکسرفتح) چھوٹا

... (بضمتین) جمع

خرد (بضم) لڑکا بلند زور

... اور جوانی کو پہنچ گیا ہو

... جمع ... سردار

ضعیف۔ مرد ... لغت اضداد

سے ہے

خرخر (بفتحتین) ... دہ اور

... کا کہنا اور زبان کاٹنے والا

ہو ... بچین ہوتا۔ ایک

چیز کا آواز کرنا کہتی ہے

خرزا (بفتح) اعوب کہتی

بچا چاہئے

خرزہ (بفتحہ) ایک درخت

ہے مزہ مین کھٹا۔ چھٹا ہوا

پیار ... حزرات (بفتحتین)

جمع کردو ابیر یا ادھیلی کرد ...

ایک نالہ ہے ... لوگونکا

... ہے

خرزوتہ (بفتحہ) تنگی کسی

چیز ... کسی پہ قید تنگ کرنی

کر دینا اور اپنی طرف متوجہ کرنا سلف کا کسی
درخت پر خرما کا اندازہ کرنا۔
حرِیث (فکسہ) کمل اور دشوار
کام حرب (فض) جمع
حزیران (فکسفس) رومیونکا
ایک مہینا ہے تموز سے پہلے۔
حریز (فکس) مرد سخت عمل۔
سخت ہموار جگہہ حزان (فتفس)
حزوز (فضفس) جمع۔
حزیق (فکس) بمعنی جازقہ (فکسف)
حزیقہ (فکسف) بمعنی جاز قتہ
یعنی جماعت گروہ سباغ۔ ہر چیز
مین کا ٹکڑا حزایق (فضسک) احزق
(فکس) حزق (ضتف) جمع۔
حزیم (فکس) سینہ۔ سینہ کا
بیچ جہان کا تنگ باندہتے ہین حزم
(ففض) جمع
حسَن (فت) حیلہ حذاقت اور
نظر کی تیزی اور تصرف بہ قدرت
حسّ (فت) (ان) جاڑے کا
گہاس کو جلا دینا۔ کسی کی حس و
حرکت دریافت کرنی۔ گوشت
کو آگ پر ڈال دینا تاکہ پک جاوے

کباب اور روٹی پر آگ بہیلانی
تاکہ پک جاوے۔ حیلہ سے مار ڈالنا
گہر بار سے او کہاڑ دینا کسیکو چوپایہ
پر کہریرہ کرنا اور اوسکی خاک دور
کرنی۔ سارے ڈالنا جاڑے کا ٹڈیکو
اس اخبر کو یقین جانتا اور گمان نہ کرنا
حسّ (فت) حسن (کت) (اون) ...
رحم کرنا ترس کہانا۔
حسّ (فک) ایک کلمہ ہے کہ
بے خبری مین کاٹنے کے جہہ
جانے اور چنگاری سے جلجانے
کے وقت کہتے ہین۔
حسّ (کت) حرکت۔ کسی چیز کی
آہستہ چلنے کی آواز جو کان مین
آوے اور وہ چیز دکہائی نہ دے
۔ درد کہ جو عورتون کو جننے کے پیچھے
عارض ہووے۔ جاڑا کہ گہاس کو
جلا دیوے۔ کچھ چیز۔
حسّاب (فکفس) شمار کافی
اور بس۔ لوگونکی جماعت کثیر۔
حساب الجمل ابجد کا حساب
حساب البرجان عدد مجموع
مضروب اور مضروب فیہ کا

۱۰۵۳

حزنبتة (ضفضبت) ٹھنگنا ۔
مکر (فسفسا) بادشاہ ۔
حزنبرة (فسفف) کلمہ [illegible]
حزم اور ہوشیاری سے کچھ
کرنا کے شگوفہ کا پھٹ جانا
حزنبل (ک) انچ عورت ۔
حزنبور (ضفس) حرز
[illegible] سب کا سب ۔
حزنی وا لله خدا کی قسم ۔
حزن (فس) غم احزان
(فسفس) جمع [illegible] غمگین کرنا
حزن (فس) (س) غمگین
ہونا ۔
حزن (ضف) کہردہرے
پہاڑ حزنة ایک ۔
حزن (ک) حزین [illegible]
غمگین حزان (کفس) حزنا
(ضفضم) جمع ۔
حزن (فس) سخت زمین
ضد سہل ۔
حزنبل (فسفس) بیوقوف
عورت ۔ ٹھنگنا مرد [illegible]
کا مضبوط [illegible]

ایک جو ہے کہ شام اور بیت المقدس
کی طرف [illegible] میں ہوتا ہے
[illegible] شرم [illegible]
[illegible] کی [illegible] میں ہے ۔
حزنتہ (فسف) کہردہری [illegible]
حزنی (فسکت) اونٹ وغیرہ
کہ سخت زمین میں چرے ۔
حزو (ضن) (ال) فال نکالنی
غیب کی خبر نکالنی ۔
حزورة (فسف) نابالغ
چھوٹا ٹیلا حزاور حزاور جمع
حزوکل (فسف) ٹھنگنا ۔
حزولق (فسف) ٹھنگنا
گول بدنکا ۔
حزون (فسف) بدخو بکری
حزونتہ (ضفسف) زمین کا
کہردہرا ہونا ۔
حزونتہ (ضفسف) جگہ
کا سخت ہونا ۔
حزی (فس) (ض) بمعنی حزو
(فس) جانوروں سے فال
لینی ۔ فال نکالنے کے لئے
جانوروں [illegible]

نیکی خوبی ۔ باپ دادون کا شرف ۔ شان ۔ کشادگی عیش آدمی کے رشتہ دار الحساب (فسفس) جمع

حُسْبَان (کسفس) جانچ ۔

حُسْبَان (کسفس) (س) جانچنا

حُسْبَان (فسفس) شمار یہ لفظ جمع ہے واحد اسکا حسابۃ عذاب ۔ بلا ۔ بدی ۔ غبار ۔ ٹڈی ناوک کے تیر ۔ اولا مینہ کا

حُسْبَانَۃ (فسفسف) ایک اولا مینہ کا چھوٹا ٹکڑہ ۔ چیونٹی بجلی ابر

حُسْبَۃ (فسف) اونٹ کے رنگ مین سرخی و سپیدی ملی ہوئی ۔ آدمی کے بال کی سفیدی کہ سرخی مایل ہو ۔ آدمیون کے بال کی سپیدی اور سرخی بسبب سپیدی جلد کے برنکا ابلق ہونا ۔

حِسْبَۃ (کسف) محتسبی مزدوری ۔ مزدوری کی امید ۔ خدائے عزوجل سے ثواب کی امید حسب (الضا) جمع ۔ تدبیر ۔

حَسْبَلَۃ (فسفسف) حسبی اللہ کہنا یعنی کافی ہے مجھکو اللہ ۔

حِشْتَۃ (کتف) حالت ۔

حُشْحَاس (فسفس) تلوار جو گہر بار کو ہلاک کردے ۔ جوانمرد

حَشْحَشَۃ (فسفف) رونا ۔ غم کرنا ۔ ترس کہانا ۔ رحم کرنا ۔ گوشت کو آگ پر ڈالنا تا کہ پکجاوے

حسد (فعفا) حسود (فعفس)

حسادۃ (فسفسف) حسدۃ (فکسف) (ان ض) برا چاہنا اور تمنا کرنی کہ اوسکی بزرگی اور نعمت میری طرف چلی آوے اور اوس سے زائل ہو جاوے

حِسْدِل (فسف) کلی ۔

حَسْر (فس) (ض) شاخ پیر سے پوست اوتارنا (ان ض) تنگا کرنا ۔ ہانکنے کے سبب اونٹ کو تہکا دینا ۔ گہر مین جہاڑو دینی ۔

حَسْر (فف) حسرۃ (فسف) (س) پچہتانا ۔

حَسْرَۃ (فسف) افسوس ۔ پچہتاوا ۔ پشیمانی ۔

حَسْرَی (فسف) تہکی ہوئی مادہ

حَسْحَسْف (فس) کانٹا سا پیری

ماده

٤٥٥

[illegible]

... میں ... کرنا
... میں ... کو ...
... اور دانت
...
حسابن (فس) ...
... دل
حسابس (فس) حسابا ادراک
... بہت ہو
حساشل (فس) جمع ... کی
کہ جسے ... کہتے ہیں ... ٹکڑے ہوں
ٹکڑے کسی چیز کا ریزہ ۔
بدخوئی ۔ شوخی ۔
حساس (فسک) اوس چیز
کے حقین کہتے ہیں کہ جیسے ...
اور خار دین ۔
حساف (فس) کھیت کاٹنا ۔
حسافة (فسف) خراب اور
بگڑ کر جو خرما درخت سے گر پڑے
خرما کے پوست غصہ ۔ کینہ و
دشمنی ۔ تھوڑا باقی بچا ہوا طعام
۔ چاندی کا برادہ ۔
حسافة الناس نیچ لوگ
حسافة (فسف) کینہ و دشمنی

حساسات (فسک) ہر چیز کے
...
حسافة الجند لشکر کا ہیر بنگاہ
حسالة (فسف) چاندی ۔
چاندی کا برادہ جو وغیرہ کی
بھوسی
حسام (فس) ابر جسے کاٹ
لی تلوار ۔ تلوار کی باڑ جس سے
مارتے ہیں ہجرات جس میں ساری
بزرگ ... ہے ۔
حسب (فس) کافی اور بس ۔
حسب (فس) حسبان (فس)
حساب (فس) حسبة (کسف)
حسابة (کفسف) (ا) شمار کرنا
حسب (فس) حسبة (کسف)
(ا) مردہ کو کفن میں کر کے گور
میں رکھنا یا سنگستان میں دفن کرنا
حسب (فف) حسابة (فسف)
(ک) صاحب حسب ہونا ۔
حسب (فف) گنا ہوا ۔ اندازہ
۔ آدمی کا جوہر اور بزرگی نسب
کی راہ سے ۔ سیان ۔ دین ۔ کرم
۔ شرافت بالفعل ۔ نیک عمل ۔

حسّم (فعل) (ض) قطع کرنا کاٹنا رگ کو کاٹ کر لوہے سے داغ دینا تاکہ خون بند ہو جاوے مرض کو دوا سے کاٹ دینا دور کرنا کسی کو کسی سے روکنا۔

حسمی (صفت) بہت بالون والا آدمی۔

حسن (صف) خوب و نیک خوبصورت ایک خوبصورت خوشنما درخت ہے۔ ایک ندی ہے کہی کے پاس

حسن بعدہ حسین (صفت) حضرت جناب خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے دو صاحبزادے انکا اسم مبارک علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

حسن المحضرۃ مرد جو غائبون کا ذکر بھلائی کے ساتھہ کرے۔

حسن المحضرۃ بمعنی حسن المحضرۃ

حسن (فعل) جمال خوبصورتی خوبی و نیکی محاسن (صفت) جمع غیر قیاس (ک ن) خوب اور نیک ہوجانا۔ خوبصورت ہونا۔

حسنۃ (صفت) نیکی خلاف سیئۃ

حسنات (صفت) جمع۔

حسنۃ (صفت) حسناء حسناء حسانۃ (صفت) خوب اور نیک عورت۔ خوبصورت عورت حسان (صفت) حسانات (صفت) جمع۔

حسنۃ (صفت) پہاڑ کا کونہ نکلا ہوا حسن (صف) جمع۔

حسنی (صفت) ایک کنوان ہے چاندی کی کہان کے پاس۔

حسنیٰ (صفت) ضد سوائی یعنے انجام نیک خدا سے عزوجل کو دیکھنا۔ فتحمندی شہید ہونا حسنیات (صفت) حسن (صفت) جمع۔

حسو (فعل) (ن) پرند جانور کا پانی پینا شرب الطائر نہین کہتے۔ تہوڑا تہوڑا شوربا پینا پتلی چیز جسے پی سکین۔

حسوّ (صفت) بمعنی حسو مرد بہت پینے والا۔

حسوۃ (صفت) وہ اندازہ جس سے موتہہ بہر جاوے اسکا حسا (جمع) ایکبار پانی پینا۔

۱۰۵۷

کردانی ہے
حشف (فس) ان ایک کان
سا ... پھٹی ہین ہے
... جب اپنے ...
... بکری یا کسی ...
... کے ساتھ یا عورت کی
... ران کے نیچے سے جماع
کرنا تو ... 
حشف (فس) ... کو ... سے
دور کرنا ناکارہ ہونا۔
حسف (فض) (س) کینہ ور ہونا
غصہ کرنا
حسفہ (فسم) ہلکا ابر۔
حسفل (کسک) ناکارہ چیز
چھوٹے چھوٹے لڑکے ہر ایک
جانور کا چھوٹا بچہ
حسفل (کسف) کشادہ پیٹ والا
حسک (فق) خسک کہ تین پہلو
دار کانٹا ہوتا ہے حسکۃ ایک
تین کونے کے کانٹے ... سولی کو کہتے
بھی کہتے ہین جو لوہے اور بانس
کے بنائے ہین اور لشکر وغیرہ

... کے گرد ... ڈالدیتے ہین تا کہ
دشمن آنے نہ پاوے سخت کینہ
دشمنی
حسک (فض) (س) غصہ کرنا
اور دشمنی کرنی۔ جو یا چارہ
کھانا چوپایہ کا
حسک (فک) غصہ کرنے والا
دشمنی کرنے والا۔
حسکل (کسکہ) خار پشت۔
حسکل (کسکف) ہر چیز ناکارہ
حسکل (کسک) ہر جانور کا چھوٹا
بچہ حساکل (فضک) حسکلۃ (کسکف)
جمع جو گرم لوہے مین سے کوٹتے
وقت اڑتے اور ... گرے
حسکلۃ (کسفف) ناکارہ اور نکما
خرچ کرنا۔
حسکلتان (کسکفس) دونون خصیے
حسل (فس) بیری کا کچا پہل
(ن) ہا ... دفع کرنا ... کر دینا
ناکارہ کو باقی چھوڑنا۔
حسل (کس) سوسمار کا بچہ کہ
انڈے سے نکلا ہو حسول (فضس)
حسلان (کسفس) حسلۃ (کفف) جمع

مادہ

حسیلۃ (فکسف) سوکہا خرما خراب
کہ شیرین نہووے ۔ سپج اوحش گائے
کا بچہڑا حسیل (فکس) جمع ۔
حشنینا، (ضفسفسم) ایک درخت
ہے پتے اوسکے چہوٹے ہوتے ہین
حشش (فت) کہجور کا درخت جو
بغیر خبرگیری کے چہوٹا رہجاوے
حشان (کتفس) جمع ۔ باغ کہجور
کا باغ ۔ پیخانہ پہرنے کی جگہہ حشوش
(ضفس) حشون (فتفس) جمع ۔
حشش (فت) (ن) آگ کو بہڑکانا
اور کریدنا ۔ ہاتہہ شل ہوجانا ۔
خرما کا بودا خشک ہوجانا ۔ گہوڑے
کا تیزرو ہوجانا ۔ گہاس کہودنی
کسی کے حال کی درستی کرنی ۔ مال کو
زیادہ کرنا اور بڑہانا ۔ شکار کو
اوسکی دونون طرفون سے پکڑنا
گہوڑے کو گہاس دینی ۔ تیر
پر پر لگانے ۔ بچہ کا پیٹ مین
خشک ہوجانا ۔
حشش (کت) کوئی چیز کچہ
حشش (ضت) مرا ہوا بچہ ماں
کے پیٹ مین ۔

أحشا (ففس) پیٹ کا اندرونہ
احشار (فسفسم) جمع سناخیہ ۔
حشار (ففسم) (ف) پہلو اور
شکم پر کوڑے سے مارنا ۔ کسی
کے پیٹ پر تیر مارنا ۔ جماع کرنا ۔
آگ بہڑکانی ۔
حشاۃ (ففس) کالی زمین بیفائدہ
حشاۃ (ففس) سخت
زمین جسپر تہوڑا ہی سا پانی رواں
ہوجاوے ۔ وہ زمین کہ جبتک
کہ اوسپر بہت سا پانی نہ برسے
جاری نہو ضد ۔
حشاشۃ (ضفس) بیمار مین
اور زخمی مین جان کا بقیہ یوم حشاش
عرب کی لڑائیون مین سے ایک دن
حشاش (کفس) گون کہ جسمین
گہاس بہرتے ہین ۔
حشاش (فتفس) گہسیارے
حشاشاۃ (ضفسفس) دونون
جانبین گون کی جسمین گہاس کہ بہرتا
حشافۃ (ضفسف) تہوڑا
پانی
حشاک (کفس) لکڑی جس سے

۱۰۵۹

(فتفس) ...
... سے عاجز ہونا بینائی کا
ننگا ہونا تھک جانا چوپایہ کا
تھکنا ہونا پانی کا۔
حشوس (فتفس) کال پڑنا ...
حشوم (فتفس) الم ہو کر خشک
سے عاجز ہونا تھک جانا ... 
... ہے۔
حسی (فس) چھوٹا کنواں نرم زمین
مین کہ پانی کے پاس ہو یانی جیسے
ریت ہو جب اوپر سے ... تو ... مین
پانی نکل آوے اور منقطع نہو جیسے
(فتفس) جمع۔
حسی (کف) (ض) حسی (فس)
کھودنا۔ ریت مین سے پانی باہر
نکالنا۔
حسلی (فف) (من) دل کی بات
کو جان لینا۔
حسیب (فکس) مرد صاحب
حسب حسبا (فتفسم) جمع۔
شمار کرنے والا کفایت کر جانیوالا
حسیبة (فکتف) بمعنی حسا یعنے
سر تیلی چیز جیسے بٹیین۔

... (فکس) تھکا ہوا ہر چیز
سے عاجز ... (فسفس) اچ
پہچاننے والا۔ چندھی آنکھہ کا مرد
حسیس (فکس) ایک چیز کے
آہستہ چلنے کی آواز کہ دکھائی
نہ دیوے۔ مار ڈالا ہوا۔ ٹنڈی
جو جاڑے مین مرگئی ہو۔
حسیف (فکس) سانپ کی
اپنے آپ کو کھجلانے کی آواز کینچلی
مین سے نکلنے کے لیے۔ ریگستان
مین کنواں کھودا ہوا جسکا پانی بہ
سبب کثرت کے منقطع نہو۔
حسیفة (فکسف) غصہ۔ کینہ۔
دشمنی۔ جو خرما کہ درخت پر سے
خراب ہو کر گر پڑے۔
حسیک (فکس) ٹھہنگنا۔
حسیک الصدر کینہ اور دشمنی والا
حسیکة (فکسف) جو کہ چوپایہ کو
کھلاوین۔ خار نبات جانور کینہ
دشمنی۔
حسیل (فکس) پالی ہوئی
گائین سنا کارہ اور خراب ہر ایک
چیز مین سے حسل (ضفض) جمع۔

حشط (فف) (ض) ایک چیز ایک چیز پر سے اوٹھا لینی تاکہ وہ ننگی ہوجاوے چوپایہ کی پیٹھ پر سے جھول اوتارلینی پوست اوتارنا۔

حشف (فس) سوکھی روکھی روٹی

حشف (فف) سب سے بڑا خرما خراب سوکھا خشک پستان۔

حشفة (ففف) ذکر کا سر ختنہ کی جگہہ تک۔ کھیتی کی جڑین کہ بعد کاٹنے کے باقی رہین۔ بوڑھی بڑی عمر کی عورت۔ گندہا ہوا آٹا خشک۔ زخم کہ آدمی اور اونٹ کے نرخرے مین ہوجاوے۔ چکنا پتھر کہ اوسکے گرداگرد کی زمین نرم ہو یا وہ پتھر جو دریا مین پیدا ہو۔

حشاف (کفس) جمع۔

حشك (فس) (ض) دودہ نہ دوہنا جبتک کہ ناقہ کی پستان مین دودہ جمع ہوجاوے۔ بہت پانی والا ہوجانا ابر کا۔ بہت پھلدار ہوجانا کھجور کے درخت کا۔ جمع ہوآنا قوم کا۔ سانس اوکھڑجانا۔ کمان کا سخت ہوجانا۔ آسمان کا ہلکا مینہہ برسانا۔ مختلف ہوائیں چلنی۔ ناقہ کا پستان مین دودہ جمع کرنا

حشاك (فف) پستان کی بہت چربی شیری یا جلد جمع ہوآنا دودہ کا پستان مین جالکنا نی سخت۔

حشك (فف) (س) بچو کھانا چوپایہ

حشكة (ففف) سب کا سب۔

حشكة (فسف) ہلکا مینہہ۔

حشل (فس) ناکارہ ہر چیز مین سے

حشل (فس) (ض) ناکارہ کردینا

حشم (فس) (ض) شرمندہ کرنا اور پشیمانی دینی جسکے سننے کو ناپسند رکھے اوسے سنوانا۔

حشم (ضف) بہت حیا اور شرم والا

حشام (فسفسم) ہمسائے مہمان بہت سے

حشمة (کسف) شرمانا اور کسی سے منقبض ہونا۔

حشمة (ضسف) جور و حق حرمت قرابت۔

حشمة الرجل مرد کے نوکر چاکر اور کنبہ کے اور ہمسایہ کے لوگ جو اسکے لیے اور رونیر غصہ کرین۔

حشن (فف) دودہ کی چکنائی کا میل (س) دودہ کی مشک کا بودار اور میلا ہوجانا بسبب دیر تک رہنے

١٠٦١

بکری کا کے بچہ کا موہنہ باندہ دینا
تا کہ دودہ نہ پیوے۔
حشکة (فسفف) عیال
حشفة (فسفف) بُزاقیہ حشش
(فتفعل) جمع
حشحشة (فسففف) ہلنا پراگندہ ہونا
حشد (فس) جماعت (ض) ،
جمع کرنا۔ تمام آگے آنا کھیتی کا مدد
کے واسطے جمع ہو آنا یا آواز
دینے والے کے پاس جلد آپہنچنا
یا ایک کام کے لئے جمع ہو آنا۔
ناقہ کا پستان میں اوتار لانا دودہ کا
حشف (فک) ہو کر کوشش اور
مدد اور مال خرچ کرنے مین افسوس
نکرے۔ آنکھ جسکا پانی خشک ہو
تاکہ بغیر بہت پانی کے جاری نہووے
حشر (فس) لطیف و باریک
کان واحد تثنیہ جمع برابر ہے۔
لطیف پیر کہ تیر مین لگاوین سا باریک
(ان) دلس سے باہر ہونا۔ لوگون
کے مال اور چارپایون کو قحط کا
تباہ کر دینا (ن ض) لوگونکا جمع کرنا
سنان اور نیزہ وغیرہ کو باریک
کرنا لطیف کرنا۔ برانگیختہ کرنا۔
ہانکنا دفع کرنا۔
حشر (فس) ۲ پہنسی۔
حشراة (فففس) زمین مین
گہس رہنے والے اور کاٹ کہانے
والے جانور یا چہوٹے جانور زمینی
جنگلی پہل درخت سلم وغیرہ کا۔
حشرة (فسف) زمین مین
گہسنے والے اور کاٹنے والے
جانور۔ پوست کہ گیہون کے دانہ سے لگا ہو
ہو حشر (فف) جمع۔ سارا شکار
یا اوسقدر کہ جتنا کہایا جاوے
۔ دودہ کی مشک کا میل
حشرج (فسفف) کنکریون کے
درمیان مین کوان کہ جسکا پانی
پاس ہو۔ بہت باریک کوزہ جسمین
پانی سرد ہوجاوے۔ پہاڑ مین
گڑہا جسمین پانی صاف ہووے
چہوٹے ڈہیلے کی مانند۔ حشرجة (فسففا)
حشرجة (فسفف) آمد و رفت
کرنی جانکی حلق مین مرگ کیوقت
اور یا اوس حالت مین حلق مین آواز کا پہرنا
گہگہے کی آواز کا حلق مین پہرنا۔

عورتین پستان یا سینہ پر باندھ لیتی
ہین تاکہ بڑا دکھلائی دیوے۔
**حشیش** (ف ک س) سوکھی گھاس
تر کو حشیش نہین کہتے۔
**حشیف** (ف ک س) پرانا کپڑا۔
**حشیکۃ** (ف ک س ف) نجو کہ چوپایہ
کو دیوین۔
**حشیلۃ** (ف ک س ف) عیال
**حشیم** (ف ک س) صاحب حشمت۔
**حصص** (ف س)، (ف ض) بچہ کا
دودھ پینا پستان سے یہانتک کہ اوسکا
پیٹ بھر جاوے پانی سے سیراب ہونا
گوز مارنا۔
**حصش** (ض ت) اسپرک گھاس یا
زعفران حصوص (ض ض س) جمع
موتی کا دانہ۔
**حصص** (ف ت)، (ن) سر مونڈنا۔
پناہ دینی۔ کسی کو حصہ دینا۔ خوب
دوڑنا۔ کسی چیز کو کم اور ناقص کر دینا۔
**حصاء** (ف ق س) عورت جسکے سر کے
بال جاتے رہے ہوین۔ بے نفع و کم
فیض سال۔ بے برکت عورت۔ ہوا
صاف جسمین گرد و غبار نہو۔

**حصاۃ** (ف ک س) یعنی مین کنکری
پھینکنے کی جگہہ جسے محصب (ض ف ت ف)
بھی کہتے ہین۔
**حصاۃ** (ف ک س) بند ہاہوا پیشاب
کہ کنکری کی مانند مثانہ مین لزج و لسدار
غذاؤن کے کھانے سے ہو جاوے
عقل و رائے و ہوش۔
**حصاۃ المسک** سخت ٹکڑا
کہ مشک کے نافہ مین ہوتا ہے۔
**حصادۃ** (ف ف س ف) کھیتی کاٹنے
کا وقت۔ ایک گھاس ہے جسکے
کھانے سے بکری کو علت حباط
عارض ہو جاتی ہے کٹی ہوئی
کھیتی۔
**حصار** (ک ف س) ایک طرح کا اونٹ
کا پالان اور وہ تکیہ کی مانند ہوتا ہے
اوسے اونٹ پر ڈالدیتے ہین اور
آگے پیچھے سے بلند کرتے ہین اور
اوسپر سوار ہوتے ہین۔ پناہ کی جگہہ
کہ دشمن سے محفوظ رکھے۔ کسی کو
لڑائی مین حصار مین کر دینا۔
**حصار** (ف ف س) ایک جماعت
کا نام ہے۔

[illegible]
حشو (کسف) کینہ
حشو (فس) چہوٹے اونٹ
بچہ کا [illegible]
زیادہ بات [illegible]
کی بہرتی
حشو (فس) [illegible] کسی کے [illegible]
[illegible] بہرنا
حشوۃ البطن (...) انتڑیان
حشود (فس) [illegible]
اوسکی پستان مین جمع ہوجاوے
تا کہ [illegible] جنتی [illegible]
ہونے مین خطا نکرے۔
حشورۃ (فسفف) گہوڑا جسکی
کوکہہ نکلی ہوئی ہو۔ بوڑہی عورت بیکوس
عقلمند۔ بڑے پیٹ والی عورت۔ چوپایہ گول
بدن کا مضبوط پیدائش کا۔ حشو ایک
حشوم (ضفس) تکان۔ انقباض
ڈہونڈہنے والے۔ بعد لاغری کے فربہ
ہونا۔ شروع بہار مین چر کر موٹا اور
بڑے پیٹ ہوجانا چوپایہ کا۔ کہالینا گہاس
کو پانا۔
حشویۃ (فسکتف) چند فرقے مین

[illegible] خوارج
حشا (...) جو کچھ پیٹ کے
[illegible] جگر تلی اوجہہ وغیرہ یا وہ
چیز کہ [illegible] پہلو اور سرین کے
درمیان مین ہے یا وہ چیز کہ ظاہر شکم
[illegible] کے درمیان مین ہے۔ آدمی
کی کمر سانس کو ناحیہ۔ بغل
ایک موضع ہے مدینہ کے پاس۔
حشی (فکف) ایک گہاس ہے
جسکی جڑ [illegible] ہوگی اور بدبودار ہو
ایک سوکہی گہاس ہے۔
حشی (فس) اس سانس چڑہ
جانا۔ دودہ کی مشک کے اندر میل
جم جانا کہ اوسکی بدبو دور ہو۔
حشی (فکف) حشیان (فسفس)
صیغہ صفت مذکر حشی سے۔
حشیۃ (فکف) حشیا (فسفسم)
صیغہ صفت مونث حشی (فعس) سے
حشیب (فکس) گاڑہا دلدار
کہردرا کپڑا۔
حشیمۃ (فکتف) توشک اور
نہالی جسمین کچہ بہرا ہو حشایا
(فففسفس) جمع۔ چہوٹا سا تکیہ کہ

ماده

حصحصت (فسفف) نکلا ہونا ظاہر
ہونا۔ حق کا باطل سے ظاہر ہو جانا۔
ایک چیز کو کسی چیز مین حرکت دینی تاکہ
مضبوط ہو جاوے۔ چلنے مین جلد
بازی اور تیزی کرنی۔ داہین بائین
سے خاک کہودنی۔ کسی کے سامنے
منت و الحاح کرنی۔ اونٹ کے
دو گہٹنے ٹیکنے اوٹھنے کے لئے قیدی
کی چال قیدی کا چلنا۔ ایک چیز کا
ہاتھ مین پہرانا اور ہلانا۔
حصد (فف) ایک گہاس ہے۔
سوکہی گہاس۔ تار و نمین اور سوتون
اور زرہ مین ریزہ کاری اور
کاری گری کرنی۔ کہیتی کٹی ہوئی۔
حصد (فس) (ن) مر جانا۔
(ن ض) کہیتی کو درانتی سے کاٹنا۔
حصداء (فسفسم) زرہ جسکے
حلقے تنگ ہون اور مضبوط بنی
ہوئی ہو۔ درخت بہت پتون والا۔
حصر (فف) تنگ دلی بخیلی بات
مین رکاوٹ اور بستگی (ک س) پستان
ناقہ کے سوراخ تنگ ہونا بخیل ہو جانا
جماع سے باز رہنا۔ پڑہنے مین بایات
الجہنے مین رک جانا۔ بہید کا نگاہ رکہنا
حصر (فک) بخیل۔ بہید و مرد۔
حصر (فسن) قبض پیٹ کا (ن)
پیٹ مین قبض ہو جانا۔
حصر (فس) (ن) گہیر لینا (ض ن)
تنگ گیری کرنی۔ کسی کو سفر وغیرہ سے
روک دینا۔ اونٹ پر چہار باندہنا۔
حصراء (فسفسم) عورت جسکی شرمگاہ
کا سوراخ بند ہو۔
حصربتر (فسفف) تنگی بخیلی۔
حصرم (کسک) خرما کہ ابہی پکا
نہو۔ بہت بخیل مرد کہ خرما کو بہی نچوڑے
انگور کا سبز غورہ۔ لوہے کا کانٹا
جس سے ڈول کو کوئین مین سے
نکالین۔ ٹہنگنا۔ جنگلی انار کا تازہ
پہل۔ ناکارہ چیز۔
حصرمة (فسفف) مشک بہرنی
کمان کو چلہ سے سخت کرنا۔ قلم تراشنا
رسی کو سخت بٹنا۔ بخیلی۔
حصص (فف) سر کے بال جاتے رہنے
حصف (فس) (ن) دور کرنا
انتہا کو پہنچا دینا۔
حصف (فف) سوکہی کہجلی۔

[illegible]

۱۰۶۵

[illegible] حصرم
[illegible] الیضاً
حصص
حصف
الیضاً

**حصاص** (ضفس) گدہے کا کان کہینچ کر یعنی دم ہلاتے ہوئے بہاگنا۔ تیز۔ تیز دوڑنا۔

**حصاصاء** (ضفسفسم) خاک۔

**حصاصۃ** (ضفسف) انگور کاٹنے کے بعد جو کچہہ باقی رہے۔

**حصافۃ** (ففسف) مضبوط عقل کا ہو جانا۔

**حصالۃ** (ضفسف) ہوا مین اڑانے کے بعد گیہون اور جو جو کچہہ کہلیان مین باقی رہین تلخ دانہ وغیرہ کہ گیہون مین سے نکلے۔

**حصان** (ففس) درہ و شگاف پارسا عورت یا خاوند والی حصن (ضمض) حصانات (ففسفس) جمع

**حصان** (کفس) نر گہوڑا اصیل جسکو عزیز رکہین حصن (ضفض) جمع

**حصانۃ** (ففسف) (ک) حصار وغیرہ کا مضبوط ہونا۔

**حصانیات** (ففسکفس) ایک جانور ہے۔

**حصب** (فس) (ض) کسی پر کنکری پہینکنی۔ زمین پر چلنا۔ کنکریان بچہانی کسی سے اعراض کرنا۔ لکڑی آگ مین ڈالنی۔

**حصب** (فف) کنکری۔ سوکہی لکڑی جلانے کی۔ جسکو آگ پر ڈالکر آگ کو بہڑکاوین۔

**حصب** (فف) (س) کمان سے چلہ کا منقلب ہو جانا

**حصب** (فف) (س) پوست کا جوشش خون کے سبب سرخ رنگ ہو جانا جوشش خون کے سبب علت سرخرنگی پوست مین مبتلا ہونا۔

**حصب** (زک) دودہ جسکا مسکہ نہ نکلے۔

**حصباء** (فسفسم) کنکری۔

**حصبۃ** (ففف) کنکری۔

**حصبۃ** (فسف) ایک قسم کی سرخ رنگی جو خون کے جوش کے سبب ہو جاتی ہے۔

**حصبۃ** (فکف) تیز ہوا جو کنکریان اوڑا لیجاوے۔ زمین جسمین کنکریان بہت ہون۔

**حصۃ** (کت) بہرہ حصص (کف) جمع

**حصحاص** (فسفس) خاک۔ رفتار سریع اور تیز جسمین کچہہ فتور نہو

**حصحص** (کسک) خاک۔ کنکری

حصیف (فکت) بڑا عقلمند مرد۔
حصید (فکس) کٹی ہوئی کھیتی مضبوط بٹی رسّی۔
حصیدہ (فکسف) کھیتی کے چھوٹے چھوٹے گڈھے درختوں کی جڑ مین جہان درانتی نہ لگ سکے کٹی کھیتی کھیت۔
حصیر (فکس) مرد تنگ دل۔ بوریا۔ ایک رگ یا گوشت کا ٹکڑا جو چوپایہ کے پہلو سے پیٹ تک ممتد ہو۔ پہلو۔ بادشاہ۔ قیدخانہ قید جو کہ بات مین رک جاوے۔ رستہ پانی۔ آدمیون وغیرہ کی صف روی زمین حصر (فضض) جمع۔ تلوار کا جوہر یا اوسکی دو طرف مرد بخیل۔ وہ جو بخل کے سبب شراب نہ پیوے۔ بنی ہوئی چیز خراب ناکارہ کپڑا۔ سیا نقش جو دیکھنے والے کو تعجب مین ڈالے۔
حصیرہ (فکسف) خرما سکھانے کی جگہہ۔ لنبا ٹکڑا گوشت کا کہ گھوڑے کے پہلو مین بہت لاغری کے سبب ظاہر ہووے۔

حصیری (فکسکت) بوریا بیچنے والا۔
حصیص (فکس) عدد شمار گھوڑا جسکے پاشنہ کے بال جاتے رہے ہون۔ بال جو جاتے رہے ہون اور گر گئے ہون۔
حصیصہ (فکسف) وہ چیز کہ گھوڑے کے بال سے بڑھ کر ہو۔
حصیف (فکس) مرد جسکی عقل درست ہو۔ مضبوط بنا ہوا کپڑا
حصیل (فکس) ایک گھاس ہے۔
حصیلہ (فکسف) جو کہ حاصل ہووے اوسکو جدا کرنا بقیہ۔
حصائل (فضسک) جمع۔
حصیم (فکس) چھوٹی کنکریان
حصین (فکس) مضبوط کہ کسی کو اوس پر قابو نہو اعلام مین سے ہے۔ مضبوط زرہ۔
حض (فت) حض (ضت)
حضیضی (فتکسفس) حضیضی (ضتکسفس) (ان) لڑائی پر برانگیختہ کرنا۔
حضاء (فس) (ف) آگ بھڑکانی آگ بھڑکنی۔ یا آگ کو کریدنا تاکہ اوس سے

حصف (فض) (س) سوکھی کھجلی مین مبتلا ہونا۔

حصل (ف) خرما کا غورہ جو سخت نہوا ہو یا سخت غورہ سبز و شگوفہ خرما کا یا دانہ وغیرہ جو گیہون کے صاف کرنے وقت نکلے ہیلین او رانچ کے بعد جو رہے اور گیہون کہلیان مین باقی رہین۔ گرد (س) خاک یا کنکری کے کہانے سے کہ گہاس پر تھی چوپایہ کے پیٹ مین درد ہونا۔ پتھری نکلنی بچہ کے خصیو نمین۔

حصلب (کسک) خاک۔

حصلم (کسک) خاک۔

حصم (فس) (ض) گوز ملرنا یا خاص ہے گہوڑے کے ساتہہ۔

حصماء (فسفسم) گدہی پادنیوالی

حصن (کس) پناہ او رمضبوط جگہ کہ اوسکے اندر لوگ پہنچ نہ سکین

حصون (ضفس) حصنة (نکف)

احصنة (فسفا) جمع۔ ہلاک ہتہیار

حصن (فس) عورت کی پارسائی

حصن (فس) پارسا ہوجانا عورت کا یا خاوند کرلینا۔

حصور (فسن) (ان) انتڑیون کا بند کرنا۔ روکنا۔

حصور (فضفس) بخیل اور تنگ دل مرد۔ ناقہ کہ اوسکی پستان کے سوراخ تنگ ہون۔ مرد کہ جماع سے باوجود قدرت کے پرہیز کرے۔ مرد ذکر کٹا ہوا خصیہ نکالا ہوا۔ مرد بخیل ڈرپوک کسی چیز سے رک جانیوالا۔ بھید چہپانے والا۔ یا مرد عورتونسی روکا ہوا یا وہ جو عورت کے ساتہہ رغبت نکرے اور اونکے گرد نپہرے

حصول (ضفس) حاصل ہونا باقی رہنا جبکہ علے صلہ ہو۔

حصوم (فضفس) گوز مارنیوالا۔

حصى (فف) کنکری اسم جنس ہے۔

حصاة (ففس) ایک کنکری حصیات

حصى جمع۔ عدد یا بہت۔

حصى (فف) (س) ایک چیز مین اثر کرنا۔ کنکری سے بہری ہونا زمین کا۔

حصى (فس) (ض) کنکری سے مارنا۔ کنکری ہوجانی پیشاب مین مرد کے مثانہ مین۔

1066

[illegible] ایضا

علامات اب افف کستم یعنے ض ضمک کسرہ س سکون ت تشدید م مد

پہالنس لینا جال کا رہدان پرندہ کو جو لکڑی کے ہوتا ہے جو ہین کہ دانہ پر چوچ ڈالے
حضب (فف) لکڑی جلانے کی اور جسے کہ آگ پڑا لکر آگ کو بھڑکاوین جیسے چہٹیان وغیرہ۔
حضج (کس) گدلا پانی جو اونٹون کے حوضون مین باقی رہجاوے احضاج (فسفیس) جمع۔ بیچ آدمی۔ جو من کا کنارہ
حضج (فس) (ضں) آگ بھڑکانی۔ پانی کا نیچے لیجانا ایک چیز کو۔ زمین پر دے مارنا۔ دھوبی کا پتھرے پر مارنا کپڑے کو دہوتے وقت۔ دوڑنا۔ پیٹ مین ایسی چیز لانی کہ جس سے پہٹ جاوے۔
حضجر (کفں) مرد دبلے سرین کا جسکا پیٹ بڑا اور فراخ ہو۔ دودہ کی مشک۔ دودہ کی مشک فراخ حضاجر (ففسک) جمع۔
حضجرہ (فسفف) بہرنا۔
حضجم (کسگ) بدن کا سخت گوشت کا دلدار اپر کار۔
حضجور (ضسفسس) دلدار ہوتی تھی
حضحض (ضسفض) ایک گھاس ہے

حضد (فض) بمعنی حضض (ضفض) یعنے رسوت۔
حضر (فس) مرد اور عورت کی شرمگاہ۔ اوپر کی چربی۔
حضر (فف) نزدیک۔ درگاہ حضور
حضر (فس) گہورے کی دوڑ گہوڑے کا دوڑنا۔
حضر (فک) جو کہ لوگونکے کہانے کا وقت تلاش کرے تاکہ وقت پر آبیٹھے۔ مرد کہ جو سفر کے کام کا نہو یا شہری مرد۔
حضر (ففں) صاحب بیان و فقیہ۔ جو کہ کہانے کا وقت تلاش کرے تاکہ وقت پر آبیٹھے۔
حضر (ضفض) بن بلائے لوگونکے دستر خوان پر بیٹھنے والا۔
حضرار (فسفسم) ناقہ کہ آگے بڑہ جاوے اور کہانے پینے مین بے باکی کرے۔
حضربۃ (فسفف) رسی باندہنی یا رسی کو مضبوط بٹنا۔
حضرۃ (فسف) نزدیکی۔ درگاہ۔ حضور۔ شہر خلاف بادیہ۔
حضرمۃ (فسفف) کلام مین غلطی

باوہ
ح ض ب
ح ض ج
ح ض ج ب
ح ض ج ر
ح ض ج م
ح ض ج ر
ح ض ح ض
ح ض د
ح ض ر
1069
الف
الف
الف
الف
الف
الف
ح ض ر ب
ح ض ر
ح ض ر م

[illegible]

حضاج (کفس) کسی کے سہارے [illegible] رکھی ہوئی۔

حضاج (ضفس) ہر وہ جسکی پشت خمیدہ ہو اور پیٹ نکلا ہوا ہو

حضاجر (ففسک) کفتار جانور کا نام ہے یا بجو سکیچہ کا۔ اونٹ جسکا پیٹ بکروی اور کہاری گہاس کہانے اور پانی پینے سے سوج گیا ہو

حضار (فس) اونٹ اچھے سفید یا اونٹ سرخ۔

حضار (فسک) بروزن قطام ایک ستارہ ہے جو سہیل سے پہلے نکلتا ہے

حضار حضار (ففسک ففسک) ایک کلمہ ہے جس سے برانگیختہ کرین یعنی آؤ آؤ حاضر ہو۔

حضارة (کفس) لڑکی کے چہرہ پر جو خوشبو ہو۔ قوی اونٹنیان اچھی چلنے والین۔

حضار (ضفس) اونٹ کی ایک بیماری ہے۔

حضار (کفس) آپسمین سوال و جواب کرنا۔ باہم دوڑنے

مین یا ابر تی کرنی۔ سرحامیہ سکے سب شہر حاکم کے پاس جانا۔ زبردستی سے کسی کا حق لے لینا۔

حضارة (ففسف) شہر مین رہنا

حضارة (کفسف) شہر شہر مین رہنا۔

حضان (کفس) (ک) ایک پستان کا دوسرے سے بڑا ہونا۔

حضب (کس) کمان کی آواز

حضاب (فسفس) جمع پہاڑ کا موہنہ اور اوسکا کنارہ۔

حضب (فس) ایک سانپ ہے یا نر سانپ دلدار یا سانپ سفید یا باریک سانپ۔

حضب (فس) (ض) آگ بھڑکانی یا اوس پر لکڑیاں ڈالنی تاکہ لو اوٹھے چرخی پر سے رسی اوس لکڑی پر گر پڑنی کہ جس پر چرخی پہرتی ہے رسی کا اولٹ جانا یہانتک کہ وہ کوئین مین گر پڑے۔ جہٹ پٹ

مین لوگون کی آوازین -
حضوضیٰ (ففسف) دوری آگ
حضون (ففس) بکری جسکے
پستان کے دوسرون مین سے ایک
یا دو پستان مین سے ایک دوسرے
سے لنبی ہو ایسا ہی عورت اور اونٹنی
اور وہ مرد کہ جسکا ایک خصیہ دوسرے
سے بڑا ہو - عورت کی شرمگاہ کہ اوسکا
ایک کنارہ دوسرے سے بڑا ہو -
حضیٔ (فک) نہایت سفید -
حضیٔ (ففکت) پتھر جو دامن کوہ
مین پڑا ہوا ہو -
حضیرۃ (ففکسف) خرما کی جگہہ
جگہہ - آدمیونکا گروہ یا چار مرد یا
پانچ یا سات یا آٹھہ یا دس یا دس
سے کم جو جہاد کے لئے جاوین -
لشکر کا ہراول - وہ جو کچھہ کہ جننے
کے وقت پیٹ مین سے نکلے -
حضفہ (فکس) حضائر ففسک
جمع - گاڑہا خون اور پوست مین
سے جو بچہ کے ساتھہ نکلتا ہے پیپ
جو زخم مین جمع ہو گئی ہو -
حضیض (ففکس) نچان - دامن
کوہ مین زمین کا نچان حفحض (ففف)
احض (فکلت) جمع - پتھر
حضیضۃ (ففکسف) اپنے قبضہ
تصرف کی ملک و مال -
حطٔ (کس) بچا ہوا پانی -
حطّ (فت) کمی - بدن کی نازکی
و نرمی (ن) چہرہ پہول آنا یا موٹا
ہو جانا - سکر کرنا - اوپر سے نیچے آنا -
پچہاڑنا - کمان مین سے چلہ نکال لینا
- منزل مین اوترنا - پالان اور زین
اوتارنا اونٹ اور گہوڑے پر سے
معمول مین سے کچھہ کم کر دینا -
چمڑے کو صاف اور صیقل کرنا اور اوسپر
نقش کرنا بیکال سے کہ ایک لوہے کا
اوزار ہے جس سے چمڑا سیتے ہین
اور نقش کرتے ہین -
حطأ (فس) (ف) زمین پر پچھاڑ
دینا - کسی کی پیٹھہ پر ہتیلی مارنی -
جماع کرنا - گوز مارنا - پتلا ہگنا - ہانڈی
کا جہاگ لے آنا - مارنا - ڈالدینا -
حطأ (فف) بڑی جون -
حطاب (ففس) لکڑیان بیچنے
والا - اونٹ کہ لکڑیون کے ٹکڑے کہاوے

[illegible] ۱۰۶۰

کرنا — درخت کا پوست اوکھیڑلینا — سخت جلد کرنا کمان کا — ملانا —

حضرمی (فسکت) منسوب شہر حضرموت کیطرف — باریک لطیف جوتی —

حضرمیتہ (فسفکعف) باریک ولطیف جوتی — تعلا ہے —

حضر میتر (فسفلقف) الکنت —

حضفض (ففہ) کچھہ تھوڑی چیز —

حضفض (ضفہ) دو طرح کی ہے عربی اور ہندی عربی تو خولان کا نچوڑا ہوا عرق ہے اور ہندی رسوت ہے کہ فیلزہرج کا عصارہ ہے ایک گھاس ہے — ایک دوا ہے جو اونٹ کے پیشاب سے بناتے ہین —

حضظ (ضفض) ایک دوا ہے جو اونٹ کے پیشاب سے بناتے ہین —

حضنف (کس) سانپ —

حضل (فف) (س) کھجور کی تھنون کی جڑ مین خراب ہونی —

حضن (کس) بغل سے لیکر کوکھہ تک یعنی کود — سینہ — دو بازو — جو کہ سینہ اور بازو کے درمیان مین ہے — چیز کا کنارہ اور جانب

احضان (فسفس) جمع — کفتار جانور کا گھر — پہاڑ پر وہ جگہہ کہ جسپر چڑہنے کے لئے چڑہ سکین — پہاڑ کی جڑ

حضش (فعہ) ہاتھی دانت —

حضن (فس) حضان (کفس) حضانہ (کفسف) حضون (ضفس) (ن) انڈے کو سینا — ہمسائون سے نیکی کرنے چھوڑ دینی

حضن (فس) حضانتہ (کففہ) (ن) بچہ کو گود مین لینا — دائی پنا کرنا — پرورش کرنا —

حضن (فس) حضانتہ (ففسف) (ن) ایک کو ایک کام سے روکدینا اور آپ اکیلا بغیر اوسکے اس کام کے لئے کھڑا ہونا کسیکو اوسکی حاجت سے روکدینا —

حضنیتہ (ففکتفہ) بکریان مادین نہایت کالی یا نہایت سرخ —

حضو (فس) (ن) چنگاریونکو جو کچھہ جلی تھین حرکت دینی —

حضور (فففس) حضارہ (ففسف) (ن س) حاضر آنا —

حضوضاۃ (ففسفس) لڑائی

حطم (ضفف) چرواہا جو چرپایونکو
سختی سے ہانکے اور رحم نہ کرے
حطمۃ (فسففس) جو چیز کہ ہر چیز
سے توڑیں حطم الخ جمع
حطمۃ (ضففہ) ذئون او ہڈیون کا
گل سخت جلتی ہوئی آگ ۔ دوزخ یا
اسکا درجہ ۔ و بمعنی حطم (ضف
مرد بہت کہانے والا ۔
حطمۃ السیل سیل کا ایک ریلا
حطمۃ الکسف (کمہ) سال سخت کی دوڑ
حطمرۃ (فسففہ) پر کرنا ۔ کمان مین
چلہ ڈالنا ۔
حطمط (کسکس) ہر چیز چھوٹی اور
حطمیۃ (ضفکتف) تلوار توڑنے
والی زرہ ۔
حطو (فسس) ان ہلتی چیز کو ہلانا ۔
حطواء (فسففسم) لال بکری ۔
حطوبۃ (ففسف) لکڑیونکا گٹھا
حطوط (ففس) نیچی زمین ۔ ناقہ
اصیل تیز رو ۔
حطوطی (ضفففس) بدخلقی تنگی
اور خوبصورتی
حطوطی (ففسفس) چھوہرا

مرد کم عقل ۔
حطوطم (ففسس) توڑنے والا
حطی (ضفس) ... شیر
حطیٰ (فکس) کینہ رو ۔
حطیطۃ (ضففہ) بد صورت
مرد تھگنا ۔ جرول شاعر کا لقب ۔
حطیئب (فکس) وہ مکان جہان
لکڑیان بہت ہون ۔
حطیط (فکس) چھوٹا مرد ناکارہ
حطیطۃ (ضففکف) لنگورہ ۔
حطیطۃ (الکسف) جسکی قیمت کم
کردی ہو یا وہ کہ جسمین سے کم کرین
حطیطی (ففسف) ابجی حطۃ
(کت) چھوٹا مرد ناکارہ ۔
حطیم (فکس) کنارہ کعبہ یا دیوار
کعبہ یا وہ جو رکن اور زمزم اور مقام
ابراہیم کے درمیان میں ہے یا وہ
جو مقام ابراہیم سے لیکر دروازہ کعبہ تک
ہے یا وہ جو رکن اسود اور دروازہ
اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہے
کہ وہان لوگ خشوع و خضوع سے
دعا کرتے ہین اور زمانہ جاہلیت
مین وہان سوگند کہاتے تھے ۔

حطاب (فتس) انگور کا تنا
حطابۃ (ضعف) بکسر حطب لکڑیان چنا
حطاط (فتس) سر کی پھنسی بالا
آبلہ ۔ چہرہ کی پھنسی پھپھوندی جو زخم نکلے ۔ جو ہر کا جبالی
حطاط (فتس) بڑی ہونا
حطاط الکمرۃ وذکر کے کنارے
حطاط (فتس) جہاز پھینکے وقت تیز چلنا اونٹ کا نجات تیعون
حطاطۃ (ضعف) ناکارہ مرد
چھوٹی عمر کی لڑکی ہر چیز کہ جسے چھوٹا جانیں ۔
حطام (ضفس) ریزہ ہر چیز خشک مین کا ٹوٹا ہوا ۔ تھوڑا مال دنیا کا کہ قابل فنا ہے ۔ انڈے کا چھلکا ۔
حطام (فتفس) شیر اسد ۔
حطامۃ (ضفسف) جو کہ سوکھی چیزین سے توڑین ۔
حطان (کتفس) تکہ یعنی بوک بکرا
حطائط (ضفسکہ) ناکارہ مرد ٹھنگنا ۔ بھوری چیونٹی ۔ جمع حطائط حطائط یعنی ہوتی دندار فرج ۔
حطب (فف) جلانیکی لکڑی ۔ سخن چینی ۔

(س) لکڑیون سے بھرا ہوا مینوز ہر کا
حطبۃ (مکسر) دبلا سوکھا مرد ۔
حطب (ضس) سخن چینی کرنی یا کسیکے لیے لکڑیان اکٹھی کرنی کسی کی سخن چینی کرنی بدو کرنی
حطحط (کتف) ایک چیز کی خواہش رمضان جیسے کا نام ۔
حطحط (ضسس) صلہ رحم ۔ لڑکی کا خوش ہونا ۔
حطحط (ضسف) ہو تڑنا ۔ جلدی کرنی ۔
حطر (فس) (ان) جماع کرنا کمان مین چلہ ڈالنا ۔ زمین پر گر پڑنا چھوڑا مستعمل ہے ۔
حطرۃ (فسف) سخت کردینا کمان کو چلہ سے ۔ معاش اور عادات کی تنگی ۔ بد خوئی ۔
حطط (ضض) بہت سے بدن نرم و نازک ۔
حطل (کس) بھیڑیا احطال جمع
حطلم (ضکہ) شکستہ حال یا بڑھاپے کے سبب گھوڑا شکستہ حال ۔
حطم (فف) ایک بیماری ہے جو چوپایہ کے پانون مین ہو جاتی ہے بسبب بڑی عمر کا ہو جانا چوپایہ کا اور ضعیف ہو جانا

خراب ہو جانی ۔ سکری کا لنگڑی ہو جانا اور اونٹ کا بسبب کہ ملس پستان کے متغیر اللون ہو جانا ۔ تنگ گیری کرنے والا کنبہ کو خرچ دینے میں کمی کر دینا ۔ ... تنگ دست ہونا

حظل (فف) اونٹ کا حنظل بہت کھالینا ۔

حظل (فس) حظلان (کسفس) ان میں کسی کو تصرف سے اور حرکت سے اور چلنے سے روک دینا ۔

حظلان (ففس) غصہ ہوئے کی رفتار (ن) غصہ ور کی طرح چلنا ۔

حظلان (کسفس) خرچ کی تنگ گیری کنبہ پر ۔

حظلبة (فسغف) تیز دوڑنا ۔

حظنبی (ضفسفس) فربہ بدن

حظو (فس) حصہ (ض س ن) موٹا ہونا ۔ پر شکم ہونا ۔

حظوة (فسف) ہاتھ بھر کا چھوٹا تیر جس سے لڑکے کھیلتے ہیں ہر شاخ کہ درخت کی جڑ میں اگ آئی ہو اور ابھی سخت نہ ہوئی ہو حظاء (کفس)

حظوات (فففس) جمع

حظوة (ضسف) مرتبہ ۔ روزی کا حصہ حظی (کتف) حظاء (کفس) جمع

حظوة (ضسف) جورو خاوند کا ایک دوسرے سے بہرہ مند ہونا اور دولتمند ہونا ۔ کسی پر فتح پانا ۔

حظول (فضیس) بمعنی حظل (فف)

حظی (کت) بمعنی حظیظ (کسیس) بہرہ ور دولتمند کا ساتواں گھوڑا ۔ صاحب مرتبہ و دولت مند ۔

حظی (فف) جون حظاة (ففس)

حظی (کف) حصہ احظ (فسک) جمع احاظ جمع الجمع ۔

حظیا (ففتفسم) رفتار آہستہ

حظیة (کتف) العیبہ ور دولتمند لونڈی جسے جورو سے پوشیدہ رکھیں

حظایا (ففسفس) جمع حصہ نصیب

حظیة (ففف) بے پیکان کا چھوٹا تیر

حظیرة (فکسف) خرما سکھانے کی جگہ ۔ لکڑی یا بانس کا احاطہ یا ...

حظیرة القدس بہشت ۔

حظیظ (فکس) مرتبہ ور دولتمند

[illegible]

مسلسل ۳ ... گھاس [illegible]
حظ[illegible]
جس ایک کا [illegible]
شام مین وطن [illegible]
[illegible] ہے
حظب [illegible]
حظ[illegible]
حظ[illegible]
[illegible] کے ساتھ [illegible] فضل احظ
[illegible] حظاۃ (فتس) [illegible]
حظار (فتس) [illegible] حظوظ
[illegible] حظوۃ (ضفس) [illegible]
[illegible] ولیت [illegible]
[illegible] سینا [illegible]

حظاۃ (فف) (ن) آہستہ ناز چلنا
حظائر (فعس) دیوار - اونٹوں
اور بکریوں کی جگہ لکڑیوں سے
بناتے ہین تاکہ جاڑے سے امن
مین رہین -
حظال (فتفس) بمعنی حظل
(فکسر) یعنی اپنے اہل و عیال پر نفقہ
تنگ کرنے والا بخیل مرد
حظب (فک) موٹا ہونا مرد پیٹ بڑا -
حظب (فغت) امرد جو جلد غصہ مین

[illegible]
حظبی (ففنت) بمعنی حظب (فک)
[illegible] احمق
مرد جلد غصہ مین آنیوالا -
حظبہ (فک) [illegible] خطب -
حظبی (ضفتہ) [illegible]
[illegible] - مرد جلد غصہ مین آنیوالا -
حظنبی (فتفس) [illegible] بدن -
حظرۃ (فک) [illegible] ایک
[illegible] سے [illegible] اور دو [illegible]
حظر (فک) درخت کی ٹہنی یا ہر
لکڑی جس سے گھیر بناوین تر و سبز کا نام -
حظر (فس) (ن) روکدینا -
حرام کرنا ضد اباحت کسی کے لئے
حظیرہ بنانا - اونٹوں بکریوں کو
حظیرہ مین بند کرنا جمع کرنا -
حظربۃ (فسفضہ) کمان کو چلہ سے
سخت کرنا - مشک کو بھرنا -
حظظ (ضفض) ایک گوند ہے
[illegible] کے مانند -
حظل (ہندی ایلوا) (فکسر) صیغہ لغت ہے
حظل (فکف) سے حظالی جمع -
کھجور کے درخت کی ٹہنیوں کی جڑ

برتن لبریز۔

حفاوۃ (فکسف) مہربانی الحاح۔

حفاوۃ (ففسف) حفایۃ (ففسفف) کسی پر مہربانی و نوازش میں مبالغہ کرنا۔ خوشی و مسرت ظاہر کرنی بہت حال پرسی کرنی۔

حفایۃ (کفسف) آدمی کے پاؤن کا اور اونٹ اور گھوڑے کے سم کا گھساو

حفۃ (فقف) مہربانی تمام جولاہوں کی لکڑی جس پر کپڑا لپیٹتے ہیں۔ ایک جھاڑی سفید خاردار۔

حفث (فک) اوجھ کا ہزار خانہ۔

حفت (فس) (ض) ہلاک کرنا۔ کوٹ دینا۔ دلدینا۔

حفث (فک) اوجھ کا ہزار خانہ۔ بڑا سانپ جھولی کی شکل کا احفاث (فسفس) جمع۔

حفثۃ (فکف) حفث (کس) بمعنی حفث (فکسہ)۔

حفحف (فس فس) ایک کلمہ ہے جس سے مرغے اور مرغیوں کو ڈانٹتیں۔

حفحفۃ (فسفف) تنگ روزی ہو جانا۔ دوڑنے میں جانور کے بازو کا آواز کرنا۔

حفد (فس) حفود (ففس) حفدان (ففس) (ض) جلدی چلنا۔ خدمت کرنی۔ طاعت و خدمت میں جلدی کرنی۔

حفد (فس) تیز روی۔

حفد (فف) خدمتگاران مددگاران ایک رفتار ہے جو پویہ سے کم۔

حفدان (ففس) ایک رفتار ہے جو پویہ سے کم۔

حفدۃ (ففف) نقش و نگار کھودنے والے

حفدۃ الرجل مرد کی بیٹیاں۔ مرد کی اولاد۔ مرد کی اولاد کی اولاد دامادوں اور سسروں پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے

حفدلس (ففسف) کالی سیاہ مؤنث کی صفات سے ہے۔

حفر (فس) (ض) کوان بڑے منہ کا۔ خاک جو کھودے ہوئے میں سے باہر نکلے۔ وہ جگہ جسے کھودیں احفار (فسفس) جمع (س) دانت

ماده
حفحف
حفد
حفد
حفد
حفدلس
۱۰۷۷
حفر

[illegible]

[illegible]

حفاظ (ف) زلف بہر دو کی گھلس کے
فارسی مین تنگ کہتے ہین یا سرد
کر ابھی جڑسے نا دکھائی ہو یا
[illegible] بہر دو کی جڑکہ اوسکو [illegible]
حفا [illegible] (فتفس) [illegible] اجر سے [illegible]
کر دین سیرد الدنیا۔
حفاث (فتفس) ایک سانپ
جسے زہر کا پھنکار نے والا
حفث سے بڑا۔
حفاتیہ (فسکفہ) دلدار پرکار۔
حفاق (فتفس) تیز رو۔
حفاز (فکفس) ایک لکڑی کہ او
خم دیکر اور اوسکے بیچ مین سوراخ

[illegible] ہین اور اوس
[illegible] ہین
[illegible] والا۔
[illegible] صحابی
ابن [illegible] کا نام۔
حفاظ [illegible] ایک کام پر
ہمیشہ برابر لگے رہنا۔ [illegible]
[illegible] نگہبانی کرنی۔
حفاف (فتفس) جرم گوشت
جو حلق مین کوے کے نیچے ہے۔
حفاف (فتفس) ہر جانب بستان
پانون کا ہو جو بجے [illegible] سر کے گردا
گرد بالونکی زلف۔
حفافہ (فتفس) گھانس کا بقیہ
سنگھاس کا بقیہ۔
حفال (فتفس) ہر چیز کی بھوسی
تیل اور دودہ کی گاد مین سے
جو کچھ بچی ہو۔
حفالج (فتفسک) جو کہ پانوکا
اگلا حصہ پاس پاس رکھے اور ایڑیان
دور دور۔
حفان (فتفس) جوزہ شتر مرغ
ناکارہ اونٹ۔ خدمتگار۔ بہرا ہو

ایک ساعت مین مینہہ کا برس جانا

حفص[1] (فس) چمڑے کا ڈول جس سے کوان پاک کرین- احفاص (فسفس) حفوص (ضفس) جمع- شیر کا بچہ- (ن ض) جمع کرنا- ہاتہہ سے ایک چیز گرا دینی- لکڑی کو خم دینا-

حفص[2] (فف) بیرا ور دولانہ وغیرہ کی گٹھلی اور دولانہ ایک میوہ ہے سیب کے مشابہ لیکن اوس سے چھوٹا سرخ رنگ اوسمین ایک گٹھلی ہوتی ہے

حفصۃ[3] (فسف) کفتار جانور

حفض[4] (فف) گہر کا اسباب جو لادنے کے لیے تیار کیا گیا ہو- اونٹ جسپر گھر کا اسباب لادین- گہر بال اور ستون اور طنابون کا بنا ہوا جھنڈا اوٹھانے والا- نر اونٹ کم طاقت- خیمہ کا ستون- حفاض (کفس) جمع

حفض[5] (فس) (ض) ہاتہہ مین سے ایک چیز گرا دینی- لکڑی کو خم دینا

حفضج[6] (کسک) مرد جسکے بدن پر بہت گوشت ہو اور پیٹ لٹکا ہوا ہو حفضاج (کسفس) حفاضج (ففسک) جمع

حفضجۃ[7] (فسفف) موٹا ہونا-

حفظ[8] (کس) ہوشیاری- یاد (ن) نگہبانی کرنی- قرآن شریف کو یاد اور ازبر پڑھنا- اونٹون بکریونکو چرانا-

حفظۃ[9] (کسف) حمیت- غصہ-

حفظۃ[10] (ففف) حافظون (فکس) نگہبان فرشتے اعمال کے لکھنے والے-

حفف[11] (فف) جانب- نشان- پالو کا نشان- زندگی کی سختی- مال کی کمی- ٹھنگنا جو کچھ قدرت بھی رکھے-

حفل[12] (فس) لوگونکا گروہ-

حفل[13] (فس) حفول (ففس) حفیل (فکس) (ض) پانی کا جمع ہونا اور بھر جانا- پانی جمع کرنا- نالہ کا لب تک بھر جانا- خوب مینہہ برسنا- مجتمع ہونا قوم کا- سنوارنا اور صاف کرنا- پاک و دور رکھنا-

حفلج[14] (فسف) جو کہ چلنے مین [illegible]

حفلج (ففتف) ناکارہ اونٹ حفالج (ففسک) جمع

حفلق[15] (ففت) ضعیف احمق-

حفلکی[16] (ففسفس) ضعیف-

حفلیج[17] (کسکس) ٹھنگنا-

حفن[18] (فس) (ض) کسیکو مٹھی

مادہ
۱ حفص
۲ ایضاً
۳ ایضاً
۴ حفض
۵ ایضاً
۶ حفضج
۷ ایضاً
۸ حفظ
۹ ایضاً
۱۰ ایضاً
۱۱ حفف
۱۲ حفل
۱۷۹
۱۳ ایضاً
۱۴ حفلج
۱۵ ایضاً
۱۶ حفلق
۱۷ حفلک
۱۸ حفلج
حفن

کی جڑ جو گھاس پھوس آنا اور خراب ہو جانا
یا اوس کی زردی۔

حفر (س، ض) زمین کو لوہے
سے کھودنا کسی چیز کو خوب کھودنا
جیسے زمین کو لوہے سے۔ جماع
کرنا۔ بعیر [illegible] کو دبلا کر دینا
کسی کے امر کی تفتیش کرنی۔ اور
اوس پر واقف ہونا۔ بچے کے دودھ
کے دانت گر جانے۔ (ض س) دانتوں
کی جڑ کا خراب ہو جانا۔

حفرۃ (ضمہ) کھودا ہوا گڑھا
یا گڑھا۔ سوراخ حفر (ضم) جمع۔

حفرۃ (کسر) موسم ربیع کی
گھاسوں میں سے ایک گھاس ہے

حفرۃ (کسر) جمع ایک لکڑی ہے
کہ اوسکے سرے پر انگلیاں سی
ہوتی ہیں اور اوس سے گیہوں کو
گھاس سے صاف کرتے ہیں۔

حفرد (کسر) جواہر کا دانہ۔
ایک گھاس ہے۔

حفض (فف) نہایت۔ ایک چیز کے
آپہنچنے کا وقت۔

حفز (س، ض) پیٹھ کے پیچھے
سے کوئی چیز دبا کر کسی کو ہانکنا دفع
کرنا۔ نیزہ مارنا۔ دوڑانا۔ ہلانا۔
جماع کرنا۔

حفش (فس، ض) اکٹھا کرنا

حفش (کس) جسمیں نکلے رکھیں
جھولی کہ جسمیں چیزیں رکھیں۔
بہت چھوٹا گھر کہ اوسکی چھت پاس ہو
گھر جو بالوں کے کمبل سے بنا یا ہو
کوہان۔ عورت کی شرمگاہ۔ موٹا۔
کہنہ پرانی چیز۔ ٹوٹے برتن شیشہ
وغیرہ کے جو کام میں نہ آویں۔ بڑھیا
اونٹ پرانی۔ احفاش (فسفس) جمع

حفش (فس، ض) ہر طرف
سے سیل کا سمٹ کر ایک جگہ آنا۔
سیل کا زمین کو کھود دینا۔ مینہ کا
زمین کو چھیل دینا۔ نکالنا۔ کوشش
کرنی۔ جمع کرنا۔ گھوڑے کا دوڑ میں تل
سیرا برا چلنا۔ کسی پر قوم کا جمع
ہو آنا۔ ہانکنا۔ دفع کرنا۔

حفش (فف) اس کو ہان کا
آگا اوپر سے نیچے تک زخمی ہو جانا
اور ابھی جڑ اوسکی سالم ہو۔ جورو
کا دوستی ظاہر کرنا خاوند کے آگے۔

پانو کا انگوٹھا بسبب لنگڑی —
حفیتہ (کسف) بمعنی حفو ضعف
حفیتا (فسفسم) گنگنانا ۔ ظاہر ہونا
حفیتہ (فسفہ) چمکنا —
حفید (فکس) بمعنی بیٹیوں کی اولاد ۔ اور اسکی اولاد کی اولاد —
حفیر (فکس) کھودی ہوئی گور ایک نہر ہے ارون مین —
حفیرہ (فکسفہ) کھودا ہوا گڑھا کو
حفیسا (فسفسم) بڑی بد اخلاق
حفیظ (فکس) نگہبان ۔ ایک چیز کا موکل ۔ خدا تعالے کا ایک نام یعنے وہ خدا تعالے ایسا کہ اوسکے علم سے کوئی چیز باہر نہین ۔ از بر کرنے والا ۔ بکریون اور اونٹون کو چرانے والا —
حفیظہ (فکسفہ) ناجائز سے رکھو حمیت ۔ غصہ حفائظ (فسکسہ) جمع
حفیف (فکس) سانپ کی آواز کہ اوسکے پوست مین سے آوے ۔ اور وہ آواز جو اوسکے منہ مین سے نکلے اوسے فحیح کہتے ہین — اور اڑنے مین جانور کے بازو کی آواز

ہوا چلنے سے درخت کی آواز ۔ گھوڑے وغیرہ کے چلنے کی آواز ۔ آگ بھڑکنے کی آواز —
حفیل (فکس) لوگونکا گروہ — مبالغہ ۔ مرد کہ ہر چیز مین مبالغہ کرے
حفیلہ (فکسفہ) سب کا سب —
حق (فت) خدا تعالے کے نامون مین سے ایک نام ہے یا اوسکی صفات مین سے ہے ۔ قران ۔ ضد باطل ۔ وہ کام کہ ضرور بالضرور واقع ہووے — عدل ۔ اسلام ۔ ملک ۔ واجب ۔ موجود ۔ ثابت ۔ راست و درست لایق ۔ مرگ ۔ راستی ۔ ہوشیاری کسی کا مقرری حصہ حقوق (ضفضس) جمع
حق (فت) (ان) کشتی مین غالب آنا ۔ واجب کرنا ایک چیز کا ۔ چلنے مین بیچ رستہ پر ہو لینا ۔ کسی کے سر کے بیچون بیچ مارنا ۔ یا ایک نشانہ کے گرد ہے پر مارنا ۔ راست و درست کرنا ایک کام کو درست جاننا ۔ یقین کرنا — کسی کے پاس آنا ۔ لایق کر دینا — کسی کو اوسکے حق پر رکھنا —
حقع (فت) ناقہ جسکے دانت بسبب

ماده
حفی
[illegible]
حفض
[illegible]
۱۰۰۱
[illegible]

[illegible] کو دو دن [illegible]
[illegible] یعنی لینا -
حفش (س) چلتے وقت [illegible]
[illegible]
حفشہ (فسعہ) [illegible]
یا [illegible] حفش جمع -
حفشہ (فسعہ) [illegible]
[illegible]
[illegible] ہونا -
حفص (فسعس) [illegible]
[illegible] کو نعت [illegible]
حفضہ (ضفہ) صاحب [illegible]
[illegible]
حفص [illegible]
عورت چھوٹی پیدائش کا مرد -
حفنشار (فنسعفسم) تنگنا دلدار
موٹا بڑ بیٹا -
حفنضاج (الکسعفس) یعنی حفضج [illegible]
حفنکی (فسعفس) ضعیف -
حفو (فس) نوازنا - مہربانی کرنی
بخشش کرنی لغت اضداد سی ہے
مو چھو نکو خوب کتروانا -
حفوۃ (فسعف) یعنی حفا (فف) برہنگی

[illegible] کی ہونگی
حفوف (ففس) (س ص ف)
ایک مدت تک تیل نہ ملنے کے سبب
سر کے بالوں کا جسم سے جاتا رہنا ہیں
کا [illegible] خشک ہونا - [illegible] ہو جانا
[illegible] کا ہے
بالکل موجود [illegible] کا نہ ملنا کہ ہو نہ صاف
ہو جاوے [illegible] پیچھے [illegible] بال صاف
کرنے [illegible] کے لئے یا عورت
کا سر کے پیچھے بال باندھ لینا - دور
[illegible] کی آواز سنی جانی -
حفوف (ففس) سختی [illegible] عیش
کی بال [illegible] نظر [illegible] -
حفول (فسعہ) ایک درخت ہے
اوسکا پھل آلو کی مانند ہوتا ہے کڑوا
اوسے کھاتے ہیں -
حفول (ففس) ناقہ جسکے پستان
میں دودھ بہت ہو -
حفی (فکت) بڑا علم والا عالم -
مہربان - سوال میں الحاح کرنیوالا حفوۃ
(فففسم) جمع
حفی (فف) آدمی کے پانو کا [illegible]
کے سم کا چوپایہ کے سم کا گھساؤ -

کتا او سکے پیٹ پر سفیدی ہو یا او
تنگ باندھنے کی جگہہ سفید ہو ۔ عباس
بن مرداس کے گھوڑیکا نام ۔ چھوٹا
پہاڑ لمبے ہوا آسمان کیطرف نکلا و تنگی
درازی و بلندی کے وسطمین ایک
تہ خاک کی اکھونڈ کے اوسکے گرد آگرد ہو
حقلبتہ (فسکف) ہوا کا قرار اور سکون
حقبتہ (کسف) زمانہ کی ایک مدت
برس حقب (کف) حقوب (ضفس)
حقتہ (فصف) ان مِن واجب ہونا ۔ بلا
شک و شبہ واقع ہونا ایک امر کا ۔
حقتہ (فصف) حق واجب ۔
حقتہ (کف) حق (کت) (ض) چوتھے
برس مین لگنا اونٹ کے بچہ کا ۔
حقتہ (فنتف) لکڑی وغیرہ کا ایک
برتن جسمین موتی گوہر معجون وغیرہ
رکھتے ہین ہندی ڈبیا حق (ضت)
حقق (ضف) حقوق (ضفس) حقاق
(کفس) جمع ۔ بلا سختی ۔ عورت ۔
حقحاق (فسفس) رفتار تیز و
شتاب جسمین کچھہ فتور نہین ۔
حقحقتہ (فسفف) گھوڑیکا ہاتھہ
پانو کا اونچا اوٹھانا اور اوسکا ہلتا

ہوا چلنا یا اول شب مین چلنا ۔
حقد (کس) کینہ حقود (ضفس)
احقاد (فسفس) حقائد (ففسک) جمع
حقد (کس) حقد (فف) حقد
(فس) حقیدۃ (فکسف) (ض س)
کسی پر کینہ رکھنا ۔
حقد (فف) مینہ کا رک جانا ۔ ٹہر جانا
چربی دار ہو جانا ناقہ کا ۔ کھان کی
چیز کا نہ ملجانا اور اوسکا کچھہ چیز نہ دینا
حقر (فس) کسیکو ذلیل و خوار
اور چھوٹا گنتا (ض ک) چھوٹا اور
خوار ہونا مرد کا ۔
حقر (فف) (س) ذلیل و خوار ہو جانا
حقریتہ (فسکتف) ذلت و خواری
حقز (فس) (ض) عورتکا پانو دبانا
حقص (فس) (ض) او نگلیون
کے سرون سے پکڑنا ۔
حقط (کک) ایک کلمہ ہے جس سے
گھوڑیکو ڈانٹتے ہین ۔
حقط (فف) بدن کا ہلکا پن
اور حرکت کی تیزی نہایت
حقطان (کتفس) کھنگنا مرد
حقطانتہ (کتفسف) کھنگنا مرد

مادہ
ایضاً
۴۰۳
ایضاً
ایضاً
ایضاً
حقر
ولہ حقص
ولہ حقط
ولہ ایضاً
ولہ ایضاً
ولہ ایضاً

ہوں ... جسمیں ... بالوں

... اسکی ...

حقائق ...

حقائق ... مع

حق ... حقوق

... جمع ... کا سر جسمیں

... کی ہڈی ہے - بازو کا سر جسمیں

... کا کنارہ ہے یا شانہ کا گڑہا

... زمین - نیچی زمین -

حقام (فتم) ازار - کمر بازار

باندہنے کی جگہہ -

حقاو (فتم) گوشت کہانے سے

...

حقار (فتم ن) کوکہہ کا دکہیا ہونا

گوشت کہانے کے سبب پیٹ مین

درد ہونے لگنا -

حقاب (کسر) ایک چیز جسمین

عورتین اپنا زیور لٹکا کر اپنی کمر پر

باندہتی ہین حقب (ضفس) جمع -

سپیدی جو ناخن کی جڑمین دکہائی

دیتی ہے - ایک دہاگا جو نظر بد کے

دفع کے لئے بچّی کی کمر پر باندہین -

حقاح (فتح) ... چہوٹا اور

...

حقاق (فتح) (فتس) حقہ یعنے ڈبا

بنانے والا حقاقون (ففففس) ...

حقاق (کفس) جمع حقہ (کسر)

کسی کے ساتھہ جہگڑنا اور اپنے حق

کا دعویٰ کرنا -

حقال (فتس) ساگ اور

... کا بیج کا پانی یا عرق ...

حقب (فتح) اونٹ کا تنگ کہ

اوسکی کوکہہ کے متصل بندہتا ہے

- رسّی جس سے پالان باندہین - ایک

چیز ہے جسمین عورتین اپنا زیور

لٹکا کر اپنی کمر پر باندہتی ہین - اس

اونٹ کا پیشاب رک جانا اوسکے

ذکر کے غلاف پر تنگ گر پڑنے

سے مینہہ وغیرہ کا بند ہوجانا -

کہان مین کچہہ بنانا -

حقب (فتس) اسّی برس اور

اوس سے سوا - زمانہ - برس

کئی برس احقاب (فسفس) حقب

(فسفس) جمع -

حقبہ (فسفسم) مادہ خر وحشی

بمار کو حقنہ کہین –

حقو (فس) کوکہا ور یہہ دو یعنی ازار – یا کمر یعنی ازار باندہنے کی جگہہ

احق (فسک) احقاء (فسفسم) احقی (فکت) حقاء (کفسم) جمع – جگہہ جو نالہ سے اونچی اور سخت ہو حقاء (کفسم) جمع ستیرین پہر رکہنے کی جگہہ – ٹیلے کے دو کونہ (ان) کو کہہ پر مارنا –

حقوۃ (فسف) ازار – ازار کے باندہنے کی جگہہ – گوشت کہانے کے سبب پیٹ کا درد – ایک قسم کی اونٹون کی بیماری کہ کہانسی سے اوسکا پیٹ زخمی ہو جاتا ہے –

حقود (فضس) کینہ ور –

حقوف (ضفس) ہرن کا حقف ہونی – آزردہ ریگ مین بیٹہنا یا اوسکا حقف کی مانند کج بیٹہنا –

حقۃ (فتف) ایلای ثابت چیز کی حقیقت

حقی (ضتکس) ایک طرح کا خربزہ

حقیبۃ (فکسف) پالان کے پیچہے شکار بند – توشہ دان – حقائب (فکسک) جمع

حقیر (فکس) ذلیل و خوار – چہوٹا –

حقیع (فکس) لائق احقاء (فکفسم) جمع

حقیقۃ (فکسف) خلاف مجاز – وہ جسکا بچانا آدمی پر واجب ہے جہنڈا نیز

حقیل (فکس) سخت زمین جو ہموار نہو سکے – ایک گہاس ہے –

حقیلۃ (فکسف) ساگ اور ترکاری کا عرق انسے یعنی حقائل (ففسک) جمع خراب خرما کہ درخت سے جہڑ پڑے –

حقیان (فکسفس) دونون آنکہون کے دونون ڈہنبالے –

حقین (فکس) دوہا ہوا دودہ کہ جمع ہوئے دودہ پر ڈالتے ہین تاکہ مسکہ نکل آوے –

حک (فت) چہبنا – دل مین کچہ شک و شبہ رہجانا کہجانے کی ضرورت ہونی – گہسنا چہیلنا – کہجانا –

حکت (کت) شک –

حکت شہر بدی کے ساتہہ بہت پیش آنیوالا

حکار (فس) گرہ باندہنی –

حکاۃ (ضسف) ایک چہوٹا سا کیڑا ہے – موٹی دلدار ٹڈی حکا (ضفس) جمع

حکاک (فتفس) کہسنے والا – نگینہ ساز –

حکاک (ضفس) کہجلانے کی ضرورت

[illegible]

[illegible]

[illegible] ہوتا ہے

[illegible] حقیقی مضمون

[illegible] اختیار [illegible]

[illegible] سرینکا جو دودہ پیا [illegible]

[illegible] پیت کے دودہ کی حرص [illegible]

[illegible] ہو اسکی جڑ ۔

[illegible] (ف ا س) احمق ہونا

[illegible] کا اپنے باپ کے سر لگانا نہ

[illegible] کے سر پر رکھے اور یہ عیوب میں

[illegible] ہے گھوڑے کے یا وہ گھوڑا

جسکے عرق پسینا نہ نکلتا ہو ۔

حقل (ف س) صاف زمین کھیتی

لائق کھیت کی تمام روئیدگی جبکہ

اوگی ہو کھیت کہ پتہ نکل آیا ہو

لیکن اوسکی ساق یعنے نلی ابہی

دلدار نہوئی ہو یا ہرا کھیت جس ا

کہیتی کہیں ۔

حقل (ع ر س) موج پیٹ کی

ایک بیماری ۔ سال کا عرق اشر زمین

حقلہ (ف س ف) صاف زمین قابل

کشتکاری ۔ او نٹوں کی ایک بیماری ہے

[illegible] کی بیچ گلی ہو گئیا خاک

[illegible] کہاتے جکی سبب احقال

[illegible] میں [illegible]

حقلد (ف س ج) حقول (ف فس)

[illegible] غاری [illegible] میں مبتلا ہونا و نش

[illegible] کے [illegible] میں مبتلا ہونا گہوڑیکا

حقلہ [illegible] صاف پانی جو حوض

میں کا بچا ہوا بچا ہوا دودہ خراب

[illegible] درخت سے نیچے گر گیا ہو ۔

جو کہ ایک پیالہ کے مقدار سے کم ہو

حقلد [illegible] بد خو نا پاک روح والا

حقلد (ف ف ج) بخیل بد خو ضعیف

گنہگار ۔ کینہ و عداوت ۔

حقم (ف س) کبوتر یا کبوتر کے

مانند ایک جانور ہے ۔

حقن (ف س ، ان ص) روک رکہنا

نگاہ رکہنا ۔ قتل ہونے سے چہڑا

دینا ۔ روکا ہوا دودہ جمے ہوئے

دودہ پر مسکہ نکالنے کے لئے ڈالنا

۔ حقنہ کرنا ۔

حقنتہ (ف س ف) ایک طرح کا پیٹ

کا درد ہے احقان (ف س ف س) جمع

حقنتہ (ف س ف) ہوا اور جس سے

ہلاکی ہیں۔ خراشیدگی۔ سودگی

حلکٹ (ضفض) جسے لوگ حاجت کے وقت الحاح کرنے والے

حکل (فس) ان کسی چیز کا مشکل ہونا۔ نیزہ کو ایک پاؤں پر کرا کرنا۔ ہاتھ کی چھڑی سے مارنا۔

حکل (ضس) جسکی آواز سننے میں نہیں آتی جیسے چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام مبارک۔ گھوڑے کی رگ نساکی خشکی۔ گھوڑے کے لنگڑی

حکلۃ (ضسف) توتلاپن۔

حکم (فس) گھوڑے کی لگام کے لیے دہانا بنانا۔

حکم (ففف) بڑی عمر کا مرد۔ حاکم ایلچی۔ فرق کرنے والا۔ منصف۔

حکم (ضس) فرمان احکام (فسفس) جمع۔ دانش۔ حکمت (ن) فساد سے روکدینا اور صلح کرا دینی۔ ایک کام سے روک دینا۔ کسیکو اسکی خواہش اور تمنا سے روکدینا

حکم (ضس) حکومۃ (ضسف) ان کام کا حکم دینا۔

حکمان (ففس) دو حکم ایک ابو موسی

اشعری دوسرا عمرو بن العاص

حکمۃ (ففف) لگام کا دہانہ۔ آدمی کے چہرہ کا آگا۔ آدمی کے سر کا آگا۔ آدمی کی شان۔ بکری کی ٹھوڑی میں لٹکنے زنخ۔ قدر و مرتبہ

حکمۃ (کسف) عدل۔ علم۔ حلم۔ نبوت۔ قرآن شریف۔ انجیل۔ توریت۔ دانش۔ ہر چیز کی حقیقت کی دریافت

حکم (کف) جمع۔

حکو (فس) (ن) باتیں کی نقل کرنی

حاکوف (فس) کام میں سستی

حکومۃ (ضسف) حاکمی

حکی (فکت) سخن چین عورت

حکیص (کس) مرد متہم وہ جس سے بدگمان ہوں

حکیک (فکس) گھسا ہوا کھر جسے لڑکے کھیلتے ہیں یعنے تراشا ہوا سم۔ ہر تراشی ہوئی چیز کر پوشیدہ ہو۔ گھوڑا کا سم تراشا ہوا۔

حکیم (فکس) آرانا۔ صاحب حکمت صاحب حکم۔ مضبوط اور درست کام کرنے والا۔ احکماء (ضفففسم) جمع

مادہ [illegible]

[illegible]

حکا ... (فتح) تقشف ...
... کتنا ... تقشف ...
... ایک ... جو ... میں ...
... (ف) ...
حکاکہ (فتح) تقشف ...
... سلطنت ...
... گرانی جاوے ...
حکام (فتح) نفس (ع) اعلی کہاں ...
حکامہ (فتح) حکیم ...
... والا ہونا —
حکایہ (فتح) ... نقل ...
حکایات (فتح) ... جمع حکایت
... مشابہ ہونا ...
... لفظ ...
حکمۃ (فتح) ... (فتح) ...
کہلانے کی ضرورت ... کا ...
... اور وہ یہ ہے کہ ایک ...
... ہیں کہ سفید ...
... دو ... جو
... تو وہ بھی
غالب ہو وے
حکمد (فتح) ... (ض) اپنی اصل کی
طرف پھر جانا

حکر (فتح) (ظلم) بیہودی زندگی —
... بہت جلدی بیچے جاتے ہیں
... ظلم کرنا
... زندگی بسر کرنی (ض)
... اناج کا تاکہ گرانی کے وقت بیچے
حکر ... اناج جیسے رکھ چھوڑنا
تاکہ گرانی کے وقت بیچیں —
حکر ... بمعنی حکر (ضمہ) ایک
چیز میں استبداد ... کرنی — یانی
... ہوا ... جھگڑنا — ایک
... میں بذات خود بے مشورہ دوسرے
کے ہونا
حکر ... جو اناج رکھ چھوڑے
تاکہ گرانی کے وقت بیچے
... (فتح) استبداد کرنے ... ہونا
... جمع
حکش (فتح) (ن) جمع کرنا سکڑنا
حکش ... مرد جو دشمن پہ
... اور ... ہوا ہو —
حکک (فتح) (س) ... اور ...
ہوا ہونا — ایک سپید پتھر مثل رخام کے
ایک قسم کی رفتار کہ ... عورتوں
کے ... ہے کہ چلنے میں کودنا

علامات اعراب ضفکستم یعنی ضمه ف فتحه ک کسره س سکون ت تشدید م مد

ماده ۱۰۸۹

خاص ہے مردونکے واسطے۔

حلاس (فتفس) کنبل ٹاٹ بچھانے والا

حلاسامہ (ضفسفسم) اونٹ جو چراگاہ اور حوض کو نہ چھوڑین۔

حلافی (ضفسک) وہ وادی جہان دوغ گہاس اوگے۔

حلاق (ففس) مرگ۔

حلاق (فتفس) سر مونڈنیوالا

حلاق (ضفس) درد حلق۔ تسکین نپانا گدہی اور عورت کا جفتی سے اور حاملہ نہونا۔

حلاق (کفس) صفت سر مونڈنا

حلاقۃ المعزی بہیڑ کے بال مونڈے ہوئے۔

حلال (ففس) ضد حرام۔ وہ شخص جو احرام سے نکلا ہوا اور اوسے حال نہین کہتے اگرچہ موافق قیاس ہے۔

حلال (ففس) حل (کت، رض) حلال ہونا۔

حلال (کفس) عورتون کی ایک سواری ہے۔ پالان شتر کا سامان۔ لوگونکا گروہ جو کہین اوترے ہوئے ہون

حلام (ضتفس) بہیڑ کا بچہ۔ بکری کا بچہ۔ خون رائگان۔

حلان (ضتفس) جو چیز کہ سوگند کو اوتار دے۔ بہیڑ کا بچہ۔ بکری کا بچہ یا خاص وہ بچہ ہے جسکی ماکا پیٹ چیر کر اوسکو نکالا ہو۔ سوسمار۔ ناچیز۔ رائگان۔

حلاوۃ (ففسف) شیرینی۔ زمین جو دلدار اور سخت سنگ اوگا دے۔

حلاوۃ القفا گدی کا بیچ۔

حلاوۃ (ففسف) حلوان (ضسفس) (س) ایک چیز کو شیرین پانا (ن) ایک چیز کا منہ کو اچھا لگنا دلکو اچھا لگنا بہلا شیرین ہونا۔

حلاوی (ضفسفس) ایک چہوٹا درخت ہے۔ ایک خاردار گہاس ہے۔

حلاویات (ففسکفس) حلاوی (ضفسفس) جمع۔

حلائب (ففسک) آدمیونکے گروہ۔ چچا کی اولاد۔

حلب (ففس) (ن) کسی کو شیردار بکری اور اونٹنی والا کر دینا۔ دو زانو بیٹھنا۔ لوگونکا ہر طرف سے اکٹھا



ج

حلمہ لطافت کے اصول میں سے ایک
نام ہے
حَلْق (فت) حلق کا تیل (رانا) مونڈنا
کھولنا۔ کھل جانا۔ گل جانا۔
حَلُول (فت) حلول (ضفس)
حلال (فت) (ضفی) اوتارنا۔ اوترنا
حل حل ۔ بمعنی ایک کلمہ ہے جسے
اونٹوں کو زجر کرتے ہیں تاکہ تیز چلیں
حِلّ (کت) جو کہ حرم کے باہر ہے
مرد جو احرام سے نکلا ہو۔ حلال
ضد حرام۔ نشانہ۔ کفارہ دیکر قسم
اوتار ڈالنی۔ استثنا کر لینا (ضفی)
احرام سے باہر آنا۔
حلخ (ضفت) گھوڑے جنکی گونچ
سست اور تنگ گئی ہون۔
حِلّ و بِلّ مباح۔
حلاد (ضفس) دوائین جنہیں پانی
مین بسین۔
حلاء (ضفس) (اس) چہرے کا خراب
ہو جانا چہرے کے سبب پوست اوتارنے
کے وقت۔ ہونٹھ پر تنخالہ پھول آنا
حلا کر (فس) (ان) حلوا (فس)
سرمہ لگانا۔ تلوار اور تازیانہ سے مارنا

زمین پر گرا دینا۔ جماع کرنا۔
دینا۔ پوست پر سے چرک دور کرنا۔
حلا تو (فتفسم) سونٹ۔ حلفت
الغ زمین والاغر ران یا درد
شہون مین مبتلا یا گھوڑا جسکے پانو
سست و فرو بستہ ہو گئے ہون
حلاءة (ضفسف) زمین جسمین
درخت بہت ہون۔
حلاءة (ضفسفہ) سرمہ۔ ہلکا سا
پوست کہ دباغت کے وقت چمڑے
پر سے اوترتا ہے۔
حلاب (کفس) دودھ دوہا دن
دودھ دوہا ہوا۔ دوہنا۔
حلابس (ضفسکہ) بمعنی حلبس
یعنی دلاور۔
حلاتہ (ضفسف) جسکی پشم اوکھاڑ
لی ہو۔ جننے کے دنون مین جو کچھ
رحم مین سے نکلے۔
حلاج (فتقس) روئی کو بنولے
سے جدا کرنے والا۔
حلاجة (ضفسف) روئی اوٹنی
حلاحل (ضفسک) مرد دلاور۔ بزرگ
بسیار مروت یا سخت موٹا یہہ لفظ

علامات اعراب مختلف قسم یعنے ضم فتح کسرہ سکون تشدید مد

حلبیثس (فسکس) خیر۔
حلت (فس) (ض) سر مونڈدینا - پتلا ہگنا - قرض ادا کرنا - پشم کے بال دور کرنے - کسیکو درہم دینا - کوڑے سے مارنا - گہوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے رہنا اور اوس سے جدا نہونا -
حلتہ (فت) ضعف - سستی - شکستگی - بڑی جہولی بانس کی - منزل - جائی -
حلتہ الشیٔ سبب اور مقصود -
حلتہ (کت) لوگونکا گروہ جو کہین اوترے ہوئے ہون - اونٹ کی ایک طرح - لوگون کے گہرونکی جماعت یا سو گہر - مجلس - لوگون کی جماعت کی جگہہ حلال (فس) جمع - ایک خاردار درخت ہے جسکو اونٹ بہت خواہش سے کہاتے ہین - بوریا کا ٹکڑا - ایک شہر ہے صدقہ بن دبیس بن مرید کا بنایا ہوا - منزل - جگہہ -
حلہ (فتح) ازار - چادر - یمنی ہو یا اور کوئی - حلہ دو کپڑونکا ہوتا ہے یا ایک کپڑے کا جسمین استر لگا ہو - سلاح حلل (ضف) حلال (فس) جمع -
حلتہ (کت) حلول (ضفس) ہونا قربانی کا وہان پہنچ جانا جہان اوسکا ذبح کرنا روا ہے - عورت کا طلاق کی عدت سے باہر نکلنا - واجب ہونا - قرض کی مدت گذر جانی اور اوسکا واجب آپڑنا -
حلتیث (فسف) بخیلون کا لقب -
حلتیت (کسکس) ہینگ -
حلتیث (کسکس) بمعنی حلتیث -
حلج (ضض) بہت کہانے والا -
حلج (فس) (ن ض) روئی اوٹنی بنولونکو الگ کرنا روئی سے چرخی مین دبا کر - تمام رات چلنا - مرغ کا پر کہول کر جفتی کے لئے مرغی کے پاس جانا - گول روٹی بنانی - مارنا - پتلا ہگنا - تہوڑا تہوڑا چلنا - جلدی کرنی - دوڑنا -
حلجة (فسف) مسافت -
حلجز (فسف) تنگدل بخیل -
حلحلة (فسفف) حل حل کہکر اونٹونکو ہانکنا - کسی کو اوسکی جگہہ سے حرکت دیکر دور کرنا -

ماده
حلبس
حلت
حلل
ایضا
ایضا
ایضا
ایضا
ایضا
حلتب
حلتت
حلتث
١٠٩١
حلج
ایضا
ایضا
حلجز
حلل

ح

ہو آنا (فاعل) دودہنا۔ کسی کے لئے دودہ دوہنا۔

حلب (فف) دودہ دوہا ہوا۔ محصول۔ غیر مقصر محصول۔ ایک شہر کا نام

حلب (ضض) کالے رنگ کا حیوان۔ سمجھدار آدمی۔

حلب (فتف) ایک گہاس ہے جس سے چمڑے کو دباغت کرین اور اوسکو ہرن بہی کہاتے ہین۔

حلابث (کسفس) ایک گہاس ہے

حلباۃ (فسفس) شیردار اونٹنی

حلبان (فتفس) ایک گہاس ہے

حلبانہ (فسفسف) شیردار اونٹنی

حلبث (فسفس) ایک گہاس کا نام ہے

حلبۃ (ضضف) زیرہ کا ایک قسم کا گہاس کہ دانہ شنبلید اور زہر کا پکتا ہے

حلبۃ (فسف) شنبلید گہاس یعنی حلبہ (ضضف) ایک قلعہ ہے یمن مین خالص سیاہی۔ عرفج درخت کا درخت جسمین سولی کی مانند کانٹے ہوتے ہین۔

حلبۃ (فسف) گہوڑدوڑ کے گہوڑونکا گروہ۔ گہوڑے جو ہرایک جگہہ سے دوڑانے کے لئے ایک اصطبل مین جمع کرین آدمی جو مدد کے واسطے ہرطرف سے آوین حلائب (ففسک)

حلبات (ففس) جمع۔ ایک وادی ہے۔ ایک وادی ہے تہامہ مین۔ ایک محلہ ہے بغداد مین۔

حلبتان (فسفس) صبح وشام

حلبد (کسک) چہوٹا اونٹ۔

حلبدۃ (ضفکف) موٹی بکری۔

حلبس (فسف) دلاور۔ ایک چیز کا لازم کہ اوس سے جدا نہو شیر۔ چند محدث ہین

حلبتیر (فسفف) چلا جانا۔

حلبطہ (ضفکف) تشوا اونٹ اور اس سے جسقدر زیادہ ہین۔

حلبلاب (کسلفس) لبلاب یعنی عشق پیچان۔

حلبوب (فسفس) بال وغیرہ خوب کالے۔

حلبوت (ففس) شیردار اونٹنی

حلبوس (فسفس) بہت

حلبی (ضفکت) مشک جو حلب گہاس سے دباغت کی گئی ہو۔

اوسکے بدن مین گوشت کے چھچھڑے باہر نکلے ہوئے ہون۔

**حلفق** (فسفس) تکیہ گاہ۔

**حلق** (فس) بے برکتی۔ حلقوم۔ حلوق (فسفس) حلوق (ضفس) جمع۔ انگور کے درخت کی مانند ایک درخت ہے (ن) حلق پر مارنا۔ حلق مین درد ہونا۔ حوض کو پانی سے بھرنا۔ ایک چیز کا اندازہ کرنا (ض) سر مونڈنا

**حلق** (فس) اسپر مردگی

**حلق** (فف) اونٹ جسپر حلقہ کی شکل کا داغ کیا ہو۔ سرخ

**حلق** (فف) (س) گھوڑے کے ذکر پر سے پوست اوترجانا جفتی کرنے کے سبب یا ہوسکے ذکر کا سرخ ہوجانا بھی

**حلق** (کس) بادشاہ کی انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی بے نگینہ بہت اونٹ اور بہت بکریان۔

**حلقان** (ضسفس) خرما جسکا دو ثلث پک گیا ہو اور ایک ثلث کچا ہو حلقانتہ (ضسفسف) اوس مین سے ایک۔

**حلقانتہ** (ضسفسف) حلقان

(ضسفس) خرما جو پکنا شروع ہوا ہو یا اوسکی دو تہائی پک گئی ہو۔

**حلقتہ** (کسف) ایک سطح اور ایک حالت حلق کی یعنے سر مونڈنے کی

**حلقد** (کسک) بدخو گران روح

**حلقمتہ** (فسفف) گلا کاٹنا۔

**حلقنتہ** (فسفف) پکنے لگنا خرما کا یا اوسکا دو تہائی پک جانا۔

**حلقوم** (ضسفس) گلا حلاقیم (فسکس) جمع۔

**حلقہ** (فسف) گول چیز دائرہ کی شکل کی۔ زرہ یا ہتھیار۔ رستی یا برتن جو کچھ بہنے کے بعد خالی ہوگیا ہو۔ حوض کی پیری۔ اونٹوں کا ایک داغ ہے۔ حلقہ در۔ لوگون کا حلقہ حلق (فف) حلقات (ففس) جمع

**حلقیتہ** (ففکتف) گھبری یادین کہ اوسکے رحم مین گدہون کی بہت جفتی کرنے کے سبب ایک مرض عارض ہوگیا ہو۔

**حلک** (فف) گہری سیاہی۔

**حلک الغراب** کوے کی سیاہی اور اوسکی چونچ۔

[illegible] (فضفس) ایک کمان ...

... پاس ... [illegible]

... مبارک ہے۔

... (ن) لکڑی ... سے

... تالے ...

حلقیس (کسکس) مرد بدخو ...

... گہاس ہے۔ آلو۔ ایک ...

... (س) ...

حلقمہ (فلفہ) بولتے ہین ...

... جگر زخمی۔

حلقون (فضفس) ایک ... پیدا ہوتا ہے ... ایک قسم کی ...

حلس (کس) موٹا کمبل کہ اونٹ کی پیٹھ پر پالان کے نیچے رکھتے ہین۔ فرش نفیس کا زیر انداز طلوبین (فضفس) حلسۃ (ففف) جمع۔ قمار کا جو تہا تیر اسکے چار حصے ہوتے ہین لوگونکا سردار اور بولتے ہین ہو حلس بیتہ یعنی اپنے گہر کو نہین چہوڑتا ہے۔

حلس (فکس) (ض) اونٹ پر حلس ڈالنا۔ ہمیشہ برسنا ابر کا

حلس (فک) قمار کا جو تہا تیر ... اور حریص

حلس (فف) اونٹ کے پیٹھ مین حلس کی جگہ کا ... بدنکے رنگ کے مخالف ہونا (س) ایک کام مین لگا رہنا اور اوس سے جدا نہونا۔

حلشیم (کسفف) حریص۔

حلط (فس) (ن) قسم کہانی۔ جہگڑنا۔ کام مین جلدی کرنی غصہ کرنا

حلط (فف) (س) غصہ کرنا۔ کام مین جلدی کرنی۔

حلف (کس) سوگند۔ عہد و پیمان کہ ایک قوم کے درمیان مین ہو۔ دوستی۔ دوست کہ اپنے یار سے قسم کہاوے کہ مین تجہہ سے قریب نہین کرونگا احلاف (فسفس) جمع

حلف (فس) حلف (فک) (ض) قسم کہانی۔

حلفاء (فسفسم) حلف (فف) دوغ گہاس حلفۃ اوسمین سے ایک

حلفاء (فسفسم) بے شرم بہت ہیچنے والی لونڈی حلف (فض) جمع

حلفس (کسف) ہتکبر بڑا ہوتا کہ جا بجا

جسکا سر مہ رمد کو نافع ہے سرمہ گھسنا

حلوۃ (فضفت) ہلکا مرد جو آنکھہ کو اچھا معلوم ہو۔

حلو حلال (فسففس) کلام جسمین کچھہ شک و شبہہ نہو۔

حلو (فس) (ن) میٹھا کر دینا عورت کو زیور پہنانا کسیکو کچھہ دینا۔

حلو (فس) حلوان (فسففس) کسی کو اپنی بیٹی یا اپنی بہن نکاح مین دینی اور اوسکے مہر مین سے کچھہ اپنے لئے لے لینا۔ کسی کو ایک کام کی سعی مین بطور سوغات و تحفہ کے کچھہ دینا سبلا دینا۔

حلواء (فسفسم) ایکطرحکا کہانا ہے میوہ شیرین

حلوان (فسففس) شیرین ہونا ۔ دلال کی اور غیب کی خبر بتانے والے کی مزدوری عورت کا مہر جو چیز کہ عورت کو متعہ کے لئے دین ۔ جو چیز کہ بطور رشوت دیوین

حلوانی (فسفسکس) منسوب ہے حلاوت کیطرف۔

حلوب (فضفس) اونٹنی جو دوہنے کے لایق ۔ دودہ دوہنے والا مرد ۔

دوپہر کی گرمی جو بدن سے پسینے بہاوے

حلوبۃ (فضسفف) دوہنے کے لایق اونٹنی۔

حلوبۃ الابل ایک اونٹنیا زیادہ

حلوج (فضفس) ابر جسمین بجلی ہو

حلوۃ (فضتف) ناقہ جو دلکو اچھی لگے

حلوج (فضفس) ابر جسمین بجلی ہو

حلوق الارض نالے بلندی کے رستے اور اونکی تنگ جایین

حلوک (فضفس) حلوکۃ (فضفسف) (ن) نہایت کالا ہونا۔

حلوی (فضسفہ) مؤنث حلو ہے

حلی (فکمت) سخن شیرین

حلی (فکتہ) نصی گہاس سو کہی ہوئی حلیۃ ایک۔

حلی السیف ۔ حلاۃ السیف تلوار کا زیور۔

حلی (فس) زیور سونے چاندی کا ہو یا جواہرات کا حلی (فکت) جمع

حلی (فس) (ض) عورت کا زیور پہنانا ۔ با زیور ہونا عورت کا اوس سے فائدہ اوٹہانا ۔ زیور پہنانا عورت کا ۔ انکھہ کا اچھا لگنا ۔

۱۰۹۵

زبان کا لٹک جانا — ایک کیڑا زمین کا
ایک قسم کی چھپکلی
حلکوک (ضم) ... حلک ... بہت
کالا ہونا
حلکم (ضم) کالی چیز
حلکوک (ضم) سیاہی
حلکلک (...) نہایت کالا
حلکوک (ضم) بہت کالا
حلل (فتحہ) ہو جانے کے پانو کی سستی
یا بچے کا لنگڑا پن یا گھٹنے کی سستی
... سوسن اور ... لاغری ... ایک
... کا درد سینہ اور درد زانو
... اصل ہو جانا —
حلم (ضم) خواب جو سوتے میں
دیکھتے ہیں احلام (فتح) جمع ان کی
خواب دیکھنا — محتلم ہونا کسی کے
لئے خواب دیکھنا کسی کو خواب
میں دیکھنا — چیچڑی لینے کی تدبیر
کرنی اونٹ کی — خواب میں جماع کرنا
حلم (ضم) خواب میں جماع کرنا —
حلم (کسر) آہستگی — بردباری —
عقل احلام (فتح) حلوم (ضم)

جمع — بردبار ہونا
حلم (فتح) (...) بہت چیچڑی
دار ہونا اونٹ کا — چمڑے کا خراب
ہو جانا اور وہیں کیڑا پڑ جانا —
حلمۃ (فتح) پستان — سعدان
گھاس — ایک اور گھاس چھوٹی
چیچڑی — بڑی چیچڑی لغت اضداد
سے ہے — ایک کیڑا جو چمڑے میں
پڑ جاتا ہے جب اوسے دباغت
کرتے ہیں تو جہاں سے اوس نے
کھایا ہے وہاں وہ پھٹ جاتا ہے
حلم جمع — خون رنگین —
حلماس (فتح) عہد و پیمان — نقد
لینا ساعی کا قرضہ کے بدلے —
حلو (کسر) جولاہے کے چھوٹے
اوزاروں میں سے ایک اوزار —
حلو (ضم) میٹھا ضد تلخ — ہلکا
مرد جو آنکھ کو اچھا معلوم ہو حلوون
(ضم) جمع حلوۃ (ضم)
مونث حلوات (ضم) ان کی جمع مونث
حلو الحلال ہلکا مرد جو آنکھ کو
اچھا معلوم ہو
حلو (فتح) سر... ایک پتھر ہے

حما (فس) خاوند کے اقارب جورو کے اقارب جیسے بہائی باپ وغیرہ (ف) کوئین مین سے کیچڑ نکالنی

حمائر (فس) حماو (ففسم) (س) کالی مٹی کے ملنے سے پانی کا میلا گدلا ہو جانا۔ غصہ کرنا۔ کیچڑ بہرا ہونا کوئین کا

حماۃ (فف) کالی مٹی۔ بدبو۔

حمائر (فسم) کسی سے کچھ دفع کرنا۔ نگاہ رکھنی۔ جہان کی حمائی مین خوب خبرگیران رہنا۔

حمائر (فتفسم) کوتن۔ چوتڑ حمم جمع کالے رنگ کا ہونٹھ۔

حمائر لک بمعنی فدائر لک

حماۃ (ففس) پنڈلی کا گوشت چوہے کی شکل کا۔ اور گھوڑے کی ساق مین دو ہوتے ہین حموات (ففسفس) جمع۔

حماۃ المرءۃ جورو کی ساس کہ خصم کی ما ہوتی ہے۔

حما (فس) کالی مٹی۔ بدبودار۔ ایک گھاس ہے۔

حماحم (ففسکم) باغ کا بودینہ جسکا پتا چوڑا ہوتا ہے اوسکو حبق شنبلی بہی کہتے ہین حماحمۃ ایک۔

حماد (فتفس) بہت حمد کرنیوالا اسمی اعلام مین سے ہے۔

حمادائی حمادی یعنے نہایت وغایت تیری اور نہایت وغایت کی

حمادلہ (ففسفف) اوسکا حکم ہے۔ اوسکی تعریف ہے۔

حمازی (ففسکت) گرمی کی شدت

حمار حبیدۃ بمعنی حمار حبیدی۔

حمار حبیدی گدہا کہ اپنے سایہ سے نشاط مین آکر اوچہلے۔

حمار (فس) گدہا۔ گورخر۔ حمر (ضض) حمیر (فکس) حمور (ضفس) حمرات (ضضفس) جمع۔ ایک لکڑی کہ پالان کے آگے ہوتی ہے۔ لکڑی جسپر صیقل گر کام کرے۔ لکڑی کی تپائی جسپر مطہرہ سرد ہونے کے لئے لٹکا دیتے ہین۔

حماران (فسفس) دو پتھر کہ اونکو کھڑا کر کے ایک اور پتھر اوسپر رکھتے ہین عرب اوسپر سکھاتے ہین

حمارۃ (ففسف) اسپ پالانی جو کہ گدہے کرایہ کو دیوین حمار ایک۔

۱۰۷

[illegible]

ایک قسم کا گھاس [illegible]
ایک قسم کا خوشبو دار گھاس [illegible]
حَلَب (فکس) دودھ دوہنا
یا [illegible] دو [illegible] کر [illegible]
[illegible] شراب [illegible]
[illegible] جو [illegible]
[illegible]
حَلِیب (فکس) [illegible] گائے [illegible]
حَلِیت (فکس) [illegible]
حَلِیج (کسفا) [illegible]
شمشیر [illegible] الشی [illegible] صفت مرد
حَلِیم (کسفا) وہ [illegible] جس [illegible]
ترکے [illegible] جو [illegible]
[illegible] کے وقت نکل آوے [illegible]
ہوا مہندی کا عرق نچوڑا ہوا [illegible]
[illegible] وہ [illegible]
حَلِیف شر (فکس) ہم سوگند ہم
عہد حُلَفَا (جمع) سنان تیز یا اسپ
بانشاط
حَلِیفُ اللِّسَان تیز زبان فصیح
حَلِیق (فکس) مونڈی ہوئی
[illegible] اور لحیة حلیقہ نہیں [illegible]
حَلِیل (فکس) خاوند جورو مرد

ہم جنس [illegible] حرام
حَلِیلہ (کسفا) جورو [illegible] ہم [illegible]
حَلِیم (فکس) بردبار حلماء [illegible]
[illegible] (کسفکس) جمع خدا تعالے
کے ناموں میں سے ایک نام موٹا
[illegible] موٹا [illegible]
حَلِمات (فسفکس) [illegible] کے
[illegible] میں [illegible] یا خلع [illegible]
میں [illegible] غصہ کرنا [illegible]
ہونا [illegible] کا
حَم (فت) ہندی [illegible] کی چکنی گلی ہوئی
[illegible] یا پگھلی چربی کا بقیہ [illegible]
ایک [illegible] کام کا قضا کیا
جانا مقدار اور اندازہ کیا جانا کام
کا قصد کرنا [illegible] کو آگ سے گرم
کرنا چربی پگھلانی پانی گرم کرنا
خدا تعالے کا حکم کرنا کام کا عزم
[illegible] الدیا [illegible] تپ زدہ ہونا [illegible]
[illegible] لنا
حَمِیم (ضت) بہت اچھا [illegible] حمائم [illegible]
حَمُّ الشَّی چیز میں وہ جگہ جہاں
وہ بکت ہے
حَمُّ الظَّهِیرَة دوپہر کی گرمی کی شدت

مادہ

حمام[۱] (ضفعس) تمام چوپایوں کی تپ شتر لیفا سردار۔

حمام[۲] (کفس) قضا و قدر مرگ

حمام الزاجل[۳] (کبوتر جسکو دور سے چھوڑا ہو۔ کبوتر جو جماعت کے آگے کو اوڑے۔ دور پر داز کبوتر

حمام الزجال[۴] کبوتر جسکو دور سے چھوڑا ہو۔

حمامۃ[۵] (فتفف) سینہ کا بیچ سا جل عورت۔ اچھے چھنے ہوئے اونٹ بکریاں۔ سینہ شتر کا پوست محل کا پاکیزہ میدان۔ ڈول کی چرخی۔ دروازہ کا حلقہ۔ دو شخصوں کے گھوڑوں کا نام

حمامی[۶] (فتفسکت) گرمابہ بان یعنے حمام والا۔

حماو الله[۷] قسم اللتکی۔

حمائل الذکر[۸] ذکر کی جڑ کی رگین اور اوسکا پوست۔

حمت[۹] (فس) ایک پہاڑ کا نام۔ ایک گھاٹی ہے۔ نہایت گرم دن بہت شیرین خرما (ک) نہایت گرم ہونا دنکا (ض) گرا دینا۔ ڈالدینا۔

حمت[۱۰] (ففف) (س) جوز وغیرہ کا متغیر اور تباہ ہونا۔

حمۃ[۱۱] (ضفہ) سانپ زنبور وغیرہ کا ڈنگ اور زہر۔ جاڑے کی شدت۔

حمۃ العقرب[۱۲] ایک تلوار کا نام۔

حمۃ[۱۳] (فتف) چشمہ جسمین سے گرم پانی نکلے اور بیمار جو اوسمین سے غسل کرین تو شفا پاوین حمات جمع۔

حمۃ[۱۴] (ضتف) گھوڑے کے رنگون مین سے ایک رنگ سیاہی اور سرخی کے بیچ بیچ۔ بچھو کا ڈنگ اور اوسکا زہر۔ سیاہی۔ حمم جمع۔

حمۃ الحر[۱۵] (ضتف) گرمی کی شدت

حمۃ الفراق[۱۶] قضا و قدر جدائی

حمم حمام جمع۔

حممۃ[۱۷] (کتف) پسینا۔ مرگ۔

حممۃ[۱۸] (فسف) نہایت گرم رات

حمحام[۱۹] (فسفسک) کوئی چیز باقی نہ ہے

حمحم[۲۰] (کسکس) بہت کالا۔ ایک جانور ہے۔

حمحمۃ[۲۱] (فسفف) تاتاری گھوڑے کا آواز کرنا جو مانگنے کے لئے گھوڑے کا آواز کرنا جو ہنہنا سے کم ہو۔ سانڈ بیل کا آواز کرنا جفتی کے لئے۔

۲۹۹

حمارّۃ (فتفسف) گرمی کی شدت

حمائر (فتفس) جمع —

حمارۃ (کفسف) گدہی ... مادین

... پتھر کہ جسکے گرد کرتے ہیں

... مین ... پتھر ایک لکڑی ہے

... پتھر کہ لحد پر رکہے

حمائر جمع ایک پتھریلی زمین کا نام

... کی ... ایک چہوٹا سا

تختہ کہ جسپر ... والا اوس

... رکہتا ہے پتھر کہ حوض کے گردا

گرد رکہین تاکہ پانی باہر نہ نکلنے پاوے

حمارس (فتفسک) سخت شیر

دلاور —

حمار قبان ایک کیڑا ہے جسکے

پانو بہت ہوتے ہین فارسی مین اوسکو

... کہتے ہین —

حماریّۃ (کفسکت) فریضہ مشترکہ

حمازۃ (فتفسف) سختی — زبان

کی جہلجہلاہٹ — تیزی —

حماض (فتتفس) ایک گہاس ہے

پہول اوسکا سرخ ہوتا ہے فارسی

مین اوسے ترشہ کہتے ہین —

حماطۃ (فتفسف) حلق کی سوزش

انجیر کے درخت کی مانند ایک درخت ہے

جسمین سانپ ہوتا ہے — پہاڑی

انجیر — کالا انجیر چہوٹا — ثمر انجیر حماط جمع

— دانہ دل کی سیاہی یا دل کا خون

چہنے کا ... ایک گہاس صلیان ہے

حماق (فتفس) چیچک وغیرہ

کہ بدن پر نکل آتی ہے —

حماقۃ (فتفسف) بازار کا بے رونق

ہونا — احمق و بے وقوف ہونا —

حمامیس (فتفسکس) سختیان بلائین

حمال (کفس) بمعنے حمالۃ حمل جمع

حمال (کتفس) بوجہ اوٹہانے کے

لئے حکم دینا — کام کرنے کے لئے حکم دینا

حمال (فتفس) باربردار حمالون جمع

حمالۃ (فتفسف) خون بہا اور

تاوان کہ لوگونکی طرف سے بہرین

حلیم و بردبار ہو جانا —

حمالۃ (کفسف) حمّالی کا پیشہ —

تلوار کا پرتلہ — حمائل جمع —

حمام (فتفس) کبوتر — ہر پرندہ

جانور طوق دار حمامۃ ایک حمامۃ

مین مذکر و مؤنث یکسان ہے حمائم جمع

حمام (فتفس) گرمابہ حمّامات جمع

حمش (فس) آواز دستوار ہونا کا گہنا۔

حمش (فن ا ان) گوشت بہونا غصہ دلانا۔

حمش (فف ا س) غصہ دلانا۔ دین مین سخت متعصب ہونا لڑائی مین دلیر ہونا۔

حمش (فک) مرد جو اپنے دین مین متعصب ہو اور لڑائی مین دلیر ہو۔

حمس (فض) سخت جائین احمس (فسف) کی جمع۔ قریش اور کنانہ او جدیلا اور اونکے توابع کا لقب زمانہ جاہلیت کا۔

خمساء (فسفم) کعبہ۔ سال سخت حمس (فس) جمع

حمسة (فسفم) حرمت۔

حمسة (ففف) ایک دریائی چوپایہ ہے سنگ پشت یعنے کچھوا احمس جمع

حمش (فس) مرد جسکی پنڈلی باریک ہو۔ باریک پنڈلی حماس جمع

حمش (فس ا ان) جمع کرنا۔ غصہ دلانا کسی کو غصہ سے دفع کرنا۔

حمش الخلق باریک پیدائش کا۔

حمش (فک) مرد جسکی پنڈلی باریک ہو۔ باریک۔

حمش (فف ا س) پتلی پنڈلی کا ہونا

حمش (فس) حمشة (فضف) اس غصہ کے مارے بہڑکنا اور تہنا سخت ہونا پتلی پنڈلی کا ہونا۔

حمشة (فکف) مستورات ہیچ گوشت کم ہو لیکن

حمشة۔ غصہ دلانا۔

حمص (فکسم) نخود یعنے چنا۔

حمص (فس) حموص (فضس) الفا زخم کی سوجن کا بیٹھجانا۔ آنکہ مین جو کوئی تنکا یا اور کچھ گرپڑا اوسکو نرمی سے نکالنا۔ آنکہ مین سے تنکا نرمی سے نکالنا۔ مولین آنا۔ جہولے پر ہلنا لڑکے کا بغیر کسی کے ہلائے۔ چوپایہ پر سے پانی کا چلنا۔

حمصیص (فسکس) ایک ساگ ہے کہٹا کہ ریت مین اوگتا ہے اور اوسے پنیر مین ڈالتے ہین۔

حمض (فس) جو نبات کہ کروی اور کہاری مزہ کی ہو اور وہ بمنزلہ میوون کے ہے اونٹون کے حق مین۔ اور خلّہ گہاس بجائے نان کے ہے اونٹون کے لیے۔

[illegible]

حمیر (کسکف) ... [illegible]
... اسلام ... [illegible]
حمدص ... [illegible]
... اسلام میں ... [illegible]
... (فریبہ کرنا) ... [illegible]
... ادا کرنا - جزیں کو
الاپن تعریف اور موافق بانا غصہ کرنا
حمدان (فسفیس) حمدون
(فسفیس) حمدۃ (ضنفہ) بہت
تعریف کرنے والا -
حمدۃ النار آگ کی لوا ٹھنے کی آواز
حملہ (فسنف) الحمد للہ کہنا -
حمدی (فسفیس) اسلام ... ہے
حمر (فس) ... سنوارنا گبری کا
پوست اتارنا - سر کے بال مونڈنے
حمر (فف) (س) جو کہانے سے بد ہضم
ہو جانا گہوڑیکا اور اوسکے منہ کی
بو متغیر ہو جانی - غصہ کے مارے جلنا
- چوپایہ کا موٹاپے کے سبب سست
و کند ہو جانا گدھے کے مانند - چوپایہ
کی ایک بیماری کہ جو بہت کہانے سے
ہو جاتی ہے -
حمر (فتف) زور گک ایک پرندہ

... ایک حمرۃ اسکا جمع
حمر (فسف) تمر ہندی یعنی املی زور ک
ایک پرندہ ہے حمرۃ ایک -
حمر (فس) جمع احمر -
حمر الاہل اصیل و نجیب اونٹ -
حمرۃ القیظ گرمی کے موسم کی سخت
گرمی - سردی کی بدی - سخت مینہ کہ
زمین کو اوکہاڑ دے -
حمراء (فسفیس) مونث احمر (فسف)
عجم - سال سخت - دوپہر کی گرمی -
حمرۃ (ضسف) سرخی - ایک درخت
ہے گدہے بہت خوشی سے کہاتے
ہیں - ایک سوجن ہے جیسے سرخ بادہ
کہتے ہیں -
حمرۃ (کسکف) حوض کی تہ کا گارا -
حمرقہ (کسکف) صوف -
حمز (فس) (ض) زبان جہلجہلا دینی
غم کا دل کو جلا دینا - زبان کا جہلجہلا دینے
والا ہونا - تیز کرنا - گرفتگی جمع کرنا -
حمزۃ (فسف) شیر - ایک ساگ
ہے کہٹا - زبان کی جہلجہلاہٹ - رسول
اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحب
کا اسم شریف -

پانی بہت ہو۔ آسمان مین بارہ برجون
مین سے پہلے برج کا نام ہندی مین میکہ
حملاج (کسفعس) حنا۔ روئی پہکنی
گانے کے سینگ۔
حملاق (کسفعس) اندر کیطرف سے
آنکہہ کا کرا اگر وہ سرمہ سے سیاہ
ہو جاتا ہے۔ آنکہہ کے ڈہیلے کی
سپیدی جو پپوٹون مین پوشیدہ ہے
۔ آنکہہ کے پپوٹے کے اندر کی سرخی
جو سرمہ لگاتے وقت کہل پڑتی ہے
۔ اندر والے سرمہ کی جگہہ کہ آنکہہ سے
لگی ہوئی ہو حمالیق جمع۔
حملان (ضسفعس) لدو چوپایہ
جو کسی کو دیوین۔ اوٹہانے کی اجرت
۔ سنارونکی اصطلاح مین کہوٹ
جو درہمون مین ملا دیتے ہین۔
حملان (ضسفعس) حمل (فس)
(ض) سر اور پیٹہہ پر اوٹہانا۔
حملۃ (فسفع) لڑائی مین دشمن
پر قصد۔
حملۃ (کسفع) ایک جگہہ سے دوسری
جگہہ چلا جانا۔
حمم (ضفع) کوئلا حممۃ ایک کوئلا

راکہہ۔ ہر چیز مین راکہہ مین ملی ہوئی
حمم (فع) اشیا کی رنگ سیاہ ہونا
سیاہ ہو جانا۔ چنگاری کا کوئلا ہو جانا
گرم ہونا پانی کا۔
حمن (فس) حمنان (فسفعس)
چہوٹی چیچڑیان حمنۃ حمنا ایک
حمنان (فسفعس) طائف مین
ایک انگور ہے چہوٹے دانہ کا انگور
کے بڑے دانون کے درمیان میز
چہوٹے دانے۔
حمو الرجل جورو کا باپ یا بہائی
چچا احماء (فسفعیم) جمع
حمو الشمس آفتاب کی گرمی
حمو المرءۃ خاوند کا باپ۔ خاوند کے
اقارب۔
حمو (فضس) حما (فع) حم (فس)
حم (فس) بمعنی حمو (فس)۔
حموۃ الالم درد کی سختی اور تیزی
حموج (فضس) ہرن وغیرہ کا
چہوٹا بچہ۔
حمود (فضس) سرستودہ۔
حمور (فضس) غالب اور ایک
چیز کو ہوش سے نگاہ رکہنے والا۔

حَمَس (فس) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
حمصیصہ (فسعف) [illegible]
[illegible]
مین رہتی ہے
حَمَط (فس) [illegible] چھیلنا پوست اتارنا
حماطۃ (فسفس) حماط [illegible]
[illegible] ایک قسم کی گھاس
[illegible] جمع
حمطرہ (فسعف) [illegible]
[illegible]
حماطان (فسفس) ایک گھاس
[illegible] ایک [illegible] کا نام [illegible]
سا گل مین ہوتا ہے
حمظ (فس) [illegible] کھینچنا چھوڑنا
حنظل (فسعف) حنظل
حنظلہ (فسعف) حنظل [illegible]
حمق (فس) [illegible] بے وقوفی
بے عقلی (کس) احمق و بے وقوف ہونا
حموق (فف) [illegible] کہ عورت کی
شرمگاہ مین سے نکلے

حموق [illegible] جنگلی [illegible]
[illegible] ہون۔ احمق بے وقوف
حمقا [illegible] احمق
حمقیق (فسکس) بمعنی حماق
حمک (فسف) [illegible] ریزہ چیز
[illegible] ایک [illegible] لوگ
[illegible] بکری کا بچہ [illegible]
[illegible] جانور [illegible]
[illegible] اصل اور طبیعت [illegible]
[illegible] جنگل مین جا
[illegible] حضرت [illegible] علی کے
[illegible] کا نام
حمل (فس) [illegible] گذرنا
حملۃ (ففف) [illegible] عورت حقیر
حمل (فس) بچہ کے سبب پیٹ کا
بوجھ حمال (کفس) احمال (فسفس)
[illegible] درخت کا پھل
حمل (کس) سر اور پیٹھ کا بوجھ
احمال (فسفس) جمع
حمل (فف) بکری کا بچہ۔ چند مہینے
کا بکری کا بچہ۔ بکری کا بچہ کہ دوسرے
سال مین لگا ہو حملان (فسفس)
احملان (فسفس) جمع۔ [illegible]

ج

حمقیقس (مع) جمع

حمیتہ (فکتعمن) نمک وغیرہ کی کپی

حمیت (فکس) ... گھی کی کپی کی شکل جسمین ... ہو

حمیتہ (ضفع) ... چھوٹی مشک ...

... کی مشک ... حمیث

بہت ... حمیت

سخت غصہ

حمیحیق (ضفسکس) ایک سفید ...

حمیشد (فکس) تعریف کیا ہوا

حمیدہ (فکسف) مونث حمید

حمیر (فکس) حمیرہ (فکسف) ایک ... جس سے زین باندھتے ہیں

حمیز (فکس) سخت ...

حمیز القلب ...

حمیسہ (فکسف) ...

حمیش (فکس) چھپی

حمیصہ (فکسف) چرائی ہوئی ... حمائص (ضفسک) جمع

حمیضہ (فکسف) زمین جسمین ... بہت ہو ...

حمیق (فکس) ایک نبات ہے

حمیقہ (ضفسکف) احمق ...

حمیقا (ضفسف) حمیقا (ضفسفسم) بمعنی عماق (ضفس)

حمیقیق (ضفسکس) ایک پرندہ ہے

حمیل (فکس) جو چیز کہ سر او پیٹ پر اوٹہائی گئی ہو ... بیگانہ ... عورت کے پیٹ مین بچہ ... پانی کے اوپر کا کوڑا کرکٹ حمائل (ضفسک) جمع ... مرجھائی ہوئی کالی گھاس ... پڑا ہوا بچہ کہ لوگ اوسے ... شہر ... کا بیت کہ کچھ نہ ہوگا

حمیلہ (فکسف) تلوار کا پرتلہ

حمیم (فکس) رشتہ دار قرابتی احمام ... جمع ... آب گرم ... چیز ... منہہ ہو بہت گرمی سے ... پسینا ... ہوئی ہو

[illegible]

حمول (بالفتح) علم و بردباری

حمول (بضمتین) اونٹ اور سکے اونٹ جنپر ہودے رکھے ہوں جمع حمل۔

حمولہ (بفتح) لدو اونٹ گدہا وغیرہ۔

حمولہ (بضمتین) بہت بوجھ

حمی (بالکسر) حمایۃ (بالکسر) [illegible] کرنا حمایت کرنی۔

حمی (بالکسر) حمیۃ (بکسر) حمایۃ (بضم)

حموۃ (بالکسر) گہاس کی نگاہبانی کرنی اور اوسکو چرنے سے منع کرنا [illegible] کاری کرنی۔ بیمار کو مضر چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دینا۔

حمی (بالفتح) حمی (بالکسر) حمو (بضمتین) آفتاب کا نہایت گرم اور جلتا ہوا ہونا۔ گہوڑے کا گرم ہونا اور پسینا لے آنا۔ لوہے کی تیغ کا آگ میں گرم ہونا۔ تند دل و جی کا

[illegible] اوترنا۔

حمی (الف) نکہت ہر وہ نکیلی [illegible]

حمی (بالکسر) [illegible] بیمار جو کہ مضر چیزوں سے روکا گیا ہو۔ ہر چیز نگاہ رکھی ہوئی وہ جو ظلم و ستم نہ سہ سکے صاحب ننگ و عار۔

حمی (بضمتین) تپ حمیات (بضمتین) جمع الکلام میں ہے۔

حمی (بالفتح) آفتاب کی گرمی۔

حمی (الف) چراگاہ کا گہاس جسے حکام نے چوپایوں کے لئے غیر سے روک رکہا ہو۔

حمی العین (بالفتح) مرد شوخ چشم۔

حمیا (بضمتین) غصہ کی شدت۔ ہر چیز کی تیزی اور شدت۔ جوانی کا شروع اور اوسکی امنگ۔

حمیا الکاس شراب کی تیزی اور اوسکی قوت اور اوسکے نشاء کا سر میں چڑہنا۔

حمیاطی (بکسر ضم) اگلی الہامی کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے اور معنی اسکے حامی حرم ہیں۔

حمیہ (بالفتح) رشک و ننگ حمیات جمع

رجوعی ... ضعیف ۔ و لاغر
لینا ۔ شر و فساد ۔ [illegible]
حنان اللہ معاذ اللہ
حنان ع (فتحتین) کسی چیز کی آرزو
کرنے والا ۔ مرد وحشی جو بیٹے والا
اپنے جورو ... والی چیز پر ...
ہو ... آواز ... [illegible]
ناموں میں سے ایک نام ۔ [illegible]
کے درمیان میں ... کے وقت
آواز دہو ... ظاہر [illegible]
حنن حنان ... جسمیں لیپ
... آواز نکلے
حنانی (التعس) مہندی
حنانۃ (فتعسف) کمان کمان
جسمیں سے آواز نکلے ۔ عورت کہ
اپنے پہلے خاوند کی یاد میں ہمیشہ
نالہ کرے اور غم ظاہر کرے ۔
حنایۃ (کفتحہ) کجی ۔ خمی
حنایۃ (فتحہ) (ض) ہاتھ مروڑ
ڈالنا ۔ لکڑی کو خم دینا ۔ لکڑی کو
چھیلنا ۔ پوستہ ... پیچھے کی طرف
پیٹھ دوہری کرلی
حنوشب (فتح) گھوڑے کے شانوں کی

کجی ۔ گھوڑے کے بالوں کی دوری
[illegible] بڑھنے کے
حنبال (کسفعس) موٹا گوشت [illegible]
حنبالۃ (کسفعسف) دریا بہت
بولنے والا مرد
حنبتۃ (کسفعس) شدت اور سختی
حنبج (الکاف) جون ۔
حنبج (قنفذ) دلدار گوشت کا بھرا
حنبرۃ البرد جاڑے کی شدت ۔
حنبریت (قسقس) خالص بے
ملاوٹ ۔ بہت دبلا ضعیف ۔
حنبش (کسیف) اعلام میں سے ہے
حنبشۃ (قنفذ) ناچنا ۔ تالی
بجانا ۔ کودنا ۔ چلنے لگنا ۔ لہو لعب
کرنا ۔ ہنسنا ۔ بات کی نقل کرنی ۔
کسی کو باتوں میں بہلانا ۔
حنبجۃ (قسقف) لڑائی میں
دشمن پر جانے سے چڑھ آنا ۔
حنبل (قنفذ) ٹھگنا ۔ پیرانی
پوستین ۔ پرانہ موزہ ۔ سور با ۔
پیٹا ۔ موٹا گوشت بھرا
حنبل (قنفذ) لوبیا [illegible]
کا شگوفہ ۔ درخت [illegible] کا پھل ۔

۱۱۰۷

[illegible]

[illegible] دو ہوتے ہیں [illegible] جن

جن جنون ملکے کہتے ہیں یا جن اور آدمی

کے درمیان ایک خلقت ہے

جنائز (الفتح) ہندی جس سے

[illegible] جنازہ (فتح) ایک [illegible]

[illegible] میں ہیں جمع

جناہ (فتح) ہنر ہونا مکان کا

اوراوسکی گہاس کا ایسے میں لپٹنا

عورت سے جماع کرنا

جنابذ (کسر) سرچانا مادین کا

جنابج (فتح کسر) بہی جمع

جنابج (فتح) چیونٹیان

جنابل (فتح) ولایت مضبوط

جنافر (فتح) کالے بادل

جناع (فتح) [illegible]

[illegible] کہ تہنگنا گول

جنابج [illegible] ایسا اونٹ

جنابج [illegible] مرد تیز نظر

جنابر العین [illegible] مرد تیز نظر

جناتج (فتحتین) الجنے ریگ او[illegible]

[illegible] دسے جند وجنہ

[illegible] جنفج (فتح) ایک [illegible]

جناذ (فتح) آفتاب

جناط [illegible] خوشبو جو مرد و سر لگاتے

جناط (فتح) گیہوں بیچنے والا

مردوں کی خوشبو بیچنے والا جناطون

[illegible] جمع

جناطہ (فتح) گیہوں بیچنا

مردونکی خوشبو بیچنی

جناطی (فتح) گیہوں بیچنے والا

جنابک (فتح) رسا کا جس سے

جنک باندھین [illegible] لکڑی یا

تسمہ جس سے پالان کی ہیئین مضبوط

کرتین [illegible] جسکا ایک سر ناقہ

کے کاندھی سے نیچے باندھکر دوسرا

بچہ کی گردن مین باندھین تاکہ

ناقہ اوسپر مہربان ہو

حنان (فتح) رحم مہربانی

خنجوق (فسفس) پچھنے کیطرف سے پہلو کی ہڈیون کے بیچ۔ خناجن (ففسک) جمع۔

خنخ (کسن) ایک کلمہ ہے جس سے اونٹ کو بٹھاتے ہیں۔

خنخنتہ (فسفف) کسی بات کو ناک سے ادا کرنا جیسے بانی کہتے ہیں۔

خندا (فسفم) ٹہگنا ذلیل و خوار۔

خندس (فسفس) پانی جسکو ریت جذب کیا ہوا اور جب اوس سے ریت ہٹا تو پانی نکل آوے۔ خنادس (ففسک) جمع۔

خندیس (فسفس) اچھا یا گہرا ریت جسمین ہر قسم کی نباتات ہوتی ہے۔

خندر (فسفف) آنکھ کی سیاہی۔ خنادر (ففسک) جمع۔ اسمین آٹھ لغت اور بھی ہین خندور (فسفف) خندورة (فسفسف) خندرة (کسفسف) خندورة (کسفسف) خندیر (کسکس) خندارة (کسفف) خندور (کسفس) خندیرة (کسکف) خنادیر (ففسکس) جمع۔ اور بولتے ہین ہو علی حندرة عینیہ وخندورة عینیہ یعنے وہ اوسپر اتنا بھاری ہے کہ اوسکے آنکھ کی سیاہی ہے اسکی طرف دیکھ نہیں سکتا۔

خندس (فسکس) اندہیری رات۔ خنادس (ففسک) جمع۔

خندقوق (فسفسس) ایک گھاس ہے جسے ذرق کہتے ہیں۔ لنبا مرد۔ گھبرایا ہوا احمق۔

خندقوقی (فسفسسم) خندقوقا (فسففف) ایک گھاس ہے جسے ذرق کہتے ہیں۔

خنثل (فسفس) ٹہگنا۔

خندلس (کسکس) ناقہ بھاری چلنے والی۔ بہت گوشت والا اصیل۔ نجیب و اصیل۔

خندقم (فسفف) ایک درخت ہے اوسکی جڑ مین گوند ہوتی ہین۔

خندورة (فسفسف) آنکھ کی سیاہی۔

خندوق (فسفسف) بہادر جری۔

خنذید (کسکس) جیسے پہاڑ بہت اونچا ہو۔

خنذلقة (کسکسف) سیاہ چشم۔

خنذرنس (فرمن) کسی گھر کے بین

[illegible] جعفری ز فصل کاف

[illegible]

[illegible] الف [illegible] جمع

[illegible] کرنا [illegible] سخت

[illegible]

[illegible] ایک [illegible] زندہ ہے

[illegible] جوار [illegible] حلقوم سلینا

شیشہ جس میں ایک پسی ہوئی چیز رکھتے ہیں اور [illegible]

[illegible] کی مانند ہو [illegible] چھوٹی [illegible] کی مانند ایک برتن ہے

[illegible] چھوٹی جام [illegible]

[illegible] شیشہ جس میں [illegible]

ہیں [illegible] فصل [illegible] جمع

[illegible]

آواز اور اوسکا [illegible]

[illegible] نام [illegible]

[illegible]

سیاہ [illegible]

[illegible] ہو [illegible] ہے

[illegible] گناہ [illegible]

[illegible] گناہ [illegible]

[illegible] سونا [illegible]

[illegible]

پھر جانا

[illegible]

جو پانی جمع ہو گیا ہو سڑ کے بہت بد بو دار
حنظ (فس) تیر جس سے مارتے ہیں
(ضم) حسیٹی منجالی پوست کا سیاہ
رنگ ہو جانا۔
حنظ (س) ریشہ گھاس
کا سپید ہو جانا اور پک جانا۔
حنظار (کسفس) بڑ پسیلو گنگ
حنظب (فسفس) یعنی حنظبا
حنظبة (فسفف) ایک جانور ہے
حنشرات الارض زمین سے ہونا
حنطة (کسف) گیہوں
حنظمرة (فسفکسف) ابر
حنظی (کسکت) گیہوں بہت
کہانے والا تاکہ موٹا ہو جاوے
پہولا ہوا سوجا ہوا۔
حنظکة (فسکف) موٹی قد آور بکری
حنظاة (فسفس) لامست کرنی
برا بہلا فحش سنوانا۔
حنظاب (کسفس) ٹہنگنا بدخو
حنظاب بن عمرو عقبوی ربوسا
خوارج میں سے ہے
حنظاثرو (کسفس) ٹہنگنا۔
حنظب (فسفف) شرمندی گوہ

اکثر زبان نر یا ایک قسم کا گوہ کردن
کہ لنبا ہوتا ہے یا ایک چوپایہ ہے
او سکی مانند اسمین بہی قوت اور
بہی ہین حنظب (فسف) حنظبا
(فسفسم) حنظباء حناظب (فسفسم)
حنظف (کسف) ابریشا
حنظل (فسفسم) ایک پہل ہے
پہولے خربزہ کی برابر نہایت کڑوا
او سے ابو جہل کا خربزہ کہتے ہین
اور جس درخت پر یہ ایک ہی
پہل لگتا ہے وہ زہر قاتل ہوتا ہے
حنظلة (فسفف) ایک
حنظوب (فسفس) عورت
سو ٹی بدکار ناکارہ بے حیض۔
حنظیان (کسکفس) فحش بکنے
والا مرد زبان کا پہوہڑ
حنظیة (فسفف) ملامت کرنی
برا بہلا سنوانا کہ جو نہ سننا چاہئے تہے
حنف (فف) دونون کی استقامت
اور راستی پانوکی کجی کہ دونون
پانوون کے انگوٹھے ایک دوسرے
کیطرف جہکے ہون یا پانوکی پیٹھ سے
چلنا سیدہ قدم کی کجی

[illegible]

... اگر ... [illegible]

... ورنہ ... [illegible]

... جو ... [illegible]

... آدھے ... قد کا ...

... گہرا ... [illegible]

حنفہ (فسفہ) ... [illegible]

حنفلان (فسکفس) گروہ یا
ایک قبیلہ ہے۔

حنتوہ (فسعفہ) ... [illegible]

حنفیان (فسکفس) ... [illegible]
... [illegible]

حنزف (فس) کسی کی ... [illegible]

حنزاب (فسفس) مضبوط
پیدائش کا گدھا۔ ... یا
... سخت درشت ...
جانورون کا گروہ۔ مرنا ...

حنزرہ (فسعفہ) ... [illegible]

حنزفہ (فسعفہ) ... [illegible]
... سانپ حنزقرا ...
... (فسفس) جمع

حنزقو (فسکس) حنزقوہ

خنسفہ ... آدمی

حنطوب (فسسفس) ایک
... سنگ خوار جانور زنگا گروہ

حنطش (فتس) لڑائی کے میدان
مین بہ سبب بہادری کے پیچون
بیچ مین جمے رہنا۔

خنبش (ضفض) شقی پرہیزگار لوگ

حنبش (فعا) اکھی۔ سانپ
افعی ... جیسے طیور اور ہوام
اور حشرات الارض مین سے شکار
کرین یا وہ جکا سر سانپ کی مانند
... حناش (فسفس) جمع

حنشش (فعل) جمع کرنا ہانک دینا
کسی کو کسی سے پھیرونا شکار کرنا۔

حنطش (فس) (ن) مرجانا

خنصار (فسفس) پتلے بڑے پیٹ کا

خنصال (فسفس) خنصالۃ
(فسفسف) بڑے پیٹ کا۔

حنفاد (فسفس) مرد ضعیف۔

حنفیج (فسکع) شست مرد جس
سے کسی کو نفع نہ پہونچے۔

حنفل (فسف) چھوٹا تالاب۔

حنفلۃ (فسفف) بڑے پتھرین

حنکلۃ (فسفف) کالی عورت جسے
سب برا کہین — اکل کہری — بہاری
چلنا رفتار مین آہستگی کرنی —
خنمۃ (ففف) خواب —
حنن (فف) گوہ گردان
حنو (کس) ہر چیز خمدار کج —
ہر ٹیڑہی لکڑی کہ چہوٹے پالان
یا بڑے مین ہوتی ہے — کوہ نون
کسی چیز کی جانب احناء (فسفسم)
حنی (فلت) حنی (فنکت) جمع بھی
— ایک روئیدگی ہے —
حنو (فس) ان کج کرنا خم دینا
پیٹھ کو کبڑا کرنا — ہاتھ مروڑ ڈالنا
کمان بنانی — کسی پر شفقت کرنی —
بچون پر مہربانی کرنی عورت کی اور
اونکے باپ کے مرجانے کے پیچھے
دوسرا خاوند نکرنا — نر چاہنا بکری کا —
حنواء (فسفسم) ناقہ کبڑی —
حنوان (کسفس) دو لکڑیان
ہین خم دار ماندنکے اوپر جالی ہوتی
ہے اور اس سے گیہون کاٹکر کہلیان
کیطرف لاتے ہین —
حنوت (فسعف) ایک خوشبودار
گہاس ہے کہ نرم زمین مین اوگتی
ہے — جنگلی گل ہمیشہ بہار — ریحان —
ایک گہوڑا ہے —
حنور (کتفسف) ایک برا ہے
حنوط (فنس) مردون پر
جو خوشبو لگاتے ہین —
حنوط (فنفس) کہیت کا کٹنے کا
صاحب وقت ہونا — رمث گہاس کا
سپید ہوجانا اور پکجانا — مردہ
پر حنوط لگانی —
حنون (فنس) ہوا جسمین سے
اونٹ کے رونے کی سی آواز
نکلے — بچہ والی عورت کہ اور خاوند
کرے تاکہ وہ اوسکی اولاد کی خبرگیری کرے
حنون (فتفس) مہندی کا پہول
یا ہر درخت کا شگوفہ —
حنیت (فلتف) کمان —
حنیذ (فکس) بکری — گاے
کا بچہ جسے گروہے مین بہونا ہو —
گرم بکری کہ بعد بہونے کے ابتک
اوسمین سے پانی ٹپکتا ہو — آگ
سے پانی گرم کیا ہوا — ایک روغن
ہے جس سے سر و بدن پر جیسے

مادہ
حنکل
حنم
حنن
حنو
ایضاً
ایضاً
ایضاً
ایضاً
حنر
حنط

1113

ایضاً
حنن
ایضاً
حنو
حنذ



ج

[illegible]

[illegible] ایک وادی

[illegible] کی [illegible]

[illegible] کا

[illegible] ایک چیز کو سمجھنا

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] تجربہ

[illegible] تجربہ میں پکا

[illegible]

[illegible] تجربہ

[illegible] پانوں کی

میخیں [illegible] جسکا

[illegible] کی تھوڑی کے نیچے

[illegible] دوسرا [illegible]

[illegible] باندھتے ہیں تاکہ ناقہ اوس سے [illegible]

[illegible]

جھنکٹ [illegible]

جھنکٹ (فتحین) ایک نبات ہے

[illegible]

[illegible]

کہ اوسکا ہوا چھوڑا آیا تھا۔ لینے چلا
اور حنین اونکا اونٹ لیکر چلدیا
پس آپ اعرابی کے پاس
سودا و موزون کے اور کچھہ نہ رہا
جب گھر آیا تو اوسکی قوم نے پوچھا
کہ سفر سے کیا لایا کہا جُفَّی حُنَین
یعنے حنین کے دو موزے
لایا ہون پس یہہ اوس شخص کے
حق مین مثل ہوگئی کہ جو کوئی ملے
اور اپنی حاجت سے نامراد پھرے
حُوْ (فنس) یہہ کلمہ ہے بھیڑون
کو ڈانٹنے کے لیے
حُوْ (فت) ظاہر بولتے ہین لا یعرف
الحَوَّ مِنَ اللَّوِّ یعنے امر ظاہر کو امر خفی
سے امتیاز نہین کرتا۔
حُوَّاء (فکسم) آواز۔
حِوَاء (فکسم) لوگون کے گھر جو خبر
گاہ وغیرہ مین ہون ایک جگہہ پر
احویۃ (فسکف) جمع۔
حَوَّاء (فتفسم) آدمیونکی ماںکا نام
علیہا السلام۔ سرخ ہونٹھہ مایل
بسیاہی اور مؤنث اَحْوٰی۔
حَوَّاءَۃ (فتفسف) ایک گھاس

ہے زمین سے چپٹی ہوئی۔ مرد جو
گھر ہی مین رہے اور اوسکو لازم پکڑے
رہے اوس سے ہرگز جدا نہو۔
حَوَائِب (فسف) بڑا کشادہ
نالہ۔ بڑا ڈول۔ جانے کشادہ
سم مغاک۔ آب خوردہ۔
حُوَائبۃ (فسقف) بڑا ڈول
حَوَاتِک (فقسک) چوپایہ کہ
نہ بڑھے۔ نہ چارہ اوسکو قوت
دے۔ شترمرغ کے بچے یا چھوٹے
چھوٹے شترمرغ کے بچے
حَوَادِثُ الدَّہْر زمانہ کی سختیان
بلائین۔
حَوَاذِی (فقسک) پانو اسلئے
کہ ہاتھون کے تابع ہین۔
حَوَاذ (فکس) دوری۔
حُوَار (ضفس) اور کبھی حِوار
بھی کہتے ہین۔ اونٹنی کا بچہ جو ہین
کہ پیٹ مین سے نکلے۔ یا دودہ جو
دودہ سے جدا ہوا ہو احورۃ
(فسکف) حِیران (کسفس) حُوران
(ضسفس) جمع۔
حَوَار (فکس) جواب۔

[illegible] ہوئی یعنی [illegible]
حنجفت (فکسفہ) [illegible]
کمان [illegible] ہے جلکی کمان [illegible]
[illegible] کی [illegible]
حنف [illegible] (فکس) [illegible]
مائل ہوکر دین اسلام کیطرف آنے
والا [illegible] پر ثابت [illegible]
والا [illegible] جو کہ حضرت ابراہیم
علیہ السلام کی [illegible]
جمع - چھوٹا جوتی [illegible]
[illegible] گیا ہوا مسلمان
راست دین - ۱۱۱۳
حنیفت (فکسفہ) [illegible]
احنیف بن قیس کیطرف منسوب ہین
حنیق (فکس) غصہ مین آیا ہوا
حنیق حالق مثل حنیق -
حنیک (فکس) آزمودہ -
مرد [illegible] عقلکا بسبب تجربہ کے -
حنیگ [illegible] (فکسفہ) چوپایہ یادین
خوب کہانے والی -
حنین (فکس) آرزومندی -
[illegible] کا رونا کہ اپنے بچہ سے جدا
ہوگئی ہو - بہت رونا [illegible] نشاط

یا [illegible] کا ہو یا خوشی مین
[illegible] بہت خوشی کرنی آرزومند
ہونا [illegible] اونٹنی کا بچہ کی جدائی
سے رونا کمان کا آواز کرنا -
حنین [illegible] (فکس) [illegible] جمادی الاولی
اور جمادی الاخری کے نام
حنین [illegible] موزہ دوز کا نام
اسکی [illegible] ہے [illegible] حنین اصل
اسکی یہ ہے کہ ایک اعرابی شتر
سوار اسکے پاس موزہ خریدنے
کو آیا اور بہاو کیا لیکن نہ خریدا
حنین کو یہ امر برا لگا تو اوسنے ایک
موزہ جسکا اعرابی نے بہاو کیا تو اوس
اعرابی کے رستہ مین کہین لٹکا دیا
اور دوسرے کو آگے بڑہکر ڈالدیا
اور وہان کہین چھپ رہا جب
اعرابی نے پہلا موزہ لٹکا ہوا
دیکہا تو کہا کہ یہ موزہ حنین کے
موزہ سے کتنا مشابہ ہے اگر اسکے
ساتھ کا دوسرا ہوتا تو مین لے لیتا
جب آگے بڑہا اور دوسرا موزہ
پڑا ہوا دیکہا تو اپنے اونٹ کو
وہان ہی باندہ آپ دوسرے موزہ کو

کر بعد اونہا لینے کے زمین پر باقی رہو
حواقة (فسفسہ) کوڑا جو جہاڑو سے جہاڑ کر باہر ڈالین
حوال (فس) ہر چیز کے درمیان کا حائل
حوال الدہر زمانہ کی گردش
حوالب الغیث کوگے کے سوتین
حوال (فس) قصد کرنا - ایک چیز کی طرف آنکہہ ڈالنی اور تیز دیکہنا
حوالة (فسف) تمسک جو قرضخواہ کو لکہہ دیتے ہین - ضمانت - ایک نہر کو دوسری نہر کیطرف پہیرنا -
حوالس (فسک) عرب کے لڑکونکا ایک کہیل ہے اسطرح پر کہ لکیر سے زمین پر پانچ خانے بناتے ہین اور ان پانچ کے بیچ پانچ خانے خالی رکہتے ہین اور پانچ مین پانچ مینگنین رکہتے ہین اور انمین سے اون خالی خانونمین اوٹہاکر رکہتے ہین اور پہر لکیر کو حالس کہتے ہین -
حوالی (فسکت) بڑا حیلہ ساز
حوالی (فسکہ) بہت سے پانو قدم کا پیچہا نیچے کا پچہا جانا

افسکہ) ایک
حوالی (فسک) پہلو کی سب ہڈیون مین سے جو لنبی ہو -
حوب (فس) ماں باپ - بہن بیٹی - گناہ - غم - وحشت سلح پوشش - رنج - درویشی - درد سزاونٹ - ایک کلمہ ہے جس سے سزاونٹ کو ڈانٹین -
حوب (فس) ہلاکت - بلا نفس بیماری - گناہ -
حوب (فس) حوبة (فسف) حیابة (فسف) گناہ کرنا -
حوباء (فسفس) تن - روح - دل حوباوات (فسفسفس) جمع
حوبة (فسف) ماں باپ - بہن بیٹی - ماں کی طرف رشتہ داری - ماں کی فرزند پر محبت - غم - درویشی حاجت - حالت - مرد ضعیف - حوب جمع - جورو - لونڈی حرم گہر کا بیچ - ماں کی نافرمانی کا گناہ -
حوت (فس) مچہلی احوات حوتة حیتان جمع - آسمان مین ایک برج ہے جسکو ہندی مین مین کہتے ہین -

١٠٩٥ حواقہ
حوال
حوال الدہر
حوالب
حوال
حوالة
حوالس
حوالی
حوالی
حوب
١١١٧
حوب
حوب ایضا
حوباء ایضا
حوبة ایضا
حوت

حواری (فغفسفا) ... سفید بنایا ہو -

حواریین (فغسکا، ی) رشتہ حوار ... کی سپید دینے والا ... دینے والا - اسی سے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کے حواری

حواریات (فغسکفس) شہر کی عورتیں اسلیے کہ سفید ہوتی ہیں

حواز القلوب دلونکا جمع کرنے والا - ایسی چیز پر غالب آنیوالا جس سے ناپسندیدہ باتوں کا ارتکاب ہوتا ہے -

حواز (فغفس) بڑے سرگین

حواس (فتفس) راہ میں ڈھونڈھنے والا -

حواس (فغفست) پانچ حس یعنی سننا - دیکھنا - سونگھنا - چکھنا - چھونا - حاسہ کی جمع -

حواس الارض پانچ آفتیں جانا - اولا - ہوا - سردی - ... یعنی وہ آفتیں کہ زمین کی پیداوار کو نقصان کرتی ہیں -

حواشیات (فغفسفس) ...

... اونٹ - بہت کھانے والا ...

... اونٹ [illegible]

حواشی (فغفسف) رشتہ داری ... کا پچھلا ہوا غارت - ہر ... لوگوں کا بڑا گروہ اور اونٹ کے اکٹھے ہونے کی جگہہ -

حواشیہ (فغفسف) جس سے شرم آوے - قرابت شکمی - رشتہ داری حاجت - کام جسمیں گناہ ہو - شکمی قرابت کو قطع کرنا -

حواشک (فغفسک) چوطرفی ہوائیں - تیز یا سست و نرم ہوائیں جمع حاشک یعنی ...

حواصل (فغفسفا) لکڑی جس سے ... لیتے ہیں -

حواصین (فغفسک) پارسا عورتیں

حواضن (فغفسک) جوڑے جو زمین میں جمے ہوئے ہوں اور اٹھا ڈن نہوں -

حواط الامر (فتفس) قوام کار یا تیری -

حواطہ (فغفسف) کوٹھا جسمیں غلہ بھریں -

حوافہ (فغفسفا) سیست کا پتا

جَوْنُو (فضمن) دانہ جمع کرنا تشویش
کرنا اور مست دینا۔ کسی چیز پر نگاہ رکھنا
اور زاد و سفر کی چوکسی کرنی
جَوْخان (فسفس) ایک گھاس
ہے جسکا پھول زرد ہوتا ہے
جُوذَلَہ (فسفف) اونٹ کا شکم
ٹیڑھا ہو جانا۔
جَوْذِی (فسکس) تعجب و فرح
کرنے والا۔ جیسے پیر برانگیختہ کرنیوالا
حَوْر (فس) بازگشت نقصان۔
پگڑی کے نیچے کا پیچ۔ جواب بھیجنا
یا کچھ تھوڑی سی چیز۔
حَوْر (فس) حور (فس) دن
پھر جانا۔ گھٹنا اور کم ہو جانا۔ پگڑی
کا پیچ کھولنا۔ کپڑے کو دھونا اور
سپید کرنا۔ گفتگو پریشان ہونا۔
حَوْر (فس) ہلاکی نقصان۔ حور
(فسف) اور حورا (فسفسم) جمع
آنا جگہ سے باہر نکلتا جاوے۔
حور فی محارة نقصان در نقصان
حور و بور (فسفس فس)
بے کاری سبب حاصل گمراہی۔
حورۃ (فف) سرخ پوست جن میں

... کو لیوبی ... ایک
حوران (فسفسن) جمع ایک گروہ
ہے جسے ... چھپائے رکھتے
ہیں۔ تیسرا ستارہ بنات النعش
صغری میں کا۔ پوست سرخ رنگا ہوا
ہے اور (فسفس) جمع
ایک گھاس ہے۔ ایک چیز ہے
بہت سپید سپیدی اور بہت ...
سیاہی ہونا آنکھ کی۔ آنکھ کی
سیاہی کا گول ہونا اور ... پھیلنا
پلکوں کا پتلا ہونا۔ پپوٹے کے
گرد اگرد کا سپید ہونا۔ تمام سیاہ
ہونا آنکھ کا
حُور (فسفسم) گول وضع عورت
جسکی تمام آنکھ سیاہ ہو۔
حوران (فسفس) ہاتھی کی کھال
حورم (فسف) بہت مال جمع
ہونا۔ نالق۔
حور ور (فسفسہ) کچھ۔
حور ورة (فسفسف) ...
حوز (فس) وہ جگہ جسکا گرداگرد
بلند ہو۔ رفتار سست۔ نکاح۔
نکاح۔ کمان کا کھینچنا۔ تیر کھینچا۔

١١١٩

[illegible]

حوش [illegible]
[illegible] بمعنی [illegible]
[illegible]
[illegible] سیاہی [illegible]
[illegible] ولادی
[illegible] سرگانہ
کی عورت
[illegible] (بفتح) [illegible]
حوتکہ (بفتح) بمعنی [illegible]
حوتکی [illegible]
سخت جوڑ [illegible]
حوجمبہ (بفتح) ایک [illegible]
[illegible] جسکے [illegible]
حوحل (بفتح) [illegible] قریب [illegible]
[illegible] جانور [illegible]
حوغلہ (بفتح) الٹنا مرد
حوث (بفتح) جگر کی رگ
حوشت [illegible] (بفتح) [illegible] حرف
[illegible] (بفتح) [illegible]
[illegible]
[illegible] بوہا [illegible]
پریشتی و متفرق

[illegible]
[illegible] بمعنی [illegible] چیز
[illegible] عورت
[illegible] آدمی کا [illegible]
حوسم (بفتح) [illegible] آدمی ہو
یا [illegible]
حوح (بفتح) اور [illegible] فقیری
حوح (بفتح) [illegible] کیطرف
محتاج ہونا [illegible] سیار مند ہونا
حوجاہ (بفتح) حاجت [illegible]
حوجلہ (بفتح) شیشہ [illegible]
جسکا پیٹ بڑا ہو اور [illegible] کشادہ ہو
حواجل (بفتح) [illegible] جمع [illegible] اندر
[illegible] مین گھس جانا جیسے
حوجل الرجل
حوجمہ (بفتح) گل سرخ حوجم
(بفتح) جمع
حوجن (بفتح) گل سرخ
حوجاۃ (بفتح) کلمہ حو سے
[illegible] ہٹانا
حوذ (بفتح) [illegible] گرجانا پھر جانا
حودل (بفتح) [illegible]
حوذلہ (بفتح) [illegible]

ج

ہاتھہ اور پانوؤن مین رستی باندہنے کی
جگہہ ہڈی جو تسم کے اندر وار ہوتی
ہے عصیب اور دظلیف کے درمیان
ایک چہوٹی ہڈی ہے شلاثہ کے
مانند کہ سر ساق اور تسم کے درمیان
ہے یا ہاتہہ کے جوڑ کی ہڈی گروہ

حوشیتہ (فسکفف) جماعت۔

حوشکۃ (فسکفف) جو کچھہ کہ گھر
کے کونہ مین ہے سفین۔

حوشی (فسکت) مرد جو کسی
سے ملے نہین۔ اندہیری رات۔
اونٹ وغیرہ کہ بہاگین اور نفرت کرین۔

حوشی الکلام جو کہ شکل اور
انوکہی بات کرے۔

حوشیتہ (فسکتف) نہ ملنساری

حوص (فس) درزی گری
کرنی اور یہہ قول لاطعنن فی حوصک
یعنے البتہ فریب دونگا مین تیرے
تئین یا تیرے ہلاک مین کوشش
کرونگا کپڑے کو سینا۔ دو چیز کو
ملانا جمع کرنا۔ (ن) گرد پہرنا۔

حوص (فف) دنبالہ چشم کی تنگی
یا ایک آنکہہ کے دنبالہ کی تنگی۔

حوصاء (فسکفسم) عورت جسکی
آنکھونکا یا ایک آنکھہ کا دنبالہ تنگ ہو

حوصل (فسکف) جانور کا پوٹہ۔
ایک جانور ہے بہت کہانے والا
بڑے پوٹے کا حواصل (ففسک)
جمع۔ حوض کی تہ مین پانی کا قرارگاہ
بکری کہ جسکی ما فوق ناف یعنے وہ
جو ناف سے اوپر ہی بڑا ہو۔

حوصلاء (فسکففسم) جانورونکا پوٹہ

حوصلۃ (فسکفف) جانورونکا پوٹہ

حواصل (ففسک) جمع۔ پیٹ کی جڑ
زیر ناف تک۔ حوض کی تہ مین پانی کی تہلی

حوصلہ (فسکفف) جانورون کا دانہ
سے پوٹے کو بہر لینا۔

حوض (فس) پانی کے لئے جو
جگہہ زمین مین بناتے ہین حیاض
احواض (فسکفس) جمع۔

حوض (فس) (ن) پانی جمع کرنا
حوض بنانا۔

حوض الحمار یہہ کلمہ ہے جس سے
کوستے ہین بمعنی سینہ کا ٹوٹ جانا
یعنے تیرا سینہ ٹوٹ جائیو۔

حوض مجیر (ففکف) چہوٹا حوض گہر اوض

مادہ
۱۱۲۱
حوض

[illegible]

چونکل (فسفہ) جھنکنا -

چونکا (فسفہ) جھنکنا -

چوکسی (فسکت) خوب [illegible]
بالا [illegible] والا - جو کہ [illegible]
[illegible] نہیں سر فرو [illegible]
[illegible] سیاہ -

خونفشہ (ضسکتف) اونٹنی کہ
اونٹون سے الگ رہے - ناقہ جسمیں
چلنے کی قوت مجتمع ہو - مادہ ناقہ کہ
اوسمین ایک سرشت ہو کہ اونکو
الٹا اوسکی خوش رفتاری کو اور
اوسکی نہ پہونچیں

خوس (ضسس) [illegible]
چھپاوے [illegible] حرکت کرے [illegible]
خوس (ضسیف) [illegible]
نادل [illegible]

[illegible] حیوان میں [illegible]
[illegible] بہت [illegible]
[illegible] کے لیے
[illegible] پامال کرنا - دامن
[illegible] سے پوست
[illegible]

خوشار (فسفسم) بہت کہانے والی
[illegible] سخت جان -

خوشر (فسفہ) بہت اونٹ -

خوشل (فس) حظیرہ [illegible] کوئی
[illegible] سفر [illegible] -

خوش (فسس) وحشی چوپائے
[illegible] کے نشہ

خوشی [illegible] تیز خاطر

خوشا (فسا) شکار کے گردا
گرد آنا [illegible] جگہ مین آوے
اونٹون کو پھیر کر ہانکنا شکار کو
[illegible] کہانے [illegible] پہنچ جانا

خوشب (فسفہ) خرگوش -
[illegible] لومڑی - چوپایہ جسکی
[illegible] اور جسکی
[illegible] بڑی ہو لغت
[illegible] ہے - چوپایہ کے

کنبل جوکوہان کے گرد اگرد رہتے
ہین ایک چہوٹا سا پرندہ ہے۔
حوید (فکس) بمعنی احوذی (فسفکس)
حویر (فکس) جواب۔ دشمنی و
گزند رسانی۔
حویزاء (ضفسفسم) ایک جمع
جسکو یارون سے چہپاکر رکہین۔
حویشاء (ضفسفسم) قرابت۔
حویل (فکس) گواہ۔ ضامن۔
برگشتگی۔ ایک چیز کا قصد۔ مشتاقی
تیزنظری۔ ایک چیز کے تصرف پر
قادر ہونا۔
حی (فت) زندہ احیاء (فسفسم)
جمع۔ عورت کی شرمگاہ۔ کنبہ جو
قبیلہ سے چہوٹا ہو احیاء (فسفسم)
جمع۔ کہلا راستہ۔ اور بولتے ہین
لایعرف الحی من اللی یعنے حق و
باطل مین تمیز نہین کرتا۔
حی علی الصلوۃ اوطرف نماز کے توجہ
حی (فت) حوایتہ (ففسفا) ضرر
ہر طرف سے گہیر لینا۔
حیا (فف) برس کی آسایش

اور فراخی۔ حال کی فراخی۔ مینہ
حیاء (ففسم) توبہ۔ شرم۔ اونٹنی
کی فرج اور اوسکا زہ دان۔ بکری
اور ملون درندونکی فرج احیاء (فسفم)
احیتہ (فسکف) جمع (س) جینا۔
ظاہر اور کہلا ہونا راستہ کا۔ شرم کہنی
حیاد (کفس) ایک سو ہونا۔
حیازۃ (کفسف) ایک چیز کو گہیر لانا
حیاصۃ (کفسف) بمعنی حوص یعنے
تسمہ جس سے زین کا تنگ باندہین
پسینا۔ درزی گری کرنی۔
حیال (کفس) ڈورا جو اونٹ
کے دونون تنگون میں باندہتے ہین تاکہ
وہ تنگ کہ ران کی طرف ہے
اونٹ کے غلاف ذکر پر نہ پہسل پڑے
چیز کا سا منا مقابل۔
حیبۃ (کسف) ماکی طرف کی رشتہ داری
غم۔ حاجت حالت۔
حیتہ (فتف) سانپ حیات (فتفس)
حیوات (ففقس) جمع۔ ستارے جو
فرقدین اور بنات النعش کے
درمیان ہین ہین۔ زمین جس
مین فراخی عیش ہو۔

عو
یع حو
یع حف
یع
یع حی
یع حول
یع حیی
یع الیضا
یع حوی
یع حیی
یع ایضا
یع حید
1125
ید عز
ید وص
ید عل
ید حوب
ید حیی

حولق (فسعف) آدمی کے حلق کا
... (فسعف) بلا و سختی۔
حولقی (فسعف) ...
... کہنا۔
حولول (فسعف) بہت
حیلہ باز مرد بڑا حیلہ ساز۔
حولی (فسف) مرد بڑا حیلہ ساز۔
حولی (فسکت) ایک برس کا
چوپایہ جسکا سم نہ چرا ہوا ہو حولیۃ
(فسکتف) مونث حولیات (فسکتفس)
حوم (فس) بڑا گلہ اونٹونکا ہزار
تک یا اس سے نہایت۔
حوم (فس) حومان (ففس)
(ن) جانورونکا ایک چیز کے گرد
پھرنا جیسے حام الطیر علی الشئی۔
حوم (فس) حیام (کفس)
حوام (کفس) حومان (ففس)
(ن) قصد کرنا۔
حوم (فس) جو چیز کہ سر مین پھرتی ہے
حومان (فسفس) بادیہ مین ایک
نبات ہے۔
حومانۃ (فسفسف) سخت جگہہ کہ

حومان (فسفس) حوامین (فسکس)
جمع ایک گھانس ہے۔ حومان جمع
حومۃ (فسف) بلور۔
حومۃ البحر دریا مین وہ جگہہ جہان
پانی بہت ہو اور سب سے زیادہ اونچی
جگہہ ہو۔
حومر (فسف) تمر ہندی یعنے املی
حویس (فسفکس) دُبلا۔
حومل (فسف) نالہ جسکا پانی صاف
ہو۔ ہر چیز کا شروع۔ پانی کی کثرت
سے کالا ابر۔
حوملۃ (فسفف) پانی اوٹھانا لادنا
حونش (ففتف) وہ کہ اوس پر
کوئی ظلم نہ کر سکے۔ وہ کہ اگر کھڑا
ہو جاوے تو کوئی اوسے ہلا نہ سکے
اور جگہہ سے دور نہ کر سکے۔
حوی (فکت) مالک بعد استحقاق
کے۔ چھوٹا حوض۔ گول چیز لپٹی ہوئی
حوی (فف) اس سیاہ بسبزی
اور سرخ بسیاہی مائل ہونا۔
حویۃ (فکتف) چیز کی گولائی۔
چکنی انتڑی حوایا (ففسف) جمع۔

براۤمد کار کی تدبیر نہ جاننی ۔ بیابانی کا
گرد پھرنا ۔
حَیْلْبُکْ (ف) مال اور کنبہ بہت ۔
حَیْلْقَنْک ابر ۔
حَیْرُوبِیْر (کسف کس) بمعنی
عُور (ضس) و عُور (ضس) ۔
حَیْرَان (فسفس) مرد سرگشتہ حیا ۔
(فسف) جمع ۔
حَیْرَۃ (فسف) سبز و گیاہ ناک ۔
حِیْرَۃ (کسف) جواب ۔
حَیْرَم (فسف) گاے ۔ حَیْرَمَۃ ایک ۔
حَیْثَمَار (فسفف) بہت دفع اکثر اوقات
بمعنی زہتا ۔
حَیْرَیٰ (فسف) سرگشتہ عورت ۔
حِیْرِیْ (کسکت) حاری (فسکت)
منسوب ہے حیرہ کی طرف ۔
حِیْرِی الدَّہر (کسکت) حیری
دہر (کسکس) حاری دہر
(فسکت) حیر دہر (کسف) ہمیشہ ابدا
حَیْز (فس) تیز ہانکنا ۔ آہستہ ہانکنا
لغت اضداد سے ہے ۔
حَیْز (فس) گدہے کو اس سے ڈرانے ہیں
حَیْزَبُور (فسفس) بہت بوڑہی عورت

حَیْزَبُون (فسففس) بہت
بوڑہی عورت
حَیْزُوم (فسفض) سینہ ۔ سینہ
کا بیچ تنگ باندہنے کی جگہہ ۔ جس سے
کہ پیٹ اور پیٹہہ کا گرداگرد اس
باندہیں ۔ ہڈی جسکے نیچے دل ہے
سینے کی طرف سے چنبر گردن کی گرداگرد سخت
زمین ۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے گھوڑے
کا نام ۔
حَیْس (فس) ایک قسم کا طعام
اسطرح کہ خرما گھی اور پنیر کے ساتھ
ملا کر گھولتے ہین اور خرما کی گٹھلیان
اوسمین سے دور کر دیتے ہین اور
کبھی اوسمین پنیر کے بدلے ستو ڈالتے
ہین ۔ لچرنا مضبوط کام ۔
حَیْس (فس) (ض) حیس طعام
بنانا ۔ رسی بٹنی ۔ ملانا ۔ ہلاکی کا
نزدیک ہونا ۔
حَیْس جمع حیس گانٹہ اور بندہا
ہوا اور یہہ ایک طرح کا طعام ہے کہ خرما
اور گھی اور چہاچہہ سے بناتے ہین
حَیْسَمَان (فسفس) گندم گون
گندار پرکار مرد ۔

۱۱۲۷

حجیۃ الوداع نبی نے شیر ... نہ بانتی ... اور ...

حجحجیت (فس) بھنجکہ کہا ... کہان ... ہین

حیحیاہ ... (فسقیفیر) ... ایک قصہ ... اہہون نے ... کے ... ہی ... بیان نہین کیا اور انفشن کہتا ہے ... اصلی نظیر تھا اور ... کے سوا ... اور نہین —

حی حی (کس بین) ایک کلمہ ہے جس کو ... بانی کیطرف بلاتے ہین —

حیۂ (فس) ہر چیز کے کنارہ ... اور ... جو ... سے نکل کر ... کی مانند ہو گیا ہو — ... بہت ... بیل کے سینگ کی ...

حیود (فص) احیاد (فسفس) حیدا لف ... جمع — مثل و مانند —

حید (فس) حیدان (ففعس)

حیود (ففس) حیدۃ (فسف)

حیدودۃ (فسفسف) (مفی) میلان کرنا — پہر جانا جیسے حیدعنہ

حید (فف) الطعام — بہیڑئیے کے بچہ کا ایسی جگہ آنا کہ جہان سے پہر نکلنا

دشوار ہو ... ایک ... سی چیز — یا وہ جو ... بار کے کہینچنے سے پستان میں ... ہو —

حیدار (فسفس) سخت کنکری —

حیدان (فسفس) پتہر کہ چوپایہ کے سم سے چلنے مین ایک طرف کو اڑ جا دے —

حیدرۃ (فسفس) بد نظر — ایک ...

حیدر (فسف) شیر —

حیدرۃ (فسفف) ہلاکی شیر —

حیدلان (فسففس) ٹہنگنا —

حیدکی حیاد میلان کرا مرہے —

حیدعلی (ففف) مغرور کی چال

حیدوان (فسففس) ایک پرندہ ہے جیسے ساق حر بہی کہتے ہین

حیر (فس) پانی جمع ہونے کی جگہہ گروہا جسمین مینہہ کا پانی جمع ہو جاوے — نخان — باغ — سکر بلا — ایک چیز خطیرہ اور حما کی مانند — ستر من رأے مین ایک محل ہے —

حیر (فس) حیرۃ (فسف) حیران (ففس) حیر (فف) (ہر) ایک چیز کو دیکہکر سرگشتہ ہو جانا —

حفیسا (فقیسم) خفیسی (ففیسی) حفاسی (فسک) 
حیفسا (کفیسم) یعنی خفیسا
حیق (فسق) جو چیز گھرے اور اسکو سبب اوسکے فعل شنیع کے آگھیرے
حیق (فس) حیوق (ففس)
حیقان (ففقس) (ض) احاطہ کرنا - تلوار کا کام کر جانا - لازم ہونا واجب ہونا - نازل ہونا
حیقہ (فسف) درمنتی علت ایک درخت ہے اوسکے ساتھ خرما کو کہاتے ہین
حیقر (فسف) نولنیل خود ضعیف ذات کا یاجی
حیقط (فسض) حیقطان (فسضفس) تیز رو
حیقطانہ (فسضفسف) شتر مرغ
حیقل (فسف) وہ جسمین خیر و برکت نہو
حیک (فس) حیکان (ففقس) (ض) ہٹک کر چلنا - بدن اور شانہ ہلاتے چلنا - بات کا دل مین تاثیر کرنا - تلوار کا کام کر جانا - قطع کرنا

حیل (فعل) حیل قوت - جو پانی کے گڑھے مین پانی اکھٹا ہو گیا ہو
احیال (فیعفس) حیول (ففس) جمع
حیلان (کسنفس) لوہے کی لکڑیان یعنی جو رے پتھر کے جس سے گھٹلیان کوٹتے ہین
حیلہ (فسف) ہشیاری - تیز نظری تصرف پر قادر ہونا حول (فف) حیل (کف) حیلات (کسفس) جمع بہت سی بہیڑ بکری کا گلہ - ہشیاری تیز نظری یا باریک بینی
حیل حیل (کس کس) ایک کلمہ ہے جس سے بہیڑ و نکو ڈانٹتے ہین
حیلق (فسف) بلا و سختی
حیلم (فسف) چھوٹا چوپایہ
حین (فس) مرگ ہلاکی - بلا - آزمایش (ض) ہلاک ہونا - خوشی کی توفیق نملنی
حین (کسر) زمانہ - وقت - وقت غیر محدود دراز ہو یا چھوٹا ایک برس ہو یا زیادہ یا خاص ہے چالیس برس کو یا سات برس کو یا دو برس کو یا چھ مہینے کو یا دو مہینے کو یا ہر صبح اور شام کو - قیامت کا دن - مدت احیان (فسفس) جمع احائین (فیفسکس) جمع الجمع اور کبھی اس لفظ پر حرف تا

۱۱۲۶



ج

**حیص بیص**
ڈرانا — دوڑنا جلدی کرنی — آلپنا
ہونا ... کا
**حیصان** (فسفس) ...
... **حیصما** (فسفف)
... کی ...
**حیصۃ** (کسف) حرکت شرم —
منقبض ہونا —
**حیص** (فس) **حیصۃ** (فسف)
**حیوص** (ضفس) **حیصان**
(ضفس) (ض) ایک چیز سے پھر جانا
ایک سو ہونا یا دو ستون کے حق
مین عاشقوا بولتے ہین اور دو شخصون
کے حق مین ... ہو —
**حیصا** (فسفس) ناقہ جسکی ...
**حیصل** (فسف) باذنجان —
**حیض** (فس) عورتونکی بےنمازی
— بےنمازی ہونا عورت کا —
**حیضۃ** (فسف) حیض کے خونون میں سے
ایک دفعہ کا خون — ایک بار کا حیض —
**حیضۃ** (کسف) عورتونکی بےنمازی
**حیض** جمع — حیض کا لتہ
**حیط** (فس) (ض) گھوڑیکا گوز ...

... بوستہ ... جانا اور بھول جانا
**حیطۃ** (فسف) ہوشیاری اور کام
کی آگاہی —
**حیعلۃ** (فسفف) حی علی الصلوۃ حی
علی الفلاح کہنا —
**حیف** (فس) جور وستم و ظلم —
زمین کے کہین رہنے والے اور
کاٹ کھانے والے جانورون مین
کا ... کی تیزی —
**حیف** (فس) (ض) ظلم کرنا —
**حیفۃ** (فسف) ناحیہ — کونہ حیف کف
جمع — ایک لکڑی آدھی نلی کی
مانند کہ اوسکی پیٹھ مین ایک اور
... جس سے تیر اور کمان
تراشتے ہین — ... جس سے کپڑے
کے دامن مین پیوند لگاوین —
**حیفس** (فسفف) غصہ کیا ہوا —
**حیفس** (فسفف) ٹھنگنا اکل کھرا
ہوتا بےفیض بےخیر — بہت کھانے
والا مرد بڑا پیٹا کہ بےسبب غصہ ہووے
اور پھر آپ ہی راضی ہو جاوے —
اور اسمین پانچ لغت اور ہین —
**حیفسیٰ** (فسفف) **حیفسا** ...

خابر (فسک) مرد آگاہ۔
خابز (فسک) روٹی والا جسکے پاس روٹی ہو۔
خالیس شیر۔
خابل (فسک) جن۔ خراب و تباہ کرنے والا شیطان۔
خابن (فسک) سخت۔ جو کہ جھوٹ کہہ کر ہرا دے۔
خابور (فسفس) ایک گہاس ہے۔
خابی (فسک) خائب و خاسر و نامراد۔
خائبۃ (فسکف) خم۔
خاتر (فسک) ختار (فتفس) ختر (کس) ختور (ففس) ختیر (کتکس) بمعنی غدر کرنے والا فریب دینے والا۔
خاتل (فسک) ختول (ففس) لغت ہے ختل سے۔
خاتم (فسک) مُہر۔ انگوٹھی۔ خاتَم خاتام (فسفس) ختیام (کسفس) ختم (فف) خاتیام (فسکفس) بمعنی خاتَم یعنے مُہر و انگوٹھی۔ ہر چیز کا آخر و نہایت۔ آخر قوم۔ گھوڑی کی پستان کے پاس ایک حلقہ۔ گردن کا گڑھا۔ چوپایہ کے ہاتھ پانو کی تھوڑی سی سفیدی اور خاتم الدنیا محمد صلے اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم۔
خاتمۃ (فسکف) ہر چیز کا آخر و نہایت۔
خاتون (فسفس) بی بی فارسی لفظ ہے۔
خاتیۃ (فسکف) عقاب کہ شکار کو جھپٹے۔
خاثرۃ (فسکف) لوگوں اور جھوٹ فرقہ کہ جنکو تھوڑا سا صدمہ پہنچا ہو۔
خاجر (فسکم) پہاڑ کی جڑمین پانی کے چلنے کی آواز۔
خارج (فسک) خروج (ففس) اونٹنی کہ جننے کی مدت سے پہلے جنے۔
خادر (فسک) سست مرد کاہل گرفتہ۔ شیر کہ بیشہ مین ہو۔
خادشۃ (فسکف) خاردار درخت کی شاخین اور اطراف۔
خادع (فسک) رستہ کبھی تو مٹ جاوے اور کبھی ظاہر ہو جاوے۔ اونٹ کہ جب بیٹھے تو اوسکے پانو کی پنڈلی کا پٹھا اپنی جگہہ سے ٹل جاوے۔ ناقص۔
خادعۃ (فسکف) بڑے دروازہ مین چھوٹا دروازہ۔ گھر کے بیچ مین گھر۔ مختلف اور متلون اور بے رونق

[illegible] ناقہ کے [illegible]

حِیْن (کسں) نزدیک ہونا آ پہنچنا مقدمہ ہو جانا سن کا۔

حِیْنَۃ (کسف) ناقہ کے دو ہنے کا وقت مین۔ ایکبار۔

حَیَوان (فففس) زندگی [illegible] بہشت مین ایک پانی ہے۔

حَیٰوۃ (ففس) زندگی۔

حَیٰوۃ [illegible] (ففس) زندگی۔

حَیٰوۃ طَیِّبَہ روزی حلال آن بہشت۔

حَیُّود (ففس) بہت [illegible]

حَیُوص (ففس) [illegible] بھاگنے والا چوپایہ بولتے ہین دابہ [illegible]

حَیُوع (ففس) (مف) ابلنا اور بطر حیر ہو جانا۔

حَیَّۃ (فف) اس سے گدہے کو [illegible] ہین اور الحیۃ اس سے بکریونکو [illegible]

حَیْتَل (فسف) کہار [illegible] مرنے کے [illegible] ن مین [illegible] ایک درخت ہے اور [illegible] کے پتے [illegible] ہوتے۔

حَیْہَل (ففف) حیہل (ففس) حیہلن (فتفس) حیہلا (فففف) یہہ سب کلمے استعمال اور برانگیختہ کرنے کے لئے [illegible] اور جلدی کرو اور اس مین واحد وجمع مذکر و مونث برابر ہے

حَیِیَ (فلک) شرم کرنا اور شرم دلانا

حَیْبکۃ [illegible] سخت گھر [illegible] بدنکی عورت

اِحْیٰ ہلا و احی ہلا علی کذا اور الی کذا [illegible] حی ہل مثل ترکیب خمسۃ عشر کے (و حی ہل) مثل صہ و مہ کے (و حیہل) یہہ سب کلمہ واسطے برانگیختہ کرنے کے ہین۔

# باب الخاء

خاء (فسم) حروف تہجی کا ساتواں حرف خاءِ بک علینا جلدی ہمارے پاس [illegible]

خابِث (فسک) ناکارہ فریبی

خابِثَۃ (فسکف) خباثت۔

ہتو اضع ہوکر کوچ کرنے والا۔
خاشف (فسک) زمین مین گہسنے والا کسی چیز مین داخل ہونیوالا۔ بڑے کاٹ کی تلوار۔
خاص (فست) خاصۃ (فستف) ضد عام و عامۃ۔ خواص (ففست) جمع۔
خاصرۃ (فسکف) کوکھہ۔ جو کہ سینے کے سرے اور سب سے چہوٹی پہلو کی ہڈی کے درمیان مین ہے خواصر (ففسک) جمع۔
خاضب (فسکہ) نر شتر مرغ جسکی ساقین بسبب غلبہ شہوت جماع کے سرخ ہو گئی ہون یا بسبب ربیع کی گہاس کہانے کے۔ یا جسکی ساقین سبز یا زرد ہو گئی ہون اور یہہ خاص نر ہی کے ساتہہ ہے
خاضع (فسک) فروتنی کرنے والا۔
خاضل (فسک) تر و تازہ۔ طراوت ناک
خائط (فس) درزی۔
خاطر (فسک) جو بات کہ دلمین آوے خواطر (ففسک) جمع۔ ناز سے چلنے والا مرد
خاطف (فسک) بہیڑیا۔ بجلی کی چمک کہ آنکہہ کو چوندہیاوے۔
خاطف ظلہ ایک پرند جانور ہے جب وہ اپنے سایہ کو پانی مین دیکہتا ہے تو

اوسکے اوچک لینے کا قصد کرتا ہے اور اوسے رفراف بہی کہتے ہین۔
خاطوف (فسفس) ایک چیز پہانسی کے مانند کہ جال مین اوسے باندہ دیتے ہین اور ہرن کو اوس سے شکار کرتے ہین
خاطی (فسک) قصداً گناہ کرنیوالا۔
خاطئۃ (فسکف) خطا کرنی۔
خاف (فس) بہت ڈرنیوالا مرد۔
خافۃ (فسف) شہد توڑنے والونکا چمڑے کا جبہ۔ تہیلی جسمین شہد توڑکر رکہین۔ اوٹہے ہوئے کنارون کا دسترخوان خریطہ کے مانند جسمین شہد توڑکر رکہتے ہین۔
خافت (فسکہ) ہا مل جسمین پانی نہو۔ کہیت جو لنبا نہو۔
خافض (فسکہ) خدا تعالی کے نامون مین سے ایک نام ع اسمہ یعنے جبارون اور فرعونون کا پست و خوار رکہنے والا۔ زندگانی خوش و خورم۔
خافض الطیر صاحب وقار۔
خافضۃ (فسکف) نیچی زمین۔ ختان یعنے ختنہ کرنیوالی عورت۔
خافضۃ السقیا زمین جسکو پانی دینا

و کم ہو لی بازار [illegible]

خادم (فسک) جا کر خدمت کرنیوالا [illegible]

[illegible] (فتح) [illegible]

اور خادم بھی مونث ہے

خاذ [illegible] (فسک) جو شخص [illegible]

[illegible] سے رو [illegible]

خاذل (فسک) شکست پایا ہوا

[illegible] نے اون [illegible]

اپنے بچہ کو چھوڑ دے

خارج (فسکت) بیرون [illegible]

[illegible] اصالت سے جدا ہو جاوے

خاربط (فسک) بری [illegible]

[illegible] بیچنے والا اور [illegible]

خارزق (فسک) کھجور و نکا [illegible]

خارم (فسک) سرد سبز کرنیوالا

[illegible] سرد ہوا

خاروج (فسفس) ایک کھجور کا درخت ہے

خازباز (فسکفسم) اور [illegible]

[illegible]

خازباز (فسک فسک) ایک مکھی [illegible]

[illegible] ہوتی ہے اوسکی آواز [illegible]

[illegible] ایک بیماری [illegible] آدمیو کے

[illegible] میں عارض ہوتی ہے

خاسر (فسک) سرد [illegible] زیر کرنے [illegible]

[illegible]

خازق (فسک) سنان یعنے بہالا

[illegible] نشانہ میں پہنچ گیا ہو

خازرک (فسک) [illegible] دریاے فارس میں

[illegible]

خازم (فسک) سرد ہوا

خاسئ (فسک) زبان نگاہبان

خاسر (فسک) جسے نقصان پہونچا یا ہو

خاسف (فسک) جو کملا رنگ بدلا ہو

ہلکا پھر تیلا [illegible] دبلا پتلا مرد خسف

(فتح) جمع چشمہ جسکا پانی تہا مین چلا گیا ہو

خاسئ (فسک) کتا اور مسور [illegible]

اور دور [illegible] جسے پاس نہ آنے

[illegible]

خشن [illegible] خشیان (فسفس)

[illegible] والا

خاشاک (فسف فسف) گھر کا

ناکارہ اسباب

خاشر (فسک) بیچ آدمی

خاشع (فسک) جگہہ کہ ادر طرحکی

ہو گئی ہو اور راہ اوس مین کوئی منزل

نہی ہو وہ جگہہ جہان کوئی پہنچ نہ سکے

[illegible]

خشع

پاک ہو ۔ مرد بیکم خیال کرنے والا ۔

خالٌ (فس، ہس) گمان کرنا چوپایہ کا لنگڑا کرنا ۔

خالبٌ (فسک) فریب دینے والا مرد خالبۃ مونث ۔

خالۃ (فسف) ماں کی بہن یعنے خالا ۔

خالۃٌ (فسف) مغرور عورت واحد و جمع اسمین یکسان ہے ۔

خالصٌ (فسک) بے میلا ۔

خالصۃ (فسکف) خاص خصلت سے ہیں سادہ بے ملاوٹ ہوتا ۔

خالعٌ (فسک) عورت جو مال دیکر خاوند سے الگ ہو گئی ہو اور اوسکی جورو نہ رہی ہو ۔ مرد جو مال لیکر جورو کو چھوڑ دے ۔ خرما کا پکا ہوا غورہ ۔ رطب کہ اکثر اوسمین کا پکا ہوا ہو یعنے گدرا ۔ اونٹ کہ جفتی نکر سکے اور جب کوئی اوسپر سوار ہو تو سرکشی کرے ۔ گرا ہوا گلا ہوا درخت ۔ درخت عضاہ کہ کبھی پتے اوسکے نہ جھڑین ۔ ایڑی کے پٹھے کی پیچیدگی اور اوسکا ٹوٹ جانا ۔

خالفٌ (فسک) احمق ۔ تمہارا اسنا کار عرق ۔ جو کہ تمہارے چلے جانے پر پیچھے جاوے ۔ خلاف ۔

خالفۃٌ (فسکف) احمق ۔ ناکارہ خراب بات ۔ امت جو امت گذشتہ کے بعد باقی رہی ہو ۔ ستون کہ خیمہ کی پچھلی طرف ہو خوالف جمع ۔ بہت خلاف کرنے والا مرد ۔ جس سے کسیکو کچھ نفع و خیر نہ پہنچے ۔ خلاف غیر نجیب اور لوٹے ہیں ما اوری ای خالقۃ ہو یعنے مین نہیں جانتا کہ وہ کون آدمی ہے ۔

خالقٌ (فسک) نئے ڈھنگ پر بنانے والا نہ پہلے نمونہ پر ۔ خداوند تعالے کی صفات مین سے ہے ۔ چمڑے وغیرہ کا کاریگر ۔

خالمٌ (فسک) خوب برابر ۔

خالیٌ (فسک) مرد بے عورت ۔ عورت بے مرد ۔ اخلاء جمع ۔

خالیۃ (فسکف) گذرے ہوے قرون ۔

خامٌ (فس) پوست جسنے دباغت نہ پائی ہو ۔ پوست جسکو اچھی طرح دباغت نہ کیا ہو ۔ کرپاس نا شستہ ۔ سانڈ اونٹنی ۔

خامۃ (فسف) شرب یعنے مولی خام جمع

مادہ
خلب
خلف
خلص
خلع
خلق
خلم
خلو
خم

[illegible] ہو —

خافض [illegible] پست کرنے والا [illegible] نحو کی اصطلاح میں وہ لفظ جو زیر کا سبب ہو [illegible]

خافقان (فسکفس) مغرب و مشرق اور مغرب یا اوسکا افق — دو کنارے آسمان اور زمین کے —

خافل (فسک) بھاگ جانیوالا —

خافور (فسفس) زروان گھانس کی مانند ایک گھاس ہے —

خافی (فسک) بمعنی خافیہ یعنی پری

خوافی (فسک) جمع —

خافیات (فسکفس) پری —

خافیہ (فسکفا) پوشیدہ ضد علانیہ پوشیدگی — پری خواف جمع — زمین جسمین بیابان ہون —

خاق باق (فسکفسک) گس کا نام — فسح مین ذکر کی حرکت کی آواز

خاقان (فسفس) ترکونکا بادشاہ کوئی ہو —

خال (فست) لشکر متفرق و پریشان

خال (فس) ماکا بھائی یعنی ماموں اخوال (فسفس) اخولۃ (فسکفا) خؤل (ضض)

خول (فس) خئولۃ (فسکفا) جمع — نشان لشکر کا جھنڈا — ایک قسم کی چادر یمن کی — کالا اونٹ — ساندھ — خبرگیر

خال (فس) ابر کہ برسنے کے خلاف کرے — لہیلا میدان — بجلی — غرور و بزرگی — تشتی گمان — پہاڑ نازک — ایک قسم کی یمن کی چادر — کالا نقطہ کہ بدن پر ہوتا ہے یعنی تل — نشان خیلان (فسفس) جمع — موٹے گھوڑے — موٹے اونٹ — لشکر کا جھنڈا کہ سردار کے ہاتھ مین ہووے — چوپایہ کی لنگڑاہٹ — کپڑا جسمین مردہ کو ڈھانکین — جوانمرد سخی — ابر جسکو برسنے والا خیال کرین — برسائو — اونٹ ساند کا رنگ کا — کسی چیز کا مالک — مینھ کے لایق ہونا — زمین کا — خود پسند مغرور — وہ جگہہ جہان کوئی انیس نہو — وہم و گمان — مرد کہ علاقہ محبت سے خالی ہو — مرد جسکی جورو نہو — مرد جو اپنے مال کی خوب خبرگیری کرتا ہو — چھوٹا سا الگ پہاڑ — ایک چیز کو لازم پکڑنے والا اوس سے جدا نہونے والا — گھوڑے کی لگام — مرد دل و جسم کا ضعیف — مرد کہ تہمت سے

نرم زمین جسمین کھیتی چھپا ہو۔

خبث (الف ت) دن رنجیدگی کا لنبا اور اونچا ہونا۔ اپنے پاس کی چیز سے کسیکو منع کردینا اور نہ دینا۔ سارے بخل کے پیچھے زمین میں اوجڑنا تاکہ کوئی اوسکے رہنے کی جگہ نہ جانے۔ دریا کا جوش میں آنا۔ غیر جی ہونا۔

خبث (ضت) درخت کا پوست۔ نیچی زمین۔ گڑھا۔ اخباب (فسفس) خبوب (ضفس) جمع۔

خبث (فس) چھپا ہوا۔ چھپانے کے لائق (ف) چھپانا۔

خبث الارض زمین کی دفینگی

خبث السموات مینہہ۔

خبائر (کفسہ) خیمہ پشم کا ہو یا بال کا یا صوف کا دو ستونوں پر یا تین پر اور جو اس سے زیادہ پر ہوگا تو وہ گہرہے اخبیۃ جمع۔ خوشہ میں گیہوں اور جو کا غلاف۔ چند ستارے ہیں گول۔ ایک برتن ہے گھی کا۔ داغ کہ ناقہ ایل کے پوشیدہ موضع پر دیوین اخبیۃ (فسکف) جمع۔ خیمہ و خرگاہ۔

خباب (کفس) دریا کا جوش۔

خباجرۃ (فضسکف) ذی جبلہ بن سود کی اولاد

خباءۃ (فسہ) روئیدگی۔

خبارۃ (ضفسفس) بہت جننے والی عورت

خباث (فسک) خبیث عورت۔

خباجاتم (ففسفسم) بہت جننی کرنیوالا نر۔ احمق۔

خباخر (فنفسک) بمعنی جنجر۔

خبار (ففس) زمین نرم۔ درخت کی جڑ میں خاک جو اکھڑی ہو گئی ہو۔ جنگلی چوہوں کے سوراخ۔

خبارۃ (فضسف) (ک) آگاہ ہونا۔

خباز (فتفس) نان پز یعنے روٹی پکانے والا۔

خبازۃ (کفسف) نان پزی۔

خبازی (فتفسف) ایک گھاس ہے فارسی میں اوسے بابسنجاب کہتے ہیں اور اسمین چار لغت اور ہیں خباز (ضتفس) خبازۃ (ضتفف) خبیز (ضتفس) خبیزی (ضتفسف)۔

خباش (فتفس) گوشت۔ غلام شیر

خباشاء (ضنفسفسم) لوٹ۔

خباشۃ (ضنفسف) لوٹ۔

خباشات الناس مختلف قبیلوں

ایضاً خبز ایضاً ایضاً ۱۹ خبس ۲۰ ایضاً ۲۱ ایضاً ۲۲ خبش

زمین کہ باشندون کو ناموافق ہو۔ تازہ
کہ جس جنگل میں کہ ہرا ہو۔ تازہ اور کہیت
میں کا ایک حصہ یا ایک تازہ درخت۔
**خامس** (فسک) پانچوان۔
**خامشة** (فسکہ) چہوٹا سا آبدار
خوش چیع۔
**خامص** (فسک) باریک شکم۔
**خامط** (فسک) خوشبودار دودہ
جسمین سیب اور زنبق کی بو ہو۔ خوشبودار
مشک یا جسمین سیب اور زنبق کی بو آوے
**خامل** (فسک) گم نام بے قدر خمل جمع
**خامل الذکر** گم نام و بے قدر۔
**خامیز** (فسکس) اسکباج کا شوربا
سرد کیا ہوا کہ اوس سے روغن اوتار
لیا ہو۔ یہہ لغت عجمی ہے۔
**خان** (فس) دکان۔ دوکاندار۔
**خان التجار** بڑے سرا جسمین قافلہ اترے
**خانئة** (فسف) (ان) دغلی و ناراستی
کرنی۔
**خانر** (فسک) دوست خالص خنر
(ضتف) جمع۔
**خانع** (فسک) متہم بدکار۔ عاجزی
کرنے والا۔ نرم گردن خنعہ خنع جمع

**خانف** (فسکہ) غرور سے ناک چڑہانے والا
**خانق** (فسکہ) تنگ گہاٹی تنگ گلی۔
**خانق الذئب** خانق النمر
**خانق الکلب** خانق الکرسنة
چھ گھاسین ہین۔
**خاوية** (فسکہ) اپنے باشندون
سے خالی زمین۔
**خائبة** شکار ہیرا ہو تڑپنے والا عقاب
**خائدة** (ء) سخت اور دشوار کام
**خائص** (فسکہ) تہوڑی بخشش۔
**خائط** (فسک) درزی۔
**خائف** (فسکہ) ڈرنے والا خوف
(ضتف) خیف (کتف) جمع۔
**خائل** (فسکہ) کسی چیز کا نگاہ رکہنے
والا۔ چرواہا۔ مغرور مرد۔ خالة جمع
**خائل مال** مال کا بڑا خبرگیران۔
**خائنة العین** جسکو دیکہنا نا روا ہے
اوسکو چوری چوری سے دیکہنا۔
شیر اسلئے کہ اوسکی آنکہ مین فتور ہوا کرتا ہے۔
**خبّ** (فت) دریا کا جوش۔ فریب
مین ڈھونڈ بنا۔ خیانت کرنی۔ دریا کا جوش مارنا
**خبّ** (فت) فریبی مرد۔ ناگاہ۔
ریت کا تودہ جو زمین سے لگا ہوا ہو

... طبعاً ... کہوڑا ...
... پر ...
... الیسی حالت ...
... ہو وہاں ...
... جیسے ... انعام
دینا ... بے ... انتظام کام
کرنا ... جیسے ... کام زدہ
ہو ... میں ... ہو ... متعلق
خبطہ (فسفہ) ... کام کرجا ... 
سے ... کو عارض ہو ۔ تہوڑا
... میں ... پانی بوند ... 
اور ... میں ... چہوڑا پانی خبط جمع
مشک میں دودہ بچا ہوا ۔
خبطہ خبطۃ ... تہوڑا سا جمال اور
خوبصورتی ۔
خبطۃ (کسفہ) تہوڑے سے
گہر کی ایک لوگ ۔ تہوڑی سی
رات ۔ تہوڑی سی گہاس ۔ تہوڑا
سا دودہ ۔ آدہی مشک پانی کی
آدہا حوض پانی کا ۔ آدہا برتن ۔
آدہا تالاب ۔
خبطۃ خبطۃ (کسف کسف) پارہ
پارہ گروہ گروہ خبط (کف) جمع ۔

خبع (فتس) ... مقیم ہونا ۔ داخل
ہونا ... پوشیدہ کرنا ۔
خبعۃ طلعۃ (عورت جو کبہی ...
اور کبہی ظاہر ہو جاوے ۔
خبعثن (ضفسکا) شیر ... 
ہو ... تناور ۔
خبعثنہ (ضفسکنہ) مرد ... 
دلدار سخت ۔ شیر ۔
خبعجۃ (فسفف) رفتار جیسے ... پاس ...
رکہا جاوے جیسے اوس شخص کی
رفتار جو شک میں پڑگیا ہو ۔
خبعلۃ (فسفف) سست ... 
خبق (فض) آواز ۔
خبق (کتف ...) لنبا مرد لنبا ...
رو گہوڑا ۔ کودنے والا مرد ۔
خبق (فس) (ض) گوز مارنا ۔
اپنے سے دوسرے کو چہوٹا اور
حقیر جاننا ۔
خبقا (کتقس) بدخو عورت ۔
خبقۃ (کتف) اونٹنی کشادہ
قدم مثل میں ہے خبقۃ خبقۃ ...
... 
خبقی (کتف) ایک قسم کا دوڑنا ۔

۱۱۲۹


ج ا

تشمیم

مونہہ جسکا
ہونتا

فضفا

پیاسون

ہی مین لینا

جمع کرنا اور

انا—

ملا دینا—

کانا—

درخت سے

اور لگ ہنہن جیسیں

گرانی سے گوندہ کر

ہرنا کہ درخت

جیسے اونٹ

والا ہو

خبط (فتح) (ض) اونٹ کا ہاتہہ

پیر دے مارنا—لکڑی سے

درخت کے پتے جہاڑنے—بہت مارنا

بالی کہودینا—تلوار سے مارنا—

راہ چلنا—رات کو بے اسیبہ

کسیکو دیوانگی اور اذیت مین رکہنا—

خبر (فتح) (ض)

مارنا—

خجوہ (ض) پانی کی

خجستن ... خجالت ...

... خجستہ ... فتح ... (فتح ... ) ... سے بہت ... ہوا ...

... خجستہ لفظ عجمی ہے

... خجل ... شرمندہ ... مرد ... گھبرا جانا ... کر بولا ... ایسا ... گیا ... جو ... اور ... ڈرا ... کھا ... بڑ ... گھبرانے ... پیدا ... ہوئی ...

خجول ... ... حسین ... ...

خجل ... شرمندہ ... جو ... عمر ... کی ... ایسے ... اور ... ہو جانا ... پھر ... بہنس ... ... شکا ... بھاگ ... جو ... کا ... ... پریشان ہو ... کا ... طبیعت کا کسی ... ایک کام میں ... اور پریشان ہو جانا اور اوس سے ... کام کے باہر نکلنے کی تدبیر نہ جاننی ... کے سبب ... سرگشتگی ... بے خودی ... نعمت کے سبب اترانا ... عاجز آنا ... رزق کی تلاش میں سستی کرنی ... تباہی ... دامن کا بہت پھٹ جانا ...

خجواء (فتح ... ) بمعنی خجام (کفنس) یعنی زن فراخ ... –

خجوج (فتحتین) بمعنی خجاۃ (فتحتین) ...

خجنگا ... (فتح ... ) ... بالوں کا ... لمبے ... آدمی بڑی ہڈی کا ...

خجی ... (فتح ... ) ... چلنے میں ... ...

خجی ... (فتح ... ) ... صیغہ ماضی ... ...

خجیف (کفنس) دبلا خجیفہ ... مونث ... خجاف (کفنس) جمع ...

خدف ... (فتح ... ) ... سرعت ...

... زمین میں ... گڑھا ... جھوٹی ... ہو ... کا کنارہ ... اخدۃ ... (کفنس) خدان (کتفنس) جمع ...

... کسی چیز ... تاثیر ... زمین ... خد العذر کی ... –

خداج ... (کفنس) ... اونٹنی کا ... جننے کی مدت سے پہلے بچہ دینا ... نقصان ...

خداد (کفنس) رخسار کا داغ –

خدارتی (فتح ... ) اندھیری رات ... کالا ابر کالے بادل – نہایت کالا ...

خدارتیۃ (فتح ... ) عقاب جانور ... شکاری ... اونٹنی نہایت کالی –

خداع (کفنس) ... خدیعہ ... چھوڑنا ... کسی کے ساتھ فریب کرنا –

... خ ...

تشدید م

عورت کی شرمگاہ

بھری ہو

رفع کرنا تیز چلنا

خاک اور رائی

کی فحش کا صیغہ ماضی ہے

مارنا۔ رات کو

میں آنا اور

کمینہ پن

وغیرہ میں سے

عورت جو جماع

مرد احمق

احمق نادان

النفس ، مجموم النفس

فحش ہو

خجاجہ ، ضعیف ، بمعنی خجاجۃ

ضعیف ، جو کے مارے

ہو جانا۔ کشش ہونا ، چپ

چلنا ہوا کا ، جلدی سے

بٹھانا ، اپنا اندیشہ پوشیدہ

جماع کرنا

ج

(فسفف) ہو دوڑنا جلدی کرنی

خدعرق (ففسف) ذکر بکری

پانی یا کلیجی کا رس کی خصلت جمع

خدعل (ضفعم) کوئی

خدعج (فعلج) کالا گدہا

خدش (فس) زخم انسان کا

ہے جیسے کہ چھیلا گیا ہو خدوش (فعفس)

جمع چہیلنا پوست کو کہ پہلے کرنا کم ہو

یا بھانا لکڑی و غیرہ سے پوست چھیلنا

خدع (فس) سوسمار عرب بیچے

والی بازار فریب دینا - بیچ جانا کسی

کسیکو بغیر بیچانون اور راہ سے خرچ

سوسمار کا اپنے سوراخ مین گھس جانا -

منہ مین تھوک خشک ہو جانا بخشش

سے رک جانا - کپڑے کو دوہرا کرنا

اور لپیٹنا - مینہ کا کم ہونا - کم مال ہو جانا

- سوتے مین آنکھہ کا گڑھے مین

چلا جانا - بے رونق اور بے رواج

ہونا بازار کا -

خدعة (ضسفف) جسے لوگ بہت

فریب دیوین -

خدعة (فسف) فریب

خدعة (ففعف) جمع خادع (فعسک) -

خدعة (ضسفف) بہت فریب دینے

والا - بندیلنہ کا نام -

خدعوتة (فسفسف) گڈشو کا ٹکڑا

خدف (فس) تیز روی قدم

پاس رکھنا - کشتی کا مکان -

خذف (فس) (من) تنا ویعنا

مین زندگانی بسر کرنی - برف برسانا

کپڑے کو قطع کرنا -

خدرف (الف) لباس کی در یدگی

پہنے اور اسکا جابجا سے پہٹا ہوا ہونا

خدفہ (کففف) ایک -

خدفلة (فسفف) پہڑا ہے کپڑے

خدل (فس) گوشت کا بہرا ہوا

ولدار -

خدل (فع) خدالة (فففف)

خدولة (ضفسف) (من) پنڈلی

کا پر گوشت اور موٹا ہونا -

خدلاء (فسفسم) عورت جسکے

اعضامین گوشت بہرا ہوا ہو اور

ہڈیان پتلی ہون -

خدلة (فسف) مؤنث خدل -

عورت جسکی ساق پر گوشت اور

گول ہو خدال (کفس) جمع عورت

۱۱۲۹

پیمان
کھینچے
انفران
خیرا
کا بہشت
گرمی
انکا اندر
کی شستی
کے سبب
نکی شستی
نو کا
اتیا مجوم
راتے
اپنی جگہکو لازم
اوس سے جدا
کسی زمین مقیم رہنا لڑکی
کا اپنی جگہہ اور کنیمین
سے پیچھے رہجانا اور سرشتہ ہونا
کا نجاخرما کہ درخت
سے گر پڑے
نہایت اندہیرا

[illegible]

[illegible] یعنی [illegible]

[illegible]

خذ [illegible] بمعنی خذ [illegible]

[illegible] شوق

خذ [illegible] خذرو [illegible]

خذا [illegible] بہ معنی

[illegible]

خذا [illegible] ضعیف [illegible]

ضعف [illegible]

خذاریف [illegible] لڑکوں کا

جیسے [illegible] بناوین

خذاریم (ففسکس) [illegible]

خذاق (ففسفس) [illegible]

کی مانند [illegible] ہین اور [illegible]

شکار کرتے ہین [illegible] پانی مین [illegible]

خذانیۃ (ففسکف) [illegible]

چالاک اونٹ

خذاقیۃ (ففسکف) [illegible]

اور ضعیف السمع

خذراف (کسفس) ایک قسم بہار

ایک گہاس ہے جب [illegible]

و خشک ہو جاتی ہے۔ ایک قسم کی

کہاری گہاس ہے

خذراق (فسفس) [illegible]

بیچنے والا

خذرتہ (فسسف) گول چیز جیسی

لڑکے رسی [illegible] آواز نکالنے کے

لئے اوسکو کھینچتے ہین فارسی مین

اوسے [illegible] کہتے ہین ہندی مین

اوسے [illegible] کہتے ہین

خذرفۃ (فسسفف) جلدی اور تیزی

سے چلنا [illegible] تلوار کو

تیز کرنا تلوار سے ہاتھ پاؤں کا

کاٹ ڈالنا تیزروی سے اونٹوں کا

لنگریان [illegible] چلنا اپنے سموں سے

خذرقۃ (فسسفف) پتلا ہگنا

خذرنق (فسسفف) مکڑی یا

بڑی مکڑی

خذروف (فسسفس) بمعنی

خذرۃ (فسسف) خذاریف (ففکس)

جمع تیز رو اونٹوں کا گلہ [illegible]

کہ گلہ سے جدا ہو گیا ہو [illegible] بجلی کہ

ابر سے جدا ہو [illegible]

بجا کری

دوست

ش ا جمع

و بست

ی اکرمی

لی پشو

ہ کبھی تھوڑا

ہ پیدا ہوے

ے اور کبھی

ر جو بہت فریب

خمس جو جمع

کرے جو چوپایہ

ساتھ تکلیف

ی ذمس ... خدمات نفس

رض ا جلدی چلنا - کشادہ اور فراخ
قدم رکھنا - یا ایک قسم کے اونٹ
اور گھوڑے کی رفتار ہے - یا
گرہے کا دو عدد پانچ اور لوٹنے
کی جگہ کے مد میان میں

ج

M

[illegible] کا

[illegible] (بفتحتین) [illegible]

[illegible]

خنفسہ (بفتحتین) عورت سوجانے

میں [illegible] لگی

خلد [illegible] بیدن

میں [illegible]

[illegible] سونی

[illegible]

خلخال (بفتحتین) [illegible]

[illegible]

سے [illegible]

سے لکڑی [illegible]

خدوک (بفتحتین) گھوڑی یا جو

کہ دروازہ کے سبب اپنی جگہ [illegible]

پکڑے رہے اور جدا ہووے

خدنگ (بفتحتین) گدھے کا لقب

میں ہے

خدشہ (الف) کان کا جڑ سے [illegible]

[illegible] آنا

خذیرہ [illegible] لیتی

خذعوقہ [illegible] کا

کا کہانا گوشت کا

خزف [illegible]

[illegible] ہوتی [illegible]

[illegible] (بفتحتین) [illegible]

سے کہ کسی پیرا چاہئے [illegible]

پڑنا - بلندی سے یعنی [illegible]

خرمہ (بفتحتین) پھل کا [illegible]

ہے گول سکان کی [illegible]

کی پیری [illegible]

خرچہ (بفتح) آدمی [illegible]

کی نجاست خرو [illegible]

(بفتحتین) جمع

خزر (بفتح) اخراج [illegible]

خروزہ (بفتحتین) [illegible]

خراسر (بضم) [illegible] کا نام ہے

خراب (بفتح) ویرانی [illegible]

خربہ (بکسر) [illegible] جمع

خرابات (بفتح) [illegible] ویران [illegible]

خرابیتہ (بفتحتین) [illegible]

کی [illegible]

کرنے [illegible]

[illegible]

خرانیہ (بفتحتین) [illegible]



خ

جانور کا
کرنا۔ آر
پر چلے

ن (کمسفس
کڑ میں
اپنے بچہ
جانا۔

تی بڑی

زمین پر ایک

تی کرنی دوڑنا
ن (انکفس
تلوار کہ جہت
کے

ض (ض) قطع کرنا۔
جرغ جانور کا جنگل ملنا۔
(ف) (س) کٹ جانا۔
ست ہو جانا سجوڑنا جلدی کرنی
ہ (ف) ستم مادہ بز جسکا
ران میں لگے کٹا ہو۔ کا
نقل حتمه ضعفة ساخت زمانہ اسلام

[illegible]

[illegible] کالی بین

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] او شی [illegible]

[illegible] کی سنگی [illegible]

جس سے ہمیشہ بیٹھی رہے اور اٹھ نہ سکے۔

**خراعۃ** (فتحہ) خروع (ضمتین) **خرع** (فتحہ) سست ہو جانا۔ بے باکی۔ بے قیدی۔

**خراف** (فتحہ) میوہ توڑنا۔

**خراف** (فتحہ) (ان) میوہ توڑنا کسی کے لئے میوہ توڑنا کسی جگہ فصل خریف میں قامت کرنی۔

---

[illegible] **خرانات** (فتحہ فتحہ) [illegible] کی حکایتیں

**خرافۃ** (فتحہ) بیہودہ حرف جسے تو جھوٹا جانے۔ قبیلہ عذرہ میں ایک شخص کا نام کہ پریوں کا جانا ہوا تھا وہ جو کچھ کہ پریوں میں دیکھتا تھا نقل کرتا لوگ اوسکی بات کو جھوٹ جانتے اور یقین نہ کرتے اور کہتے خراعۃ حدیث خرافۃ۔ جیسے سانپ ہو کہیں بیوڑیا ہے۔

**خراقۃ** (فتحہ) سوراخ۔

**خرام** (فتحہ) کسب کنام میں کرانا بچے والے۔

**خرامۃ** (فتحہ) دکیہ [illegible]

**خرال** (فتحہ) پراشکر سے

**خراتان** (فتحہ) دو ستارے ہیں ایک کو خراۃ کہتے ہیں

**خرالف** (فتحہ) دراز

**خرالف** (فتحہ) کہو رسکو خرما چنے خرما کو اندازہ کرنا سانا چھینا یا چنہ چھینکہ کہو رکے درخت

**خرشا** (فتحہ) زمین سے اندرنا خرابی اور فساد سے تو کا کرنا

جینے والا

ری

ش

سک دولت سے

ساتھ جتی

مفصل

کا ایک

وا اسا جی

ہوے چیلے

ہے گھر سے اور جنگ

مشکلت اتو کلبۃ تنخواہ

(مفصل) جو کچھ بولتے

س

(تقسیم) جمع

(تفصیل) سنوارنا سلیع

(خصوصاً) انسان

جب نا یہ کی سلگتی

رستی تو ٹالی ہو

[illegible]

اور وہ [illegible] ہوتا ہے [illegible]

خرطوم (فسکسہ) پانی کے ٹھہرنے
کی جگہ۔ ایک حوض کا نام۔

خرابطہ (فسغف) کپڑے کو پھاڑنا
چیرنا۔ کلمہ کو خراب و فاسد کر دینا
منہ کا [illegible] کو چیر ڈالنا۔ [illegible]
پر [illegible] اور [illegible]
[illegible] ہیں۔

خرطیل (فسکس) [illegible] کی قوم
میں سے ایک شخص [illegible] کا نام۔

[illegible]

خرخرہ (فسکسہ) [illegible]

خرخرہ [illegible]

خربی (فسکت) [illegible]
[illegible] لوٹ۔

خرج (فس) محصول، اخراجات [illegible]
اخراج (فضکس) اخرجہ (فسغف)
[illegible] جو چیزیں کہ آدمی سے نکلیں

خرچ (فس) [illegible]
خرجخ (فف) [illegible]
[illegible]
سیاہ و سفید ہوتا۔

بہن نامرد
شرمگاہ
س/ جمع
ران کا گوشت
یب قفص
برتن جن میں
ین کی
ن کے
سوراخ کی
ما خرب اضف جمع
جگہ ہے
س/ اخرب اخربہ
جمع
قفط کے پاس
مرد پیدا ہوتا ہے
جما ہوا دودھ
دہ ہوتا گاڑھا دودھ
س/ خربزہ
فسفس/ سخت بن
ستعمال کتاب خراب کردینا

خرکش (فتح) ناکارہ اسباب گھر کا
خرد وش (فتح فتح س) جمع -
خرش (فتس) مرد جو ... نہیں
خرفش (فتس) (ض) ب جھلنا -
اپنے ... کے لئے کملانا - اونٹ کو
... سر کی لکڑی ... اپنی طرف کھینچنا
خرشاف (کسر ...) سانپ کا پوست
خالی اتارنے کا اوپر کا پوست - ہر
چیز کہ خالی اور پھولی ہو - ...

خرشفہ (فتح فتح) ... خوب ...
اچھی طرح سیر نہ کرنا -
خرشفہ (فتح فتح) کچی -
خرشفہ (فتح) پہاڑ کی چوٹی
... خرشف (فتح) ...
خرشفہ (فتح ...) حرکت ...
... سخت زمین ...
... سنگین
خرشفہ (فتح فتح) ... پتھری
زمین سخت
خرشوم (فتح فتح س) پہاڑ کی
ناک جو کسی نالہ یا زمین ہموار پر
جھکی ہوئی ہو - بڑا پہاڑ - سخت زمین
کھردری -
خرص (فسرہ) ...
پہاڑ ...
حلقہ جو ستان کی جڑ کے گرد اگرد ہو
نیزہ (ن) شہر کو ... کرنا ...

سلطان

صحبت کے

اکثر پھل کیا

برسے

کا ٹنا

ٹکڑے

موزہ وغیرہ

کام کو مضبوط کرنا

تاج بادشاہی

کہ مجلس

جانے چھوڑا

شت

جو چیز کہ دور

ایک گھاس ہے

گول دانے اور

منظوم ہوں

موزہ اور مشک

ضعف اجمع

ج

[illegible] سکت ہو اُس [illegible]
[illegible] کرنا [illegible]
[illegible] (فسکس) [illegible]
[illegible] ہونے والی [illegible]
[illegible] سے [illegible]
[illegible] پر [illegible]
[illegible] (فسکس) [illegible]
[illegible] کی [illegible] کان کا ایک
[illegible] پر [illegible] خط لمبے
[illegible] کرتے ہیں تا کہ [illegible]
[illegible] ہو جاوے اور [illegible]
[illegible] کان کے جوف پر [illegible]
[illegible] حاصل [illegible] جو کسی چیز میں
ہو [illegible] ضعیف ہو جاتا شکستہ
ہو جانا۔ کھجور کی ٹہنیوں کا
جدا ہونا۔
خرعب (فسکس) ایک برس کے
[illegible] شاخ سبز اور لمبی اور
نازک [illegible] لمبی [illegible] کی شاخ
[illegible] خوبصورت بدن کی نرم
[illegible] نرم [illegible] قد اور پر گوشت

[illegible] کی عورت۔ [illegible]
ہو گوشت
خرعوب (فسکس) [illegible]
(فسکس) یعنی اونچی [illegible]
[illegible] لمبی اونٹنی۔ ایک برس
درخت کی شاخ سبز اور لمبی اور
نازک اور نرم ہو لمبی شاخ۔
جوان عورت بدن کی خوبصورت نرم
(فسکس) نرم قد اور پر گوشت [illegible]
[illegible] کی عورت۔
خرف (زف) ایک خربزہ [illegible]
دانہ سخت نہیں ہوتا۔
خرف (فتح راس) تازہ توڑے
ہوئے میوہ کے کھانے کے لائق
ہونا۔ بوڑھاپے کے سبب عقل
خراب ہو جانی۔
خرف (فس) میوہ توڑنا کسی
کے لئے میوہ توڑنا۔ فصل خریف میں
کسی جگہہ اقامت کرنی۔
خرف (فس) مخلوق کی طرح
چلنے کا دھکا۔
خرفہ (فسکس) میوہ جو درخت
پر سے توڑا جاوے۔

سبب
ا نزلہ کے
سنفد کو
نار
ی مین
کرسبب
دودہ
کے
بنا
سکے
تی اور
کرلے
ی مین
انگور
صاف
دوا کا
ح ہو ہے
چھوڑنا
سفر
نے کا
تا ہے
لینا
ج

[illegible]

خرم (بضمتین) درخت کی رخنگی
سا اچھی زندگی —
خرما خر (بضمتین) گان چرا سو...
کیا ہوا جسکا سو ... چاک ہو جا...
سفر میں ایک چشمہ ہے سو ... جبر
... میں ... اور ... میں ... سر ...
جسکی کوئی ایسی ... ہو کر اوس ...
... ماده ...
... کا ... میں ... ہوا ہو

[illegible]

رباخت میں کا ایک فرقہ ہے
خرناس (بضمتین) پہاڑ ...
خرنبق (بفتحہ) احمق عورت
بولیا قریب الرگ ... (بضمتین)
خرنف (بضمتین) سعی سود ...
اور مشی —
خرنفہ (بکسر) حضاه درخت کا
پہل خرانف جمع سو وہیل اور مشی
خرنفہ (بفتحہ) طوارے ...
خرنق (بکسر) اچھا بچہ خرگوش کا
... خرگوش کا بچہ خرانق (بضمتین) ...

خ

نمبر ۹۰

پارہ

مسافت

سخاوت

ی کا مرت

اق الفس

ہقیم رہنا

بر یاجا

لی آنکھ کا

تا اور

ہرن کا پسی

پرندہ ہے

خرا رق جمع

ہرن کا بچہ

مین احمق و

احمق عورت

بکری جسکے

ہو ستی ہوا

سنا کہ جلہ

سکے ود

کا عمل اور

[illegible]

ایک [illegible] وہ اسلحہ [illegible]
[illegible] میں چھپا کر رکھتے ہیں کہ [illegible]
[illegible] ہاتھ میں گیا ہے
[illegible] شاگرد [illegible]
ہوا اور [illegible] ہوا اور [illegible] ہوا
[illegible] کنواری عورت [illegible]
مرد کا ہاتھ نہ پڑا ہو نیک صورت
[illegible] والی جب [illegible] تعالی [illegible]
پردہ میں [illegible] آواز [illegible]

[illegible]

[illegible] انجوروں کی [illegible]
[illegible] ہوا [illegible] ہوا [illegible]
[illegible]
[illegible] جہاں [illegible]
[illegible] اس کی شاخ
[illegible]
خوبصورت سفید [illegible] گوشت
کی بھری
خریطہ [illegible]
کی تھیلی کہ جس میں [illegible]

بریدہ خرد

جسکی فرج

انگلی کا آولنہ

ری عورت

س والی

طعام طیار

رسلے چوپایہ

اپنے رسّی توڑا کر

بدکار عورت دم

کے سبب

عالم میں دخل دینے

ں ا بدکار عورت

کے سبب دوہری ہو جاوے

دستہ ابید انجیر ہر گھاس

لی کے دوہری ہو جاوے

بکری کا بچہ

جہاں سے گھاس کھانے لگا

بجز و فتہ

[illegible]

خرخشہ [illegible]

[illegible] سے [illegible]

[illegible] ہے [illegible]

خشک [illegible]

[illegible]

[illegible] ایک

خرخوان (فتحہ) [illegible]

[illegible] سے [illegible]

کے سبب [illegible] ہو گیا ہو -

خرد اشتہ (فتحہ) اخذ اشیج کرنا

جیسے خرداد جس میں رکھیں حلوان

فقسکہ ربیع تعلب -

خرد اشتہ (فتحہ) فرم رکھنی -

خرشب (فتحہ) ایک زمین کی

سوج جانا یا موٹا ہونا گو یا کہ سوج جانا

ہے - عورتکی پستان سوج جانا اور

اوسکے سوراخ تنگ ہو جانے -

[illegible] ہوتی ہے

خرسپتہ (فتحہ او [illegible])

[illegible] سوج گئے ہوں یا [illegible]

[illegible] جسکے سبب [illegible]

خرخرہ (فتحہ) آنکھ [illegible]

ہونا - آنکھ کی تنگی [illegible]

[illegible] چشم سے [illegible]

اور بند کرنا - دو نیں سے ایک

کا بھیگا بن - لوگوں کا آنکھ چھوٹی

آنکھ چھوٹی ہو - یعنی پلکوں کا [illegible]

خرز (فتحہ ان) حلقہ اور [illegible]

اور فریب دینے والا ہونا - بھاگ

جانا - آنکھ کے کونے سے دیکھنا -

خرزبہ (فتحہ) بیہودہ بکنا -

خرزہ (فتحہ) ریڑھ کی ہڈی کا جوڑ

خرزج (فتحہ) ٹھنڈی ہوا جو

ہوا شمیر -

ہوا

سا نکلتا ہو

شخص جمع

پہاڑوں نے

پانی کا آب

سواد کی

وہ ننھی ہوتا ہے

سنی مرد

قطع

بات

رہے اور

کشم کا کپڑا

ر کا ٹنے کہنا

اور تیر اور نشو

کسی چیز کا ٹکڑا

ایک روشنی تمام

حرف ندا کے ساتھ

[illegible]

کی رسی بٹتے ہیں خرمہرہ ایک

خرمہرہ بضم اول ہمفل کا پتا بھٹا ہوا

خرمہرہ بضم خا لکھنی جس میں

میں خرمہرہ ڈالا ہو

خرمن بالفتح ان مال جمع کرنا

خرانہ یعنی رکھنا بھید چھپانا

کا متغیر اور بدبودار ہو جانا

خرن بالفتح الیس ک کا متغیر

متغیر اور بدبودار ہو جانا

خرنن بالفتح السیم گوشت کا متغیر اور

خرنزیر بالفتح بوہو

[illegible]

قد کی خرام بالفتح

خروج بالکسر ذلت و خواری کا

رسوائی بالفتح ہلا اور شہرت میں

گر کر ذلیل و خوار ہو جانا

خروجی بالفتح ذلیل و خوار ہونا

خرنجی بالفتح بلا اور شہرت میں

گر کر ذلیل و خوار ہو جانا

خرنیق بالفتح ... سے ...

خرنیتہ بالفتح ...

خرنیتہ بالفتح ...

خرنیترا بالکسر ...

[illegible]

بیدم

ور ر
جانور کا
پھلنے

ا ہرتی
ا ہو
ا تھ وسیلے

ارنا
کا بیٹ
کھودنا

گرمنا
ی بہن
نا ستھوڑی

منفاعل سے
تے کا ساکن ہوتا
قطع کرنا
جھٹ پٹ کاٹ

خوالی ذقن

ع

خسف (ضمتین) نقصان کو کہتے
پانی کے ... ظاہر ... کا نکلنا
... اچھا ... خسف ایک
ایک ... کی جانب قبلہ کے
واقع ... کیطرف سے اونچے۔
... ذلیل کرنا کسی کو اور
کام ... کرنا جسکو وہ ناپسند رکھتا
ہے ... چارہ کے چارپایہ کو باندھ
رکھنا ... کہا ہے پانی پینا بہوکا
رات ... کم اور تھوڑا ہونا
بیماری سے اچھا ہونا۔ کنکریلی زمین
میں کنواں کہودنا جسمیں سے پانی بہت
جوش مارکر نکلتا ہے۔ زمین دہنسا
دینا۔ اونٹنی کا بہت دودھ ہونا
اور چارے مین جلد جاتا رہنا۔
خسف (کسین) بہت پانی کا ابلنا
کہ چشمہ کیجانب سے اونچے۔
خشق (فس، ض) [illegible]
جا لگنا۔ تاڈ کا چلنے مین زمین کو سم
سے کہودنا۔
خشقہ (فضف) ایک بار بیچ کو درست
رکہنا دوسری بار اوسکو فسخ کر دینا۔

خشل (فتح) خشل (فتحتین) [illegible]
ردی [illegible] ترک
خشف (کسین) کسی چیز کو اوس [illegible]
ہے جو [illegible]
خشوف (ضمتین) [illegible] زمین
مین دہس جانا۔ چاند کو گہن لگنا۔
کسیکی آنکھ کو اندہا کر دینا۔ ایک چیز
کو پہاڑ ڈالنا۔ [illegible]
لازم و متعدی ہے قطع کرنا۔ [illegible]
رہنی یا اندر کو گہس جانی۔ کم اور تھوڑا
ہونا۔ بیماری سے اچھا ہونا۔ کنکریلی
زمین مین کنواں کہودنا جس مین سے
پانی بہت جوش مار کر نکلتا ہے اور
کبھی منقطع نہین ہوتا۔
خشوق (فضس) بمعنی خرق [illegible]
خشی (فکت) کنبل یا خیمہ کے مانند
جسے بکری کی پشم سے بنتے ہین۔
خشی (زک) خراب صوف ناکارہ
خشیج (فکس) خیمہ صوف کا بنا
ہوا کنبل
خشیلس (فکس) کمینہ پاجی نیچ خسال
(کفس) جمع
خشیلۃ الناقۃ [illegible] اونٹنی کے

ج

بجی پن گئی

حسن کے
ہیں پھیلاوے
ب لیتے
سے جواد

یعنی حسالہ
ستارے جو عرف
ی اور قطب او
ن وغیرہ
فارس کا ایک

ی ہونا
شان کاری سکی ان

فس ۱۱ اس فی ۱
مین نقصان پانا

ان ۱ قسقس ۱ یعنی خسر الفس
والی خسففسکات ۱ ایک
ب ہے ایک قسم کا چڑیے
ان ا ختر کیا جانا مجبورہ

بلی ہے اور سے بڑ [illegible]

ہین اور [illegible] بال بکی ہوتی ہے اور

خرما کہتے ہین لگون ۔ غصہ [illegible]

سر وجیدار مغز کام مین چالاک ۔

پہاڑی حساب برا [illegible]

جسکے [illegible] نہو خواہ وہ چوپایون مین

سے ہو خواہ پرندہ جانورون سے

خشاف (فتفس) چمگادڑ

خشافہ (ضفف) سہری [illegible]

خشام (ضفس) [illegible] جسکی

ناک بڑی اور موٹی ہو [illegible]

پہاڑ جسکی موٹی ناک ہو ۔ ناک

اور [illegible] کے درمیان جو [illegible]

ہین اونکا [illegible] ۔

خشب (فس) (ض) کسی چیز

مین کچہہ ملانا کسی کو ایک چیز

سے چہانٹ لینا اور پیدا کرنا لغت

اضداد سے ہے ۔ تلوار کو صاف کرنا

کہ اوسمین سے زنگ دور ہوجاوے

اور روشن اور تیز ہوجاوے ۔

تلوار کو بنانا اور ابہی صیقل اور تیز

نکیا ہو لغت اضداد سے ہے بےتکلف

و بےفکر شعر کہنا ۔ چوب کمان کو پہلی

یعنی [illegible] کی حساب مین بنانا ۔

خشب (فف) خشبہ (ففف)

سخت لکڑی خشب (ضفس) خشبان

(ضفف) اخشب (فس) جمع

خشب (فف) دبلے اونٹ [illegible]

خشب (فک) سخت ۔ ناخوش

ناپسند زندگی [illegible] سخت بدن کا

[illegible] کا اکہا نہایت سخت ۔

خشب خشب (کس کس)

مرد جس سے کچہہ خیر و منفعت [illegible]

خشنا [illegible] سخت [illegible]

خشبان (ضفس) سخت پہاڑ

[illegible] بڑے ہون اور وہ چہوٹے

ایک جگہہ ۔

خشبل (ففف) سخت ٹیلا ۔

خشتق (فسف) کتان ۔ ابریشم

جو کہوتا کپڑا [illegible] جامہ کے نیچے

خشخاش (فسفس) ہتیار زرہ

سخت مرد ۔ زرہ ۔ خشخش خشخاش

ایک اور وہ [illegible] طرح کی ہوتی ہے

خشخشہ (فسفف) خشکی آواز

نئے کپڑے کی آواز ہتیار کی

آواز ۔ ہر چیز خشک پر کسی چیز کے



ج

ن کا گہر

کرے پیچھے
جس کا نونکے

ی بیچنے والا
ند جیبر تہوڑے

رہ اشقعہ

یچ لوگ جو

ریک پیٹے

آوازین

حشرات
وغیرہ
ہر ایک چیز
اونٹ جو

اونٹ کی نکیل
ایک اوزدہ

خشل (فس) خلال اشنا - مقل
یا مقل خطب یا مقل تر یا مقل رنیر
یعنی مقل کی گٹھلی -
خشلہ (فلعم) خشلہ (مفقف)
ایک - ایک گھاس ہے زرد شیخ
سبز نگلن کے سرے - پازیب کے
سرے (ن) ناکارہ اور ناچیز کرنا
خشلی (فف) جو کام میں نہ آوے
ناکارہ (س) کپڑے کا پرانا ہو جانا
خشل فشل (فف) ضعیف -
خشم (فس) (ص) ناک سڑ جانے کی
بیماری ناک کا خیشوم توڑ ڈالنا خشل
ناک کو بدمست کر دینا - کشادہ ہونا
خشم (فف) (س) گوشت میں
بو آجانی بیماری کے سبب ناک سڑ
جانی - ناک اور دماغ کے درمیان
جو پٹھے ہیں ان کا گر پڑنا -
خشماء (فسفسم) مونث اخشم
خشمہ (فسفف) ناک میں بو جانے
کے سبب شراب کا مست کر دینا -
خشن (فنک) کھردرا خشان (فکس)
جمع خشنہ (فکف) خشناء (فسفسم) مونث

[illegible]
زیادہ -
خشونت (فس) خشانہ (فضف) بہت
کھردرا ہونا -
خشنا (فسفسم) ایک سبز سنگ
ہے کھردرا خوش نما اقتحوفینکی مانند
لیس دار ہوتا ہے - [illegible]
نگینے بنتے ہیں بہت بڑی [illegible]
خشنقل (فضف) عورت کی شرمگاہ
خشو (فس) برا خرما جو کام نہ آوے
خشو (فسفف) ایک (ن) کھجور کا
ناکارہ پھل نکل آنا -
خشوع (فضس) (ص) فروتنی
کرنی خشوع اور خضوع قریب المعنی
ہیں یا خشوع بدن کے لئے ہے جھکا
بچھانا اور خشوع آواز اور آنکھ
کے لئے بیچے سٹر جانا اور بجای
جانا گڑگڑانا - آنکھ بند کرنی سکڑ جان
جاتا رہنا اور اوس میں سے کچھ تھوڑا
سا باقی رہنا ٹھہر جانا یا قرار پکڑنا
زاری تنزل کرنا - ستارہ کا غروب
کے نزدیک ہونا -
خشوف (فضس) یعنی خاشف

[illegible]

بچہ

کا بچہ کہ جب

دو سے پیٹ

کی صوف

نہیں ہرن

(نسف)

تھی یا خفیف

آواز گفتار

اور نرم حسین

حرکت کرنا

سے آواز

آواز کرنی

چلنا۔ پتھر سے سر کچل

کو گرا دینا۔

سخت اور کھردری

بلا۔ (س) خارش کے سبب

کی طرح چلنا۔

(س) ہرن کا بچہ پہلی بار گا

رفتار میں آیا ہوا۔

(خفیف) چلا جانا۔

[illegible]

خصاب بالفتح خضاب کرنا
خصائب بالکسر جمع خصب
خصار بالکسر ازار
خصاص بالفتح خصاصہ [illegible]
دروازے [illegible] ہر چیز کا شگاف و
[illegible]
[illegible] ہوتا ہے [illegible]
[illegible] درمیان کی [illegible]
خصاصہ بالفتح بمعنی خصاص
خصال [illegible]
خصام [illegible]
[illegible] جمع خصاص [illegible]
خصاف بالفتح بہت جھوٹ بولنے والا جوتی سینے والا
خصالہ بالضم بمعنی خصالہ
خصام بالکسر بمعنی کسی کے ساتھ لڑائی کرنی
خصلان بالضم جمع [illegible]
خصب بالفتح کھجور کا درخت کھجور کا درخت پھل دار خصبہ ایک

خصب بالکسر ارزانی [illegible]
[illegible] کی فراخی [illegible]
فراخی ناحیہ [illegible] کی جگہ
[illegible] جس میں گھاس بہت
خصب بالکسر [illegible]
سالی [illegible] حال ہو
خصف [illegible]
کیا [illegible] ہو
خصر بفتحتین آدمی کی کمر [illegible]
جو زمین کو [illegible] لگتا [illegible]
سر اور اس کی جڑ کے درمیان [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] جمع
خصر بضم [illegible] جاڑا
خصر بکسر [illegible] جاڑا لگنا [illegible]
خصر [illegible]
خصوص بالضم [illegible] خاص ہونا
خصف [illegible]
[illegible]

[illegible] ایضا [illegible] ایضا خصم [illegible]

شدید ہو

سخت اور تلوار

بارش کی ہا خبر ہے

النبا سحت بدنکا

ت

ناقہ ضعیف

ہرن کا چھوٹا

بچہ

زمین میں گھسنے

داخل ہونے والا

ہے برق نرم بالا

برے کاٹ کی تلوار

خس وخاشاک جسکو

خشک ہو گیا ہو

س کا گھر جیسے جھپر

ہوا ہو مثل ازرج

میں اختصاص جمع

جھنجوانے کی دو کان اگرچہ

کی ہو اچھی شراب

ناقص

خصوصیۃ خفسکہ

انکسف خصیۃ خشاکھا

کو کسی سے تفضیل دینی

ج

[illegible]

خصیل خصائل جمع [illegible]
[illegible]
خصیلہ [illegible]
[illegible]
[illegible] بکسر [illegible] جو کہ نماز میں [illegible]
خصیلہ [illegible]
ران اور بازو [illegible]
[illegible]
ہو گیا ہو [illegible]

خصیل خصائل جمع ال آپس میں [illegible]
[illegible]
خصیلہ [illegible]
[illegible] کا نام [illegible]
[illegible]
[illegible] ہے
[illegible]
[illegible]
خضاب [illegible] رنگ کرنا
[illegible]
پانی اور درخت [illegible]
[illegible]
پہاڑ اور دبور کے [illegible]
جو [illegible] طرف سے چلے
[illegible]
[illegible]
ایک درد ہے کہ [illegible]
[illegible]

شوہر

والخصوم

رائی میں

خصوں جمع

ناصیہ

کا مدر

میں جو

کو تعویذ

خابون کے

او نخنی کہ حمل

بچہ جننے

اصلیان

الزائی

(ضسف)

مستفقس تعفنہ خصی

ج

یا دریا ہو —
خضخضہ (فسفعف) زمین کو کاہنا
پانی کو ہلانا ۔ مشک وغیرہ کو گہولنا ۔ حلق
نکالنا —
خضد (فس) (ض) لکڑی کو توڑنا
اسطرح کہ جدا ہو وے ۔ تیسرا حرف
اونٹ کا دوسرے اونٹ کی گردن
کو جہکا دینا ۔ دوہرا کر دینا ۔ درخت
کے کانٹون کو چہانٹ ڈالنا اور کاٹنا
قطع کرنا ۔ تر چیز کو چبانا جیسے ککڑی
کا چبانا ہو —
خضد (فت) بالون کی باریکی اور
اونکا گہونگریالا ہونا ۔ اعضا کا ایک
ہے شکستگی سے کم ۔ جو چیز لچیلی لکڑی
مین سے چہانٹ ڈالی ہو یا درخت سے
ٹوٹ گئی ہو ۔ گہاس کا ضعف اور
سستی —
خضد (محکمہ) جیسے کہڑا ہوا جاتا ہو
کہڑے ہونے سے عاجز ہو —
خضر (محکمہ) سبز ۔ شاخ درخت
کہیت سرا ساگ ۔ جگہ جہان سبزہ ہو
۔ ایک قسم کے درخت کہ آخر گرمی مین
سبز ہوتے ہین اور پہل پتے نکالتے

ہین خضر (محکمہ) ایک حضرت علیہ السلام
پیغمبر رضوان اللہ علیہ
خضر کہتے ہین —
خضر (فس) (ان) کہجور کے درخت کو
کاٹنا —
خضر مضر (کسر کمن) باطل و رائگان
مفت بے قیمت تر و تازہ —
خضر الناکب جو کہ فراخ حال اور
خوش حال ہوں —
خضر (فت) (ن) کی ونرمی کہجور
کی شاخین قبلی شاخین کہجور کی
جو سبز دو رکہتی ہون (س) کہجور کا
سبز ہونا —
خضرا (فسفسم) آسمان حوم
کی سیاہی اور اونکی بہیڑ ۔ سبز ترکاری
میوے جیسے سیب امرود وغیرہ
خضراوان (فسفعس) جمع جہان کا
لشکر کہ ہتہیارون کے لوہے سے
گہرا ہوا ہو ۔ جدول کہ پانی بہت ہی
سبز ہو گیا ہو ۔ کہریلو کبوتر ۔ یمن
مین ایک قلعہ عطار و ستارہ
کی ایک خاص زمین ہے —
خضرا الدمن (محکمہ) جمال عورت

تنفیلہ

سیاہی دیلی کی
کی گردن

سا
ہا جس مرد
در قطام
بولتے اور
جی رہتے ہیں

شہ عمر گانی
جو چیز کہ چھالی

زرد ملکی ہزی
عج
ہو سبزی
لینے کے شروع
کرنا ۔ شگوفہ
رکھا ہیں بکانہ یتی

فسف الحور جو بہت

ایک قسم کا قطان
مچھلیوں کو ملتے ہیں
قعص فعص موٹا بڑ بیٹا مرد

ج

خضل (فتح) تر و تازہ - طراوت
[illegible] رونیدگی - تازہ کباب
[illegible] سے کچھ نکلے
خضلال [illegible] (کسر) درخت مقل
خضلا (فتح) نعمت - سیرابی -
[illegible] عورتوں کا نام -
[illegible] نرم و نازک بدن
[illegible] خوش حالی [illegible]
[illegible] (فتح) [illegible]
[illegible]
خضم (فتح) اس حق چبانا -
[illegible] منہ سے چبانا - منہ
بھر کر کھانا یا خاص ہے ہر چیز کے
کے لئے نشتر کی گوشت وغیرہ کے
[illegible] قطع کرنا کاٹنا - گوز مارنا - بخشنا -
خضم (کسر) ابر - دریا - سردار - سخی
[illegible] مردوں کے لئے خاص ہے خضمون
(فتح) [illegible] دریا - بڑی بھیڑ
کی جماعت - موٹا گھوڑا - شمشیر بران
[illegible]
خضم (فتح) لوگوں کی بڑی بھیڑ
کی جماعت - ایک شہر - ایک چشمہ
خضمان (فتح) گریبان کرتے

کا چولا [illegible]
خضمہ (فتح) کمر - [illegible]
[illegible] وہ جگہ جہاں وہ [illegible]
بازو والا - خاص لقب -
خضمہ (فتح) [illegible]
خضمۃ (فتح) سخت کھانے والا -
خضن (فتح) [illegible] حملہ کرنا اور
ہاتھوں سے کاٹنا - بازو کھانا -
خضوب (فتح) [illegible] کے
سبز چنا ہوا گھاس -
خضوب (فتح) درخت کا سبز ہونا
خضور (فتح) سبزہ
خضوراء (فتح) ایک چشمہ
خضوع (فتح) عاجزی اور فروتنی
کرنے والا - خضع (فتح) جمع - وہ عورت
جسکی کوکھوں میں سے آواز نکلے -
خضوع (فتح) (ف) فروتنی کرنا
- قرار پکڑنا - ٹھہرنا - ٹھہرانا - کسیکو [illegible]
کی طرف بلانا - ستارہ کا غروب کے
لئے میلان کرنا - بوڑھاپے کا کسیکو
پست گردن کردینا - اونٹوں کا چلنے
میں کوشش کرنا -
خضوف (فتح) بہت [illegible] -

پالیز کرخربزہ
ہت ہوتا ہے
ت کے کہانے
سے کرلڑکے

ہونٹ اخضع
لت کے ساتھہ

ہوٹی عورت

کر سب لوگون
کہجور کا درخت
کہ اپنے ہمسرون

کی آواز
لمبا ساخربزہ کدو

خضاف الغس
کہانے کو کہانا -
ہوتی صاف ہوتی
ہے خضلۃ الفسفہ
ترو تازہ ہونا
ہونا - پانی سے تر ہونا -

ج

[illegible]

[illegible] خطا [illegible]

(فتح ف س) ج

خطاط (فتح ف س) مرد جو کینہ پر نقصد میں

تنگ گیری کیا کرے ۔

خطالہ (ضم خ ف) چشم عورت بدنام

خطام (فتح ف س) جو کمان میں لٹکا ہو

کماننا [illegible] خطم (ضم ف س) ج

اونٹ کی ناک [illegible] یا چہرے کے عضو

میں ایک [illegible] رخسار ۔

خطام (فتح ف س) [illegible] جو ناک کو خوشبو

خطب (فتح ف س) رس دھنیا مائل

بسرخی [illegible] ایسے ہوئے ہو [illegible]

دھنیا مائل بسبزی ہونا ۔

خطب (فتح ف س) حال شان کام

یا چھوٹا خطوب بالضم [illegible] عورت

سے منگنی کرنی

خطب (کسر ف س) عورت جسکی منگنی کی جا

یا مرد عورت جو جاہے والا خطاب (فتح ف س) ج

خطاب [illegible] ایک کلمہ ہے جس سے

عورت نکاح کرتے ہیں ۔

خطبان (فتح ف س) اندھیرا جسے

[illegible] رنگ [illegible] گیا ہو

خطبان (ضم ف س) ایک گھاس ج

سلیمان کی مانند سبز رخت کی سبزی

خطبة (ضم ف) کلام جس میں خداوند

تعالی کی تعریف اور پیغمبر صاحب صلی اللہ

علیہ وسلم کی نعت اور خلقت کی نصیحت

ہو [illegible] خطب (ضم ف) ج

دھنیا مائل بسرخی مانند [illegible] ایسے ہو

[illegible] دھنیا مائل بسبزی ۔

خطبة (ضم ف) ان خطبہ پڑھنا

خطب انحی خاطب کی الکثیر خطابة وخطبة

تشدید
لکیر کھینچنی
کرنا بحزون
ہے نطع
کسی چیز
کر انگر گاہ کی
کہ وہان رکھتے
آگتے ہین
زمین جس پر
پہلے کوئی اونٹ
(ف) سبے ٹھیک
گناہ
گناہ ہانڈی
الکسف
جو کہ ہمیشہ خطا کرے
(ص) خطا کرنی
(ص) سنگنی کرنیوالا
ہونا سر بات کہنی
خلیتہ کرنی
(ص) چکدار ملتا ہوا سبزہ
روغن زیت گو بھیا
ج

[illegible] ہو۔
[illegible] تیزی رفتار۔
خطل [illegible] سست و خراب بات
[illegible] سستی [illegible] کی جلد
[illegible] گھوڑے نیزہ کا
[illegible] کی حرکت۔
خطل (فس) [illegible] عورت کا فحش اور
[illegible] ہونا خراب بات کہنی
[illegible] ہلکا ہونا۔
خطل [illegible] جلد تیز ہانکنے والا
تیر [illegible] سے خطا کر جاوے سخت
او [illegible] شکاری کی رسی
[illegible] کر لینا [illegible] تک
کھینچا ہو [illegible] فحش کرنیوالا
[illegible] تیزہ۔
خطل [illegible] جسکے ہاتھ لمبے ہوں
خطلاء (فسفس) بہت لٹکنے کان کی بکری
خطل [illegible] جمع سست کان عورت
[illegible] کی لمبی پستان کی
خطلمہ (فسفف) ہاتھی کی [illegible]
خطم (فس) برا کام۔ جانور کی چونچ
ناک کا [illegible] کا دہن۔ آدمی کی
ناک پہاڑ کی ناک۔

خطم (فس) (فض) ناک پر مارنا ناک میں
مہار ڈالنی یا ناک کو کھینچنا تاکہ روکیں
مہار ڈالنی کلام میں کسی [illegible]
[illegible] سے روکنا [illegible]
لیے اونٹ پر خطام داغ دینا [illegible]
خطمہ (فضفف) پہاڑ کی بلندی۔
خطمی (کسکت) خیرو۔
خطو (فس) (ال) قدم رکھنا۔
خطوة (فسف) ایک قدم خطوات
(ففضس) خطاء (کفسم) جمع۔
خطوة (فسف) دو قدم کا بیچ خطوات
(فسفس) خطی (فف) جمع۔
خطوط (ففس) وحشی گدھے۔
خطیئة (فکسف) گناہ۔ قصداً گناہ
خطایا (ففسف) خطائی (ففسمم) جمع [illegible]
خطیب (فکس) خطبہ پڑھنے والا مرد
جو کہ خطابت میں دانا ہو۔
خطیب (فکس) مرد جس نے عورت سے منگنی کی
ہو خطیبون [illegible] جمع۔
خطیبی (فکسف) منگنی کی ہوئی عورت
عورت سے منگنی کرنی۔
خطیر (فکس) ہمرتبہ ہم قدر۔ بڑی قدر
منزلت والا مرد مہار بغیر [illegible] ناک کی [illegible]

مَ
نست ہے مہلانی
ہسپنچے کرنا
زتیسے چلنا
کہنے والا دہا
سنا جھوٹ

اونٹونکا
کبھی -

کشادہ قدم
قدم کو ایک قدم
عورت کی

سے چلنے
رفتار تیز
کشادہ کہنے والا

تقریر دو -
سنبھالنا اور اچھا ہو جانا
اوچک لیجانا
چیند سیاہ دینا چوری

اونٹ کا تیز چلنا
جسکو درندے
جسکو آدمی نے زندہ

ج

[illegible]

خفاش (ف) ... دور دور۔

خفاش (ف) خفاش (ف) ... شکست ... ضعیف البدن۔

خفاش (فف) ... ج۔

خفج (ف) ... کی ایک قسم کی بیماری۔ موسم بہار کی ایک گھاس ہے ... کی سپیدی سیاہی پر غالب ہوتی ہے۔

خفج (فف) ... جماع کیا ... تکان کے سبب پنڈلی کا ...

خفج (ف) ... رگ کی بیماری

[illegible]

خفر (ف س) خفور (ف ض) ... دینے کے لئے ... عہد شکنی کرنی ... عہد شکنا۔

خفر (ف س ... ) ... نگاہبان ہونا ... نگاہ رکھنا

خفرۃ (ف ف) عہد و پیمان، پناہ

خفرۃ (ف ف) بدرقہ، نگاہبان۔

خفرجۃ (ف ف) غذا کا اچھا ہونا

خفرنج (ف ف) ... نرم و نازک۔

م

گر کے موز

تا بحر

ہونا۔ گدہ ہونا

الانتہا

ہاتھو کا جیسے

چپکے کوچ کر جانا

(کسف)

یدہ ہونا۔

زمین پر

مارنا اور اسکو

پھاڑنا اور

زمین جوف کا

جس سے کشتی

خفیہ

چاک ہو جانا۔

ہو ملا۔

آنا اور کرنے والی

سی نگہبانی

شرم

ج

[illegible]

تقسیم ۴

ہیلا ہونا

کا دھڑکنا

آواز کر زمین

شرمگاہ

جوڑی

پسنا ہوا کا

نسے

جھنڈ کا ہلنا

ماریں جیسے

نہ ہونا لٹک آنا

نا پسند

تو دونوں

پاس رکھے

نفع

بجلی کا

چھپا ہوا

عورت عورت

تن سکے زمین

خلا [illegible] بچہ [illegible]
[illegible] سیاہ [illegible]
ماں باپ میں سے ایک حبشی ہو [illegible]
خلاصی (فتحہ) [illegible] چھوٹنا
خلاص (کسر) [illegible] خلاصہ [illegible]
[illegible]
خلاص (کسر) [illegible]
خلاصہ (فتحہ) [illegible]
خلاط (کسر) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
خلاطہ (فتحہ) [illegible]
خلاع (کسر) [illegible]
خلاعہ (فتحہ) بے سامانی (ن)
خلاعہ (فتحہ) [illegible] ماں باپ کی فرماں
برداری سے [illegible] ہونا۔
خلاف (کسر) ایک قسم کا بید [illegible]
[illegible] مخالف [illegible]
خلافہ (فتحہ) [illegible] ایک کا [illegible]
کسی کی جگہ ہونا کسی کے پیچھے باقی رہنا
کسی کے پیچھے آنا خلیفہ ہونا [illegible]
[illegible] کرنا۔

خلاقہ (فتحہ) [illegible]
خلاق (کسر) [illegible]
خلاق (کسر) ایک قسم کی [illegible]
خلاقہ (فتحہ) [illegible]
[illegible]
خلال (کسر) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
کی [illegible] درمیان۔
خلال (کسر) اندر گھر کے درمیان [illegible]
خلال (کسر) چھوہارہ خرما خلالہ ایک
خلال (کسر) وہ چیز کہ [illegible]
[illegible] شاخوں
کے درمیان میں ہو
خلال (کسر) سرکہ بیچنے والا
خلالہ (فتحہ) دوستی
خلالہ (فتحہ) [illegible]
درمیان میں [illegible]

خلا تشدید م

ہوا خالی۔ دوست

نہ خالی جگہ۔ تنہا

کا خالی ہونا۔ خالی

ہوائی روک ٹوک کے

تھوڑے سے

کے ساتھ خلوت

نہ زاری کرنی کسی

کو جا

خلو نفس

کرنا اور کا سوجانا

سے نہ ملنا

سوا

(فسک)

ونت

اصل بات جھوٹ

بال

کس بال۔ ہر طرف

خلیس (کس) ایک

جلتا لو ہے کا اسطرح

کوٹا بغر کرے جو چیز کہ ترتیب

کے۔ بے ٹھیک۔ کینہ۔ پیچ لو

کس ایک قسم کی خلاؤ رچادریں

[illegible]

خلنہ (ف) [illegible] داد و [illegible]
گھاس پھوس کی جگہ [illegible]
کی جگہ [illegible]
[illegible]
[illegible]
میں [illegible]
خلنج (ف) [illegible]
[illegible]
خلنج (ف) [illegible]
سبب [illegible] میں [illegible]
خلنج (ف) [illegible]
خلنج (ف) [illegible]
بدن کا [illegible] نسبت [illegible]
خلنج (ف) [illegible]
[illegible] مشغول [illegible]
نیزہ مانا [illegible] کرنا [illegible]
دو دمسے [illegible] اتا چھاتا
خلجان (ف) [illegible]
خلجم (ف) [illegible]
جسیم ـ لنبا [illegible]
خلخال (ف) [illegible]
جمع ـ بانیک [illegible]
خلنجوش (ف) [illegible]

خلفہ (ف) [illegible]
خلفہ (ف) [illegible]
[illegible]
زمین کے نیچے ایک [illegible]
[illegible]
[illegible]
میں [illegible]
[illegible]
خلفہ (ف) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
خلیدہ (ف) [illegible]
خلم (ف) ایک [illegible]
[illegible]
خلش (ف) [illegible]
[illegible] سے [illegible]
[illegible]
خلش (ف) [illegible]
[illegible]
خلستہ (ف) [illegible]
گیلی گھاس کا ملا جلا ہونا ـ

[illegible]

جنے والی عورت

ی کا دل لبھانا

انا۔

احمق عورت

بنے والا مرد

ہمنہ جانور ہی پر تک

نکا بچہ نر کرد ہو نش

بیاح تو دیکہ الگ

م تشنیع ہو گئی ہو

فعل رفت آمد

ی بولی جیبہ کہ بعد

ساہ ہو گئی ہو سماجت

س اس جمع

سیان چہرے سے منہ

یان پر پیتا دن

لو نیز جنس وغیرہ کے

س دو گانہ ہوں خلل

س جمع ملانہ زلف

قات یعنی بیقدری

س میں جمع منکہ

[illegible]

[illegible] سے [illegible]

[illegible]

خلف [illegible] پیچھے [illegible]

[illegible] ہونا [illegible]

[illegible] پیچھے ہونا [illegible]

خلف [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

سے جماعت کی [illegible]

کی جماعت ظاہر ہو یعنی [illegible]

ہو۔ [illegible] جسمیں کہ ایک سوراخ [illegible]

نکال کر [illegible] سب [illegible]

ہڈی۔ خلوت (ضم) [illegible] ہے۔ وہ جگہ

جہاں آدمیوں اور دوکین سفر کا بچھونا

بچھے [illegible] پر آئی [illegible]

خلفۃ (کس) مختلف ہیئت کرنے والا

چاہیے کہ گرمی میں اوگے چھوٹی پسلیاں

جو پیٹ کے پاس ہوں۔ اونٹنی کی

پستان کا سر نہایا ہیں۔ سر پستان کا

دنبالہ۔ نقیض مقدم۔

خلف (ضم) جھوٹا وعدہ کو جھوٹا

کر دینا یعنی وعدہ کے خلاف کرنا۔

خلف (رفق) جو کہ کسی کے پیچھے [illegible]

فرزند صالح اور برے فرزند کو خلف کہتے ہیں

خلف (نعت) [illegible] کرنا [illegible]

سیلان کرنا اونٹنی کا [illegible] ظاہر ہونا

کمنا ہونا۔ بھینگا ہونا۔ [illegible]

رو رو کے چلنا۔

خلف (رفک) ہے جاہل لوگوں میں [illegible]

[illegible] ایک خلف [illegible]

خلفۃ (رفیف) [illegible] کے سبب

[illegible]

خلفۃ (رفسف) الانسان [illegible] کے

پرانے کو نکال کر پھر اوسکو سینا

خلفۃ (رکسف) [illegible]

اختلاف کرنا۔ رات دن کی آمد و رفت

یعنی [illegible] میں ہونا [illegible] چاہیے

میں اوگے۔ چاہیے کہ [illegible]

کے لوگ [illegible] میں [illegible]

وحشی جانوروں کے [illegible]

ہونا جو کہ [illegible] کے پیچھے نکالا جاوے

شروع جاڑے میں [illegible]

نکلے برگ کہ جسکو [illegible] پہلے برگ

کے پیچھے نکال لاوے۔ میوہ [illegible]

جو بعد پکنے و سیاہ ہونے انگور کے درخت نکال لاوے

ق تشدید م

عورت مردون

ترلت

جیسے مصالح سے نکال ون

ین تاکہ او سے

ین گوشت چربی

ناہموار

ے کو دمار ڈالنے سے

ت دینا۔ کام سے

کر دینا

ورت سے یا اور کسی

ینا اور اوسکو طلاق

ں لاتا۔ بڑے ذکر کا

لونڈی کے

نکالے ہوئے فرزند

گفتار

عورت کا اپنے تئیں مال

ینا یعنی مال دیکر طلاق لینی

کپڑا وغیرہ جو کسی کو کوئی

دیوے۔ خلع

اپنا مال

انقدر جانور جو

پیچھے مند قدام۔ گروہ جو ایک

نج

[illegible]

خالی جگہ ... کرنا کہ وہاں کوئی ... [illegible]

... چلا جانا ... [illegible]

طعام پر اکتفا کرنا۔ کسی کے ساتھ خلوت

میں آنا۔ ایک کام سے ... کرنی

کسی کے ساتھ مسخراپن کرنا۔

خلو (ف) ... جگہ سے نکلنا ایک چیز

کو چھوڑنا اور غیر کو اختیار کرنا۔

خلوف (...) ... والی عورت

خلوۃ (...) تنہائی۔ خلوت

خلوۃ ... (ن) کسی کے ساتھ

خلوت میں آنا۔ ایک کام سے ... کرنی

کسی کے ساتھ مسخراپن کرنا

[illegible]

... ہے کمال ... کا ...

خلوف (مصدر) خلوف ...

(ن) روزہ دار کے منہ میں سے بو نکلنی

... کا ... متغیر ہوجانا کسی

خراب ہوجانا ...

اور کسی کے پیچھے سے ... [illegible]

مضبوط کرنا۔ کسی کے پیچھے رہنا کسی

کی جگہ پر ہونا ... ہونا۔

خلوق (مصدر) ... [illegible]

خلوقۃ (مصدر) (...) ... پرانا

ہونا کپڑے کا۔

خلول (مصدر) (...) دبلا ہونا۔

[illegible]

و تمونث آمیز
مینیفش جمع خلق
بے شگافی سب بے
جیسا انگھا پن ہوتا
چکنا اور نرم اور
ہوتا کپڑے کا -
جسمیں شگاف نہو
پتھر بے شگاف
چکنا پتھر
زمین ہموار و برابر جگہہ
خلاقت
چمکا ہٹ
برابر یکساں جسمیں منہہ نہو
جسمیں منہہ کا اثر ہو
آفرینش -
دو چیز کے درمیان کی
ابر میں سے مینہہ کے
کام کا بگاڑ آدمی کی علامی
پراگندگی و انتشار -
کتا جو کہ دانتوں میں
ایک - درمیان -

[illegible]

[illegible] دیکھا جاتا ہے [illegible]

[illegible] سے آمیز [illegible] کھنے والا ۔

خلیع (ع ۔ ص) وہ فرزند جسکو باپ نے نکال
دیا ہو ۔ سلطانی عین جس نے اپنے کو
اپنی تمنداری کے سبب خارج کر دیا ہو ۔ جیسے
بھیڑیا جو [illegible] کا [illegible] جسکا داؤ نہ آوے
بڑا ناگ پر [illegible] شور کرنے والا لڑکا ۔

خلیع (ع ۔ ص) بھیڑیا ۔ بھوت ۔

خلیف (ع ۔ اِ) دو پہاڑوں کے درمیان
میں کا راستہ ۔ پہاڑ کے درمیان کی
وادی ۔ پہاڑ میں کا راستہ [illegible] ہو ۔ راستہ
تیز [illegible] زبان ۔ [illegible] جسکا
تیج پھاڑ کر [illegible] دونوں طرف آ [illegible] ملا
[illegible] جسکے جننے کو دوسرا دن

[illegible]

خلیفہ (ع ۔ ص) [illegible] خلافت ۔

خلیفہ (ع ۔ اِ) [illegible]

[illegible]

خلیفہ (ع ۔ ص) [illegible]

آدمی [illegible] ۔ سب عالم
کو ان کی [illegible] جس میں
[illegible] صاحب خلق [illegible]
[illegible] عورت ۔

خلیل (ع ۔ اِ) دوست [illegible]
خلیل [illegible] صادق [illegible]
خالص ۔ خلیلہ (ع ۔ ص) دوست [illegible]
[illegible] خلیل [illegible] حضرت
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام [illegible]

[illegible]

کی جگہ

[illegible]

کا کھڑ [illegible]

بمعنی کا

بان شہد

الاسرا کر خرم

ریچھ دگنی

کی یا ایک شاخ

سوائے عقد

بن کا بیٹا

وزن

جسکا

کی سپیدی

صفی کو چک لیجانا۔

سیدھی پر سید حیرت کا

ترکیب ملک کے حقوق

یلی رشتہ وغیرہ۔ خاوند

ایک جماعت جنکا کام ایک

غلامنص خلطا

ہمچہ نگار الود گس ہوا میٹھا

سے ملا ہوا سو عن حسین

دو گوشت ہوا منیرس رکھنے والا۔

ناج

[illegible] سستی [illegible] کا
[illegible] اور ضعف [illegible]
[illegible]
[illegible] سست
[illegible] اور [illegible] کہ کسی [illegible]
[illegible] ہوے -
[illegible] ضعف [illegible]
پانی [illegible] پہنچ گیا ہو
اور [illegible]
[illegible]
[illegible] فساد کرانے
[illegible] سر کی [illegible]
[illegible]
[illegible] بکری کی پستان [illegible]
بہت ہوتا ایک خاردار نبات جسکا [illegible]
باریک ہوتا ہے اور ہر ایک چیز میں چمٹ
جاتا ہے قاہرہ کے ضلع میں [illegible]
اوسکا دانہ اونٹ کو کہلاتے ہیں -
[illegible] ایک چھوٹا سا دریائی جانور
[illegible] منہ [illegible] کہانے
کی ایک طرح [illegible] ہے -
[illegible] آگ کا
شعلہ اور [illegible] جانا اور آگ باقی رہے

[illegible]
[illegible] آدمیوں کی جماعت [illegible]
[illegible] جال [illegible]
ایکبار [illegible] لیے ہو [illegible]
لیا جاتا [illegible] کا ایک پہاڑ [illegible]
آدمی کو ڈہانک لے [illegible]
[illegible] درخت وغیرہ - پوشیدگی و غفلت
پوشیدہ ہو جانا چھپ جانا -
[illegible]
[illegible]
کی بہات سے پوشیدگی غفلت -
[illegible] آدمیوں کی
جماعت اور [illegible]

(مفصل مجمع)

نہ باز گشت کا رد کا

کھیتے ہیں اسواہ

وہ پورا ہو

آج جیں سے کچھ

(مفصل مجمع)

گیا ہی

تنکی

ست آدمی

اگو وہیں ایک

نے لگتا ہے

شروع کا پر

دوست خالص

نیچے جڑ نا کارہ

ہماری ہو گئی خاک ہے

ہو گیا ہو اور اوسے تو

دین گوئیں کی خاک

مستزاد

مفلس ہوالے نیچ لوگ ناکارہ

تا کا ہر درخت ایک گھاس ہے

اس عہد کے سبب پانی میں

آتش ... بد دم

یک شکم بھوکا

نش خمص

یا یک ہو

گرم ہیلی میز

جاکی نرم

گاس جیسا کا رہ

کا چیز ہر در

کے رفت

خار دار درخت

خوشبو دار

بی

جیسکی بو ہو

کو بھوننا یا جلا

کر اوسکو بھوننا

مشک بیز

نا بد بو دار ہو جانا

غرور کرنا غصہ کرنا

نا بد بو دار ہو جانا

بجلی مارتا ہو

شگوفہ انگور عنب

ہے جسکے سبب کی

بیلی بنو کھٹی شراب

ج

[illegible]

خناق (ضم) [illegible]

اور سے [illegible] گلا گھونٹنا [illegible]

خناقیہ (ضم) [illegible]

گھوڑوں کے حلقوں کا ایک آزار ہے

خنان (ضم) [illegible] آسودگی

خنان (کسر) [illegible] یعنی خنان (ضم)

خنان (ضم) [illegible] کی بیماری جو

پرندوں کے گلے اور آنکھ کی بیماری

اور منھ والوں کا زکام

خنث (کسر) [illegible]

[illegible]

[illegible] کو تفسیر کرنا [illegible]

خنفسہ [illegible]

خنقش [illegible] بہت حرکت کرنا

خنع (ضم) [illegible]

[illegible]

[illegible]

اور [illegible] کے درمیان میں [illegible]

ایک [illegible]

[illegible]

[illegible]

11

تمثیل مو

...با اور حسکو

...نا صورت شیر

...شناس

...سخت عبری

...نرسف

...حلق

...ر قد

...ابجی

...نشین حق

...اسباب

...بری

...سے سیودی

...شعر

...سیان

...سر و فرشتہ قضا و قت ضعیف

...کرنے والا

...سیمان...الی

خنفساء (فسعف) [illegible] خنفس [illegible]
کیڑا [illegible] نماید
خندریس (فسعف) معتاد [illegible] کو
دوسرے سے [illegible] [illegible]
دوسرے سے چھیڑنا
خنزیر (فسعف) [illegible] کا [illegible] اور [illegible]
خنساء (فسعس) بہت گوشت والی
اور پھولی ہوئی
خنقوص (فسعس) [illegible]
اثر و [illegible] میں چلنے والا
خنفلیق (فسعس) [illegible]
خنفلق (فسعف) [illegible]
[illegible] گڑھا [illegible] ہوئی
ایک خندق [illegible] کے جنگل میں
پادشاہ کی کھودی ہوئی
خندق (فسعف) خندق کھودنی
خندوقہ (فسعف) پہاڑ کا جھکا ہوا
خندیان (فسعفس) بد زبان
خندیذ (فسعف) مخنث [illegible] کے
لیے مخصوص ہونا
خندید (فسعس) لمبا پہاڑ کا اونچا
خناذیذ (فسعس) جمع [illegible]
لغات اضداد سے ہے خوب بہادر

[illegible]

خنوس (فسعس) [illegible]
جبکہ [illegible] وجود پر دلیر ہو
خنش (فعس) خنوش (فعس)
[illegible] پیچھے رہنا کسی کو پیچھے کر دینا
[illegible] کو [illegible] کر دینا
پوشیدہ اور [illegible] ہونا
خنشل (فعنلہ) ناک کا پچھلا [illegible]
خنشلی (فسعس) بہت [illegible]
ہر [illegible] کی جگہ [illegible]
[illegible]

تشدید دم

عورت

وحشی

وحشی

وحشی

عورت

وحشی

[illegible]

خنجع (فقمہ) [illegible] گوں کو
گریبان میں ڈالنے والا ہو جانا۔
خنفاء (مسفعہ) مرد [illegible]
خنعنب (سفعنف) ایک لال [illegible]
خنفسہ (مسفعف) چھوٹا سا [illegible]
[illegible] سے [illegible] میں ایک
لکڑی [illegible] تاکہ [illegible]
[illegible]
خنفق (فسعف) بہت [illegible] بدکاری
[illegible]
خنعس (فسعف) [illegible] جانور۔
خنف (فعف) [illegible] سینہ کی ایک
جانب کا [illegible] ہونا [illegible] کا اندر [illegible]
خنف (فعل) [illegible] آنا۔
خنفقہ (فعفعہ) ترنج کا وغیرہ کا ٹکڑا
خنفقہ (فسعف) وہ امر کہ جس سے
شرم کرنی چاہیے۔
خنفشہ (مسفعف) ایک چھوٹا چوپایہ ہے
خنجج (مسفع) جس میں بہت گوشت ہو
خنفسار (مسفعفسم) گندی بو کا
ایک جانور [illegible] جانور۔
خنفست (مسفعف) [illegible] جو آدمی
چراگاہ میں [illegible] ہو جاوے۔

خنفشہ (فسعف) ناپسند [illegible]
چیز کو اور اوس سے [illegible]
خنقع (فسعل) [illegible]
خنفق (فسعفس) [illegible]
[illegible] ایک قسم کی [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
خنوص (فسعف) [illegible]
خنوص (فسعف) آدمی [illegible]
شکار [illegible] کی [illegible] میں [illegible]
خنوت (فعفس) چالاک [illegible]
[illegible] پر [illegible]
ایک دریائی چوپایہ۔
خنوخ (فعفس) اخنوخ (مسفعس)
حضرت ادریس پیغمبر علیہ السلام کا نام [illegible]
خنور (فعفس) دنیا۔
خنور (فعفس) تیر کا [illegible]
و نرم درخت سخت ظاہر۔
خنور (فعفس) [illegible] لڑائی میں [illegible]

[illegible]

ج

تشدید م

نہ غم دنیا

سے چلنا

پیا قریب رگ

پاؤں نکال

چھار یدیو

معنی مخطوط

ر کر چارپائی

ول کی بگڑا

فسک حق

کالی بہیا

پلو راو سکے

یا ہو

پایہ چھوٹا

پیا قریب رگ

کا سرا

فحش بکنے والا

ملامت کرنا فحش

کرنا بہکانا خراب کر دینا

جکی نم گردن ہو اور

لیے فروتنی

عورتوں کے ساتھ باتیں

ہنسی

ج

خوان [illegible] بہت پھل [illegible]

کھجور کا درخت ۔ مفرد ہیں اونٹنی

خور [illegible] جمع ۔

خوارج [illegible] اہل اسلام میں ایک فرقہ ہی طور پر اس لیئے اونکا نام ہو گیا کہ اوٹھون نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر خروج کیا تھا خارجی اوسمین سے ایک ۔

خوارج [illegible] گھوڑی ۔ توندی سگ ہی

خوار [illegible] تیز رو گدہی جسکے پیٹ میں چارہ نہ ٹھہر سکے ۔

خوا [illegible] اخوص بیچنے والا ۔

خوا [illegible] نالکی بیچ آواز کرنی ۔

خوا [illegible] ناک کا پانی بہی مسنک

خوا [illegible] آواز و فریاد ۔

خوافق السماء چاروں ہوا اون کے نکلنے کی جگہہ ۔

خوافی [illegible] جانور کے وے پر کہ جب بازو لپیٹ کر سمیٹ کر چھپے چاوین درخت کی پھننگ کی شاخین ۔

خوالد [illegible] جیسے بہت سے پہاڑ بہت سے پتھر ۔

خوالف [illegible] عورتین مذکر عین کہ سب سینوں کے پیچھے اوگا دین مانوری

[illegible] کون آدمی ہے ۔

خوالق [illegible] چکنے پہاڑ ۔

خوامس [illegible] ساہ [illegible] یا سی تین کے بعد چوتھے دن کی پیاس

خوا [illegible] جمع خاصرہ [illegible]

خوان [illegible] جسپر کھانا کھاوین

اخونہ [illegible] خوان [illegible] جمع

خوان [illegible] ربیع الاول کا مہینا [illegible] خون [illegible] جمع شہر

خوانہ [illegible] ڈھیر ۔

خوا [illegible] گھوڑی کی سکڑی سنانا

[illegible] جسمین نیزہ کا سر اوہر ہو یا اوسکے [illegible]

خوب [illegible] وسعت ہو جانا ۔

خوتہ [illegible] بھوک سرزمین کہ قطعوں میں پڑوتے درمیان ایک بے سینہ پڑا قطعہ سرزمین جسمین چارہ گھاس کچھ نہو ۔

خوت [illegible] ان عقاب کا سبزہ پر [illegible] شکار پر لوٹنا ۔ [illegible] اور چھوڑا کردینا ۔ عہد و پیمان کو توڑ ڈالنا ۔ عہد [illegible] قومکو حکم اور چھوڑا کر [illegible] ہونا دفع کرنا [illegible] چکیا جانا ۔

خوۃ [illegible] خالی زمین ۔

[illegible]

تشدید م

کشادہ دادی

آسمانگانہیچ دوچیز

خالی

شتہ داریان سخائی

سے اوترنے

زہ کی آواز آواز

کی

عقاب اور باز کا

مال کو کم اور

پیمان کو توڑ دینا

پیر مرد چو ہر ساعت

نہ کھاوے

خصوص وقت پر تپ کا آجانا

گلے بکری ہرن کی

کی آواز

آدمی اور ہر چیز ضعیف

رخس اجمع سلوٹ

آگ سے نکلے خوارات

جمع بنسب بیان کرنیوالا

تیز رو آستان ٹھرنے

ج

[illegible]

خوص (فس) ایک [illegible]

ران یا پانی میں پھنسنا ایسا ہی کسی کام میں کہ

بات میں۔ شراب کو گھولنا اور ملانا۔

مغفر و سپین تلوار کو ملانا۔

خوصہ (فسعف) مولی کا دانہ

خوط (فس) ایک برس کے درخت کی نازک

شاخ یا ہر شاخ۔ خوطہ (فسعف) ایک

خیطان (فسعفس) [illegible]

قد آور آدمی ہلکا تیک [illegible] مرد

خوطانہ (فسعفسعف) [illegible]

[illegible]

خوق (فس) [illegible]

خوق (فس) [illegible]

حسین سردار [illegible]

خوقانہ (فسعفسہ) [illegible]

[illegible]

خول (رفف) [illegible]

عطایا [illegible]

واحد و جمع [illegible]

کے نزدیک [illegible] واحد ہے

شدیدم

گرنا
سیا اپنی بدکاری سے

حیف لو شکستہ ہونا
نامہ کار وہ جسکو پیچھا
لیا وہ کہ جسمیں خیر ہی
جلا من نقش عکس جیم
سیا سب بہتر
پیدا ہوئی زمین ہوا

شناک کا یا
وہ خورد نگاہ

شنا یعنی خیر کا فسف
ایک گروہ ہے
دشمن رکھنا
فسف یا لو منی کی پستانکی سوجن
یعنی خیزی (فسفف)
سا بسیر زلل
ایک گنتو وہ کہ بر
دل سے جدا ہو
عہد شکنی
الان عہد شکنی کرنی خیانت کرنی

ج

شدید م

چار پایوں
انکی کشادگی

تی
تا شتر کا بیٹھنے

خاصہ (فستقی)
(قفسم) خواہ
کشنیے
باشندو خالی ہونا

نا

نے والی چقماق
خسارہ جیسے
یعنی اوسکی سعی

ہو
ناچار ہو پسندیدہ مقبول
ہوا اپنی خواہش
کھا سبر گزیدہ مال
چیز التماس
پیچھے جنبال اور دماغ
اونکا کٹر ہا
چھال پہاڑ کی نالیں
پانی یا کسی کام واسطے
شتر

خیلی [illegible]

[illegible] غیاث فرشکس

خیلش [illegible]

خیلس [illegible]

خیفش [illegible]

غیاث [illegible]

خیفس [illegible]

خیفق [illegible]

[illegible] ایک [illegible]

خیفس [illegible]

خیفق [illegible] سخت [illegible]

خیشم [illegible]

غیاث [illegible]

خیفشق [illegible]

خیطرس [illegible]

خیطر [illegible]

و گروہ [illegible]

خیطرس [illegible]

خیلان فرسکس [illegible]

[illegible]

منگا دین بہ نالہ

...

کی وعدہ خلافی

...سر جاتا -

...

کی وعدہ خلافی

...کا سر جاتا -

...

تغیر ہو جاوے -

...

خفت کی شوخی کا کام چھپانا

...کان کی تہ کا درد -

# باب الدال المہملہ

داء (ع) بیماری، داء عضال (ع) سخت مرض
داء الثعلب (ع) [illegible] کی
بیماری جس [illegible] کچھ نہیں
داء الاسد (ع) خورہ
داء الفیل (ع) ایک بیماری ہے جسکی [illegible]
داء الکلب (ع) جنون سگی
[illegible] (ع) ایک بیماری ہے جس سے
بال [illegible] گر جاتے ہیں
[illegible] (ع) ایک بیماری ہے جس سے
[illegible] ہو جاتا ہے [illegible]
[illegible] بیماری
نہیں جیسے ہر شخص کو کوئی بیماری نہیں ہے
داور (ف) بیمار مرد
دائب (ع) کام میں ہمیشہ رہنے والا
دائب (ع) کام میں لگا رہنا اور
مشقت اٹھانا، بیت ہانکنا، دفع کرنا
دابّہ (ع) قدم سے چلنے والا
حیوان، سواری کا چوپایہ
دابّۃ الشموس [illegible] گدھا وغیرہ
دابۃ الارض قیامت کی علامتوں میں

سے ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ [illegible]
پیدا ہوگا [illegible]
لگے گا اور [illegible]
[illegible] کی طرف منہ ہو گئے اور اسکے
پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی
ہوگی جو مومنوں کو [illegible]
اور [illegible]
مومن ہے اور کافر [illegible]
لکھ دیگا کہ یہ کافر ہے [illegible]
دابر (ع) پیچھا، پیچھے چلنے والا
ہر چیز کا آخر، جڑ، تیر جو نشانہ سے [illegible]
ہو جاوے [illegible]
خلاف ہو کر [illegible]
[illegible] کے خلاف
دابرہ (ع) [illegible] کا آخر
[illegible] [illegible]
پیچھا، کشتی کا ڈنڈا، وہ چیز کہ [illegible]
کے آخر [illegible]
[illegible] بازو پر [illegible] پانچویں [illegible]

تشدید م

گمان کرنا ہینگ

من فرستادہا ہیر مشل

سے مولوی بیٹے ہین

شی

رہی ہینگ۔

ل بہت ہونا

تنی محمان کرنا

ف برس

جو طالب علم

کردینا کر

شانا۔

کا مہ چہر

فنفین

کر دینا کر

ٹونا۔

جار لکڑیاں

کے سایہ مین بیٹھین

بنایا جاکو دیما تند فنفر

کٹنا جمع

نا جو عورت۔

آواز کرنی۔

کا بچہ جو گرگدہ سے پیدا ہو

تمام شد باب الشاد المعجمہ

ج

[illegible] بغل یا آدمی کی بغل [illegible]
داخوار (بضم) [illegible] بہت [illegible]
[illegible] ہے جانور [illegible] کی [illegible]
[illegible] کی [illegible]
[illegible] کے پاس
[illegible] چیز [illegible] میں [illegible]
[illegible] یعنی [illegible]
[illegible] (بفتح) [illegible]
بہت [illegible] کی حرکت
[illegible] (بضم) [illegible]
[illegible]
[illegible] کی [illegible]
راتیں ۔ وادی (بتشدید) جمع [illegible]
[illegible] سفر [illegible] نالے
دادا (بفتح) ودیان (بکسر)
اونٹ کا بہت دوڑنا یا تیز چلنا گھوڑے کا
دوڑنا کسی کے قدم کے نشان پر چلنا
حرکت [illegible] ساکن کر دینا [illegible]
[illegible] کسی چیز کو ایک چیز سے
ڈھانکنا [illegible] پتھر کے گرنے کی آواز
اژدحام [illegible] میں [illegible] کی
ہلانے کی آواز ۔ [illegible] لہو و لعب میں
مشغول ہونا ۔

[illegible] کی [illegible]
[illegible] ایک [illegible]
دار رفست (بضم) [illegible]
دار عقار (ه) [illegible] سنگ [illegible]
دار السلام (ه) دمشق
دار شیشعان (ه) [illegible]
[illegible] درخت [illegible]
دار صینی (ف) [illegible] دار چینی [illegible]
دار فلفل (ه) [illegible]
فلفل کا [illegible]
درخت کا پھل جو قوت [illegible]
دابہ (بفتح) [illegible]
(بضم) دیار (بکسر) [illegible]
دیارات (بکسر) [illegible] دیران (بکسر)
دوران (بضم) دورات (بضم) [illegible]
(بضم) دورة (بسکون) جمع [illegible]
دارب (بفتح) [illegible]
داریہ (بفتح) عقلمند ہنرمند عورت
طبلہ بجانے والی عورت
دارة (بفتح) گھر ۔ پہاڑوں سے گھرا ہوا
کشادہ زمین ۔ ہر چیز کہ ایک چیز کو محیط
ہو ۔ گول ریت ۔ دارات (بفتح) و دور
(بضم) جمع ۔ چاند کا ہالہ ۔ سختی ۔ بلا ۔

بوا - ایک قسم کی
خطوط جو گاے

حرن
زخم یا ایک دانہ
کے درمیان میں
ناخن کر پڑے
جسکا بچہ دان
پڑا ہو غصیلا رد
س جمع زد
شک جمع -
ایک زخم یا ایک
کے درمیان میں
ناخن گر پڑے -
شکاری کا پاندام
کر شکار کے لیے زمین پر
کہ وہ گور خر شکار کرنے
گیا ہو اور پاندام ایک قسم کا
کی سینخین ایک بالشت
تے ہیں بعد ہر ایک کے سرے
دیتے ہیں بعد دوسرے
زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور
کی زمین ہو کر آگے
جانوروں کو ہیگا کر جال کیطرف

واعس [illegible]

واعی [illegible] شخص [illegible]

واعی [illegible]

واعیت [illegible]

جسکو [illegible] بچہ [illegible]

تاکہ [illegible]

واغر (فسک) ذلیل خوار [illegible]

[illegible] سختی [illegible]

[illegible]

واغمضہ (فسک) [illegible]

دور [illegible]

لگا یا [illegible]

واغلہ (فسک) پوشیدہ کرنے [illegible]

ڈہونڈہنے والا [illegible]

وافدہ (فسک) لشکر کہ دشمن [illegible]

وافد (فسک) مسافر

وافع (فسک) لوشتی جو بچہ [illegible]

سے پہلے [illegible]

وافعہ (فسک) [illegible]

سیل [illegible] زمین جسمیں [illegible]

پانی [illegible]

قوت وافعہ [illegible]

بمعنی [illegible] یعنی وہ [illegible]

[illegible]

ت ماشندیہ م

...خرانا اور بہت
...سیدھے لوگون کا
...تا -
...گوشت کا
...لع ہونا -
...غصہ ہونا غوطا
...کو پوچھنا -
...ہو جانا -
...کہ اس سے
...اٹھتے ہین
...کہ حیران ہین
...راوت ساند
...جانے والا پلید تبہ کار -
...تا کارہ کرسی -
...کھجور کا درخت جو نر
...سکے داعر (فقسک) داعیر
...چیز کا عورت -
...لوت ہو فعل داعر کی
...وب ہین داعلی گھاس کیطرف
...بیوقوف مرد - ث
...(سکف) بیوقوف - مذکر دعو
...بیوقوف عورت بیباک دلیر -

ج

[illegible]

[illegible]

جنگلی ... کا ایک قسم کا ... 

ایسا ... 

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

در ... 

[illegible]

با تشدید و مد

سیاہی۔ غرور

پک جاوے

سودالی

اڑ گئے

سے نکال

دیوانہ

عوام رستہ

اندھیری رات۔ قوم

رات نہ گرم نہ سرد

نہایت اندھیری رات

خاک۔

سے نکلے

حبس خون

دماغ

شرقہ

ج

دبا [illegible] ۔ و [illegible] (ف)
[illegible] فتس [illegible]
طریقہ [illegible]
دبا [illegible] (مس) [illegible]
چلنا [illegible] کا [illegible]
[illegible] یعنی [illegible]
[illegible] گر گئی ۔
دبا گر (فس) [illegible] سالکین [illegible]
آرام [illegible] سے [illegible]
دبا [illegible] (ف) [illegible]
دبا [illegible] یعنی [illegible] (ف) [illegible]
[illegible]
دبا [illegible] (فس) [illegible] کلام ایک
کلمہ ہو جس [illegible] کو بلاتے ہیں
یعنی آہستہ [illegible]
دبا [illegible] (فس) [illegible] کا ایک [illegible]
[illegible] کا [illegible]
آدمی [illegible] قلعہ کی [illegible]
میں [illegible] ہیں [illegible] اور میں [illegible]
ہوے قلعہ میں سرنگ لگا دیں [illegible]
راہ چلنے والا
دبا [illegible] (ف) گریز ۔
دبا ج (فس) [illegible] فروش ۔

دبا ج (فس) ایک [illegible]
دبا [illegible] (ف) [illegible]
[illegible] والا مرد ۔
دبا [illegible] (فس) [illegible]
۔ دبار [illegible] (ف) [illegible] ۔ قدیم [illegible]
[illegible] کتاب [illegible] میں
[illegible]
[illegible] میں [illegible]
دبا [illegible] (فس) [illegible]
دبا [illegible] (فس) [illegible] کا [illegible]
دبا [illegible] (ف) [illegible]
دبا [illegible] (ف) [illegible]
دباغ (فس) [illegible]
دباغ (فس) یعنی [illegible] کس
[illegible] میں [illegible]
کو سبز رنگتا ۔
دباغت (ف) [illegible]
کی [illegible] کو سبز رنگتا
دبا [illegible] (ف) [illegible]
دبال [illegible] (فس) [illegible]
دبیب (ف) [illegible] ہوا [illegible]
چھوٹا [illegible] بال [illegible]
دبا [illegible] (فس) [illegible]



ج

سنہ یا م

جبری رات —

خط — ہر چیز کو

حلقہ گول بال

لعل کی جگہہ

زلف

اک کے نیچے ہی

شکست عیدی

گردش

پانی پر ہو

سیب کے

منحوس ہے

ان کی جگہہ

رقیب

واحد رقیب

پیروی کرے —

گرد پھرے —

احمق —

سخت احمق ان دونون

بولتے ہین متاع

قیمت کچھ خوب سنانی کے

ہوا بھی نہ گئے —

ہمیشہ برقرار ساکن

وارث ... تر ضبط ... تر محفوظ ...

ح

[illegible]

وبسبی [illegible] ایک پرندہ جانور ہی

انگلیا [illegible] نہیں کرتا ہی - دیکھیے

[illegible]

وبلغ [illegible] کر پر [illegible]

[illegible] ہونا [illegible] پڑھے

سنوارنا [illegible]

وبقیحہ [illegible] وبلغ [illegible] کس

وبقیحہ [illegible]

وبیغ [illegible] کس [illegible] جس سے [illegible]

[illegible]

وبیغ [illegible] کسی کی طرف

[illegible] اور [illegible] ہونا -

وبجلی [illegible]

[illegible] والا

وبجلہ [illegible] ایک [illegible] کو

[illegible] سے [illegible] کرنا

[illegible]

[illegible] سے [illegible]

یعنی [illegible]

وبل [illegible] پچھوڑنے [illegible]

وبل [illegible] سختی - [illegible]

وبل [illegible] سختی عورت کی [illegible]

وبل (کس) وابل [illegible] وبل [illegible]

(کس) [illegible] بطور مبالغہ کے بولتے ہیں

وبلہ [illegible] ایک چیز کا ایک [illegible]

ایک طرح کی پیٹ کی بیماری - [illegible]

[illegible] کا [illegible] - وبل [illegible]

وبل [illegible] کس [illegible] ہونا -

تشدید م

مشابہ ہو۔

اچھا گاڑھا دودھ

ڑھا دودھ۔

ئل چوپایہ۔

قبل ہر چیز کا

کون بیٹھ

ن کا گروہ۔

جمع

بھاری آنکھ

کے خواب۔

زمین کا ٹکڑا

سے پانی ہو کر

بدن بیٹھ

اچھا کسی کے

نقل کرنی۔

تیر کا نشانہ سے پار

گی بیٹھ کا گھائل ہونا

چاند کی ایک منزل

پانچ ستارہ ہیں۔

ج

[illegible]
[illegible]
دثار [illegible]
دث (فعل) [illegible]
میں جو [illegible]
[illegible]
[illegible]
دث [illegible]
دثا (فص) [illegible]
دثاثر (فص) گھوڑے [illegible]
کو شکار کرنے والا۔
دثار (فص) کپڑا جو بدن پر ہو اور جو
شعار کے اوپر ہوتا ہے
دثانی (فعلت) مینہ کہ [illegible] گرمی کی
شدت کے بعد برسے۔
دثیہ (فعف) تھوڑا سا کام
دثر (فف) میل کچیل
دثر (فس) بہت مال - واحد و جمع
اس میں برابر ہے۔
دثر مال مال کا اچھی طرح سے سر
انجام دینے والا
دثلط (فس)، دثوط (فعفس) (ن)
زخم کچھ اچھا ہونا اور اس کی آلائش بہاتا۔

دثع (فس) [illegible]
پامال کرنا [illegible]
دثوغ (فعفس) [illegible] پانی بہانا
دثغرہ [illegible] تھوڑا سا پانی
دثغر (فس) [illegible]
[illegible]
دثور (فعول) (فص) [illegible]
گھر کے [illegible]
ہو جاتا [illegible]
دثلیم (فص) [illegible]
دثور القلب [illegible]
[illegible] یاد جاتی رہی
دثمۃ (فعلۃ) [illegible]
دثج (فت) بھر دینا [illegible]
[illegible] کو لٹکا دینا۔
دجاجہ (فعالہ) مرغی - مرغا مذکر و
مونث برابر ہے - [illegible] عیال -
دجاجی (فعالی) خوب گہرا کالا -
دجال (فعل) (فص) گوبر -
دجال (فعال) تلوار کا جوہر [illegible]
[illegible] یعنی سونا - سونے کا پانی [illegible]
[illegible] والا - جھوٹ بولنے والا مسیح
کذاب کا لقب کہ آخر زمانہ میں پیدا ہوگا

ی تشنہ ۴ م

کو پر وغیرہ سے

ت ڈالنی - ہر چیز

ت و سختی پہنچی

۲ بر ضعف

ہر طریق

ستہ رفتار چھو

ہ ایک چیونٹی -

ینی کوئی سے

خ نہیں ہوتا

ستر ردی یعنی

ہتی بد

ی جاتی یعنی کوئی -

یعنی ہو کوئی

کے ہوتے ہیں آگل

ح یعنی ایلوا

کیا

ت کی لکڑی جیسے

کلے سے پچھاڑی

لیویں -

باغت کیا ہوا چمڑا -

اعضاء کا درخت کہ

ج

[illegible]

و جو شخص دیکھے کہ [illegible] ابر [illegible]

جا ہوا [illegible]

و جو شخص دیکھے [illegible]

و جو شخص دیکھے [illegible]

آدم علیہ السلام پیدا [illegible]

و جو شخص [illegible] دیکھے [illegible]

[illegible]

قسم

کہتے ہیں اور

کہتے ہیں —

کروہی جس پر زمین

صاحب

طرح میں پھیلا —

س بکسر ج

کی جو لنگور کی

یعنی دو جزو کا

کی اور صنف جمع

س الان

نا جماع کرنا

کرنی —

پر قطران ملنا

کے قطران ملنا —

ہیچ لوگ —

صنف ... کی بہر —

چیز کی قسم اور طرح —

ایک ہوتا

گلستان — یاران —

وغیرہ صنف ایک —

ج

[illegible] پڑنا۔
دحقب (ضفف) پیچھے کے موٹھے سے
تیر ہانکنا دفع کرنا۔
دحقلہ (ضفف) پیٹ کا پھول جانا
دحقم (ضفس) بخیلی پیدا کی
دحل (فتس) تنگ منہ کے پیٹ
کا گڑھا جس میں گس سکیں اور اکثر
اوس میں درخت گھاس لگتا ہے۔ ایک گڑھی
جگہ پیچھے کے نیچے کوئیں کے عرض
کے عرض جلیلو میں ایک کھولی جگہ جیسا کہ
نشیبی جو اپنے گھر میں شگاف بنا لیتے
ہیں جب کبھی کوئی دشمن گھر میں آتا ہے تو لوگ
عورتیں اوسمیں گھس جاتی ہیں [illegible] کے
گھر نے کی جگہ۔ دحل (فتس) [illegible] دحال
(ضفس) دحال (کفنق) دحول (ضفس)
دحلان (ضفس) جمع۔ (ف) کوئیں کی
جانب میں کھودنا۔ یا خیمہ کیجانب پھیرنا
سے دوری بکری مثل بھاگ جانا چھپ جانا
ڈرنا۔ سرنگ میں داخل ہونا۔
دحل (زنک) مرد جسکا گوشت لٹکا ہوا
پڑا ہو۔ بہت مالدار عقلمند ہوشیار۔
بہت فریب دینے والا بیع میں تشویش
کرنے والا تاکہ اپنی حاجت پر قادر ہو جاوے

ہونا نکلنا پیٹ کا باہر نکلا ہوا ہونا
دحلا (ضفس) تنگ منہ کا بیرا
دحلمہ (ضسس) گول لڑکی
دحلطہ (ضفف) باہم ملا ہوا کرنا
دحلمہ (ضفف) پیار سے گرانا یا
کوئیں میں گرانا۔
دحم (کسس) جماع
دحم (فتس) دحام (ضفس) زور سے
بہت ہانکنا دفع کرنا۔ جماع کرنا۔
دحمرة (ضفف) مشک بھرنی
دحمس (ضفف) کالی چیز۔ اندھیری رات
گندم گوں [illegible] موٹا [illegible]
دحمسان (ضفس) دحمسانی
(ضفف) [illegible] یعنی [illegible]
دحمشان (ضفس) احمق۔
دحمسة (ضفف) اندھیری رات
دحملة (ضفف) بڑی عورت کمال
گوشت کی بھری گٹھی ہوئی نازک بدن
کی عورت۔ لغات اضداد سے ہے [illegible]
لڑھکانا پامال کرنا ہوا کر دینا۔
دحمور (ضفس) ایک چھوٹا سا جانور
دحموق (ضفس) بڑے پیٹ والا [illegible]
دحن (زنک) [illegible] بد بطن [illegible]

پر کو

بمعنی دو حجاب

قد کا

ہکانا

کر دانہ سے پرہیز

فم البنی

کالانوں سے

کو چھپانا

کرنا کہ معلوم ہو

کے پاست

سیان مین کھا

آدمی

گول بدلنا

جسمانی

بمعنی جسم ضعف

منسد

حاذق نفس (ف)

بچہ دان کالا

کو لگا دینا

پہنچانا بچہ دان کا

دخان کی [illegible] کی بیماری اور سکے
دل کی بات -
دخامس (بفتح ... فسنک) کالا ولدار ...
دخان (دفنس) دھوان - اوخنہ
(فسکف) ودواخن (فسکم) واخین (فسکح)
دخان (دفتفس) دھوان -
دخ ... (فف) ایک بیماری دھبلاپن -
دخانج (فسنفس) ایک چھوٹا سا چوپایہ
دخدار (فسنفس) سفید یا سیاہ کپڑا
تختہ مین بیٹھا ہوا - ند -
دخدتہ (فسفف) پُر گوشت لڑکی -
دخدح (فسنفس) ٹھنگنا مرد -
دخدع (فسفف) جھک جانا - ذلیل
و خوار کر دینا بیوکر دینا - رفتار مین پاؤن
پاس پاس رکھنا اور تیزی کرنی - دھوان دار کرنا
دخدرۃ (فسفف) گوشوارہ کو ملمع کرنا -
دخر (فنس) دخور (فنس) (ف س)
چھوٹا ہو جانا - ذلیل و خوار ہو جانا -
دخرص (کسک) دانا - ماہر کام
مین دخل دینے والا -
دخرطتہ (ففسفف) ظاہر کرنا -
دخریص (کسکس) اتر یعنے جامہ کے
شاخ جامہ اور وہ دو مثلث ہوتے ہیں -

دخشر (فنس) بہت سخت ... ہو جانا
دخش (فس) موٹا مردو پست کا
باریک - جوان - چھپ کسی چیز کا خاک مین
چھپ جانا جیسا کہ چیچڑی کا لکڑی مین
اور اسیلیے چیچڑی کو دخس بھی کہتے ہیں
دخس (فف) خرگوش ... بھی ...
مین ہو ... کہتے ہیں -
دخس (فف) ایک بیماری ہے کہ سم
ستور کی ہڈی کے سرے مین ہوجاتی
ہے یعنی سم ستور کا سوج جانا
دخس (فتف) ایک مچھلی کی مچھلی -
دخش (فف) ... پرگوشت ہونا
دخشم (فسف) ... کالا ...
دخشن (فسنف) ... مزاج
دخص (فنس) درندہ کی نجاست -
بچہ کی نجاست - (ف) درندہ کا یا بچہ کا ہگنا
دخل (فنس) علت عیب تہمت
زمین کی آمدنی جو کہ تم کو حاصل ہو ضد خرچ
دخل (فتف) گٹھا ہوا سخت بدن کا
بے ... گوشت - چارہ کہ درخت
کی جڑ سے اوگے - پر کہ پیوند ... ہو
نیچے داخل ہووے - ایک چھوٹا سا
جانور ہے ہند بلا سعفا حمل (فسکح)

یا کھر کھود جاوے
چشمہ نکل آوے
کہن - ناقہ کہ اونٹون
سب یکسو ہو جاوے
(رکفتف)
(زنک)
لنا اونٹون کو ہانکنا
ی نا دین -
(رکسف)

ستا گاہ

یا یعنی دو نیش دار (خف)
بھگنا مرد ایک
جس سے آدمی کو چپکا کر دیتے ہیں
اور بند کر دیتے ہین
(رکفس) بہت عمدہ - زرہ جسکے
پاس پاس حلقے ہون -
در حال (رکفس) پانی پیتے ہوئے اونٹ
کو دھوپ سے اونٹون کے درمیان
گھسا دینا تا کہ کچھ تو وہ پی لیوے -
کھوڑے کی ایان - بعض مفاصل کا
بعض میں داخل ہونا -

جسکا
پانی جسکی کنارے سے
کھو کر کنار ہو جاوے

[illegible]

دخول [illegible]

دخال [illegible] میں داخل ہونا [illegible]

دخول [illegible]

کا [illegible] جب [illegible] کہ [illegible]

نکلنا [illegible]

دخی [illegible]

دخیار [illegible]

دخیس [illegible]

چوپایہ [illegible]

سی ہڈی [illegible]

تلوے کے گوشت کے درمیان [illegible]

ہر چیز کے [illegible]

تو وہ [illegible]

دخیل [illegible] جو کہ کسی کے [illegible]

میں داخل ہو [illegible]

جو داخل ہو گیا ہو [illegible]

میں داخل کیا گیا ہو [illegible]

جیسے صرف گھاس [illegible]

دخیل الرجل یعنی دخلل الرجل

دخیلاء [illegible]

دخیلۃ الرجل [illegible]

اوسکے دل کی بات

دخیلی [illegible]

[illegible]



خ

دخنج (فسعسف) ایک چھوٹا جانور

جو کسی کے کام

... کرے -

دخل (آ دخل) مرد کی نیت اور اوسکا

... اور اوسکے دل کی بات

دخل ... محبت ... کا اندر کی صفائی

دغل ... (کسنگ) گوشت کا گوشت

میں داخل ہو سے -

دخم ... (فتس) الف فعدسے سے دفع کرنا

---

...تا ضعیدہ م

...دینا - جماع کرنا

...مشک بھرنی -

...پیٹ کرانا -

...نری خبر ظاہر کرنا

...ن یا چھینا - یا چرا

... - ہندی بلاچھ

...کا جو ہر دین اور

...کا متغیر ہونا -

...نے میں ... کی بو ہو جانی -

... بڑھانا -

دخن ... (فتس) ... آگ میں سے ہوا

... ہندی ہو جانا چوپایہ کا -

... الخلق ... بد خو ہے -

دخنات (فسفسفسر) یعنی دخنان (فسفسفر

دخنان (فسفس) گرم دن -

دخنان (فسفس) ایک چڑیا ہے

دخنانة (فسفسف) گرم رات -

دخنة (فسف) ہندی بلاچھ ایک

خوشبو دار دار جس سے گھر میں خوشبو

کرتے ہیں (ک) ہندی رنگ کا ہونا

دخنس (فسنف) ٹھگنا ہر آدمی او اونٹ

بہت گوشت والا اونٹ ٹھگنا بھرا -

[illegible]

ماننیة [illegible]

فارسی [illegible]

در باب [illegible]

کاسے [illegible]

جسکے [illegible] کان ہون ۔

در ثمرہ (فسیمت) خر ۔ عادت [illegible]

وہ کام [illegible] سے [illegible] کا

کو ان ۔ حرکت [illegible] حریص ہوتا

در ثمرہ (کشف) عقاب کہ شکار پر دلیر اور

حریص ہووے ۔

در بچہ (فسیفت) سختی [illegible] نرم ہو جانا

اونٹنی کا اپنے بچے پر مہربانی کرنی ۔

در بچہ (فسیفت) [illegible] کے مارے [illegible]

اپنے بچہ کو نیچا اور ختم کر دینا ۔ بلبل

خوار ہوتا بعد اسکے ہو جاتا ۔

در بچہ [illegible] (فسیفت) [illegible] ہو جانا اور

نا امید ہو جاتا ۔ اپنی بچہ کو بالکل ختم کر دینا

[illegible]

بیماری [illegible] جسمین [illegible]

ہین ۔ در جبتہ [illegible]

در جبتہ (کشف) [illegible]

در رح (رقص) رستہ [illegible]

[illegible]

رستہ چلے جانا [illegible]

مین [illegible]

اسکے گوشت کھانے مین [illegible]

در جبتہ (فسمت) [illegible]

کو شفا ہو

جالینا گوشت کا

کا پیدا ہونا

دریافت کرنے والا

بیش خشکی

زد نار

پشت

ری

سوکھا ناکارہ جانور

کا ناکارہ ہو جانا

مشکلات چلنے والا

بڑا اطلاع رہ کار

بہت گوشت

یعنی خشک، سختیان

یعنی (خشک) بہت گوشت

والا جسم سخت

در رنگ رکنی یعنی جگلی کا بڑا کشادہ

اسکے چیارون کی

سرداب رکھنی جمع راہ

طرف کو جاوے خشک

کرنے کی جگہ

[illegible]

در وجہ [illegible] الوشی [illegible]
مہر کرنا۔ آپس میں ایک ہو جانا۔ [illegible]
میں دو شخصوں کا آپس میں عہد کرنا۔

در [illegible] کسی چیز کا حریص [illegible]
بڑی عمر کا قریب بزرگ ہوا۔ [illegible]
[illegible] کے سبب [illegible] ہوں۔

در [illegible]
اور غرض [illegible]

در [illegible]

[illegible]

در [illegible]
در [illegible] رابطہ [illegible]
در [illegible] ہونے کی جگہ
در [illegible]
در [illegible]
[illegible]
[illegible] اور اسکے [illegible]
[illegible]

[illegible]

پچھاڑی

قسم لوہے کی [illegible]

[illegible]

[illegible] کے

[illegible]

[illegible] کرنا

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] بلا

[illegible] ہاتھی [illegible]

[illegible] رہنے والا فرد

[illegible]

[illegible] ہاتھی [illegible]

[illegible] والا [illegible]

[illegible] ہاتھی [illegible]

[illegible] دانت کا ہونا

[illegible] بڑی عمر

[illegible]

[illegible]

[illegible] کی آواز

[illegible]

[illegible] سی ہو —
در [illegible] جسیم [illegible] بھی [illegible] —
در [illegible] زبان —
در [illegible] اچھی [illegible] والا —
در [illegible] جو [illegible] —
جانے سے [illegible] —
در [illegible] ساہیہ جانب —
در [illegible] —
[illegible] کا [illegible] —
در [illegible] جیسے حبشہ کا اونٹ —
[illegible] —
در [illegible] جیسے حبشہ کے [illegible]
[illegible] سے جھنڈے کو [illegible] —
در [illegible] ہر چیز سخت —
در قاع [illegible] —
در قرع (فتح) ڈھال [illegible]
[illegible] —
در قمع (فتح) اونٹ جیسے پانی لاوین
در قمعرۃ (فتح) تیزی اور جلدی سے
بھاگ جانا سختی سے اونٹوں کا چرنے
میں کوشش کرنا —
در قلع (فتح) ایک طرح کا کپڑا
تار سے بچنے والا مرد —

در قطع [illegible] ایک [illegible] کھیل [illegible]
در قلقہ (فتح) تیزی سے چلنا
پاؤں سے کودنا [illegible] قدم [illegible]
چلنا تابعدار اور فرمانبردار ہو جانا —
در [illegible] کے [illegible]
در قوع [illegible] دل [illegible]
در ک [illegible] جو چیز کہ عوام میں
سمجھ سے ظاہر ہو جاوے [illegible] کی
[illegible] چیز
کی [illegible]
[illegible]
[illegible] کے کنارہ میں باندھتے ہیں
[illegible] چلہ پہنچا —
در کلتہ (فتح) چلہ کا حلقہ جس
کمان کے چلہ کو پیوند دیں [illegible]
کا ٹکڑا جس سے گھوڑے کے اور اونٹ
کے تنگ کو اگر چھوٹا ہوتا ہو تو پیوند کرتے ہیں
در کلتہ (فتح) عجم کا ایک کھیل یا ایک
قسم کی پالکی ہے —
در رم (فتح) ایک درخت ہے —
در رمس (فتح) و رمان [illegible]
(فتح) تیز روی [illegible]
پاؤں [illegible] نرم و آہستہ چلنا اونٹ کا —

ماشندید م

حا جسکے بور ہا ئے

ـن -

ین کے بعد تین

ہوین تا شمار دیتے

تمام سفید -

کی گردن و سینہ

سیاہی -

ن رنیت

زدہ - مذکر ہو

قسنفس

ح

لوز -

رگ

ردن کی

لو سکے جوڑ

میں توڑنے کے -

ہونٹ لعوج ونسفس

کی جسکی گردن اور سینہ

ن سیاہ - رات میں چاند

طلوع کرے وصع وسنح جع

ن کہجور کے درخت کی جڑ

سکے ریشہ مین رہتی ہی - ع

بو لتے ہین ہم تی

جگہ توم کے پانی کے گرد سے

[illegible]

گر [illegible] خط کو تر کرنا اور
پیشانی [illegible] پھیلانا۔
در ورگر (فتش) [illegible] نوشی [illegible]
اور صبح [illegible]
در ورد (فتحتین) [illegible] ابر کا سینہ کو
گرانا [illegible] ہونا۔ [illegible]
پھیر نا تیر کا [illegible] پھیرانا تیر کا
در وسم (فتحتین) گھوڑوں کے نشان
[illegible] کے نشانوں کو [illegible]
حائض ہونا عورت۔
در وص (فتحتین) تیز رو اونٹنی۔
در وم (فتحتین) گنگنی عورت [illegible]
عورت جو ات کو آمد و رفت کرے۔
درہ (فتحتین) ارف اچانک آجانا اچانک
نکل آنا اور نمایاں ہونا۔ دفع کرنا ہانکنا
درہام (کسفس) یعنی درہم (کسعف)
دراہم (فتحتین) و دراہیم (فتحتین) جمع
درہرہ (فتحتین) [illegible] روشن ستارہ
ٹیڑھی سر کی چھری۔
درہم (کسکسا) [illegible] اسکا مجموعہ [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
زمین اور [illegible]
زمین [illegible]
در مہ (فتحتین) [illegible]
[illegible] کی مانند ہو جاتے ہیں
[illegible] (فتحتین) [illegible]
[illegible]
[illegible] (فتحتین) [illegible]
[illegible] (فتحتین) ستارہ
دری [illegible] السّیف تلوار کی [illegible]
دری (فتحتین) [illegible]
(فتحتین) دری [illegible]
جاننا یا کسی حیلہ سے جاننا۔
دری (فتحتین) [illegible] شکار کو فریب دینا
دری [illegible] سے سر کھجانا
دریح (فتحتین) بہیر کہ آسمان کو اوس
وقت کہتے ہیں کہ برسنے کے لئے مستعد ہو
دریاس (کسفس) شیر
دریۃ (فتحتین) یعنی دریئۃ [illegible]
دہ چیز کہ جسپر تیر اندازی [illegible]
سیکھنے کے لئے [illegible]

[illegible]

نیا

چمک

دھتا ب

سش

لونڈی ہونا

قسم کا کپڑا

آنکھ نکلنا

دانتا کی ہونا

جانا چھینکنا

ہونا چھینا

ورنے میں

گھوڑا ہی

سر کا کٹنا

دار فقیر دیدہ

والا فرد

دروازہ وغیرہ

نیلی رنگ سے زیادہ

کھنکار کا بچہ جو مادہ

کا جھنڈا

[illegible] کا [illegible] [illegible] کشتی [illegible]

[illegible] [illegible] چیز [illegible] کرنا

دسن [illegible] [illegible] [illegible]

لگ گیا [illegible] قاشی ظاہر کرین [illegible]

دسمر [illegible] کشتی کا اپنے سینہ سے

پانی کو [illegible] (ضمہ) جمع

دسع (فتح) [illegible] نکالنا قے کرنا۔

بھر [illegible] [illegible] بند کرنا [illegible]

گوشت [illegible] پوشیدہ ہونا [illegible]

جو کال [illegible] سے منہ مین نکالتا۔

دشغان (ضمہ) خراب میانجی جو

عورت اور مرد کے درمیان مین [illegible]

کرے [illegible] (عکس) جمع۔

دسقان (ضمہ) خراب میانجی جو

عورت اور مرد کے درمیان آمد و رفت

کرے سو سانہ (ضمہ) جمع قرم بنایا

دسفہ (ضمہ) قرم بنایا۔ قبا بھی

دشق (فتح) حوض کا یا تنگ بھرنا

کہ اوسکے کنارہ [illegible] پانی باہر نکل جاوے

حوض کے پانی کی سپیدی اور چمک۔

دسکرہ (ضمہ) گانو [illegible] کا

معبد ہموار [illegible] مین شراب خانہ

مجیون کے گھر جس مین شراب اور [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] بھاری [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

دسم (فتح) [illegible] [illegible]

[illegible] سے [illegible] [illegible]

[illegible] کرنا [illegible] کا [illegible]

کو بند کرنا [illegible] چیز داخل [illegible]

جو اوسے بند کر دے۔

دسم (فتح) [illegible] [illegible] [illegible]

دسم (فتح) [illegible] گوشت [illegible]

دسم (فتح) [illegible] [illegible] ہونا [illegible]

دسمہ (فتح) [illegible]

دسمر (ضمہ) [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] بند [illegible]

دہند [illegible] مائل بسیاہی۔

دسمہ (ضمہ) [illegible] دہند [illegible]

دسوہ (ضمہ) گم ہونا۔ ضد [illegible]

(فتح) پوشیدہ ہونا۔

دسی (فتح) گم ہونا۔ ضد [illegible]

دسیع (عکس) [illegible] [illegible] [illegible]

بھی نکالے وہ جسے پوشیدہ [illegible]

[illegible] کہ خبر لاوے [illegible] [illegible]

دسیع (ضمہ) یعنی [illegible]

دسیع (عکس) گردن کی جڑ۔

تشدید م

...رنا ۔ کج
...ہے ۔ بڑا موذی تھا ۔ نب
...تا لعونا کہسے
...ہے ۔
...فرق نہیں کرسکتے
...ایک
...سیدہ کبھی یا ایک
...ہیں ۔ سش
...شہ وغیرہ کا سرپوش
...کے مضبوط باندھیں
...دوست جامہ
...پسند ۔
...یل ہے
...کا معرب ہے
...س ایک کتاب جسمیں
...کل حساب کا
...تعاری ہوں
...جس سے اور نسخے نقل
...شخص جسپر اجرا امور ہیں
...مقصود نفس رساتر
...جو
...ہے ۔
...شکس ایک برتن ہے جسکو تم
...ہیں کشتی کا معرب
...مستعمل اجسمین کل ہی ہو
...شمشیر نیزہ مارنا چھیڑنا ۔ ہانکنا

[illegible]

[illegible] سیاہ [illegible]

دعاح (رفسیف) ایک جنگلی درخت [illegible]

[illegible] مانند [illegible]

[illegible] ہے ۔

دعاج (رفسس) [illegible]

دعاع [illegible] (رسف)

[illegible]

دعاص [illegible] شرطی

دعاظ [illegible]

دعاکم (رضسک) جمع [illegible] کا سردار [illegible]

کا [illegible] اچھا دکریں [illegible]

دعاۃ (رفسف) پیاسی ۔

دعب [illegible] مشغول ہونا ۔

دعب (رفس) (رف) ہانکنا جماع کرنا

مزاح خوش طبعی کرنی ۔

دعب (رفسعن) بامعنی خوش طبعی

اچھا گویا جوان نازک بدن سنگ [illegible]

خوش طبع مرد ۔ ایک گھاس کا بیل یا عنب الثعلب

دعثع (رفسعف) [illegible] کی آواز

دعبل (رکسک) مینڈک کا انڈا [illegible]

اونٹنی بچہ [illegible] اونٹنی ۔

دعبلہ (رفسعف) [illegible] اونٹنی بچہ ۔

[illegible]

دعثث (رفس) (رف) [illegible]

[illegible]

فراخ [illegible]

[illegible] مستعمل ہے ۔

دعث (رکس) [illegible]

پانی [illegible] اور عات [illegible]

دعاث (رکفس) احمق ۔

دعثر (رفسعف) احمق ۔

دعثر (رکسعف) [illegible]

تا تشدید م

ملتا تیز ہانکنا دفع کرنا

یا انکشف جس

کو چھوڑ دے

اوس شخص کو

یعنی او ٹھہ کھڑا ہو

سے جو چاہیں

چوری کرنا ملانا

اسکا لام ہو

اسکا عل ہو نفع

ستان میں چھوٹ

سے اور آو نعم کہنا

بانڈ

ہی دعاب نفس

بازی ہی ٹھٹھول خوش

سکالی چیونٹی

ہتھیلی او نگلی

ایک گھاس ہے

پانی میں رہتا ہی اوسکو

تقسیم رقسمت تیا ہی سکا سی پلید

تقسیم انقسمت ہاتھ کی لکیری

مرد کے آل عیال چھوڑے

[illegible]

نشان ... جس میں نشان ہیت

ہوں ... ہوا ہو۔

و عس کی (کس) یعنی عیس (کس)

معنی ... ایک قسم کی گھوڑا۔

و عشبہ (فسعف) ایک ...

و عشیمہ (فسعف) ...

و عشرہ (فسعف) ... شتاب۔

و عشقہ (فسعف) ...

و عشعہ (فسعف) حملہ کرنا ...

دونوں کو پامال کر دینا اور ... الٹنا۔

او ... کا راست اور درست ہونا۔

رفتار میں ... آگے آنا۔

پیچھے جانا یا ہٹنا۔

و عشوقہ (فسعف) ایک چھوٹا سا جا

و عشوقہ (فسعف) ایک چھوٹا سا

جانور ہے۔ یا ایک چھوٹا سا جانور ہے

سر گیں ... کے مشابہ ہے۔

و عص کی (س) و عصعہ (فسعف) گول

[illegible]

و عکا (فسعف) ...

و عنظ (فس) ... تمام ...

میں داخل کرنا۔ پکڑنا۔ ایک ...

چیز میں سمانا ...

و ... (فسعف) ...

... ہو۔

و عس ... (فس) ...

...

و عقعقہ (فسعف) ...

و عقفہ (فسعف) ہجو ...

و عقی (فس) کتا ... ہونا ...

و عق (فس) (رف) رستہ کو ...

پامال کرنا ... کو پراگندہ کرنا

... ٹال کر جلد چلے

... کرنا ... کا ...

پامال کرنا ... کہ اوس کے ...

ٹوٹ جاویں۔

و عصعہ (فسعف) ...

[illegible]

ا تشدید م

ے کلمہ ہے جس سے

میں
شستگی کے ساتھ

یزی پر آواز
یا تا تا کہ خوف ظاہر ہو
ی میں سے دھواں
ا جاوے اور
ا دینا کام کو
ری کو کھا لینا

ری پلیدی
ی میں سے
ا ہیں چقماق

سختی۔
یعنی دعر رفف)
صورت ٹھنگنا ناکا
پر ٹکا پھر خوردہ پانی
بندی اور تیزی میں
کھنا۔
کینہ۔
دفعۃً اکھڑنا۔ جلاع کرنا۔

ج

[illegible]

اور کالا ... [illegible] ... پیدا ہوتا ہے اور
قادسی ... [illegible] ... ہین دعامیں
(رفسلکس) ... [illegible] ... (فعسلکس) مجع
کاموں میں ... [illegible] ... دخل دینے والا ۔
بادشاہوں ... [illegible] ... کرنے والا ۔
دعموط (فتعس) بدخو ۔
دعمی (رمشکت) ... [illegible] ...
سخت ... [illegible] ...
یا سر ... [illegible] ... ہو ۔
دعن (رفس) ... [illegible] ...
... [illegible] ...
دعنک (رنکک) بدخو ۔ بدغذا ۔
دعنق (رفتسعت) ... [illegible] ...
دعنکر (رفسعت) دعنکران (فتعس)
ناگاہ آنے والا ۔
دعوة (رنسعت) سوگند ۔
دعوة (رنسعت) ... [illegible] ...
دعوة (رکسعت) ... [illegible] ...
دعوش (رفتس) ... [illegible] ...
دعوش (رمشکت) ... [illegible] ...
لفظ حرف نفی ... [illegible] ...
چنانچہ ... [illegible] ...
ہر ... [illegible] ...

دعر ... [illegible] ...
دعو ... [illegible] ...
... [illegible] ... جب ... [illegible] ...
... [illegible] ... جب ... [illegible] ...
... [illegible] ... بستان میں ... [illegible] ...
اور ... [illegible] ... سیب ... [illegible] ...
دعک (رمکت) ... [illegible] ...
... [illegible] ... اپنے نسب میں ... [illegible] ...
دعاق (رفسکس) ... [illegible] ...
دعام (رمفس) ... [illegible] ...
دعامر (رفسکس) ... [illegible] ...
... [illegible] ... بالکل ... [illegible] ...
دعجم (رنسعت) ... [illegible] ...
لاتا ... [illegible] ... نعمت میں ... [illegible] ...
دعت (رفس) ... [illegible] ...
دعز (رنسعت) احمق ۔
دعدعة (رنسعت) ... [illegible] ...
... [illegible] ... کسی چیز کو ... [illegible] ...
مشک کے بند کو ... [illegible] ...
لیے کسی چیز کو آہستہ آہستہ ... [illegible] ...
... [illegible] ... عورت کی ... [illegible] ...
کی ... [illegible] ... کے وقت ... [illegible] ...
... [illegible] ... کی خارش ۔

[illegible]

شدید م

ور پکڑے ہوئے

جان ستاریکی

چھانکنے سے رستہ

پانو کا نشان

ض مین پانی جمع

اریکی - بہت لینا

نا لہر مین دور چلا جانا

رنا - ایک چیز کا ڈہونڈھنا

موٹا پا -

ستون لگانا - اینٹ

انے کو عورت

ا کہسانا پانو سکو

ستون لکڑی جیسے انگور

عم رکہنا جمع

پانی کا حوض ناک سانس جانا

تمام ذکر کو فرج مان

ا کہانا -

گہر کا ستون لکڑی جیسے

کہین ڈعم رکہنا جمع

نفس ایک چھوٹا سا

ایک لیرا ہو کہ تالا ہو تھوڑے چکہ

تا شد ہے ۹۴

عفار

کا شیر

گوشت کی ہانڈی

زندگانی فراخ و کشادہ

بہت پانی بہانا

یا پرستا

بھتی یا بھیڑے کا بچہ

فساد و تباہی

لیکھے ہوئے

سنگی جیانا

فیصل ... غل

کھونا

فضیحت بہت ہونا

بطور وہ کھوٹ

گرد گیا نسبت

[illegible]

ی تشدید ہو

کی وطرف

گر . . پست کر

ہوتے ہیں

تے ہوئے

جمع ـ

کا شیلا استفادہ

جلدی کرنی ـ

یتا ـ یا زمین

ن کو ہلانا

ہنا کا سینہ پر

لجی ـ

میں ادبی جانا گھاس کا

سے پڑجاتے ـ ذلیل

تی او غرفہ

گوشت کھایا دین لشکر

گی کی بو آوے ـ

بہت سستی افعال

زمین ـ

پارہ پارہ کرنا

اپنے عملوں کا

سے جھوٹی کرتا ـ

ج

ت تشدید مرد

کہیں گھر ٹھہر

ت الاموت

پہلا بخار

کا بچہ

توڑنا یا جلدی

رکردینا

برسات

ٹکرا توڑنا

والا

سے

خاک جو زمین پر

قسمِ رضف جمع

مٹا دی کا

ملک جس نکال

توڑنے کا لالہ

چھوٹا صندوق

چڑھے

نچے ہوئے

[illegible]

پاپر چبوترہ جس پر بیٹھے ہیں

ودکڈگ رفعت بیت اوپر کے جا بیٹھا

یا زمین سخت سے کاو کر (ہٹ گیا)

دکاو یک ... کس ... ہیچ

دک ودکن کس کس ایک کلمہ ... 

مشق کو ... ہیچ

دکر ... کس ... شرف

حبشیوں کا ایک گروہ ہے

دکس ... کس ... [illegible]

بیت سے مصالح ...

دکشہ رفعت ... [illegible]

دکبہ رفعت کسی کے ... [illegible]

... گردن ...

دکیلہ ... گروہ

دکیت ... کس تمام ... [illegible]

دکیتا ... ہو ... [illegible]

ایک چھوٹا سا ... 

دلچ رفعت ...

[illegible]

ولنج [illegible] سمجھا ۔

ولحیۃ (شعنہ) [illegible] سے سریں [illegible]

ولحمۃ (کسفت) [illegible]

ایک [illegible] شکر [illegible]

نیند [illegible]

ولیال (کسفتس) [illegible]

[illegible]

اوسکا پتا [illegible]

ولعل [illegible] پشت پا [illegible]

[illegible]

دلشکا [illegible]

پیرانی [illegible]

دلشتہ [illegible] جسکی [illegible] گئی ہو

[illegible]

سینہ میں [illegible]

ولنظم [illegible]

ولنظم [illegible]

[illegible]

ن سند پدم

رشتری کو

یا

خشک ملال

ت -

ضعف (ن)

گرواری کی نفوت

پیر سے واب لینا

تابہ پیرتے کا -

سیاہ -

خرید -

ن یعنی دلمز

مع -

بدصورت

لمس ضعف (

چمکدار -

رخت -

خت چنار کا سیاہی

بیشہ کو خم و پست کرنا -

ی) ایک گھاس -

من او منی کے ضعف سے

نسخہ جسکو ... کا جز

دلکث [illegible]

[illegible]

دلگث [illegible]

دلم [illegible]

ایک [illegible] سانپ کی

شکل [illegible] سانپ جو

سختی [illegible]

آنشہ [illegible]

قسم کا [illegible]

دلم (کغف) [illegible]

ساتھ [illegible] کا ہونا

دلمش (ضف) [illegible]

دلماکو (فتح) [illegible] تیسوں رات [illegible]

دلمشت (فتحک) [illegible] ہونا

دلمخز (کغف) [illegible] وسیلہ

دلمز (فتحک) [illegible]

بدن کا [illegible] دار۔

دلمزۃ (فتحک) [illegible]

لمس [illegible]

المعش [illegible]

المعش [illegible]

آنکھ کے بال [illegible]

لمظ [illegible]

[illegible]

ولح (فتح) [illegible]

چال میں [illegible] کرنا

دوران [illegible] کو خالی کرنا۔

ولح (فتحتین) [illegible]

ولح [illegible] جمع

ولح (فتحتین) [illegible]

[illegible] کہ چھوٹے چھوٹے قدم [illegible]

ولح (فتحتین) [illegible]

درخت۔ موٹا اور خشک۔ ولخ (فتح) [illegible]

ولخ (فتحک) جمع۔

[illegible] (فتحتین) حرکت کرنے [illegible]

تا شکست

علمی غائب کرنے والا

[illegible]

دلفگار

آہستہ آہستہ

آگے آنا

لفظ یوسف

پرندہ

جانور

[illegible]

میان سے آسانی

کو میان میں سے نکال لینا

دانت گر جانا

[illegible]

ہستی

ج

[illegible]

[illegible] سے تیار کرتے ہیں [illegible]

[illegible] گل [illegible] کا ہیں کے [illegible]

[illegible]

[illegible] مشابہ [illegible]

[illegible]

گلاب [illegible] کے مشابہ [illegible]

[illegible] شیرین [illegible]

[illegible] ایک [illegible]

[illegible]

[illegible] (رقص) [illegible]

دلیل (رقص) راہ نما۔ [illegible]

[illegible]

مریض پر [illegible]

دلیل (کشف) [illegible]

یا راہ [illegible] علماء [illegible]

[illegible] (ومزان)

[illegible] حق۔

دُم (رفت) ایک [illegible] بی

دُم (رفت) (ران) [illegible] کرنا [illegible]۔ [illegible]

[illegible] کرنا جیسے دم الکت۔ کپڑے

[illegible] جیسے [illegible] کشتی میں

[illegible] جیسے [illegible] السفینۃ [illegible] آنکھ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] کے مشابہ [illegible]

[illegible]

[illegible]

دماء [illegible] (رقص) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] کے مشابہ [illegible] کو [illegible]

[illegible]

[illegible] (ضعف) [illegible]

[illegible] پوشیدہ [illegible]

اور [illegible]

دماء [illegible]

دماء [illegible]

تشدید دال

ث فیفسک

شیر = مرد جری -

جلدی شتابی پیشدستی

الورد ہندیلا -

سے جسکی عقل

یش -

دلیر و دور اندیش مرد

امر مشتبہ ہو غیر

ذات چالاک ہلاک مرد

گشتہ و پریشان ہونا

رستہ -

رفتار مین اپنے قدم

بمعنی پگڈنڈی - روشن نرم

دی -

بمعنی سلاطین اور بادشاہون

بمعنی نکالا ہوا -

بمعنی کشادہ اور نرم رستہ -

بمعنی دنیا کی رفتار

بمعنی دوڑ قیدیون کی

بستہ چلنا -

بمعنی تماک جسے ہوا لیجائے

ج

[illegible]

[illegible]

نسخہ دیدہ م

...یں -
...شہور جیسے انکھ
...سو کے
...پیشانی پر
...وسے ابر

...سی -
...یر - بوسیدگی
...غت کو الجھاوے

... الا -
...یمی حقیر ٹھکانا
...یا احاطہ اندر

...ں

...ایک پیل آ گئی

...انا خون -
...نم ہو جانا -
...یا نہان کی غرض سے
...کا وسط
...ف)
...بہلا ہونا بیان کا
...ی -
...کا جوڑ -
...[illegible]

ح

[illegible]

[illegible] تشنہ دینا

[illegible] گرمی و تعفن

[illegible] پیاس بجھانی

[illegible] سوکھی

[illegible] دینا - پاک صاف

[illegible]

[illegible] سخت - قوی [illegible]

[illegible]

[illegible] کسی حصے

[illegible] پھوڑا پکانا

[illegible] کسی حصے

[illegible] تعفن اس

[illegible] قوت

[illegible] اور

[illegible] ریاح

[illegible] سودا کا دل کو اچھا کردینا اور

[illegible] نرمی کرنی -

[illegible] پھوڑے کا اچھا ہونا -

[illegible] یا [illegible] - [illegible]

[illegible] کام کی ہواری [illegible]

[illegible]

[illegible] گزشت [illegible]

[illegible] ٹہکانا -

[illegible] چمکدار -

دناستہ (فتح) پیتاک ہوجانا۔
دناقیس (فتح) بدخو۔
دنامتہ (کسرتین) یعنی دنمہ (کسر)
دناکوہ (فتح) قرابت اپنایت۔
دنش (کسر) گھگنا۔
دنسیمر (کسر) و دناسہ (کسر) گھگلا
دنبج (فتح) بد خلق۔
دنتر (کسر) ایک چھوٹا چوپایہ
جسکی ... ہے
دنبج (فتح) عقلا و اشتما لگ جو
دنبج (فتح) ...
دنخ (کسر) تصلیب کی ایک بیماری
دنحجہ (فتح) خیانت۔
دنحسیج (فتح) بہت گوشت والا
دنحان (فتح) الن بھاری بوجھ
کے سبب بوجھیلی طرح چلنا۔
دندک (فتح) لوک کے عیب چلے تو
اوسکا گوشت مثل لپے سے ہلنے لگے۔
دندم (کسر) بہت کالی گھاس۔
دندن (کسر) کالا چارہ سوکھا ہوا
یا درخت سیاہ خشک صلیان گھاس
کی جڑ۔ ہلکی آواز کی بات جو سنی نہ جا سکے
دندنہ (فتح) کھی کا آواز کرنا آ...

رفت کرنی کھی کی بھنبھنا ...
آواز۔ ہلکی آواز کی بات جو سمجھ
ہلکی آواز سے بات ... سمجھ میں نہ آنے
دنس (کسر) رنگ میلا ہونا۔ ...
... دانس ...
دنیس (فتح) ...
دنش (کسر) الف ... ہیک
دنش (فتح) بد ... ہیبتاک ہونا۔
دنع (فتح) ... چیز کو ...
سے ... اور ... عوج ...
کہنے (س) ... کا ... ہونا ...
... ہونا ...
عاجزی کرنی ... خواہش ...
اور بخیل ہونا
دنغ (فتح) کمینہ اور ہیچ مرد۔ دنغہ ...
جمع ... بخیل۔
دنغ (فتح) کمینہ اور ہیچ مرد ...
دنف (فتح) ہمیشہ بیمار ... مرض
دونوں۔ واحد و جمع یکساں ہے۔
دنف (فتح) (س) بہت بیمار ہونا
آفتاب کا غروب کے نزدیک ہونا اور
اوسکا زرد ہونا۔ کسی کا مرگ کے نزدیک ہونا
دنفاس (کسر) ... قناس ...


ح

ستانشد ہو م

یم خوب

ی معنی میں دیتی ہوں

پن

سونے والا

ش (رفت)

دہ جسکے

اصل آگیا ہو

چوڑا سینا

ست عام

ہی کہ جسپر

سد دائم

جمع ٹوٹی ہوئی

سلا گیا ہو

ہے کا بل

خوشامد کی جمع

کڑا ہو جانا

ارن جہنیہ

اور حقیر ہونا

کام کو سفید

ملادیا ہے کہ خود کی شکنین

ج

[illegible]

دوی [illegible]

ساقذراین کا چھلکا شحرفہ کا پوست

دوا ج ضفس [illegible]

دوا ج ضفس سکاف

دوا خن ضفس [illegible] اور چھاچھ اور بھیجی

کے سوزن [illegible] پہچان سکے

دوا ضفس [illegible] سوکھی بجلی

تیز [illegible] والا مرد

دوا دم ضفس [illegible]

پانی [illegible]

دوا شحر ضفس [illegible]

قوی قوی جثہ

دوا [illegible] الاکبر [illegible]

دوا لیک ضفس [illegible]

[illegible] ایک کا م [illegible]

دوا لیک ضفس [illegible]

[illegible] کے لیے سمجھا

دوا ام ضفس [illegible]

دوا ام ضفس [illegible]

ج

تشدید م

سینہ اور گردن کا

تردد کرنا
زن آہنی

(فعسف)

ہونا۔

بیدار ہو جانا۔
(فعسف)

پیچے گیند نفقہ کی

غش جمع ...ینا

دیکھ حقیر

مولید مبارک۔

جہان ضد کرنا

بمعنی نرد دیکھ۔

قاضی صاحب کی ٹوپی
تشبیہ دی ہے

کہتے ہیں۔

عیب ناقص بات

بمعنی عقل

بمعنی رنج و غم

جمع کرنا

ج

شدید م

نا ہوجاتا شہر پر
تی قالو پاتا -
قیون کی جھولی

تی جا
وارنہو کا کھانے کا
وا جھولا گہوارہ بچہ کا
دو درمنس)

ی لڑکی -
گلا سوجا ستا ہے
جلا دیوے -
ین قضیب جسم ) ن
سمین مقابل اوردروسی ہو
فوضس) رن بچہ منا
ین مبتلا ہونا -
گوشتہ در گھر جلا شہر الکا
تین یا چار رطل بغدادی کی
بچہ میں قسط ہوتا ہی
جوان عورت ٹھنگنی بدقد کا
) کولی -
غس ضعیف گردنی رنگ پچھڑا ہوا لے

ج

[illegible]

دوری [illegible]

دوری [illegible] کو لگی

دوری [illegible] کو لگی -

دوری [illegible]

احمق مرد - اپنی [illegible]

[illegible] -

دوری [illegible]

[illegible] ہونا - [illegible]

دوری [illegible] ہوا کا چلنا [illegible] -

دوری [illegible] -

دوری [illegible]

[illegible] -

[illegible] -

[illegible]

[illegible] کے موافق [illegible] -

ا

ج

[illegible] ہے

[illegible] قفس کو کہتے ہیں

[illegible] یا بطیس

[illegible] ہنسانا کا پھر دانا

[illegible] کی گردش

[illegible] جس کے لئے اور جو

[illegible] بالفتح مرد و گرد

[illegible] ہ ایدا کن

[illegible] رفیع تا ہوتے

[illegible] بالضم کہتے ہیں

[illegible] لعل رضعت

[illegible] بالفتح جانور کا

[illegible] ا دنت کے

[illegible] بلا

[illegible] یا گھر یعنی بچھانا

[illegible] وسیلہ سے اور سر کی

[illegible] وسیلہ بنا کر نے

[illegible] فراخ و نرم رستہ ہے

[illegible] کلی سیپ جب لو

[illegible] کرتے ہیں یعنی سرسیں

[illegible] بیچ میں کئی ہو لسا

[illegible] کی کے بیا نشیا جانا

ج

[illegible]

[illegible] لڑکپن

[illegible] ہمت –

[illegible] زنانہ [illegible]

[illegible] زنانہ [illegible]

دھڑ [illegible] (صفت) [illegible]

دھرس (صفت) سختی – [illegible]

(صفت) [illegible] بیکلی – خوشی

دھرتی (صفت) جو کہ [illegible]

[illegible] عمر کا مرد –

[illegible]

[illegible]

[illegible]

دھسنی (صفت) سرخی سیاہی مائل

دھسا (اسم) [illegible] سرخ [illegible] سیاہی

مائل – جیسے سرن کی [illegible] سرخ

زمین سیاہی مائل –

دھستہ (صفت) سختی [illegible]

دھسمہ (صفت) ایک چیز کو چھپانا

دھش (صفت) حیران جس کی عقل

جاتی رہی ہو

دھش (صفت) حیران و پریشان

ہوا [illegible] عشق کی

سرگشتگی سے عقل جاتی رہی –

[illegible]

[illegible] ع –

[illegible] ع وبال –

[illegible] ع وبال

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ہوا [illegible]

دھدہان (اسم) [illegible]

دھدھر (اسم) [illegible]

[illegible]

دھرن (اسم) [illegible] زنانہ کے [illegible]

سے ایک نام – زنانہ دراز ہمیشہ

ہزار سال کی مدت – دھرن (صفت)

دھوند (اسم) [illegible] زنانہ کی سختی [illegible]

[illegible] علیہ [illegible]

دھر (اسم) [illegible] کسی چیز کی [illegible] سبب

[illegible]

[illegible] بیکار

[illegible] بیکار و نشٹ

[illegible] رکھنے والا ۔ ہر چیز

[illegible]

[illegible]

تصنیف

[illegible] جمع دہندہ [illegible]

[illegible] شیر ہونا [illegible] کا

[illegible] شیر ہونا [illegible]

[illegible] کشادہ [illegible] نرم

[illegible] بیکار و نشٹ

[illegible] والا

[illegible] لشکر [illegible] ہوا

[illegible] پڑنا

[illegible]

[illegible] کرنا

[illegible] شیر سخت نرم

[illegible]

[illegible] ایک کلمہ [illegible] جس سے

[illegible] نشین

[illegible]

[illegible] ایک [illegible] کی رفتار

ج

[illegible]

دہلی آگرے کے [illegible]

[illegible]

شہر [illegible] تھا ۔ اگر [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

شہر [illegible] وقت میں [illegible]

کی [illegible] فرنگ میں [illegible]

اور شہر [illegible] واقع تھا واحسرتا

مگر اب بھی اس جواب [illegible]

دینا ور سے ایک جامع مسجد اس

میں ایسی ہے کہ [illegible]

دہلی [illegible] دروازہ

اور [illegible] میں [illegible]

کے [illegible]

[illegible]

دہم [illegible]

[illegible]

چہارم [illegible] سبب [illegible]

[illegible]

دہم [illegible]

دہشتم [illegible]

[illegible] پیدا [illegible]

سن کا حال تشدید م

مزروع مال
ست [illegible] کے پوست
اچھا یہ [illegible]
[illegible] صاف ہووے
[illegible]
دہقان کرلینا

[illegible] سن نزدیک گھوڑ

[illegible] بنا [illegible] زمین کو

[illegible] ھلنا

[illegible] کی ملا
[illegible] کا پانو سے
[illegible] سوا ایک [illegible]
[illegible] میں
[illegible] کی عمر کا بڈھا
[illegible] بہو جہد [illegible]
[illegible] ده
[illegible] وہ کہ جسکی [illegible]
[illegible] کرین
[illegible] اچھا یہ کی کھال کو
[illegible] بے بال مونڈنے
[illegible] سقف [illegible] کے [illegible]

ج

دھوسل (فتحتین) شہر ونشہ
دھوکنا (فتحتین) ہیبت خوردہ شدن
دلانے والا عہد (فتحتین) ج
دھی (فتحتین) [illegible]
دھوار (فتحتین) ج
دھی (فتحتین) [illegible]
کا دواکی ... [illegible]
دھی (فتحتین) ... ہوشیار ہونا
دھی (فتحتین) ... [illegible]
رکھنا ہوشیاری کی [illegible]
کرنا کسی کی عیب ... [illegible]
یا آفت لوٹ ... [illegible]
دھسنا (فتحتین) [illegible]
دھیمادر (فتحتین) آفتاب ... بلا
دھجی (فتحتین) کم شیر ... پچھلی
دیا ... تیل کی ... [illegible]
دیمک (فتحتین) بیلار مرد
دیابند (فتحتین) یعنی دیوودرہر
دیا شہ (فتحتین) نرمی ... [illegible]
دیاجی ... رات کی تاریکیاں
دیچاو (فتحتین) ج
دیار (فتحتین) صاحب دیہ
دیار (فتحتین) یعنی ... [illegible]

[illegible]
دیا ... (فتحتین) [illegible]
دیا ... (فتحتین) [illegible]
[illegible]
دیانتی (فتحتین) [illegible]
کا تی نگہبان ... [illegible]
محاسب سپاہی دین ... [illegible]
والا ... کسی چیز کی ... [illegible]
یا ... کے ساتھ ... [illegible]
دیا شہ (فتحتین) [illegible]
دین داری ... [illegible]
دیانج (فتحتین) [illegible]
دیانج (فتحتین) دیانج (فتحتین) [illegible]
جمع جوان اونٹنی
دیاجہ (فتحتین) [illegible]
دیاجبان (فتحتین) [illegible]
دیوتہ (فتحتین) [illegible]
بیان کرنے والا ہونا ... [illegible]
دیوفر (فتحتین) ... [illegible]
دیابند (فتحتین) ج
دیتہ (فتحتین) [illegible]
جمع ... [illegible]

تشدید م

ا بان ایک گھاس

ا

چھوٹا سا تیل

ت (کھنس) جمع

کی مانند ایک چیز ہو

ی ہنج (فسفا)

پر حصہ میں کچھ زیادہ

ح چلتا پڑے کا

م پاس پاس لکھ کر چلنا

ور منا کاٹنا

چلہ کو نرم کرنا

نرم کرنا یا کسی چکانا

کیا مرکا آ پڑنا

میں سے ایک دن

ہوتی تھی

(خنکس)

ی اور فراخی کے

صفت کم کرنا اور پہاڑوں

میں ایک کرتے ہیں

اور سینے لعالہ

دیوار کو دھکیلتا کر

نیا بنانا

سکت (صفت مرد

ج

[illegible]

[illegible]

وشیشی (ف) صف، چاندی کا خوان لگا
رستہ جس میں چاندی سے پھول ہوا [illegible]
لگائے [illegible]
جو صاف سفید چاندی کا بنا وین۔
حسن و جمال۔ سپیدی۔
وشیم (ف) صف [illegible] بچہ جو [illegible]
پیدا ہوا ہو [illegible] بچہ [illegible]
بچہ [illegible]
[illegible]

[illegible]
دیکھنی (ع) ایک جانور [illegible]
دیکھنی الاکرم [illegible]
ویکسی (ف) صف [illegible]
دیکسی [illegible] یعنی [illegible]
دیکسا [illegible]
دیگ [illegible]
[illegible] ایک جانور [illegible]
دیلم (ف) صف، ایک گروہ [illegible]
لوگوں کی جماعت [illegible]

سوگئی لیٹی ہوئی گھاس
و تر سفس

وان فسقفس

حرف نگاہبان
ھا کھنی دیدبان تبنسف
ہیں عربون کا

الدو اونٹ

عادت
ہیں ایک آواز ہے
الی ہے اصل اسکی یہہ
رے سکھنے لیے اب تک عدی
اعرابی نے اپنے غلام
اسکی اونگلی دانت سے کاٹ
ام چلتا تھا اور دمی دی
اوس سے یا ئدی ہی ہر اور
ہتا تھا کر ای ہاتھہ تیرے
ہاتھہ تیرے الغرض غلام کی اس
آواز پر اونٹ جست ہو گئے اور جب
چلنے لگے جب مالک نے یہہ حال دیکھا تو

[illegible]

ذائب دمن ... عیب۔
ذائب ... [illegible]
[illegible]
غرض ... ذائب ... [illegible]
مین ... کرنے والا قول
ذائر ... [illegible] کرنا۔
ڈرانا ... سے ... کرنا ... ہٹنا۔
حقیر جاننا۔ ہموار کرنا۔ پامال بنانا۔
لڑکی کی زلف بنانی۔ رفتار مین تیزی
اور جلدی کرنی۔ ملامت سخت آواز
سلامت کرنی۔
ذاآبہ رفستف ... مکر و فریب
و بد ذاتی مین بھیڑیے کی مانند ہونا۔
بکریون مین بھیڑیے کا آپڑنا۔ ڈرنا۔
بھیڑیے سے ڈرنا۔
ذابح الشک چوپایہ کے گلے کا

[illegible]
... مین ... [illegible]
اور ... مین ... ایک ... [illegible]
ہے ... دونون مین سے ایک کی ...
... ایک چھوٹا جانور ...
ترجیح کرنا ہے
ذوات رشک ... [illegible]
ذوات ... [illegible]
قیلا ... [illegible]
ذات الشئ چیز کی حقیقت۔
ذات الصدور دلکی چھپی باتین۔
ذات الجنب ایک ورم جو سینہ
کے گرد ہو جاتا ہے۔
ذات الصدر ... سینہ
مین ایک ورم ہے۔
ذات الکبد جگر کی سوجن۔
ذات الرئیہ پھیپھڑے کی سوجن۔

تا تشدید م

دت کام عبادات

ہر م چیز خوانی

بیغت عزت

ده سلاری خیر کہ

ہے

و سب

راہ کہ خاص جگہ

ہمیشہ وہیں ہے

ہیدار قوم

عزت ہونا خوار ہو جانا

کا خوگر ہونا بیمار ہونا

ناشتہ سونے کا ہونا

جیسکی اداکی

کانی

جہان کتابیں لکھی ہوں

ایک کتاب جسمیں لشکر

لکھے ہوئے ہوتے ہیں

دنیا میں کس جگہ

شخص جو اپنی عورت کے

غیرت نہ رکھے

کوئی

ہمیشہ برقرار ٹھہرا ہوا

بیمار عورت

تمام شد باب الدال مہملہ

ذو [illegible]
[illegible] سے [illegible]
ذا رعو (فشک) خراب کی پھلی
مشابہ [illegible] ذوالفرع (فشک) جمع کر
کرنیوالا [illegible] والا
ذا رغلطس (فشک) [illegible]
ذا طرش [illegible]
فرج کرنا [illegible] گلا گھونٹنا
[illegible]
ذا رعو (فشک) [illegible]
ذا عط (فشک) چھوٹ [illegible]
ذا غیہ (فشک) [illegible]
عورت [illegible]
ذا فان (فشک) [illegible]
(ف) [illegible]
ذا قنہ (فشک) جو چیز کہ ٹھوڑی کے
نیچے ہو - یا حلق کا سرا یا جبر گردن
یا پیٹ [illegible]
یا سینہ کا کنارا پیٹ کا اوپر
مشک [illegible] تیز اور بلند بو کا مشک
ذا کرہ (فشک) قوت حافظہ
ذا کیہ (فشک) [illegible] ذکی
ذال (فص) ایک حرف حرف

[illegible]
ذالان (فص) [illegible]
ذوالین [illegible]
ذوالان (فص) [illegible]
یا لو [illegible] تیز ہی گرمی - یا [illegible]
[illegible] سے چلنا
ذا [illegible] (فشک) [illegible] سمجھنا
لقب ہے بیفائدہ کلام
ذا (فص) (ف) کسی کو [illegible]
[illegible] عیب لگانا [illegible]
رسوا و فضیحت کرنا [illegible]
ذامہ (فشک) [illegible]
ذامر (فشک) [illegible]
ذامی (فشک) [illegible]
ذاال (فص) عیب
ذاہب (فشک) [illegible] چلنے والا
ذاو (فص)، ذاہی (فص) [illegible]
دور کرنا [illegible] کو دفع کرنا [illegible]
جماع کرنا - [illegible] مرجھا جانا
ذاوہ (فشک) [illegible]
ذاوی (فشک) مرجھایا ہوا
ذاہب (فشک) جانے والا

ج

ے متفرقہ لیوہ

ے بکا پانی ہمیشہ

ر بکا بڑے نہیں

بار۔

سوط جسیم اونٹنی

رشت کا نام

تیسرے گرکا گھونٹنا

عین زور سے دم

ہنا۔ یا تھوڑا

نیادو سے ری

کرنا۔ مشک کو

ی چھونک مارنی

ہونا۔ ذخیرہ

(دھنگیت) یعنی خوشہ کی

ہے۔

وانا (س) ڈرا۔ عار و ننگ

ی کی غصہ کیا۔ اور سعدی

چلے ہے

ایک چیز کو ناپسند رکھا

اور اس سے نفرت اور اعراض کیا

بالا مزہ ہو گیا ہوا۔

ج

[illegible]

ذباح (ضفتح) [illegible]

یاد کرنا سبق پڑھنا۔

ذبالہ (ضفتح) [illegible]

اور پیٹ کی طرف سوراخ کرنا۔

ذبالہ (ضفتح) بتی سوبال [illegible]

ذبالیہ (ضفتح) بتی۔

ذبب (فتح)۔ ذبوب (ضم)

ہونٹھ کا پیاس سے خشک اور پژمردہ ہونا

ذبح (کسر) جسکو ذبح کریں

ذبح (ضفت) ایک طرح کی کھنبی ہے

[illegible]

ذبح (کف) ایک طرح کی کھنبی۔

ذبح (فتح) ذباح (فتح) [illegible]

گلا کاٹنا گلا گھونٹنا۔ [illegible]

سوراخ کردینا۔ ڈاڑھی کا لمبا ہوجانا اور اسکا

[illegible]

پڑھنا۔ کتاب [illegible]

[illegible]

ذبر (فتح) [illegible]

ذبر (فتح) کتاب جو آسانی سے پڑھی جاوے۔

ج

ہے مرد جو

قت رکھے اور

ہے

مرد جو اپنے حریم

ے

شہد کی مکھی

ہے اذیت کشف

منت رجع

آنکھ کی پتلی

فصل بہی

تلوار کی تیزی یا

اور دونوں طرف

تیلا

ن کنارہ گوش کی تیزی

سیلا شگوفہ مہندیکا

آنکھ کی پتلی

دانتوں کی تیزی

(مصنف) ترس وغیرہ کا لقبیہ

(مصنف) پژمردہ ہونٹھ

سیاس وغیرہ سے

(مصنف) آنکھ کے حلقوں سے

ٹھیکری کی برآمدگی جراحت وغیرہ سے

(مصنف) دبلی پتلی لڑکی

ح

علامات عرب ... [illegible]

[illegible] ... کرنا

ذ ... (بفتح) ... [illegible]

ذخیرہ (بفتح) ... جو چیز ... بچا کے اور ... رکھے

ذ ... (بفتح) ... [illegible]

ذخیرہ (بفتح) ذخیرہ۔

ذ ... (بفتح) ... [illegible] ... کرنا

ذ ... (بفتح) ... [illegible] ... ہانکنا

دفع کرنا ... [illegible]

ذ ... (بفتح) ... [illegible]

... [illegible] ... ہونا ... [illegible]

... [illegible]

ذخیرہ ... جو چیز ... [illegible]

... وقت حاجت کام

آئے۔ ... (بفتح) جمع۔

... (بفتح) تھوڑی سی چیز۔

... پیدہ۔

ذ ... (بفتح) ... پیدا کرنا ایک

چیز کو ... کرنا ... [illegible]

... زمین میں بیج ڈالنا۔

ذ ... (بفتح) ... سفید

... کا ... بالکل سفید ہونا۔

ذ ... (بفتح) ... [illegible]

ایک ... چیونٹی ... [illegible]

کے دانے کے برابر ہے ... [illegible]

کہا ہے کہ ... [illegible]

چنانچہ حکایت ہے کہ ایک ... [illegible]

ایک ... [illegible]

اور اسکو ... سے ... [illegible]

اگر ... [illegible]

لوہے ... [illegible]

... [illegible]

ذ ... (بفتح) ... [illegible]

... آنا جانا ... [illegible]

... کا ... [illegible]

... کو جدا کرنا ... [illegible]

... پراگندہ کرنا۔

ذرا (بفتح) ... جو چیز

کہ برباد ہو ... آنسو۔

ذرا ... (بفتح) ... [illegible]

اوپر جسکے دونوں کان ... ہوں اور سارا بدن سیاہ ہو یا وہ

جسکے سر میں سپیدی ہو۔

ذرا ... (بفتح) ... زہر۔

ذرا ... (بفتح) ... تیز کرنا۔

تا تشدید م

ن کا پیادہ ۔
چگریں نذ کج کرنا
ے اپنا سفر سے پھر آنا

ظلم کرنا ۔
س ڈھول مارنا
سمجھنا ۔
چھپانا ہوا کا ایک
بی نا ۔

کینہ و دشمنی اونا



[illegible]

ذریا ر [illegible]

ذرو [illegible]

کی شرع [illegible]

ذروہ [illegible] ہے

جس سے [illegible] کو [illegible] کے

لیے بلاتے ہیں

ذرح (بفتح) ایک درخت ہے

جسکی لکڑی سے پیالے بنتے ہیں

ذرح [illegible]

ذراح ڈالنا کسی چیز کو [illegible]

ذروہ [illegible]

[illegible]

ذرع [illegible]

[illegible]

اوس میں [illegible]

ذرع [illegible]

میں سے پانی پیا [illegible]

[illegible]

ذرع [illegible]

[illegible]

[illegible]

حف تشدید م

...ق کھے لئے لٹادے

...جسکو ذراع کی طرف

...خوب سپید نمک -

...جو کہ ایک چیز

...سے بھس وغیرہ کا

...سے جدا ہو کر ہوا میں

...کرے -

...سوکھی گھاس کا

...الیجاوے -

...موچیونکا نشکردہ

...ہوتا ہی کہ جس سے

...اور تراشتے ہیں -

...کنکری کی مانند

...آدمی یا چوپایہ کی گردمیں

...سے یا گھر کی ایک بیماری ہی -

...(ک) ہر چیز تیز - موچیو کا

...ہے جس سے چمڑا تراشتے

...بمعنی سنان دراز مرد - تیز زبان -

...جمع -

...(رفعت) بدزبانی لغو اسبار فی نسفعہ جمع

...رفعہ رسی نہ خم کا خراب

...ہونا العمر اسکا فراخ ہو جانا یا اوسمیں سے

ج

علامات [illegible]

[illegible]

کی زمین [illegible]

[illegible]

پانی کرنا [illegible]

[illegible]

والا [illegible]

[illegible]

سبب [illegible]

[illegible]

تشدید م

جانا گیہونکو

ص سے صاف ہو

ٹا۔ توڑنا۔

بات مین غلطی

بگڑنا۔

روح (تنفس)

ریح (تنفس) ذرح

روح (سفس)

ص) ذرح

(تنفس)

دلرو جیسے زخم

ایک خوشبو ہے

ریح۔

گھوڑا اونٹ تیز

کہ آفتاب مین

پانی دے۔

جیسے آماج۔

رکتک ابڑی آبدار تلوار۔

چہرہ تلوار کا آب۔

(رشف) جو کہ ایک چیز

سے کرے۔

(رش) (رض) ہوا کا خاک کو

ج

[illegible]

ذ [illegible]

[illegible] الٹا

ذ [illegible]

[illegible]

ذ [illegible]

[illegible]

کہ [illegible]

[illegible]

ذ [illegible]

ذ [illegible]

ذ [illegible]

دل [illegible] ہوئے

ذ [illegible]

[illegible] آواز

ان گھائل کو [illegible] الٹا [illegible]

سرعت [illegible]

ذ ف رضت [illegible] پانی

ذ فائض ر فعّس زہر قاتل تھوڑا سا

پانی یا کم [illegible] ذ ف ر فعیض

جمع تھوڑی سی چیز جس سے تعلق

ہو سکے ان آ کا دہ اور مہیا کرنا

گھائل کو سانو الٹا

ذ فائف [illegible] جلد باز پھرتیلا

ذ [illegible] ر فسفف [illegible]

[illegible]

ذ [illegible]

[illegible]

ذ [illegible]

ذ [illegible]

ذ [illegible]

[illegible]

[illegible]

ذ فر [illegible]

[illegible]

[illegible]

ذ [illegible]

چراگاہ جس میں سبزہ [illegible]

ذ [illegible]

ذ فری [illegible]

سخت پیدائش کا

ذ فروق ر فسعفس [illegible]

ذ فاریق ر فسکس ج [illegible]

ذ فری [illegible] ر فسعف سر [illegible] کا

پیچھا یا [illegible] کے کان کا پیچھا

جس پر پسینا آتا ہے [illegible]

ر فسکفس ذفاری ر فسعف ج

تشدید م

محبت

کسی کو للکارنا

انکار کے

تیز رو اونٹنی

تیز رو اونٹنی شتر

سخت سکیڑنا

چھین سے پھینکر

پشیمان کرنا

کپڑے کا ٹکڑا

سے

چھپانا

تیز رو کا ایک

کالک

سائیک

ایک قسم

ایک کلمہ ہی

ج

علامات ...

ذکر ...
ذکر ...
ذکر (زکس) ...
کرنا - ...
آوازہ - ...
نماز - دعا ...
و ملت کی تفصیل ...
نماستے ...
بوند ...
رکن ...
ذکر (زکس) ...
کرنی - ...
کسی کے ...
صنائع کرنا -
ذکر الحق دستاویز دستک -
ذکر (زفک) خریدار کر لینے والا -
ذکر (زفت) مرد - خلاف زن -
ذکور (ضفس) ذکورة (ضفسف) ج
فولاد اور تیزیات کا لوہا خلاف ...
ذکور (ضفس) ج ...
ذکر (رفس) ...
ذکرۃ (زکسف) ...
ذکرۃ (ضفسف) آوازہ ...

[illegible] ... اذقان
[illegible] مستعمل ہے استحقان
[illegible] کے حق
[illegible] سے دلیلتر
[illegible] ہے
[illegible] سے وقت
[illegible] جاتا۔
[illegible] (ان) کم کرنا نخ
[illegible] پر رکھنا
ذقنا [illegible] عورت جس کی
[illegible]
ذقواء [illegible] گھوڑی کان کی
[illegible] ناک والی۔
ذقون (فضس) اونٹنی جسکی نخ
سست ہو کہ چلنے مین نخ کو ل
لٹکائے رکھے مثل ہے کنارہ کا دو
ذکا (فضسم) دہکتی چنگاری۔
تیز فہمی چوپایہ کے دانت پورے
ہو جانے۔ عمر رزور کا ہونا کسی
کو گا۔ بکری کا گلا کاٹنا۔
ذکاء (فضسم) رس ف کا تیز فہم ہونا
ذکاء (فضسم) آفتاب۔
ذکاۃ (فضس) (ان) بکریا گلا کاٹنا

ذقداق (فسمفس) تیز زبان جلد
بولنے والا جسمین گھبراہٹ ہو۔
ذقوطس (فک) غصیلا مرد۔
ذقطہ (فضف) چھوٹی مکھی۔
ذقطان (کسمفس) جمع۔
ذقط (فس) یعنی ذقطار فس)
ذقیطان (فسمفس) غصیلا مرد۔
ذقطۃ (فسمفسا) پلید مرد۔
ذقن (کس) پیر فانی۔

[illegible]

...نہ جماع کرنا کھانا
...کرنا یا نرم نرم کھانا
...ہونٹھ کا پھڑ جانا
...ناک کی چھوٹائی اور
...بینا ناک کی چھوٹائی
...چھوڑ موہی - دلاوری
...ہونٹ -
...چھی مین محمد کا رستہ
...تیزہ کی بھال کی
...کی تیزی - تیز ذلق
...جو زبان کے
...سے نکلتے ہین
لق ق ل
...شعاع کا کسی کو سستا
...کسی جانور کا تیز اور
...تیز بھاگنا
ذلق ... زبان تیز سنان تیز
...خوش تقریر مرد -
ذلیق ... زبان تیز و خوش بیان
... رسن اتیز ہونا ہے
...آرام ہونا چراغ کا
روشن ہونا سوسمار کا سخت زمین
...نرم اور تریت کیطرف نکلنا -

[illegible]

جسکے [illegible] کو [illegible]

کو [illegible] پانی [illegible]

ڈنا [illegible] بالا [illegible]

نکلنے [illegible]

بستانی [illegible]

ڈناء [illegible]

کہ [illegible]

[illegible]

ڈنا [illegible] ایک [illegible]

اور [illegible]

باندھتے ہیں [illegible]

[illegible]

[illegible]

کے درمیان [illegible] پانی کی [illegible]

[illegible]

ڈنا [illegible] پیچھے [illegible]

جو [illegible] پانی [illegible]

[illegible]

ڈناته [illegible]

[illegible]

ڈنا [illegible]

نکالتا ہیں پانی [illegible]

ڈنا بہ [illegible]

ڈنا [illegible] ایک [illegible]

[illegible]

ڈنا [illegible] پانی [illegible]

ڈنا [illegible]

[illegible]

ہوئی چیز میں [illegible]

میں سے [illegible]

ضعیف [illegible]

ڈنانی [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ڈہت رفت [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

خوش تقریر مرد

نرم چلنے والی

جمع

بہت عیب بیان کرنا

گرمی کا سخت ہونا

ناخوش

یعنی دمیاط مصر

جلدی کرنی

ناخوش کر دینا

صاحب جمال

چوپایہ کی ایک

نرم چلنا

عیب دار عورت

پھنسے کے پوست کا

بجلی سے ہو جا

درخت پر

کی ناک کی

انڈے کی سی

کے مسام

ناخوش

کے پانی

کے ذکر میں ہے

کے متن میں ہے

[illegible]

[illegible]

اور جس کا [illegible]

میری قوم [illegible]

[illegible] عرب [illegible]

[illegible] کسری نے کہا [illegible]

[illegible]

اجازت [illegible]

[illegible]

[illegible]

والسلام [illegible]

[illegible]

ی بیان تاشدیدم

بہشت ۔ یاد

سترہ ہے کے اور

سائیں مع ٹاپن ۔

ہالکیپ دانہیں جو

اور سے وسیمین

قسم کی چادر

کا تیلا پانی شک

کا تیلا پانی

تفصیلے فشیناک

مروش کرتے ہو

تیری کیفیت ۔

حج کا مہینا ۔

سکندر ہو جی کا لقب

جب موسی نے اپنی قوم

کو اللہ کی طرف دعوت کی تو

مکن بیچی پر

تو اللہ جل شانہ

نبی کو ادنی دعوت کی

پھر تو کہو ۔ ۔ ۔ نیری مکن بیچی پر

ج

ذو [illegible]
دور کی [illegible]
سے [illegible]
حکمت [illegible]
[illegible]
[illegible]
واطلاع [illegible]
ذو [illegible]
[illegible]
ذو [illegible]
ذو [illegible]
ذو [illegible]
[illegible]
[illegible]
ذو [illegible]
ذو [illegible]
زبان محل پر [illegible]
ذو [illegible]
[illegible]
ذو [illegible]
[illegible]
ذو [illegible]
ذو [illegible]

[illegible]
[illegible]
ذو [illegible]
[illegible]
ذو [illegible]
[illegible]
ذو [illegible]
ذو [illegible]
ذو [illegible]
ذو [illegible]
ذو [illegible]
ذو [illegible]
ہوشیاری چالاکی
ذو [illegible]
[illegible] قرآن میں سے ایک [illegible]
ذو [illegible]
[illegible]

حتا لشدیدم

لا موت -

آرزدہ مرد -

بھیڑیا سونگانا

مسفس جمع -

شہد یا جو شہد کی مکھیوں

موم کا خلاصہ -

(ن) گلجانا - آفتاب

ہونا ہمیشہ شہد کھانا

احمق ہو جانا حق کا

ہونا -

(ن) گلجانا آفتاب

ہونا ہمیشہ شہد کھانا

احمق ہو جانا -

واجب ہونا -

مفس گھوڑے اور اونٹ

باقی پشم -

عرب عرب کے چور

ویش -

باقی مال -

نہایت گہرا سوراخ

(ن) پانی وغیرہ کا بہنا

(ن) سخت اور زور

سخت رفتار بکریوں وغیرہ

[illegible]

ذیب [illegible]

[illegible] کے بال [illegible]

[illegible]

ذیب و ذوب [illegible]

[illegible]

اور [illegible]

آسمان اور [illegible]

[illegible]

ذیل [illegible]

خوشہ [illegible]

ذیوج [illegible]

ن صحا تشدید

همنفس، جمع

ب مین کسی

بچے سبز گو از طالم

الا گذرنے والا

جانا گذرنا

ہوے تو

یعنی مین

غافل ہونا

کا طمع کیا ہوا

ایک بیماری

طبیعت سیر

کسی کرنی

دور کرنا

کتاب بغل

کے پستان پر دل دیتے

پینے پادے

پستانی ناقہ

رکھنا

قدم کا کھوڑا

ج

[illegible]

رائیگاں (فنسک) شگفتگی کو سمجھتا
راکھ (فنسک) ثابت و برقرار
رالی (فنسک) نعمائے خدا کی حرکت
رائیگاں (فنسکس) ایک گنبد جس کے
کسیرے ... سے بہتر ...
راتع (فنسک) بڑا الائچی ... کہ
تھوڑی سی ... ہو جا
اور سیدوں کو ... ہے اور
او سیمیں ... میں ہو اور

[illegible]

ا تنفر ... 
راجھت (فنسک) ...
راحفتہ (فنسک) ...
نفخہ کو را و ... ہیں
راحیل (فنسک) ... خلاف ...
رحیل (فنس) ...
رہال (فنس) ...

ح

ی تشدید م

سنک (ص)

کرنا -

ست) ہوشیار عقلمند

مرد -

ب -

ہ اور باح کفنج

مانڈہ مند تجارت

نجی -

مقیم - ساکن -

فرشتے حوآدم

ساتھ زمین پراو

مون کو رستہ پر لے

عاجز مرد جو طلب

تھک رہا ہو -

شک) راہب سزاہد مرد -

سے متنفر -

ش) وہ مرد کہ جگہہ سے نہ ٹلے

ف) بڑا بھاری لشکر

سک) چوتھا ساونٹ

کی نوبت کو پہنچگیا ہو یعنی اوسکے

ج

[illegible]

عورت کا آنکھ کی سیاہی کو [illegible]

تیز دیکھنا [illegible] کو اور آنکھ [illegible]

[illegible] کا چمکنا [illegible] کو [illegible] کھلایا - آنکھ

پھرنا - عورت کا اپنی آنکھوں کو [illegible]

اور چمکانا - عورت کا آئینہ میں [illegible]

[illegible]

منقش
ں کا ابلالان سں
حضرت یوسف
ں کی
ہ کا اسم تہا
ہ اگر شنو سی

آنے ڈنگانی
دی
ابط بازو
ب

والا
رہ ڈھونڈ ہنے
عورت -
ری
سی نہایت -

لاپچ
نز دانش)
ی لکڑی ہے
میں ہو لکڑیونکے
بی ہے نفائدہ
عورت جو ہمسایونکے
دفت کرے -
جسمیں خوشبو کا اثر ہو
زعفرانی لباس
اور خوشبو کے داغ ہو
نہ وہ شاخ جو
ہمنہ میں سے نکلی ہو

شقشق (الفم) نہایت بخیل کنجوس
بخل کا وہ معانی ... کی چھالی سے بیا
چھپا لیا ... بخل کے مارے اپنے ...
وہ ... اور جب کوئی
... وہ طلب کرے تو ...
نیز وہ شخص کا عذر کرے جو کہ اپنے
ہاتھوں کی چیز کھا لیوے تاکہ کچھ
نہ کھانے میں کچھ ضائع نہ ہو ...
راضعان (رسک) نفس یا بچہ کے
... دانت ... واضع (رسک) ...
راصیۃ (رسک) خوش ... پسینہ
راظم (رسک) ایک چیز کا ملازم
راعب (رسک) ... بولنے والا
پانی کی موج نالہ کو بھر دے۔
راعدۃ (رسک) آواز والا ابر یا
... بڑے منہ کا۔
راعسۃ (رسک) یا انشا ... ناقہ
راعف (رسک) ناک کی تیزی
پہاڑ کی ناک گھوڑا جو گھوڑوں سے ...
راعل (رسک) نر کھجور کے درخت
یعنی بے پھل والے یا خراب و
ناکارہ پھل لانے والے۔
راعوثۃ (رسعف) ...

بیٹا یا کہ ... بچہ ...
کی تھا ... اپنے ...
یا پاک کرنے والا ...
راعوفۃ (الفم) ...
میں کوان ...
اور ... کو ...
کریں یا ... کو ...
ہوتا ہے ...
... ہے
راعی (رسک) ... والی
والا ...
رعیان (رسک) ...
راعی الغنم ... ایک قسم کی ...
راعیۃ الانس ایک قسم کی ...
راعیۃ النحل ایک پرندہ ...
راعیۃ السیف ...
راعم ... اتباع میں ...
راعی (رسک) آواز کرنے والا ...
راعیۃ (رسک) ...
راغ (رسن) شراب۔
رافۃ (رسن) شراب ... مہربانی
بہت مہربانی۔
رافۃ (رسن) ...

ت التشدید ؤ

ت ضعیف نا تو

ٹ کا بچہ جو اپنی

چرنے لگے۔

آپ حرکات الانعن

آپنا تو جسکی جرم

گرب) جمع پسینے

سے نکلے۔

فیات و

تاکہ اوستاد بعد

بطور انعام کے

دوسے شاگرد اتہ

میں آنے والا

لکڑی کی چھاپ

پر مہر کریں۔

شوت دینے والا۔

انتظار کرنے والا۔

دکھانے والا۔

ب یعنی رض ذکی

من جمع۔

دسنک) ایک قسم کا ہیرا

ایک لیمنہ جاایکبارگی گرا ہو

رمنکس) عدود پیتا بچہ

یہ عن ضع رضف افضاع

رابهستان [illegible] (بفتح [illegible]) باغ کی دیوار
نام [illegible] دونون باطن [illegible]
راهن [illegible] (بفتحتین) ثابت اور آماده
آدمی [illegible] بچلا-
را [illegible] (بفتحتین) سر [illegible]
یک [illegible] کشتیان [illegible]
چلنے [illegible] لنگر [illegible]
را [illegible]
[illegible]
را [illegible]
[illegible]
او [illegible]
را [illegible]
راهی [illegible] (بفتحتین) [illegible] کی [illegible]
آراه (بفتحتین) ادر [illegible] (بفتحتین) [illegible]
رفتن [illegible] (بفتح) [illegible] رنگ [illegible]
نیز [illegible] میں ہانا چقماق کی
لکڑی [illegible] کا [illegible] بے
پہنچ جانا [illegible] قول سوچنا
[illegible] دیکھنا-
راثی [illegible] راتہ
[illegible] کہنا
رائیب [illegible] پریشان

[illegible] کے [illegible]
سے [illegible] سے [illegible]
سے [illegible] جان [illegible]
بچا ہوا اور وہ [illegible] ہوا اور وہ
[illegible] کام [illegible]
راتیہ (بفتح [illegible]) جھنڈا [illegible]
رایات (بفتحتین) [illegible]
[illegible]
را [illegible] بھاری [illegible]
را [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
رائد [illegible] (بفتح) [illegible]
والا- رادۃ (بفتح) [illegible]
یعنی [illegible] کی [illegible]
جسے [illegible] کی [illegible]
را [illegible] چاشت کی [illegible]-
را [illegible] آنکھ میں [illegible]
تنکا وغیرہ گر [illegible]-
رائدہ (بفتح) [illegible]
میں بہت [illegible]

ون تشدید

فریب کرنے والا
بجانے والا - اونٹنی
بلند -
فراخ اور خوش
جمع -
اترانے والی عورت

تن آسان مرد
پانی پر چلا آوے
مہربان مرد -
تر کرنے والا -
سونے والا -
جمع -
چلنے والی رگن -
عورت اچھی اور خو
خضاب کی ہوئی عورت -
بڑی خم - یا
یا خم جسکا پیٹ
جمع -
ایکطرح کا پیمانہ
رستی جسپر
چھین -
یعنی رانی

راکب (بفتح) شتر سوار [illegible]
رکاب (بکسر) [illegible] رکبان (بضمتین)
رکوب [illegible]
[illegible]
راکبۃ [illegible] کا بوجھ
[illegible]
راکد (بفتح) ٹھہرا ہوا [illegible]
[illegible] ہوئی
راکس (بفتح) [illegible]
[illegible]
[illegible]
راکع (بفتح) رکوع کرنے والا
فروتنی اور عاجزی کرنے والا
راکوب (بفتح) کھجور کا [illegible]
[illegible]
[illegible] نکلی ہوئی ہو
راکوبۃ [illegible]
رال (بفتح) شتر مرغ کا بچہ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] جمع ہے
رام [illegible] اونٹ کے
بچے کا [illegible] کی قسم

[illegible]

راجع [illegible] (بفتح) [illegible]
مارنے والا [illegible]
رامح (بفتح) [illegible]
[illegible] اچھے [illegible]
رامق (بفتح) [illegible]
جال میں [illegible] کر [illegible]
سے شکار کرے
رامک (بفتح) [illegible]
جیسے [illegible]

ان تالشدید

۱۲۱

- تھی جو بچہ پر مہربا

س پوست پر جس میں

- ہوے

- تا

ت یعنی راکم السکا

گارمیا شیرہ ہر پھل کا

- چیز کا گاڑھا پانی -

- پہنے کا نام - بہت ضعف

- اسیر تا بھی بولتے ہیں

- ت (مشتف) اور تا

- مشتف اور بیمار مشتف

- تے ہیں جسیار ہذف

- سد بہ (مشتف) بھی کہتے ہیں

- جماع کرنا - زیادہ

- ترہم کرنا - آہٹ

- اپہر

- قدم پر سواری کسی کام کو

- اسکو تمام و کامل کرنا -

- خوشبودار کرنا - مالک ہونا - سیا

- کرنا مشک کو رب سے

- کرنا بچہ کو پرورش کرنا یہاں تک

- بالغ ہو جاوے - سکر یکا بچہ جننا -

- وش روفن (رف) ملایہ ہونا - سیدیا

- ی پر چڑھنا - بلند ہو جانا

- چیز کو ایک چیز سے لوٹانا -

ج

[illegible]

الرجہ لمستعف [illegible]

تعالیٰ کا [illegible]

جل شانہ [illegible]

نہیں [illegible]

بغیر [illegible]

بجا [illegible]

دو [illegible]

[illegible]

[illegible] چہرہ کا ایک [illegible]

ربا [illegible] رنفس [illegible]

[illegible]

ربوان رنفس [illegible]

ربا [illegible] رنفس احسان رکھنا

فضیلت حاصل کرنی

ربا [illegible] رنفس سفید ابر اور کبھی

سیاہ کو بھی کہتے ہیں [illegible]

ربا [illegible] رنفس [illegible]

زمین کی ایک [illegible]

[illegible]

ربا [illegible] رنفس [illegible]

ربا [illegible] رنفس [illegible]

ربا خ رنفس [illegible]

وقت بیہوش ہو جانا

ربا د رنفس [illegible]

[illegible]

ج

بتشدید م

خشک جمع
تیز ہوش و

یعنی جناب
فراخ ۔
صاف روشن

کا دہن ۔
سر کا سوال
جھانک ۔
کا ہاں
لینے والا ۔

جان پہنک

کشش چوپایہ
کرنا ۔

کمالی دائم
آسان نرم
ترسایا کا

جمع ۔ اور
آتا ہے ۔

جمع
سے
حالانکہ حسین

رنج [illegible] میں [illegible]
بہری [illegible] یا [illegible] ہونا
ارنبز [illegible]
رنبث [illegible] سے [illegible]
رنبج [illegible] کا چھوٹا ذرّہ [illegible]
رنبح [illegible] لومڑی کا بچہ [illegible]
بچہ [illegible]
رنبخ [illegible]
رنبح [illegible]
گھوڑے [illegible] کے [illegible]
لیجا دیں [illegible]
رنجل [illegible]
بہرا [illegible]
آدمی [illegible]
رنجلت [illegible] بدن
کی [illegible] کی
رنبح ۹ رفع [illegible] کا [illegible]
میں چلنا دشوار ہونا
۱۰ رنبد [illegible] روک دینا
۱۱ رنبد رضعت تلوار وغیرہ کی چمک
تلوار وغیرہ کا جوہر
۱۲ رنبعد [illegible]
شتر مرغ [illegible]

[illegible]

تالشندرم

یان مین ہین

جمع -

بہشت کی ہتایت

شیا نونکا سردار

ملک تازہ ہر عجات

تماشروع -

شیا نونکا سردار

جذا سعابد عا

مین مضبوط پکا

علم سے

اچھا پانی برس

تابع ہو جاوے

تی اور عیش کی

شیرہ سیاب کفن

ذیقعدہ کا نام

منتی ربوۃ رکسف

الل ابیدو ہنق کرتی

اس ابنہ جانا اوس

دشمن کا -

زمانہ جاہلیت مین قوم

کعبہ تھا - لات بت

ج

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

رابط الغیض (ان) اشہور [illegible]

رنج الجسین (ا) تیب جو ایک [illegible]

اور وہ [illegible] جو ہے

رنج [illegible] (ا) [illegible]

رنج [illegible] کا اول [illegible]

ریاح [illegible] (ا) [illegible]

رنج [illegible]

[illegible]

اور [illegible]

جماعت [illegible] میں اقامت کی جگہ

سیانہ قد مرد نہ چھوٹا نہ بہت بڑا

رنج [illegible] (ان) رک رہنا - قوت

آزمانے کے لیئے ہاتھ سے پتھر اوٹھانا

کمان کے چلہ وغیرہ کو چار تہ کا

بٹنا - ہر چار دن میں ایکبار اونٹ کا

پانی پینا - بعض سال میں قوم کا

آجانا - کسی کو ربع تپ آنی [illegible]

سے اونٹ پہلو چھپ کہنا نگاہ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

رنج [illegible] (ا) [illegible]

رنج رفش (ن) [illegible]

(ان) [illegible] اور [illegible]

اور [illegible] اختیار کرنا

رنج رفت [illegible]

ہیں اخذ [illegible] یعنی [illegible]

ہونے کے [illegible]

سے پہلے پکڑ لینا

رنج [illegible] (ا) [illegible]

ج

ج تا تشدید م

...ادسی یلیا پالان کے
...ت کی طرف ہے
...جسکی طرف جھکا تا ہو
...ل وعیال گھر بار
...س اجمع الناس
...ت کانی ہر چیز کا کنارہ
...پالان کہ ناقہ کی
...میں دو الکر اوسکے دونوں

...تین
...ہنے کی جگہہ

...فصس
...کہتے ہلنے کا گھٹنا
...دونوں زانوئین پہ
...میں اقامت کرنی
...ہرد کی جو بدیاہین
...ملح کی لکڑی ہے جڑکا
...دیوار کی بنیاد۔ ہر چیز مین
...یانی کا ایک چشمہ۔
...ملح اور سمر کے
...میں احجاجات مردحاجت
...قوم کے مارے
...ایک جگہہ مارے گئے ہون

[illegible]

پھول [illegible] کسی کی گود میں [illegible]

ربوع (فتح) [illegible]

ربا [illegible] بیابان [illegible]

ربوعہ (کسف) [illegible] مہر اور ہم

ربون (فتح) [illegible] بیعانہ -

ربوبی (فتح) مرد کی جورو کا

بیٹا اور [illegible] سے

ربوبی (کسف) خدائی [illegible]

[illegible]

ربوبیت (کسف) [illegible]

ربوض (فتح) [illegible]

کے وقت [illegible] جا سکے

ربوض (فتح) [illegible]

ربوض (فتح) اٹھا [illegible]

ہو کر [illegible] جو بیٹھا شیر کا

شکار کو دبا لینا اور اوس پر جھپٹنا

جلد دینی کسی کی طرف ٹکانا پھرانا -

ربوض (فتح) [illegible] درخت کا

دلدار کشادہ [illegible] کا بعض [illegible]

جمع - [illegible] جسین [illegible] بیت

ہون [illegible] کشادہ فراخ زندہ -

ربی (فتح) شیر کا بچہ والا -

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ربی (کسف) [illegible]

[illegible] روئیں ہوگا

ربی (فتح) [illegible]

ربیب (فتح) [illegible] بیٹا

بیٹا ہوا - بادشاہ - مرد کی جورو کا

بیٹا غیر سے - [illegible]

ربیبہ (کسف) [illegible]

[illegible]

[illegible] پرورش [illegible]

لیئے - سبا ئب (فتح) جمع

ربیتہ (کسف) حشرات الارض [illegible] کا

ایک جانور - بلی - جمع ربع

ربیئہ (کسف) طلایہ یعنی [illegible]

پہرا - دیدبان - سبایا (فتح) جمع

ربیث (فتح) [illegible]

ربیشا (کسف) [illegible] کسی کی [illegible]

ربیعہ (کسف) [illegible]

- دبا [illegible] جمع [illegible]

ـــ ثالث تشدید میم

ـ یا زمین مین
ہونا ـ
گوشت دار مرد ـ
نہایت سبز گھاس
ین جو بہت ہوتی ہو
برود درہم کے
تریاق ہے ـ
پُربلات کی عورت ـ
یدار پرکار گوشت کا
لگرد ـ گس کا
فضس یا جمع ـ
عورت بہت گوشت
بلات کی عورت ـ یا
گس کی عورت ـ
مین گتھی ہوئی گھاس ـ
س اینلا بلندی ـ اوکھڑا
ین ـ و میوں کی جماعت ـ
م جمع ـ
مش) ربوی صفت) ربا
مہان) فربہی ہونا ـ پھولنا
بلندی احد لیغتہ پرچڑھنا ـ
سے ہونے مین یا ڈر اور
سے پھول جانا اور سانس

خ ج

[illegible]

شج

سلیے کہ اوسکی
تھا لیس اسکی ما
بیٹا جیتا رہیگا
باندہو نگی
کعبہ کرونگی بس
اوسنے اوسکو خانہ
اسا تبتک کہ وہ بالغ
آپ سے لے آئی
کالقب ہوگیا۔
دلیر مرد کہ بھاگتے نہیں
چوپایہ جسے باندھیں
چند صحابی ہیں تو۔
ایک پہاڑ ہے یا
پہاڑ کا مینہہ نہین
چھوٹی نہر جاری
ربیع جمع ربیع
ایک تو مہینونکی بیچ اور
کی ربیع مہینے کی ربیع
ربیع الاول ربیع الثانی
ربیع دو ہین ایک تو پہلی ربیع
پہلا اور پالیان درختونمین
اور ایک دوسری ربیع
ہیں۔

ج

[illegible]

مضبوط کرنا [illegible]

[illegible]

اشارہ کرنا [illegible]

[illegible]

ہیں
مسافر سفر سے
گھوڑا بندھ جاتا
پھر تا اور اونکو
سے گھر کے لوگوں سے
واقع ہوئی
کیا کہ تشک کھولی
اور رومی نے سوا اور

[illegible]

کو روک لینا [illegible]

[illegible]

حاشیہ نشد میم

ٹکوادیستہ

اختیار کرنا

اکر رکہنا

سباب رکہا ہو

بچہا

آدمی نشد وفت جمع

جن کی جماعت

حسان جمع

اور طرح سخت

سکی

کیمپنر بیچ

الی جمع

جانبستگی یعنی حرف

اور ستین کو تاکہنا

بھکی تاک کی جھنک

سپیدی کر گھوڑے کے

تک پہنچی ہو یا گھوڑے

سپیدی سرین سفید

گھوڑے کا یا گھوڑے

سر کا سپید ہونا

ناک توڑ ڈالنی

عود کا ناک پر خوشبو ملنا

مونث از شم یعنی

ج

رجرج (فتح) [illegible] کا ہلنا
رجرج (ضم) [illegible]
رجرجہ (فتح) [illegible] دینا
رجرجی (فتح) [illegible]
پانی [illegible] تھوڑا سا [illegible] کسی
[illegible]
[illegible] کا [illegible]
رجز (کسر) [illegible] بحر
[illegible]
رجزخوان [illegible]
رجز (فتح) [illegible] ایک بحر کا نام [illegible]
[illegible]
اونٹ کا [illegible] ہونا
رجیع [illegible] پسینہ [illegible]
رجس (کسر) پلیدی گناہ [illegible] پلید
کام [illegible] موجب عذاب ہو شک
عقوبت [illegible] لعنت
رجس (فتح) گرج کی بلند آواز
اونٹ کی آواز
رجس (فتح) [illegible] ابر کا گرجنا [illegible]
اونٹ کا آواز کرنا [illegible]
پانی کا [illegible]
کسی کام [illegible]

رجس (فتح) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
اور [illegible]
[illegible]
زمین [illegible]
رجحان (ضم) [illegible]
نام [illegible]
کا گروہ [illegible] پانا [illegible]
امید [illegible]
[illegible] شرعت [illegible]
[illegible]
وہ [illegible] چلنے میں [illegible]
پھیرنا [illegible]
اور [illegible]
پھیر دینا [illegible]
[illegible] ہونا [illegible]
رجحان (ضم) [illegible]
رجعت (فتح) رخصت [illegible] دنیا کی [illegible]
[illegible]
[illegible]

تا تشدید م

کہتے ہیں -
سے
سینہ سے سر

شرم کرنی -
مہینے کا نام اور
میں اور یہ نام
تعظیم قبیلہ مضر
اور یہ مشتق
بمعنی تعظیم کرنے
میں رجوب بالضم
رخس ) جمع -
کرنی کسی کو
ست رکھنا -
جوب بالضم )
لکڑی کا اکیلا ہکنا
کی تہمت لگانی گالی دینی
رجب اور شعبان کے مہینے
گوشت اور اشکنہ سے
سے دیکھا بھاری لشکر -
کانپنا -
رخس ) یعنی جرح وسقف
کیا ہوا -
اپنی جرح وسقف

ج

[illegible]

رجلا (فتح) ... سنگستان ...

پتھریلی زمین ... [illegible]

رجلان (فتح) ... پیادہ ...

(ضم) ... جمع

رجلة (کسر) ... زمین ...

او ... جگہ ... سیل کا آب ...

زمین ... نرم زمین ...

رجل ... جمع ایک قسم کا ...

رجلة (ضم) عورت خلاف مرد

رجلة ... چوپایہ کے ...

[illegible]

... جمع علامات و نشان ...

رجمة ... [illegible]

رجمة ... [illegible]

علامت نشان ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] جلالت نفسی [illegible]

[illegible] عورت لوند

[illegible] حبیب [illegible] اور بحکم [illegible]

[illegible] اور دکا مل

[illegible] ابو جالاب [illegible] کفنی

[illegible] امر جل [illegible]

[illegible]

[illegible] بن کی [illegible]

[illegible] کا [illegible]

[illegible] کی آ [illegible]

[illegible] سلک تہ کی

[illegible] سوختہ

[illegible] عذاب فقر

[illegible] عیش رسی

[illegible] عہد زنانہ

[illegible] کا لو ریکا کنارہ [illegible]

[illegible] کی شاخ

[illegible] کی دونوں طرفین

لگا [illegible] داغ دینے کا لوہا

[illegible] ایک ساگ ہے یا نی

[illegible]

[illegible] ایک [illegible]

[illegible] کا [illegible] دودھ

ج

[illegible]

رِحال [illegible] سے کہتے ہیں

[illegible]

۱۲ رِحالہ (ف) زین یا چمڑے کا
زین جس میں لکڑی کا [illegible] رحائل (جمع)

۱۳ رِحالہ رِحالہ ایک کلمہ ہے جس
سے بکری کو بلاتے ہیں

۱۴ رِحامہ (ف) [illegible] رحم (ف) عورت کا
بعد وضع حمل بچے کے [illegible] بیماری میں مبتلا ہونا

۱۵ رِحامس (ف) [illegible]

۱۶ رحائب [illegible] زمین کی فراخی

۱۷ رحب (ف) [illegible] فراخ ہو جانا

[illegible]

[illegible] دونوں پہلوؤں [illegible]

مرجع یا جائے جنبش دل

رحبی (ف) [illegible] صحرا

رحبہ کی طرف [illegible]

رحبی (ف) پہلو کی ہڈیوں میں
سب سے چھوٹی ہڈی سینہ اور پشت
[illegible] کا مرجع

رحبہ (ف) سانپ جو [illegible]

[illegible] پہنچ گیا ہوا ہو —

رحب (ف) جسم کی فراخی [illegible]

مّ تشدید م

ـسرے سفر
بچو گالی کے وقت
بیٹے مین سے نکالے
ـے ـہر چیز جسے
رجع وقف جمع
پسینا ـستی
ـے ٹھنڈ اٹھا تاکہ
ـین لگام کا لبنا
ـے سکڑنا کہ جسمین
ـان جمع ہووے
دوسرے سفر کی طرف پھیر
ـق یہ ایک سفر سے
رجائع وقفہ سکا
گناقہ اول کی
ـہ گئی ہو
گھوڑا جسکا پانو گھسے
چلنے والا مرد رجلی نصف
ـف بچج بڑا مضبوط مرد
برقرار رہے یادہ
ـے نفع عمر مین کوشش کرے
ـلوادی دیا ہوا کہ
ـے کلام ظاہر دبدبہ
ـس چھوٹا سا مرد

[illegible]

[illegible] پیچ و پیچان [illegible]

[illegible] رحا (بفتحتین) [illegible]

[illegible] رفقت [illegible]

[illegible] اونٹ [illegible]

[illegible] ایک [illegible]

گلی [illegible] کی بہت سخت

جگہ [illegible] سوار ـ [illegible] جماعت

[illegible] ایک [illegible]

اونٹ [illegible]

اونٹ کا [illegible] کا [illegible]

اونٹوں کے [illegible] رحا (بفتح) کی جمع ـ

رحی السحاب بادل کی گولائی ـ

رحیب (بفتحس) فراخ و کشادہ ـ

بہت کھانے والا کشادہ سینہ والا ـ

رحیض (بفتحس) دھلا ہوا کپڑا ـ

رحیق (بفتحس) شراب ـ یا بہت عمدہ

اور بہتر شراب یا خالص بے ملاوٹ شراب

یا صاف بے تلچھٹ شراب ایک قسم کی خوشبو

رحیل (بفتحس) کوچ ـ یا لادا [illegible]

ہوا اونٹ [illegible] سفر کو مضبوط اور

رحیم (بفتحس) بہت مہربانی کرنے والا ـ

رخ (بفتح) [illegible]

[illegible] ایک [illegible]

[illegible] پیچ [illegible]

[illegible]

[illegible] پیدا ہو ـ

رخ (بفتح) ان [illegible]

کو ملانا اور آمیختہ کرنا ـ

رخاء (بضم) سستی [illegible]

[illegible] نرم ہونا [illegible] فراخ زندگانی [illegible]

رخاء (بفتح) نرم ہوا ـ

رخاخ (بفتحس) فراخ زندگانی نرم

[illegible] زمین فراخ یا [illegible] زمین

کہ پاؤں [illegible] ہو جاتی

رخال (بکسر) رخل کی جمع ـ

رخاف (بفتحس) [illegible] سفید پتھر

رخام (بضم) ایک سفید پتھر

رخامہ (بضم) [illegible] گھاس

رخامتہ (بفتح) نرم [illegible]

نرم اور آسان [illegible] لڑکی کا ـ

رخامی (بضم) ایک گھاس [illegible] نرم ہوا

رخراخ (بفتح) پتلا گارا ـ

رخیخ (بفتح) پتلا گارا ـ

رخشتہ (بفتح) حرکت ـ

رخص (بفتحس) نرم و نازک [illegible]

ات تشنادیہ م

کا لمنع جالکو ج

پیمبر یا لی کر لی

ہوشی رشتہ

ن قربت اور اسکے

یا جمع

یا معوم تحوس

ی کرنے والا

کسی پر مہربانی

ر محبت

ہستہ دانی

پھلکی بنانی - یا چلکی

کا گول ہونا -

لڑکو جو پایہ

یعنی دخول قضیب

ادخنی یا عورت کے بعد

کے یوان کی بیمار ہو جاوے

یا ایک بیماری ہی جو

جاتی ہی اور نطفہ کو قبول

ویتی یا وہ چوب جسے اور

کا سوا یا بیرونہ نکلے -

ح

سکر ساتھ نکلتی ہی - ۱۱

[illegible] جانے والی

سمجھنا [illegible] —

رحیب [illegible] آسمان [illegible] والی [illegible]

رد [illegible] فضیلت [illegible]

بجاری [illegible] —

رد [illegible] کسی کا پار کر دینا

کسی کا [illegible] دینی کسی

لیے ستون [illegible] تنگ

[illegible]

رد [illegible] سیاہ [illegible] کی

[illegible] کی طرف [illegible]

کرنا جواب دینا —

رد [illegible]

رد [illegible] ہلاک ہونے والا مرد —

رد [illegible] ہتھیار تلوار کمان [illegible]

[illegible] زینت دیوے [illegible]

[illegible] کرے [illegible]

پر تلہ اور بولتے ہیں [illegible]

یعنی [illegible] احسان کرنے والا اور

واسع العطا [illegible] بولتے ہیں [illegible]

[illegible]

کر قرضدار ہے —

رد [illegible]

[illegible]

رداح [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ہیں — [illegible]

کی [illegible] بزرگ [illegible]

ردح [illegible] —

رداعہ [illegible]

رداو [illegible] —

رداع [illegible] سیاہی —

رداع [illegible]

[illegible]

دینا [illegible]

رداعہ [illegible] کی مانند [illegible]

جیسے [illegible]

کے لیے [illegible] ہیں —

رداف [illegible] پر بیٹھنے کی

جگہ —

ردافہ [illegible] بادشاہ کی [illegible]

کا [illegible] —

ردافی [illegible]

والا — [illegible]

ث تشدید م

نرم کرنا۔ کلام کا نرم

ون کو

سپید سری کی ہمراہی

ت) کسی پر مہربانی

کرنی۔

کا اندرون کو بازو

نرم و سست۔

سست ہونی۔ سستی

میں

رسست) نرم ہونی کا ہست

وست والا حرد۔

(سست) نرمی۔ نازکی نغمہ جی

نی زندگانی۔

ست) مرد فراخ زندگانی۔

نفس سستا نرم و نازکی

موت جب بیت مارو لبے

سست) پتلا اور سست خمیر

سست خاف نفس جمع۔

نرم سان کلام ایک

[illegible]

مشدد م

ـــست آدمی ـ
ـــ انداز مرد تہمت

ـــنا کسی پر تیر مارنا
ـــٹنا ـ زمین کو کوٹنا
پر کوٹنا اور

ـــ زعفران ـ زعفران
رنگ زرد

ـــکے بل گر پڑا ـ
ـــیر مزغے
ـــنا سدف اسنع کرنا ـ
ـــیر کو ٹھہرا دینا گریبان
ـــکسی کو ایک چیز میں ملنا
تا پیکان تیر کو زمین پر ٹھوکنا
مقصود ملے نیچے جاوے
جماع کرنا ـ
ـــسف ) چھوٹے بچے ـ
ـــان گیہوں ـ
ـــف ) پانی اور پانی کا اچھلنا
ـــوع رقص جماع رقص
ـــالنیال مغز خیون کی ہیپ ـ

[illegible]

بارہ ے - ایک

ٹھنڈی

دو کوشن کے

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

جناب [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] کی دردمندی

[illegible] ہونے کا

[illegible] جانا - آنکھ کا

[illegible] اضطراب

[illegible]

[illegible] ہو جانا

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

اور ٹ کی
کن پر جو
سو وغیرہ کا
کا چہرہ
سی کی
اس کی

[illegible]

رقصیدن رفت یا اتفاقا [illegible]

[illegible]

رشعشس [illegible] ہے

[illegible]

رصراحتہ رفسیف جیسے چشمے کے

[illegible] جیسے [illegible] میں چہرہ ہو

رصرصتہ رسیف [illegible]

[illegible]

صحیح [illegible]

[illegible]

کرنا [illegible] آرام کرنا [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] پیر کو دو سر کے

[illegible]

سے برابر رکھنا

[illegible] سری مال

[illegible]

[illegible] اور [illegible]

[illegible]

[illegible] کہتے ہیں [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] جماع کرنا

[illegible] بہت جماع کرنے والا

[illegible]

[illegible] گھوڑے کے پیچھے

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

رضا [illegible]

رضا [illegible]

رضا [illegible]

رضا [illegible]

[illegible]

ایک [illegible]

[illegible]

سنا ہے [illegible]

[illegible]

ایک [illegible]

[illegible]

چند [illegible]

[illegible]

زمین [illegible]

والا [illegible]

کالپنا اور رہنا [illegible]

تڑکی پٹی گئے
یہی ملی ہوئی ہیں
ٹوٹا - ریزہ ریزہ
لہو دھان کر کے

ماضی ہو

سر لیسے خوشنود ہونا
کا لکاب - یا منہہ
کھانے کے لعاب
مشک کا منہ
لے
کرکے سے جا
بشہد کا جھا
کے تہوں پر منینہ

کی تھی -
قسک الوٹ چرائی گئے

کی بیڑ کے ریزے
ٹوٹ جاوے -
قفس تقیل کمینہ -
قفس ابھی کو دایہ کے حوالہ
کا پیچ کو دیلانا

ایک [illegible]

معلوم ہوا ہے [illegible]

[illegible]

کہ اس کا [illegible]

[illegible]

گرم ہو کر سوجھا ہوا
ہر کی بنائی ہوئی
پڑے
پتلا ہگنا
ردی
حماقت
(...ات)
گالی
خرافات یعنی
چیز
تازہ اور
حرکت میں
چھپا ہوا
کھاتا

نچلے [illegible] عورت کو چھوڑ
بنانا گوشت کو پارہ پارہ کرنا کپڑے کو
پارہ پارہ کرنا خیمہ کو ڈھیلا کرنا۔
رعبلب [illegible] وہ شخص کہ جس کا
ہوا [illegible] پارہ پارہ کر ڈالے شہر بانی
اور لطف کرنے والی عورت نرم و نازک
یا عجیب کرنے والی
رعبلیل [illegible] یعنی رعبلہ [illegible]
رعبوب [illegible] شخص بزدل [illegible]
والا لمبے قد کا [illegible] گوشت [illegible]
رعبوبہ [illegible] کوہان کا ٹکڑا
لمبے قد [illegible] گوشت [illegible] بدن والی لڑکی
یا نازک بدن سفید رنگ خوبصورت [illegible]
گوشت [illegible] شیریں [illegible] کی [illegible]
عورت [illegible] والا۔ اونٹنی تیز رو۔
درخت خرما کے پہلے شگوفہ کی جڑ۔
رعبولہ [illegible] خرقہ پارہ ہو گیا
رعبلہ [illegible] لمبے قد والی
نازک بدن پر گوشت لڑکی۔
رعثہ [illegible] پرہیزگاری۔ قربانی جیسے
کلمہ میں [illegible] کی چوٹی یا لٹکی
رعثنی [illegible] سے بھی۔ حالت
رعشت [illegible] رنگین [illegible] موج

نکلا ہوا ہو [illegible] پارہ [illegible]
[illegible] جو بکری کے کان [illegible]
[illegible] بکری
کے پارہ گوشت کی [illegible]
رعث [illegible] شور [illegible]
رعثاء [illegible] ایک قسم [illegible]
والا [illegible] بکری جو کے کان کے [illegible]
کنارے پر [illegible] ہے [illegible]
رعثنہ [illegible] اونٹ کی [illegible]
[illegible] عورت کا [illegible]
[illegible] کے بال [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
رعج [illegible] ارعاج [illegible]
[illegible]
بجلی کا چمکنا [illegible]
رعد [illegible] کی آواز [illegible]
کا نام [illegible]
[illegible] فرشتہ کا نام [illegible]
[illegible]
[illegible] کا گرجنا [illegible] عورت [illegible]
اپنے تیئں آراستہ کرنا۔

آفتاب

بخت ہے

بخت ہے

جو ہم کے

جو جھ کو کہ [illegible] اونٹنی کے کان چیر کر

کاٹ کر لٹکتا چھوڑ دیں یا کسی چیز

سے ضرب مارنا تلوار سے مارنا۔

رعل [illegible] کھجور کے درخت۔

رعلاء [illegible] بکری یا اونٹنی جسکا

کان چیر کر لٹکتا چھوڑ دیں لینے کا [illegible]

کی بکری۔ رعل [illegible] کی جمع

رعلة [illegible] شتر مرغ جو کچھ کہ بکری

اور اونٹنی کے کان میں سے کاٹ کر

لٹکتا چھوڑ دیں [illegible] یا

کھجور کا درخت نر۔ یا کھجور کا درخت [illegible]

و ناکارہ پھل لانے والا [illegible] کا کہتے ہیں

بہت گنبد جو کہ پہلے ہی [illegible] شاخ اور

پتے وغیرہ سے نکلے۔ ہر چیز کی [illegible]

تھوڑا سا گھوڑوں کا گلہ۔ یا گلہ کا آگے

چلنے والا سا [illegible] کا گلہ۔ رعال

[illegible] الرعال [illegible] عرصے [illegible]

جمع۔ اور کبھی گائے کے گلہ کو بھی رعلة

[illegible] کہتے ہیں۔

رعلة [illegible] ریحان اور آس کا تاج

رعلول [illegible] ایک سا [illegible]

یا وہ سرخان ہے کہ جسکی [illegible] قرحا

[illegible] ایک سرخی [illegible]

ہو کہ جسکو طعام اور غیر طعام سا [illegible]

رعم [illegible] چربی۔

رعش [illegible] پہاڑ کی ناک یعنی چوٹی

رعون [illegible] رعان [illegible]

رعش [illegible] رعونة [illegible]

[illegible] احمق ہونا [illegible]

[illegible] تا [illegible]

رعنا [illegible] احمق و سست [illegible]

ایک قسم کے انگور [illegible]

رعنک [illegible] [illegible]

رعو [illegible] رعوة [illegible]

و [illegible] سے الگ ہونا [illegible]

رعوس [illegible] جسکا سر [illegible]

سے ہلے سا اونٹنی جسکا سر [illegible] سے

[illegible] کہ ہاتھوں کو جلد

جلد اوٹھاوے جسکا [illegible] سے

سر ہلے۔ نرم [illegible]

رعوس [illegible] اونٹنی جسکا [illegible]

[illegible] کے سبب سر [illegible]

رعوف [illegible] نکاسیر۔

رعو [illegible] اچھا [illegible]

رعوم [illegible] جسکی ناک

سے پانی [illegible] دولت کی [illegible]

کانپنا۔

تیز رو شتر مرغ اونٹنی

مشتاط میں چلنے والا

شتر مرغ تیز اور

بزدل مرد ڈرنے

میں تیز

اڑنا۔ بکھیرنا۔ ہلانا

تیر کا سوراخ توڑنا

تیر میں سوراخ کرنا

تیر کو توڑنا۔

سلسلہ تا ضد اوسے ہی

تیر میں پیکان جانے کی

چالیس

ان ک س انگشتہ نہی

گھوڑے کا سبقت کر جانا۔

کا سم ستور کو خون آلودہ کرنا۔

معنی معاف

خون بہنا۔

ناک

[illegible]

... ہوتا ... [illegible]

چیز کی خواہش کرنا یا اعراض کرنا۔

جسکی خواہش کی جائے [illegible]

رغبتیدن [illegible] رغبت کرنا [illegible]

[illegible] مرغوب [illegible]

رغبت دلانا [illegible]

کسی [illegible] کی خواہش ہونا

سوال کرنا کسی پر [illegible]

رغث [illegible] (ن) [illegible]

یا [illegible]

سوال [illegible]

بتا [illegible] جانے والا۔

رغبا [illegible] (ف) [illegible] ایک گیاہ [illegible]۔

رغبا [illegible]

رغبہ [illegible] (ف) ایک چیز کی خواہش کرنا

اعراض کرنا چھوڑ دینا۔

رغبوت [illegible] (ف) خواہش کی ہوئی

چیز۔ خواہاں اور طالب کا مرد۔

رغث [illegible] (ن) بچہ کے بچہ کا

ماں کا دودھ پینا۔ [illegible] پستان کا [illegible]

ہونا عورت کا۔ کسی پر سوال کا بہت

ہونا یا [illegible] کے پاس [illegible]

[illegible]

[illegible]



ج

مع تشدید م

کر کے آگے چلے

یعنی رعاق ضفص

ڑے سے گھوڑے کا نکلنا

ڑے سے گھوڑے

اونٹ وغیرہ کی آواز

کرنا بچہ کا بہت

لے آنا۔

زمین کہ جو بغیر بہت ہے

زمین فراخ رتیلی

فزونی جگر۔

زمین جو بغیر بہت

نہو۔

سی۔

ناک کا پانی حس

خاک نرم خاک یا خا

بھی ہوئی۔

مسف مطلوب مقصود

مسف فزونی جگر ایک

گھاس ساک پھیپھڑے کی رنگین جہاں

نکلتی ہے

اللین و رعایۃ اللین

ودھ کا جھاگ۔

ایک بہت سکنا م

ایک بہت میں ... بلند ...

ح

اونٹ [illegible]
تشبیہ [illegible]
کپڑا [illegible]
کپڑے [illegible]
کھانا [illegible]
بوسہ لینا [illegible] کرنا [illegible]
چادر کو [illegible] کی مانند [illegible]
وغیرہ [illegible]
(ف) رکھنا [illegible] کا حصہ
ہر روز کی [illegible]
(ف) [illegible]
(ف) [illegible] کے پاس
کشتی کو [illegible] میں [illegible] کرنا
کپڑے کی [illegible]
(ف) [illegible] رفیق [illegible]
رنگ کا چمکنا اور روشن ہونا کسی کی
خدمت میں کسی کی کوشش کرنی [illegible]
لینا اور [illegible] کے بچہ کا [illegible]
پینا کسی کو [illegible]
جانور کا [illegible] کے وقت [illegible]
پھیلانا اور [illegible] کا [illegible] میں
پراگندگی [illegible]
ہر [illegible]

[illegible]
رفادہ (ف) [illegible]
[illegible]
رفاج (ف) [illegible]
رفادہ (ف) [illegible]
[illegible]
رفاغ (ف) [illegible]
[illegible]
رفاض (ف) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
رفاض (ف) [illegible]
رفاض (ف) [illegible]
رفاقہ (ف) [illegible]
[illegible]
رفاع (ف) [illegible]
[illegible]
رفاعہ (ف) [illegible]
[illegible]
کے لیے [illegible]

ضیں اجع

فراخ حوض

لیجانے

[illegible]

قسم کا گھوڑا

خوب اور چالاک

مائیں نواز سنگ

قسم کا شقشقس

سی عیدا اور

ایک طرح کا ارش

جسے بتاتے ہیں

ہمی نیوہ کاہی نیوہ

سیاہ نقش جور

لے کا بتاتے ہیں

بوقی - ارغنة شقشقس

عقال شقشقس اجع

لکڑی چوڑی جسکے

زمین پھیلکر اوپر

گتے ہیں شقوف شقشقس

کا و نیش - کا یو

[illegible]

سفید

منتہی کرکے ... کی

[illegible] بتاتے ہیں

[illegible]

دو جہان ... کا ... پیدا ہونا

دیا ... میں ... بچے میں ...

... بیچ ... ایک لکڑی چوڑی جس کے

دو ... سرے ... میں ... گھر کا در

اسباب ... پھر ... ہیں ... ایک

رفو ... (ف) ... وقت

جانور کا ... کو پھیلانا ... مرغ کا

ایک ... مرنے کے وقت آواز کرنا

اور ... ہونا۔

... لینا۔

رفتنی ... (ف) ... پاؤں سے ... مارنا

اور ... سی ... ہونا۔

رفشتہ (ف) ... پاؤں کا ... حصہ

رفش (ف) رسی کا ... ہونا۔

رفش ... (ف) ... بیچ ... پھر ...

کشایش لغت میں خوب لکھا ہے ...

بعد ... علی العرش یعنی

بادشاہت کے رتبہ کو پہنچا بیٹھ کے

زمین ... کے باعث ... اور

شخص ... بیچ ... جو کہ ...

خواری اور ... عزت ... کے

رفض ... کی بات ...

ستا ... حرانی ... کے ... میں ...

رفع ... (ف) ... ایک ... کے ...

پھوڑ دینا ... اور ... لطف ... کرانی ...

خو شتہ ... پراگندہ ہونا ... لشکر ...

... پست ... گرنا ... ستا ... کا ...

رفض (ف) ... پانی۔

رفضتہ (ف) ... جو ... چیز ... کے

لیے کہ ... کہتا ہے۔

رفع (ف) ... اور ... اونچا ...

اونٹ کا چلنے میں ... کرنا ...

کے ... میں ... کرنا ...

میں ... کے ... سے ...

رفش ... میں ... کرنا ...

کے پاس ... کا ... کرنا ... کسی ...

کے ... نزدیک ... کرنا۔

رفعت (ف) ... بلند ... کی ...

بلند ... مرتبہ ہونا۔

رفع (ف) ... سے ...

... کو ... سے ... ہے ...

الرفع (ف) ... کا ... رحم ... جماع

رفع ... آج ... نئی ... کے ...

کی ... کے ... نکلنے ... میں ...



سع

تشدید

ده پینا-

گھاس-

بھس-

نذری رمنت

ـ درس فحش بکنا-

کی باتیں-

دینا- مدد کرنی رفاده

رفاده باندھنا-

عطا- بڑا پیالہ

ین

مرغ ایک پرند

کہتے ہیں-

گرے جن کے

ہیں جیون کے

ـ کرے کہ لٹکتے رہتے

ـ ایک درخت

پیلو کی سی ہوتی ہیں اور

شاخیں- گٹھریاں اور

ـ کہ زائد ہوتے ہیں

سالکہ درخت جو مین

ـ چھوڑا گیا گوشت

ـ مکتا نہ کے رمینا

ـ درخت جنگلی شاخوں والا

ج

[illegible]

[illegible] نفس [illegible]

[illegible] و نفس [illegible]

[illegible] نفس [illegible]

[illegible]

تشدید

بیچارگی ناقری

کمی ... بسبب بری

ہو جاتی ہے

کسی کو نفع پہنچانا

شتر مادہ کے

چلے

جس کی

پستان

کی گھری

یعنی ۱۱ من

پانی سے بھر دینا

[illegible]

شدید ۴

مخمس (ان)

کے سوکھے کو

یا ہڑی میں پیلا

سانپ سے تپلی

پاؤں دسے ماریں

ہونا ایک کھیل سے

گرد پنپہ او سپر

ضعفا کا قبت

یا پان پھول پستہ میں

اور سخت سیا

چلا گیا ہو سیا زم

گردن

مخمس تپلی ستاقی

ایک ستاقی کا عضو

حنا زعفران

رفتہ گرد نگی ادا سی کاری

مخمس

ضعف گرد کا پچھا

[illegible]

رؤیت تفس ... پاچیر کہ بقیہ شعر ... کہیں
تاکہ خون بند ہو جاوے۔

رؤیت نفس عورت تجویز شادی کے
لیے خاوند کے مرنے کی تعبیر ہے خوش
جو انتہوں ہی میں کھانا اور عورتوں کے پاس
... عورت یا مرد جیسا کہ بچہ ...
عورت جیسا کہ کوئی ... کی ...
یا عورت جیسا کہ کوئی مر گیا ہو
رؤیت ... نفس ... 

[illegible]

تشدید

ن کی عورت

موں۔

میں تیر کی آواز۔

لگا ہوا سے پیوند

تاج (کفس)

آغاز۔

ایک بڑا درخت ہی تنه

پتا کے اور پتا اوسکا

کند چیس اوسکا شل

(صفت) جمع

گرم ہوا زمین جسکا پانی

تی ۔ کسی ۔

سالا و پاد خوشبو سیر

گرم (رنس) تعالی

ایک طرح کا حصہ دار (نقش)

پا ایک قسم کی چادر

بلا ۔ (ن) لکھنا ۔ کتابیں

کتا یا کو اوضرور بیان

پیر مہر کرنی کپڑے کو

کتابہ کرنا ۔

رف علی ۔ بلا ۔

علم ہتی بیلا کثیر بسیار ۔

[illegible]
اور [illegible]
[illegible]
[illegible]
بچا [illegible]
بال [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

نشنیدیم

ع کر

باز

زمین

ایک وادی ہے

حکایات

زمین

کشتی کے سوار

پیدا کیا - زمین میں

کمان

چاندی کے ٹکڑے

جیسے

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] کیا تھا

[illegible] ہوتی

[illegible]

[illegible]

[illegible] کرنا

[illegible]

[illegible] کیا تھا

[illegible]

[illegible]

... بیماری کا ...

... ہوتی ہے

... آدمی کی ...

دور ... اور ... ق ۔

... ہوتا ہے

[illegible]

برنادعش

یاہو کچھ کرکے
سمجھ سہیلیں

نی
ہو جیسے جانے

مری
رباقی
ی کرنی
گاہے
ہیں

رناج
کر سہیلی ہوئی ہو
کری
کمان
سمجھائے دلیر شیر

بوجھ بارکی
بے والا
تاب جاہل

[illegible]

رمد [illegible]
[illegible] کرنا جو
[illegible] کی پشت [illegible]
[illegible] میں [illegible] جاتا ہے۔
رمش (ف) [illegible] کا
[illegible] پھینکنا [illegible] کر
[illegible] ہاتھ سے ملنا ایک
[illegible] سر سے پکڑنا
رمض (ف) [illegible]
[illegible]
[illegible] کی سرخی جو سیاہ
آنسو [illegible]
رمشا (ف) [illegible]
زمین [illegible] کی [illegible]
رمص (ف) آنکھ کا میل جو آنکھ کے
گوشہ میں [illegible] کر خشک ہو جاوے
رمص آنکھ کا میل [illegible] ہے۔
رمض (ف) [illegible] کا
کرنا [illegible] کے درمیان صلح کرنا یعنی
[illegible] کرنا [illegible]
[illegible] نکالنا [illegible]
[illegible]
رمض (ف) [illegible] اگر [illegible] سے

[illegible] بہت گرم ہونا
آفتاب کا [illegible] میں [illegible]
[illegible]
جلنا [illegible] اور گرمی ہونا
رمض (ف) [illegible]
پھاڑ کر [illegible]
میں جلنا [illegible] گرمی [illegible]
[illegible]
[illegible] میں [illegible]
[illegible] میں [illegible] ہے۔
رمضا [illegible]
کی گرمی سے جلتا [illegible]
پاؤں [illegible] جل جاوے
رمضان (ف) [illegible] روزوں کا
مہینا نام ہوا اسلئے کہ جب عرب نے
[illegible] مہینوں کے نام پرانی بولی سے
نقل کر کے [illegible]
مہینے کا نام رکھا کہ جس وقت میں
[illegible] واقع ہوا [illegible]
[illegible] گرمی پڑتی تھی [illegible]
نام رکھ لیا یا اسلئے کہ [illegible]
ہمیشہ [illegible] کی حرارت [illegible]

تا تشدید

تاہو - (س)

پانی کھاری

کشتی ہون -

بھیڑ کا جاسے

آتا

تا ہوتا کسی پر چڑھ

غ -

جیسی چیز حقیر

لکھے -

ہے مکانی گھر

سا ہو جھڑ یا ایک

یا زبان سے

ہو نکا او چھلنا

چیز پر زعلا تنا

لبنا - بچھے پر پلنا -

ہو کپے سے [illegible] چل سکنا

چڑا ہے سے او تھے

سبد و سرکو دینا -

ہوتے او نٹ -

نفس ہو نکا او چھلنا

کی چیز پر زعلا تنا

جاتا -

نگر سے [illegible] شخص

سے [illegible]
زیادہ [illegible]
جو تمام [illegible]
ایک عالم حضرت دانیال [illegible]
تصنیفات [illegible]
علیہ السلام نے [illegible]
تھے پس [illegible]
نے ایجاد کیا۔ [illegible]

تشدید م

...ن) غصہ کے مارے

... پٹنا - ہاتھ سے

... کچھ جنبنا آنسوؤں

... میں سر کو جھاڑنا

... میں مبتلا ہونا -

...

... اس فیروزہ کا ایک دستہ

... چیز کو جھڑے کی

...نا -

... دیکھنا - یا ہلکی

...

... باقی جان نثار ماق

... دیکار پوش سرماق

... باقی جان کو

... اس قدر کہا کہ جس سے

... دے

... تھوڑی سوزی جو باقی

... رکھے -

... درویش لوگ کہ تھوڑی

... زمانہ بسر کریں - بہ خاطر

... (دستک)

... ضعیف و سست

... تھوڑی ہی قوت

ج






ے کی آواز

ے

کس ناقص فریاد

نا

ان سے ماغ کا

ب اوس سے جدا

وشبودار درخت

رخت اس کہ

ہک پیچگون کی

ر بناتے ہیں

ے برگی

س زمہ کانی

وق اقصر

ہیں جو جانور انڈے پر

اوگا دے

س جمع

اس کا نا

ے والی عورتیں

کی

ہاس

آواز

[illegible]

[illegible] ہو گیا ہو [illegible]

مین جمع ہو گیا ہو [illegible]

[illegible]

درخت چنار سا ہی [illegible]

جیتے زمین جسمین گھاس بہت ہو [illegible]

کہ ایک چیز کو سنوارے —

[illegible] کا

ٹکڑا جس سے ٹوٹے برتن جوڑ

لگاتے ہین — [illegible]

[illegible] —

[illegible] —

[illegible]

[illegible]

علیہ السلام [illegible]

اور [illegible] کلام خدا تعالیٰ [illegible]

صحبت کا ایک [illegible]

کی [illegible] —

روح القدس [illegible]

[illegible] چلنے مین [illegible]

کی فراخی اور کشادگی [illegible]

[illegible] زیادہ [illegible]

[illegible] کے وقت [illegible]

[illegible]

ن یا
ے کے مشہ
اگی
عاب
منہ کا جاگ
ین چور سنا
باہر
باہر نکلے
وہی دن پر لینا
وسکے اندکی
[illegible]
سی کر لی
آپ کرتی
[illegible]
[illegible]
ہو لی
[illegible]
جاتا

رُوغن [illegible] (ضمہ) بہت بالوں
والے حیوان کا مرد سُست ـ
رُوشم (فتح) لکڑی کی چھاپ
سے غلّہ کی ڈھیر پر مہر کریں ـ
رُوشن (فتح) [illegible] روزن ـ
[illegible] (فتح) [illegible] بعد سفا [illegible]
تاہا پانی سے خالی ہو جانا ـ
رُوضہ (فتح) مرغزار ـ پانی کے جمع
ہونے کی جگہ ـ [illegible] تک
[illegible] پانی [illegible]
کی تھا [illegible] سے [illegible]
ریاض (کسر) [illegible]
رُوط (ضمہ) [illegible] بعد ـ
رُعظ (ضمہ) [illegible] کا [illegible]
کی طرف میلان [illegible]
رُوع (فتح) تعجب ـ
رُوع (فتح) [illegible] ہونا ـ [illegible]
تعجب میں لانا [illegible] دینا ـ
رُوع (ضمہ) دل [illegible] کی
جگہ ـ یا دل کا نقطہ [illegible] عقل ـ
رُوعار [illegible]
گھوڑی [illegible]
عورت جو [illegible]

[illegible] مرغزار [illegible]
[illegible] (فتح) [illegible]
[illegible]
کی طرف میلان [illegible]
[illegible]
[illegible] (فتح) [illegible]
[illegible]
[illegible] (فتح) [illegible]
[illegible] کے [illegible]
[illegible] (فتح) [illegible]
[illegible]
جیسا کہ آنا [illegible]
[illegible]
[illegible]
کی جگہ ـ کا شانہ [illegible]
کو [illegible] سے [illegible]
[illegible] کام [illegible]
صاف سے [illegible]
معلوم ہونے والی [illegible]
ایک چیز سے تعجب ـ [illegible]
دوستی [illegible]
[illegible] میں [illegible]
ہوتا [illegible]

ا مال ادکھاڑا ہوا
پچا ہوا گوشت مصالح
مطوق فرسنگ جمع
ن) ناکارہ چھوٹی
(فرسنگ) جمع
تاتاری گھوڑے

ار سے

رنا ۔ مرد کارنی
اس کا درست کرنا

انا ۔

عاجز و ماندہ ہو جانا
ایک گروہ لوگوں کے شہر
کے سے ملے ہوئی ہیں

(ن) ناز سے چلنا ۔
خس و خاشاک بہالیجانا

اچھا کرنا ۔

مشہور بزرگ مرد ۔

(فرسنگ) بلا ۔
(فرسنگ) ایک شہر ہے جس سے خون
نکلتے ہیں ۔ علامت آئین

(ن) بہت کھانا ۔
صفات اضداد سے ہے بمعنی کا
ضعیف کر دینا ۔

ت تشدید م

تا ہی
دوا ہی مشہور ہے

سمین
تکار
تلوار کی آب اور
اور ایسا ہی

ہ گذرا پانی
سکی
جوان عورت

تا جر
آہستگی
حسین
اور چکنائی
زمین پہ ہلنا جنبش
زمین پر ہلنا
خوب تاریکی
دیدار سا چھا دیا
فراخ سالی ارزانی
سیراب کرنے والا سیراب
ہونا درخت کا
قافیہ شعر کا حرف
بھی بوند کا مینہ

ج

[illegible]

[illegible] الا القرآن [illegible]

[illegible]

نقیہ اور ...

سقف ...

سا کا جسکو علی ...

... ہیں سو ...

... ہوتا ہے

... نفس جو بہت ...

... لا الحق ...

... علم و

... اپنے ... اور

... کا حجاب کرنا ...

... تصنیف دینا

... چیز کا لینا

ج

[illegible]

[illegible]

[illegible] عکس [illegible]

[illegible]

[illegible] زعفران

[illegible] سا ہوا [illegible]

[illegible] چیز کو [illegible]

[illegible] ذکر [illegible] مونث

[illegible]

[illegible] ستارہ [illegible]

[illegible] ستارہ ہونا [illegible]

[illegible] ستارہ ہونا [illegible]

[illegible]

[illegible] مونث [illegible]

[illegible]

[illegible] مقابل [illegible]

[illegible]

[illegible] ہونا

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] سہارن [illegible]

[illegible]

[illegible] بیان [illegible]

[illegible]

[illegible] سبب [illegible]

[illegible]

[illegible] بر تر [illegible]

[illegible]

[illegible] معاش [illegible]

ح

گنہگار
بے ملاوٹ ا
رحم کرنا
باہر نکل سکے
پھیل اور رنگ
سیاہ ہونا
نفس جسم
ن
کھلا دل
پانی کا بہہ جانا
جان دینی
پیدا ہونا
پن
لو برانا
سانپ کا گھیرا
مکھا دین
سر دار ہونے
رسوالا
سردار
اعضا رئیسہ

[illegible]

ز [illegible] رفت [illegible]

ز [illegible] رفت [illegible]

ز [illegible] رفت [illegible]

ز [illegible] رفتن [illegible]

ز [illegible] رفتن [illegible]

ز [illegible] رفت [illegible]

ز [illegible] رفت [illegible]

[illegible]

ز [illegible] رفت [illegible]

[illegible]

شح

تقدیم

۔۔۔ الونٹ

۔۔۔ کا الو۔

۔۔۔ کے یار و مددگار

۔۔۔ سے جو سکان کے

۔۔۔ کے سوا جھنجھلان

۔۔۔ تسکین

۔۔۔ کا درتی آدمی جھوٹا

۔۔۔ پہنچنے والی عورت

۔۔۔ یاد کرنے والا

۔۔۔ صبح

۔۔۔ ہو۔ نیک ہو

۔۔۔ سے چلا

۔۔۔ گھوڑن

۔۔۔ سے چھوٹنے

۔۔۔ بہت پینے والا۔

۔۔۔ والا تیر

۔۔۔ چار حصوں کا ایک

۔۔۔ چار حصوں کا ایک حصہ

۔۔۔ شکر۔ مم

۔۔۔ سے خاموش ہونے

۔۔۔ کا الف

۔۔۔

۔۔۔ کا ۔۔۔

فساد

پر پھوڑی منہ میں

سی چیز یا چیز

چھوٹا سی

ڈنک

بچھو عقرب کی دم

اور وہ

بال کا ٹکڑا یا لونا

کے منہ کے

کے زخم کے

ہوا

چھوڑا دینا

مشک کو ملانا

آگ والی

حیوان کا نقد

اور مضبوطی

عقل

تمام

زمین کی

[illegible]

ح

باب حکمت کی کتاب

دفع احمق حریف

میں جہان

آنے کا زہر سانپ

اور دفع

اور لونڈی کی

دفع کرین

گردن

ہاتھ سے

سانپ

سانپ کی

سانپ اور

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] مہربان [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

زخاخہ ... [illegible]

جماع کے وقت پانی [illegible]

زخار [illegible]

زخار [illegible] پانی کی [illegible]

زخار [illegible]

[illegible]

زخار [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] آدمی [illegible]

[illegible]

ترا وند [illegible]

مرہ

لگنا چمڑی کا

کی گھنڈی

نیزہ مارنا ۔

سے کا سا

کرنا ۔ دیکھنا ۔

کا زیادہ ہونا

کی گھنڈی پانسلی

جمع ہو نظر

کی

جیسے

کا سا گرہ کا جس

کا سر

خیمہ کا ستون

ہی

کا ستون

کی بھلائی کا دانا

کی بالوں کا جل

لگی کنارے نیچے پانی

کرنا کسی پر فضیلت

حماقت کے بعد عقلمند ہونا ۔

شکست کے پیچھے فتح

کی جاتے لے اور سیر

ج

[illegible]

[illegible] الگ کر [illegible]

[illegible]

پھر اسکے [illegible]

واقعہ نمبر

[illegible] رنگ

فرزند۔ زوج

[illegible] رشتہ

[illegible]

[illegible] فقیر کے

[illegible] نیکی [illegible] زمین

[illegible] بچوں کا نام

[illegible]

[illegible]

[illegible] کا [illegible]

[illegible]

[illegible] زنجیر کی [illegible]

[illegible] مولانا کی [illegible]

[illegible] رزق [illegible]

[illegible] پھینک دینا

[illegible] کا [illegible]

[illegible] ہونا

[illegible]

[illegible] یوسف [illegible]

[illegible]

ج

[illegible]

نگھا یکانہ
ن
سا ہی - دندو
شطرنج ہے
اس ہی جس
ایکا سرخ ہونا
پالنا عقلمند
خود کو کا
سے زمین
لیا ہو
چلنا
چھوٹا سا
پرند جانور
لگاتی
ایک گروہ
آواز کی
پایا ایک چیز

[illegible]

[illegible]

کبک کا چوزہ

شادمان ہونا

اور سرکشی کرنا

بھوکا بھوک

لینے والا

خلقی تند خوئی

بیان

نسخہ [illegible] اور [illegible] کی [illegible]

[illegible] سے

نسخہ [illegible]

[illegible] اور [illegible]

[illegible] ملیکہ [illegible]

نسخہ [illegible] ایک [illegible]

[illegible]

نسخہ [illegible]

[illegible]

[illegible] ایک [illegible]

[illegible]

نسخہ [illegible]

[illegible] ایک [illegible]

کی شاخوں [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

سر کا ... آتا ہو

ایک ... چیز ... ایک

... ہے ... کا

... روان ...

... نکالنا ... کا

... ایک قسم کا ... زندہ

... سازش کی

... گرانا ...

... کی بہت ...

... بھی ... چکنائی

... غصہ کرنا۔

... ظلم سے ایک چیز

... پانی ... جانا۔

... ہر چیز ... لڑنا

... بہت پانی بہت

... دیا ... پانی

... بہت ...

... نوالا ...

... بہت

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ذوق [illegible]

ذوق [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ذوق [illegible]

ذوق [illegible]

[illegible]

ذوق [illegible]

[illegible]

ہوا [illegible]

ج

تشدید م

دوڑ کا اپنے سنگین

کھونا ہے

...درد

سامان کی دیوانگی

مرد وہ دنیا

خاک وحشت

اٹھانے

شکر

حسن

حسن اور لٹا

گراو اٹھانا

سامان دنیا

کی اور حسن جانی

گرد اٹھانا

ہی صاحب

عشق

ہو عشق

شدید ہو

آیا۔

ہوا۔

ڈالو چیز کو

سی ناخشہ۔

سے چور۔

یا نکلنا۔

ہوا۔

بجھانا۔

کی آواز کرنا

جرما کے ساتھ

ہو کے

دو زخیرہ

کا اس

شکل کا۔

آواز کرنی۔

شراب وغیرہ کی

ہوئی۔

شور و فریاد۔

کا قدہ۔

[illegible]

کوچہ۔

[illegible]

[illegible]

ج

[illegible]

[illegible]

تقدیم

حافظہ

معنے جدا ہونا۔

ھوس دمہ

اجکار کنکری

مین پانو کی

چھپائی

ہی کی چھپائی

جیز کرد دوست

اوکھا ور تن

حجگہہ۔

والد کرنا

گنا مشی

پھسلنے والا۔

تیز رو

کھونا

فراخ

سود کرنا

۔جو

۔

[illegible]

زلال (فس) اچھا شیریں پانی

زلال (فس) [illegible]

[illegible]

زلہ (ف) غم و اندوہ —

زلیخا (ف) [illegible]

[illegible]

زلیخہ [illegible]

ج ن

[illegible]

[illegible]

بیت شعر [illegible] شیر کا [illegible]

ز [illegible] گرم [illegible]

ز [illegible] سکھیں بیٹھا

ز [illegible] رفتہ [illegible]

[illegible] ست [illegible]

کا [illegible]

ز [illegible]

ز [illegible]

ز [illegible]

[illegible]

آتشدیوم

فیض)

یتی یا ایک سپاہوں

ڈور نسوالا

ال ہو تقس

نازمش فویک

ورطے جسے اونٹ

یانہ ہیں اور اوپر

قت بھوٹلایا

پڑا اپنا

سیاری ہو جس سے

محبت

ایک کھانا جواندے

سے بنائے ہیں معمر یاری

سے بڑا اور

جانور ہیہ کہ

ج

[illegible]

پر الگنے کرنا یا تنگ کرنا وہ لو پیٹرا
غضبناک ہونا یا شک کو پکڑنا -
زکمنہ (فتح) چلنا یا [illegible] جھمیلا
یا [illegible] -
زمکی (کسر) چلنا [illegible] کا دمغزولا
اور کسی [illegible] کی چیز -
زمل (فتح) [illegible] ڈرنے والا
زندال [illegible]
زمل [illegible] اس کسی کو [illegible]

[illegible]

زمن (فتح) [illegible]
ہوا بہت سا [illegible]

[illegible]

۹

لینے ال

کرے او

سے بہہ کر

کی جگہہ

ایک کا

سے او

خود ہونا

اک ہو

کی شتابی

چپنا خود

پیچھے کا

ہی کے بند دست

ی ما نند

گویا کہ ایک

ف اجمع یا بکری

[illegible]

زنبری (بفتحتین) بھاری آدمی
ایک قسم کی بڑی کشتی
زنبق (بفتحتین) سفید چنبیلی جسے [illegible] سوسن [illegible]
کا پھول یا تیل
زنبور (بضم) [illegible]
زنبور العسل [illegible]

[illegible]

باب تشدید

س (ن) ا

کسی پر خیر یا شر

رنی-

فضس (ن)

کسی پہاڑ پر

کسی کے قریب

اب پاخانہ جلدی

کرتا- سرعت

گندم دیوانہ-

جسکو

چیل سایہ-

وہ جھونہ لنگوٹی

س ابولا-

جیز کہ ترسا اور مجوس

کمر پر باندھتے ہیں جیسے

س انبوہی کرنی-

س تکا زیور لگو

ہو جیا ہے جڑی کے

کے ساتھ اوسکے

باندھتے ہیں تا کہ سرکشی کرنے

فضس الستمہ وغیرہ

[illegible]

پکڑنا

بت

میں (ف)

وقت سبب

ز سر اونچا

کے

رہ پڑا ہوا غن

تغیر اور

کہ بچہ کا دودھ

ٹکنے کے

سبب سے اونچا کرنا

کے پیٹ

بت

پھونکنا -

یا لکڑی یا

عکس (ج) جمع ایک

پکڑنا -

گرم سے کی دہی جو


یں تا کہ بچے پر

میں پیاسا ہونا -

فیل عظیم - زندہ پیل

ہر دو سخت بخیل -

ج



[illegible]

ہمیں جواب [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ج

[illegible]

کی بحال [illegible]

میں بلاتا [illegible]

نو کا [illegible]

[illegible]

خ

ستفید م

میں جھک کر چلنا

کا رفتار میں

ساتھ پہلوؤں

جس سننے

ہو

تا ہاتھی جس میں

کے سکے

غلام

رضع حج

اونٹ کی مہار کو

گھوڑے کی باگ کو

کو مس کا مکرانا

سے کھینچنا

موتا

گھاس کا رستہ

لوہے کے جا

چالاک آدمی

درختان تشیش (ان)

نشین کو جا

میں ظلم کرنا

رس یا بادہ کے پیالہ گردش

ح

[illegible]

[illegible] کرنا۔

[illegible]

[illegible] کو دبانا [illegible] کہلاتا۔

[illegible] آواز [illegible]

[illegible] آواز۔ پہیہ دوڑنا۔

[illegible] رسی کا [illegible]

[illegible] کسی چیز کو ہلانا [illegible]

[illegible] کرنا۔

[illegible] زمین [illegible]

[illegible] ہلکا۔

[illegible]

[illegible] زمین [illegible] کوٹنا۔ [illegible]

[illegible] اٹھانا۔

[illegible] اس ہنسی سے [illegible]

[illegible] سپیدی [illegible]

رسی [illegible]

[illegible]

[illegible] کرنا۔

ایک چیز کو [illegible]

سندیہم

(فلاس کی)

کہتے ہین خوذ
ر جسقدر تجکو کافی
کرنا۔

زہ
شمشیر چرخ یا بازکا جو

سپید اور نیک
ہونا۔
کے مادین
دنکا ابر سپید
سے آسمان مین

سکھاس کا
کوفہ سنہ ہزر فس
جمع
تاکی خوبی و تازگی۔
سپیدی ہو
ایک چیز ہی جو گلے
سی ہی
سپیدی خوبی
بد صورت۔

ج

متفرق سیوم

یں جانا۔

ے تلوار کو چمکانا

نا بے اندازہ کرنا

ہونا۔ آفتاب

کھانا

گی کلاں قمر

جھوٹ

ہلاک ہو جانا

بڑی کا

ے کا پیٹ ہونا۔

ہو جانا اور

تیر کا نشانہ سے گذر جانا

جان باہر نکلنی

ہو جانا۔

اور

نے ہوا لگنی

شخص سے ہیات

[illegible]

ہمارا سنگ کر قلع کر دینا

[illegible]

ج

ت شدہ م

ن (کفس)

ج
نفس (ن)
نفس
۲ کبوتر کا مادہ
م گھسیٹ کر
تا

بلنا سخت-
نی زلیفن کسف
عابن کا کنارہ جو

ناز سے چلنا-
انون کی

ک
ن جگہہ سے دور کرنا
وا کر دینا- ممتاز کرنا-
چشم کا سپید مہرہ
ف اپنے کانون
ا بھد ہے اور سینہ سے نکل
ج جو ابی کسی کو برشت
موضع میں ہو آگند گو
ات
س کسی سے الگ
ہ کر چھوڑ دینا-

ج

تاکہ انگور کی ٹٹی میں سے انگور
کھٹک کے لئے باہر نہ نکلے۔
سیاہچال (ف مذ) شیشہ کا ظرف
ساخچہ (ف مذ) ایک سنگ سیاہ
جس کی [illegible] نہایت
[illegible] اشیاء کو پوشیدہ رکھتی ہے
ساخت (ف مث) خوب ہونا۔ گوشت
ساختگی (ف مث) اچھا مگر اس کا سب سے
[illegible] ساز بیمی گر۔
[illegible] بہت مشکل کی [illegible]
ساخ (ع مذ) اچھا (ف مذ) [illegible]
ساحہ (ع مث) آنا جانا۔ گھر دار
[illegible] کی کشادگی۔ ساحل
(ع مذ) [illegible] سلامتی [illegible]
ساحر (ع مذ) دانا۔ جادوگر۔
فریب دینے والا۔
ساحل (ع مذ) زمین جو دریا کے
نزدیک ہو۔ دریا کا کنارہ۔
ساحیہ (ع مث) سیل جو زمین کو
کھود ڈالے اور سب چیز کو بہا لیجاوے
[illegible] جو [illegible] نہ کرے
ساخط (ع مذ) خفا
ساخن (ع مذ) گرم

ساذ (ف مذ) ساز و رنگ [illegible]
گھوڑا بھی گرتا ہے
ساذج (ف مذ) [illegible] کی [illegible]
آدمی کی زبان بھی اصل [illegible]
خوب نہ دیکھے۔
ساذہ (ف مث) [illegible]
ساذر (ف مذ) پریشان [illegible]
چیز سے [illegible]
شوخ چشم [illegible] کی [illegible]
[illegible]
سادم (ع مذ) [illegible] پریشان [illegible]
سادن (ع مذ) [illegible]
کا خادم [illegible]
سادی (ع مذ) [illegible]
سادج (ع مث) ایک درخت
جو پانی کے اوپر پیدا ہوتا ہے
[illegible]
کا معرب [illegible]
سار (ع مث) [illegible]
سار (ع مذ) [illegible]
سار (ع مذ) ساری [illegible]
سار [illegible]
سار [illegible]

فسواد در ...

... بہو دے

... لغت ہندی ک

... اب کی جمع

... جمع

... سر و چھینے والا

... جمع

... آنکھ

... لغت جسکو

... سیلاب کے

... ال مجھ سے

... کلام بولنے والا

... راست چلنے والا

... جو اپنے نالے

... زمین آوے

... دار کبوتر

... مشتق جمع

... ملک کی جمع

... دیتے ہیں

ج

[illegible]

سنہ ... کا ... کا سر ... [illegible]
سنہ ... [illegible] ... کے ساتھ [illegible]
سنہ ... [illegible] ... کے ... ہے
[illegible]
سنہ ... [illegible] ... [illegible]
سنہ ... [illegible] ... سے
[illegible] ... کا حال ... [illegible]
[illegible]
سنہ ... [illegible]
[illegible]
[illegible]
سنہ ... [illegible]
[illegible] ... سے ... [illegible]
سنہ ... [illegible]
[illegible] ... کے ساتھ ... [illegible]
سنہ ... [illegible]
[illegible]
سنہ ... [illegible]
سنہ ... [illegible]
سنہ ... [illegible]
[illegible]

سنہ ... [illegible]
سنہ ... [illegible]
سنہ ... [illegible]
سنہ ... [illegible]
[illegible]
سنہ ... [illegible] ... کے ...
سنہ ... [illegible]
[illegible]
سنہ ... [illegible]
[illegible]
سنہ ... [illegible]
[illegible]
سنہ ... [illegible]
[illegible]
سنہ ... [illegible]
سنہ ... [illegible]
سنہ ... [illegible]
سنہ ... [illegible]

حق تماشہ رہو

ر قدم رکھنے
ڈرتے میں ہم
گئے
دن پر
نت جو غلبہ شہوت
میان میں سے
نکلے لینے قد کا
ات اور دکھا انگڑا
تم جو سا عاشق نہیں
قیامت بپا ہو
چھوڑ ہلاک ہو
زمانہ
کا بازو پیند کا
شیر بیشہ کا نام
پھرتی پھرتی
حلق ہونا جسکو کھاتی
تنور سا گ
کی شناخت ہیں
[illegible]
[illegible]
[illegible]
کرنے والا
کا نام لے چھوڑوں اللہ

[illegible] سہم [illegible] (ف) عاجز آجانا۔ ملول ہوتا
سہام (ع) [illegible] ہوا لو لالا [illegible]
سہام (ف) خیزران کہ ایک درخت
ہے ایک گرد باکہ جسمیں بالی [illegible]
[illegible] ہے۔ موت۔
سہام [illegible] (ص) [illegible]
سہام [illegible] (ف) [illegible] موت [illegible]
سہام [illegible] (ف) ایک گرد باکہ [illegible]
[illegible] سے [illegible]
[illegible] کی [illegible]
[illegible] اور چاندی خیزران [illegible]
سہام [illegible] (ف) [illegible] کہنے والا
[illegible] ہمیشہ چلنے والا [illegible]
[illegible] کرنے والا [illegible] آگ لگانے والا
سامر (ف) افسانہ کہنے والا [illegible]
کہنے والا [illegible]
افسانہ کہنے والوں کی مجلس
سامرہ (ف) افسانہ کہنے والا
[illegible] کہنے والی
سامری [illegible] جس نے [illegible] کو سالہ کی
پرستش [illegible]
[illegible]
سے [illegible] کی [illegible]

ابھی اور اسکا [illegible] لاہور۔
ساعد [illegible] (ف) [illegible] بازو
سے [illegible] کے کنارے
سامع (ف) [illegible]
ساعت [illegible] (ف) [illegible]
[illegible] والا [illegible]
سامی (ف) [illegible]
سامی [illegible] (ف) [illegible]
[illegible] والا [illegible]
[illegible]
سامی [illegible]
[illegible]
[illegible] والا [illegible]
ساعی (ف) [illegible]
بائیں طرف سے آنے والا [illegible]
عرب لوگ سانح سے برکت [illegible]
[illegible] سانح سے بدفالی [illegible]
[illegible] چیز [illegible] کسی [illegible]
[illegible] سے [illegible]
سامعہ [illegible]
سامعہ [illegible]
سامان [illegible] پانی لانے کا [illegible]
[illegible]

ت تشدید م

گی
جو سبز گھاس کھاتی
شد
کالا زمانہ
بڑی جو جیلیاں کرن
چہرہ برس کے
گرد وغیرہ
گیا ہوا
گذرے ہوئے
کے لٹکنے
گرے تک
گرد کا
مصیبت
کرے لو
رخسارہ کو پیدا
نقصان سود
کے درمیان کا پوست
بعد لام حرف علت
حرف ایک عنش کے نوں
کن کا لقب
صورت
نام نقش ہستانیہ

ج

[illegible]

[illegible] زمین [illegible]

[illegible] پیشانی [illegible]

[illegible]

[illegible] پیشانی کی [illegible]

ناک کی [illegible]

[illegible]

[illegible] والا

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] کا اٹھنا - زخمی کرنا

[illegible] مارنا - کسی کو خطا کی

[illegible] کرنا [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] والا -

[illegible]

[illegible]

تا تشدید م

مین پر سایہ

کا جو

س بھولنے والا

ان

چھوڑا ہوا غلام

من سلوٹ جو

س سے اپنی

پیار سے اور کوئی

سا دشمنی جیسے تند

سا مین چھوڑ دیا

تشنہ جمع

یری کلمہ

جو مسجد

سے باہر نہ نکلے

سردار یا اوس سے کمتر

سبھا کا سب

بہار سے آدمی

دستک ہوا اتنی کی جو

اسنہ نسخا جمع

القادح کپڑے کھانے والا

ہ دستک، مرد یا شمشیر تلوار

[illegible]

سے سو ا[illegible] ہوتے

سبت [illegible] ایک [illegible]

[illegible] میں [illegible]

سبحا [illegible]

[illegible] بچھایا [illegible] میں

سبحان [illegible]

[illegible]

[illegible]

رفعنا [illegible] کا [illegible]

[illegible]

کہ [illegible] سے آستین کا لباس [illegible] گیا

[illegible] القمیص پیراہن کا [illegible]

[illegible]

[illegible] سباحت [illegible]

[illegible]

سبحان [illegible]

سبحات [illegible]

سبحان [illegible]

[illegible]

ہل ہو
مرد جسکی عقل جاتی
بسکیہ جو آدمیونکو عارض ہوتا ہے
رسی جس سے کہ
ادری خویشی و قرابت
ایک حرف متحرک اور
دوسرا متحرک۔ اسباب
گی
گالیان بہت دیوے
گی اونگی
گی سردی
دار ہوشیار زمانہ
عیب کہ جسکے سبب
وہ کہ جس کو لوگ
یان دیوین
آسایش زمانہ دیوانہ
رفتار۔ سرگشتگی کا
اچھا چلنے والا گھوڑا ہفتگا
اسبوت منفس
بدکار لڑکا۔ عقلمند مرد
ایک ہفتہ عران قطع
کرنا۔ سر برہنہ تا سالعان کو کھول کر

[illegible]

[illegible]

[illegible] عزیز کے فرزند کی [illegible]

[illegible]

[illegible] رفت [illegible]

[illegible] رفعت [illegible]

[illegible]

ج

تشدید م

نعلش قلانچہ

سن

نج سند سی

کرنا

کام کو پوشیدہ

سخن پوشیدہ

کر دینا

نشک زمین

پیر و پیش

خمیدہ کمر

زمین

روئیدگی

درویش بیرنہ

بادیہ

سنہ زمین

کرنا

بال

سینہ

منسوب سین کیطرف سعد اللہ کی

اصطلاح ہیں عورتوں کی

سبوح رفتح ... [illegible]

[illegible] خوش رفتار گھوڑا

سبوح ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

گن تا نشیدہ دم

یا پہا خوشہ مائل
یعنی پلکون کی سی نکہہ
ت یعنی مونچھ والا مرد
ایک خوشہ فراخ

دراز ۔
خوشہ ۔ دائرہ سا اور سکے
مونچھ ۔ یا مونچھ کا تنکا
مونچھیں ہین ۔ یا دونون
بچہ ۔ یا کھوڑی
یعنی کا سرا جو سینہ کو
سالی جمع ۔ اونٹ کے
کے بال یا وہ بال
کے نیچے ہین ۔
قمہ سینہ ناقہ کا گڑھا ۔
دلیر مرد لڑائی مین
والا چیتا ۔ سیتا بنت جمع
ففسف ) پوست روباہ
کا پوستین ۔
ر ففسف ) بسنے کو کہا دلیر
سینداہ ر ففسس ) مونث
سیاتہ ر ففسکف ) جمع
سیفیۃ ر ففلتف )

ج

احسان

ت تشدید م

سے طلوع

چی ہوا نہ گرم نہ سرد

کلام سا سجع

حقیقی کلام بولنا

کا رونا۔ قصد کرنا

سے ہوا یسمین

درمیان مین

جیسے دو پردون

ضعف س

ن) پردہ

غزی

کی پیٹ کی

ایک ساعت

مہردار عہد

تنفس ) جمع

سمت بلا ڈول

تنفس ) جمع

بستان

گرانا۔ سوتے کو

سے نیچے کی طرف گرانا

جمع

ج

[illegible] (فس) ایک صاف کی بوجو اوس کو بہ ملا دیتا ہے۔
سحارۃ (فتح ف مشدد) جو چیز کہ قسائی بکری کے پھینک دے اور نزدیک جانور کے۔
سحاف (فتح س) سل کی بیماری۔
سحاق (ضم ف) عورت بڑی اور [illegible] پستان کی۔
سحال (فتح س) لگام لکڑی کی جو گھوڑے کے منہ میں لگا دیتے ہیں تا کہ [illegible] ہے۔
سحال (فتح س) وہ [illegible] جو گدھے کے سینے میں [illegible] کے وقت پھیرے کے [illegible] کہ گھالی ہی سہ نقش۔
سحالہ (ضم ف) چھاننے کا برادہ جو گندم اور جو وغیرہ کا پوست [illegible] کا خراب۔
سحام (فتح س) سیاہی۔
سحاۃ (کسر ف) داغ [illegible] کا ٹکڑا [illegible] تراشہ [illegible] چیز لکھنا [illegible]
سحب (فتح س) زمین پر کھینچنا کھانا [illegible] بہنا پچھانا سوان ہونا
سحبان (فتح ف) ہر چیز کو خوب کھینچنا [illegible] والا۔

سحبتہ (ضم ف) پانی دہ [illegible] شبنم کو [illegible] میں باقی ہو گی۔
سحبل (فتح ف) کھل [illegible] کی وہ [illegible] پانی [illegible]
بڑا پیٹ فراخ وادی۔
سحبلتہ (ضم ف) اتنا ہو لفانا [illegible]
سحت (ضم س) حرام جیسے رشوت کی کمائی کہ عار و ننگ سے موجب ہو اسحاب
(فتح ف) جمع۔
سحت (فتح س) پتلا کپڑا سال سچا ہو ا
سحت (مصدر) نیست ہوگان سرخ اکھاڑ ڈالنا حرام کمائی کرنی چربی کو گوشت سے اتارنا گوشت کو ہڈی سے لوتارنا۔
سحتار (فتح ف) گھاس کی زمین ج
سحتب (فتح س) دلاور مرد امور پر بہت اقدام کرنے والا۔
سحتوت (ضم ف) کم روغن کا ستو۔
پرانا کپڑا۔ نرم خاک بیابان ج
سحتی (فتح ف) پرانا کپڑا۔
سحتیت (ضم ف) کم روغن کا ستو
سحج (فتح س) اچھا ہو کی ایک نرم رفتار ہے۔ ایک قسم کی معدہ کی بیماری (ف)

تشدید مع

سے زبان
برق
سحاب فرض
رت
میں ہاتھی پانی
ایک خار دار
جمع
ات
حار
ایک خار دار
کھاتی ہے
ہوتا ہے
اپنے سم سے
نرم اور آہستہ
سست سر کی
سرعت کرنا
زبان سحابۃ
کر
ایک چیز ہے جس
ہیں

سخاوت [illegible] نفس [illegible] ایک عورت ۔
سحر [illegible] رفت [illegible] سیاہی [illegible]
سحر [illegible] الاعلی [illegible] چھوڑے
سخاوت [illegible] کون [illegible] عورت ہی ۔
سحر [illegible] سیاہی ۔
سحر [illegible] نفس [illegible] جب [illegible]
[illegible] جاوے
[illegible] کرتا ۔
سحر [illegible] نفس [illegible] پیاس
سحنۃ [illegible] نفس [illegible] عورت
سیاہ [illegible] کی وضع
سحج [illegible] نفس [illegible] بہت [illegible] والی
عورت [illegible]
سحج [illegible] نفس [illegible]
سحور [illegible] نفس [illegible] طعام
سحوف [illegible] نفس [illegible] ہونا بہت [illegible]
[illegible] نقصان [illegible] جس کا سر
پستان [illegible] پستان [illegible] تنگ ہو
[illegible] چلنے میں لیٹے [illegible]
چلے [illegible] کی [illegible] ہو
[illegible] کی [illegible]
اور [illegible] میں
[illegible] کردے ۔

[illegible] نفس [illegible]
[illegible] عورت [illegible]
[illegible] نفس [illegible]
[illegible] نفس [illegible]

تشدید

میدان زور

میدان۔
عت سے گلا
کے گلے کو
میں ملانا پھیر
ہاتھ چھوڑ دینا
من سے چربی کو
کی چربی اور ٹھارکھنی
وا ہے او نٹوں کا
اپر کو لیجانا سر
دست پہ سے خوب
پیر کچھ باقی نہ رہے

کی چربی چربی
نفس جمع دو

نقطہ کے دونوں
نقطہ اور ٹھوڑی

میں
کے بال مونڈنا
استیلا (ف)

ج

[illegible]

ستخیر ... بیوفائی کرنی

سخت (فتح س) سخت ...

سخت (فتح س) ... [illegible]

[illegible]

سخد (فتح س) ... گرم ...

سخد (فتح س) ... پانی ... [illegible]

ساتھ ... زبان ... سے نکلے

سخدود (فتح س) تیز فہم ...

سخر (فتح) خراسان میں ایک ساگ ہے

سخر (فتح س) سخر (فتح س) (ن)

ٹھٹھے بازی کرنی ۔

سخرة (فتح) ... مطیع اور فرمانبردار

وہ چیز کہ جس سے سب لوگ ٹھٹھے بازی کریں سو وہ کہ جسکو ہر کوئی فرمانبردار کرلے ۔ ٹھٹھے بازی کرنی ۔

سخرة (ضمہ) جو کہ لوگوں سے بہت ٹھٹھے بازی کرے ۔

[illegible]

... ایک چیز سے باز رہنا ... ترک کرنا ...

[illegible]

... ایک قسم ... اپنا ... سے بہت دوست

[illegible]

تشدید م

سلیک نکل

پ لنے

سینے میں

گالی دینی

شک

ن

زمین کو

جاتا

نیچے

سخاوت

سخاوت، سخا

گردن بند

لڑکوں اور

ح

اور شغب

ج

[illegible] گرم ہو جانا۔
[illegible] سے
[illegible]
[illegible] سخیار [illegible]
[illegible] لنگڑا [illegible]
[illegible]
[illegible] سخت [illegible]
[illegible] سمجھانا
[illegible] جمع -
[illegible] عقل مرد کا
[illegible]
[illegible] گرم [illegible]
[illegible] مجبور [illegible]
[illegible] کر دینے کے اوزار کا
[illegible] گرم [illegible]
[illegible] گرم [illegible] کا
[illegible] یا آنے کے بعد [illegible]
[illegible] خصیہ -
[illegible] ہو یا عام
[illegible] افعال [illegible] سے ہو -

جب [illegible] ہوں اور لنگڑا بن [illegible]
اسدۃ (ضسکف) جمع - ایک چیز جو
شاخوں سے بناتے ہیں اور [illegible]
[illegible] ہوتے ہیں - مرض [illegible]
منضبط ہو جانا - (ان) خضر کو بند کرنا
[illegible] سد کا [illegible] کسی [illegible]
شد (فتح) جو چیز کہ مخلوق [illegible]
لیا - سعدہ (فتحتین) جمع [illegible]
وادی جس میں پانی بھر سے - سدودہ
(کسف) جمع - سایہ - سعدہ بارش [illegible]
[illegible] ہوں سے آسمان کے
چہرہ کو بند کر دیا ہو -
سنگر (زمک) تر اور نمناک -
سداۃ (فتحتین) [illegible]
کی تری - اسعیۃ (ضسکف) جمع -
شدلج (فتحتین) جھوٹ بولنے والا -
سداد (فتحتین) کردار اور گفتار کی
راستی اور درستی -
سداد (کسفتین) شیشہ کا سر بند -
سداد الثغر دشمن کے گذرنے کا راستہ
بند کرنا - سددہ جو سوراخ پستان وغیرہ
میں خشک ہو گیا ہو -
سداد (فتحتین) ناک کی ایک بیماری [illegible]

[illegible]
۱۴۸۱
[illegible]

ستی قصد

ہیں

معنی

سخت

گرم آنسو

کی ہوتا۔

گرمی گریبی تیری

گرمی گریبی تیری

گرمی مراداس

قرۃ العین

مروزے

چھے

کے نیچے

کے نیچے

کرنا۔

فراخ زمین۔

کے ساتھ جوانی

گرم کیا ہوا۔

مصحف

مصحف، ستنا

ح

[illegible] میں جسسے [illegible] لینا
[illegible] کا حصہ لینا ۔
سعسع [illegible] چھ دن میں [illegible]
[illegible] میں ایک بار دو دونٹ کے
[illegible] ۔
[illegible] پرس کے [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] لگانا ۔
[illegible] آدمی کی آنکھ [illegible]
[illegible] بال ۔
[illegible] تاریکی [illegible] روشنائی
[illegible] صبح کا
طلوع [illegible] رات کی سیاہی ۔ رات
بکری کا [illegible] سے دکھائی
دیوے ۔ سدوف [illegible] جمع
سعف سدف ایک کلمہ ہے جس سے
بکری کو [illegible] بلاویں ۔
شعف [illegible] لغت تمیم [illegible] معنی
تاریکی [illegible] لغت قیس میں روشنائی
ضد [illegible] روشنائی یا [illegible] ملی ہوئی
[illegible] ظلمت کی سیاہی ۔

[illegible] کا یا [illegible]
[illegible] دروازہ پر ڈالیں [illegible]
اور [illegible] سے بچا وے ۔
سعدک [illegible] ملیں [illegible]
[illegible] ایک [illegible]
سعدک [illegible] ایک چیز [illegible]
سعدل [illegible] بارش [illegible]
کپڑے کو چیرنا اور [illegible] پھیرنا
سعدل [illegible] اسعال [illegible]
سعدل [illegible] اسعال [illegible]
سعدل [illegible]
سعدل [illegible]
[illegible] کے [illegible] ہیں ۔
سعدلہ [illegible] سعدلہ کا معرب [illegible]
[illegible] فی بیت واحد یعنی ایک
میں [illegible] والا ۔
سعدم [illegible] سانڈ شہوت کا غالب
جو کہ جفتی کے لیے تیز ہوا ہو ۔ یا سانڈ
جسکو اونٹنیوں میں چھوڑ دیں اور وہ انکے
درمیان میں آواز کرے اور اونٹنیاں
سانڈ کی آرزو مند ہوں اور پھر اسکو
اونٹنیوں سے نکال لیویں سیاہ [illegible] سانڈ
سانڈ ۔ یا جفتی سے رکا ہوا ۔ [illegible]

شدید م

انکھین چڑھ تیز

بارستی و کرستی

سف ارس

کی آنکھہ گری

رو ہونی

پردہ ہٹکانا

خت سدرۃ

سفس ستارے

ضعس

جیسے ہو

کھلونا ہو

وارکے

سواروں کو

دریا

ساتوین آسمان مین

عرش کیجانب

کے اعمال کی تنہا اور

علم کے پہنچنے کی نہایت

کا ایک حصہ

کسی کے مال مین

ج

[illegible]

چھپا کر [illegible] پر کرانا [illegible]

[illegible] نہایت [illegible]

[illegible] لکڑی کو چھپا [illegible] کے

[illegible] دکھانا [illegible] کرے

[illegible] تا [illegible]

چھپا کے [illegible] میاں لکڑی کی [illegible]

کسی کو جتا دیا دکھنا - تانف کا [illegible]

[illegible] ناخن کی [illegible]

[illegible]

[illegible] لکڑی [illegible]

[illegible] کا ذکر [illegible]

[illegible] عورت کی طرح جیسے کی [illegible]

[illegible] کے سب - یا [illegible]

[illegible]

[illegible] تعالیٰ [illegible]

سے [illegible] حضرت [illegible] کی [illegible]

اور [illegible] مثل [illegible]

[illegible] سے [illegible]

[illegible] خوش [illegible] کرتے تھے

[illegible] کی [illegible] والا عرب سے

[illegible] کی [illegible]

[illegible] سے [illegible]

[illegible] ایک شہر بغداد

کے پاس [illegible] کہ [illegible]

[illegible] شہر [illegible] کے نام سے معروف

ہے اور [illegible] سوا اسکے ہوا کہ جب خلیفہ

معتصم نے اس شہر کو بنانا شروع کیا

تو اوسکے لشکر پر اوسکا بنانا گران

گذرا الغرض جب شہر تیار ہو چکا اور

خلیفہ لشکر سمیت اوس طرف سے

گذرا تو سب لشکر کے لوگ اوسے

دیکھ کر خوش ہو گئے یعنی خوش ہوا

جس نے دیکھا اسلئے اسکا نام سُر

من رای ہو گیا اور سامری اور [illegible]

تشدید م

گرا خروٹ

نہادہ قدم رکھنا

تا

میں

پڑا ہوا

راست

میں ایک

مشہور

کا ایک حصہ

سدس

آٹھویں برس

سنکری جو

کانہ

کی چربی کو کہنا

کہ حیمہ کی

ے

پردہ جو

نفس اسوال

سنگ اجمع

ذکر کرنے

شم پردہ

ایک گھاس ہے

ج

[illegible] باغ میں جاوے
پانی [illegible] میں [illegible]
اور [illegible] پانی [illegible]
جلدی [illegible] پانی [illegible]
[illegible] پانی [illegible] ہونا
[illegible] چہرہ سے [illegible]
[illegible]
[illegible] عورتوں
وغیرہ کی جماعت [illegible]
[illegible] نشان [illegible]
[illegible] درخت
[illegible]
[illegible]
چیز کو پہنچا جاوے
[illegible] پاس کا [illegible]
[illegible] میں
جس [illegible] ہووے
[illegible] کی
رفتار [illegible] میں جانا
[illegible] خربزہ کا [illegible]
[illegible] ہونا
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

گھر سے

عشق ذات

[illegible]

بازی

درد سینہ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

خالص

[illegible]

وادی میں سب

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] خون وغارت [illegible]
[illegible] کی [illegible] سنی
[illegible] بنتا ساتی کریے
[illegible] برابر وزن دکھنا [illegible]
[illegible] برابر شعور رکھنا
[illegible] اوعامنہ چھوڑیں
[illegible] کے نیچے [illegible]
[illegible] ہیانا
[illegible] پوست
[illegible] درخت پھوں [illegible]
[illegible] (ع) رفض ... کیلون
[illegible] رفض [illegible]
[illegible] پیلا [illegible]
[illegible] (سنف) ... لگا دشی
[illegible] کی شب [illegible]
[illegible] (سنف) اپنی ست پرکسی
[illegible] دینا۔
[illegible] (سنف) نہم برابر ہو لذرمین
[illegible] یعنی گھاس کو اوگا وکے
[illegible] (سنف) یعنی سحر وجر
[illegible] (سنف) یعنی سراوخ [illegible]
[illegible] (سنف) [illegible]
[illegible] کی نا [illegible]

بچہ کہ کانا ماتا ہو۔ کھنبی کا پوست اور
مینڈھا اور خاک جو لو سپڑ بھی چھلی [illegible]
کی پچھلی رات۔ تھیلی اور [illegible] کی
اگر یہن سا سر لرز فسفس آج [illegible]
رفسنکس آج [illegible]
سر (رفض) تھیلی کی اگر یہن [illegible]
[illegible] سا سر لرز فسفس آج [illegible]
کہ بچہ کی ناف میں [illegible] کاٹی جاوے
[illegible] کا [illegible] سے [illegible] کی [illegible]
مہینے کی پچھلی رات یا نچ کی
سر (رفض) کھنبی کا پوست اور مٹی
خاک جو اوسپڑ بھی ہو [illegible]
کے پاس ایک [illegible] ہو وہاں ایک
درخت تھا اوسکے نیچے شیر ہی کی
ناف کٹی ہو یعنی اوسکے نیچے پیدا ہوئے
ہیں مہینے کی پچھلی رات یا نچ کی۔
سر (رفض) شاخ گیاہ کا سرا
سر (سنف) نا مرد یا وہ کہ جماع نکر
سکے [illegible] نہ ہو وے [illegible] جو جما
[illegible] ہو شیار [illegible]
ایک [illegible] کا [illegible] جو اوسکے قبضے
میں ہو سر [illegible] آج
سر (رفض) نامرد ہو یا جماع

[illegible]

شدید م

میں تکمیل گوہر

سبز رنگ اور ملند

ا ستارہ

سرخ

وسرق)

پھیکا پڑنا

سی ہونا جو

ر نکالنا

تابعدار

ت وقت ریقتار م

لا بچے کا مرنا

شیر گھوڑا

مرض نا فنکس (

سیاہ

عنی کی عورت

ابھی حاملہ ہوئی ہو

سبز رنگ ہیکل

مرد کیہ ایک

سیتا

یک لمحہ جس

نگ لیے بلادین

ج

[illegible] ملانے والا [illegible]
[illegible] انگور کی [illegible]
[illegible] شاخ [illegible]
[illegible] تیزی اور جلدی۔
[illegible] ایک [illegible] جس
[illegible] انگور [illegible] ہیں۔
[illegible] کمان [illegible]
[illegible] دونوں [illegible]
[illegible] بال کی شکل [illegible]
[illegible]
[illegible] بات [illegible]
[illegible] ایک [illegible]
[illegible]
[illegible] گردن [illegible]
[illegible] ہیں [illegible]
[illegible] سے بناتے ہیں۔
[illegible] لگ [illegible]
[illegible] ہوں
[illegible] جمع کی
[illegible] تیزی اور جلدی
[illegible] تیزی
[illegible]
[illegible]

[illegible] الندان حوالی
شرعقتر فسفف بچہ کو اچھی طرح
پرورش کرنا اپنا لینا۔
سرعوب [illegible] ہونا۔
شرعوف [illegible] نازک اور [illegible]
گوشت والا۔ لمبے قد کا گھوڑا [illegible]
[illegible] نازک بدن کی عورت۔ [illegible]
[illegible] کو کہا [illegible]
[illegible] انگور کی شاخ۔
[illegible] بچہ [illegible]
انگور کو کھانا۔
الشرف [illegible] بال [illegible]
میں زیادتی کرنی۔ [illegible]
[illegible] غفلت سے [illegible] کرنا
خطا کرنی۔ خطا۔ عقل کی [illegible]
[illegible] شراب وغیرہ [illegible]
الشرف [illegible] اور عاقل دل خطا کار۔
الشرف [illegible] ایک سپید [illegible]
[illegible] کے [illegible] کی مانند [illegible]
الشرف [illegible] درخت [illegible]
[illegible]
[illegible] سے زیادہ [illegible]
[illegible]

[illegible]

پیوند سمہ پر

سکر خشک کر دیتی

شکل میں ہے

کیاں یعنی

ب کے

ہوا

کیا

گر واجب ہوا اسکو

بن پتھر

جانے والا۔

وسافر دشمہ

مروڑنا

کے مارے بہت

مضطرب الخلقہ۔

نسف البناین و بلا پہ

خلقہ پیدائش کے ساتھ۔

بنے قد کا بلند آواز صاف

سع الاخلاق جلد غصہ ہونے والا

ست کے ساتھ بہت

بو سونگھنے والا

جیسے کہ کس بڑے لقمون سے

[illegible] دینا — اپنچ [illegible]
[illegible] جوانمردی و سخاوت —
[illegible] (ا) بغض و دل تنگی —
[illegible] (ا) جمع [illegible]
[illegible] (ا) بہت کھانیوالا —
[illegible] (ا) ایک جہت [illegible]
[illegible] ساندہ کا چرنے کے
[illegible] کسی کی ناک میں چاندی کا
[illegible] سے تعلق
[illegible] ہوتی —
[illegible] (ا) چھوٹا [illegible]
[illegible] کف (ا) جمع —
[illegible] چھوٹی ہنڈی کہ ابھی
[illegible] شکل پر ہے —
سرور (فضس) شادی سے یا حسین
[illegible] سے اطراف —
[illegible] (فضس) سر دخت [illegible]
[illegible] خوش کرنا —
[illegible] (فسفف) [illegible]
[illegible] (فضس) سخت و بزرگ
[illegible] (فسفف) بدروشنی
[illegible] کے سبب سے
[illegible] کی سستی

سر و اویل (فسفف) ازار پہننا [illegible]
سر و ط (فسفف) [illegible]
بکری کا پوست جس میں ایک چیز کو [illegible]
یا اوس میں [illegible]
سر ب (فسف) احمق بہت بیٹھنے
والا بہت کھانے والا —
سرشتہ (فسفف) اپنے قد کی [illegible]
سرکشی (فسفف) سرکشی — [illegible]
سری کو سخت بنانا —
سر [illegible] (فسفف) بچہ کو خوب [illegible]
دینا کہ [illegible] کو قطع کرنا —
سر [illegible] (فسفف) بچہ کو اچھی طرح
پرورش کرنا اور [illegible] میں [illegible]
[illegible] (فسف) شب دو [illegible] —
سر [illegible] (فس) کپڑے کو [illegible]
سے ڈال دینا —
سری (فسف) [illegible]
(فسف) (ض) رات کو چلنا —
سری (فکت) سردار [illegible]
[illegible] (فسفف) [illegible]
سری (فسف) [illegible]
[illegible] کی [illegible]
[illegible] (فسف) [illegible]

م

تمری زنبوری

دراز

ل کا اونٹ

اور وہ ایک

لیتے قد کا

کی چیزیں جو

چلے گئے

ے مشابہ

کی کہتے ہیں

تے ہیں اور

وہ اپنے کا سر

قوی

ہند میں ایک

جیسی

لمبا سا اور

ایک بڑا

سے

فشہ

لمبی اور پہاڑ

کیڑا

ج

[illegible] لوگون کے درمیان
[illegible] درمیان مین ہونا —
[illegible] حسب و نسب مین
[illegible] —
[illegible] حجت یعنی کوٹھا [illegible]
[illegible] بچھانا — زمین پر
[illegible] لٹانا [illegible]
[illegible] کرنا [illegible] کے بچہ کو
[illegible] چھوڑنا —
[illegible] اسطر
[illegible] اسطار [illegible]
[illegible] کی [illegible]
[illegible] سے قطع کرنا [illegible]
[illegible] آرزو —
سطوط [illegible] ستمگاران [illegible]
سطع [illegible] بیم زدگی [illegible]
[illegible] کی [illegible] گردن کی درازی —
[illegible] دراز گردن ہو جانا —
سطع [illegible] اسطع [illegible]
یعنی [illegible] وغیرہ لمبی گردنگی
[illegible] دراز و [illegible]
[illegible] کی [illegible] کرن
[illegible] کو [illegible] کرنا —

شطر (ضفض) حجرین —
سطو (فس) سطوة (فسف) [illegible]
حملہ کرنا یا مغلوب کرنا — سخت پکڑنا
پانی کا بہت ہونا — کہانا [illegible] گھوڑے
کا دور دور قدم رکھنا — چیروا اسکا
رہان ناقہ مین ہاتھ ڈالنا تاکہ اب
منی اوس مین سے نکالے — گھوڑے کا اچھی
طرح [illegible] پر چلنا —
سطوة (فسف) ایک حملہ سطوات جمع
سطع (ضفض) سطیع (فکس) [illegible]
گرد کا چڑھنا او سکا بلند ہو جانا — بو کا آنا
صبح کا پھیلنا — بجلی کا چمکنا — ہاتھ پر
ہاتھ مارنا تاکہ آواز نکلے — بو کا نکلنا —
سطیح (فکس) مقتول لمبا پڑا ہوا
چت لیٹا ہوا — ضعف کے سبب جو
اوٹھنے مین سست ہو — تو شہ دان
جو چمڑے کا بناتے ہین — بنی ذئب
کے ایک کاہن کا نام کہتے ہین کہ سوا
سر کی ہڈی کے اور ہڈی اوسکے
بدن مین کہین نتھی —
سطیع (فکس) لمبے قد کا — صبح
سعح (ضفت) گندم دیوانہ یا [illegible]
سعابر الطعام جو چیز کہ گیہون

تشبیہ مد

ں کی چربی

پیسر اتر زعفران

شرس رنگ ا

ایک قسم کی

چلدی کرنیوالا

درخت سے

وقت

بطور شعیر میں

خوشبو کی قطا

کرنا

گھاس ہے

ایک ہری

ہوئی ہو

سے

گھر کا

گردن شتر

[illegible] آلک [illegible] دا

یعنی وہ چیز

رودھکا سرند

بہنی

[illegible] نفس صحیح) نیک بختی
[illegible] وسعد السعود یہ
[illegible] منزل [illegible] سے ہیں
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ستارے ہیں
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
اللہ دو ستارے ہیں [illegible] کی
بجھکے درمیان میں ایک قریبی سا فرق
ہے اور انھیں دونوں میں سے ایک
دوسرے کے ذبح کرنے کی جگہہ
میں ہے گویا کہ اوسکو ذبح کرتا ہے
سعد ذابح چاند کی ایک منزل ہے اور
وہ جب [illegible] نے یا [illegible]
البلع [illegible] فرمایا [illegible]
[illegible] السعود دو ستارے ہیں [illegible]

ہیں السمین مشتابہ اور مستوی ایک
خفی ہے اور دوسرا بہت روشن اور اوسکے
نام بلع ہے یہ ہیں گویا کہ وہ [illegible] کے
[illegible]
[illegible] اخیر شب میں نکلتا ہوا [illegible]
[illegible] اول شب میں غروب ہوتا [illegible]
سعد [illegible] السعود و [illegible]
[illegible] ہوتا
سعد الاخبیہ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] لعنت کرے [illegible]
سیری کہ امراء القیس کندی کے قبیلہ
کی ایک عورت ہو سے نکاح کیا
اور اوس سے پوچھا کہ میں بہ نسبت تیرے
پہلے خاوند کے کیسا ہوں اوس نے
کہا [illegible] ان لیس یہ
مثل ہو گئی [illegible] کا ایک [illegible]
[illegible] ہوتا ہے اوس کے سر [illegible]
کو تشبیہ دیتے ہیں چنانچہ کہتے
ہیں [illegible]
سعد [illegible]

[illegible]

تشدید مہد

ایک امرد جو بیداری

محصول البنا لونڈی کا

یعنی قیمت مین

کچھ حصہ دینا

کا کچھ حصہ -

نی -

بیل کے اونٹ

اور چیز کہ جاری

وغیرہ مین سے -

پانی کا کوان -

جاتا -

سست

کا فراخ

اور گرامی نژاد ہو جانا

مین سما جانا - طاقت

فراخی کرنی -

جنگلی پودینہ -

امرد شوخ اور

دلاور

خوشبو دار ایک گھاس

گر یہ شہد کو بھی کہتے ہین

ایک قسم کا خرما -

[illegible] چیز کی

[illegible] مانند جو اونٹ کے دہن سے

[illegible] اور اوس کے سلو چہرہ وغیرہ کی

[illegible] کھوڑوں وغیرہ کے بال [illegible]

[illegible] چیز ایسی کہ اوس کا عین تمام ہو یا

[illegible] کی چیز ہو۔

[illegible] اسباب جن سے علاج کیا جائے

[illegible]

[illegible] ایسی جو جاری شہر

[illegible] بالا ہو یعنی شہر پناہ کے

[illegible] معلوم ہو سکتے ہیں

[illegible] چند زخم جن میں چھپ

[illegible] ہو گئے ہیں ایک

یا سی جو بال گر دیتی ہو

[illegible] جو بالا دار سخت

[illegible] کرنے کے۔

[illegible] شادمان ہو جانا

[illegible] بہوتی یا جس میں سلوح

[illegible] کبھی گھوڑے

کو سرعت میں یا اس کے تشبیہ دیتے ہیں

[illegible] اونٹ کی ایک قسم

کی [illegible] اونٹ کا ایک قسم رفتار چلنا

[illegible] شراب۔

[illegible] اثر کی

[illegible] آرائش کرنا جس میں بیضہ

اور کبھی [illegible] گول گول یا اثر آب

یا سی [illegible] یا کبھی خود میں [illegible]

[illegible] جب

دہوتی [illegible] جو [illegible]

[illegible] ہو ظاہر میں جس کے

[illegible] ہو۔

سعد [illegible] مبارک ہونا یا مبارک

تھوڑی [illegible]

سعد [illegible] کا نشان پوش

یا سایہ پوش [illegible]

سعود [illegible] نیک نصیبی

سعود النجوم دس ستارے ہیں۔

14 سعودہ [illegible] مبارکی

15 سعوط [illegible] دارو جو ناک میں ڈالنے کے لائق ہو

16 سعوف [illegible] کے پیالے گھر کے اسباب۔ آدمی کی سرشت [illegible]

17 سعوم [illegible] تیز رفتار [illegible] چلنے والی

18 سعی [illegible] ارادہ کرنا۔ کام کرنا

[illegible] سرعت کرنی۔ دوڑنا۔ [illegible] کرنی [illegible] کرنی۔

تشدید م

دوڑنا-

نسی- ایک کلام کا

ت اور مدت

ت میں تمام

چیلیں لگا دینی-

طواف کرنا-

مائل ہی

سیاہی

معنی

خوشی کی خبر

کو جلا دیا یا نکلنا

سے پیدا کا

کا آخر ہونا-

تر کرنا کا

سے آنا-

ایک کی جڑ

خاک میں ڈال دینی-

میں ایکبار دو ڈالنی-

دور گئے ہوئے

سیاہ درخت خرما

ایک سا

ہوتی دولہن کا اسباب

ج

شغال (ف) غسل تشریف کا جھوٹا ہو جانا

[illegible]

شغل ع (ف) بہت کوشش کرنے

والا خوش تقریر کلام کرنا

عبد العزیز بن عبد اللہ بن عباس کا

لقب کو دولت تباہ کرنے

والا [illegible] خلیفہ تھا

اور [illegible] ماہر بن تختی کرنا

ایسا بکری کا گوشت درندوں

[illegible] استعمال ہوتا ہے

[illegible] چمڑا۔ یا المرہ چم

[illegible] اسغ

(سنکف) سفیر (ف) شغار (ف) ۔ چمچہ

شغارۃ (فسغف) انگیٹھی گری

شغارۃ (فسغف) گھوڑا۔

شغاسف (فسغف) تورکی بھوک۔

شغاسق (فسغف) ہر چیز لینی اور [illegible]

شغاف (فسغف) شمشیر کا جوہر

شغافر (فسغف) جانور [illegible]

شغافل (فسغف) [illegible] اسباب

شغافح (فسغف) [illegible]

شغال (فس) خوش تقریر کلام

کرنا اور بہت باتیں بنانے والا

شغال (فس) مشغول مغبون

(رکس ن) بہت ہونا بہت اچھا ہونا

شغالتہ (فسغف) ہر چیز کا نچلا حصہ یا کنارہ

شغالتہ (ترجیح) ہوا کی باہمی طرف

جس طرف کو چلتی ہے۔

شغالتہ (فسغف) کمینہ پن

شغان (فس) ناخدا کشتی بنانیوالا

شغاتہ (فسغف) معلق۔

شغاتہ (فسغف) کشتی سازی۔

شغاسق السیف شمشیر کا جوہر

شغفت (رکس ل) جو برتن گستی میں

شغفت (فک) بے برکت طعام۔

شغفت (فس) بہت شراب پینا

اور پیاس نہ بجھنی۔

شغفتہ (فستف) خرما کے پتے کا ایک

برتن زنبیل کی مقدار یا خرما کے پتے کا

ایک برتن۔ [illegible]

[illegible] جس سے بالوں کو [illegible]

[illegible]

۱۵۰

تشدد ... م

ـ چیلی کو سالن بنانا ـ

کی ـ

کچ جانا ـ

ـ دفع کرنا ـ

... ایک چیز کو اوسکی

... پوشیدہ کرنا یا

... کے اوپر کرنا

... لہیات

... کا خمیر یا گچ

... صفا سیاہ

... آرام یاد ہلا

کا

بنا

نے والا ـ

... جاری کرنا ـ لڑکے کا

... ملا ہوا ہونا ـ

... خرس کہ ایک جڑ ہی کالی

... درخت خرما کا شگوفہ

... دریا بننا ـ اونٹ کا

... کو کھانا ـ (ک) سفوف

کھانا یا سفوف بنانا بہت سا پانی

[illegible] خطوط و [illegible]

[illegible] خطوط [illegible] لیے [illegible]
[illegible] کو [illegible]
[illegible] کے درمیان [illegible]
[illegible] (فف) [illegible] جمع [illegible] کرنا
[illegible] ہاتھ [illegible]
سفسوقہ [illegible] سفسف [illegible] کا
[illegible]
[illegible] کا [illegible]
[illegible]
[illegible] (ف) [illegible]
[illegible] دلیان [illegible] سقادم [illegible]
[illegible] والا [illegible] ایک کام کو
[illegible] والا اور اوس کا [illegible] سقع -
[illegible] چلانے والا - زیرک [illegible]
[illegible] جو گرا اپنی [illegible]
[illegible] ہر جو وکیل اپنے [illegible]
حافظ و نگہبان - اولاد [illegible] کا جانے
والا [illegible] ہن [illegible] ہر دانا -
اسپست گھاس کا بشتارہ جیسے
[illegible] بہت ہو جائے
ہیں - سقاسیر (فف) [illegible] سقاسرہ
(فف) [illegible] جمع
سقط (فف) جامہ دان [illegible] کی

[illegible] کی شکل کا ہوتا ہی یا [illegible]
(ف) سفسن (ا) جمع - ایک پتلا چھوٹا [illegible]
جو پوست [illegible] ہوتا ہی
سقع (فس) پکڑ اچھا [illegible] کا
ایک دوسرے کو [illegible] وسطے [illegible]
پیٹ [illegible] کا مارنا چیز کو منقش کرنا اور [illegible]
داغ و نشان کرنا - لون کا کسی کے
منہہ کو جلا دینا اور رنگ بدل دینا -
کسی کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچنا
- مارنا - عذاب [illegible] خوار کرنا -
منہہ کو کالا کر دینا [illegible]
سقع (فس) [illegible] کا دانہ - [illegible]
چھوٹا - سیاہی جو سرخی مائل ہو -
سقع (فف) عورت کے سرخ رخسار
کی سیاہی لاغری سے -
سقعاد (فس) [illegible] کے کا ایک
پایہ - سقع (فس) [illegible] سبز رنگ کا کبوتر -
سقعہ (فس) آنکھہ - نظر بد [illegible]
[illegible] کا اثر - رنگ کا پلٹ جانا -
سقعۃ (فس) [illegible] ایک نشانہ
جو کہ گھر کے آگے زمین کو [illegible]
خاک ہو بسبب [illegible] بیٹھہ کر زمین

تشدید م

بیسا جیسے صبح کی سپیدی
جمادات کا
مس جمع
والے مسافر
جو ہندوستان کے

مسافر کا توشہ

ہوا سیوہ ہی
ہیں سفارج

ہی تفریح کر
حبشیوں کی
ہجار کی ایک شاخ
سے بنائے ہیں

ہر چیز ناکارہ اور
کا غبار جو چھا جانے
ہوسے ہو جیسی
شغل کی
وغیرہ کا
کرنا
تشنیف وتشنیعہ

ج

سفیفن (فتکس) جج۔

سفاہت (فتکس) سفاہۃ (تفسیف) نادان کرنا اپنے نفس اور رائے کو

عقل پر برانگیختہ کرنا۔ یا سفاہت

... کرنا۔ یا ہلاک اور تباہ

کرنا زخم میں سے جلد خون نکل آنا

... ہو جانا شراب کو بہت

... پینا۔ نادانی کرنی۔

... (فتکس) ... لپیٹے یا برکاکی

... غالب آنا

سفہ (فتکس) سفاہۃ (تفسیف) سفاہ

... عقل کی ہلکائی

... یا نادانی۔ جسد علم

... جھکا جانا یا باز رہنا۔ پیا

... پھول جانا۔

سفی (فتکس) خاک جسکو ہوا اور اڑا لے

گئی ہو۔ سینک مرد۔ بیعقل۔ ابر

سفی (فتکس) (رض) ہوا کا خاک

کو لے جانا اور اڑھانا۔

سفیہ ... چشانی اسپ کا کم

... خاک کو دینی

... دار ... تھا

... سفاہ (فتکس)

ایک ... ہو جانا۔ ہاتھہ پھٹ جانا۔

سفیح (فتکس) موٹا کنبل۔ قمار کے

تیروں میں کا ایک تیر کہ اوسکا کچھہ حصہ

نہیں ہوتا۔ گون۔

سفیحان (فتکس) دو گون کہ

جنکو آپسمیں خرجی بناتے ہیں۔

سفیر (فتکس) ایلچی۔ ... کے

درمیان صلح کرانے والا ...

جمع ... درخت سے گرا ہوا پتا خشک

ہو گیا کہ ... اوسکو توڑ لیجاوے

سفیرہ (فتکس) ... جا بدر کا کر دن ...

سفیط (فتکس) جوانمرد ...

پاکیزہ (فتکس) حقیر اور فرومایہ ...

اضداد سے ہے ... خوشہ خرما کہ جو

درخت سے گر پڑا ہو۔

سفیف (فتکس) ایک گھاس ہے

شیطان کا نام۔ پالان شتر کا تنگ

پرند جانور کا پست ہو زمین پر ... لگنا

سفیفہ (تکسیف) ... کا بوریا جیا ہو

سفین (فتکس) سخت بنا ہوا ...

سفیق (فتکس) ... شوخ ہونے والے شرم ...

سفیقہ (تکسیف) ایک لکڑی ...

... جیسے بوریا ...

بہت کا

نیچے پر

کرین کہ

جاتا ہے

خت وغیرہ کا

بالقدر میں

چلنے والا شتر مرغ

ت کرتا ہے

کا نقد جلد دینا

یا زنجیر

کی سیخ جیسے

نے کی لکڑی

خانہ اچھلی ہے

تختہ جیسے لکھنے اور

مٹا دیں

جس گٹھی جنی ہوئی

ہو گئی

نفس بہت جھوٹ

اکم قد معنا

معنی ما فیہ ز فلسف

ج

[illegible] ہے ناقہ کی ناک کو مضبوط کرنا

سقم (کفس) بیماری

سقایۃ (کفسف) پانی پینے کی جگہ یا [illegible] جس سے پانی پیوین پیمانہ [illegible] انگور کا شیرہ [illegible] [illegible] میں حاجیون کو پلایا کرتے تھے

سقب (فس) اونٹ کا بچہ یا نیا [illegible] اونٹ کا بچہ [illegible] دین [illegible] سقب (ضمس) سقاب [illegible] سقوب (ضفس) سقبان [illegible] سہ چیز یعنی ہوا [illegible] [illegible] استعمال سقبان [illegible]

سقب (فف) نزدیکی (س ن) نزدیک ہونا قریب بعید ضد

سقبہ (فسف) گدھے کا بچہ مادین

سقت (فس دس) ایک چیز کا سچے برکت ہونا

سقت (فک) بے برکت

سقح (فف) (س ن) سر کے آگے کے بال جاتے رہنے

سقحہ (ففف) سر کے آگے کے بال جاتے رہنے کی جگہ

سقدہ (ضسف) ایک سرخ رنگ کا پرندہ ہے چڑیا کے برابر فارسی میں [illegible] کہتے ہیں سقد (ضفف) جمع

سقد (ضسص) دبلا کیا ہوا گھوڑا

سقر (فس) جمع [illegible] کا [illegible] (ن) آفتاب کا شعبہ کو جلا دینا آفتاب کی گرمی اور اوسکی اذیت پہنچانا

سقر (فف) دوزخ سے خدا بچائے

سقرقع (ضفسف) معرب سُکرکہ حبشہ کا جو شاندہ کہ حبشیون کی ایک قسم کی شراب ہے یا اہل حجاز کی ایک شراب ہے کہ جو وغیرہ کے دانوں سے بناتے ہیں

۱۵ سق سق (فس فس) ایک کلمہ ہے کہ جس سے گائے کو ڈانٹیں

۱۶ سقسقہ (فسفف) جانور کا بیٹ کرنا ۔ پسین یا منی سے شعر پڑہنا

۱۷ سقط (فس) ہر ف [illegible] کی اوس کے معنے مشابہ پیچ کمینہ

۱۸ سقط (کس) گوشہ ناحیہ شتر مرغ کی گردن کے بال ابر کا گوشہ جو زمین پر گرا ہوا معلوم ہو

تشدید م

مہر اور بند

رکھنے والا جان

جو کہ لعنت کے

کرے جھوٹا

تنفس جمع۔

جو مضروب کو

کر پیچھے جا لگے۔

چیز کہ ایک چیز

جانور کا بازو۔

ایک خطا عزبا

مدد

سے گرا ہوا

قول فعل کی لغزش بمعنی

کا سست پڑنا۔

اسباب بیچنے

والی تلوار جو مضروب

سے پہلے زمین پر گرے۔

صاف کرنے والا۔

ایک چیتھڑا جسے

پیچھے تاکہ لوٹ ہی

پاؤں سے بندوہ

ج

سقنقور (فس) ایک جانور
ہی جو مصر میں ہوتا ہے ریگ ماہی
بھی کہتے ہیں دریائے نیل کے
کنارے پایا جاتا ہی اوسکا
گوشت بڑا مقوی ہی۔
سقوط (فع) لا ابل اور شتر کے پاؤں
سقوط (فس) گرا ہوا۔
سقوط (فس) گر پڑنا۔ جا بکا
گر جانا۔ ناتمام بچہ کا پیٹ
سے گر پڑنا۔ بچہ کا ماں کے
پیٹ میں سے باہر نکلنا۔ گرمی کا
ٹوٹ جانا۔ رک جانا۔ دور ہو جانا
گر ہوئی چیز کا پہنچ جانا۔ کلام
وغیرہ میں خطا کرنا۔ قوم کا کسی
کی طرف لوٹنا۔ لغزش کرنا۔
پشیمان ہونا۔ سرگشتہ ہو جانا۔
سقی (فمت) بڑی بڑی بوندوں کا
مینہ۔ اسقیہ (فسکع) جمع۔ ہری
گھاس۔ درخت خرما۔ سقیۃ
(فکیف) ایک۔
سقی (فس) لا فس پانی دینا کسی
کو سقیا کہنا۔ پیٹ میں آب
زرد جمع ہونا۔ استسقا کا بیمار ہونا

کسی کی غیبت اور عیب بیان کرنا
سقی (فکس) سیراب۔ پانی دیا ہوا
کھیت۔ پانی وغیرہ۔ اسقیہ (فسکع)
جمع۔ پانی کا حصہ۔ جیسے حیثیر
جمع ہو وسے۔ ایک چھوٹا سا برتن
جسمیں زرد آب ہوتا ہی اور جو کے
سر پر سے جدا کیا جاتا ہی۔
سقیفہ (فکسف) خیمہ کا ستون۔
سقیط (فکس) کم عقل۔ برف۔
اولا پانی کا۔ ٹوٹے ہوئے پیالہ
وغیرہ کا ریزہ۔ مینگنی۔ لوس جو زمین پر
گر پڑے۔ سکینہ۔ سقطی (فسف) جمع
سقیطہ (فکسف) کم عقل کمینی عورت
سقیفہ (فکسف) پوشیدہ چبوترہ
۔ لکڑیاں جن سے کوٹھی ہوئی
ہڈی کو باندھیں۔ اونٹ وغیرہ کے
سر کی ہڈی کا ٹکڑا۔ کشتی کا تختہ۔
سقائف (فنسک) جمع۔ بڑا چکلا
پتھر یا لکڑی جس سے گھر کو پاٹیں
۔ پہلو سے سینہ تک کی ہڈی۔
سقیقی (فکنسف) ترسا ہوا کا
بی
رہنے والا اور ہشیار ہونا۔
سقیم (فکس) بیمار۔ سقام (فر

سقیم ... سقیم ... سقیفہ ... سقیطہ ... سقیط ...
۱۵۰۰
سقام ... سقاط ... الخ ... سقم


ج

تشدید

سقوط النفس

آسمان- یعنی

پتھر کو پاٹنا-

پیس البنا اور پیڑ ما

درازی-

نکی چپت کرنیوالا

از زنگ صاف کرنا-

کو کھہ

دبلی کمر کا مرد- دبلی

سے سجلاہ کتفس

میوون کا ایک

جمع-

زمین پر پچھاڑ دینا-

(رنف) بیماری سے

(ستسکف) ایک بیدگی

ہے کہ اوس سے بیدگی

لوسکی شاخون کو کاٹکر

سے خالی کرکے چھتون پر پھیلائے

اندر سے رطوبت

جمع ہوکر خشک ہوجاوے

دنا نہیں کہتے ہین

نفس، دانا نقاد-

سکتہ (فتح سا) مرگ اک بی )
سکتہ میں ہونا متحیر ہونا
سکت (فتح س) زبان یعنی جس
میں قوت ہو ۔ لیعنی قوت گویائی
[illegible] یا رنگ گہرا ۔ اصل
[illegible] ہوا گشادہ ۔ قدم سکرچ
[illegible] الاقبال ۔ بڑی بڑی عورت کا
[illegible] کا نام ۔ علی ای
بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ
[illegible] یا رانگ سے زیج
پانی کا بہنا ۔ تیری
[illegible] الاقبال منہ کا
بہنا ۔ منہ کا ڈالن کہنا
سکٹ (فتح) ایک خوشبو دار
درخت ہے ۔ سکبتہ (فتحہ) ایک
سکنجبین ۔ سکنجبین ۔ عرب
مرکب ۔ جو سرکہ اور گوشت
لو بہ خوشبودار نبات سے ترشی
تو ہے ۔ اسمیں خشک میوہ
بھی ڈالتے ہیں
[illegible] سے
الوان کہا ہو اگر دست کی مثال پر

سکینہ (فتحہ) سرک اور دل
سکنجبین (فتح س) ایک بنا ہوا ۔
سکت (فتح س) ہمیشہ چپ رہنے
والا مرد ۔ کم سخن مرد ۔ کرجب
میں کے وسعت کو خوب لیے
کے درمیان میں خود کے فرق
سکت (فتح س) سکوت خاموش
سا کو تہ (فتحہ) اتی حسب
ہونا ۔ مرجانا ۔ سقوط ۔ ذوب جانا
سکہ (فتحہ) درہم و دینار جو
نقش ہو ۔ ہوا جس کے درہم و دینا
پر نقش کرتے ہیں سکہ کا
درہم و دینار ایک گرانا
من جس سے زمین کا ستے ہیں
ہل کی جس سے زمین کھودتے ہیں
سکت (فتح) ایک بیماری
سکتہ (فتحہ) جس سے
اوپر کو کھیں اور چپ ہو کر
جو سن میں ہے
سکہ (فتح) ایسے سا کر
سے ایک سا کن ۔ ہونا
لہرا دریا پانی کا جھک ہونا کسی کی پیٹھ دوکرنا

ت تشدید دم

وب ہوتی ہے۔
بھی کہتے ہیں
ساچیز ہے جو مشک
اور خیری ایک پھول ہے
اسکا فرشت
سوراخ کا

دماز خاموشی جو
ے۔ ایک چیز
سانپ کہ جب
ہووے۔
چنے والا۔
موچی۔
موچی پنا۔
زمین اور آسمانکا
نکہ
صف وقطار۔
صف چھوٹے کان
آسمانکا درمیان ہوا
مرد جو اپنی عقل
کی نمانے۔
سک بدجری

ج

۰۵۶

سکی چنا پانی پیانا -
سکرتیت (نفس) بہت چپ چپ رہنے والا
سکر... (نفس) ہمیشہ مست -
سکوور (نفس) سکران (نفس)
(ن) ہوا کا ٹھہرنا اور رک جانا -
سکوکی (نفس) تنگ سر کا کوان
سکون (نفس) (ن) آرام لینا
ٹھہرنا - محتاج ہو جانا ضعیف ہونا
گھر میں قرار پکڑنا - مرجانا مسکین ہونا
سکی (صفت) دینار -
سکی (صفت) لوہے کی میخ -
سکیب (نفس) ریزان -
سکیت (نفس) ہمیشہ چپ رہنے
والا مرد - گھڑ دوڑ کا پچھلا گھوڑا -
سکیت (نفس) ہمیشہ چپ رہنے والا
سکیر (نفس) ہمیشہ مست -
سکین (نفس) [illegible] گدھا -
سکین (نفس) چھری -
سکینت (صفت) اطمینان قرار
تسکین [illegible] -
سکینہ (صفت) [illegible]
[illegible] کا نام [illegible] کی [illegible]
سکینہ (صفت) چھری [illegible]

[illegible] ان کی سر [illegible]
[illegible] کان [illegible]
جانا
[illegible] و غیرہ کے
[illegible] محتاج [illegible]
[illegible] ایک [illegible]
[illegible] (نفس) [illegible]
[illegible] آہستہ [illegible]
[illegible] قوت اور [illegible]
[illegible] (نفس) جمع [illegible]
[illegible] آرام [illegible]
[illegible] حرکت [illegible]
[illegible] سر کی گردن [illegible]
[illegible] کی جگہ [illegible]
سکنا [illegible] (نفس) جمع -
سکنی (صفت) رہنے کی جگہ
[illegible] سیاست
سکو[illegible] (نفس) رہزن -
سکوبہ (نفس) [illegible] باقی کا

تشدید م

ہون

سی

شدت

ساں جع

ایک چھوٹا برتن

گڑی

رکھ کر

کورہ کا معرب

قسم کی

بنایا ہو

دلاوری

جگہ سے

اندھیرا ن -

کریون کی طرح چلنا

بچاؤ کا سرا

جانا - ایک

تا

ٹھاڑے

الی

ج

سلال زفقس عل کی تمادی
سلالیتہ زفقسف جو چیز کہ ایک
چیز مین سے باہر کالی جاوے
فرزند آدمی کا پانی
سلالیح زفقس اپنا اور جڑ اجنا
سلام زفقس اخذ تعلم
ایک نام سلامتی ہے لفقسہ
عیبوں سے پاکی سر گردن رکھہ
دینی تحیت یعنی دعا رحمت
سانپ کا کاٹا ہوا ایک درخت
ہے جسکا نام
سلامان زفقس ایک درخت ہی
سلامتہ زفقسف ایسے نقصان
ہونا پانی ہے لوگوں کی
سے عیب ہونا
سلامی زفقسف ہاوستہ کے
سر کی ہڈی ہاتھہ پانو کی انگلی
کی ہڈی سلاسیات زفقسکفر
زیر و زبر ہوا
سلالہ زفقسک بری ہوئی
سلف زفقس ایک درخت
ایک درخت ہی دن یا جس میں
جامہ عورت کا سوگ کا کپڑا پہننا

منتخب [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] کا اسباب

[illegible]

[illegible]

[illegible] کردہ اور سخت

[illegible] کتاب کی سطریں

[illegible]

[illegible]

[illegible] قدردانِ زبان [illegible]

[illegible]

تشدید و قم

ابو علی سے
سے
زنا چپلا کنا
صدقت
ترن حسین
حسن سلال
صحیح
عرض کی
سر کی
بی
بند
خسے
سون
حسین پہ بولا
سنا یا
تجروں
جس نے
سختی سخت تھا
اوست کہ بچھا کے
انت گزر کے
تحفہ اس
کہ لو سکا و تھا
اپنا جنہ جبہ

ج

اس

طعام


زبان

مادہ

سَلَف (ضفت) جمع۔
سُلْغَم (ایک قسم کا) بڑا شلجم
سَلَفَّتُ (ضفت) لیکر نکالنا دعیرہ
الگ شئ جیسے چشم زبان عورت
سے اور نمکی۔
سَلْقٌ (الن) سخت بات
کسی کو زبان سے آزار
پہنچانا کسی سے جدا
کسی کو نیزہ مارنا اور چت
گرانا کھاس کھاس
دینا۔ گوشت و انگور وغیرہ دینا
کرا کھال چونش دینا
گرم کرنا۔ کوزہ وغیرہ سے
کسی کو ہی داخل کرنا۔ کو
سے گوشت کو اولٹ دینا۔ اونٹ
کے تمام بدن پر قطران ملنا۔ دوڑنا
ادھر جانا۔ پانو کا نشان
زمین میں چھوڑنا۔ چت لٹا کر
جماع کرنا۔ کوڑے سے کسی
کی کھال اوکھاڑ ڈالنی۔
سَلْقٌ (رفک) جو چیز کہ درخت سے
گر پڑے۔ سرق گھاس خشک
شہد جو کھی کے گھر کے ظلال میں سے

رستہ کا کنارہ۔
سَلْقٌ (کس) آبرا ہیم۔ سلقان
(ضفس) جمع چکندر۔ بھیڑیا۔
سِلْقَان (ضفس) جمع۔
سِلْقُ الماء۔ وسلق البر دو
قسم کی گھاس ہی۔
سَلَقٌ (فف) چوپایہ کی پیٹھ کا
زخم جو اچھے ہونیکے بعد رہجاتا ہو۔
سَلْقَاۃٌ (فسفس) پیٹھ کے
بل ایک قسم کا جماع۔
سَلْقَامَۃٌ (کسفسف) گرگ مادہ
سَلَقَۃٌ (ففف) ہموار جنگل اچھی
خاک کا۔ سلق (فف) سلقان (ضفس) جمع
اسلاق (فسفس) جمع
سَلَقَۃٌ (فسف) ہموار زمین اچھی
خاک کی۔ اسلاق (فسفس)
سلقان (ضفس) جمع۔
سَلَقَۃٌ (کسف) زبان دراز عورت
بدزبان۔ سلقان (ضفس کسفس)
جمع۔ گرگ مادہ۔ سلق (کس) جمع۔
سَلْقَدٌ (کسک) ملا کیا ہوا گھوڑا
سَلْقَدَۃٌ (فسفف) گھوڑے کو دبلا کرنا
سَلْقَعٌ (فسف) سخت جگہ شتر مرغ

سلف
جمع سلغم
سلفت
جمع ایضا
جمع ایضا
جمع ایضا
جمع ایضا
جمع ایضا
جمع ایضا
جمع سلقم
جمع سلقن
۱۵۲
ایضا
ایضا
سلقد
ایضا
سلقع
۱۲



سالچھر سلام (فنس) [illegible]
ت (اعضا) عورت
(صفت) لمبا یا نکیلا پیکان
[illegible] کی جمع
(فنس) لمبے قد کا
[illegible] دل رفتہ ہو
[illegible] کر کیا کہتا ہو
(صفت) کشادہ میدان
(صفت) لمبے قد کا مرد
(فنس) [illegible] ہو
[illegible] پاچھے
[illegible] (صفت) [illegible]
(فنس) [illegible]
[illegible] ہونا۔
سلوان (فنس) [illegible] سرہانے کا
[illegible] پانی ہی جو جاوے گے
[illegible] کر عاشق کو کہلاتے ہیں
تاکہ عشق سے تسلی پاوے
یا چھلی کی دوا جسکا کھانا غم
[illegible] کو دور کر دے
سلوانہ (فنسف) شہد
جانور کہ ایک مہرہ ہی جس سے
عشق [illegible] دور [illegible] کر دیں

[illegible] ہیں۔ ایک مہرہ ہی جسکو ریت
میں دفن کر دیتے ہیں جب وہ کالا
ہو جاتا ہی تو اوسے نکال کر منہہ کا
پانی چھڑکتے ہیں اور اوسے جسکو
پلاتے ہیں عشق سے تسلی ہو جاتی ہی
سلوب (فنس) بمعنی سلب [illegible]
سلائب (فنسک) سلب (فنس) کی جمع
سلوع (فنس) گلے بکری کا
کھلیاں نکال لانا۔ یا اونکا چھڑل
[illegible] کے دانت گرا دینے یہ چھٹے سال
میں ہوتے ہیں کسی کا سر توڑنا
سلوف (فنس) پانی کیطرف
آگے جانے والا مرد۔ لیتی پیکان
[illegible] سلف (فنس) کی جمع۔
سلوقیہ (فنسکتف) کشتی میں
کشتیبانونکے سردار کے بیٹھنے کی جگہہ
سلوی (فنسف) شہد۔ ایک پرند
جانور بٹیر کے مشابہ جسے ہند میں
لوا کہتے ہیں سلواۃ (فنسفس) ایک
چیز کہ تسلی بخشے۔
سلہاب (فنسفس) دلیر عورت۔
سلہابہ (فنسفسف) دلیر عورت
سلہب (فنسف) لمبے قد کا مرد یا

۱۵۲۲
سلف
سلق
سلو
سلب
۱۴
۱

تشدید و

چہرہ ہی

مشترہ مشتبہ

ست کام

تسلیم

جمع

سے یہیں

کے ستارہ

نسبت

ل

س جمع

درت

ذیل

سکو

صلح کرنے والا

جمع

تحیت و دعا

تحیت کا پہلے

سے رخت

سلام

تسلیم و تحیت دعا

ج

[illegible]

سفید پوشت گھوڑے کی نام
چرند بین نقصان کی بین اور طرح
ارن المکن زہر دینا کھانے میں زہر ملانا
شیشہ کی ذات کو مضبوط کرنا
صلح کرنا یعنی چیز کو راست و درست
کرنا صفت کا خاص ہونا کسی
کو آزمانا اور اسکے انجام کو دیکھنا
سمّ الفار ایک دوا ہے جس سے
چوہا مر جاتا ہے سنکھیا
سمّ الکلاب [illegible]
[illegible] بھی زہر و کھارا
سمّ الکلاب جب [illegible]
سمّ [illegible] کا نام ہے
سمّ ابرص چھپکلی
سمّ النفس و سماء الغنی [illegible]
کے نشان [illegible]
سما یعنی آسمان [illegible]
ہر چیز کا بالا سایبان [illegible]
جسکو تا نین گھوڑے کی [illegible]
[illegible] کہتے ہیں
سما [illegible]
سماع [illegible] ایک [illegible]
چیز [illegible]

[illegible] سپید گھوڑے کی
[illegible] ہونا
[illegible] گھوڑے کا
[illegible] کوہستان [illegible]
[illegible] ہونے کی
[illegible]
[illegible] درخت [illegible]
[illegible] صفت [illegible]
[illegible]

تا تشنیم

ر سے جماع
نشست
ے بیمزہ کو
خوشبودار
ست ہندی
نکے
ستی
سیت ودرستی
نیان وبیان
شا تقریر
ہر روغن
ہر چیز تیز
دا زعورت
یا ہوا
ملی رنگ
شت سکتا ہو
ہوا اور اثبیت ملا
ایک گھاس ہے
ت اور درختوں
ہو اور ماکول ہو
ساگ۔ چوپایہ کے
نکلنے کی جگہہ چوپایہ کے
کا اثر۔ راستہ میں
شان سیلانی رطوبت کی قسم
اکہہ بنا چینا ہوا

[illegible]

اور [illegible]

[illegible] میں [illegible] ہیں

[illegible]

[illegible] نقصان آدمی کا

[illegible]

جس سے آرام [illegible]

[illegible]

[illegible] کا لوگوں [illegible]

[illegible] اور [illegible] کرنا

[illegible]

[illegible] امر کو [illegible] کرنا

[illegible] نقصان [illegible] واقع

[illegible] نقصان کرنا ـ واقع کرنا

[illegible]

تشدید

آدمیون اور

سنا ہوا

معلوم

معنی

دو پاؤں

کہنے والا

چھوٹا سا کیڑا

درخت ہے

کا عدد

کیا ہوا عدد

ن ج

... (فص ۱) دھند ۔

... (فص ۱) درد ۔

... (فعفف ۱۱) خوشبو درخت

ج

... (فص ۱) بالغ مشتری

... بیان کا دلال ۔ سماسرۃ

ج ۔ ایک چیز کا مالک

... کا حکم رکھنے والا ۔ دوست

... بھی

... الارض ۔ جگہ کا حال

... سے خوب واقف ہو ۔

سماعون (فسفس ۱) ہر چیز کی

... کا بھیڑیا

سمعمرۃ (فسفف ۱۲) احوال زمین

سے خوب ماہر ہونا ۔

سمسق (فرس ... فس) یاسمین کا

پھول ۔ مرزنگوش کا پھول اور

مرزنگوش ایک قسم کی ریحان ہے

نہایت سبز اور خوشبودار ۔

سمسم (فسف ۱) لومڑی ۔ چھوٹے

بدن کا بھیڑیا ۔ ایک ریگ تودہ ۱۵

... (فسفف ۱) تل ۔ سمسمۃ

(فسفف ۱) ایک ۔ سماسم (فعنک)

ج ۔ ... (فعیر) ۔ ایک ...

سمسم (فسفص ۱) سرخ چیونٹی

سمسمۃ (فسفف ۱) ایک ۔ سماسم

(فعک) ج ۔ ...

سمسمان (فسفعس) پھرتیلا

سمسمانی (فسفعکت) پھرتیلا

سمسمۃ (فسفف ۱) لومڑی کا دوڑنا

۱۵ سمط (فص ۱۱) اون کا کپڑا ۔

۱۶ سمط (فص ۱۱) وہ شئی جسمین چپک

داغ و نشان ہو ۔ ایک تخت چوبی

سمط (فکس ۱) موتی کی لڑی یا

بہت وغیرہ کی سگروں بند بار بہ

گھونسے سے دراز ہو ۔ سموط (فعل)

جمع ۔ رزہ جسکو سوار گھوڑے کی

سرین پر لگاوے ۔ شکار بند کا

تسمہ ۔ بے استر چادر جسکو کندھے پہ

ڈالیں ۔ یار وتی کی چادر یا کپڑا

کہ کپڑے کے نیچے سے نمایاں

ہووے ۔ عقلمند مرد پھرتیلا ۔ سبک

دست چالاک شکاری ۔ ...

تودہ ۔ یا وہ ریگ کہ زمین پر متصل

رہی ہووے ۔ بکری کا بھلہ جو

سینہ اور دونوں شانوں پر پڑا ہو ۔

تشبیہ

من منبع جرأت

زنا

ات کا افسانہ

ر سیاہی کی

کا مجلس۔

ت

ہمسر فنسف

ی کو جدا

چڑھے کا

دی اور دہ

بلور سیاہی

گون ہونا

ہمسر

ہمسر فنفقہ

پاید محصول

محصول

دینا۔

اپنے قد کا

ہمسر

جھوٹ۔

ج

[illegible]

... (... ) انسانی ... کے
... ہوا ... لینا -
سماخ (فتف) بچیڑا -
سمالق (فسف) ہموار برابر زمین
جس میں گھاس نہ ہو -
سمالکہ (فسفہ) لقمہ کو گولا بنانا
سمالوخ (فسفن) کان کا میل کچیل
گھاس کی شاخوں میں سے
جو کچھ نکالا جاوے - کان کا
سوراخ -
سمحمق (فس) انگوٹھی ... - [illegible]
[illegible] (... ) [illegible]
(فسفس، جمع ان) ... کو
گھی میں تر کرنا ... کھانا کھلانا
قوم کو -
سمغت (فسفہ) ایک گھاس جو
گرمی کے ستاروں کے سبب
اگتی ہے اور ہمیشہ سرسبز رہتی ہے
... کے موٹا ... کی دعا -
سمندر (فعفل) فارسی گھوڑا ...
سمندر (فسفل) ... ایک
جانور ہے کہ اوسکے پوست کو

[illegible]
... کو ... [illegible]
... کے درمیان ...
... چیز کو ... [illegible]
... آتا ہے - انگوٹھے کو ...
... باہر نکالنا -
... (... ) ترسا ہوا ...
ہے -
... کان کا میل
... سوراخ -
[illegible]
[illegible]
[illegible]
... باقی رہے -
... (... ج) کیچڑ اور بقیہ
پانی جو حوض کی تہ میں ہو - سمل
... (... ) سمل ...
[illegible]
[illegible]
... ایک ... دودھ
... جیسے اونٹ کھاتا
ہے ... تیر -

[illegible]

بستائمندیم

بالا

رتبہ سننا

سنوا

حیثیت روشند

طمسر اور

تیلا عورت

بیاد

بنے

دیکھے

بے

کا سخت

مشکر

بی چھت یا گھر

چک ۔ ہر

(ن) بلند

سماک اکفر

آسمان

سے

[illegible]

[illegible] اطراف [illegible]

[illegible] ماہ گرم [illegible]

[illegible] بھی [illegible]

[illegible] سے [illegible]

[illegible]

[illegible] دونوں [illegible]

[illegible]

[illegible] وقت [illegible]

[illegible]

[illegible] سردار

[illegible]

[illegible]

[illegible]

سیتین ہنا ہین

ہ کی تازگی

افزہی اوسکا

پھیلا ہی تغیر

کان

قسم گوشتکا

لگتا ہی

ہوتا

خ جو ترس ہم انکا کی

اور قشقصف

ہوا ناکسرا

سرکہ کی مکھی کا

اگر ہوا یعنی قوت

ی ہے اور کبھی انکو

کبھی ہوتی ہے

عالم زنگ اجمع

انسان آدمی کا دہن

وسانکے سوارخ

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] رفتا بر ق و غیرہ کی [illegible] | سُناطر (بضمسف) اوسر ہو جانا | [illegible] |
| [illegible] مولائن چین کی گھاس | سُنا عیہ (بضمسف) ممنوع (بضمس) | [illegible] |
| [illegible] جسم کا حصہ | [illegible] رات کی خوب لو یا ابھا ہو جانا | [illegible] |
| [illegible] بھیدی | سُناق (بضمس) سینہ [illegible] | [illegible] |
| [illegible] (بضمس) سخت چیج | کا [illegible] بیش بند یا ایک [illegible] جو | [illegible] |
| [illegible] (بضمس) [illegible] | لونٹ کے سینہ پر باندھا کرتے | [illegible] |
| [illegible] آدمی کا عیب | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] چراغ | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | سینہ بند جگہ سے نہ ٹلے | [illegible] |
| [illegible] سے لپٹا چراغ | سُنائم (بضمس) [illegible] | [illegible] |
| [illegible] (بضمس) [illegible] | جمع ہر چیز کا رکن [illegible] | [illegible] |
| [illegible] آنا | جہان [illegible] | [illegible] |
| [illegible] ہونا | سُنان (بضمس) نیزہ [illegible] | [illegible] |
| [illegible] سماعت کا نشان | سرا ہر چیز کی [illegible] | [illegible] |
| سُناور (بضمس) قوی ہیکل [illegible] | جمع فسان [illegible] | [illegible] |
| [illegible] کا اختلاف [illegible] | سُنایار (بضمسف) شریف مرد | [illegible] |
| چاقو یا وہ [illegible] | سُنایہ (بضمسف) تمام | [illegible] |
| سُناس (فتضمس) [illegible] | سُنائن (بضمسک) [illegible] | [illegible] |
| سُناطر (بضمس) [illegible] | سُنبہ (بضمس) سنبتہ (بضمسف) | [illegible] |
| [illegible] | زمانہ ۔ زمانہ کا ٹکڑا | [illegible] |
| [illegible] | سُنبُک (بضمک) بہت چلنے والا [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | قدم [illegible] سنبُک (بضمس) جمع | [illegible] |

[illegible]

متا تشدید و

زر تسنیقس

ف اجمع

کی تیزی

قلم کی زبان

کن کا دانہ

عمر داستان

بہزاد

چرہ کو سایہ

مین چرہنا

نا اونٹونکو

ہور آشکار

دونا کسی کو

نے کسی کو

ت کو توڑنا

تانا لوہ لوس سے

اونٹون کو چراگاہ مین

ان کی خوب خبر

ب چیز کی تصویر

کسی پرندہ یا پانی گرانا

خانم کا آئینہ دو مند

ماس کمائی چلانی

گرانا سیاپانی بہانا

چراغ بہادین تو

نج

شبح زلف کی رسن سے شہرہ ہوا
اور یوسف سے جو ہوا کھانا ہے جو کھانا
شمع کی طرح حسن شہرہ ہوا کہ
اوس کی حسن کی سب بہت او بہ ہے
بیخ کے سوا جب بسی چاہ
باغ بہشت حسن کے بیچ
جو سو حسن کی ہے
مشتاق جی حسن سے موت
جس الست کے ساقی جو دل ہو
جو حسن کے سب سے جو دل ہو
بی مشتاق ہوئی ہے پس جن لائے
کو بیچ حسن کے شہرہ ہوئے
مشتاق حسن سے جو حسن
بیکار جوہر جو بیمار کا ہے
مشتاق حسن کا کو کہ حسن ہے
حسن کی لوں کر ہے کہ
کی بیچ دین سے جان دل سے سخن
تا سیمن و لعل سے کہا جان
شمع کا ہے سو عشق
التماس ہے تو جو
مشتاق کی عشق سے عشق
ولیکن جان جو جہاں
مشتاق ہو الحمد و لو عبا ایک

البنا اور

شہر بنابل

عفناه

کاحنا

گے یا

خیر خرد سنبوں

دوسرا ... حسن کا

[illegible]

اور وقت صبح [illegible] ہوتا

شفقت [illegible] عکس [illegible] اور عکس

سنگ [illegible] عکس [illegible]

شمع [illegible] عکس [illegible]

[illegible] ہو - اور بچے کو ان کا

[illegible] جو زمین پر [illegible]

[illegible] کا ہے -

[illegible] عکس [illegible] مرد [illegible]

[illegible]

[illegible] تمہید

[illegible] سرانجام

[illegible] حسینہ زمین

[illegible] ہیچ

[illegible] بچو

[illegible] تماشی سکم

[illegible] کیا ہے تو

[illegible] بخش فرخ

[illegible] ایسی شگل اور

[illegible] سر

[illegible] سا

[illegible] مضطرب

[illegible] ستی

[illegible] عاجز شفقت

[illegible] خیال

[illegible] سا یا پرند

[illegible] بیان عجز

[illegible] کی مہری گر

[illegible] لہی

[illegible] (زلف)

[illegible] عالم

[illegible] کی طرح کی زمین

[illegible] ساتھ سوچے

ج

پھٹنا - اپنے لیے آپ کشتی
دروازہ کھولنا -
رف) رس) سمجھاتا -
کشتی کرنی -
(فس) قحط کا سال -
(فس) اجماع -
(فس) شکار جو شکاری
طرف سے آوے -
کا قیام حمل ہونا
کے سلمان -
(فس) نیبہ ہونا -
(فس) خوبصورت اور چھا مرد
(فسف) پیدا ہمیں مینہ -
عورت جو دونوں کی
درم اپنی ہڈی کی پاکیزہ -
(فس) جمع -
(فس) ابھرا ہوا
کے دونوں شانہ پر ڈالدیتے
(فف) (فس) ضعف
جمع کا حل شیہ -
(فس) کج کیا ہوا
کسفس ستانہ
(فس) جمع - ایک چیز شتاہم

ستین (فلس) پھر سحرع
براده - زمین جسکی گھاس کھائی ہو
ہمزاد ہم عمر - چیزی ...
شنیتہ (فلسف) بلند ہونا
سنگ لادہ - ستاین (فسک)
جمع - ہو اور ہمزاد
ستور (فس) مردے خیر -
ستور (فس) سوار (فسم) سوارہ
(فسف) سوا یہ (فسعہ) سوایہ
(فسکف) (ان) گمگین کرنا -
ستور (فس) بدی غم فساد منج
کے سبب بنگا ابلق پن ضعف
بینائی خیانت آفت - آگ -
سوء الحساب عدم مغفرت -
سوء العمر ارذل عمر -
سوار (فسم) (ان) راست مستقیم
ہونا - راست و مستقیم - ایک چیز کا
نیچ - سواء - سرکوہ - دو چیز - برابر
مثل - مانند -
سواء الراس سرکا اوپر
سواء (فس) بری خو بد صورت
اور قبیح عورت -
سواح (فس) پتلی کیچڑ

[illegible]

سوتیان (فنس) تنبیاقی
شوبۃ (فسف) سفر تیغ
شوبیۃ (فسکف) سوئی کا تیندوی
شوکۃ (فسف) شہر عہت بیسوا
سخت گرانی - بری خو -
شوج (فس) سواج (فس)
سوجان (فقفس) رن کا
ایک قدم چلنا - آہو - رفت کا
شوجر (فسف) ایک درخت
ہے یا درخت بید -
شوجرۃ (فسفف) کتے کی گردن
میں ساجور باندھنا -
شوجل (فسف) سوجلۃ (فسفف)
یعنی ساجل (فقفس) غلاف شیشہ
شوحر (فسف) درخت بید -
شوحق (فسف) لمبا -
شوخ (فس) رن زمین نرم
میں پاؤں گھس جانے سے زمین
گھس جانا اور بیٹھ جانا -
زمین کا دھس جانا -
شود (فس) ہموار پہاڑ کالے
کنکریوں والا ... چیز سیاہی
پینا جیسے سبزی ہو - بکری کا

... کی ماری
... کی ماری
... ہاک ہو
... میوان
... ماری -
... سونگیا
... سیاق
... پاس ...
... رفتا ... آہستہ
... چاہنا -
سوال (فس) سالۃ (فسف)
... مانگنا چاہنا
... چرنے والا - گرہ
... دونوں آنکھ کے نیچے
... قیمت ایک
... دے -
... کہ ...
... دیا ہو -

شدید ہو

کی

الا
جاید
سیات
ر
کی جو

ری پچ
ین حق
ہو
کا پیادہ
رے

نام نوح علیہ السلام
ہمیشہ سنی یادوں کی
دنیا کی
ھی ہین
جگہ بستان
سر پستان کے
عذر فرنگ
بیچ ین بیسی
کرنیچے کو اوتارے

ج

شوعرع (فس) آرائش و رفیع

اونٹوں کا ایسی خوشی جیرنا اور بیمار ہونا

شوعار (خفقس) اندی یا وردی

شوعرع (فس) اول اشرف کا گستاخی

سے گئے ہیں اوترنا۔ آسانی سے

گلے مین شراب کو اوتارنا۔ سیدہ اور

جانتر ہونا۔ زمین کا وہیں جلانا ناقہ

کا دوڑنا اور قوی ہونا۔

شوف (فس) ایک چیز کا بنانا

صبر اور شکیبائی۔ سرانجام۔ جلدی

کہ ہو دیگا۔ اونٹ کا بلکہ ہنسنا یا اون

مین مرا مری بیشرتی نہیں [illegible] کے

قریب پہنچنا۔

شوفتہ (ضعف) [illegible]

درمیان [illegible] شوف

شوق (فس) بازار۔

شوق الحرب لڑائی مین [illegible] جگہ

شوق (فف) ساق کی خوبصورتی

(س) ساق کا خوبصورت ہونا [illegible]

شوق (فس) اسیاقہ (ضعف) [illegible]

شوق (فس) [illegible] ساق (کفس)

بیمار کا جاں کندنی مین داخل ہونا۔

کسی کی ساق پر مارنا۔ [illegible] وغیرہ

[illegible] اور

[illegible] کھاتے اور

[illegible] ایک پھول [illegible]

[illegible] دو قسم کا

[illegible] سفید [illegible]

[illegible] ابر سا [illegible]

[illegible] کسی کو [illegible]

[illegible] سے [illegible] کی

[illegible] جمع [illegible] وغیرہ کا

[illegible] پانی کے اکٹھے

[illegible] کی جگہ۔ کوئین کا بقیہ

[illegible] پیدا ہوتی ہے۔

[illegible] دل

[illegible] کرنا۔

[illegible] ہونا۔

شدہ نیم
بس زمان
چہرہ چھپانا
طرف
ری
شی
بندی
دماغ
دشتی
تا
منزلت
ہر ایک
نشان
صفت عجیب
کا نام
اُنکی سوز
سا ایک چیز میں
چھچھوری
بیماری ہے
حل ہوتی ہے
سا میں مبتلا ہونا
سا ان طبیعت
ساج

گرم ہوا۔ گرمی کی سختی
شہباء (فعلاء) سفیدی و سیاہی
چہرہ کا تغیر اونٹ کی بیماری۔
شہادۃ (فعالۃ) نرمی۔
شہب (فعل) جنگل ... زمین
فراخ۔ قوی گھوڑا کشادہ چہرہ
سخت گرفت۔
شہب (فعل) ہموار ... زمین
[illegible]
[illegible]
[illegible]
شہر (فعل) ...
ہوا کا سخت چلنا۔ ہوا کا زمین کو
صاف کر دینا۔ تمام رات چلنا۔
شہجرۃ (فعللۃ) ... دوڑنا
شہد (فعل) اچھا۔
شہد (فعل) بیداری۔
شہد (فعل) کم سونیوالا تیز ذہن
شہد (فعل) (س) بیدار ہونا۔
شہدۃ (فعلۃ) کلام وغیرہ۔
قابل اعتماد۔ بیدار دل۔
شہدر (فعلل) شہر دور دراز
شہر (فعل) بیداری۔ جاگتے رہنا

...ابیج۔
...صفرہ
...کا دانہ
...جسمین
... ہوا ...
شراب۔
[illegible]
ہوا۔
... (فعل) بیداری۔
... (فعل) بیدار۔
... (فعل) پیاس کی بیماری
... (فعل) خوش تقریر
کلام کرنے والا۔
شہلاد (فعلال) رک شرم
ہو جانا۔ آسان ہونا۔
شہام (فعال) شیطان کا لعاب
اور مکڑی کا ... ہوتا ہے کہ
... ہوا میں سے اڑتا
... اور نیست و نابود ہو جاتا ہے

باب

نا اور
نا کسی

سپر ہند

نا

بر آیا ہوا
ن و علامت

ساطشت

پن

ھجنی

ت و مستقیم
نشان و علامت
با اعتدال
افسف

و برابری
سواری
اکفل ہے کہ
سوار ہونے



[illegible]



ام بد

ہونا

ناری

لمع جنبر

ہر جو

جیسے

ہے

نے والا

ہ جمع

بلہ

بکنا

ترس بیرہا

ای مچھلی

ا

دارگہاس

سکا کانٹا

یا ئسمرو

سے حیرا

بارو شش

رر

ج

